تاریخ ہندوستان

۲۰

سلطنت اسلامیہ کا بیان

جلد پنجم

اقبال نامۂ اکبری

جس میں

شہنشاہ ابو المظفر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی کا حال اوّل سے آخر تک
مستند و معتبر فارسی اور انگریزی کتابوں سے لکھا گیا ہے

مصنفہٗ

خان بہادر شمس العلما مولوی محمد ذکاء اللہ صاحب دہلوی مرحوم

باہتمام محمد مقتدیٰ خاں شروانی

مطبع انسٹی ٹیوٹ علی گڑھ کالج میں طبع ہوئی ۱۳۳۶ھ ۱۹۱۸ء

بار سوم ایک ہزار جلد

فہرست کتب موجودہ بک ڈپو

مدرسۃ العلوم علی گڑہ

تاریخ ہندوستان (مصنفہ خان بہادر مولوی محمد ذکاء اللہ صاحب شمس العلماء مرحوم دہلوی) یعنی مسلمانوں کے عہد سلطنت کی تاریخ ۱۰ جلدوں میں (جن میں سے جلد نہم کتاب ہذا قیمتی لکھی ہی) بہ تفصیل ذیل

جلد اول صفحہ ۴۱۲ جس میں یہ مضامین ہیں (۱) تمہید (۲) مقدمہ تاریخ کے باب میں (۳) عرب جاہلیت (۴) ایک سو اٹھارہ نامہ ان اسلامیہ کا بیان (۵) تاریخ سندھ (۶) خاندان غزنی (۷) خاندان غوری۔ قیمت ... ۸عہ

جلد دوم (۴۰۶) صفحات ہیں اور مضامین یہ ہیں (۱) خاندان خلجیہ کی تاریخ (۲) خاندان تغلقیہ کی تاریخ (۳) سلاطین سادات و لودہی کی تاریخ قیمت ... ۸عہ

جلد سوم۔ اس جلد کے تین حصے ہیں جن کے نام یہ ہیں (۱) بابر نامہ اس میں خاندان تیموریہ کے انساب تیمور کا بالاجمال حال اور ہندوستان کے فتح کرنے کا ذکر بالتفصیل اور ظہیر الدین محمد بابر شاہ غازی فردوس مکانی کا بیان اور (۲) نیرنگ نامہ ہمایوں جس میں نصیر الدین محمد ہمایوں جنت آشیانی کا حال روز ولادت سے ایران کے جانے تک ہی (۳) رزم نامہ شیر شاہی اس میں شیر شاہ کا حال از ابتدا تا انتہا اور خاندان سور کے تمام بادشاہوں کا اور ہمایوں کے دوبارہ سلطنت کرنے کا بیان ہی قیمت ... ۱۲عہ

جلد چہارم۔ اس کے دو حصے ہیں حصہ اول میں (۱) تاریخ سندھ (۲) تاریخ کشمیر (۳) تاریخ گجرات (۴) تاریخ مالوہ (۵) تاریخ خاندیس (۶) تاریخ سلاطین بنگال (۷) تاریخ سلاطین جونپور حصہ دوم میں (۱) تاریخ سلاطین بہمنیہ دکن (۲) تاریخ سلاطین عادل شاہیہ بیجاپور (۳) تاریخ سلاطین نظام شاہیہ گولکنڈہ (۴) تاریخ سلاطین عمادیہ ملک برار (۵) تاریخ سلاطین برید شاہیہ ملک بیدر (۶) ضمیمہ تاریخ دکن و پرتگیزوں کی تاریخ (۷) تاریخ دکن کا ریویو قیمت ... سے

جلد ششم کارنامہ جہانگیری جس میں شہنشاہ جہانگیر کا حال کل لکھا ہی قیمت ... ۸عہ

جلد پنجم

اقبال نامۂ اکبری

اس جلد میں ابو المظفر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی کا بیان اول سے آخر تک ۴۰۰ صفحوں میں لکھا ہی۔ اکبر نامہ اور آئین اکبری اور طبقات اکبری اور منتخبات التواریخ سے زیادہ تر حالات نقل کئے گئے ہیں اُس کی مذہبی تحقیقات میں دبستان المذاہب کی مدد لی گئی ہی۔ منتخب اللباب خافی خاں سے کچھ مضامین نقل ہوئے ہیں۔ اس بادشاہ کے امرا کا حال مآثر الامراسے زیادہ تر لکھا ہی۔ بہت کم ایسی فارسی تاریخیں ہونگی جن کی ورق گردانی اس بادشاہ کے حال کے دریافت کرنے میں نہ کی گئی ہوگی۔ انگریزی تاریخوں میں جو کچھ اُس کی نسبت لکھا گیا ہی اکثر اُس کو نقل کیا ہی۔ اس بادشاہ کے حالات اور واقعات کو ٹکڑے ٹکڑے سن و تاریخ کی قید کے سبب نہیں کیا ہی۔ بلکہ ہر ایک واقعہ کا مسلسل بیان کیا ہی خواہ وہ کسی سنہ میں شروع اور کسی سنہ میں ختم ہوا اکثر ہم نے سنہ ہجری کو اوپر اور سنہ جلوس کو نیچے لکھا ہی اور سنہ عیسوی کو اکثر نہیں لکھا اس لئے ہم نے سنہ الٰہی و سنہ ہجری و سنہ عیسوی کی فہرست نیچے لکھی ہی۔ جس سے ایک سنہ کے معلوم ہونے سے دوسرا سنہ معلوم ہو جائے گا۔

سال الٰہی	سنہ ہجری	سنہ عیسوی	سال الٰہی	سنہ ہجری	سنہ عیسوی
۱	۲۷ ربیع الاول سنہ ۹۶۳	۱۰ یا ۱۱ مارچ سنہ ۱۵۵۶ء	۲	۹ جمادی الاول سنہ ۹۶۴	۱۰ یا ۱۱ مارچ سنہ ۱۵۵۷ء
۳	۲ جمادی الاول سنہ ۹۶۵	" سنہ ۱۵۵۸ء	۴	۲۰ جمادی الآخر سنہ ۹۶۶	" سنہ ۱۵۵۹ء
۵	۱۶ جمادی الآخر سنہ ۹۶۷	" سنہ ۱۵۶۰ء	۶	۲۴ جمادی الآخر سنہ ۹۶۸	" سنہ ۱۵۶۱ء
۷	۵ رجب سنہ ۹۶۹	" سنہ ۱۵۶۲ء	۸	۱۵ رجب سنہ ۹۷۰	" سنہ ۱۵۶۳ء
۹	۲۷ رجب سنہ ۹۷۱	" سنہ ۱۵۶۴ء	۱۰	۸ شعبان سنہ ۹۷۲	" سنہ ۱۵۶۴ء

سال الٰہی	سنہ ہجری	سنہ عیسوی	سال الٰہی	سنہ ہجری	سنہ عیسوی
۱۱	۸ / شعبان سنہ ۹۷۳	۱۰ / یا ۱۱ مارچ سنہ ۱۵۶۶ء	۱۲	۲۹ / شعبان سنہ ۹۷۴	۱۰ / یا ۱۱ مارچ سنہ ۱۵۶۷ء
۱۳	۱۱ / رمضان سنہ ۹۷۵	" " سنہ ۱۵۶۸ء	۱۴	۲۲ / رمضان سنہ ۹۷۶	" " سنہ ۱۵۶۹ء
۱۵	۳ / شوال سنہ ۹۷۷	" " سنہ ۱۵۷۰ء	۱۶	۱۴ / شوال سنہ ۹۷۸	" " سنہ ۱۵۷۱ء
۱۷	۲۴ / شوال سنہ ۹۷۹	" " سنہ ۱۵۷۲ء	۱۸	۶ / ذیقعد سنہ ۹۸۰	" " سنہ ۱۵۷۳ء
۱۹	۱۷ / شوال سنہ ۹۸۱	" " سنہ ۱۵۷۴ء	۲۰	۲۷ / ذیقعد سنہ ۹۸۲	" " سنہ ۱۵۷۵ء
۲۱	۹ / ذی الحجہ سنہ ۹۸۳	" " سنہ ۱۵۷۶ء	۲۲	۲۰ / ذی الحجہ سنہ ۹۸۴	" " سنہ ۱۵۷۷ء
۲۳	۲ / محرم سنہ ۹۸۶	" " سنہ ۱۵۷۸ء	۲۴	۱۲ / محرم سنہ ۹۸۷	" " سنہ ۱۵۷۹ء
۲۵	۲۴ / محرم سنہ ۹۸۸	" " سنہ ۱۵۸۰ء	۲۶	۵ / صفر سنہ ۹۸۹	" " سنہ ۱۵۸۱ء
۲۷	۱۵ / صفر سنہ ۹۹۰	" " سنہ ۱۵۸۲ء	۲۸	۲۸ / صفر سنہ ۹۹۱	" " سنہ ۱۵۸۳ء
۲۹	۸ / ربیع الاول سنہ ۹۹۲	" " سنہ ۱۵۸۴ء	۳۰	۹ / ربیع الاول سنہ ۹۹۳	" " سنہ ۱۵۸۵ء
۳۱	۲۹ / " سنہ ۹۹۴	" " سنہ ۱۵۸۶ء	۳۲	۱۱ / ربیع الثانی سنہ ۹۹۵	" " سنہ ۱۵۸۷ء
۳۳	۲۲ / ربیع الثانی سنہ ۹۹۶	" " سنہ ۱۵۸۸ء	۳۴	۴ / جمادی الاول سنہ ۹۹۷	" " سنہ ۱۵۸۹ء
۳۵	۱۴ / جمادی الاول سنہ ۹۹۸	" " سنہ ۱۵۹۰ء	۳۶	۲۴ / " " سنہ ۹۹۹	" " سنہ ۱۵۹۱ء
۳۷	۵ / جمادی الاخری سنہ ۱۰۰۰	" " سنہ ۱۵۹۲ء	۳۸	۱۷ / جمادی الاخری سنہ ۱۰۰۱	" " سنہ ۱۵۹۳ء
۳۹	۲۸ / " " سنہ ۱۰۰۲	" " سنہ ۱۵۹۴ء	۴۰	۹ / رجب سنہ ۱۰۰۳	" " سنہ ۱۵۹۵ء
۴۱	۲۰ / رجب سنہ ۱۰۰۴	" " سنہ ۱۵۹۶ء	۴۲	۲ / شعبان سنہ ۱۰۰۵	" " سنہ ۱۵۹۷ء
۴۳	۱۳ / شعبان سنہ ۱۰۰۶	" " سنہ ۱۵۹۸ء	۴۴	۲۳ / " سنہ ۱۰۰۷	" " سنہ ۱۵۹۹ء
۴۵	۴ / رمضان سنہ ۱۰۰۸	" " سنہ ۱۶۰۰ء	۴۶	۱۵ / رمضان سنہ ۱۰۰۹	" " سنہ ۱۶۰۱ء
۴۷	۲۶ / " " سنہ ۱۰۱۰	" " سنہ ۱۶۰۲ء	۴۸	۶ / شوال سنہ ۱۰۱۱	" " سنہ ۱۶۰۳ء
۴۹	۱۰ / شوال سنہ ۱۰۱۲	" " سنہ ۱۶۰۴ء	۵۰	۲۸ / " سنہ ۱۰۱۳	" " سنہ ۱۶۰۵ء

فہرست مضامین اقبال نامہ اکبری

ذکر بادشاہی ابو المظفر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی ۶

بیرام خاں کے ظلم و ستم - بادشاہ کے ساتھ بے لطفی ۳۳

بادشاہ اور بیرام خاں کی باہم ناراضی کا علانیہ اظہار و بادشاہ کی خود مختاری کا اشتہار سنہ جلوس ۹۶۷ھ ۴۱

بیرام خاں اور شاہ کی رنجشوں کے درمیان جو واقعات پیش آئے ۶۴۔

نوجوان بادشاہ کی مشکلات اور اُس کے اصول سلطنت ۶۸

جو ممالک کہ سلطنت سے نکل گئے تھے اُن کی فتح ۷۲-

قلعہ گوالیار کی فتح ۹۶۶ھ ۷۲- اصول فتوحات اکبری - مالوہ کی فتح پر لشکر کشی ۹۶۸ھ ۷۴- پادشاہ کا مالوہ جانا ۹۶۸ھ ۷۶- عبداللہ خاں اوزبک کا مالوہ میں منتظم ہونا ۹۶۹ھ ۸۰- عبداللہ خاں کا باغی ہونا - بادشاہ کا مالوہ جانا راہ میں ہاتھیوں کا شکار کھیلنا ۹۷۱ھ ۸۰-

ممالک شرقیہ کی فتوحات ۷۲-

جونپور میں خان زماں کی فتح ۹۶۴ھ ۸۲- بادشاہ کا ممالک شرقیہ میں جانا خان زماں خاں کا قدمبوس ہونا ۹۶۸ھ ۸۳- قلعہ چنار گڈھ کا ہاتھ آنا ۹۶۹ھ ۸۴- خان زماں خاں کا فتح پانا خان پٹی پر ۸۵-

خان زماں علی قلی خاں کی بغاوت دور کرنے کے لیئے بادشاہ کے لشکر کا یورش کرنا اور اس یورش میں سوانح کا پیش آنا ۹۷۲ھ ہجری ۸۶-

اسکندر خاں اوزبک کے پاس اشرف خاں کا جانا ۸۶- باغیوں کی شورش ۹۷۲ھ ۸۷- بادشاہ کا اسکندر خاں کو لکھنؤ سے بھگانا ۹۷۲ھ ۸۸- کڑہ مانک پور کی لڑائی ۹۷۲ھ ۸۹- حاجی محمد خاں سیستانی کا سلیمان کرانی پاس بھیجنا ۹۷۲ھ ۸۹- خان زماں کا اطاعت اختیار کرنا ۹۷۲ھ ۸۹- لشکر بادشاہی کا بہادر خاں سے شکست پانا ۹۷۲ھ ۹۱- علی قلی خاں پر بادشاہ کا ایلغار ۹۷۳ھ ۹۲- جونپور کو بہادر خاں کا تاراج کرنا ۹۳- بادشاہ کا مہم پنجاب و کابل سے فارغ ہوکر باغیوں کی سزا کے لیئے آگرہ آنا ۹۷۴ھ ۹۵- آگرہ سے جونپور بادشاہ کا جانا اور فتح پانا اور خان زماں اور بہادر خاں کا قتل ہونا ۹۷۴ھ ۹۶- اسکندر خاں کے سر پر جو سپاہ بسرکردگی محمد قلی برلاس بھیجی گئی تھی ۹۹- اسکندر کے سر پر جو سپاہ بسرکردگی محمد قاسم

برابر بھیجی ۹۷۲ھ ۱۰۰۔ خواجہ عبد المجید خاں کا ولایت پنہ کا فتح کرنا ۹۷۱ھ ۱۰۱۔ خواجہ عبد المجید آصف خاں کا ولایت گڈھ کتنگہ کا فتح کرنا ۹۷۱ھ ۱۰۲۔ مہدی قاسم خاں کا ولایت گڈھ میں مقرر ہونا ۱۰۸۔ ملک گکھڑان پر بادشاہ کی فتح پانا ۹۷۰ھ ۱۰۹۔ جنگ پر دنکہ بادشاہ خود آپ لڑا ۹۶۹ھ ۱۱۱۔

کل معاملات و مہمات کابل جو اس بادشاہ کے عہد سلطنت میں واقع ہوئے ۱۱۲

منعم خاں کا کابل میں تعین ہونا ۹۶۹ھ ۱۱۲۔ کابل سے غنی خاں کا نکال جانا ۹۷۰ھ ۱۱۳۔ ابو الفتح اور فضل بیگ کا قتل ہونا ۹۷۰ھ ۱۱۵۔ منعم خاں کا کابل کی طرف جانا اور شکست پانا ۹۷۰ھ ۱۱۶۔ منعم خاں کا حال ۹۷۰ھ ۱۱۰۔ ابو المعالی ۹۷۱ھ ۱۱۷۔ مرزا اشرف حسین کی بغاوت اور ابو المعالی کی بغاوت ۹۷۱ھ ۱۱۸۔ ابو المعالی کا کابل میں جانا اور سزا پانا ۹۷۱ھ ۱۱۹۔ کابل سے مرزا محمد حکیم کا بھاگنا اور بادشاہ سے استمداد چاہنا ۱۲۱۔ مرزا سلیمان کا پھر کابل آنا اور مرزا محمد حکیم کا بھاگنا ۹۷۳ھ ۱۲۴۔ مرزا محمد حکیم کی سرکشی ۹۷۴ھ ۱۲۶۔ بادشاہ کا اس فساد مٹانے کے لئے پنجاب آنا ۱۲۷۔ مرزا سلیمان کا کابل سے بھاگنا اور مرزا محمد کا پھر مسند حکومت پر بیٹھنا ۹۷۴ھ ۱۲۷۔ مرزا محمد حکیم کا نور الدین و شادمان کا بھیجنا اور خود پنجاب میں آنا ۹۸۸ھ ۱۲۸۔ بادشاہ کا پنجاب جانا ۱۲۹۔ خواجہ شاہ منصور دیوان کی عمر کا تمام ہونا ۱۳۰۔ مرزا محمد حکیم کا ناکام کابل جانا ۹۸۹ھ ۱۳۲۔ بادشاہ کا سفر دریائے سندھ کی طرف ۱۳۴۔ بالناتھ ٹلہ کی زیارت ۱۳۴۔ بادشاہ کا حکم مرزا کو سمجھانا اور شاہزادہ مراد کا لشکر سمیت بھیجنا ۹۸۹ھ ۱۳۴۔ بادشاہ کے لشکر کا مرتب ہونا اور مرزا پاس حبیب اللہ کو بھیجنا ۹۸۹ھ ۱۳۶۔ کابل کے سفر کے باب میں ارکان دولت کی رائیں ۹۸۹ھ ۱۳۶۔ قلعہ اٹک بنارس کی تعمیر ۹۸۹ھ ۱۳۹۔

کابل کے واقعات ۱۳۹

واقعات متفرقہ جو ۹۶۹ھ سے ۹۷۵ھ یعنی چھ سال جلوسی میں واقع ہوئے ۱۴۷

بادشاہ کے تیر لگنا اور اور حالات ۱۵۴

بیگانہ ملکوں پر شہنشاہ اکبر کے متوجہ ہونے کا بیان ۱۶۴

امراء بہار و بنگالہ کی سرتابی اور اُن کی سزا کے واسطے سپاہ کی روانگی ۲۵۱

مہمات و معاملات گجرات ۳۱۴

رانا پر فوج بھیجنا ۹۸۴ھ [۲۱] ۳۹۴ - بادشاہ کا گوگندہ جانا ۹۸۴ھ [۲۱] ۳۹۶ - ایدر کی فتح ۹۸۴ھ [۲۱] ۳۹۷ قطب الدین خاں و راجہ بھگونت داس پر بادشاہ کا عتاب ۹۸۴ھ [۲۱] ۳۹۷ - ایدر کی اور اُس کی نواح کی فتح ۹۸۶ھ [۲۳] ۳۹۸ - رانا کے استیصال کے لئے سپاہ کا بھیجنا ۳۹۸ - قلعہ کوہلمیر کی فتح ۳۹۹ شہباز خاں کا بادشاہ کی خدمت میں آنا ۹۸۶ھ [۲۳] ۳۹۹ - اور دوبارہ اجمیر بھیجنا ۹۸۶ھ [۲۳] ۳۹۹ کلہ سیسودیہ کا مارا جانا ۹۹۴ھ ۴۰۱

قلعہ سوانہ و چندر سین پسر راجہ مالدیو کے معاملات و مہمات ۴۰۱

چندر سین پسر راجہ مالدیو کی سرکشی اور اُس پر لشکر کشی ۹۸۱ھ [۱۹] ۴۰۱ - قلعہ سوانہ کی فتح ۹۸۴ھ [۲۱] و جلال خاں کا واقعہ ۴۰۳ - قلعہ بوندی کی فتح ۹۸۵ھ [۲۲] ۴۰۵ - دودا کا بادشاہ پاس آنا و بھاگنا ۹۸۶ھ [۲۳] ۴۰۷ - سروہی اور جالور کی طرف لشکر کا جانا اور کامیاب ہونا ۹۸۴ھ [۲۱] اور سروہی اور ابوگڈھ کا فتح ہونا ۴۰۷ -

معاملات راجہ بدہ گڈھ ۴۰۸

راجہ بدہ گڈھ کا شکست پانا ۹۸۵ھ [۲۲] ۴۰۸ - بدہ گڈھ کا پادشاہ پاس آنا ۹۸۶ھ [۲۱] ۴۱۰ - راجہ بدہ گڈھ کا مالش پانا ۹۹۰ھ ۴۱۰ - راجہ بدہ گڈھ کا بنگاہ اٹھنا ۴۱۱ -

مہمات و معاملات کشمیر - تمہید ۴۱۲

تسخیر کشمیر کے لئے مرزا قرار بہادر برادر مرزا حیدر گورکان کو بھیجنا ۹۶۸ھ ۴۱۳ - قاضی حبیب کا مارا جانا اور اکبر کی سفارت ۹۸۶ھ ۴۱۴ - یوسف خاں کشمیری کا بادشاہ پاس آنا ۹۸۷ھ [۲۴] ۴۱۵ - یوسف خاں کا کشمیر میں مرزبان ہونا ۹۸۸ھ [۲۵] ۴۱۶ - یوسف خاں کی سرکشی اور پادشاہ کی لشکر کشی ۹۹۴ھ [۳۰] ۴۱۷ - یوسف خاں کا درگاہ والا میں آنا ۹۹۴ھ [۳۰] ۴۱۷ - تسخیر کشمیر کے لئے قاسم خاں کا جانا ۹۹۴ھ [۳۱] ۴۲۰ - کشمیر کا فتح ہونا ۹۹۴ھ [۳۱] ۴۲۰ - یعقوب کا شبخون مارنا اور ناکام رہنا ۹۹۴ھ [۳۱] ۴۲۶ - یعقوب کی شورش کا دبنا ۹۹۵ھ [۳۱] ۴۲۶ - مرزا یوسف خاں کا کشمیر کی پاسبانی کے لئے جانا ۹۹۵ھ [۳۲] ۴۲۷ - پادشاہ کا کشمیر جانا ۹۹۷ھ [۳۴] ۴۲۹ - بادشاہ کا دار الملک

قندھار کے معاملات ۹۶۵

معاملات و مہمات دکن ۹۷۱

شمال مشرقی افغانوں کے ساتھ لڑائیاں تمہید ۵۲۷۔

معاملات بدخشان و توران و خراسان ۵۶۰

بعض حوادث بدخشاں

معاملات توران ۵۸۱

شہنشاہ اکبر اور عبداللہ خان والی توران کے درمیان مراسلت اور سفیروں کا آنا جانا ۵۸۳

شاہزادہ سلیم کی پیدائش اور اُس کی ناہنجاریاں

انتظام سلطنت اکبری ۶۰۶

دفتر اول منزل آبادی ۶۱۳

دفتر دوم سپاہ آبادی ۶۸۲

فرمان ثبتی

دفتر سوم ملک آبادی

بادشاہ کے باقی حالات ۷۶۷

نصائح اکبری ۷۹۶

بادشاہ کے شوق کی چیزیں ۸۰۲

شہنشاہ اکبر کے مذہبی خیالات ۸۰۸

امرائے دربار اکبری ۸۷۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اِقبال نامۂ اکبری

اکبر کی تخت نشینی کے وقت ہندوستان کی کیا حالت تھی

چونکہ مسلمانوں کی سلطنت ہند کا زمانہ اکبر کے عہد دولت سے ایک اور ہی طور کا شروع ہوتا ہے اور اس سلطنت کے تعلقات اور سلطنتوں کے ساتھ بدلتے ہیں اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جسوقت یہ شہنشاہ اکبر تخت پر بیٹھا اُسوقت کا حال بتلائیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا۔ اس شہنشاہ کے وقت سے یہ کہنا درست ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت ہندوستان میں ہوئی ورنہ پہلی سلطنتوں کو دہلی کی سلطنت کہنا درست ہے جس میں ممالک مفصلۂ ذیل داخل تھے وہ ملک جسکو ۱۸۵۷ء میں ممالک مغربی وشمالی کہتے تھے۔ بنگال کے ایسی سیدھ کا وہ حصہ جسکو مغربی بہار اب کہتے ہیں۔ ممالک متوسطہ کے بعض اضلاع۔ راجپوتانہ کے بعض انتزاع پنجاب، سلاطین تغلق کچھ عرصہ تک یہ دعویٰ کرسکتے ہیں کہ وہ بنگال اور دکن پر بھی فرمانروا تھے۔ مگر شمال سے ہندوستان پر ایسے حملے ہوئے کہ دکن کے ہندو راجاؤں نے اپنے تئیں آزاد کرلیا۔ اور دہلی کی سلطنت سے کچھ تعلق نہ رکھا۔ تلنگانہ۔ کرناٹک کے راجہ خود مختار رہے گئے۔ دکن کی تاریخ کو جلد ششم میں پڑھ لو کہ جس سے تم کو معلوم ہو کہ دکن میں کون کونسی سلطنتیں قائم ہوئیں۔

بڑی مملکت اڑیسہ ہمیشہ آزاد رہی سلطنت دہلی کی کبھی مطیع نہیں ہوئی۔ اس ملک میں بڑے بڑے جنگل تھے۔ اس کا طول گنگا کے دہانہ سے گوداوری کے دہانہ تک پانچسو میل تھا اور اس کا عرض کہیں تین سو میل اور کہیں چار سو میل تھا۔ مغربی ہندوستان نے بیگانہ حملہ آوروں کی اطاعت کو ترک

کر دیا تھا اور بعض ریاستیں اسمیں خود مختار ہو گئیں تھیں۔ اکبر کی تخت نشینی کیوقت خاص مغربی حصص ہند
میں مملکت گجرات میں ایک مسلمان افغان بادشاہ آزاد تھا اس وجہ ہمایوں نے اُسے تاخت و تاراج کیا تھا۔
مگر ہندوستان سے اس کے خارج ہونیکے بعد پھر یہ ملک آزاد ہو گیا اور پھر کسی نے اُس پر دست درازی نہیں
کی۔ اُس نے خود مالوہ پر کامیابی کیساتھ حملہ کیا اور اُس میں زیادہ تر حصہ وہ شامل ہو گیا کہ جسکو اب
سنٹرل انڈیا (ممالک متوسطہ ہند) کہتے ہیں۔ یہ مملکت اکبر کی تخت نشینی کیوقت آزاد تھی۔ یہی حال سندھ
کا تھا۔ یہی کیفیت راجپوتانہ کی تھی جسکا مفصل حال لکھتے ہیں۔ مہارانا سنگا کا حال بابر کے عہد دولت
میں بیان ہو چکا ہے۔ رانا کو جو بابر نے شکست دی اس کا بڑا اثر میواڑ پر ہوا۔ اور جب ہمایوں کو شیر شاہ نے
خارج کر دیا تو راناؤنکو شیر شاہ کی اطاعت کرنی پڑی مگر شیر شاہ کی وفات کے بعد سلطنت میں جو
خرابیاں پیدا ہوئیں تو پھر ریاست میواڑ آزاد ہو گئی۔ وہ اکبر کی تخت نشینی کیوقت راجپوتانہ کی بڑی
ریاستوں میں سے گنی جاتی تھی اور اور راجپوتانہ کی ریاستوں کا حال یہ تھا کہ جیپور کے راجاؤں نے بابر
کی عظمت کو قبول کیا تھا۔ راجہ بہاریہ نے اپنی سپاہ سے بابر کی مدد کی تھی۔ شیر شاہ سے شکست پانے
سے پہلے ہمایوں نے اسکو خطاب راجہ امیر کا دیا تھا۔ جب اکبر نے پانی پت کی لڑائی میں فتح پائی
تو جیپور میں راجہ بہاریہ کا بیٹا بھگوان داس راج کرتا تھا۔ اس زمانہ میں جودھپور کا راجہ جیپور کے راجہ پر
بڑی فوقیت رکھتا تھا۔ اسکے راجہ مالدیو نے جیسی شیر شاہ کو تکالیف پہنچائیں ایسی کسی اور دشمن نے
اُسکو نہیں پہنچائیں۔ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ ہندوستان سے جب ہمایوں بھاگا ہے تو راجہ جودھپور نے اپنے ملک
میں اُسے پناہ نہیں دی۔ جب شہنشاہ اکبر دہلی میں تخت نشین ہوا ہے تو یہ راجہ بالکل آزاد تھا اور راجپوتانہ
میں سب راجوں سے زیادہ عظیم الشان و جلیل القدر سمجھا جاتا تھا جیسلمیر اور بیکانیر۔ ریگستان کے کنارہ
کی ریاستیں آزاد تھیں۔ راجپوتانہ کی اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا حال بھی ایسا ہی تھا اور سندھ و ملتان
کا حال بھی راجپوتانہ کا سا تھا۔ میوات بگھیل کھنڈ کسی غیر کے تابع نہ تھے۔ لیکن گوالیار۔ اوڑچھہ۔ چندیری
نرور۔ بن باڈ۔ آگرہ کے قرب کے سبب بادشاہ کی حالت کے منتظر رہتے تھے اُسکے موافق کبھی زیادہ
کبھی کم اطاعت کرتے تھے اور خراج دیتے تھے۔

بادشاہ۔ سلطان۔ شہنشاہ۔ جو چاہو کہو۔ وہ فقط اُن اُمراء کا بادشاہ ہوتا تھا جنکو وہ اضلاع اور صوبوں کی حکومت سپرد کرتا تھا۔ یہ اُمرا اپنے اپنے علاقوں میں خود مختار بادشاہ ہوتے تھے۔ بادشاہ اُن اضلاع وصوبوں کے اندرونی انتظام میں دخل نہیں دیتا تھا۔ ہاں اُن اُمراء کو جو نائب السلطنت ہوتے تھے بدلنے کا اختیار رکھتا تھا۔ یہ سب صوبے اصل میں نائب السلطنت کی ماتحتی میں آزاد ہوتے تھے۔ برائے نام بادشاہ کی اطاعت کرتے تھے۔ انگریزی مورخ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ممالک مسلمانوں کے زیر حکومت تھے انمیں سلطنت علی الاتصال نہیں تھی۔ بادشاہ فقط اپنے دربار اور میدان جنگ میں حکمراں ہوتا تھا۔ مگر انکا یہ کہنا بادشاہ کی نسبت درست ہے مسلمانوں کی نسبت یہ کہنا صحیح نہیں ہے اسلیے کہ وہ تو سلطنت کرتے ہی تھے خواہ بادشاہ کے زیر حکم ہوں یا نہوں۔

ہندوستان کا جو حصہ مسلمانوں کے زیر حکومت تھا۔ اُسکی آبادی میں سات آٹھویں حصے ہندو رہتے تھے اسلیے کہ یہ سب مسلمانوں کی حکمرانی سے راضی و خوش رہتے تھے وہ جزیہ دیتے تھے۔ مگر اپنے تمام مراسم مذہبی کے ادا کرنے میں آزاد تھے۔ کوئی روک ٹوک انکو اس باب میں نہ تھی۔ مسلمانوں کی گورنمنٹ کے تمام کارخانوں میں ہندوں کا عنصر بڑا قوی تھا۔ اکثر صوبوں میں بعض مناصب عہدہ ہائے جلیل ایسے تھے کہ وہ عالی نسب ہندوؤں کیساتھ مخصوص تھے وہ فقط صوبے کی نائب السلطنت کی ماتحت تھے۔ لڑائی کے زمانہ میں ہندو اپنے حصہ کے موافق بقدر تعلق مسلمانوں کے مددِ سپاہ سے کرتے تھے اور میدان جنگ میں اپنی فوج کو بھیجتے تھے۔

ہر صوبے میں ایک مقامی سپاہ رہتی تھی جو صوبے کے حاکم کے زیر فرمان ہوتی جہاں اسکی ضرورت سمجھتا وہاں وہ بھیجتا مگر اسکے سوائے ماتحت ایک اور سپاہ ہوتی جو اس مقامی سپاہ سے تعلق نہیں رکھتی تھی وہ بادشاہی سپاہ کہلاتی تھی اور خاص تعداد اس کی ہر صوبے میں رہتی تھی وہ خزانہ شاہی سے تنخواہ پاتی تھی اور کچھ فوج ایسی بھی بادشاہوں کی ہوتی تھی کہ اسکو گھوڑے اور وردی اور ساز و سامان بادشاہوں کی سرکار سے ملتا تھا مگر زیادہ تر سپاہ ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہتھیار اور گھوڑے اپنے گھر سے لاتی اور چھوٹے بڑے گروہ انکے سرداروں سمیت آتے۔ الگ الگ سپاہی نوکر نہیں ہوتا تھا۔

جب کسی صوبے میں شور و فساد برپا ہوتا ہے تو بادشاہی سپاہ کمک کے لیے بھیجی جاتی تھی اور ا

سپاہ کا ایک اعلیٰ افسر ہوتا تھا۔ اگر یہ سپاہ بہت ہوتی تو اُس کا افسر صوبے کے حاکم کا ہمسر اور برابر سمجھا جاتا تھا وہ خاص بادشاہ سے اپنے کاموں کی جوابدہی کرتا۔

کبھی کبھی ضرورت کے وقت بادشاہ صوبوں کے حاکموں کے نام فراہمی سپاہ کا فرمان صادر کرتا۔ صوبہ دار اپنے علاقہ کے زمینداروں سے مدد لیتا اور اپنے خاص صوبہ کی سپاہ سے مدد کرتا اور اگر خزانہ میں روپیہ ہوتا تو نئی بھرتی کرتا۔

یورپ کے تمام شائستہ قوموں کا اصولِ اعظم یہ ہے کہ اوّل خدا۔ پھر قانون۔ بعد ازاں بادشاہ یہی اصول قدیم سے مسلمانوں کے ہاں چلا آتا ہے کہ اوّل خدا۔ پھر شریعت (قانون) بعد ازاں بادشاہ یہ اصول مسلّمہ ہے جس کے موافق اُموراتِ سلطنت کے احکام اور انتظام میں۔ امام۔ خلیفہ۔ سلطان (بادشاہ) پابند قانون تھا اور وہ خود مختار شتر بے مہار نہ تھا۔ شریعت کا پابند رہنا اُس کے فرائض منصبی میں تھا ہندوستان میں جن بادشاہوں نے اپنے تئیں مطلق العنان بنایا اور رعایا کی جان و مال و اسباب آزادی کا خود اپنے تئیں مختار بنایا۔ تمام ملک کی زمین کا اپنے تئیں مالک بنایا۔ محصول و خراج کے گھٹانے بڑھانے اور مقرر اور موقوف کرنے کا اختیار لیا۔ سپاہ کی پرورش اور جنگی اور ملکی منصب داروں اور عہدہ داروں کے موقوف و بحال و مقرر کرنے کا اقتدار ایسا اپنے ہاتھ میں لیا کہ جس ادنیٰ سے ادنیٰ کو چاہیں آسمان پر چڑھائیں اور جس اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے آدمی کو چاہیں خاک میں ملائیں۔ جس کو چاہیں رعایا میں سے سخت سے سخت سزا دیں۔ قید کر دیں۔ جرمانہ، مصادرہ لیں ہاتھ پاؤں ناک کان کٹوا دیں۔ دار پر چڑھا دیں۔ اپنے غصہ میں یا کسی جرم کے شبہ میں جو جی میں آئے کر بیٹھیں اُنہوں نے اسلام کے مسئلہ مسلّمہ کے خلاف کام کیا۔ بہت ہی کم بادشاہ مسلمانِ ہند میں ایسے ہوئے ہونگے جو ان اوپر کے اختیارات کو وہ کام میں لاسکے ہوں اختیارات کے موافق عمل کرنے کے موانع بہت تھے۔ مسلمان تھوڑے ہندو بہت تھے۔ ہندوؤں میں بعض قومیں بڑی شجاع و دلیر لڑنے والی موجود تھیں جب اُنکی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا تو وہ تلوار لیکر سامنے کھڑی ہوتیں۔ سوا اس کے مسلمانوں کی سلطنت کے ارث کا کوئی قانون نہ تھا۔ اس لئے بادشاہ کے مرنے پر لڑائی جھگڑا ایسا کھڑا ہوتا کہ

بادشاہوں کو اپنے اختیارات پر پورا عمل کرنیکا موقع نہیں ملتا۔ اور اگر وہ کسی کام میں اپنی مرضی کو کام
لاتا تو جابجا بغاوتیں برپا ہوجاتیں۔ اگر بادشاہ اپنے ارادے پر اصرار کرتا تھا تو یہ موانع ایسے پیش
آتے تھے کہ اسکو بڑی مشکل میں ڈالتے تھے مسلمانوں کے ہاں شریعت کے موافق رعایا ایسی آزاد ہوتی
ہے کہ سوائے شریعت کے احکام کے کسی حکم کی بادشاہ کے پابندی نہیں ہوتی اور جبتک قانونِ شریعت
اجازت نہ دے بادشاہ کو کسی رعایا پر کچھ اختیار نہ تھا جس قوم میں کہ ذاتی معاملات میں بادشاہ مدعی اور
مدعا علیہ ہو سکتا ہو اسمیں مشکل ہے کہ کوئی بادشاہ خود مختار شتر بے مہار ہو کہ جو جی میں آئے وہ کرے اور پھر جسکے
ساتھ یہ موانع پیش ہوں جو اوپر بیان ہوئے۔ جسمیں بادشاہ نے اپنی خواہشات نفسانی اور ارادہ دلی کو
بغیر پابندی شریعت ظاہر کیا وہ برباد ہوا۔ مہذب قوموں میں مجلس شوری جسکو کونسل کہتے ہیں ہوتی
ہے اس کا ہونا مسلمانوں کے ہاں مذہبًا واجب تھا کہ جو مہم پیش آئے اسمیں صلاح و مشورہ سے اہتمام کیا جاوے اور
اسمیں جو بات ٹھیر جاوے اس پر عزم مصمم کیا جاوے اور خدا پر توکل کرکے اس کا آغاز کیا جاوے۔
ہندوستان میں بادشاہوں کے ہاں مجالس شوری تھیں۔ مگر مستشار موتمن کم ملتے تھے اس لیے ان مجالس
کے نیک نتیجے کما حقہ ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ بادشاہ کے ہاں ایک وزیر اعظم ہوتا تھا۔ اسکی حسن لیاقت
پر اسکی کارپردازی موقوف ہوتی۔ کبھی کبھی ان وزرا کے اختیارات ایسے بڑھ جاتے تھے کہ بادشاہ کے
اختیارات بھی وہی عمل میں لاتے تھے اور بادشاہ یونہی محل میں پڑا عیش و طرب میں مصروف رہتا
تھا۔ ان وزیروں کی کچہریاں جدا جدا ہوتی تھیں۔ مگر انکی خدمات کے حدود ٹھیک ٹھیک معین نہ تھیں کبھی
بادشاہ خود انکے کام کرنے لگتا تھا۔ بادشاہوں کے دربار میں مستغیث خود آتے انکی عرضیاں خود بادشاہ
پڑھتا اور تحقیقات حاصل کرتا۔ جسکے سبب سے اس کی انصاف و عدالت کا دور دور شہرہ ہوتا تھا۔ اور خود
اسکو بھی اپنی رعایا کا حال طرح طرح کا معلوم ہوتا رہتا تھا۔

مہذب قوموں کی طرح مسلمانوں کے ہاں قانون شریعت کے ماتحت حکومت ہے۔ حکومت کے ماتحت قانون
شریعت نہ تھا۔ انکے ہاں قرآن و حدیث کے موافق علم فقہ مدون ہوا ہے جسمیں وہ سارے اصول و
قوانین پائے جاتے ہیں جن پر اس زمانہ میں مہذب قوموں کو فخر و ناز ہے۔ اکثر ایک عدالت مفتیوں اور

قاضی ہونگی تھی۔ اس کا قانون صرف شریعت تھا وہ اس شریعت کے موافق انفصال مقدمات کرتے
تھے۔ بہت سی کتابیں فتووں کی ہیں۔ جو مسلمانوں کی عدالت کے نظائر اور فیصلجات کی کتابیں
ایسی ہی ہیں جیسی کہ آجکل ہائی کورٹ عدالت کے نظائر کی کتابیں ہیں۔ یہ قاضی دیوانی کے مقدمات
فیصلہ کرتے جیسے وراثت۔ حقیت۔ ملکیت۔ نکاح۔ طلاق وغیرہ۔ اور تمام مقدمات جو سلطنت کے
امن و عافیت پر کچھ اثر نہیں کرتے تھے مگر ایک اور عدالت پادشاہی کارکنوں کی تھی جسمیں فوجداری
کے مقدمات فیصلہ ہوتے تھے اس عدالت میں گو کبھی کبھی قاضی سے بھی استفسار و استفتا کیا جاتا
مگر اسکے قوانین کی حدود معین نہ تھی۔ یہ کارکن بادشاہ کی طرف سے مقرر ہوتے۔ غرض جو کچھ قانونی
عمل کیا اس سے رعایا رضامند اور خوش تھی۔ اور تمام عدالتوں کا انتظام قابل اطمینان تھا مسلمانوں
اور ہندوؤں کی اغراض ایسی شامل ہوگئیں تھیں کہ مسلمان جو یہاں آ کر بسے تھے اور ہندو جو پہلے سے
بستے تھے عدالت دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھتی تھی اور قانون ان دونوں کی یکساں حمایت کرتا تھا۔
جسمیں مسلمانوں کی شریعت اور اس ملک کا رسم و راہ دونوں شامل تھے۔ ملک ایسا سرسبز و شاداب و آباد
رہتا تھا کہ باوجودیکہ سلسلۂ جنگ جاری رہتا تھا اور اس کا تار نہیں ٹوٹتا تھا مگر رعایا سب خوشحال
رہتی تھی۔

ذکر بادشاہی ابوالمظفر جلال الدین محمد اکبر بادشاہ غازی

دنیا میں اکبر جیسے بشر کمتر پیدا ہوئے ہیں کہ جسکی قبل از ولادت اور بعد از رحلت وہ تعظیم و تکریم
ہوئی ہو جو اولیاء کرام اور سلاطین عظام کی ہوتی ہے۔ قاعدہ ہے کہ جو دنیا میں والا رتبہ بزرگ گذرے
ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے انکی ولادت کی بشارت غیبی معرض تحریر میں آتی ہیں۔ گو وہ اکثر صداقت
پر مبنی نہیں ہوتیں مگر عقیدت انکو منواتی ہے۔ چنانچہ اکبر کے لئے بھی ایسی بشارت غیبی بیان کی جاتی ہیں کہ
وہ نور جو بے وسیلۂ بشری و رابطۂ صلبی حضرت النقوا کے بطن میں ظاہر ہوا تھا وہی چند قرنوں کی ترتیب کے
بعد ابن اکبر کے عنصر پاک میں نمودار ہوا۔ قاچولی بہادر کے ردیا جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں کہ

سات ستارے دیکھے تھے اسکی تعبیریں مولود والاصفات کی ذات سمجھی جاتی ہیں بہت سے خواب جو ماں اور اناؤں نے دیکھے کہ بغل میں ہماری ماہ آیا۔ کہیں مکان میں کہیں پیشانی میں نور چمکا۔ غرض ایسے نورانی کرشموں سے اسی شہزادے سے مراد لی جاتی ہے جیسی بشارت کہ کسی قدسی صفات کے ولادت سے پہلے بیان ہوتی ہیں وہ اس حمیدہ اوصاف کی نسبت بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ حال تو قبل از ولادت تھا۔ اور بعد رحلت ہندوؤں نے اس قدرت الٰہی کو اپنے معبود کی طرح پوجا بعض مسلمانوں نے بھی اسکو ولی جانا۔ ابتک اسکی قبر میں تصرف موجود ہے کہ قیصر ہند کا نائب السلطنت الادو دمان فیاض زماں لارڈ نورتھ بروک جب اسکی قبر کی زیارت کو آیا تو اسنے اپنی جیب خاص سے اسکی قبر پر دس ہزار روپیہ کا غلاف چڑھایا۔ بس اس سے زیادہ کوئی معیار انسان کی عزت کا نہیں ہے کہ حیات اور وفات کے بعد خلائق کے عوام و خواص کا مخالف و موافق کا مقبول ہو۔ مہذب قومیں جس تعظیم و تکریم سے شہنشاہ اکبر کا نام لیتی ہیں ایسی کسی اور ایشیائی بادشاہ کا نہیں لیتیں۔ بالاتفاق سب فرنگستانی مورخ یہ کہتے ہیں کہ اکبر ہی نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کی جڑ جمائی۔ پہلے مسلمانوں کی سلطنت کا حال اکاش بیل کا سا تھا کہ آندھی کے جھوکوں میں ادھر سے ادھر اڑی پھرتی تھی۔ سلطنت کی جڑ پکڑنے کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہ کی رعیت کے دل میں محبت ہو۔ اور زبان پر اسکے لیے شکر و دعا ہو۔ بعض انگریزی مورخوں نے لکھا ہے کہ اکبر سلطنت ہند کا ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کا محسن تھا۔

ہمایوں شہنشاہ کی سلطنت کے ذکر میں ہمنے بیان کیا کہ کس طرح مریم مکانی حمیدہ بانو بیگم کے مرض عشق میں ہمایوں مبتلا ہوا جسکا علاج سوائے نکاح کے کچھ اور نہو سکا۔ اس پیوند مبارک کا نتیجہ یہ ہوا کہ اول شب در یکشنبہ ۱۹ ماہ رجب ۹۴۹ھ میں ۶ بجے ۴۵ منٹ پر شہزادہ والا گہر اکبر امرکوٹ میں پیدا ہوا۔ اس کا عرض خط استوا سے ۲۵ درجہ ہے اور جزائر خالدات سے طول ۱۰۸ درجہ ہے۔ باپ اسوقت امرکوٹ سے چار فرسخ پر دلکشا خوش ہوا سرزمین میں اترا ہوا تھا۔ قاصدوں نے بہت جلد جا کر باپ کو یہ مژدہ سنایا۔ باپ نے اس نوید کے سنتے ہی درگاہ خداوندگار میں جبین نیاز کو خاکساری کیساتھ خاک پر ملا بعد ازاں نقارۂ شادی بلند آواز ہوا۔ ایک جشن بآئین ہمایوں مرتب ہوا۔ مطربوں نے دستان سرائی اور

مغنیوں نے جادو نوائی کی۔ ظریفوں نے ظرافت کی رنگ آمیزی کی۔ ندیموں نے وہ بذلہ گوئی کی کہ
اہلِ مجلس کے پیٹ میں مارے ہنسی کے بل پڑ گئے۔ سپہ سالاروں و صف آرایوں نے مبارکبادی دی۔ طوائف
اعظم و اہالی و افاضل و موالی نے مراسم تہنیت و تعظیم ادا کیں۔ منجموں نے مولود مسعود کا زائچہ طالع بنایا جس کے
خانوں کے احکام سے طولِ بقا۔ مدارج سلطنت تفاخر و معارج خلافت پر ارتفاع تبلایا۔ مولنا چاند۔ پنڈت
جوتک رای۔ امیر فتح اللہ شیرازی نے آٹھ زائچے بنائے۔ گو اس سبب سے کہ فلک الافلاک کی حرکت و سکون
میں منجموں کا اختلاف ہے۔ اسلیے ان زائچوں کے خانوں میں اختلاف تھا مگر طالع کے سعید ہونے میں سب کا
اتفاق تھا۔ یہ عجب اتفاق کی بات ہے کہ جناب ملکہ معظمہ قیصر ہند و شہنشاہ اکبر کے زائچے ملتے جلتے ہیں۔ گو ایشیا میں
ابتک ان جنم پتروں کی قدر چلی جاتی ہے اور معلوم نہیں کبتک چلی جائیگی۔ مگر فرنگستان میں تو وہ صرف ایک دل لگی
رہ گئی ہے۔ ان جنم پتروں کی تفصیل گو پڑھنے والوں کو بڑی دلچسپ معلوم ہوگی مگر اسکا تاریخ میں لکھنا معیوب
سمجھا جاتا ہے۔ اسلیئے اسکو قلم انداز کرتا ہوں۔ اکبرنامہ کی طرح چند صفحے سیاہ نہیں کرتا۔ نام میں بھی اسکے
بڑی لطیفہ سنجیاں ہوئی ہیں کہ ہمایوں کو یہ نام خواب میں غیب سے تبلایا گیا تھا۔ اکبر کے حروف کے عدد بھی
آفتاب کے عددوں کی برابر دو سو تیئیس ہیں۔ جس میں اشارہ ہے کہ جیسے مہر سے نور عالم آرا پیدا ہے۔ ایسی ہی
شہنشاہ والا کی جبہہ سے نور ہویدا ہے۔ اس نام میں ایک اور یہ لطیفہ نکالا ہے کہ ابجد کے اٹھائیس حروف
میں سے سات سات حرفوں کو ایک ایک عنصر سے منسوب کیا ہے۔ اکبر میں جو چار حروف ہیں انمیں الف
آتشی و کاف آبی و با بادی و رے خاکی ہے جسمیں کنایہ یہ ہے کہ اس نام میں عناصر کا کمال اعتدال ہے کہ نہ
کوئی عنصر ایسا ہے کہ اسمیں نہو اور نہ کوئی عنصر مکرر ہے۔ پس اس کا اعتدال مسمیٰ کی حسن سیرت و صحت بدن
طول عمر ارتقاء دولت و دوام مسرت میں دخل رکھتا ہے۔ پھر ایک اور لطیفہ یہ ہے کہ بیچ میں جو دو حرف
کاف اور بے ہیں۔ انمیں کاف آبی ہے جو اپنے دشمن بالا آتش کو فنا کر رہا ہے۔ اور با نہ بادی ہے وہ اپنے
دشمن پایاں خاک کو برباد کر رہی ہے۔ جیسے منجموں نے زائچے بنائے ایسے شاعروں نے ولادت کی تاریخیں
کہیں مصرعہ تاریخ ع شہنشہ جہانگیر نوشت ۵ شب و روز دومہ و سال میلاد + شب یکشنبہ و پنج رجب است -
اس میں واو نہیں پڑھی جاتی اسکے عدد نہیں لگانے چاہئیں۔ اکبر نے سات اناؤں کا دودھ پیا جنمیں سے بعض اناؤں کی

اولاد و خاندان کو اپنے عہدِ سلطنت میں مناسب و عہدہائے جلیلہ پر سرفراز کیا جسکا ذکر آگے آویگا۔

ہم نے پہلے لکھا ہے کہ جب ہمایوں مجبور ہو کر سندھ سے بھاگا اور قندہار کا قصد کیا اور شال میں وہ پہنچا تو اُسنے سنا کہ مرزا عسکری قندھار سے آتا ہے اسلیئے یہاں سے بھی جلدی فرار کرنا ضرور ہوا۔ میاں بیوی تو چلنے کو تیار ہو گئے مگر مشکل بچے کی تھی۔ موسم نہایت سخت تھا۔ گھوڑے کی سواری تھی۔ جلدی کا سفر تھا۔ ایک برس کا بچہ کب ان مصائب کا متحمل ہو سکتا تھا۔ یہ سمجھکر کہ چچا اس ننھے بھتیجے سے کیا لڑیگا اور بدسلوکی کریگا۔ مع پرتل و خرگاہ اور اسکے لوازمہ کے یہیں چھوڑ کر ہمایوں روانہ ہوا۔ ایران کی سرحد پر وہ پہنچنے ہی کو تھا کہ مرزا عسکری ہمایوں کے لشکر میں آیا۔ اُس کو بھائی کے نکل جانے کا سخت افسوس ہوا۔ مگر وہ بھتیجے کو دیکھکر خوش ہوا اور بہت پیار کیا اور اپنے ساتھ ۱۰ رمضان ۹۵۰ھ کو قندھار لیگیا اور اپنی بیوی سلطان بیگم کو اسکی پرورش سپرد کی اور اپنے محل کے قریب اسکو ایک محل میں رکھا۔ ماہم آغا۔ جیجی انگہ و انگہ خاں ہمیشہ اسکی خدمت میں رہتے تھے۔ اُس وقت اس بچے کی عمر ایک سال تین مہینے کی تھی۔

ایک دن ماہم انگہ والدہ ادہم خاں نے جو اکبر کی خدمت میں رہتی تھیں مرزا عسکری سے عرض کیا کہ بزرگوں کی رسم یہ ہے کہ فرزند پاؤں چلنا شروع کرتا ہے تو باپ یا دادا یا کوئی اور بزرگ جو عرف میں بجائے باپ کے ہو اپنے سر پر سے دستار اُتار کے اُسکے پاؤں میں مارتا ہے تو وہ نونہال زمین پر گر پڑتا ہے۔ اب اس شاہزادہ کا باپ یہاں نہیں ہے اور آپ باپ کی جگہ ہیں اس شگون کو آپ بجا لائیں مرزا نے اُسی وقت اپنی دستار اُتار کر اکبر کے پاؤں میں ڈالی کہ وہ گر پڑا۔ انھیں دنوں میں تبرک و یمن کے لیئے حسن ابدال میں اُس کا سر مونڈن ہوا۔

چچا کی قید میں یہ بھتیجا ایک سال تک رہا کہ اسکے باپ کے دن پھرے کہ وہ شاہ طہماسپ سے لشکر لیکر مغربی افغانستان میں داخل ہوا۔ جب مرزا کامران کو کابل میں اس کی خبر ہوئی تو اس نے کابل سے اپنے معتمد بھیجے کہ اکبر کو قندھار سے کابل میں لے آئیں۔ جب قندھار میں مرزا عسکری پاس یہ معتمد آئے تو مرزا کے صلاح کار جمع ہوئے اور آپس میں صلاح مشورہ ہوا کہ شہزادہ کو کابل بھیجنا چاہیئے یا نہیں۔ بعض نے یہ صلاح دی کہ ہمایوں کا اقبال پھر چمکا ہے اسکو باپ پاس نہایت احترام اور اعزاز کے ساتھ بھیجنا چاہیئے

اور اسکے ذریعہ سے استغفار جرائم کرنا چاہیئے بعض نے کہا کہ مرزا کامراں کی خاطر کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیئے
مرزا عسکری نے ایسے جرم نہیں کیے ہیں کہ ہمایوں کو اپنا منھ بھی دکھا سکے۔ غرض یہ آخر بات سب کو پسند
آئی۔ گو جاڑے کا موسم نہایت سخت تھا۔ اکبر کو اور اُس کی بہن بخشی بانو بیگم کو مع اُنکے ملازمین کے کابل
روانہ کیا۔ اس لحاظ سے کہ کوئی راہ میں اسکو نہ پہچانے۔ اکبر کو میرک اور اُس کی بہن کو بیچہ کہتے تھے۔
غرض راہ میں وہ پہچانا گیا۔ اکبر بخیر و عافیت وہ کابل میں مع اپنے ملازمین کے پہنچا۔ مرزا کامراں نے بھتیجے
کو اپنی پھوپھی خانزادہ بیگم کے حوالہ کیا جس نے اُس کی پرورش مادرانہ کی۔ یہ حال ہم نے شگرف نامہ
میں بھی لکھا ہے۔ مرزا کامراں ایک دن جشن کر رہا تھا اور اُس نے شاہزادہ اکبر کو بھی بلایا تھا۔ اتفاقاً مرزا
کامراں کے بیٹے مرزا ابراہیم کے لیے ایک نقارہ منقش شب برات کی تقریب کے سبب سے تیار ہوا تھا اُس کے
لینے کی طرف اکبر کو میلان ہوا مرزا کامراں نے کہا کہ دونوں شاہزادے کشتی لڑیں جو پچھاڑ دے وہ نقارہ
لے لے۔ ابراہیم عمر میں ایک برس اکبر سے بڑا تھا اور بظاہر قوی معلوم ہوتا تھا۔ غرض دونوں میں کشتی
ہوئی۔ اکبر نے ابراہیم کو پچھاڑ دیا اور نقارہ لے لیا جس سے مرزا کامراں رنجیدہ خاطر ہوا اور اُس کو
اپنے لیے بدشگونی سمجھا۔ کچھ دنوں کے بعد ہمایوں نے کابل کو تسخیر کر لیا۔ اور وہ اپنے نونہال کو دیکھکر
نہال نہال ہوا۔

رسم و عادت کے موافق اسکے ختنہ کی مراسم ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ اوائل بہار میں وہ اُرتہ باغ
میں کہ نہایت دلکش و دلگشا تھا آیا اور حکم دیا کہ بیگمات اپنے اپنے درجے کے موافق اس باغ کی آئین
بندی کریں اور چار باغ کی آئین بندی امراء اور اعیان شہر کریں۔ غرض امراء نے بڑی دھوم دھام سے
آئین بندی کی اور ارباب صنائع اور طوائف محترفہ نے آرایش دکان اور گرمی بازار میں نہایت مبالغہ
کیا۔ بادشاہ یہاں دو دن کو جشن کرتا کہ اس عرصہ میں حضرت مریم مکانی بھی تشریف لائیں۔ بیگمات
کا جھمگھٹ لگا اُن میں اکبر نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور اُسکے گلے چمٹ گیا۔ رسم ختنہ ادا ہوئی بادشاہ
رنگ رلیاں میں گیا اور وہاں خوشی میں آکر امام قلی قورچی سے خود کشتی لڑا اور مرزا ہندال و یادگار
ناصر مرزا کو آپسمیں کشتی لڑوائی اور امراء کی جوڑیں بندھوائیں۔

اکبر کا مکتب میں بیٹھنا اور اس کا نہ پڑھنا لکھنا اور کھیل کود میں مشغول رہنا۔

پھر ہمایوں بدخشاں کی تسخیر کو گیا کہ مرزا کامراں نے کابل پر تسلط کر لیا اور شہزادہ اکبر پھر اس کی قید میں آیا۔ ہمایوں نے بدخشاں سے پھر آنکر کابل کا محاصرہ کیا اور مرزا کامراں نے اکبر کو توپ کے برابر رکھا جس کا بیان مفصل ہم ہمایوں کی سلطنت میں کرتے ہیں۔ غرض کابل پھر فتح ہوا۔ اور ہمایوں نے اپنے بیٹے کو صحیح وسالم دیکھا۔ اب اس سال کی ساتویں شوّال کو اکبر کی عمر چار سال چار ماہ چار دن کی ہوئی تھی کہ رسم وعادت کے موافق بادشاہ نے اکبر کی مکتب نشینی کی رسم ادا کرنے کا ارادہ کیا جب ساعت اس مکتب نشینی کی آئی تو اکبر کہیں جاکر چھپ گیا ہر چند اس کی جستجو میں تگاپو کی مگر وہ ہاتھ نہ آیا ہر چند اسکی تعلیم میں کوشش کی گئی اور کئی معلم بدلے گئے مگر اس نے مکتب میں معلم سے کچھ علم نہ حاصل کیا امی ہی رہا جو استاد سے نہیں بلکہ اپنی ہی طبع خداداد سے استعداد حاصل کی کہ جس کو ارباب حکمت و اصحاب ریاضت وصاحبان علوم ظاہری ودانشمندان صنایع کلی وجزوی دیکھکر دنگ ہوتے تھے۔

پھر ہمایوں کابل سے بدخشاں گیا اور وہاں سے کابل میں آیا اور یہاں سے بلخ فتح کرنے گیا کہ مرزا کامران نے پھر اس سے دغا کی۔ ہمایوں نے کابل کی حکومت اکبر کے سپرد کی جس کی عمر اسوقت آٹھ سال کی تھی۔ اور محمد قاسم خاں برلاس کو اس کا اتالیق مقرر کیا۔ مرزا کامراں نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اکبر پھر تیسری دفعہ چچا کے ہاتھ میں گرفتار ہوا۔ مگر ہمایوں نے کابل کو فتح کر لیا۔ اور بیٹا صحیح سلامت اس پاس آگیا۔ اس فتح نمایاں کے جلدو میں جو اس نے انعام وجاگیریں تقسیم کیں تو اس نے اپنے بیٹے کو محروم نہیں رکھا چرخ کے ضلع میں اس کو جاگیر عطا کی اور حاجی محمد خاں سیستانی کو اس کا وزیر مقرر کیا۔ اب ہمایوں کی مصیبت کا زمانہ ختم ہو چکا تھا۔ روز بروز بہتری ہوتی جاتی تھی۔ پھر ہمایوں نے ولایت غزنین اکبر کو حوالہ کی اس وقت دس سال کی عمر تھی۔ ہمایوں کو اکبر کی تربیت وتعلیم کا بڑا خیال تھا اس کو کھیل کود کا بڑا شوق تھا۔ ایک دفعہ ہمایوں نے تنبیہ کے طور پر ایک منشور لکھا جس میں یہ حضرت نظامی کی بیت پیشانی پر لکھی۔ ؎ غافل منشیں نہ وقت بازی ست + وقت ہنر است و کارسازی ست + اوّل ملا زادہ عصام الدین سے درس لیا تھا۔ مگر اخوند صاحب کبوتر بازی کے عشق میں گرفتار تھے۔ اس لیے وہ معزول ہوئے۔ ان کی جگہ مولنا بایزید مقرر ہوا۔ کئی ملاؤں کے

نام کے قرعہ ڈالے گئے تو مولنا عبدالقادر کے نام قرعہ نکلا۔ وہ اُستاد مقرر ہوئے۔ رسوم و عادات کے موافق معلّم مقرر ہوتے رہے۔ مگر شاہزادہ اپنے کھیلوں میں مصروف رہا۔ اوّل سرزمین کابل میں سب جانوروں میں بزرگ تر مرغ کو دیکھا اسی کے تماشوں میں وہ مصروف ہوا۔ پھر اسپ تازی کا شوق ہوا چوگان بازی میں کمال پیدا کیا۔ پھر کبوتر بازی کی دھت ہوئی پھر سگ دوانی کی طرف میلان خاطر ہوا ایک دن سفید سنگ میں کتوں کے شکار میں کچھ آدمیوں کو کوہ پر مقرر کیا کہ وہ ہرنوں کو گھیر کر بیابان میں لائیں اور کچھ آدمیوں کو شکاری کتے حوالہ کیے۔ مگر یہ شاہزادہ کو لڑکا سمجھکر اپنے کھانے میں مشغول ہوئے۔ ہرن نکل گئے اور ان پر کتے نہ چھوڑے گئے تو وہ آدمیوں پر خفا ہوا اور یہ حکم دیا کہ کتوں کی طرح اُن کے گلے میں پٹّا ڈال کر سارے لشکر میں پھرائیں۔ جب ہمایوں نے یہ حال سُنا تو وہ بہت خوش ہوا اور فرمایا کہ عنقریب سلطنت عظیم پر وہ کامیاب ہوگا۔ اس کی طبیعت میں سیاست شاہانہ اور ایجاد آئین کے اُصول ہیں۔ اکبر کی عمر بارہ[۱۲] سال آٹھ مہینے کی تھی کہ وہ ذی الحجہ سنہ ۹۶۱ھ میں باپ کے ساتھ ہندوستان کی تسخیر کے لیے کابل سے روانہ ہوا۔ جب ہمایوں پنجاب وغیرہ کو فتح کر کے سرہند میں پہنچا تو ایک لشکر کا حصہ اس شہزادہ کے نام پر مقرر ہوا۔ اس شہزادہ کو چیتے کی شکار کی لت یہیں سے لگی۔ ولی بیگ بدر خاں جہاں کو ماچھیواڑہ کی جنگ میں افغانوں کا ایک چیتا ہاتھ لگ گیا تھا اُس نے اس پیکر بدیع و عجیب کو صیدگاہ اقبال کے شیر شکار کی پیشکش میں دیا یہ پہلی دفعہ تھی کہ اُس نے چیتے کو دیکھا اس چیتے کا نگہبان دوندو تھا جس کو خطاب فتح خاں کا ملا اب وہ قراولوں میں نوکر تھا۔

ہم حضرت ہمایوں کی تاریخ میں لکھ آئے ہیں کہ جب سلطان سکندر شاہ سور شکست کھا کر کوہ سوالک کی طرف بھاگا تو بادشاہ نے ایک سپاہ اُس کے دفع کرنیکے لیے روانہ کی بیرام خاں کو اس کا سپہ سالار بنایا اور اس کے ساتھ اکبر کو اس کا شاگرد بنا کر دشمن شکاری کی مشق کے لیے ساتھ کر دیا۔ پنجاب کے دامن کوہ میں یکایک ہمایوں کے مرنے کی خبر آئی، اکبر کو باپ سے بہت محبت تھی وہ خبر کو سنکر بہت رویا۔ اور باپ کی روح کے ثواب کے لیے بہت صدقات دیئے اسوقت

اکبر کی تخت نشینی اور بیرم خاں کی وزارت

سنہ ۹۶۳ھ ۱ جلوس

اکبر کو لیکر بیرام خاں کلانور میں آیا۔ جمعہ کے دن ۲ ربیع الثانی سنہ ۹۶۳ھ مطابق سنہ ۱۵۵۶ع کو بڑی دھوم دھام سے کلانور کے باغ میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ یہ اس کی تخت نشینی کی تاریخیں ہیں۔ جلوس خداوند عالم پناہ + کام بخش + اس وقت بادشاہ کی عمر تیرہ برس نو مہینے کی تھی اگرچہ اس عمر میں بھی عقل کی صفائی اور ذہن کی رسائی وہ رکھتا تھا کہ کبھی کسی کو اس سن میں نصیب ہوئی ہے۔ مگر پھر بھی اس کی نازک عقل میں سلطنت کے بار اٹھانے کی تاب و تواں نہ تھی۔ تمام مالی و ملکی مہمات کا اختیار بیرام خاں کے ہاتھ میں تھا۔ اگر غور سے دیکھیں تو بیرام خاں خانخاناں جیسا اتالیق و سپہ سالار اور وزیر مشیر عقیدت شعار خیرخواہ بادشاہ کو نہ ملتا اور حل و عقد امور خلافت تمام لشکر کا انتظام اس کی رائے روافی درایت و کف کافی کفایت میں نہ دیا جاتا تو ہندوستان میں خاندان مغلیہ کا جمنا دشوار ہوتا اکبر محبت کے سبب اُسکو خان بابا کہتا تھا۔

جلوس کے وقت ممالک محروسہ میں جو اعاظم اُمراء منتظم تھے

اس جلوس کیوقت ممالک محروسہ میں اعاظم منتظم یہ تھے۔ مرزا سلیمان بدخشاں میں آرایش و آسائش کے ساتھ حکمران مقرر تھا۔ کابل غزنین اور انکی تمام حدود میں ہوشمند و کاردان منعم خاں منتظم تھا اور محمد حکیم مرزا مع مستورات کے اسکے پاس آسودہ حالی سے رہتا تھا۔ قندھار مع توابع و لواحق کے بیرام خاں کی جاگیر میں تھا وہ شاہ محمد قلاتی کے سپرد تھا دارالملک دہلی کے دادوہوں کا نام پہلے بیان کر چکے ہیں۔ دارالخلافہ آگرہ اور اس کے نواح اسکندر خاں اوزبک کی حکومت سے رونق پاتے تھے سرکار سنبل کا انتظام علی قلی خاں شیبانی کی تدبیر سے ہوتا تھا۔ سرکار کالپی میں عبداللہ خاں اوزبک کی سرداری انتظام کرتی تھی۔ میوات میں تردی بیگ خاں کے ملازم امن رکھتے تھے۔ بیانہ اور کول جلالی اور اُس کے حدود میں قیا خاں لوازم خدمت بجا لاتا تھا۔ بیانہ میں حیدر محمد خاں بادشاہ کے احکام کو جاری کرتا تھا ان سب کے نام بادشاہ نے احکام بھیج دیئے کہ وہ اپنی اپنی جاگیر میں برقرار رہیں۔

ابو المعالی کا قید ہونا سنہ ۹۶۳ھ [illegible] ۱ جلوس

ہمنے پہلے بیان کیا ہے کہ شاہ ابوالمعالی حسین و تیز فہم و شجاع ہمایوں کا بڑا لاڈلا متبنی تھا اور اُس کو اپنی دانش کے بھروسہ پر بیرام خاں کی ہمسری کا خیال پیدا ہوا۔ بادشاہ کو لڑکا سمجھا گستاخیاں اور شرارتیں کرنے لگا۔ بادشاہ نے اپنے جلوس کے جشن میں اسکو بلایا تو وہ یہ چند عذر بدتر از گناہ نہ آنے کے درمیان لایا کہ ابھی میں ہمایوں کی تعزیت سے فارغ نہیں ہوا۔ اگر آیا تو حضرت شہنشاہ کا سلوک

میرے ساتھ کس طرح ہوگا۔ مجلس میں کہاں بیٹھونگا۔ امرا مجھسے کس طرح پیش آئینگے۔ جب اس کی بلانے
میں مبالغہ کیا گیا تو وہ آیا۔ اور سو جنگیں ساتھ لایا۔ حضرت شہنشاہ کے داہنی طرف آنکر بیٹھا۔ جب کھانے
کا وقت آیا تو دسترخوان بچھا۔ وہ بھی کھانا کھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب اس نے ہاتھ دہونے کے لیے
پھیلائے تو لنک خاں توچین نے جو بڑا چابک دست قوی باز و تھا تیز دستی کرکے پیچھے سے آنکر اس کے
دونوں ہاتھ پکڑکے دستگیر کرلیا اور اور لوگوں نے بھی اسکی ہمدستی کی۔ ابو المعالی فرط حیرت سے بیدست و
پا ہوا۔ آدمی جو اسکے ساتھ تھے وہ خاندان شاہی کے نمک پروردہ تھے ان سب نے اسے چھوڑ دیا اور
پادشاہ کا دامن پکڑا آئین سلطنت و قانون نصفت میں بند و زندان کو اس سبب سے مستحسن جانتے ہیں کہ
اس میں فتنہ انگیز امتحان کی کسوٹی پر کسے جاتے ہیں اور بند سے پند پاتے ہیں۔ آدمی ایک طلسم بدیع نما
او معمائے مشکل کشا ہے۔ ایک جرم کے ظہور میں اسکو عدمخانہ میں نہیں بھیجنا چاہیے اس لیے کہ اس
عالی نہاد کی بنیاد کو سوائے قدرت ایزدی کے کوئی تعمیر نہیں کرسکتا اس لیے دانش پیشہ منظموں نے
اس کاخ والا اساس کے ڈھانے کو مستحسن نہیں جانا ہے۔ ع کہ نتواں سر رشتہ پیوند کرد۔ مگر جس آدمی
کی بد گوہری۔ بد دردنی۔ شورانگیزی فتنہ اندوزی بارہا تجربہ میں آگئی ہو اس کو زندان میں بھیجنا
کار آگاہونکا کام نہیں ہے۔ اشرار کی نیستی میں کوشش کرنا جمہور انام کے ساتھ لطف کرنا ہے اسلیے بیرم خاں
نے اس قیدی کا کام تمام کرنا چاہا تھا مگر اکبر نے رحم دلی کے سبب سے منع کیا اور کہا کہ یہ میری جلوس کا
اول سال ہے اس کو سید کے خون سے آلودہ نہ کرو۔ اس فتنہ انگیز کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالکر لاہور بھجدیا
اور یہاں اسکو پہلوان کلکز عس لاہور کے سپرد کیا اسنے بے پروائی سے یا بداندیشی سے اس کی نگاہداشت
میں احتیاط نہ کی۔ وہ بندی خانہ سے بھاگ گیا۔ لاہور میں مرزا شاہ اور ایک جماعت نے پہلوان کلکز کو مقید
کیا۔ پہلوان نے بیعزتی کے خوف سے زہر کھاکر اپنے تئیں زندان جسمانی سے خلاص کیا منعم خاں خانخاناں سردار
کابلستان نے خوش ہوکر ابو المعالی کے بھائی مرزا ہاشم کو بہ لطائف الحیل طلب کرکے مقید کیا۔ اس کی
جاگیر میں گھروود و غوربند و ضحاک وغیرہ تھے۔

بادشاہ کو سلطان سکندر شاہ سور کا استیصال منظور تھا لیکن اسکو بیگمات بہت یاد آتی تھیں اور

بادشاہ کا کابل سے بیگمات کا آنا سکندر شاہ سور کا گرفتار ہونا سنہ ۹۶۴ھ سنہ ۱ جلوس

بہت سی جاں سپار ملازم ہندوستان میں تازہ آئے تھے وہ بھی اپنے بال بچوں کو یاد کرتے تھے اور کابل جانے کا قصد رکھتے تھے۔ اس لیے بادشاہ نے اپنے معتمد اولیائے دولت کو کابل بھیجکر بیگمات اور تمام ملازموں کے اہل و عیال کو یہاں لانیکے لیے بھیجا کہ ملازم یہاں ثابت قدم ہو کر اپنی ولایت کے جانیکا قصد نہ کریں۔ خود جلوس کے پانچویں دن کوہستان سوالک سے جس کو ہماچل بھی کہتے ہیں کوچ کیا۔

بادشاہ قصبہ دھمری کے قریب آیا۔ پیر محمد خاں آگے لشکر لیکر کوہستان سوالک کے حوالی میں غنیم پاس جا پہنچا۔ اور کچھ لڑکر سکندر شاہ کو شکست دی وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں بھاگ گیا بادشاہی لشکر بادشاہ سے آن ملا۔ چونکہ برسات کا موسم آگیا تھا۔ بادشاہ قصبہ جالندھر میں آسائش خلاق کی خاطر سے آگیا اور یہاں باغ میں مقیم رہا۔

جب بادشاہ ہمایوں کے مرنے کی خبر پھیلی تو حاجی خاں نے جو شیر شاہ کے غلاموں سے تھا اس نے ایک جمعیت فراواں کو لیکر نارنول کا محاصرہ کیا۔ جہاں کا مجنوں خاں قاقشال جاگیردار تھا وہ قلعہ میں متحصن ہوا۔ راجہ بہاری مل کچھوایہ حاجی خاں کے ہمراہ تھا۔ جب اہل قلعہ کا قافیہ تنگ ہوا تو راجہ مذکور نے درمیان میں پڑکر قلعہ لے لیا مجنوں خاں کو بادشاہ پاس بھیجدیا۔ آیندہ بیان ہوگا کہ اس راجہ کو شہنشاہ اکبر نے اپنی عنایات سے مہاراجہ بنادیا۔ اور اسکے سارے بیٹوں اور پوتوں اور نواسوں کو مراتب و مناصب ارجمند مرحمت کیے۔ اس وقت تردی بیگ دہلی میں حاکم تھا وہ حاجی خاں کے سر پر گیا۔ نارنول کو اسکے ہاتھ سے چھٹایا۔ اور سرکشوں کو تادیب و تنبیہ کرکے دارالملک دہلی کو واپس چلا آیا۔

بادشاہ جالندھر میں تھا کہ اس پاس یہ خبر آئی کہ مرزا سلیمان حاکم بدخشاں نے بغاوت اختیار کی۔ بادشاہ نے کمک کا اہتمام کیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت ہمایوں کی رحلت کی خبر کابل و بدخشاں میں پھیلی تو مرزا سلیمان اور اس کے بیٹے ابراہیم نے کوہستان بدخشاں سے لشکر جمع کرکے کابل پر دست درازی شروع کی اسکے کئی سبب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ اہل بدخشاں میں اخلاص کم نشان ہے۔ دوم مرزاؤں نے اپنے معاملہ نافہمی اور نادانی سے سوداگری کو چھوڑکر اپنے نقصان کا معاملہ اختیار کیا۔ سوم بدذاتی و بددلی سے اپنا فائدہ اوروں کے نقصان میں دیکھا۔ چہارم تیرہ باطن کوتہ اندیشوں کے اغوا نے ان کی

۲۷ شعبان کو نارنول کا محاصرہ ۹۶۳ سن ۱ جلوس

مرزا سلیمان کا کابل پر حملہ ۹۶۳ سن ۱ جلوس

نظر کج کو سوائے اپنے نقد و سود کے کسی اور طرف نہیں دیکھنے دیا۔ خرّم بیگم نے مرزا کو اکسا دیا وہ مرزا
کی کوچ ربیوہ منکوحہ تھی اور مرزا نے اپنی کوچک دلی سے اپنے ملکی اور مالی مہمات کا مدار ٹھیرایا تھا۔
وہ مرزا ہندال کی تعزیت کے لیے کابل میں آئی تھی۔ مگر حقیقت میں وہ مرزا سلیمان و مرزا ابراہیم سے رنجیدہ
ہو کر اور رنج کا بہانہ بنا کر یہاں آئی تھی۔ اور رنجیدگی کا باعث یہ تھا کہ جب اس بیگم کو اپنی رائے و تدبیر
کے سبب سے بدخشانی مالی و ملکی کا اختیار حاصل ہوا اور اُس نے کسی گروہ پر نوازش اور کسی گروہ سے
کاوش شروع کی تو حسد پیشوں نے اپنی بدذاتی سے ناشائستہ باتیں اسکی نسبت کہنی شروع کیں اور اُسکے چھوٹے
بھائی حیدر بیگ کے ساتھ متہم کیا تو فوراً ابراہیم نے آزردہ ہو کر حیدر بیگ کو مار ڈالا۔ بیگم رنجیدہ ہو کر کابل
میں آئی بعد ازاں مرزاؤں کو اپنے اس کام سے پشیمانی ہوئی اور اپنے آدمیوں کو بھیجکر اُس کو بلا لیا۔ اس
بیگم نے کابل کا ظاہری حال دیکھکر مرزا سلیمان کو بہکایا کہ ولایت کابل کا لے لینا نہایت آسان ہے مگر ہمایوں
کے خوف سے مرزا چپکا رہا اور جب حادثہ ناگزیر پیش آیا تو کابل پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ منعم خاں کو جب
حقیقت حال پر اطلاع ہوئی تو اُس نے میدان میں جنگ صف کرنا مناسب نہ جانا۔ اسباب قلعہ داری کا
مہیا کر کے قلعہ نشینی اختیار کی۔ قلعہ کابل کی شکست ریخت و برج بارہ کی مرمت کرائی۔ پہلے اس سے
کہ مرزا کابل میں آئے۔ بادشاہ کو اس حال کی عرضداشت لکھی۔ مرزا کی نگاہ اپنی کثرت سپاہ اور بادشاہ
کے قلت لشکر پر تھی، اس لیے وہ کوچ پر کوچ کرتا ہوا سال اوّل الٰہی میں کابل میں آیا اور قلعۂ کابل کا محاصرہ
کیا مرزا کے آدمی قلعہ کے باہر سے حملہ کرتے اور بادشاہ کی سپاہ قلعہ کے اندر سے توپ و تفنگ سے انکو پرے ہٹاتی

جب بادشاہ کے پاس منعم خاں کی عرضداشت پہنچی تو اُس نے لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا۔ مگر
ایک جماعت نے عرض کیا کہ آدمی جو بیگمات کو لینے گئے ہیں کمک کے لیے کافی ہونگے۔ یہ گروہ اگرچہ
لڑائی میں شریک نہیں ہوا۔ مگر ہندوستان سے بادشاہ کے لشکر آنے کی خبر نے تھڑدلوں کی دلنوازی
اور مخالفوں کی خاطر شکنی کی۔ مرزا نے یہ تدبیر کی، کہ قاضی خاں بدخشی کو کہ اس کے مخصوصوں میں
سے تھا اور علم و عقل میں ممتاز تھا۔ برسم رسالت منعم خاں کے پاس بھیجا۔ منعم خاں نے اس کے
ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اہل حصار پاس ذخیرہ بہت ہے اور اُنکی تعداد زیادہ ہے

منعم خاں کی تدبیر البتہ قابل شاباش ہے کہ باوجود کمال تنگی و بے سامانی کے ایسے دوربین ایلچی کو خلاف
واقع کمال استعداد اور فراخی احوال کا یقین دلایا۔ بعد اس کے منعم خاں نے فرستادہ کو واپس کیا اور
یہ پیغام کہلا بھیجا کہ حصار کے اندر اس قدر آدمی ہیں کہ میں باہر آن کر لڑ سکتا ہوں مگر احتیاطاً نہیں لڑتا
برسوں کا سامان قلعہ داری اور آذوقہ موجود ہے۔ سوائے اس کے ہندوستان کا لشکر مور و ملخ سے
زیادہ چلا آتا ہے تو اپنے اندیشۂ ناصواب سے درگزر اور کافر نعمتی میں اپنے تئیں خاص و عام میں انگشت نما
نہ کر۔ مرزا کو یہ خیال تھا کہ قلعہ میں آذوقہ کم ہے اور یہاں کے آدمی بادشاہ سے کہ لڑکا ہے بے وفائی کر گئے
مگر ایلچی کی زبانی یہ حال سنکر اس کو ناامیدی ہوئی۔ قاضی خاں کو پھر قلعہ میں بھیجا۔ ان شرائط پر صلح
کی۔ اول اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ دوم یہ کہ آب باراں سے بدخشاں تک اس سے متعلق ہو۔
منعم خاں نے شرائط کو قبول کر لیا۔ اس کا خطبہ پڑھا۔ اور یوں اپنا پیچھا اس سے چھڑایا۔ مرزا نے مقدم بیگ
کو آب باراں کا منتظم مقرر کیا۔ خود بدخشاں چلا گیا۔

کابل کو جب مرزا سے نجات ہوئی تو بیگمات ہندوستان کو روانہ ہوئیں اور بادشاہ کی خدمت میں آگئیں۔
خرد سال بادشاہ کو تخت نشینی کی ابتدا میں چند روز تک میدان جنگ میں صرف ایک ہی اپنا دشمن سکندر سور
معلوم ہوتا تھا جس کے برباد کرنے کے لئے بادشاہ نے اسے بھیجا تھا پھر اس نے خود اس کے استیصال
کے واسطے اپنا لشکر بھیجا۔ پنجاب کا قبضہ میں رکھنا مقدم تھا پھر کابل میں ہنگامہ برپا ہونے کی خبر آئی۔

ہیمو بقال

یک نہ شد دو شد۔ ابھی بادشاہ کی خاطر جمعی کہ چاہئے مہمات سکندر سے فارغ نہیں ہوئی اور کابل کی طرف
نگراں تھی کہ ۰ ذی الحجہ کو جالندھر میں اس پاس خبر آئی کہ دار الملک دہلی کو ہیمو نے لے لیا۔ اس کا مجمل
بیان یہ ہے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ ہیمو نے ابراہیم کو کہ مدعی سلطنت تھا لڑائیاں لڑا کر شکست دی
اور سب جگہ غالب آیا سلطان محمد کو جس نے اپنے تئیں سردار بنایا تھا شکست دیکر ملک عدم کو روانہ کیا۔ تاج خاں
کرانی اور رکن خاں لوحانی کو جنگوں میں ہزیمت دی۔ غرض بائیس لڑائیوں میں سلطان عدلی شاہ کے
مخالفوں پر یہ بنیا فتحیاب ہوا اور غالب رہا۔ ان کامیابیوں سے اس کے دل میں سلطنت کی ہوس
پیدا ہو گئی۔ جب ہمایوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو وہ اور مشاغل میں مشغول تھا مگر جب شہنشاہ اکبر

تخت پر بیٹھا تو شاہ عدلی کو چنار گڑھ میں اُس نے چھوڑا اور خود آگرہ کو بے محاصرہ و جنگ کے لیتا ہوا دہلی
کی طرف متوجہ ہوا۔ آگرہ میں سکندر خاں حاکم تھا وہ جدا ہو کر اپنے آدمیوں کے ساتھ دہلی میں آیا وہ ہیمو سے
لڑ نہیں سکتا تھا اس لئے قلعہ سے بھاگا۔ ہیمو کے فوج نے تعاقب کر کے اُسکی فوج کے دو تین ہزار آدمی
زخمی و قتل کئے کچھ بھاگے کچھ دریا میں ڈوبے۔ اور اٹاوہ سے میاں خاں۔ کالپی سے عبداللہ خاں اوزبک
اور بیانہ سے حیدر محمد خاں دہلی میں آ گئے۔ صلاح وقت دیکھ کر تمام سرکاروں اور صوبوں سے امرا دہلی میں
مجتمع ہوئے۔ دہلی میں تردی بیگ ناظم تھا اُس نے سامان پیکار تیار کیا۔ اور جانفشانوں کو مملکت کی سب
طرفوں سے اکٹھا کیا۔ علی قلی شیبانی کے سوا سب ہی امرا اسمیں شریک ہوئے۔ علی قلی کے شریک نہ ہونے کا
یہ سبب تھا کہ شادی خاں نے جو شاہ عدلی کے امرا بزرگ میں سے تھا اور سرکار سنبل کے اکثر پرگنے
اسی کے تصرف میں تھے اسکے دفع کرنیکے لئے وہ متوجہ ہوا تھا اور اُس نے اپنے ملازموں محبت خاں لطیف خاں
غیاث الدین کو اپنے سے پہلے بھیجا تھا کہ آب رہب سے گزر کر اسکے آنے کے منتظر رہیں مگر یہ جماعت اپنی مردانگی
کے نشہ میں ایسی مست تھی کہ تدبیر احتیاط سے ہاتھ اُٹھایا۔ ناگہاں شادی خاں نے اُن پر حملہ کیا۔ ان معاملہ
نافہموں نے بے ڈھنگی جنگ کی اور شکست پا کر بھاگے۔ لطیف خاں مع ایک جماعت کے دریا میں ڈوب مرا۔
علی قلیخاں نے اس سانحہ کی خبر سنکر بادشاہ کے امرا کے ساتھ جو اسکی کمک کے ساتھ مشورہ کر کے شائستہ آئین
کے ساتھ شادی خاں سے لڑنے کو روانہ ہوا۔ جس روز کی صبح کو لڑنے کا اُس نے ارادہ کیا تھا اُس کی شب کو
تردی بیگ کا نوشتہ آیا کہ ہیمو چلا آتا ہے اسکے ساتھ ساز و سامان جنگ بہت ہے۔ مناسب وقت یہی ہے کہ اول
اسکے آشوب کو دُور کریں۔ یہ امر سب مہمات میں اہم ہے فوراً یہاں چلے آؤ۔ علی قلیخاں نے اپنے کام کو چھوڑا
دہلی کی طرف چلا۔ پہلے اس سے کہ وہ دہلی پہونچے۔ پیر محمد شروانی اندیشہا، تباہ ساتھ لے کر دہلی میں آیا۔
ہیمو کے پاس پچاس ہزار سوار۔ ہزار فیل۔ اکاون کمان۔ پانسو توپیں تھیں۔ اسلوا ہی نکامیابیوں کے
سبب سے اپنی بزرگی پر گھمنڈ تھا۔ بادشاہ کو لڑکا سمجھا تھا۔ سہ شنبہ غرہ شہر ذی حجہ ۹۶۳ھ کو ہیمو دہلی کے
نزدیک آیا۔ اور تغلق آباد کے حوالی میں اُترا۔ تردی بیگ نے بھی دہلی میں ثبات قدمی کی سب طرح کی
مستحسن تدبیریں کیں اور امرا، خوانین کو باہم جمع کر کے بزم مشورہ آراستہ کی۔ یہ شیر مرد تو احتیاط کے سبب سے

اور شتر دل بیدلی کی وجہ سے جنگ پر راضی نہ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمکو مناسب ہی کہ جبتک شاہنشاہ نہ آئے
جس طرح سے ہوسکے قلعہ کو استحکام دیں اور شبخوں کے مارنے کی گھات میں بیٹھے رہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا
تھا کہ علی قلی خاں اور اس حدود کے امرا کے آنے تک جنگ کو موقوف رکھنا چاہیئے۔ ایک گروہ بہادروں
کا جن کو معرکۂ رزم عشرت گاہ بزم سے زیادہ ترخوش معلوم ہوتی ہی کہتا تھا کہ کارزار کرنے میں زیادہ توقف
کرنا نہیں چاہیئے ؎ زمانہ ازاں کس تبرا کند ÷ کہ او کار امروز فردا کند۔ آخر یہی رائے قرار پائی اور
سب جنگ پر دل نہاد ہوئے۔ چہارشنبہ دوم ذی حجہ دونوں طرف کی فوجیں آراستہ ہوئیں۔ قول نے
تردی بیگ کی شہامت سے انتظام پایا اور اسی قول میں یہ امرا بھی شریک ہوئے افضل خاں و اشرف خاں
و مولنا پیر محمد شروانی کہ برسم وکالت بیرام خاں کی جانب سے انتظام مہام کے لیئے آیا تھا یا اس شرارت کے
ارادہ سے کہ تردی بیگ کے ہنگامہ آراستہ کو برہمزدہ کرے اور بنے بنائے کام کو بگاڑے۔ حیدر محمد خاں و
قاسم مخلص۔ حیدر بخشی و علی دوستخاں باربیگی اور ایک اور جماعت نے برانغار کو استحکام دیا تھا اور اسکندر خاں
اور ایک اور جماعت نے جرانغار کو زینت دی تھی۔ عبداللہ اوزبک وقیا خان۔ لعل خان اور ایک اور جماعت
ہراول میں معرکہ آرائی کرتی تھی۔ ہیمو کی جانب بھی سپاہ جیسی کہ نبرد کے لئے آراستہ ہونی چاہیئے آراستہ
تھی۔ طرفین کے بہادر کارزار میں، جان لڑاتے تھے۔ تردی بیگ کے لشکر ہراول اور جرانغار نے اپنی
مردانگی سے غنیم کے ہراول اور برانغار کو اپنے آگے سے ہٹا دیا۔ اور بہت کچھ غنائم کو حاصل کیا۔ چارسو ہاتھی
چھین لئے حسین خاں جلوانی کو کہ مخالف کے امراء عظام میں سے تھا فنا کیا۔ تین ہزار سے زیادہ مخالفوں کے
آدمی مارے۔ ہیمو نے سو ہاتھی منتخب کرکے ایک بہادر لشکر لیا اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ بادشاہی لشکر
کا ایک گروہ بھگوڑوں کے پیچھے گیا اور ایک گروہ لوٹ پر جھک پڑا۔ تردی بیگ خاں پاس تھوڑے
آدمی تھے۔ وہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ کہ ہیمو نے اُس پر بہادرانہ حملہ کیا اُس کے ساتھیوں نے یاوری نہیں
کی۔ مولنا پیر محمد خاں شروانی نے بھی اس لیے کہ سپہ سالار تردی بیگ کو شکست ہو فرار اختیار کیا۔
تردی بیگ نے بھی جان کو عزیز رکھکر بھاگنے سے عار نہ کیا۔ فتح کی صورت بگڑ گئی شکست ہوئی دانشوروں
کے اس تجربہ پر کسی نے نظر نہ کی کہ ان شیر دلوں کی نسبت جو پیکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ گریزندہ زیادہ

زخمی ہوتے ہیں۔ بہ نسبت اُن جوانمردوں کی جو حریص مرگ ہوتے ہیں اور بیباک جنگ کرتے ہیں وہ لوگ جلد ہلاک ہوتے ہیں کہ جان کو عزیز سمجھتے ہیں اور موت سے بھاگتے ہیں۔ ہیمو نے تردی بیگ کا تعاقب نہیں کیا کہ وہ اس کے بھاگنے کو خداع عظیم جانتا تھا۔ بہادر کہ ہیمو کے لشکر مفرور کے تعاقب میں گئے تھے وہ بھی تردی بیگ کی راہ پر دوڑے۔ ہیمو دارالملک دہلی میں داخل ہوا اور اپنا لشکر دہلی میں جمایا۔ اور راجہ بکرما جیت لقب رکھا۔ اور ہندوستان سے مغلوں کے بالکل استیصال کرنے کا عزم جزم کیا تردی بیگ اور امراء یہ کر سکتے تھے کہ علی قلی خاں شیبانی اور امراء و سرداروں کو متفق کرکے شکست کا تدارک کرتے یا حوالی دہلی میں رہ کر بادشاہ کی کمک کا انتظار کھینچتے۔ مگر ان کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا۔ سیدھے سرہند کو بھاگے اور ملک کو دشمن کے لئے خالی چھوڑ گئے جس کو اس نے بے تکلف لے لیا۔ میرٹھ میں علی قلی شیبانی کو یہ خبر ہوئی وہ تنہا ہیمو سے نہیں لڑ سکتا تھا اس لئے وہ بھی سرہند میں چلا آیا۔ جب جالندھر میں بادشاہ پاس اس حادثہ کی خبر پہنچی تو وہ سنکر گھبرایا اور کیوں نہ گھبراتا آخر کم عمر تھا۔ تمام امیروں کے آنکھوں کے سامنے ہمایوں کا زمانہ آگیا۔ اور جب یہ اور سنا کہ ہیمو کے پاس لاکھ سپاہیوں کی فوج اور ہزار ہاتھی ہیں اور یہاں ساری کرامات بیس ہزار سپاہ ہے تو اور بھی جان نکل گئی سب امراء کہنے لگے کہ ایسی حالت میں مقابلہ کرنا اپنی جان سے ہاتھ دھونے ہیں۔ بہتر ہے کہ جنت مکانی کی طرح کابل کو ہم سب جائیں اور وہاں سے دوسرے سال سب سامان درست کرکے آئیں اور ہیمو سے بدلہ لیں۔ جب اکبر نے یہ حال دیکھا کہ سوائے پنجاب کے سارا ملک افغانوں کے قبضہ میں چلا گیا ہے اور اب امیروں کے دل ہارنے سے پنجاب بھی ہاتھ سے چلا تو وہ بڑا دلگیر ہوا اور بیرام خان کو خان بابا کہہ کے کہنے لگا کہ میں نے اپنے تمام ملکی و مالی مہمات کا مدار آپ کی صلاح و مشورہ پر رکھا ہے جو کچھ صلاح دولت ہو وہ عمل میں لائیں۔ اور میرے حکم پر موقوف نہ رکھیں۔ خان بابا نے کہا کہ حضور کا سارا دربار میرے دشمنوں سے بھرا پڑا ہے بھلا میری کون سنے گا ورنہ اس معرکہ کا سنبھال لینا کون بڑی بات ہے۔ اس پر اکبر نے ہمایوں کی روح کی اور اپنے سر کی قسم دی کہ آپ کسی دشمن سے نہ ڈریں اور یہ مصرع پڑھا ؎ دوست گر دوست بود ہر دو جہاں دشمن باش۔ یہ سنکر بیرام خاں نے انجمن امراء جمع کی۔ یہ مقولہ سچ ہے کہ ضرور نہیں کہ مشورہ کاروں کے مجمع میں ہمیشہ اتفاق ہو۔

بیرام خاں کی اطاعت ۹۶۴ھ سے ۹۶۷ھ تک سلطنت جلوس [margin note]

اکثروں نے بالاتفاق کہا کہ اس اجنبی ملک میں اپنے تئیں ہاتھیوں کے پاؤں تلے کچلوانا اور اپنا گوشت چیلوں کوؤں کو کھلانا کیا عقل کی بات ہے۔ بہتر ہے کہ کابل چلیں۔ سال آیندہ میں آنکر ہیموسے لڑیں بھڑیں اس پر بیرام خاں نے کہا کہ جس ملک کو دو دفعہ لاکھوں جانیں دیکر لیا ہو۔ اس کہ نامردی سے چھوڑکر چلے جانا ڈوب مرنے کی جگہ ہے۔ بادشاہ تو ہنوز بچہ ہے اس پر کون الزام لگائے گا۔ مگر سفید بالوں پر دو سیاہی کا وسمہ لگے گا۔ دہلی کو ہم نے دو دفعہ کھویا اور لیا۔ خواہ کچھ ہی جان جوکھوں کیوں نہ ہو اسکو لینا ضرور ہے اصل دہلی ہے۔ کابل اسکے آگے بے اصل ہے۔ دہلی اگر پاس ہو تو کابل کا لے لینا کیا بات ہے۔ خاقان اکبر نے باوجود صغرسنی کے زبان سے فرمایا کہ ہاں ہاں وہی کرنا چاہیئے کہ خان بابا کہتا ہے۔ اب ہم کہاں جائینگے بغیر لڑے بھڑے مرے مارے ہندوستان نہیں چھوڑینگے۔ غرض اس نوعمر بادشاہ کی باتوں نے کہنہ سال امیروں کے دلوں پر ایسی تاثیر کی کہ اُنکی رگوں میں شجاعت و غیرت کا خون جوش میں آیا اور سب تلواریں ٹیک کر کھڑے ہوگئے۔ بیرام خان اور اکبر نے اس وقت ہندوستان کی سلطنت کے آگے کابل کی ریاست کو ہیچ جانا۔ اُسکو معلوم تھا کہ ہیمو دہلی میں سلطنت جمانے کے لئے ضرور ہے کہ پنجاب کو فتح کریگا۔ اسلئے اُنھوں نے دہلی کے فتح کے لئے پیش قدمی کی۔ سلطان سکندر کی طرف سے بادشاہ کی خاطر جمع نہ تھی اسلئے خضر خواجہ خاں کو کہ سلاطین مغل کی نسل سے تھا اور بابر بادشاہ کی دختر گلبدن بیگم سے اُس کا نکاح ہوا تھا پنجاب کی پراگندگیوں کے دور کرنیکے لئے اور سکندر شاہ کے دفع کرنیکے واسطے متعین کیا۔ اور بادشاہ نے خود ہیمو کے قلع قمع کا قصد کیا۔ اسلئے تردی بیگ خاں اور اور امرا کے کے نام فرمان جاری کیا کہ وہ قصبہ تھانیسر میں اس سے ملیں اور اُنکی دلدہی بھی کی کہ ایسے واقعات کے پیش آنے سے بیدل نہیں ہونا چاہیئے اور خود دسویں ذی حجہ یعنی عید قربان کے روز جالندھر سے چلا۔ ستلج سے عبور کرکے ۱۸ کو سہرند (سرہند) میں آیا۔ یہاں علی قلی شیبانی اور امرا شکست یافتہ فرمان بھیجنے سے سرہند میں آگئے۔ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ تردی بیگ کو بیرام خاں نے مار ڈالا اس کا حال ہم پیچھے لکھینگے اس عرصہ میں ہیمو دہلی میں اپنی بکرماجیتی کرتا رہا۔ اور سپاہ کو جمع کرتا رہا۔ جب اُسکو خبر پہنچی کہ اکبر سرہند میں آگیا ہے تو اُس نے اپنے توپخانہ کو پانی پت سے بھیجا جو دہلی سے

سے شمال میں تیس کوس کے ۵۳ میل فاصلہ پر ہے۔ اور خود مع سواروں پیادوں کے پیچھے جانے کا ارادہ کیا۔ مگر اکبر بھی پانی پت کی طرف سرہند سے چلا آتا تھا۔ احتیاطاً اس نے علی قلی خاں شیبانی کو دس ہزار سواروں کے ساتھ پہلے روانہ کیا تھا۔ علی قلی خاں پانی پت میں آیا اور جب اسکو خبر ہوئی کہ ہیمو کا توپخانہ وہاں آگیا ہے اور سپاہ بھی اُسکے ساتھ نہیں ہے تو وہ اس پر چڑھ گیا اور توپ خانہ چھین لیا اسکے ساتھ جو آدمی تھے وہ بے جنگ بھاگ گئے۔ ہیمو کو اس واقعہ سے بڑا افسوس ہوا۔ یہ توپیں اس پاس ترکی سے آئی تھیں اور وہ بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ اکبر اور بیرام روز پنجشنبہ دوم محرم ۹۶۴ھ مطابق ۵ نومبر ۱۵۵۶ء کو پانی پت کے میدانوں میں آئے تو اُنہوں نے دیکھا کہ ہیمو کی سپاہ انکی طرف حرکت کر رہی ہے۔ ہیمو نے اپنی سپاہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ دست راست کی سپاہ شادی خاں کاکر کو اور دست چپ کی اپنے بھائی رمن کو جو بڑا تیز چالاک بہادر تھا حوالہ کی اور تیسرے حصہ کا اہتمام خود لیا۔ بادشاہ کی سپاہ کے مقابلہ میں پانسو ہاتھی آئین جنگ کے موافق کھڑے کئے۔ یہ وہ ہاتھی تھے کہ ہندوستان کے بادشاہوں نے جمع کئے تھے۔ تیز پائی اور چرب دستی انکی مشہور تھی۔ وہ عمارات عالی کو اپنی ایک جنبش میں ویران کرتے تھے۔ اپنی کھلاڑیوں میں مضبوط درختوں کو جڑ سے اُکھیڑ کر پھینک دیتے تھے۔ میدان جنگ میں سواروں کو گھوڑوں سمیت سونڈیں اُٹھا لیتے تھے وہ ہتھیاروں سے سجے ہوئے تھے اُنکی سونڈوں پر دشنے اور حربے لگے ہوئے تھے۔ اُنکی پیٹھ پر رعد انداز اور تخش افگن بیٹھے ہوئے تھے۔ رجپوت و افغان تیس ہزار سوار ہیمو کے ساتھ تھے۔ شیرشاہ و سلیم شاہ کے وقت کے بڑے بڑے بہادر اپنے نامور ہاتھیوں پر سوار تھے اور ہیمو خود اپنے ایک بھاری ہاتھی پر جس کا ہوائی نام تھا سوار تھا اس نے اول بادشاہ کے ہراول سے میسرہ پر حملہ کیا اور اسکو پراگندہ کر دیا۔ اسکے ہاتھیوں سے بادشاہ کے میمنہ اور میسرہ کے قدم اُکھڑے اور بعض بڑے بڑے نامور بہادر قتل ہوئے۔ مثل محمد قاسم خاں نیشاپوری۔ حسین قلی خاں و شاہ قلی خاں محرم۔ لعل خاں بدخشی۔ بادشاہ کے لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے گھوڑے ہاتھیوں کے سامنے نہیں کھڑے رہتے تو وہ پیادہ پا ہو کر تلواریں ہاتھ میں لیکر دشمن پر چلے ہیمو کے افسران کو روک نہ سکے وہ خود قلب سپاہ پر جس میں بیرام خاں افسر تھا جھکا۔ اس جوانمرد جنگ آزمودہ سپہ سالار کی

سپاہ نے تیر اندازی کرکے سواروں کو گرایا۔ علی قلی خاں شیبانی کا لشکر ایسی جگہ مقیم تھا کہ وہاں ہاتھیوں کا گزر نہیں ہو سکتا تھا اس نے پیچھے جا کر تیر اندازی اور تیغ زنی کی۔ ہیمو قوی حملے کرتا تھا اور بادشاہ کے بڑے بڑے بہادروں کو پست پا کرتا تھا اسکی طرف سے بھی بھگوانداس جو بڑا تیز دست بہادر تھا اور شادی خاں دونوں ہلاک ہوئے۔ ناگاہ اس گیر و دار میں ہیمو کے ایک تیر ایسا لگا کہ اسکی آنکھ کو پھوڑ کر سر سے پار نکل گیا۔ اسکی سپاہ جو تک و تاز کر رہی تھی جب اُس نے دیکھا کہ دشمن کا تیر نشانہ پر لگا تو اُسکی ہمت شکستہ ہو گئی وہ پراگندہ ہوئی۔ اسی ہنگامہ میں شاہ قلی خاں محرم چند سپاہیوں کے ساتھ اس ہاتھی کے پاس پہنچا کہ جس پر ہیمو سوار تھا مگر اسکو معلوم نہ تھا کہ وہ اس پر سوار ہے۔ اس نے فیلبان کے مارنے کا قصد کیا کہ ہاتھی کو پکڑے سو فیلبان بیچارہ اپنی جان کے خوف کے مارے پکارا کہ ہیمو اسی ہاتھی پر سوار ہے۔ شاہ قلی خاں نے فیلبان کو امان دی اور انعام بادشاہی کا اُمیدوار کیا۔ اس ہاتھی کو اور چند ہاتھیوں کے ساتھ لیکر میدان جنگ سے جُدا ہوا۔ بعض لکھتے ہیں کہ ہیمو بیہوش تھا۔ ہاتھی کا فیلبان مارا گیا تھا بے سر ہاتھی جنگل کو جاتا تھا کہ شاہ قلی نے پکڑ لیا۔ جب ہیمو کے لشکر کو شکست ہوئی تو فیلبانوں کو تیروں سے بادشاہ کا لشکر مارتا تھا اور ہاتھی ہوا کی طرح بھاگتے تھے۔ اس لڑائی میں میدان جنگ میں پانچہزار آدمی ہیمو کے قتل ہوئے اور جو بھاگ کر مارے گئے اُنکا شمار معلوم نہیں۔ پندرہ سو ہاتھی بادشاہ کے ہاتھ لگے۔ اس عرصہ میں شاہ قلیخاں محرم ہیمو کو باندھ کر بادشاہ کے روبرو لایا۔ ہر چند اُس سے باتیں کیں مگر اس نے کسی بات کا جواب نہ دیا معلوم نہیں کہ جا نکر جواب نہیں دیا یا اسمیں جواب دینے کی توانائی نہیں تھی یا شرم کے مارے بات کرنی پسند نہ کی بیرام خان خانخانان نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اس کافر کو تلوار سے قتل کیجئے تاکہ مہر کے طغرا میں اسم مبارک کے ساتھ غازی کا لفظ زیادہ کیا جائے اور ثواب اعظم حاصل ہو۔ مگر اس رحم دل کم عمر بادشاہ نے فرمایا کہ اس بندھے ہوئے مردہ کافر کو مار کر غازی نہیں بن سکتا۔ غرض اس ثواب موہومہ کی اُمید میں بیرام خاں نے ہیمو کا سر تلوار سے جدا کیا۔ بادشاہ نے اُسکا سر کابل کے دربار اور دھڑ دہلی کے دروازہ پر لٹکانے کے لئے بھیجدیا۔ جہانگیر نے توزک جہانگیری میں اور ابو الفضل نے اکبر نامہ میں یہ ایک لطیفہ لکھا ہے کہ جب ہمایوں دار السلطنت دہلی میں اسکندر کی فتح کے بعد آیا ہے تو باپ کے استاذہ سے اکبر تصویر خانہ میں تصویر کی مشق کرتا تھا میر

سید علی مصور اسکو اس بدیع صنعت کی راہ روش تبلاتا تھا۔ ایک دن اُس نے آدمی کی تصویر بنائی جسمیں اسکے سب عضو عضو بند بند جدا بنائے۔ ایک شخص نے اکبر سے پوچھا حضور نے یہ کسکی تصویر بنائی ہی اس نے جواب دیا کہ ہیمو کی حال آنکہ اس وقت ہیمو کا نام و نشان بھی وہ نہیں جانتا تھا جبوقت بیرام خاں نے اصرار کیا کہ بادشاہ ہیمو کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں تو اُسوقت اُسنے اس تصویر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں پہلے ہی ہیمو کی بند بند جدا کر چکا ہوں۔

ابوالفضل نے ایک اور لطیفہ لکھا ہی کہ جب بادشاہ جالندہر سے ہیمو کے استیصال کے لئے چلا ہی تو ایک دن میر آتش کو حکم دیا کہ مسرت خاطر اور آدمیوں کے تماشہ کے لئے اقسام آتشبازی کو سرانجام دے اور ہیمو کی صورت کی آتش بازی بنا کے آگ لگائے تھوڑی دیر میں یہ گلزار آتش تیار ہوا۔ ہیمو کی صورت بھی آئی جس میں آگ لگائی گئی غرض بزم بازی میں اس نے پہلے ہی اپنے کشتنی بدخواہ کو سوختنی بنایا۔

پانی پت میں تیس برس پہلے اکبر کے دادا بابر کو نمایاں فتح حاصل ہوئی تھی اور اس سے پہلے اس کے جد امجد امیر تیمور صاحبقران کو اسی میدان میں ظفر نمایاں حاصل ہوئی تھی مگر نتیجہ ان دونوں لڑائیوں کا سوائے اسکے نہ تھا کہ ایک فتح حاصل ہوئی۔ مگر اکبر کو جو یہ فتح حاصل ہوئی تو اسکا نتیجہ اعظم یہ پیدا ہوا کہ اسکے خاندان نے ساری ہندوستان میں دو سو برس تک بڑی شان و شوکت سے سلطنت کی جب سے اسکا تنزل شروع ہوا کہ اسی پانی پت کے میدان میں شمال سے ایک حملہ آور نے آن کر اسی خاندان کی بادشاہ کو شکست دی اور بعد اسکے ایک بیگانہ قوم نے بحر اطلانٹک کے جزیرہ سے نکل کر اسکا کام تمام کر دیا قطع نظر اسکے اکبر کی اس فتح کو اسکے باپ دادا کی فتوح پانی پت پر اور طرح سے بھی فضیلت ہی۔ اس وقت ہیمو پاس وہ اسباب جمع تھا کہ ہندوستان کے فرمان فرماؤں کو میسر نہ تھا۔ سپاہیان کارطلب کا ہجوم۔ مبارزان کارزار کی فراوانی اسباب توپ خانہ کی افزونی۔ فیلان زبردست کی کثرت۔ امراء افغان کو جس میں مقدم شادی خاں میواتی تھا۔ ہیمو نے مناصب اضافہ کا اُمیدوار کیا تھا اور خزانہ کا مُنہ کھول دیا تھا۔ بہت انعام دیئے اور رہپاہ کی تسلی کی۔ اس کی سپاہ میں تیس ہزار افغان اور راجپوت تھے۔ شیر شاہ اور سلیم شاہ کے وقت کے بڑے بڑے بہادر اپنے ہاتھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ کی سپاہ میں

ہیموں کی اکبر کے ساتھ جنگ اور قتل

کل دس ہزار آدمی تھے جن میں پانچ ہزار قابل نبرد تھے اس قلیل سپاہ سے بادشاہ نے ہیمو کی کثیر سپاہ پر فتح پائی۔ امیر تیمور کو تو سلطان ابراہیم سے پانی پت کی لڑائی میں ۱۲۰ ہاتھی ہاتھ آئے شہنشاہ اکبر کو پندرہ سو اور اسی پر اور غنائم کا قیاس کرنا چاہیئے بڑا خزانہ اور جواہرخانہ ہاتھ لگا جو سپاہ کو تقسیم کیا۔ اور ہاتھی اور توپ خانہ سرکار شاہی میں داخل ہوا۔ یہ لڑائی جمعہ کے دن صبحکو ۱۰ ماہ محرم سنہ ۹۶۴ کو موضع کہروندہ میں واقع ہوئی جو پانی پت کے پاس ہے اور پہر وہاں ایک مشہور سرائے بنائی گئی۔ بگرفت ہیمورا۔ اس فتح کی تاریخ ہوئی۔

اسی فتح کے روز سکندر خاں اوزبک کو ہزیمت یافتوں کے تعاقب کے لئے اور دار الملک دہلی کی حراست کے واسطے روانہ کیا اُس نے کچھہ شریر و معطل آدمیوں کو زندان زندگی سے خلاصی دی اور ملک کی پراگندگی کا منتظم ہوا دوسرے روز بادشاہ ایک دن میں بغیر کسی مقام کے پانی پت سے دہلی میں آیا جہاں اس کا باپ تیس برس پہلے آیا تہا اور باپ اسکو چہوڑ کر بہاگا تہا۔ مگر اس طفل چہاردہ سالہ نے وہ اپنا کرشمہ دکہایا کہ اپنے باپ دادا پر سبقت لیگیا۔ دہلی میں ہر صنف و ہر طبقہ کے آدمیوں نے آن کر شکریہ ادا کیا یونس خاں قاقشال نے راجہ بہاری مل کا اخلاص جو اُسنے نارنول کے محاصرہ میں مشاہدہ کیا تہا بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے اُسکو طلب کیا جس روز کہ اور اُس کے اقربا بادشاہ سے خلعت رخصت لینے بارگاہ بادشاہی میں آئے تہے۔ بادشاہ مست ہاتھی پر سوار تہا شورش مستی میں ہاتھی جسطرف دوڑ جاتا تہا۔ آدمی ہٹ جاتے تہے مگر جب وہ ان راجپوتوں کی طرف گیا تو وہ اپنی جگہہ سے نہ ہلے جیسے کہڑے تہے ویسے ہی کہڑے رہے انکا اس طرح کہڑا رہنا اسکو بہت بہایا۔ راجہ سے اس نے فرمایا کہ ہم تجہکو نہال کرینگے چنانچہ ایسا ہی اسنے کیا جس کا ذکر آگے آئیگا فتح کی خوشی میں جشن ہونا شروع ہوا۔ انعام میں خزانے دیئے گئے جس جس گروہ نے کہ جاں سپاری میں ہمت دکہلائی تہی اُن پر طرح طرح کی نوازش کی گئی۔ شریف و وضیع و خرد و بزرگ کو عطایا دی گئیں۔ انہیں سے خان زماں خاں کے خطاب سے علی قلی خاں شیبانی سرفراز ہوا اور سرکار سنبل معہ میاں دوات کے کل پرگنات کے اسکو جاگیر میں دیئے گئے ان حدود کے انتظام کے واسطے اسکو رخصت کیا۔ عبد اللہ خاں اوزبک کو شجاعت خاں کا خطاب ملا و سرکار کالپی اسکو مرحمت ہوئی اسکندر خاں کو خان عالم کا خطاب ملا۔ پیر محمد خاں شروانی کو ناصر الملک کا خطاب عنایت ہوا اور اسکو اپنی خدمت میں رکہا۔ قیاں خاں کو دار الخلافہ آگرہ کی حدود کا انتظام سپرد ہوا۔ غرض ہر ناحیہ کا ایک منتظم بادشاہ نے مقرر کیا۔

اس اثنا میں خبر آئی کہ شیر شاہ کے غلام حاجی خاں نے الوار اور تمام میوات میں فساد مچا رکھا ہے بادشاہ نے مولانا پیر محمد ناصر الملک کو فوج دیکر اُس کی تادیب کے واسطے روانہ کیا ہے حاجی فقط اس لشکر کی ہیبت سے بھاگ گیا ساری میوات پر بادشاہ کا قبضہ ہوگیا۔ یہاں کی حدود میں ایک قصبہ دیونی ماچاری (ماجاری) نہایت مستحکم تھا۔ اس قصبہ میں ہیمو کا مال واسباب اندوختہ کیا ہوا موجود تھا۔ وہیں اس کے اہل و عیال تھے۔ اس کا باپ اسی برس کا بوڑھا زندہ تھا اس بڈھے نے بھی بادشاہ کے لشکر سے ایک کارزار کی جسمیں وہ گرفتار ہوا ناصر الملک نے اُس سے کہا بڑے میاں اب مسلمان ہو جاؤ اُس نے کہا کہ جس مذہب کی اطاعت میں میرے اسی برس گذری ہوں اس آخر وقت میں اُس سے مخالفت اور نئے دین سے موافقت نہیں کرسکتا اور فقط جان کے خوف سے بے سمجھے تمہارے طریقہ کو نہیں اختیار کرسکتا۔ اس جواب کا جواب مولانا پیر محمد تیغ زبان سے دیا اور اس کا سارا مال و اسباب اور اہل و اعیال و پچاس ہاتھی ساتھ لیکر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حاجی خاں اجمیر کو اپنا مامن سمجھ اور وہاں چلا گیا یہاں رانا کو جو اس رانا کا بیٹا تھا کہ بابر سے لڑا تھا طرح طرح سے تنگ کیا۔ آخر کو ان دونوں میں اجمیر کے نواح میں ہنگامہ کارزار گرم ہوا جس میں حاجی خاں اور اس کے وکیل مظفر خاں نے کارہائے نمایاں دکھائے۔ رانا کی کثرت سپاہ جس پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا کچھ کام نہ آئی اس نے شکست پائی اجمیر اور ناگور اور اسکی مضافات پر حاجی خاں کا قبضہ ہوگیا وہ بڑا صاحب اقتدار ہوگیا اسکے استیلا کی خبر سنکر محمد قاسم خاں نیشاپوری و سید محمود بارہہ۔ شاہ قلی خاں محرم اور ایک جماعت کو دفع کرنے کے لئے بادشاہ نے تعین کیا اب دوآبہ تو دشمنوں سے خالی ہوگیا یہ ملک میوات مطیع ہوا۔ زمینداروں کی تسلی و تشفی کے واسطے بادشاہ نے میواتیوں سے ناتہ رشتہ کرنا شروع کیا حسن خاں میواتی کے چچازاد بھائی جمال خاں کی دو لڑکیاں تھیں ایک کے ساتھ بادشاہ نے خود شادی کی اور دوسری کے ساتھ بیرم خاں کی شادی کرائی۔ اُسوقت یہ ناتہ رشتہ کرنا بھی انتظام ملک کے حق میں اکسیر کا حکم رکھتا تھا بادشاہ کا ارادہ تھا کہ ممالک شرقیہ ہندوستان کی طرف توجہ کرے کہ اس اثنا میں خبر آئی کہ نواحی لاہور میں نقیر خواجہ خاں اور سکندر سور کے مابین لڑائی ہوئی اور خواجہ کو شکست ہوئی وہ لاہور میں آگیا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے ہمنے پہلے لکھا ہے کہ پیر محمد خاں سے سلطان سکندر شکست پاکر جنگلوں اور پہاڑوں میں چلا گیا تھا اور خضر خاں خان سکندر شاہ کی مدافعت کے لئے مقرر ہوا تھا و دمع امرا انتظام کے جاکر لاہور میں رہتا تھا جب یہ خبر آئی کہ ہیمو نے دہلی فتح کرلی تو بادشاہ دہلی کی طرف متوجہ ہوا۔ ملا عبد اللہ سلطان پوری نے سکندر شاہ کو یہ مقدمات لکھ بھیجے کہ پہاڑوں سے نکلو۔ پنجاب کو لیلو

میوات پر قبضہ

ہیمو کے اہل و عیال کی گرفتاری ۹۶۴ھ

بادشاہ کا دہلی سے پنجاب میں جانا

یہ خوب موقع ہے اُس ملا کو افغانوں نے تو شیخ الاسلام کا خطاب دیا تھا اور حضرت ہمایوں نے اُس کو
مخدوم الملک بنایا تھا وہ ظاہر میں پادشاہ کی محبت کا دم بھرتا تھا اور دل میں افغانوں سے الفت رکھتا
تھا اُس کے کہنے سے سلطان سکندر نے پنجاب کے کوہستانی زمینداروں کو اپنے ساتھہ لیا پنجاب سے
روپیہ خوب وصول کیا خضر خواجہ خاں لاہور کو حاجی محمد خاں شیبانی کو سپرد کر کے خود سکندر سے لڑنے
گیا۔ دو ہزار منتخب سپاہی ساتھہ لیکر موضع جمباری میں کہ لاہور سے دس کوس پر ہے سکندر کے لشکر کثیر
سے جا بھڑا مگر میدان جنگ میں اُس کے آگے نہ ٹھیر سکا شکست پاکر الٹا لاہور میں آیا اس اثنا میں ملا
عبداللہ کی روبہ بازی کا حال حاجی محمد خاں شیبانی کو معلوم ہو گیا تو اُس نے ملا کو شکنجہ میں دھرا اور زمین
میں آدھا گاڑکر ساری عمر کا جمع کیا ہوا روپیہ اُس سے اوگلوایا غرض بڑی تعذیب سے اُس کی جان کو جسم
سے نکالا جب بادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو اُس نے بہت جلد سیالکوٹ اور اُس کے حدود میں سکندر خان عالم
کو خضر خواجہ کے اعتضاد کے لئے بھیجا مگر پنجاب سے امرا جو یہاں وارد و صادر ہوے اُنکی زبانی متواتر
بادشاہ نے سنا کہ سکندر خاں سور نے بڑا لشکر جمع کیا ہے اور مانکوٹ کو اپنا مامن بنایا ہے جہاں وہ
میدان میں شکست پاکر محفوظ رہ سکتا ہے فتح مذکور پانے سے اُس کے ہمراہیوں کی عزت بڑھ گئی ہے
جب تک بادشاہ وہاں نجائیگا یہ مشکل کام آسان نہیں ہوگا اس لئے بادشاہ نے ممالک شرقیہ
ہندوستان کی عزیمت موقوف کی یورش پنجاب کا ارادہ مصمم کیا بادشاہ کے آدمیوں نے دیوان لسان الغیب
میں فال دیکھی یہ بیت نکلی سکندر را نمی بخشند آبے ؎ بزور و زر میسر نیست این کار۔ اس سے بادشاہ
کے مخلصوں کو ایک اعتضاد ہوا۔ بالغ نظر تو فال کو کب معتبر جانتے ہیں مگر ایسے اوقات میں کہ خاطر مضطرب
ہوتی ہے ایسے تفاولات پریشان دلوں کو اطمینان دیکر خوش کرتے ہیں بادشاہ کا تو اس مقولہ پر جو اسکی
سلطنت کی جان تہی عمل تھا کہ جو کام کیا جائے وہ پورا کامل طور پر کیا جاوے۔ غرض چہارم شہر صفر ۹۶۳ھ کو
مہدی قاسم کو دہلی میں چھوڑ کر اور خود پنجاب کی طرف روانہ ہوا منزل بمنزل آہستہ شکار کھیلتا ہوا چلا۔ ترک تاجیک
فوج فوج اسکی خدمت میں چلے آتے تہے خصوصاً کابل و قندھار و بدخشان سے جدید و قدیم ہوا خواہوں کی جمع
کثیر اُس کی درگاہ میں آئی جب جالندھر کی حدود میں بادشاہ آیا تو سکندر نے اس نواح میں فتنہ دنیا در پا
کر رکھا تھا وہ کوہ سوالک میں چلا گیا۔ بادشاہ کو اسکے فتنہ کا مٹانا منظور تھا اُس نے راہ کی دشواری کی پروا
نہ کی وہ سکندر کے پیچھے کوہ سوالک میں چلا گیا یہاں کا عالم ہی اور تھا وہ ہندوستان کے خود سروں اور

گردہن کشنوں کی گریزگاہ تہا قصبہ دسوہہ میں پہنچا اور پھر قصبہ دھمری میں آیا یہاں جشن نوروزی تہا جس سے سال دوم الٰہی شروع ہوا (سال الٰہی ہر جشن نوروز سے شروع ہوتا ہے) یہاں بادشاہ پاس یہ خبر آئی کہ سلطان سکندر کوہ سوالک میں اسلئے بھاگ آیا ہے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ بادشاہی لشکر کو پہاڑ کی تنگ راہوں سے جکڑ دیں نہیں لاکر تسکار کر دیں مگر بادشاہ نے اس بات کی کچھہ پروانہ کی اور ناصر الملک کو بہادروں کی جماعت کثیر کے ساتھہ روانہ کیا کہ اس پہاڑ کے زمینداروں کو تاخت و تاراج کرے اسنے تھوڑے عرصہ میں پہاڑ کے بہت سے راجاؤں کی تنبیہ و تادیب کی اور سب ان کا مال و اسباب لوٹ لیا سکندر پاس جو کوہستان کی جمعیت تہی وہ پریشان اور بے جنگ فرار ہوگئی بادشاہ ان بھگوڑوں کے پیچھے روانہ ہوا تو یہ مان کوٹ میں سکندر چلا گیا۔ مان کوٹ کا قلعہ چار استوار قلعوں سے بنا ہے سلیم خاں نے اسوقت کہ گکھروں کا استیصال اسکو منظور تہا ان کو قریب قریب پہاڑیوں پر عجیب و غریب طرح سے بنایا ہی ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک قلعہ سنگ و ساروج سے بنایا ہے یہ سب قلعے دیکھنے والے کو ایک ہی قلعہ معلوم دیتا ہے اصل وہ جگہہ جہاں قلعہ بنائے ہیں ایسی محکم ہے کہ اسکو قلعہ خداداد کہنا چاہئے اور اس پر یہ مستحکم قلعہ بنائے ہیں وہ دشمن کو اپنی بڑی ہولناک شکل دکہاتے ہیں اس پر لشکر کا پہنچنا مشکل اور اگر پہونچ بھی جائے تو وہاں کے رہنے والوں کو زیر دست بنانا بہت دشوار۔ میٹھا پانی وہاں کثرت سے آذوقہ جسقدر چاہئے آسانی سے میسر۔ ان قلاع عظیمہ کے بنانے سے سلیم شاہ کا اصلی مطلب یہ تہا کہ جب ہمایوں ہندوستان کو جائے تو وہ لشکر پنجاب سے لئے اسے مقر و مامن بنائے اور لاہور اجاڑ کر وہاں بسائے اور وہاں بڑا لشکر رکھکر پنجاب کی حدود پر فرمان روائی کرے اور لاہور کے خراب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر اقسام تجار و اصناف مردم کا مسکن تہا تھوڑی توجہ سے وہاں لشکر عظیم اور اس کا سارا ساز و سامان میسر ہو سکتا تہا اسکو خوف رہتا تہا کہ خاندان تیمور کا لشکر وہاں استعداد فراہم نہ پہنچائے جسکا علاج کچھہ نہو سکے مگر یہ ارادہ اس کا موت نے پورا ہونے نہ دیا۔

جب شہنشاہ اکبر کو یہ معلوم ہوا کہ اس قلعہ میں سکندر متحصن ہے تو اس نے اس قلعہ کے محاصرہ کا حکم دیا بادشاہ کی فوج نے قلعہ کو گھیر کر اپنا دائرہ کا مرکز بنا لیا اور آداب قلعہ گیری کے موافق اپنے

مورچل بنائے۔ پہلے ہی دن قلعہ سے افغان باہر نکلے تھے کہ ادہم خاں نے اُن پر حملہ کرکے شکست دی
غرض ہر روز جنگ دوست سردار اور کار طلب زبردست پادشاہ کے مورچوں سے نکلکر پیشدستی میں
دست بردی کرتے تھے اور اہل قلعہ توپ و تفنگ کی مار سے کسی شخص کو قلعہ کے گرد نہ پھرنے دیتے تھے
محاصرہ کے لوازم بوجہ حسن سرانجام پاتے تھے اور مورچل اور سرکوب آگے بڑھتے جاتے تھے ناصر الملک کا
مورچہ سب سے آگے بڑھا ہوا تھا اس نے کارہائے نمایاں کئے تھے آٹھ مہینے تک لشکر شاہی اُسپر چھولا کیا
اور کچھ نکر سکا سکندر خاں کو یہ امید تھی کہ سلطان عدلی صرور مشرق سے ساز و سامان مہیا کرکے دہلی اور آگرہ پر چھاپا
مارینگا۔ پادشاہ کا لشکر اس طرف جائیگا یوں قلعہ مان کوٹ بچ جائیگا۔ مگر جب اُس نے سنا کہ سلطان عدلی حاکم بنگالہ
کے ساتھ لڑکر اس جہاں سے گذر گیا اور ہیمو بقال کا حال بھی یہی ہوا تو اسکو نا اُمیدی پر نا اُمیدی ہوئی اور محصنان
قلعہ پریشان خاطر و پراگندہ دل ہوئے۔ اس حالت یاس میں مجبور ہو کر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اپنے کاروان
معتمد بھیجکر التماس کی کہ پادشاہ سلامت اپنے معتمدوں میں سے کسی کو قلعہ کے اندر بھیجے کہ میری خاطر بیقرار کو تسلی
پذیر کرے مجھے لشکر پادشاہی کا ضمیمہ بناے پادشاہ نے اتگہ خاں کو قلعہ کے اندر بھیجا اسکے سامنے سکندر نے خجالت سر
پا ئیں[illegible] کیا کہ میں عقل عاقبت اندیش نہیں رکھتا تھا۔ کوتاہ بینی کی۔ میرا منہ نہیں ہے کہ پادشاہ کی ملازمت میں حاضر ہوں
میں اپنے بیٹے کو بندگی کے لئے بھیجتا ہوں اور امیدوار ہوں کہ کوئی جگہہ میرے۔ لئے نامزد ہو جاے کہ میں وہاں چند
روز رہ کر پھر پادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوں میں خدا کی قسم کہاتا ہوں کہ تا زندہ ام بندہ ام اس فرستادہ کی ملازمت
کے ساتھ خدمت کی اور ناصر الملک کے لیے جو خانخاناں کی وکالت رکھتا تھا[illegible] سلطنت تھا نقد و جنس بھیجے
اسلیئے مشار الیہ نے سکندر کی دولت خواہی سے اسکی التماس کا خلاصہ بیرام خاں سے عرض کیا۔ بیرام خاں نے اُسکو
پادشاہ سے عرض کیا پادشاہ نے اسکے لئے خرید اور بہار جاگیر میں دیے اُس نے اپنے بیٹے عبدالرحمن کو امرا،
معتمدین سے غازی خاں کی ہمراہ بھیجدیا اور پیشکش اور چند ہاتھی برگزیدہ اس باب بھیجے ، ۲۷ رمضان شنبہ کو قلعہ کی
کنجیاں اور یا اور دولت کی سپرد ہوئیں وہ حصار کے زنداں سے نکلکر خرید و بہار میں گیا اور یہاں سے دو سال بعد جہاں سے
گیا قلعہ مان کوٹ کی حراست ابوالقاسم برادر محمد قاسم موجی کو سپرد ہوئی چھ مہینے کچھ دن بعد کوہ سوالک سے ۲ شوال
کو پادشاہ لاہور میں آیا۔ یہاں کے ایام توقف میں یہ سانحہ پیش آیا کہ تہمل زمیندار قتل ہوا یہ زمیندار اپنی کمبختی سے

سکندر شاہ کی ہمراہ ہوا۔ زمینداروں کی اکثر یہ دستور و رسم ہے کہ وہ کسی کے ساتھہ محبت نہیں ہوتے سب طرف دیکھتے رہتے ہیں جس جانب کو غالب اور شورافزا جانتے ہیں اُسکی ہمراہ ہوتے ہیں جب جنت آشیانی کا انتقال ہوا سکندر شاہ سور نے ہنگامہ برپا کیا تو یہ اُس کے ساتھہ ہوگیا اور اُسکے ہنگامہ کو آرایش دی جب بادشاہی لشکر کو دیکھا کہ وہ قلعہ مان کوٹ کا محاصرہ کر رہا ہی اور اہل قلعہ پر بری بنی ہوئی ہی تو زمیندارانہ حیلے بنا کر لشکر شاہی سے آن ملا۔ بیرام خاں کو جب اس کے فساد برپا کرنے کی حقیقت معلوم ہوئی تو اُسکو مار ڈالا اور اس کی بجاے اُس کے بھائی اُنجمل کو مقرر کیا۔

بہادر خاں برادر زماں خاں جس نے زمین داور میں فتنہ و فساد اوٹھایا تھا شرمندہ و سرافگندہ زمین داور سے آن کر بادشاہ کا زمین بوس ہوا بیرم خاں کی سفارش سے بادشاہ نے اسکے اعمال ناشائستہ کی سزا دی مگر اس سفارش سے اس کی نخوت اور بدکاری اور بڑہ گئی عطوفت اصلی یہ ہی کہ آدمی کو بدکاری کی سزا دیکر اصلاح پر فیست کرے کہ بہر بدی اسکے گرد نہ پھرے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہی کہ جب حضرت ہمایوں نے ہندوستان کی طرف توجہ کی تو بیرم خاں کی جاگیر میں قندہار مقرر تہا وہ شاہ محمد قلاتی کے اہتمام سے آراستہ تہا۔ زمین داور بہادر خاں کی داوری کے لئے تفویض ہوئی تہی جب ہندوستان میں ہمایوں بادشاہ ہوگیا تو بہادر خاں نے قندہار کے لینے کا ارادہ کیا اول مکر و فریب سے چاہا کہ کافر نعمتی کرکے قندہار کو اپنے تصرف میں کرلوں مگر حرام نمکی سے کارکشائی نہوئی اس سرگزشت کی شرح یہ ہی کہ بہادر خاں نے اپنا راز سربستہ فرخ حسین پسر خواجہ قاسم ہزارہ بیگ کو دلا اور کئی مسلح آدمیوں کو اس کے گہر میں جو شہر قندہار کے اندر تہا چہپایا اور ایک دن مقرر کیا کہ دروازہ کے نگہبانوں کا کام تمام کریں۔ اور بہادر خاں بہی دروازہ ماشورہ سے آئے اور باہم اتفاق کرکے شاہ محمد کو مار کر قندہار پر قبضہ کرلیں مگر جس روز یہ کام ہونے کو تہا جاسوسوں نے اسکی خبر حاکم قلعہ کو پہنچا دی اسوقت ان آدمیوں کی گرفتاری کے لئے آدمی متعین ہوے سازش کرنیوالے سراسیمہ ہوکر دروازہ ماشورہ پر دوڑے وہاں دروازہ مقفل تہا قفل کو توڑ نہ سکے کچہہ خندق میں گرے کچہہ دیوار سے اپنے پانو سر کے بل گرے کچہہ بہاگ کر منافقین کے گہر میں چہپے جنکو تلاش کرکے شاہ محمد نے مار ڈالا جب بہادر خاں کا یہ داؤ نہ چلا تو وہ زمین داور میں آیا اور لشکر تیار کیا اور قندہار پر آکر لڑنا شروع کیا شاہ محمد نے سوچا کہ ہندوستان کی کمک تو بہت دور ہے فرمان روای ایران سے ملتجی ہوا کہ حضرت ہمایوں نے یہ قرار دیا تہا کہ فتح ہندوستان کے بعد قندہار شاہ ایران کی ملازموں کو حوالہ کیا جائیگا اگر آپ مناسب جانیں تو ایک جماعت کو بہیجدیں کہ وہ بہادر خاں کا بہی علاج کرے اور قندہار بہی

بہادر خاں کے حالات سنہ ۹۶۴ھ سنہ ۲ جلوس

آن کرکے لے شاہ ایران نے سیستان وغیرہ وگرم سیر سے تین ہزار ترکمان بسرداری علی یار بیگ افشار بھیجدئے
بہادر خاں کو اس لشکر کی خبر نہ تھی اس کے سر پر یہ بلائے ناگہانی آئی تو وہ اس سے سخت لڑائی لڑا دو دفعہ
وہ گھوڑے سے گرا آخر کو بھاگا زمین داور اور اس حدود میں ٹھیر نہیں سکتا تھا شرمندگی کا مارا پادشاہ کی خدمت میں
ملتان کوٹ میں آیا اس کو پادشاہ نے ملتان جاگیر میں دیا اور محاصرہ میں ایک مورچل اسکے سپرد کیا اُسنے
کام خوب کیا اسی طرح شاہ ملا قلاتی نے شاہ ایران سے کمک لیکر اور عہد و پیمان کرکے بہادر خاں کو ہزیمت دی مگر وہ
اپنے عہد و پیمان پر قایم نہ رہا پہلے شاہ ایران نے اپنے بھائی سلطان حسین مرزا کو ایک لشکر کے ساتھ قندہار لینے کیلئے بھیجا شاہ محمد لوازم
داری میں سعی کی اور قلعہ کے محاصرہ میں امتداد ہوا ایک دن بہادروں نے قلعہ سے نکل کے خلیفہ سا ہوکے
مورچہ پر حملہ کیا اسکو زخمی اور جمع کثیر کو قتل کیا سلطان حسین مرزا سے کچھ کام نہ بنا وہ قلعہ چھوڑ گیا۔ پادشاہ
ایران نے اور لشکر بہت سا بھیجا کہ کسی نہ کسی طرح قلعہ فتح ہو علی قلی خاں نے اس کا بیڑا اوٹھایا تھا اس نے
قلعہ کے لینے میں سخت کوشش کی مگر تیر و بندوق نے اسکو ملک عدم میں پہونچایا۔ ایران کے لشکر میں
تفرقہ پڑا سلطان حسین مرزا جو سراسیمہ قلعہ کے گرد بیٹھا تھا کہ اِسی اثنار میں شاہ محمد قلاتی نے پادشاہ پاس
اپنی عرضداشت بھیجی اور حقیقت حال پر آگاہ کیا پادشاہ نے جواب میں یہ حکم بھیجا کہ جنت آشیانی نے فتح
ہندوستان کے بعد شاہ ایران کو قندہار حوالہ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا جاتا ہے اور تو ناحق ایران کی
سپاہ سے لڑا اس کی عذر خواہی کرکے ہمارے پاس جلد آ یہی اُس نے کیا سلطان حسین مرزا کو قلعہ حوالہ کیا۔

حال آمدن مریم مکانی اور بیگمات کا آنا ۹۶۴ھ ۲ سنہ جلوس

اسی محاصرہ کے اثنار میں یہ خوش خبری آئی کہ مریم مکانی معہ اور بیگمات کے لاہور میں آگئیں ہیں اور
پادشاہ کے اشارہ کی منتظر ہیں ہم نے پہلے لکھا ہے کہ پادشاہ نے ان کے لینے کے واسطے اپنے معتمد بھیجے
تھے مگر اس آنے میں کچھ اس سبب سے توقف ہوا کہ کابل میں مرزا سلیمان کی شورش شروع ہوئی اور کچھ
اس وجہ سے کہ ہیمو کے ہنگامہ کی کابل میں بُری خبریں اُڑ رہی تھیں کابل کے دہلی دروازہ پر ہیمو کا سر
لٹکا تو سب طرح سے اطمینان ہوا [illegible] بیگمات کابل سے روانہ ہوئیں منعم خاں بھی انکے ساتھ ہوا اور محمد قلی خاں
برلاس کو کابل سپرد کیا مگر جب وہ جلال آباد میں آیا تو اوسکو تردی بیگ کا حال معلوم ہوا کہ بیرام خاں نے
اُسے قتل کیا اسلئے وہ اُلٹا کابل گیا اور محمد قلی خاں برلاس کو ہندوستان روانہ کیا راہ میں پادشاہ کی دو
اعیانی بہنوں کا انتقال ہوا پادشاہ ماہم انگہ کو جو اس کی آسائش گہوارہ سے آرائش تخت تک ہمیشہ ملازمت
میں رہی تھی اور نیک خدمتیں کرتی تھی استقبال کے ملئے لاہور بھیجا وہ لاہور جاکر ان بیگمات کو پادشاہ کے

لشکر کی طرف لائی۔ بادشاہ بھی محاصرہ بیرام خاں کو سپرد کرکے ایک منزل استقبال کو گیا۔ مریم مکانی نے اپنے نور بصر کو دیکھ کے آنکھوں کو روشن کیا۔ بڑی خرمی و خوش دلی ہوئی پھر بادشاہ لشکر میں آیا جہاں امتداد محاصرہ سے سپاہ دل تنگ ہو رہی تھی مگر بہت سی نئی سپاہ کے آنے سے اور اہل و عیال کے ہندوستان میں پہنچنے سے وہ تازہ دم ہوکے زیادہ قلعہ کشائی میں اہتمام کرنے لگے۔

خان زماں خاں نے رکن خاں نوحانی کو جو شاہ عدلی کے امراء بزرگ میں سے تھا شکست دی اور حدود سنبل میں گردن کشوں کو لکھنؤ تک مطیع کیا پھر حسن خاں بچکوتی کو دفعہ کیا۔ اس سرگذشت کا مجمل بیان یہ ہے کہ ہندوستان کے مشہور زمینداروں میں سے حسن خاں تھا اور وہ اپنی برادری اور خویشوں اور بادشاہی نوکروں میں ممتاز تھا اور ہندوستان کے فرماں رواؤں کے عہد میں مستحکم مقاموں میں رہ کر غارت و تباہ کرنے کے منصوبے باندھا کرتا تھا۔ جب بادشاہ قلعہ مانکوٹ کے محاصرہ میں مصروف ہوا تو وہ ایک لشکر گراں جمع کرکے سنبل کو غارت و تباہ کرنے لگا اور جلال خاں سور کو کہ افغانوں کے بڑے سرداروں میں تھا اپنا ساتھی بنا لیا۔ خاں زماں کو جب اس کا حال معلوم ہوا تو یہاں کے امراء بادشاہی کو ساتھ لے کر لکھنؤ سے باہر اس سے لڑا۔ حسن خاں پاس بیس ہزار سوار جنگی تھے۔ اور خاں زماں خاں پاس چار ہزار۔ مگر بادشاہ کی سپاہ کو فتح ہوئی۔ بہت غنیمت ہاتھ لگی اس نے دو ہاتھی جو بڑے نامی تھے وہ بادشاہ کی نذر میں بھیجے۔

فتوحات ۹۶۴ھ

سنہ ۹۶۴ھ میں جب بادشاہ دارالخلافہ آگرہ میں تھا تو اس نے سنا کہ افغانوں کی ایک ایک قوم ہے جس کو میانہ کہتے ہیں اس نے سرونج کی حدود میں فتنہ و فساد اٹھا کے شورش و آشوب کا ارادہ رکھتی ہے بادشاہ نے کمال خاں گکھر کو جو اس خدمت کی لیاقت رکھتا تھا بھیجا۔ اس نے جا کر ان افغانوں کو ٹھیک بنایا اور فتح و ظفر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں جلد آیا۔

سرونج کی فتح ۹۶۵ھ

مرزا عبداللہ مغل کی بیٹی سے کہ اصل نسل کی شریف تھی بادشاہ کا نکاح ہوا۔ بیرام خاں کو

مرزا عبداللہ مغل کی دختر سے پادشاہ کا نکاح ۹۶۴ھ

اس نکاح مین تامل اس سبب سے تھا کہ اسکی بہن مرزا کامران کی بیوی تھی اس لیئے وہ اسکو کانیہ سمجھتا تھا۔ مگر ناصر الملک نے اس کو سمجھایا کہ ایسے کامون مین توقف نہایت ناخوش ہے اس سمجھانے سے بیرام خان نے پادشاہ کے نکاح کا اہتمام خود کیا اور جشن شاہانہ مرتب کیا ہم نے پہلے لکھا ہے کہ مانکوٹ فتح کرکے ۲ شوال کو لاہور مین پادشاہ آیا کہ پنجاب کا شائستہ انتظام کرے وہ یہان چار مہینے چودہ روز رہا۔ ۵ اصفر ۹۶۵ھ دار الملک دہلی کو روانہ ہوا جب جالندہر مین آیا تو ہمایون کی بھانجی سلیمہ سلطان بیگم سے بیرام خان کا انعقاد کیا۔ ہمایون نے یہ نسبت ٹھیرائی تھی اور فرمایا تھا کہ ہندوستان کی فتح کے بعد بہ عقد نکاح ہوگا۔ اب بیرام خان نے نکاح کی درخواست پادشاہ سے کی اس نے نکاح کر دیا۔ ماہم آنگہ نے اس کا سارا اہتمام کیا۔ جمعہ ۵ ا جمادی الاخری پادشاہ دہلی مین دوبارہ آیا۔ خانخانان کہ مہمات و معاملات مالی و ملکی کا مالک تھا اور آیندہ اور دو سال تک رہا۔ اب ہم وہ تمام حالات لکھتے ہین جس سے بیرام خان کا زوال آیا ؛ ؛

بیرام خان کے ظلم و ستم۔ بادشاہ کے ساتھ کج خلقی

معلوم نہین کہ بیرام خان جیسے عاقل و دانشمند و فرزانہ کے دماغ مین اختیارات شاہانہ نے کیون فتور ڈالا کہ وہ ایسا غرور مین آگیا کہ اپنے سامنے کسی کو نہین دیکھ سکتا جس کسی کو دیکھتا کہ وہ میری ہمسری کا دعویٰ رکھتا ہے اس کا سر تن پر نہ رکھتا۔ اب ہم ان امیرون کا حال لکھتے ہین جنکو اس نے قید کیا۔ یا کسی طرح ذلیل کیا یا مار ڈالا ابو المعالی کے قید ہونیکا حال ۹۶۳ھ ۱۵۵۵ء مین ہم نے پہلے لکھا ہے اب تردی بیگ کے قتل کا بیان لکھتے ہین جسکے لکھنے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی اسی سنہ کا واقعہ ہے

مرزا تردی بیگ کا قتل ۹۶۳ھ ۱۵۵۶ء ۱ جلوس

تردی بیگ خان کو بیرام خان اپنا ہمسر سمجھکر ہمیشہ اسکی طرف سے اندیشہ مین رہتا تھا تردی بیگ بھی اپنے تئین لشکر شاہی کا سپہ سالار سمجھکر بیرام خان کے برباد کرنے کی تدابیر کے سوچ بچار مین اور وقت فرصت کے انتظار مین رہتا تھا۔ ہر ایک نے تعصب مذہب جو دین برانداز ہی متم دین سمجھکر ایک دوسرے کو پائمال کرنیکا ضمیمہ بنا رکھا تھا اور فرصت کی تلاش مین رہتا تھا۔ باوجود اس مخالفت کے جس کا منشا زنا فہمید گی تو ان مین

سردار تھا ایک دوسرے کو مکر و تزویر سے توقان کہتا تھا توقان کے معنی ترکی زبان مین ہمراہ (برادر
بزرگ) کے ہین تردی بیگ دہلی مین شکست کھا کر بادشاہ سے سرہند مین ملا وہ اپنے نزدیک تو یہ سمجھا تھا کہ
بھاگنے سے جان بچ گئی مگر یہ معلوم نہ تھا کہ خندق سے نکلکر کنوئین مین گرنا پڑے گا اور بیرام خان اسکی
جان کے لیئے عزرائیل بنے گا - اس شکست سے مرزا کی وقعت مین فرق آگیا تھا - رقیب کو یہ موقع خوب
ہاتھ آیا - اس نے مرزا سے دوستی اور محبت کو اور بڑھایا اور مولانا پیر محمد خان شروانی کی سعی سے اپنے
گھر مین بلایا اور طہارت کا بہانہ بنا کے خود تو خرگاہ سے باہر گیا اور مرزا کو یہان چھوڑ دیا - فرمان بردون نے
اُس کا کام تمام کیا اور مرزا کے رازدارون خواجہ سلطان دبیر منشی کو اور اسکے قریب کے قرابت دار خنجر بیگ کو
پکڑ کر قید کیا - بادشاہ اس وقت شکار مین مصروف تھا جب بادشاہ کو صورت واقعہ پر اطلاع ہوئی تو
ظاہر مین تو چین بجبین نہ ہوا لیکن دل مین اُس نے کہا کہ اسکا بدلہ خدا بیرام خان سے لیگا جب بادشاہ شکار
سے واپس آیا تو بیرام خان نے پیر محمد کی زبانی عرض کرایا کہ مین نے جو یہ دلیری کی کہ بغیر حضور کے حکم کے
تردی بیگ کو قتل کیا تو اس مین سوائے دولت خواہی درگاہ عالی کے کوئی امر اور نہ تھا - تردی بیگ نے
دیدہ و دانستہ فریب و بدنیتی سے فساد کے عار کو اختیار کیا اسکی بے اخلاصی اور نفاق سب پر ظاہر ہے
کہ اول سے آخر تک اس سے جیسے ناپسندیدہ حرکات صادر ہوئی ہین اگر ایسی تقصیرات کی سزا مین تغافل کیا
جائے تو مہمات مین خلل پڑتا ہے اس گستاخی سے کہ مین نے حضور سے اجازت نہین لی شرمندہ ہون - اس
جرأت کا سبب یہ ہے کہ مین جانتا تھا کہ حضور اپنے لطف و مروت کے سبب اسکے مارنے پر راضی نہین ہونگے
اس صورت مین آپ ضروری کام سے منع فرماتے پھر حکم کے خلاف کرنا گستاخی کو اندازہ سے بڑھا دیتا اور امتثال
امر موجب خلل ملک و فساد لشکر ہوتا امید ہے کہ نظر عفو سے یہ میرا کام منظور ہوگا اور بد درون عبرت پکڑ کر تقصیر
پر دلیر نہوون - بادشاہ نے بیرام خان کی معذرت کو قبول کر لیا اور اس کو بلا کر گلے لگایا اور کہا کہ بارہا
مین نے یہ کہا ہے کہ اختیار تمہارا ہے مگر خانخانان کی بیجا باتین بادشاہی امرا اور مقربین کو خصوصاً ماہم انگہ
کو نہایت ناگوار گذری اور وہ اس سے حسد کرنے لگے - فرشتہ نے لکھا کہ اتفاقات سے یہ بات سُنی گئی کہ اگر تردی بیگ
کو بیرام خان نہ مارتا تو لشکر چغتائی کا انتظام نہ رہتا - پھر شیر شاہ کا زمانہ آگیا ہوتا سچ ہے - ع کسے را کہ

مصاحب بیگ کا قتل ۹۶۵ھ

دیدی تیغ در جنگ پشت پوبکش گر عدو در مصافش نہ کشت ٭ تاریخ بدایونی مین لکھا ہے کہ نردی بیگ کے نفاق کو خانزمان اور گواہون کی شہادت سے بیرام خان نے بادشاہ کی خاطرنشان کر کے ایک طرح کی اجازت اسکے قتل کے لیے حاصل کرلی تھی تو قتل کیا۔ مصاحب بیگ پسر خواجہ کلان جو بادشاہ کی خدمت مین قرب موروثی رکھتا تھا اور اپنے حقوق سابق کے ادعا کے سبب خانخانان کی اطاعت مین سر نہ جھکاتا تھا اور اسکی ساتھ کچھ ادائی کرتا تھا یہ وہ اچھا نہ کرتا تھا۔ خانخانان اس کا تحمل نہ ہو سکتا تھا اس نے مصاحب بیگ کے پائون مین بیڑیان ڈال کر بیت اللہ بھیجنا چاہا۔ مگر ناصر الملک اس کے قتل پر مصر ہوا۔ آخرکار یہ قرار پایا کہ کاغذ کے پرچہ پر ایک طرف قتل دوسری طرف نجات لکھا جائے اور وہ اوچھال کر پھینکا جائے جو رخ اوپر آوے وہ حکم غیب سمجھا جاے۔ اس کے موافق عمل کیا جاے جب یہ کاغذ پھینکا گیا تو قتل اوپر آیا۔ اسپر عمل ہوا۔ واہ کیا انصاف ہوا۔ ایک بے گناہ کی جان لینا لڑکون کا کھیل جو تی کی چٹ پٹ کرنے کا ہو گیا۔ اس سے بھی اور امرا ناراض ہوئے۔ بادشاہ کو بھی ناگوار گذرا ؎ خطرہاست در قرب شاہان بسے کہ باشاہ خویشی ندارد کسے ٭

خواجہ جلال الدین محمود کا قتل

مصاحب بیگ کے بعد اس خواجہ کی موت آئی۔ وہ بادشاہ قلی تھا مزاج کا بیباک تھا کسی کی تواضع بے تقریب خوشامد و چاپلوسی نہین کرتا تھا۔ بزرگان نیا اپنے کام کی رونق کے لیے سب کو اپنی درگاہ کا چاپلوس بنانا چاہتے ہین اس سبب سے اکثر امرا اسکو دوست نہین رکھتے تھے۔ ظرافت و مسخراپن اسکی عادت میں داخل تھا۔ یہ عیب بزرگون کے لیے سب سے بدتر ہے۔ سب سرداروں سے ہنسی کرتا تھا بلکہ اس ظرافت مین جسکو نادان خوش طبعی کہتے ہین۔ دور دراز کار باتین کر کے زندگی بسر کرتا تھا۔ کوئی شخص نہین بچا تھا کہ پہلو مین سے ظرافت کا خار نہ لگایا ہو۔ محمد قلی خان برلاس نے اسکو غزنین کی حکومت دی تھی۔ ارباب غرض کو موقع ملا کہ منعم خان کی نظر سے برآشفتہ کیا۔ اس نے کسی انتقام دیرینہ کا فکر تازہ کیا۔ ہندوستان مین بیرام خان کی خاطر کو اسنے برہم زدہ کردیا اور اسکے قتل کے درپے ہوا وہ دور بینی اور نیک ذاتی کہان ہی کہ اپنے صاحب کی دولت کو منظور رکھکر بندہ ہاے کار آمد اپنی اغراض نفسانی کے واسطے تیر انتقام کا ہدف نہ بنائین اور اپنے سود و زیان پر نظر نہ کرکے ارباب استعداد کی برآمد کار کا ملاحظہ کرین۔ اب خواجہ حیران تھا کہ کیا کرون ہندوستان مین غنیم نو زمانے پیدا

بیرام خان کا استیلا۔ نہ ہندوستان مین آسکتا تھا۔ نہ کابل مین رہ سکتا تھا۔ بیوفائی کو وہ اپنا عار سمجھتا تھا کہ کسی اور راہ پر چلا جاتا منعم خان نے اسکی تسلی کے واسطے آدمی بھیجے۔ عہد و پیمان کرکے اُس کو بلایا اور رخصت کیا۔ پھر اشارہ کرکے اسکی آنکھوں مین نشتر لگوائے۔ مگر تقدیر سے ان نشترون سے اسکی آنکھون کی بینائی نہ گئی۔ وہ ہندوستان کو جاتا تھا کہ منعم خان نے آدمیون کو بھیجکر اس کو اور اس کے چھوٹے بھائی جلال الدین کو گرفتار کرا یا اور قید خانہ مین مقید کیا۔ اور اس دولتخواہ پادشاہ کا خون اپنی غرض کے لیئے کیا۔ بیرم خان نے بھی اس کے قتل کا فرمان درست کرکے یہان سے بھیجدیا۔ پادشاہ نے اس بے گناہ کے انتقام کو منتقم حقیقی کے سپرد کیا۔

فتنہ انگیز۔ ناتوان بین حسد پیشہ بے سعادت۔ کہ حقیقت مین فضلائے دلتنگ اور خدا سے بجنگ ہوتے ہین اور کوتہ نظری سے اورون کی شادی سے اندوہگین ہوتے ہین اور آدمیون کی غمگینی اور اندوہ سے شادمانی کرتے ہین۔ ایسے آدمیون نے بیرام خان کی خاطر کو پیر محمد خان سے متغیر کرا دیا۔ ناصر الملک فرط عقیدت و اخلاص سے دولتخواہی و کارگزاری کو مراسم بجا لاتا اور مہمات ملکی و مالی کو سر انجام دیتا۔ نہ خدمت گزاری مین چین جبین ہوتا۔ نہ دل مین کوئی گرہ رکھتا۔ اپنی درستی اور راستی پر اعتقاد رکھتا۔ ضرور ایسا شخص مرجع خواص و عوام اور محل اعتماد طوائف انام ہمیشہ ہوتا ہے۔ مگر نسبت سے حسد آلودہ دل اس سے خون ہوتا ہے۔ تیرہ رائے افترا اور بہتان اسپر لگا کے کارشکنی کرتے ہین۔ بزرگون کی خاطر تو بسبب افزونی مشاغل و عدم فرصت کے ان کمس طینتون کی تحسین سے پریشان ہوتی ہے۔ پیر محمد خان خلق کا ملاذ و معاذ بن گیا حسد پیشیون کا خون جوش مین آیا انھون نے سخن سازی و فتنہ انگیزی مین اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ بیرام خان کے انحطاط کا زمانہ قریب تھا۔ اس کا پیمانہ دولت عنقریب پر ہونے کو تھا۔ اسنے سر رشتہ تدبیر کہ انسان کا سر سامان ہے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ اور اپنے تئین اہل حسد کے ہاتھ مین حوالہ کیا۔ ناصر الملک کی بلند ہمتی کے کامون سے توہم مین پڑا۔ حسد پیشون۔ ناتوان بینون و خوش گویون کی حرف و حکایات سے اسنے اپنے مخلص کو جسکو آپنے خود معتبر کیا تھا۔ بغیر کسی ایسے امر کے جس سے وہ مستوجب عزل ہوتا معزول کیا۔ تقریب اس طرح

معزول ہونا ناصر الملک پیر محمد خان کا ۹۶۶ھ مطابق ۱۵۵۹ء

ہوئی کہ ناصر الملک بیمار ہوا۔ بیرام خان اسکی عیادت کو گیا۔ غلام ترک نے جو دربان تھا نادانستگی کے سبب
بیرام خان سے کہا کہ مین آپکے آنے کی خبر کرتا ہون یہ سُنکر خانخانان متغیر ہوا اور کہا ؎ بیلنے خود کردہ را
درمان نہ باشد ؛ ملا پیر محمد اس واقعہ سے واقف ہوکر گھر سے باہر دروازہ پر آیا۔ نہایت تواضع اور
تجالت سے عذرخواہی کرنے لگا کہ دربان نے حضور کو پہچانا نہین اس کے جواب مین بیرام خان نے
کہا کہ آپ نے تو مجھے پہچانا نہین آپ کا دربان مجھے کیا پہچانتا وہ گھر مین آیا۔ کچھ آدمی اس کے ساتھ
داخل ہوئے کچھ دہان ٹھیر کر تیوری پر بل ڈالے ہوئے باہر آیا۔ ناصر الملک کی فکر مین لگا۔ یار لوگ اپنی
موقع ہاتھ لگا انھون نے بہت باتین بنائین۔ خاصکر شیخ گدائی نے چندروز بعد اپنے نوکرون کے ہاتھ
ناصر الملک پاس بیرام خان نے پیغام بھیجا کہ تم طالب علمی اور فقیر کے لباس مین قندھار مین آیا تھا۔ چونکہ
آداب اخلاص مین تواپنے تئین صادق دکھلاتا تھا اور ہمیشہ خدمات پسندیدہ بجالاتا تھا تجھکو مراتب
ومناصب بزرگ پر سربلند کیا۔ ملائی کے پایہ سے سپہ آرائی کے درجہ پر پہنچایا۔ مگر تو تنک حوصلہ
تھا کہ ایک ہی ساغر مین بدمست ہوگیا۔ ہم کو خطرہ ہے کہ تجھسے مفاسد عظیمہ ظہور مین آئین گے جس کا
علاج دشوار ہوگا بہتر یہی ہے کہ پھر اپنے فقیری گدڑون مین گوشہ گزینی اختیار کرو علم ونقارہ
اور اسباب جاہ وجلال اور اپنے تکبر اور ترفع کے مواد حوالہ کرو اور اپنی اصلاح مزاج مین مشغول
ہوتا کہ اس کے بعد جو ہماری رائے مین آئے وہ ہم تیرے لیئے تجویز کرین پیر محمد ایک آزاد مرد تھا اس نے
کچھ پروانہ کی خوشی خوشی اسباب امارت واپس بھیجدیا اور شگفتہ خاطر ہوکر عزلت اختیار کی۔ پھر
بداندیشون کی کوشش سے بیرامخان نے اس کے ساتھ ایک جماعت کو ہمراہ کر کے قلعہ بیانہ مین بھیجدیا
وہان اس نے بعض آدمیون کی معرفت جو شرارت وخیرت مین متوسط الحال تھے سفر حجاز کی راہ
حاصل کی اور وہ گجرات کو روانہ ہوا وہ رادھن پور مین پہنچا تھا کہ مرزا شرف الدین حسین واد ہم خان کا
خط پہنچا کہ جہان ہو وہین ٹھیرجاؤ آگے نہ جاؤ۔ دیکھو پردۂ غیب سے کیا ظہور مین آتا ہے وہ الٹا پھر کر بیانہ
مین مقیم ہوا جب بیرام خان کو یہ حال معلوم ہوا شاہ قلی خان محرم وحرم خان کو ایک جماعت کے ساتھ بھیجا
کہ اس کو گرفتار کرین جب یہ جماعت وہان پہنچی تو طرفین مین جنگ ہوئی اتنے مین رات ہوگئی۔

بیرم محمد خان چند آدمیون کے ساتھ بھاگ گیا۔ سارا مال و اسباب اُس کا دشمنون کے ہاتھ آیا۔ القصہ بیرام خان نے اپنی بے پروائی سے حسد پیشون کے اغوا سے اس مخلص کاروان کو ہاتھ سے کھویا اور اپنے پانون مین آپ کلھاڑی ماری۔ بادشاہ اس قضیہ کو اغراض فاسدہ پر مبنی سمجھا اور اس کے بھی مکافات ایزد کارساز کے سپرد کی۔ بیرام خان پر اپنا ملال ظاہر نہین کیا۔ پیر محمد خان کے بعد بیرام خان نے حاجی محمد خان شیبانی کو کہ قدیم نوکرون مین سے تھا منصب وکالت تفویض کیا۔ اگرچہ اس وکالت کا اطلاق اسپر کیا جاتا تھا مگر معنے اس کے شیخ گدائی تھا۔ جو شیخ جمالی کنبوہ شاعر دہلوی کا صاحبزادہ تھا۔ ہمایون کی شکست ثانی کے بعد جب بیرام خان گجرات مین گیا تھا تو شیخ نے اسکے ساتھ ان ایام عسرت مین سلوک کیا تھا اسکے عوض مین بیرام خان نے بھی شیخ کو ہندوستان کے تمام اکابر پر تقدیم دیکر منصب جلیل القدر صدارت کا اس کو دیا تھا۔ اسکے گھر سماع مین جو بڑی پر تکلف ہوتی ہوتی نذر و نیاز تھی خانخانان اور خود شہنشاہ جایا کرتے تھے۔ دنیا عجب مرد افگن بادہ ہے اس نے شیخ کو بھی چت کیا۔ مساکین و ضعفا کے ساتھ توجہ کرنی چھوڑی۔ قدیم خاندانون کی آراضی معاش و اوقات پر قلم مارنا شروع کیا۔ تکبر کہ قدیم دوستون کا بنیاد افگن ہے تو نئے دوستون کا ذکر تو کیا ہے وہ اختیار کیا اور اپنے تئین اور اپنے مربی کو پایہ والا ہے نیچے گرایا اس کا حال آگے پڑھو۔

بادشاہ شکار کھیلنے گوالیار گیا وہان اُس سے شکاریون نے عرض کیا کہ شیخ محمد غوث کے ہمراہ سوداگران بہت گائین آگرہ مین لائے مین بادشاہ نے حکم دیا کہ بہت کر گائین سوداگرون سے خریدی جائین۔ پھر لوگون نے کہا کہ شیخ محمد اور اسکے عزیزون پاس سوداگرون کی گایون سے بھی بہتر گائین ہین۔ اگر مراجعت کے وقت اسکے گھر حضور تشریف فرما ہون تو وہ ان گایون کو حضور کی نذر کرے گا۔ آگرہ مین بادشاہ اُس کے گھر گیا۔ شیخ نے اس کے قدمون کو بیرام خان کی آفت کا خبر جانا۔ اور کل اپنی گائین اکبر کے بہت سے تحفے تحائف پیش کش مین دیئے اور حلوے اور عطریات حاضر کئے۔ آخر مجلس مین بادشاہ سے شیخ نے پوچھا کہ آپ نے کسی کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے بادشاہ نے جواب دیا کہ نہین۔ شیخ نے اپنا ہاتھ دراز کرکے بادشاہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ما دست شما را گرفتیم اُس وقت بادشاہ نے مروت و حیا کے سبب سے

شیخ محمد غوث [illegible] ۱۵۵۹ء

کچھ نہ کہا مسکرا کر چلا آیا مگر رات کو جب بزم جام و بادہ مرتب ہوئی تو گایون کے لینے پر اور شیخ کی
درازدستی پر بڑے قہقہے اڑے ؎ بزیر دلق ملمع کمندہا دارند * درازدستی این کوتاہ آستینان
بین * شیخ کا بڑا بھائی بہلول (پھول) تھا جس کا ذکر پہلے ہوا ہے کہ مرزا ہندال نے اس کا
خون اپنی گردن پر لیا تھا۔ دونون بھائی اگرچہ فضائل و کمالات علمی سے عاری تھے مگر بعض اوقات
پہاڑون مین جاکر ریاضات و دعوات اسما کرتے تھے اور اس کو اپنے جاہ و جلال کی دستاویز
بناتے تھے۔ امرا سادہ لوح زود فریب کے وساطت سے سلاطین کی صحبت مین جاتے تھے اور اپنی
ولایت کی متاع بیچتے تھے۔ برادر کلان ساری عمر بادشاہ ہمایون کی خدمت مین رہا جب شیر شاہ کا
زمانہ آیا تو وہ ہمایون کے خاندان کا دولت خواہ مشہور تھا۔ محمد غوث افغانون کے خوف سے گجرات چلا
گیا۔ کہتے ہین کہ صحرا و جنگل مین بارہ برس تک معلق پتی کھا کر زندگی بسر کی غرض وہ بڑا مشائخ
ہند مشہور تھا جب شہنشاہ اکبر کی سلطنت ہندوستان مین ہوئی تو دارالخلافہ آگرہ مین وہ خود
مع عیال و اطفال کے آیا شہنشاہ خود اس کے گھر گیا ہندوستان مین ائمہ مین نفاق وحسد باہم لازمہ
ذاتی ہے شیخ گدائی کو اپنی دوکان برابر کی دوکان کھلنی گوارا نہوئی ؎ بہ نزد خرد این سخن روشن
است * کہ ہم پیشہ با ہم پیشہ را دشمن است۔ شیخ گدائی بیرام خان کا نفس ناطقہ بن رہا تھا۔ اس نے
اس کو ایسا بہکا دیا کہ وہ شیخ سے آشنا نہوا بلکہ مجالس متعدد منعقد کرکے وہ رسالہ پڑھوایا جس مین
شیخ نے معراج کا حال لکھا تھا کہ معراج مین مجالست و مکالمت خدا تعالی کے ساتھ ہوئین اور اسی
قسم کے عجیب و غریب دعوی سادہ لوحون کے دلون کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کیے۔ یہ باتین عقلا
و نقاد مذہب و علوم [illegible] تھین۔ اس سبب سے شیخ لعنت ملامت کے تیرون کا چاندماری بنا۔ وہ ان گستاخیون
کا متحمل نہ بنا۔ گوالیار مین جاکر گوشہ نشین ہوا۔ ۱۷ رمضان ۹۷۰ھ کو یہین انتقال کیا۔ کہتے ہین ایک لاکھ
تنکہ اسکی تنخواہ مقرر ہوئی تھی شہنشاہ اکبر اپنے امرا کے قتل اور مقید اور ذلیل ہونے کو بیرام خان کے ہاتھ
سے دیکھتا تھا اور اسکے مکافات کو خدا کے سپرد کرتا تھا مگر اس کا دل روز بروز اپنے اتالیق کی طرف سے ہٹتا جاتا
تھا۔ آدمیون نے تو ان دنون مین بے لطفی کردا ہی تھی ہاتھیون نے اور بھی اس بے لطفی کو اپنی قدر کی حد سے بڑھایا۔ ان

کے سبب سے مایۂ ہوش کو برجا رکھے۔ زمانہ گذشتہ کو دیکھئے کہ فرمانروایون کی بے توجہی سے خوشامدگویون
نے کسقدر گھر اور خاندان خراب کیے ہین۔ کارخانہ انتظام عالم مین خوشامد ناگزیر ہے لیکن اسقدر کہ عقل
کے نزدیک مستحسن ہو اور یا اسپر منحصر ہے کہ اصول معاملات مین کوئی امر فروگذاشت نہو اور عقل گرہ کشا کو
یکبارگی ہاتھ سے نہ دے کہ خواہش و غضب کہ عدو کے فرمان بر ہونے چاہیئن بے پروائی سے فرمان روا ہوجاین ۹

قطعہ

چاہ است و راہ و دیدۂ بینا و آفتاب — تا آدمی نگاہ کند پیش پائے خویش
چندین چراغ دارد و بے راہ می رود — بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش
دشمن بدشمن آن نہ پسندد کہ بیخرد — با نفس خود کند بہ مراد ہوای خویش

بیرام خان اپنے تئین معاملہ دانی و عقیدت و اخلاص بادشاہی مین یگانۂ روزگار جانتا تھا اور خوشامدگویون کے
ہجوم نے یہ عقیدہ اپنی ذات کی نسبت پیدا کر دیا تھا کہ بغیر اسکے حالت ہندوستان کا انتظام نہین
ہوسکتا اس لیئے وہ تیرہ رائے کوتاہ بین ہم صحبتون کے سبب سے بیراہ جاتا تھا اور اپنے اعمال سے خجالت زدہ
ہوتا تھا۔

ہمایون نے بیرام خان کو شہنشاہ اکبر کا اتالیق بنایا تھا یہ نوجوان عادتمند اس کو اپنی محبت کے
سبب سے خان بابا کہتا تھا اس سبب سے اسکی حرکات ناشائستہ بہت درگذر کرتا تھا۔ مگر جب یہ کام اندازہ
سے باہر ہوگیا اور ولی بیگ ذوالقدر شیخ گدائی کنبوہ کی خوشامدگوئی سے بیرام خان نے خیالات خام
پکانے شروع کیے۔ پادشاہ اپر مطلع ہوا تو اس نے یکجہت اخلاص میشون مین جیسے کہ ماہم آنگہ کہ
عقل و تدبیر و اخلاص مین یکتا تھی و ادھم خان و مرزا شرف الدین حسین اور اپنے قریب کے
آستان نشینون کی جماعت مین راز سربستہ کو کھولا کہ بیرام خان کو اور اسکے خوشامدگویون کی
مجلس کو سزائے لایق دے اور خواب غفلت سے بیدار کرے اور خود اورنگ آرائی کرے اول یہ مشورہ
بیانہ مین ہوا جہان وہ شکار کو گیا تھا۔ ہر نوجوان پادشاہ کے گرد ایسے آدمی ہوتے ہین کہ جنکو ہمیشہ
یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر شاہانہ اختیارات سوائے پادشاہ کے کسی اور کے ہاتھ مین ہونگے تو وہ

پادشاہ کے اوران کے اپنے حق مین زہر ہون گے۔ ان آدمیون کے اس خیال کے وجود کی تحقیق کی
ضرورت نہین اکثر وہ اپنی خودغرضی پر مبنی ہوتی ہین اور شاذونادر وہ بغیر اپنی کسی خودغرضی کے
نوجوان پادشاہ کے خاص اخلاص کے سبب سے ہوتی ہین جس کو وہ چاہتے ہین کہ اپنے اختیارات شاہانہ
کو جس کا وہ مستحق ہے کام مین لائے بشہنشاہ اکبر کے پاس بھی ایسے آدمی تھے جنسے اس نے اپنا
راز کہا ۔ ان پادشاہ فلیون کا زمانہ بھی بیرام خان کے ہاتھ سے ایسا ہی تنگ تھا جیسا کہ
خود پادشاہ کا تھا۔

اس وقت مین کہنے اخلاص کی باد سموم کا طوفان چل رہا تھا تھوڑا سا اخلاص بھی بہت معلوم ہوتا
وہ اس اندیشۂ صواب مین اہتمام کرنے لگے۔ ماہم آنگہ نے یہ راز سربستہ شہاب الدین احمد خان
کو لکھا وہ دہلی کا حاکم تھا اور رائے و تدبیر و حق شناسی مین ممتاز تھا۔

پادشاہ کا دہلی مین آنا سنہ ۹۶۷ھ

اس کام کے ارادہ سے دارالخلافۃ آگرہ سے ۲ جمادی الاخری سنہ ۹۶۷ھ کو پادشاہ نے کوچ کیا اور ظاہر
یہ کیا کہ مین کول شکار کھیلنے جاتا ہون۔ دریاے جمن سے عبور کیا تو مرزا ابوالقاسم پسر مرزا کامران کو
اس شکار مین کہ صید مقصود ہاتھ لگنے بلا لیا اسکی طرف ہمیشہ بیرام خان کو تعلق خاطر اور توجہ باطنی تھی
اسکی مجلس مین بداندیش اسکو پادشاہ بنانے کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ اس کا بلانا عقل دور مین کا کام
تھا کہ کور باطنون کے ہاتھ مین عناد و فساد کا عصا نہ رہے۔

پادشاہ جلیسر مین آیا اور سکندرہ کی طرف کوچ کیا کہ محمد باقی بقلانی سے کہ ادہم خان کا خسر تھا ماہم انگہ
نے بلا کر محرم راز کیا۔ مگر اس فرومایہ نے اس خبر کو بیرام خان تک پہونچایا مگر بیرام خان نے اسکی بات
کو بے وقعت جان کر کچھ خیال نہ کیا۔ پادشاہ شکار کھیلتا ہوا کول مین آیا ماہم انگہ نے ارادہ کیا کہ
پادشاہ کو دہلی لے چلون وہان پادشاہ کی والدہ مریم مکانی اور اُس کا رشتہ دار شہاب الدین احمد بھی ہے
وہان جو صلاح و مشورہ باہم ہو اُس پر عمل ہو۔ غرض یہ سوچ سمجھکر اُسنے پادشاہ سے عرض کیا کہ دہلی مین حضور
کی والدہ کی دشمنون کی طبیعت خراب ہو اور آپکے دیدار کے لیئے بیتاب ہین۔ یہ سنکر پادشاہ کو تاب
نہ رہی وہ فوراً دہلی کو روانہ ہوا۔ خورجہ مین شہاب الدین احمد خان مع اپنے بھائیون اور خویشون کے

استقبال کے لیئے حاضر ہوا - اب ماہم انگہ اور اس کا داماد شہاب الدین احمد ایک سے دو ہوئے
بادشاہ ۲۸ جمادی الآخری سنہ ۹۶۷ھ کو دہلی مین آیا - ماہم انگہ بادشاہ کو سمجھاتی تھی کہ بادشاہ بادشاہ
نہین ہے سارے بادشاہی اختیارات بیرام خان کے ہاتھ مین ہین - کوئی بادشاہ بغیر اختیار کے نہین
ہوتا - یہان یہ غضب ہے کہ بادشاہ بھی بیرام خان کے اختیار مین ہے - ایک دن ماہم انگہ اور اس کے
ہمدمون کی جماعت ترسان لرزان اشک ریزان بادشاہ سے عرض کرنے لگی کہ جس وقت بیرام خان کو
معلوم ہو گیا کہ ہم دہلی مین حضور کو لے گئے تو وہ ہم کو زندہ نہین چھوڑے گا پیسہ پر رکھ کر بوٹیان
اڑائیگا - پھر بادشاہ بھی اسکا کچھ نہ کر سکے گا - اس سے بہتر ہے کہ حضور ہم کو حج جانے کی اجازت
دین - یہان ہم حضور کی بہت خدمت کر چکے ہین اب وہان خدا کے گھر مین آپکے لیئے دعا مانگین گے
بادشاہ بھلا اس اپنی پیاری انا کی جدائی کو کب گوارا کر سکتا تھا - مگر خان بابا کے حقوق کو بھی یکلخت
دل سے نہین مٹا سکتا تھا اور معزول نہین کر سکتا تھا اس لیئے اس نے بیرام خان کو اس مضمون
کا خط لکھا کہ مین دہلی مین اپنے ارادہ سے اپنی مان کی عیادت کو آیا ہون اسمین شہاب الدین احمد
اور ادہم خان اور ماہم انگہ کا دخل کچھ نہین ہے - ان کو تمہاری طرف سے اندیشہ ہے - ایک
استمالت کا خط لکھ بھیجو کہ خاطر انکی مطمئن ہو اس فرمان کا بھیجنا تھا کہ خانخانان کے دشمنون کی بن آئی
انھون نے اوپر اور پچھوڑے سچی جھوٹی خبرین اڑائین - اور رقوعی اور غیر وقوعی باتون سے طرح طرح کی
قسمین کھاکر اور شہادتین دیکر بادشاہ کی طبیعت کو خانخانان سے بالکل منحرف کیا - جب بیرام خان
پاس بادشاہ کا پیغام پہونچا تو وہ بہت سٹ پٹایا - اُسکے جواب مین بہت معذرت وقسم مغلظہ
کے ساتھ کی اور اپنے دو دوستون اور حاجی محمد خان کے ساتھ قرآن شریف بھی بھیجا اور عرضداشت
لکھی کہ خدا میرا منہ کالا کرے اگر کبھی مجھ خیر خواہ کے دل مین بادشاہ کے دلی نیک خواہون کی طرف سے
بدی آئی ہو مگر اس کا کام بگڑ چکا تھا - بادشاہ نے نہ قسم کو نہ معذرت کو سُنا نہ قرآن شریف کا خیال کیا
بلکہ حاملان عریضہ کو بھی واپس جانے کی اجازت نہ دی - بادشاہ نے اپنی عقل سے اور مخلصونکی رہنمونی سے
اپنے مخصوصون اور قدیمی متعلقین کو مناشیر بھیجدیئے کہ بیرام خان نے ہجوم مشاغل دنیوی کے سبب سے

راہ سداد سے انحراف اختیار کیا اس لیے وہ ہماری نظر سے گر گیا۔ ہم دہلی مین چلے آئے۔ جو شخص کہ ہم سے اخلاص رکھتا ہے یا معاملہ فہم ہے اور نجات اپنی چاہتا ہی اور اپنا مقصد حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس فرمان کے پہونچتے ہی ہماری خدمت مین حاضر ہو کہ ہر شخص کو مراتب والا اور منصب گرامی سے ہم سرافراز کرین کہ یہ ہمارے زمانہ اختیار کا آغاز ہے۔

بادشاہ کا اپنے اختیارات کا [سنبھالنا] ۹۶۷ھ

شمس الدین خان انگہ کو جو بھیرہ مین تھا لکھا کہ جب فرمان کے مضمون سے مطلع ہو تو لاہور پر آن کر متصرف ہو اور شہر کو میر خان محمد کلان کو سپرد کر کے بہت جلد ہمارے پاس حاضر ہو۔ اُس نے حکم کی تعمیل کی۔ اب منعم خان کو کابل مین بھی فرمان گیا۔

شمس الدین خان محمد انگہ جب بادشاہ کی خدمت مین آیا تو اس کو بیرام خان کا علم و نقارہ و تمن و توغ عنایت ہوا اور پنجاب کی حکومت و حراست تفویض ہوئی۔ تھوڑے زمانہ مین دور و نزدیک کے کان مین بیرام خان سے بادشاہ کے تغیر مزاج کا آوازہ پہنچ گیا تو تمام امیر و منصب دار بیرام خان کو چھوڑ چھوڑ کر بادشاہ کی خدمت مین آنے لگے۔ بادشاہ کی بھلائی کو تو کیا برائی کو بھی بیرام خان کی بھلائی سے اچھا جاننے لگے اسکی سخت گیری اور ناخدا ترسی کے آگے بادشاہ کی برائی کی کچھ اصل نہ سمجھتے تھے۔ سب سے اول اس سے قیا خان گنگ جدا ہوا۔ بادشاہ کی ناراضی کے آثار کے ظاہر ہوتے ہی کوئی پایہ کا آدمی بیرام خان کا طرفدار نہ رہا۔

۹۶۷ھ بیرام خان [illegible]

بیرام خان گو بڑا عاقل تھا مگر ایسا غافل ہوا کہ دارالخلافہ آگرہ سے دارالسلطنت دہلی تک بادشاہ شکار کھیلتا گیا اور یہ نہ سمجھا کہ وہ مجھے شکار کر رہا ہی میرے اقبال کو برعکس کر کے لاابقا بنا رہا ہی وہ اس فارغ دلی اور آزاد خاطری سے اپنے استقلال کا دم مارتا تھا اور غرور کے نشہ مین مست ایسا تھا کہ اگر اس قسم کی باتین سنتا تو وہ باور نہ کرتا۔ اگر ان کے سچے ہونیکا خیال دل مین کچھ آتا تو اپنے پندار مین ایسا گرفتار تھا کہ انکی کچھ وقعت نہین کرتا تھا۔ ابتک وہ بادشاہ کو لڑکا اور شاگرد اور اپنے تئین خان بابا اتالیق سمجھتا تھا۔ یہ نہین جانتا تھا کہ شاگرد اس کا اُستاد ہو گیا ہے

۵ کس نیاموخت علم تیر از من ❊ کہ مرا عاقبت نشانہ نکرد۔ اس کا وہ آقا بننا چاہتا ہے۔

جسوقت کہ بادشاہ کے فرمان امرا پاس پہنچے اور نزدیک و دور خبر ہو گئی کہ بادشاہ بیرام خان سے ناراض

ہو گیا تو اس کو یقین ہوا کہ اس بار بادشاہ کا شکار دوسری طرز پر ہوا ہے کہ مجھے نظر سے گرا کر خود کارخانہ سلطنت
کے انتظام پر متوجہ ہوا ہے۔ اس نے مرزا قاسم خان کی خبر پوچھی مگر وہ یہاں کہاں تھا بادشاہ پاس تھا۔
ناگزیر حیلہ و تدبیر کرنے لگا۔ بادشاہ کی خدمت مین محمد خان و حاجی محمد خان سیستانی و خواجہ امین الدین محمود
کو روانہ کیا کہ اس کی نہایت لوازم فروتنی و نیازمندی کو بجا لائین اور تقصیرات کا عذر کرین اور چرب
زبانی سے کام بنائین۔ جب بادشاہ پاس یہ لوگ آئے تو بادشاہ کی باتین وہ ہوش افزا سنین کہ
نہایت شرمندہ و سرافگندہ ہوئے اور ان کے جواب دینے مین اپنی مصلحت نہ سمجھی۔ بادشاہ نے
ان کو رخصت بھی نہ کیا۔ ان لوگون کے لکھنے سے اور اپنے متعلقین کے متفرق ہونے سے بیرام خان
سراسیمہ ہوا۔ سررشتۂ تدبیر اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دل مین بہت سی تدبیرین سوچین ان مین اس
تدبیر کو مقدم جانا کہ چل کر بادشاہ کے قدمون مین گرے اور روئے پیٹے اس طرح اپنا علاج کرے۔
جب اس حقیقت حال کو ہوشمند خبردارون نے بادشاہ کے کانون مین پہونچایا تو ایک جماعت نے
یہ رائے دی کہ خواہ کسی طرح بیرام خان آئے اُسکا آنا خدشہ و فریب سے خالی نہ ہوگا پہلے اس سے کہ وہ یہان
دہلی مین آئے بادشاہ کو لاہور چلے اور اسکی ملاقات بادشاہ سے نہونے دیجئے ابھی جنگ ظاہری کا
اسباب مہیا نہین ہے معلوم نہین ملاقات کے بعد کیا صورت پیش آئے اگر بیرام خان لاہور مین آئے
تو کابل مین بادشاہ کو لے جائے دوسری جماعت کہتی تھی کہ کہین نہ جائیے خوب جنگ کیجئے۔ بادشاہ نے بھی
سوچ بچار کر کے بند و کارزار پر اپنی رائے کو قرار دیا۔ ترسون محمد خان و میر حبیب اللہ کو بھیجا کہ بیرام خان کو آنے سے
منع کرین اور لکھ دین کہ ابکی دفعہ اس سے مین نہین ملونگا خواہ کیسے ہی دوستی کے لباس مین وہ آئے۔ جب یہ
تدبیر نہ چلی تو بڑا تردد و اندیشہ ہوا۔ اگرچہ ولی بیگ و شیخ گدائی اس کو صلاح دیتے تھے کہ پہلے اس سے کہ ہجوم علام
ہو اپنا کام دلخواہ کر لینا چاہیئے لیکن کبھی اسنے یہ ارادہ نہین کیا کہ اپنے آقا کے فرزند پر تلوار اُٹھائے اسکو شرم آتی
تھی کہ جسکی ہوا خواہی کا اظہار زبان سے ساری عمر کیا ہو اب اس سے بیکار کیجئے ابتک اس کو یہ خیال چلا جاتا
تھا کہ بغیر اسکے ممالک ہندوستان کا انتظام نہین ہوگا اس لئے بہتر ہے کہ دوستی کے لباس مین دشمنی کیجئے
کہ دفعۃً بدنامی جاودانی کا داغ پیشانی پر نہ لگے کبھی اسکو یہ سوجھتی تھی کہ مالوہ کی تسخیر کے لیے بہادر خان کو بھیجا ہے

اس کو خود لشکر لے جا کر فتح کیجیے اور وہان آرام کر کے فرصت کار کی طلب مین رہیے - بعض اوقات اس مہم کا اندیشہ یہ جولانیان کرتا تھا کہ دار الخلافہ آگرہ کو چھوڑیے اور سنبل کی راہ علی قلیخان کو اپنے ساتھ متفق کیجیے اور افغانون کے ملک مین آن کر چند روز رہیے اسباب جمعیت وہان سرانجام دیجیے کبھی تجرد کو اپنے ساتھ انتساب کر کے کہتا تھا کہ مدت سے یہ ارادہ تھا کہ ترک و تجرید کو اختیار کر کے باقی عمر کو اماکن شریفہ و عتبات علیہ مین بسر کیجیے - ان دنون مین بادشاہ خود انتظام ممالک مین مصروف ہوا ہے اس سے بہتر کیا توفیق ہو گی کہ اپنی نیت کو قوت سے فعل مین لاؤن اور بادشاہ سے اسکی درخواست کرون - اسنے اپنے اسی ارادہ کو مصلحت جانا اور بہادر خان کو جو مالوہ کی طرف متوجہ تھا اُٹھا بلا کر بادشاہ پاس بھیجا کہ آہنگ تجرد اس کا سب کے نشان خاطر ہو جائے - ظاہر مین یہ حج کی نیت تھی مگر باطن مین کچھ اندیشی تھی - اول اسکندر خان کے بیٹے کو غازی خان کے ہمراہ رخصت کیا کہ وہان ممالک محروسہ مین شورش برپا کرے اور اطراف مین مکاتبات پنہانی بھیجکر خود الور گیا کہ وہان سے اہل و عیال کو لیکر پنجاب کی جانب جائے اگر کام تدبیر سے نہ بن پڑے تو ریاست کا سامان درست کر رہے کہ وقت منازعت کام آئے -

جب بیرام خان کے اس اندیشہ نادرست کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو اُس نے یہ فرمان جو پندنامہ ہوش افزا ہے بیرام خان کو لکھا کہ تم نے ایک جماعت سے جو اس تمہاری رنجش و آزار کا سبب ہوئی ہے مشورہ کر کے مآل و حال کا ملاحظہ نہ کیا اور ان کے بہکانے سے ولا ہنون کے برہم کرنے کے درپے ہوئے - اسکندر کے بیٹے اور غازی خان کو روانہ کیا کہ ملک مین شورش مچا دین - مہدی قاسم خان کو مکتوب لکھکر اسکے دیوان مبارک کے ہاتھ بھیجا کہ لاہور کیطرف ہم آتے ہین - قلعہ کو نگاہداشت کرو اور کسی اور کو نہ دینا - تاتار خان نیچ بعضہ کو بھی پیغام دیا ہے اور اطراف و جوانب مین خبرین بھیجی ہین کہ ہر طرف سے خلل پیدا ہو اور خود الور گئے ہو کہ وہان سے لاہور جاؤ - اگرچہ ہم کو یقین ہے کہ ان امور کی ابتدا تم سے خود نہین ہوئی کسی اغوا اور ضلالت کے باعث ہوئی ہو گی جس سے مہمات کی نوبت یہان تک پہنچی ہے اب تم آپ ہی کہو کہ یہ کیا صورت ہے کہ تم نے چالیس برس تک طرح طرح اخلاص و ارادت کی اور طرح طرح کی عنایت و رعایت حاصل کر کے عزت و دولت کی منتہا پر پہونچے - تمہارا نام ہمارے دودمان عالی شان کے اکرام و احسان کے سبب سے

اکثر معمورۂ عالم مین کمال صدق واخلاص سے مشہور رہا اس آخر عمر مین بغاوت کرتے ہو اپنے خدا سے اس
معاملہ مین نہین شرم کرتے باوجود اس رنجش وآزار اور امور نامناسب وناہموار کے ہم ابتک تمھاری خاطر
کو عزیز رکھتے ہین اور تمہاری خیریت چاہتے ہین - ہماری اور تمہاری ملاقات مین تاخیر وتوقف واقع
ہوگیا ہے - اگر تمھارے لیئے ان حدود مین کوئی سرکار اور ولایت ہم مقرر کردین تو ارباب غرض پھر
اس طرح کی باتین کرین گے کہ جن سے تمہاری خاطر آزردہ ہو اس لیے ہمارے نزدیک مناسب یہ ہے کہ
جیسا تم نے عرضداشت مین درخواست کی ہے کہ حرمین شریفین کے طواف کا ارادہ ہے پس اس نیت پر
عازم جازم ہوکر متوجہ ہو - اپنے آدمی بھیجدو کہ جو کچھ تم کو نذر کرنا ہو وہ آگرہ سہرند ولاہور سے لے جاوین اور
تمھارے پاس پہنچادین جب حج کرکے ہمارے پاس آؤگے تو ہم تم سے بہت اچھی طرح ملین گے اور جو تم
چاہوگے اس مین ہم مضائقہ نہین کرینگے اور تمھاری خدمات سابقہ کو ملاحظہ کرکے پیشتر سے بیشتر خاطرجوئی
کرینگے - ارباب غرض کے کہنے سے تم منحرف ہوکر بدنام نہو - ہماری بدولت مقاصد دنیوی کی نہایت پر
پہونچے ہو - ہماری دلالت سے سعادت اخروی سے بھی بہرہ ور ہو - مگر بیرام خان نے اس فرمان پر کچھ لحاظ نہین
کیا - ماہم انگہ اپنی عقل سے مہمات کا انتظام کرتی تھی - اس نے شہاب الدین احمد خان وخواجہ جہان کو اپنا
پیش دست بنایا تھا - جو امراء بادشاہی آس پاس آتے تھے اُن کو دلاسا دیتی تھی اور جمہور خلایق کی دلدہی کا
سامان کرتی تھی - روزبروز اطراف مملکت سے امراء اور یکہ جوانان چلے آتے تھے اسنے مصلحت ملکی اور معاملہ
نافہم ظاہر پرستون کے لیئے بہادر خان برادر علی قلیخان منصب بزرگ وکالت کا بادشاہ سے دلادیا اس پر
مہم پیشہ معاملہ دان کام کی کنہ کو تو پہونچے نہین تھے زبان درازی کرنے لگے کہ اس وکالت کے ہم خطیر
وامر عظیم کے واسطے وقوف کامل وتجربہ تام ودیانت وافر وحوصلہ فراخ وکد فراوان درکار ہے اور ان صفات
کے ساتھ کمال آزادگی بھی ہونی چاہیے کہ اپنے سود وزیان سے درگذر کرکے اپنی ہمت اپنے صاحب کی
مزید کار مین مصروف ہو - اگر اپنے ولی نعمت کا کام اس شخص سے نکلتا ہو کہ جس نے اسکے باپ کو مارا ہو تو
اس کے رواج کار مین کوشش کرے خلق کے ساتھ اس کا طریقہ صلح کل ہو پادشاہ جو ہوتا ہے خدا اُس کو
ہزارون آدمیون مین سے منتخب کرکے اہل عالم کو اس کے سپرد کرتا ہے - طوائف متلونہ وطبقات ملل ونحل

اسکی رائے زرین کے مفوض کرتا ہے۔ اگر اس پادشاہ کا وکیل ایسے خدیو کا نشان نہو تو نظام عالم کیسے ہو سکتا ہے۔ مذاہب مختلفہ وادیان متنوعہ جن کے اختلاف وافتراق مین حکمت بالغۂ آلٰہی ہی کیسے رفاہیت پا سکتے ہین۔ مگر نفس امر مین یہ باعث آدمیون کی نافہمیدگی سے تھی۔ کیونکہ یہ امر ستغا نظاہر بینون کی مصلحت پر مبنی تھا اور اس سے اس شورش کا دفع کرنا مقصود تھا کہ ترکان سادہ لوح کی ایک جماعت نے قیا خان گنگ و سلطان حسین جلائر و محمد امین دیوانہ کے ساتھہ اتفاق کرکے شہاب الدین احمد خان و خواجہ جہان اور اس قسم کے آدمیون کا قصد کیا تھا اس سبب سے پادشاہ نے ان فتنہ اندوزون کی آتش آشوب کی آگ بجھانے کے لیے منصب وکالت بہادر خان کو دیدیا۔ قیا خان کو قدیم خدمات مستحسن کے سبب سے بہرائچ اور اُسکی حدود دیدین۔ محمد امین دیوانہ بھاگ کر صحرا مین آوارہ ہو گیا۔ جب ان بداندیشون کے ہنگامہ مین سنگ تفرقہ پڑا تو بہ بہا درخان کو مادہ جاگیر مین دے کر رخصت کیا۔ ان دنون مین بہادر خان پر رسم وکالت کا اطلاق ہوتا تھا مگر معنے اس خدمت کے ماہم انگہ پر صادق آتے تھے وہی وکالت کرتی تھی۔ اے ظاہر پرست صورت کو کیا دیکھتا ہے اس کار شگرف مین خرد اور حوصلہ کی ضرورت ہے یہ دونو صفت ماہم انگہ پر ختم تھین

اے بسا زن کہ بہ ہند گام خرد مردانہ

بیرام خان کی کوئی تدبیر درست نہ بیٹھتی تھی وہ سہ شنبہ ۱۲ رجب کو دار الخلافہ آگرہ سے الور کی طرف چلا راستہ مین بیانہ مین اُسنے شاہ ابو المعالی و محمد امین دیوانہ کو کہ فتنہ و فساد کے دور کرنے کے لیئے قلعہ بیانہ مین مقید کیئے گئے تھے چھوڑ دیا۔ ظاہر مین تو اُن سے یہ کہا کہ پادشاہ پاس جاؤ مگر رہائی سے مقصود اصلی یہ تھا کہ فتنہ برپا کرین۔ جب پادشاہ کو بیرام خان کی آگرہ سے الور کیطرف روانہ ہونے کی اور وہان سے پنجاب کی طرف جانے کی خبر ہوئی تو پادشاہ کی یہ رائے ہوئی کہ دار الملک دہلی سے چلکر حدود ناگور مین قیام کیجیے کہ بیرام خان کے اس حدود مین پاؤن نہ جمین اور اگر ممالک پنجاب مین جانے کا قصد کرے تو سر راہ روکا جائے۔ جمعہ ۲۲ رجب کو بادشاہ نے دہلی سے کوچ کیا۔ پھر احتیاطاً میر عبد اللطیف قزوینی کی معرفت یہ مواعظ اپنی طرف سے لکھکر بیرام خان کو سُنائے کہ اے میرے خان بابا تمھارے

حقوق خدمت و خطائو عقیدت سب میرے دل مین منقش ہین اور جہان مین وہ مشہور ہین مین لڑکا تھا لڑکپن کا مقتضا تھا کہ مین سیر و شکار مین مصروف رہتا تھا اور سارے مہمات سلطنت اور انتظام تم کو سپرد کر رکھا تھا جو اب تک تم نے جاہا وہ کیا - مین نے اس مین کچھ دخل نہین دیا - اب میرا ارادہ ہے کہ خود کاروبار جہانبانی اور معدلت گستری کرون - اب تم جیسے خیرخواہ خردمند کو چاہیے کہ اس بات کو عطیات الٰہی سے سمجھکر خدا کا شکر کرو اور کچھ عرصہ کے لیئے مہمات دنیا کے شغل سے دل اُٹھا کر حج کو جاؤ - خلا و ملا مین تم ہمیشہ سعادت حج کا شوق ظاہر کیا کرتے تھے - ہندوستان مین جسجگہ اور جسقدر چاہو جاگیر لے کر اور اسکے محاصل کو اپنے آدمیون کی معرفت اُگھوا کے فصل فصل سال بسال اپنی سرکار مین منگالو -

جب بادشاہ جھجھر مین ۱۲ رجب کو آیا تو بیرم خان کی رہگذر روکنے کے لئے خود اپنا جانا بادشاہ نے مناسب نہ جانا - ادہم خان - شرف الدین حسین مرزا - پیر محمد خان - شاہ بداغ خان و مجنون خان اور ایک جماعت کو ناگور کیطرف روانہ کیا کہ اگر بیرم خان واقع مین سفر حجاز کا قصد نہ کرے اور اس سفر کی شہرت دینے سے یہی غرض ہو کہ دھوکہ دے کر پنجاب چلا جاؤن اور وہان شورش برپا کرون تو اُسکو یہ لشکر سزا دے اور نہین تو اہتمام کرکے اُس کو ممالک محروسہ سے باہر نکال دے - اگور اور اُس کے حدود مرزا شرف الدین حسین کو حوالہ کیئے - امراء عظام اس خدمت کے اہتمام مین آئین شائستہ کے ساتھ مصروف ہوئے اور خود بادشاہ چارشنبہ ۱۱ شعبان کو دہلی مین آگیا - بیرم خان سرکار میوات مین تھا کہ بادشاہ کی فوج کے آنے کی خبر اس کے لشکر مین منتشر ہوئی دفعتہً اسکے ہنگامہ کی رونق دور ہوئی سوائے ولی بیگ اور اسکے دو بیٹون حسین قلی بیگ و اسمعیل قلی بیگ کے کہ بیرم خان کے خویش تھے و شاہ قلی خان محرم و حسین خان اور چند اور آدمیون کے کوئی آس پاس نہ رہا - ساری سپاہ اسکی فوج فوج بن کر بادشاہ پاس جانی شروع ہوئی -

بادشاہ کا لشکر اسکی طرف جب فوج فوج چلا تو اُسنے دیکھا کہ اب مجال توقف نہین ہے دل سے ریاست کا خیال دور کرکے ایک عرضداشت بھیجی کہ جسمین طرح طرح سے نیازمندی اور عذرخواہی کی اور جدائی کا افسوس ظاہر کیا

اور حرمین شریفین کی زیارت کے لیے رخصت مانگی اور چند فیل و تمن و توغ و علم نقارہ و سائر ادوات
امارت کو حسین قلی بیگ کے ہمراہ بھیجدیا امرا کو لکھدیا کہ آپ میری طرف کس لیے تصدیع فرماتے ہین
میرا تو دل دنیا اور اس کے کاروبار سے سرد ہوگیا ہے۔ اسباب ریاست پادشاہ پاس بھیجدیا ہے
امرا اسی دم مین آن کر پھر گئے حسین قلی دہلی مین پادشاہ پاس آیا اور خلق مین مشہور ہوگیا کہ بیرام خان
حج کو گیا شیخ گدائی پادشاہ کی خدمت مین آیا۔ اگرچہ لائق سیاست تھا مگر پادشاہ نے اسپر مرحمت فرمائی
اس عرصہ مین ناگاہ یہ شہرت وافواہ ہوئی کہ بیرام خان پنجاب کے صوبہ کیطرف آیا نہین کہ ایک شورش برپا ہوتی نہین
پادشاہ کی سپاہ کے بھیجنے کے سبب سے وہ ناکام بحروسہ سے نکلکر بیکانیر مین آیا راے کلیان اور اُس کا بیٹا
راے سنگہ جو اس سرزمین مین سب سے بڑا رتبہ رکھتے تھے وہ بیرام خان سے ملنے آئے۔ بیرام خان کو یہ مقام
دلپذیر معلوم ہوا۔ وہ یہان چند روز رہا۔ پھر وہ یہان سے پنجاب کیطرف گیا اور پادشاہ سے کھلی بغاوت
اختیار کی اور سرحد کے امرا کو لکھا کہ مین سفر حجاز پر متوجہ تھا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ پادشاہ ایک
جماعت نے جھوٹ موٹ کی باتین لگا کر مجھے آوارہ کیا ہے اور پادشاہ کا مزاج میری طرف سے متغیر
کردیا ہے خصوصاً ماہم انگہ نے کہ وہ اپنے تئین مستقل سمجھتی ہے اور کہتی ہے کہ مین نے بیرام خان کو
نکلوادیا۔ اس لیے مین نے ارادہ کیا ہے کہ ایک دفعہ ان بدکردارون کو سزا دیکر پادشاہ سے سفر مبارک
کی تازہ رخصت لون اور اس طرح اور مقدمات لکھ بھیجے اور خواجہ درویش اوزبک جو پنجاب کے امراے عظام
مین سے تھا اس پاس مظفر علی بھیجا کہ اس کو لے آئے۔ جب پادشاہ کو یہ اخبار معلوم ہوے تو اُس نے
فرمان جو ایک نصیحت نامہ ہے بھیجا۔

بیرام خان کی کھلی بغاوت و پنجاب مین آنا ۹۶۸ھ

خان خانان کو معلوم ہو۔ کہ ہمارے خاندان کے پروردہ نعمت اور تربیت کردۂ عنایت ہو اور تمھارے
حقوق خدمات ہماری درگاہ مین ثابت ہین حضرت والد ماجد نے امر عظیم القدر ہماری اتالیقی کا تم کو
اس لیے سپرد کیا تھا کہ صدق نیت و اخلاص تمھارا دیکھا تھا جب والد کا انتقال ہوا تو اخلاص اور دولتخواہی
مین کمر صدق و جانسپاری باندہ کر مہمات وکالت کے تم متعہد ہوے۔ ہم نے بھی خدمات کی مشقت
اور نیک اندیشی تمھاری دیکھکر حل و عقد رتق و فتق امور کو ایسا تمھارے قبضہ اختیار مین چھوڑدیا کہ اس سے

فرمان پادشاہ ۹۶۸ھ

متصور نہین ہوسکتا۔ برا بھلا جو تمھارے دل مین آیا وہ تم نے کیا ہم نے کچھ دخل نہین دیا تم سے اس
پانچ سال کے عرصہ مین چند امور ناشائستہ ایسے ظہور مین آئے کہ خاطر جمہور کو تم سے نفور ہوا۔ اسکی مثال شیخ گدائی
کی تربیت ہی۔ کہ تم نے باایں ہمہ زہد کی ودانائی فاضل وقابل باحسب ونسب آدمیون کو چھوڑکر اپنی مصاحبت
وآشنائی کے لیئے اسکو انتخاب کیا باوجودیکہ وہ منصب صدارت کا متعہد تھا وظہور مناشیر پر مہر کرتا تھا
ہم نے اسکو تسلیم سے معاف کیا تھا۔ باوجود اسکی کمال جہل ونادانی کے محافل مین جمیع سادات صحیح النسب اور
علماء جلیل الحسب پر جنکے ہم عظمت وشان وحالت کا ملاحظہ کرکے مراسم تعظیم واحترام بجالاتے تھے ہم نے
اسکو تقدیم دی باوجودیکہ وہ خاندان سادات کی محبت ودوستداری کی شیخیان مارتا تھا اسنے عمداً اس فرقہ
شریفہ کی مذلت وخواری کو تجویز کیا۔ تم نے اس اپنے تربیت کردہ کو جو دلون کا مردود اور نظرون کا مطرود تھا
اس طائفہ پر ترجیح دی۔ اور ان بزرگونکی ارواح مقدسہ سے کسی طرح شرم وآزرم نہ رکھی اسکو اس مرتبہ پر
پہنچایا کہ وہ سوار ہمارے سامنے آتا اور ہم اس سے مصافحہ کرتے تم نے اپنے ماتحت نوکرون کو جنکی حالت و لیاقت
معلوم خطاب سلطانی وخانی وعلم ونقارہ ومور جانگیرین اور سیر حاصل ولایتون سے ممتاز کیا اور حضرت جنت
آشیانی (ہمایون) کے وقت کے خوانین وسلاطین کے امرا ومعتمدون کو جنکی اصالت وحالت واستحقاق سب پر
روشن تھا کمال بے اعتباری کے ساتھ خشک روٹیون سے محتاج کیا۔ ان سب کے خون وناموس کا قصد کیا۔ بابری
ملازمان اور خدمتگارون کو جنھون نے برسون ایسے داری اور خدمت کی تھی اور وہ رعایت وعنایت کے مستحق
تھے انکے لیئے اقل معیشت بھی تجویز نہین کی۔ وہ جماعت کہ شکار اور سواری مین میری ملازمت مین ہوتے تھے
اور ہزار محنت ومشقت سے خدمت کرتے تھے۔ انکے خون بیگنہ کے تم پیاسے تھے۔ طرح طرح کی بے اعتدالیان انکے
ساتھ تم کرتے تھے اور اگر اپنے نوکرون مین سو گناہ مثل قتل۔ چوری۔ راہ زنی۔ تاراج اور طرح کے فسق و
فجور ظہور مین آتے تو سب معاف تھے۔ اور اگر ہماری ملازمون مین سے کچھ ذرا قصور ہوتا یا کوئی جھوٹا بہتان انپر
باندھ دیتا تو ان کے قتل جیسی تدارک مین تاخیر نہوتی۔ ہماری خبر ہونے تک انکی بے آبروئی ہوتی۔ اور طرح طرح کی
انپر جفا ہوتی۔ بعضے آدمی نہایت کمینے اور سفلے تمہاری خدمت مین رہتے تھے اور خوشامد کرتے تھے۔ جیسے کہ
شاہ قلی نارنجی۔ محمد طاہر۔ لنگ ساربان اور تم اپنی سادگی سے اس طائفہ کو راست گو جانکر تربیت کرتے تھے

اور ان کو تقویت دیتے تھے۔ شاہ قلی نے بے حیائی کر کے فرمان نہ سنا۔ محمد طاہر نے ایسا جواب درشت دیا کہ وہ
اسی کا مستحق تھا کہ زبان اسکی کاٹی جاتی بلکہ قتل کیا جاتا۔ لنگ ساربان نے تمھاری حضور مین ایک جماعت کے
روبرو ایسا درشت لفظ کہا کہ وہ بھی سیاست کا مستحق تھا۔ ولی بیگ کو تم خود جانتے ہو کہ وہ قزلباشون مین
کیا عزت و اعتبار رکھتا تھا بغیر کسی خدمت و اصالت و جالت کے اس کو تم نے اپنا داماد بنا کر امراء عظام سے
بڑا بنا دیا۔ یہانتک کہ سید قلی مرزا پر کہ علو سیادت و انتساب سلطنت مین ممتاز تھا تقدیم دی حسین قلی کو جس نے
ابتک ایک مرغی پر بھی پنجہ نہین لگایا تھا۔ اسکندر خان عبداللہ خان و بہادر خان کے برابر تم نے رعایت کی
اور آباد جاگیرین اس کو دین اور خوانین عظام کو ویران جاگیرین دیکر ناخوش کیا۔ ان دنون مین اکثر مجالس مین
ایسی حرکات تم سے سرزد ہوئی تھین کہ وہ ہماری خاطر کی باعث رنجش و آزار ہوتی تھین چونکہ ہم کو تمھاری خاطر
عزیز تھی اور تم کو دولتخواہ اپنے خاندان کا ہم سمجھتے تھے اور تمھارے قول و فعل پر اعتماد رکھتے تھے ان تمام ناہموار
اعمال و کردار کو تم مین خیرخواہی و محض نیک اندیشی تصور کرتے تھے۔ دیدہ و دانستہ اپنے کرم حلیم سے اُن سے
درگذر کرتے تھے۔ ان دنون مین ہم کو معلوم ہوا کہ تم نے اس جماعت باغیہ کی باتون مین آکر یہ قصد کیا ہے کہ
معدودے چند کہ ہمارے ہمراہ ہین انکو علحدہ کر کے ہم کو تنہا کر دین۔ اس شرارت کے دفع کرنے کے لیے دارالخلافت
آگرہ سے دارالملک دہلی کیطرف متوجہ ہوئے ہین۔ اور تم کو لکھا کہ بعضے امور تم سے ایسے ظہور مین آئی ہین کہ ہم نہین
چاہتے کہ تم ہماری ملازمت کرو۔ اگرچہ تم نے ہمکو بہت آزار پہنچایا ہے مگر بدستور تم کو خان خانان جانتے ہین۔
اور رکھتے ہین۔ تمھاری خاطر سے ہم نے سخت قسمین کھا کر کہا کہ ہم تمھارے جان و مال و ناموس کا قصد نہین رکھتے
ہین۔ ہم نے خود مہمات جہانبانی کو اپنے ہاتھ مین لیا ہے جو تم چاہتے ہو عرضداشت مین لکھکر عرض کرو۔ جو ہماری
نزدیک مناسب ہوگا اُسپر حکم دینگے۔ ہمکو یہ خیال تھا کہ جب وقت تم یہ خبر سُنوگے کہ ہم خود مہمات سلطنت مین مشغول
ہوئے تو تم مسرور ہوگے اور تسلیم و رضا مین راسخ دم و ثابت قدم رہوگے۔ ہمارے خاندان کے حقوق نعمت و تربیت چالیس برس
سال سے تمھاری ذمہ پر ہین اور تم نے سن المہد الی العہد اس سے پرورش پائی ہے بالکل فراموش خاطر کر کے
اس جماعت مفسد و مفتن کے کہنے مین آگئے کہ وہ اپنی اغراض نفسانی کے سبب سے چاہتے ہین کہ اہل بغاوت کے
جریدہ مین تمکو لائی اور اس آخر عمر مین سعادت اُخروی سے محروم کرے۔ شقاوت ابدی مین مبتلا کرے چنانچہ اس نے

اپنی کمال شیطنت اور خساست و خود پسندی سے تم کو بے راہ کر دیا۔ ولد اسکندر کو تم نے پیغام دیا کہ مخالفت و منازعت
کرے تتار خان پانچ بھیجے پاس آدمی بھیجا کہ دامن کوہ مین آنکر خرابی و دست اندازی ان حدود مین کرے خود لاہور کا
خیال کرکے چلے ہو کہ وہان جاکر فتنہ و فساد کی بنیاد قائم کرو اور مخالفت کا طریقہ اختیار کرو اور ممالک محروسہ کے
اطراف مین خلل ڈالکر ہماری دودمان کے چراغ کو اپنے دم سرد سے ٹھنڈا کرو۔ چراغے راکہ ایزد برفروزد ہر آنکس
تف کند ریشش بسوزد۔ پردۂ غرور و پندار نے تمہارے دیدۂ اعتبار کو کور کر دیا ہے۔

ہم کو تمہارے اخلاص و اعتقاد پر کہ تمہاری چہرۂ احوال و جبہۂ اعمال سے واضح ہے ابتک ایسا اعتبار چلا آتا ہے
کہ ایسی شرارتون کے کام کرنے تم سے دور معلوم ہوتے ہین اور ہم کو اسپر یقین نہین ہوتا اس لیئے کہ تم ہمارے خاندان کے
پروردۂ نعمت و تربیت کردہ ہو۔ تم پر ہمارے حکم کی اطاعت واجب و لازم ہے ہم بر سبیل حجت فرماتے ہین کہ ایسے ان
افعال و اعمال قبیحہ سے درگذر کرو اور اس جماعت مخذول العاقبت کو جسنے ہماری دولت و عزت کو نقصان پہنچایا
ہے اور وہ اپنی اغراض کے سبب سے باغی بنانا چاہتی ہے مقید کرکے ہمارے پاس بھیجو جیسے ہم نے اس پانچ سال
مین تمہاری خاطر کی ہے کہ جو کچھ تم نے کیا اس مین مناقشہ نہین کیا۔ جو کچھ تم نے عرض کیا خواہ معقول یا نامعقول تمہارے
صوابدید سے عدول نہین کیا اس لیئے تم کو بھی چاہیئے کہ ہمارے حکم کو سمعاً و طاعۃً انقیاد کرکے برخلاف نہ کرو جب
تم اس حکم پر عمل کروگے ہمارا دل تم سے صاف ہو جائیگا اور تمہارے جرائم و تقصیرات کو بالکلیہ معاف کردینگے
جس وقت تم ہماری ملازمت کو چاہوگے اور وقت بھی اس کا اقتضا کریگا تو ہم تمکو بلائینگے کہ تمہارا حجاب رفع ہو۔
اب تک ہم کو تمہاری خدمات ملحوظ و منظور ہین گو ان خدمات کی عوض مین بھی برابر رعایتین ہو چکی ہین ہم نہین
چاہتے کہ تمہارا نام کہ مدتون اخلاص و ارادت و انقیاد و اعتقاد کے ساتھ امصار و بلاد مین مشہور تھا۔ اب وہ بغاوت
و عناد و فساد کے ساتھ منتشر ہو اور آخر عمر مین قراچہ قراخجت کے زمرہ مین تمہارا حشر ہو۔ تمہاری عبودیت کے حقوق کے
سبب سے ہم نے تمکو آگاہ کیا۔ زنہار کچھ اور خیال نہ کرنا اور خوب یقین رکھو کہ اگر از روے جہل و کوتہ اندیشی کے بے راہ ہوگے
اور نخوت و پندار سے اپنا دماغ پریشان کرکے اہل ادبار کی سلک مین آؤگے تو ہمارا لشکر تمہارے درپے ہوگا اور ہماری
اقبال کا عنفوان اور تمہارے ادبار کا آغاز ہے اس لیئے یقین ہوتا ہے کہ ہم کو فتح عظیم ہوگی اور تم شرمسار گرفتار ہو
بیدولتی اس معنے پر استدلال نہین کرنے دیتی کہ ان پانچ سال مین تم نے اپنے آدمیون کے ساتھ کیسی رعایت کی

ہے وہ اس واقعہ کے دن کام آیئن۔ کوتہ اندیشی و نادانی کے سبب سے آدمی نہین جانتا کہ دولت عنایت الٰہی کے ساتھ ہے جسوقت یہ عنایت نہو تو کوئی بے دولت کام مین نہین آتا۔ چنانچہ تم نے اپنی آنکھون سے دیکھ لیا کہ جن آدمیون کو تم فرزند و برادر کہتے تھے اور کبھی انکی جدائی کا گمان نہ کرتے تھے وہ امیر جدا ہو گئے اور جو رہ گئے ہین وہ بھی ایک ایک کر کے علیحدہ ہو جاینگے اور ہماری درگاہ مین آجاینگے اور رفتہ رفتہ تم کو تنہا چھوڑ دینگے ایسی جگہہ سوائے تسلیم و رضا کے کوئی اور چیز فائدہ نہین دیتی ع سر نیاز بباید نہاد و گردن طوع * کہ ہر چہ حاکم عادل کند ہمہ داد است *

خانخانان اس دستور العمل سعادت سے پند پذیر نہوا بلکہ اور شورش پر زیادہ آمادہ ہوا۔ وہ بیکانیر سے پنجاب کیطرف متوجہ ہوا جب قلعہ تبرہندہ مین پہونچا۔ یہ شیر محمد دیوانہ کی جاگیر مین تھا وہ اسکے مخصوصون مین سے تھا کوئی کہتا ہے کہ متبنیٰ تھا اپنے بیٹے عبدالرحیم کو مع اہل و عیال و احمال و اثقال کے اس قلعہ مین شیر محمد کو حوالہ کر دیا اور خود وہان سے چلا شیر محمد نے اپنے اصلی ولی نعمت کے حق مین بہتر سمجھ کر اس نے قرار کیا۔ اسکے تمام اسباب و اشیا پر کہ تبرہندہ مین چھوڑ گیا تھا متصرف ہوا اور اہل و عیال کو ملازمت مین لایا۔ بیرام خان نے جو درویش محمد اوزبک مظفر علی کو اپنے مال و عیال کی طلب مین شیر محمد پاس بھیجا تو اُس نے مقید کر کے پادشاہ پاس بھیجدیا اور پادشاہ کو اپنا صاحب حقیقی سمجھکر ولی نعمت مجازی کو چھوڑ دیا اور سچ مچ پادشاہ کا خیرخواہ بن گیا۔ جب بیرام خان بہتارہ کے نزدیک پہنچا تو مرزا عبداللہ مغل نے قلعہ کو مضبوط کیا۔ ولی بیگ نے اس سے لڑکر شکست پائی۔

پادشاہ دہلی مین تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ بیکانیر سے بیرام خان پنجاب کیطرف گیا تو پادشاہ نے اول لشکر شمس الدین محمد خان کو دیکر اس لیے بھیجا کہ خانخانان کو پنجاب مین نہ گھسنے دے اور پھر خود پادشاہ سامان یورش تیار کر کے پنجاب روانہ ہوا اور خواجہ عبدالمجید مخاطب بہ آصف خان کو دہلی سپرد کی اور اُسکو یہ نصیحتین کین کہ اپنے جاہ و خرد پر مغرور نہونا۔ نعمت رسیدگی کا پاس ہمیشہ رکھکر اپنی سربلندی کو فروتنی پر منحصر سمجھنا اور اپنی مزد خدمت ہماری عنایت و تربیت کو سمجھنا چشم و دل و دست و زبان کو آدمیون کے مال سے کوتاہ رکھنا۔

بیرام خان کی بغاوت کی شورش ہوئی تو مصلحت و احتیاط کے لئے حسین قلی بیگ کو قید کر کے ادہم خان کو سپرد کیا اور اُسسے کہدیا کہ اگر حسین قلی بیگ کو کوئی گزند پہونچیگی تو تجھ سے باز خواست ہوگی۔

۲۰ ذی قعدہ کو دارالملک دہلی سے اس فتنہ کے دور کرنے کے لیئے روانہ ہوا پادشاہ نے جو لشکر پہلے روانہ کیا تھا وہ پرگنہ دکدار مین جو نواحی پرگنہ جالندھر مین ستلج و بیاہ کے درمیان واقع ہے پہونچا۔ اور گوناچور پر جو دکدار سے متعلق ہے بیرام خان کو جا کر اس نے روکا۔ بیرام خان جالندھر کے لینے مین اہتمام کر رہا تھا کہ اتگہ خان کے لشکر کے آنے کی خبر سُنی۔ وہ ان اتگہ خان کو کیا سمجھتا۔ اس سے لڑنے کو تیار رہوا۔ طرفین سے بآئین جنگ لشکر تیار ہوئے۔ بیرام خان پاس لشکر بہت نہین تھا مگر کیفیت کے اعتبار سے زیادتی رکھتا تھا اور لشکر پادشاہی سے زیادہ اعتماد کے لایق تھا۔ پادشاہ کے لشکر مین سے اکثر نے اپنی بدنہادی و بددلی و دوزبانی سے بیرام خان کو نوشتے بھیجے تھے۔ غرض موضع گوناچور مین اوائل ذی الحجہ ۹۶۷ھ مین طرفین سے کوشش دلیرانہ ظہور مین آئین۔ پادشاہ کا لشکر اول بھاگا۔ دشمن کا لشکر اسکے پیچھے پڑا۔ اور بیرام خان خوش خوش جاتا تھا کہ اتگہ خان کی فوج ایک پشتہ کی پناہ مین کھڑی تھی کہ وہ اسکے سامنے آئی۔ بیرام خان ہاتھیون کو آگے لے کر اسکے مدافعت کے لیئے کھڑا ہوا مگر آخر کار شکست پائی۔ پادشاہی لشکر نے مخالف کی سپاہ کو پراگندہ کر دیا۔ اسمعیل قلی خان کو زندہ گرفتار کیا۔ ولی بیگ زخمی ہو کر پکڑا گیا اور اعیان مخالف گرفتار ہوئے اور بہت غنیمت پادشاہ کے لشکر کے ہاتھ آئی۔ اتگہ خان نے بھگوڑوں کا دور تک دوراندیشی کے سبب سے تعاقب نہین کیا۔

پادشاہ شکار کھیلتا ہوا نواحی سہرند مین تھا کہ خبر داروں نے اس فتح کی خبر سُنائی۔ لوازم شکر و سپاس وقوع مین آئے۔ مراسم نشاط و شادمانی کی تقدیم ہوئی۔ مہام سلطنت نے انتظام تازہ پایا۔ کوتہ حوصلون کو فراخی مشرب نصیب ہوئی۔ ہیچمدان سادہ لوحون کو سررشتہ دانش ہاتھ لگا۔ دولت نے مغروروں کے ہاتھ سے خلاصی پائی۔ پادشاہ وقت کو ناحق شناسون کی ہمسری سے نجات ہوئی۔ خردمندون کو افزائش دریافت نصیب ہوئی۔ دولت نے منھ دکھایا۔ اقبال نے چہرہ کشادہ کیا۔ عالم نے طراوت تازہ پائی۔ نیک زبان گواز سر نو تازگی ہوئی۔ کور باطن حسد پیشہ خاکساری کے گڑھے مین گرے۔ اور ادبار کی خاک انکے سر پر چڑھی۔ انصاف پیدا اور معدلت آشکارا ہوئی۔ یہ پادشاہ کے زمانہ اختیار کی فتح اول تھی۔ پادشاہ سہرند مین مقیم تھا کہ منعم خان حسب الحکم اور امرا کی ساتھ دوشنبہ ۱۸ ذوالحجہ ۹۶۷ھ کو پادشاہ کی خدمت مین آیا اس کو منصب عالی وکالت اور خطاب خانخانی کا اور خلعت مرحمت ہوا اور شمس الدین اتگہ خان بھی یہین آیا۔

پادشاہ کی فتح اور بیرام خان کی شکست سنہ ۹۶۷

اس کو جامہ واقو وجامۂ فتاحی بیرام خان اور اعظم خانی کا خطاب ملا وہ اپنے ساتھ مرزا ولی بیگ اور بڑے بڑے سرداروں کو پاؤن مین زنجیر اور گلے مین طوق ڈال کر اور بہت سی غنائم لایا تھا۔ ولی بیگ نے زندان مین زندگانی سے نجات پائی۔ اس کا سر ممالک شرقیہ مین عبرت کے لیے بھیجا گیا مگر جب یہ سر پرگنہ اٹاوہ پہنچا تو یہان کے جاگیردار بہادر خان نے سر لے جانے والے کو مار ڈالا مگر یہ حال پادشاہ پر نہ کھلنے دیا۔

یہان سے پادشاہ سہ شنبہ ۲ ذی الحجہ ۹۶۷ھ کو شکار کھیلتا ہوا لاہور مین گیا اور منعم خان نے یہان کا سارا اہتمام اتگہ خان کو حوالہ کیا اور جب پادشاہ کو یقین ہوا کہ تلواڑہ مین راجہ گنیش پاس بیرام خان ہے تو وہ سہ شنبہ ۱۰ محرم ۹۶۸ھ کو کوہ سوالک کی طرف چلا۔ اس نواح مین تلواڑہ ایک جائے مستحکم دریاے بیاس کے کنارہ پہ ہے پادشاہ نے چاہا کہ ارباب غرض کے مکر و تزویر بغیر اس مہم کو خود انجام دے۔ ماچھیواڑہ مین پادشاہ کا منتظر لشکر تھا کہ وہ یہان آیا اور منعم خان جس کو اس نواح کا انتظام سپرد تھا وہ پادشاہ پاس آیا۔ حوالی سوالک مین اس لشکر نے تنگنا ہاے کوہستان مین جا کر دہی راؤن اور راجاؤن کو شکست دی اور ملک کو تاخت و تاراج کیا اور جانبین سے بڑے بڑے حملے ہوئے خوب لڑائیان ہوئین۔ پادشاہی لشکر مین سلطان حسین خان جلائر کہ ایک جوان بہت خوش قامت و متناسب الاعضا شجاع تھا لڑائی مین مارا گیا جب اس کا سر جدا کر کے بیرام خان پاس مبارکباد کہتے ہوئے لوگ لائے تو اُسنے اپنی آنکھون پر رومال رکھا اور اس کی حسن خدمات کو یاد کیا اور ہاے ہاے کر کے رونے لگا۔ اور کہنے لگا کہ میری زندگی پر ہزار نفرین کہ جسکے لیے میری شامت نفس کے سبب سے ایسے جوان ضائع ہون۔ جب بیرام خان نے نواحی کوہستان مین پادشاہ کے خود آنے کا حال سُنا تو عاقبت اندیشی یہ کی کہ جمال خان اپنے معتمد غلام کو پادشاہ کی خدمت مین بھیجا جس نے بیرام خان کی طرف سے پادشاہ سے عرض کیا کہ مجھ سے بعض امور بطریق اضطرار نہ برسبیل اختیار سرزد ہوئے ہین۔ جس سے مجھے نہایت ندامت ہے۔ میرے قصور معاف ہون۔ پادشاہ نے اپنے لطف و کرم سے اُسکی ساری تقصیرات معاف کر دین اور اسکی تسلی خاطر کے لیے مولانا عبد اللہ سلطان پوری کو اور اپنے مقربون کے سامنے بھیجا کہ اس کو مطمئن کر کے ہمارے پاس لے آؤ۔ ان آدمیون سے بیرام خان کی تسلی نہ ہوئی اور اُس نے کہا کہ مین اپنے کیے سے خود خجل ہون اور ہر طرح کی سیاست کا مستحق ہون۔ پادشاہ کے مکارم اخلاق سے خاطر جمع ہوئی مگر

پادشاہ کا کوہ سوالک مین جانا اور بیرام خان سے لڑائی ۹۶۷ھ

کل ارکان چغتائی اور امرا ارلیاء دولت سے ہراسان ہون اگر منعم خان آن کر میری تسلی اور پیمان درست اور عہد موکد کرے تو مین پادشاہ کی درگاہ مین حاضر ہو کر ... کو موجود ہون پادشاہ سے اجازت لے کر باقی عمر مکہ شریفہ مین گذارون گا اور اپنے گناہون کی تلافی کرون گا۔ پادشاہ نے اس درخواست کو منظور کر لیا۔

بیرم خان کا پادشاہ کے پاس آنا ۹۶۸ھ

جب پادشاہ حدود قصبہ حاجی پور مین آیا جو دامن کوہ ستلج و بیاہ کے درمیان واقع ہے تو اپنے منعم خان اور امرا کو بھیجا کہ بیرم خان کو ہماری عنایتون کا وعدہ کرکے مطمئن کرکے ہمارے پاس لے آؤ جب یہ امرا سنگنائے وحشت مین کہ جہان بیرم خان نے پناہ لی تھی گئے تو زمیندارون کا ہجوم ہوا اور ممالک ہندوستان مین زمیندارون کی جمعیت کا جو قاعدہ مقرر ہے اُسکے موافق لڑنے کو تیار رہتے۔ تنگ راہون کو طے کرکے یہ پادشاہی امرا اس قلعہ مین پہونچے جہان بیرم خان تھا منعم خان کو دیکھتے ہی بیرم خان کا دل بحال ہو گیا کہ پادشاہ کا زبانی جو پیغام آیا تھا وہ بیان واقع تھا آگے بڑھ کر وہ آیا اور اس سے ملا اور نہایت رقت کی منعم خان اس کی استمالت کرکے پادشاہ پاس لایا۔ بابا زنبور اور شاہ قلیخان محرم نے بیرم خان کا دامن پکڑ کر بڑی گریہ اور زاری کی کہ ہرگز نہ جا اسمین غدر و مکر ہے۔ ہرچند منعم خان نے انکو دلاسا دیا مگر سود مند نہوا تو اس نے ان سے کہا کہ تم رات کو یہین مقیم ہو کر خبر کے منتظر رہو۔ جب خاطر جمع ہو تو ملازمت پر متوجہ ہونا۔ یہ خوف زدہ بیرم خان کو چھوڑ کر چلے گئے اسکے ہمراہ نہ گئے۔ بیرم خان پادشاہ کی خدمت مین محرم ۹۶۸ھ مین آیا۔ رومال گردن مین ڈالے ہوئے سجدہ بجا لایا اور پادشاہ کے قدمون پر سر رکھ کر ور دریائے شرم گناہ یا شوق عفو سے خوب چلا چلا کر رویا۔ پادشاہ نے اپنے ہاتھون سے اسکا سر اُٹھایا اور اپنے رومال سے اس کے آنسوؤن کو پوچھا پرسش احوال زبان عذر پذیر سے فرمائی اور اس قانون کے موافق کہ ایام وکالت مین بیرم خان کی جاے پادشاہ کے دست راست پر مقرر تھی اُسکو بٹھایا اور منعم خان کو اس کے پہلو مین جگہہ دی اور امرا اور ارکان سلطنت واعیان مملکت اپنی اپنی جگہہ بیٹھے اور مرحمت اور مکرمت کی زبان سے اس قدر انبساط اور التفات فرمایا کہ گرد حجاب وغبار خجالت بیرام خان کی پیشانی سے زائل ہو گیا مگر اصل بات یہ ہے۔ **مصرع**

اگر گناہ ببخشد شرمساری ہست

پھر پادشاہ نے اُٹھکر اپنے ہاتھ سے خلعت فاخرہ جو اسکی بغل مین تھا مرحمت کیا اور خوشی خاطر سے
اُس کو سفر حجاز کی رخصت دی حزم ودوراندیشی کی راہ سے ترسون محمد خان وحاجی محمد خان سیستانی
کو ہمراہ کیا کہ ممالک محروسہ کی انتہا تک اسکے ساتھ جاوین - اور اس کو خوف مسالک سے باہر
نکال دین - یہ دونون حدود ناگور سے واپس آگئے کہتے ہین کہ بیرام خان نے حاجی محمد خان سیستانی
سے شکایت کی کہ توکل حقوق قدیم کو فراموش کرگیا اور تیری بیوفائی اور مخالفت سے جیسی کوفت
مجھے پہونچی ہے ایسی کسی اور سے نہین پہونچی حاجی محمد خان نے جواب مین کہا کہ تم نے باوجود دعوی
اخلاص اور فزونی تربیت حضرت جنت آشیانی اور مراحم واشفاق شاہنشاہی باغی ہوکر تلوار
ہاتھ مین لی اور اس سے جو کچھ ظہور مین آیا وہ آیا - میرا تمہاری ترک صحبت کرنا کیا اور تھا مین کیا
کرتا - اس سے بیرام خان شرمندہ ہوا اور خاموش ہوگیا -

ہمنے جو پادشاہ اور خانخانان کے درمیان رنجشون کے معاملات بیان کیے ہین وہ زیادہ تر ابوالفضل کے اکبرنامہ سے نقل کیے ہین جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیرام خان کی ذات سے پادشاہ کے دل مین عداوت کا خیال کبھی نہین آیا مگر اس کے ساتھ ایک جماعت شریرون کی تھی جسکی خوشامد گوئی سے خانخانان سے حرکات ناپسندیدہ سرزد ہوتی تھین اور بغاوت پر آمادہ کراتی تھین وہ ان کو سزا دینی چاہتا تھا - اب اور مورخ خصوصاً خافی خان اپنی تاریخ منتخب اللباب مین یہ لکھتا ہے کہ بیرام خان کے دل مین پادشاہ سے کبھی بغاوت کا خیال نہین آیا - ایک گروہ ایسے آدمیون کا پادشاہ کے ساتھ ہوگیا جو بیرام خان کی طرف سے حق ناحق باتین لگا کر بھڑکاتے تھے وہ اس بدکردار فرقہ کے کیفر کردار کے منصوبے مین رہتا تھا مجبوری اس کو پادشاہ سے لڑنا پڑا - جب بیرام خان نے بیت اللہ کی راہ لی تو جس منزل مین وہ پہونچا وہان کے زمیندار اور حاکم کہ اسکے دشمنون کے متوسل تھے تصدیع دیتے اس کو متواتر خبر پہونچی کہ بدبختون کے اشارے سے مخالفون کا ارادہ ہے کہ اسکو ہلاک کرین - اکثر ہمراہی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے تو اس وسوسہ کے سبب سے سانگانیر سے کہ دارالخلافہ آگرہ سے تیس کوس ہے اس نے مراجعت کی اور حج کے ارادہ کو فسخ کر کے دنیا کے ساتھ پھر دلبستگی کرنے

پادشاہ اور خانخانان کے معاملات مین مورخون کے بیانون کے اختلافات

پچاس ہزار روپیے اور لوازم سفر از روی لطف وکرم عنایت ہوئے اور وہ رخصت ہوا۔ بیرام خان مکہ کو ۹۶۵ھ میں مع فرزندون وچند ہمراہیون کے روانہ ہوا بندر کھنبائت متعلقہ احمدآباد مین آیا یہان چند مقام کیئے مبارک خان لوحانی جس کے باپ کو جنگ ہیمو مین بیرام خان نے اپنے ہاتھ سے مارا تھا وہ دشمنون کی رہنموئی سے رفیق راہ ہوا اور فرصت کا منتظر رہا۔ ایک دن ایک زخم کاری سے بیرام خان کا کام تمام کیا اور افغانون نے کہ اسکی مددگار گوشہ وکنار مین تھے اس کے خیمہ وخانہ پر آن پڑے اور لوٹ لیا وقت واپسین کون کہتا ہے کلمہ شہادت جاری تھا اور کہتا تھا کہ صد شکر وں نعمت کی راہ مین سفر بیت اللہ مین درجہ شہادت پر پہنچا

شہید شد محمد بیرام۔ اسکی تاریخ ہوئی۔ مرزا عبدالرحیم اس کا چار سال کا لڑکا اور سلیمہ سلطان بیگم اور متعلق احمدآباد مین آئے۔ یہان سے بادشاہ نے ان کو بلالیا سلیمہ سلطان بیگم سے کہ حسن وجمال مین کمال رکھتی تھی اور شاعر تھی اس سے پادشاہ نے نکاح کیا۔

بعض مورخون کے نزدیک بیرام خان بغاوت اور نمک حرامی کی تہمت سے بری اور پاک تھا اور بعض کے نزدیک وہ اہل بغی مین تھا۔ ابوالفضل نے بیرام خان کی وفات کا حال اس طرح لکھا ہے بیرام خان اصل مین نیک ذات وخجستہ صفات تھا مگر بد مصاحبی سے جو سب سے زیادہ بدتر آدمی زاد کے واسطے ہی اس نے اول اپنے حسنات دیکھے اسپر خوشامد کی افزونی سے مستی کا اضافہ ہوا قاعدہ ہے کہ جو شخص اپنی نیکیون اور ہنر پر نظر رکھتا ہے تو اسکی پیش گاہ مین خوشامدیون کا بازار گرم ہوتا ہے خوشامد کو بیان واقع سمجھ کر خود پرست وخود آرا ہو جاتا ہے۔ بیرم خان کو بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ اورون کے عیوب دیکھنے مین ایسا مصروف ہوا کہ اپنے عیب کے دیکھنے مین نہ مشغول ہوا اور پادشاہ کی صغرسنی عدم اشتغال مہات ملکی کے پردہ مین پادشاہ کے حسن معنوی کو نہ دیکھ سکا۔ خوشامدیون سے اس کا خانہ ایسا خراب نہین ہوا جیسا کہ راست کردار معاملہ نافہم سے جو اس کے کوتاہ عقل دوست تھے۔ یہ اسکی بڑی سعادتمندی تھی کہ وہ پادشاہ کو راضی کرکے اور خود خوش ہو کر عزت وناموس واہل وعیال واسباب اموال کے ساتھ اماکنہ شریفہ کی زیارت کو گیا وہ اول شہر گجرات مین پہونچا کہ پہلے نہر والہ مشہور تھا اُس نے چند روز آرام کے لیے قیام کیا ان ایام مین اس شہر کی ریاست خوشی خان فولادی سے تعلق رکھتی تھی اور طوائف افغان اس کے شریر شورافزائی تھے

بیرام خان کی وفات حسب تحریر علامہ ابوالفضل ۹۶۸

ان مین مبارک خان لوحانی بھی تھا کہ اس کا باپ جنگ ماچھیواڑہ مین بیرام خان کی امیری مین مرا گیا
تھا۔ اس دیوانہ افغان نے انتقام کا ارادہ کیا اور بیرام خان کا قصد کیا۔ سوائے اسکے سلیم شاہ
پسر شیر شاہ کی کشمیری بیوی اور اس بیوی سے اسکی بیٹی دونون بیرام خان کے قافلہ کے ساتھ
تھین اور اس کا حجاز کا قصد تھا اور یہ قرار پاگیا تھا کہ اس لڑکی سے پسر بیرام خان کی نسبت ہو گی
اس سبب سے بھی افغانون مین شورش تھی۔ بیرام خان پٹن کے باغون اور مکانات کی سیر کیا کرتا
تھا۔ ایک دن دل کش سیرگاہ کولاب بزرگ کے نشیمن مین کشتی پر بیٹھ کر سیر کرنے گیا تھا کشتی سے
اتر کر سوار ہوتا تھا کہ مبارک خان اور چالیس اور افغان کولاب کے کنارہ پر بیرام خان کے مارنے
کے مقصد سے بیٹھے تھے یہ معلوم ہوتے تھے کہ اس سے ملنے آئے ہین بیرام خان نے انہی جماعت کو طلب
کیا۔ جب مبارک خان گیا تو اس نے ایسا خنجر مارا کہ اسکے سینہ سے پار ہو گیا۔ دوسرے افغانون نے
تلوار مارکر بالکل کام تمام کیا اس حال مین کلمہ اللہ اکبر اسکی زبان پر تھا یون اسنے درجہ شہادت
پایا اس کی حکومت مین ایک سادہ لوح سید نے اسکی مجلس مین اٹھ کر کہا تھا کہ نواب کی شہادت
کی نیت سے فاتحہ ہم پڑھتے ہین تو بیرام خان نے مسکرا کر کہا تھا کہ مین شہادت چاہتا ہون
مگر نہ اسقدر جلد۔ اس کے ہمراہی متحیر و متوحش ہو کر تو کہین ہی کے کہین ہو گئے۔ بیرام خان خاک و
خون مین پڑا تھا کہ فقرا اور مساکین کی ایک جماعت نے اسکے قالب خونین کو شیخ حسام کے مقبرہ کے
گرد خاک کے حوالہ کیا۔ روز جمعہ ۱۴ جمادی الاولے ۹۶۸ھ کو یہ واقعہ پیش ہوا تاریخ اس واقعہ کی یہ ہوئی

قطعہ

بیرام بطوف مکہ چو بربست احرام	در راہ شد از شہادتش کام تمام
در واقعہ ہاتفے پئے تاریخش	گفتا کہ شہید بشد محمد بیرام

پھر وہ جسم قلی خان خان جہان کی سعی سے مشہد مقدس مین مدفون ہوا اس حادثہ مین پٹن کے
اوباشون وفتنہ پردازون نے بیرام خان کے لشکر پر دست دراز کیا۔ اور کوئی چیز نہین چھوڑی اس
مرحوم مظلوم کے گھر مین اس حادثہ سے ایک آشوب عظیم ہوا محمد امین دیوانہ و بابائے زنبور و خواجہ

ملکہ عبدالرحیم کو بیرام خان کا خلف الصدق تھا اور اس وقت چار سال کا تھا اپنی والدہ اور بعض خدمتگارون کے ساتھ احمد آباد کو روانہ ہوے۔ اسکے پیچھے بھی افغان پڑے۔ مگر یہ مصیبت زدہ لڑتے ہوے احمد آباد مین پہونچ گئے۔ چار مہینے یہان توقف کیا محمد امین دیوانہ اور بعض خدمتگار عبدالرحیم کو لیکر پادشاہ پاس چلے۔ پہلے اس سے کہ وہ پہونچین پادشاہ نے بیرام خان کی وفات کی خبر سنکر عبدالرحیم کو بلانے کا فرمان لکھا تھا وہ حدود جالور مین ان کو ملا۔ اس فرمان کا حاصل تھا کہ عبدالرحیم ہمارے پاس آکر تربیت پاے ۹۶۹ھ کے اوائل مین وہ پادشاہ پاس آگرہ مین آگیا باوجودیکہ بہت لوگون نے بدگوئی و بداندیشی کی مگر پادشاہ نے اس کو تربیت کیا۔ لڑکپن مین اسکو مرزاخانی کا خطاب دیا پھر بتدریج و تربیت مدارج عالی پر پہونچایا اور پھر مرتبۂ اعلیٰ خانخانی کا پایا

بیرم خان اور پادشاہ کی رنجشون کے درمیان جو واقعات پیش آئے

ہم ہر واقعہ کو مسلسل بیان کرتے ہین جس سے وہ بخوبی سمجھ مین آئے۔ اس کو سنہ کی قید سے ہم حصے کرکے نہین بیان کرتے۔ جو واقعات بیچ مین چھوٹ جاتے ہین اُن کو اس واقعہ کے تمام و کمال بیان کے بعد لکھدیتے ہین۔

عشق و عاشقی قلی خان زمان

علی قلی خان زمان کی عشق و عاشقی کی داستان بھی عجیب ہے۔ ہم اس داستان کے ناپاک بیان سے اپنی تاریخ کے اوراق کا منہ کالا اس سبب سے کرتے ہین کہ بعض چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ایسے ہوتے ہین کہ ان کے بیان کرنے سے تاریخ مین نتایج عظیم پیدا ہوتے ہین۔ یہ واقعہ ایسا ہی ہے۔ جنت آشیانی کے عہد مین شاہم بیگ پسر ساربان ایک نوجوان سادہ رو تھا حسن صورتی جمالی ظاہری مین اسکی شہرت تھی وہ پادشاہ کے قورچیون مین یعنی خواصون مین نوکر تھا حضرت جنت آشیانی کا منظور نظر تھا بعد واقعہ ناگزیر کے وہ بدستور شاہی قورچیون مین منسلک تھا علی قلی خان زمان جس کو اپنے شیعہ مذہب مین ایسا غلو تھا کہ معلوم ہوتا تھا تعزیہ اسکے مذہب مین نہین ہے وہ اسپر عاشق ہوا۔ اسنے شاہم بیگ کو جو جالندھر مین پادشاہ کے پاس تھا بلالیا۔ اس نے یہان آنکر اپنی حسن فروشی

کا بازار ایسا گرم کیا کہ خان زمان کی عقل و ہوش کو خرید لیا۔ وہ اسکے ساتھ وہ سلوک کرتا تھا
جو سلاطین کے لیے مخصوص ہے اس کو مسند پر بٹھاتا اور اس کے آگے خود دست بستہ کھڑا ہوتا اور
شاہم شاہم کہتا جو اس راز سے محرم تھے انھون نے مولانا پیر محمد کی معرفت پادشاہ کو اس امر سے
اطلاع دی۔ پادشاہ نے خان زمان کو لکھا کہ آدمی نا خوشامد گو بدذاتون کی صحبت سے اور فرمانبرداری
آز سے سلطان شہوت و غضب کا مغلوب ہوتا ہے اور طرح طرح کے برے کام کرتا ہے۔ اب تو
اپنے کیے سے پشیمان ہو کر اس کردار ناشائستہ کا تدارک نیکو خدمتی سے کر۔ اور شاہم بیگ کو ہمارے
پاس بھیجدے۔ ہم تیرا قصور معاف کردینگے۔ اگر بیخردی اور بے شرمی سے احکام پادشاہی
نافرمانی کریگا تو تیری سزا تیری بغل مین موجود ہے۔ علی قلی خان کو معشوق کا فراق طبیعت پر
شاق تھا اس مین گفتگو شروع کی۔ پادشاہ نے سلطان حسین خان جلایر کو قصبہ سنبھل اس
نظر سے عنایت کیا کہ وہ خان زمان کو زیادہ سرکش ہونے دے۔ خان زمان نے یہ قصبہ پہلے
اسماعیل خان بھرا براہیم خان اوزبک کو اپنی طرف سے جاگیر مین دیا تھا قاعدہ ہے کہ کسی جماعت کا
سردار بدعملی و حرام نمکی سے موصوف ہوتا ہے تو اسکے پیرو بھی ناگزیر بے بہرہ ہوتے ہین اس لیے
اسمعیل خان نے پرگنہ مذکور نہ دیا اور لڑنے کے لیے کھڑا ہوا۔ سلطان حسین خان کو پادشاہ کی حمایت
پر بھروسا تھا اسنے بزور پرگنہ کو لے لیا اسمعیل خان علی قلی کے پٹھون مین گھس کر ایک لشکر کثیر اپنے ساتھ
چڑھا لایا۔ سلطان حسین خان اس سے لڑا۔ اور فتحیاب ہوا۔ سب سے بدتر مرنا حرام نمکی مین مرنا ہے سو
ایک جماعت کثیر کا مرنا ایسا ہوا۔ علی قلی خان کا خود ارادہ ہوا کہ لشکر لے کر سلطان حسین خان کے زد و برد
جائے۔ لیکن عقلمندون نے اس اندیشۂ نادرست کی روسیاہی سے باز رکھا۔ وہ بھی نصیحت پذیر ہو کر
اپنا چارہ کار کرنے لگا۔ ناصر الملک بھیلہ سے اسکے احوال کی نکوہش کرتا اور اسکے سر پر لشکر بھیجنے کا اہتمام کرتا
بیرام خان کو علی قلی خان کی خاطر ایسی منظور تھی کہ اپنے بزرگ منشی سے اسکے ناہنجار کامون کو یہ سمجھتا کہ وہ
ہوئے ہی نہین۔ علی قلی خان کو گھر مین وہ نصیحتین کرتا مگر عشق کب ان کو سننے دیتا اور اپنے کام سے
باز رکھنے دیتا تھا۔ اب مکر و حیلے کرنے لگا۔ اس وقت ناصر الملک بالکل صاحب اختیار تھا اور

مہماتِ ملکی و مالی اسی کی رائے زرین کے حوالہ تھیں۔ وہ اپنی نیک دلی سے پادشاہ کی خیرخواہی کے لیے بیرام خان کا پاس و لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس اپنے ایک معتمد نوکر برج علی کو بھیجا۔ اس نے وہاں جاکر اسے بیڈول باتیں کہیں کہ ناصر الملک نے اسے توب پٹوایا اور چہر قلعہ دہلی کے برج سے گرا کے بستی کے خندق میں گوایا اور اس کو اپنے نام کا مظہر بنایا۔ بیرام خان اس سے نہایت آزردہ ہوا اور دل میں اسکے کینہ ناصر الملک کے ساتھ پیدا ہوا جس کا انتقام اس نے ایسا جس کا بیان پہلے ہم نے کیا بمجبوری علی قلی خان کو آخر بادشاہ کے حکم کی اطاعت کرنی پڑی۔ شاہم بیگ کو اپنے سے دور کرنا پڑا وہ اس سے جدا ہوکر قصبہ سرہرپور میں گیا کہ عبدالرحمن پسر موید بیگ کی جاگیر میں تھا وہ عبدالرحمن سے معشوقی کا علاقہ رکھتا تھا۔ اسکے گھر میں رہنے لگا۔ آرام جان کو یاد کیا

آرام جان کا قصہ یہ ہے کہ وہ ایک کسبی تھی علی قلی خان اس کو بیگ و بر بھی عاشق تھا اور اس نے نکاح کرلیا تھا۔ مگر بیباکی اور بے آزرمی سے اپنی مجلس خاص میں کہ شاہم بیگ میں ہوتا اور بزم شراب ہوتی وہ اس عورت کو بلاتا۔ وہ گاتی اور سرمایہ فساد و انساد ہوتی شاہم بیگ کو اس سے تعلق خاطر پیدا ہوا۔ علی قلی خان ہوا و ہوس کا مغلوب تھا۔ اسنے اپنی وسیع آمدنی کے تین حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے خرچ میں لاتا اور دو حصے شاہم بیگ کو دیتا۔ یہاں تک کہ اس آرام جان اپنی نکاحی بیوی کو شاہم بیگ کے حوالہ کیا۔ کچھ دنوں اسکے ساتھ اس نے مزے اڑائے۔ پھر جس طرح یہ عورت اس کو ہاتھ لگی تھی اسی طرح اسنے عبدالرحمن کے حوالے کردی۔ اس نے اس سے نکاح کرلیا۔ شاہم بیگ اس کے یہاں مہمان تھا عین مستی و بیہوشی میں وہ اس آرام جان کی یاد میں بے آرام ہوا۔ عبدالرحمن کو بھی وہ علی قلی خان تھا مگر نہیں محبت تھی اس نے اس درخواست کو نامنظور کیا۔ اسپر شاہم بیگ کو غصہ آیا اور تمام حقوق آشنائی اور دوستی کو یکبارگی چھوڑا جس رابطہ کی ہوا و ہوس پر بنا ہوتی ہے وہ اسیقدر ثبات رکھتا ہے۔۔۔ شاہم بیگ نے شورش میں آکر عبدالرحمن بیگ کو باندھ لیا۔ موید بیگ برادر یا پدر عبدالرحمن بیگ کو جب اس سرگذشت کی خبر ہوئی وہ مسلح ہوکر شاہم بیگ پر چڑھ گیا۔ وہاں اسکے آدمیوں سے لڑائی ہوئی جسمیں شاہم بیگ کے ایک تیر لگا جس سے اسکی جان نے پرواز کی۔ عبدالرحمن بیگ نے نجات پائی اور سیدھا بھاگ کر

شاہ قلی خان محرم کا جوگی ہونا

پاس آیا۔ اور مورد عنایات شاہی ہوا جب یہ واقعہ علی قلیخان نے سُنا تو اُس نے عبدالرحمن خان بیگ کا
تعاقب کیا مگر گنگا کے کنارہ تک آکے ناامید پھر آیا۔ شاہم بیگ کی لاش کو کولاب جونپور کے کنارہ پر دفن کیا۔
اور قبر پر ایک عمارت عالیشان تعمیر کی۔

تجرد گزینی کا یہ عجیب سانحہ ہے کہ قبول خان ناچنے کا فن خوب جانتا تھا اس سے شاہ قلی خان محرم تعلق خاطر
رکھتا تھا۔ بادشاہ کو اپنے امرا و ملازمون کا یہ طور وطریقت پسند نہ تھا خواہ انہین پاکبازی کیون نہو
کیونکہ انہین بہی ناخوشی ہوتی ہے جسکو اہل ہوش خوب جانتے ہین۔ بادشاہ کو مطلق ایسے کام پسند نہ تھے
شاہ قلی اپنی طبیعت کا مغلوب تھا وہ اس کام سے باز نہین آتا تھا بادشاہ نے اس لڑکے کو اُس سے جدا
کرکے اپنے پاسبانون کے حوالہ کیا۔ شاہ قلی نے اپنے گھر بار کو آگ لگائی۔ اور بھبوت بدن کو مل کر جوگی بنگیا
بیرام خان نے اسکے ولایت کے لئے غزل کہی۔ پھر وہ اپنے اس کام سے منفعل ہوا بادشاہ نے اسکو بحال کر دیا

جلال خان و مظفر خان کی عشق بازی

بادشاہ پاک نہاد تھا۔ وہ جمیع خلایق کو خصوصاً اپنے مقربون کو چاہتا تھا کہ وہ عفت اختیار کرین وہ اپنے
آدمیون کی اصلاح اطوار و اوضاع مین حقوق پدری و رافت اتالیقی کرتا تھا اور ناشایستہ حرکت نہین
کرنے دیتا تھا اُس کو دلی نفرت اس عشقبازی سے تھی جسکا بیان ہوا ہے۔ بادشاہ نے جب سُنا کہ جلال خان جسکے
ندیمون مین سے ایک جوان صاحب حسن کے ساتھ بے اعتدالیان کرتا ہے تو اسکو نہایت ناگوار ہوا۔ اُس نے
اس معشوق کو جب اُس سے علیحدہ کرلیا تو وہ دیوانہ ہوگیا۔ اور رات کو اپنے معشوق کو ہمراہ لیکر راہ فرار اختیار
کی۔ مرزا یوسف اور ایک جماعت کثیر اسکے تعاقب مین بادشاہ نے بھیجی وہ اس گرفتار ہوا و ہوس کو معہ جوان کے
مقید کرکے لائے اسکے مناسب حال تادیب ہوئی کہ طویلہ خانہ مین ۔ تون تک لکد کوب مین رہا۔ مگر پھر بادشاہ نے
قصور معاف کر دیا اور اپنا ندیم بنا لیا۔ وہ اس ندیمی کے کام مین بے بدل تھا۔

مظفر خان پر یہ آفت آئی کہ سب کو حیرت ہوئی کہ اُس نے ایک سادہ رو قطب خان سے علاقہ خاطر ایسا پیدا کیا
کہ عقل و ہوش اسکے گم ہوگئے۔ بادشاہ نے قطب خان کو طلب کرکے نگہبانون کے حوالہ کیا کہ مظفر خان کے
قریب بہی آکر بلاے عظیم مین مبتلا نہو۔ مظفر خان نے نافہمی سے لباس فقیر پہنکر صحرا کی راہ لی۔ بادشاہ نے
اسکی نادانی اور بے تمیزی پر نظر کرکے پھر مہربانی کی کہ اس کا یار خدمتگار اس پاس بھجوا دیا

اور بہت سی نصیحتیں کین۔

آگرہ سے قریب ہت (ھانہ) کا نٹ ایک بڑا مستحکم مقام ہے۔ یہان کے زمیندار بھدوریہ قوم کے تھے وہ ہوشیاری اور مردانگی مین مشہور تھے۔ سلاطین ہند سے ہمیشہ سرکشی کرتے رہتے تھے بیرام خان نے ادہم خان کو یہان کا جاگیردار مقرر کیا۔ وہ ہمیشہ اس سے متوہم رہتا تھا۔ اس لیے جاگیر مقرر کی کہ وہ گھر سے دور ہو جائے گا۔ اور متمردون کو بھی ٹھیک بنا دیگا ۵ چہ خوش بود کہ برآید بیک کرشمہ دو کار۔ ادہم خان نے یہان آکر سرکشون کو درست کیا۔

مشکلات میں ادہم خان کا بھیجنا

نوجوان پادشاہ کی مشکلات اور اُس کے اصول سلطنت

اٹھارہ برس کی عمر اور یہ سلطنت کا بھاری بوجھ اُٹھانا اسی کا کام تھا۔ خدا نے عجیب عقل و فہم دماغ مین اور خوبیان دل مین اور زور و قوت چستی و چالاکی جسم مین اُسکو عطا کی تھین۔ اگر اُسکی سوانح عمری اول سے آخر تک خیال کیجیے تو ہر ایک بات انوکھی معلوم ہوتی ہے پیدا ہوا تو اُس وقت کہ باپ کن بلاؤن اور آفتون مین مبتلا تھا۔ پلا تو چچا کی قید مین جو باپ کی جان کا دشمن تھا۔ لڑکپن مین کھیل کھیلا تو یہ بدمست ہاتھیون کو نسدا تا اور ان کو لڑاتا اور اگر گرتا تو بھی چڑھنے سے نہ ڈرتا شیرون کے تکار تلوار سے کرتا پھر تو بارہ برس کی عمر مین باپ کے ساتھ جا کر لڑائیون مین نام پیدا کیا۔ اب بیرام خان جیسے وزیر سے سب اختیار سلطنت کو چھین لیا غرض خواہ اُس کے سپاہیانہ کام دیکھیے۔ خواہ اُسکے انتظام ملکی کی تدابیر پر خیال کیجیے ایک شان کبریائی نظر آتی ہے۔ اگر اکبر کی ذات مین یہ سب صفات جمع نہوتین تو ہندوستان مین خاندان تیمور کی سلطنت جمنی ناممکن ہوتی اُس کو بعض مشکلات بہ نسبت اور مسلمان خاندانون کے زیادہ تر تھین پہلے جن مسلمان خاندانون نے یہان حکومت کی انھون نے اپنے وطن مالوف سے تعلق نہین چھوڑا اُن کی آمد و رفت اپنی زبردست قومون کے ساتھ برابر رہی۔ غزنین و غور کے خاندانونکا ملک اور دار السلطنت ہندوستان سے متصل تھا۔ غلامون کے خاندانون کی سلطنت مین برابر اُنکی قومون کی آمد و رفت جاری رہی مگر اس اعتبار سے خاندان تیمور ضعیف اور کمزور تھا اور اسکی بنیاد کو

استحکام نہ تھا۔ نہ تو وہ کوئی اپنا وطن رکھتا تھا۔ نہ کسی زبردست قوم کے ساتھ رشتۂ اتحاد رکھتا تھا۔ غرض کوئی امید اس بات کی نہ تھی کہ اگر ہندوستان مین برا وقت آئیگا تو ہموطن اُسکی امداد کرینگے۔ یا کوئی اور زبردست قوم اُسکے ہمراہ ہوکر اُس کا قدم آگے بڑھوائیگی۔ کوئی مخزن سپاہ اُسکے پاس ایسا نہ تھا کہ مصیبت کے وقت کام آتا۔ اس خاندان کی سپاہ مین جو سپاہی تھے وہ مختلف ممالک متوسط ایشیا کے رہنے والے تھے فقط غنیمت کی امید پر جمع ہوگئے تھے اور جو سپاہ کے سردار اور افسر تھے وہ کچھ آپس مین ناتہ رشتہ نہ رکھتے تھے نہ ایک خاندان کے تھے فقط ملکون کے فتح کرنے اور اپنی قسمت آزمائی کے لیے ساتھ تھے۔ جب کوئی ملک فتح ہوتا تو وہ اُس کے ٹکڑے کرکے آپس مین تقسیم کرنا چاہتے تھے اس خاندان کی سلطنت کے قیام اور استحکام مین کوشش نہین کرتے تھے چنانچہ اس کا تجربہ ہمایون کے عہد مین ہوچکا تھا کہ اُسکے ساتھ سے یہ سردار کیسے جلد جلد جدا ہوگئے اور بات کی بات مین وہ ہندوستان سے نکالا گیا اور پھر کوئی اپنے وطن سے اہل وطن کی جماعت ایسی نہ لاسکا کہ ہندوستان کو لے لیتا۔

اکبر اپنے خاندان کی اس ضعیفی کو سمجھتا تھا۔ یہ تو بیرام خان ہی کے ہاتھ کو خدا نے قدرت دی تھی کہ اُس نے ان سب مختلف سردارون کو ایسی بندش مین جکڑ رکھا تھا کہ ان کا نکلنا دشوار تھا جس وقت وہ نہ رہا یہ بندش ڈھیلی ہوئی اور اکبر کو افسرونکی معاملات کی دقتین وہ پیش آئین جو اُسکے باپ کو آئین تھین مگر اپنی تدابیر صائب سے سب کا علاج کرلیا۔ ملکون کی فتح مین سردارون کی بغاوت کا بھی بیان کرینگے جس سے یہ مضمون طالب علم سمجھ جائینگے۔ مگر ہم سردارونکی بغاوت کا جدا مضمون نہین لکھین گے۔

اکبر کی سلطنت کا زمانہ اسکی خود مختاری سے پہلے جو چھ برس کا پانی پت کی لڑائی کے بعد گذرا اسکے اندر ہندوستان مین اسکی مملکت کی کیفیت یہ تھی کہ پنجاب اور اضلاع ممالک شمالی مغربی جو اس زمانہ مین کہلاتے ہین اُس پار تھے اسمین گوالیار و اجمیر بھی مغربی لکھنؤ تک اور باقی ملک اودھ اور الہ آباد جونپور تک مشرق مین شامل تھے۔ بنارس چنار اضلاع بنگال و بہار مین خاندان سور اور افغان فرمان روائی کرتے تھے

کل دکن اور مغربی ہندوستان کا بڑا حصہ اُس کی مُطیع سلطنت سے باہر تھے۔

اسی سبب نہین اپنے اتالیق بیرام خان کی پنج سالہ حکومت مین اکبر نے اس مسئلہ پر خوب غور کر لی تھی کہ ہندوستان پر کس طرح سلطنت کرنی چاہیئے کہ کل امرا و غربا اور رعیت و رؤسا کے دلون کا بادشاہ مالک ہوجاے اور وہ اسکو اپنی قوم کا بادشاہ سمجھنے لگین۔ اس مسئلہ مین بڑی دشواریان تھین۔ سلاطین اسلام کی چار سو برس کی سلطنت مین کبھی یہ کوشش نہین کیگئی کہ ہندوستان مین جو مختلف قومین اور باشندے رہتے ہین اُن مین یک دلی بادشاہ کے ساتھ پیدا کی جائے۔ رعایا اور بادشاہ کے اغراض آپس مین وابستہ اور پیوستہ ہوجائین ہر بادشاہ اپنی قوت اور عظمت کے سبب سے اُس مدت تک سلطنت کرتا تھا کہ کوئی قوی اس سے زیادہ پیدا ہوا بار بار خاندانون کے تغیر نے سلطنتون کے سریع الزوال ہونیکا اصول قائم کر دیا تھا۔ ہر خاندان کی سلطنت زود زوال سمجھی جاتی تھی بنگالہ سے گجرات تک ان خاندانون کی شاخین تھین جو سلطنت کی مدعی تھین ان مین سے ہر ایک یہ جانتا تھا کہ ان مغلون کی سلطنت چند روزہ ہے ابھی کوئی نیا حملہ آور آے گا اس کا کام تمام کر دے گا ہمایون نے سلطنت کے سریع الزوال ہونے کے اصول کو اور بھی قائم کر دیا تھا قنوج مین شکست پاکر جو وہ بھاگا تو مغلون کی سلطنت کا نشان کوئی باقی نہ تھا۔ یہان کی ساری سرزمین مین اس کی ایک شاخ کا بھی پتا نہ تھا۔

ان واقعات نفس الامری کو اکبر خوب سمجھتا تھا اور اپنے دل مین یہ سوال سوچتا تھا کہ مین کیا عمل کرون کہ امرا و رؤسا و غربا و رعیت پُرانی باتون کو بھول جائین۔ میرا فتح کرنے سے یہ مقصد ہو کہ سب کو متحد کرون اور جب فتح کرلون تو وہ اصول قائم کرون کہ سب قسم کے آدمیون کو وہ مطبوع و مرغوب ہون جیسے اُن کو رؤسا پسند کرین ویسے ہی رعایا پسند کرے اور دونون متفق ہو کر اسکو یہ سمجھین کہ وہ ہمارا مائی باپ ہے جو سب طرح سے ہماری محافظت کرتا ہے وہ برملا گو ہم سے دور رہتا ہی مگر ہم کو یقین دلاتا ہے کہ قدیمی حقوق اور استحقاق سب قائم رہین گے ان مین کچھ خلل نہین واقع ہوگا جو شخص سب سے زیادہ قابل و لائق ہوگا وہ اسکے حق کو دیکھے گا خواہ وہ کسی مذہب کا کسی قوم کا کسی ذات

ہوگا۔ وہ انھین قوانین کو عمل مین لائے گا جس مین سب قسم کے آدمیون کے لیے انصاف و عدل
ہو۔ یہ اصول اکبر کے دل مین تھے کہ مین قائم کرون۔ اکبر کا دل خدا نے پاک وصاف بنایا تھا
کہ وہ اسکے سبب سے ہمہ تن اس مین مصروف ہوا کہ اس وسیع ملک کی سب قومون کو متحد
کردون اور خود ان کا سرگروہ بنجاؤن۔ اس لیے اس نے صلح کل کا مذہب اختیار کیا۔
شیعہ۔ سنی۔ ہندو۔ مسلمان۔ یہود و نصاری سب اسکے نزدیک برابر تھے۔ کوئی عہدہ عہدہ
بڑے سے بڑا ایسا نہ تھا کہ جسپر ہندو ممتاز نہ تھے۔ مسلمانون کے ہر فرقے کے آدمی بقدر لیاقت
چھوٹے بڑے عہدے رکھتے تھے۔ اس کو مذہب نسل خاندان کا کچھ خیال نہ تھا۔ اسکے ہان گورے
کالے نہ تھے۔ اس صلح کل کے مذہب نے رعایا کو اسکی خیرخواہی مین متفق کرایا۔ بعض متعصب
مصنفون نے اسپر یہ الزام لگایا کہ اس نے اوصاف آلہی کا دعوی کیا۔ ہان یہ بات انکی اس
معنے کر سچ ہے کہ اس زمانہ مین اور اس ملک مین جہان زور ہم معنے حق تھا وہ خدا کا رسول
ایسا پیدا ہوا کہ اس نے خدا تعالی کے اوصاف و قدرت کو اس پیرایہ مین زمین پر ظاہر کیا
کہ ہندوستان کے آدمیون مین مؤانست۔ مسالمت مذہبی۔ عدل و رحم۔ سب کے حقوق ہموارا
داخل کیئے۔ جو منصوبے اس نے باندھے تھے انکی تکمیل کے لیے ایک عرصہ دراز کی ضرورت تھی
مگر سر دست اس نے استحکام سلطنت کے لیے جو منصوبے ضروری تھے وہ اختیار کیے۔
اول کل ہندوستان کی سلطنت ایک ہاتھ تلے اسطرح لائی جائے کہ کل روسا و رعیت پر اقتدار
اور ان کے دل مین اس کا وقار ایسا پیدا ہو کہ وہ سب اسکے دل و جان سے وفادار ہوجائین۔
دوم جو ملک پہلی سلطنت کے قبضہ و تصرف سے باہر نکل گئے ہین انکو دوبارہ حاصل کرکے
سوم ملک کے نظم و نسق مین انقلابات عظیم سے خلل پڑ گئے ہین انکو درست کرے۔
اب آیندہ ہم شہنشاہ اکبر کی تاریخ کے دو حصے کرتے ہین۔ پہلے حصے مین ممالک کی فتوح کا
بیان کرکے دوسرے حصے مین اسکے انتظام و اخلاق وغیرہ کا بیان لکھین گے۔

جو ممالک کہ سلطنت سے نکل گئے تھے اُن کی فتح

جب بادشاہ قلعہ مان کوٹ کے محاصرہ مین مصروف تھا تو یہ واقع پیش آیا تھا کہ قلعہ گوالیار جو ہندوستان کے مشہور قلعون مین تھا۔ اور استحکام مین اپنی نظیر کمتر رکھتا تھا وہ مبارز شاہ عدلی کے قبضہ مین تھا بھیل خان (سہیل خان) جو سلیم شاہ کا غلام تھا وہان قلعہ دار تھا۔ راجہ رام ساہ نے جسکے باپ دادا اس قلعہ کے حاکم تھے بہت سے راجپوتون کو ساتھ لے کر قلعہ کا محاصرہ کیا اور اہل قلعہ کو نہایت تنگ کیا۔ آگرہ سے قیا خان گوالیار کی طرف متوجہ ہوا۔ رام ساہ نے قلعہ کا پیچھا چھوڑا۔ اور قیا خان کے روبرو لڑنے کے لیے ہوا۔ مگر اس کو شکست ہوئی اور قیا خان نے قلعہ گوالیار کا محاصرہ کیا۔ یہ مضبوط قلعہ استواری و محکمی مین پہلے زمانے کے فرزانون کا ایک کارنامہ اور قدیم کارآگہون کا ایک ایسا اثر بدیع ہے کہ زور ہی بازو سے اس کا تسخیر کرنا دشوار ہے۔ جب سنہ ۹۶۶ھ مین بادشاہ آگرہ مین آیا تو حبیب علی خان و مراد و علی سلطان اور ایک جماعت کثیر کو قیا خان کی کمک کے لیے بھیجا۔ بھیل خان نے قلعہ داری کے اہتمام مین کسی بات کو اُٹھا نہیں رکھا اسکے خیرخواہون نے اسے سمجھایا کہ اگرچہ قلعہ مستحکم ہے اور اسباب قلعہ داری مہیا ہے مگر پادشاہ کے لشکر سے مقابلہ مشکل۔ اسکی سمجھ مین بھی یہ بات آگئی۔ اس لیے ربیع الآخر سنہ ۹۶۶ھ کو حاجی محمد خان سیستانی کو بلایا۔ اُسنے اسکی خاطر پریشان کو مطمئن کیا اور پادشاہ پاس لے آیا۔ اس نے قلعہ کی کنجیان اولیاء دولت کو سپرد کین وہ اسکے مقاصد کے ابواب کی مفتاح ہین

اکبر نے اپنی کل فتوحات مین جو اصول اختیار کیے اُن کو ابوالفضل اسطرح بیان کرتا ہے۔ بنی نوع آدم کے افراد کے ہر طبقہ کے لیے ایک عبادت لازم اور ایک طاعت واجب ہے سلاطین پر بھی یہ عبادت لازم ہے کہ وہ آسودگی رعایا کے اندیشہ مین رہین اپنی ساری ہمت خسروانہ کو زبردستون و شکست یابون کی ترفیہ حال مین صرف کرین۔ سوختگان کے سر پر سے ستمگارون و فتنہ سازون کا بھاری بوجھ اُٹھائین اول تدابیرات لائقہ کے ساتھ

قلعہ گوالیار کی فتح سنہ ۹۶۶ھ

اصول فتوحات اکبری

منصبان درست کرے اور نیک اندیش معتمد رکھے اگر ایسا گروہ دیر میں بہم پہونچے تو امراے مختلف
کو پیش میں تمام قوت رکھتے ہون اپنی خرد دوربین کی نیرو سے تعین کرے تاکہ اس طریقہ سے
اتفاق کے چھپے ہوئے پوشیدہ کے حالات معلوم ہوتے رہین۔ دوم اپنے نظر رسی کی نظر کو کام مین لاے
کہ وقت و نرخ الہی رکھنا ہے اور الطاف و قہر مین ملاحظہ درست کرے۔ سوم ہر روش سے
اپنی خرد والا کو نظر دوربین اور فرمان جو صاد کی قوت کے ساتھ کام مین لاے۔ ارباب
استعداد کو کہ وہ مشرب اخلاص رکھتے ہون قوت و قدرت دے اور ان کے اعتبار کے پایہ کو
بڑھائے اور اپنے اعتبار کی پاسبانی کرے اور اپنی بزرگی کے وقت مین خردی کی آنکھ سے
نزدیک اور بیرونی اخلاص گروہ مین سے ہر ایک کے ساتھ انکی حالت کے مناسب پیش آئے اور
ارباب فتنہ و فساد کو کہ وہ شورش کرکے اپنی ہوا و ہوس سے افساد کو اصلاح جانتے ہین بعد
نصیحت مناسب وقت تادیب کرے۔ اور بہت زبان دان والاجینی کہ اپنے ملک کی معموری
مین اپنی ذہانت عالی کو صرف رکھتے ہین اسی طور سے اور ملکی ولایتون مین بہت معدلت
پر دہ مشغول کہین تسخیر ملک اور جہان کشائی کو اپنی بساط آگاہی پر مبنی کرین تاکہ روز
روز اس اقبال کے نتائج سے عروج دولت نشاط و فراخی مملکت مین افزونی ہو۔ یہ سب
صفات بادشاہ مین فطری ہین کسبی۔ انگریزی مورخ انہین اصول کو اپنے طرز پر اسطرح ادا
کرتے ہین کہ اکبر نے اپنے دشمنون کو دوست بنانے کا طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ وہ ان کو یقین
دلاتا تھا کہ مین تم کو پامال نہین کرون گا۔ بلکہ ان کو جاہ و حشمت دونگا اور عزت زیادہ کرونگا
اسکا مقصد اتنا ہی تھا کہ مین سب کو خوش کرون اپنے مغلوب تباہ شدون پر ہمیشہ زیادہ سخاوت
و فیاضی کرتا۔ بجائے اسکے کہ انکی قوت و قدرت اس سے باہر علحدہ رہتی وہ اس کو اپنی قوت مین شامل
کر لیتا۔ جو مخالفین ابتدا مین اسکی مخالفت کرتے تو وہ ان کے دل مین یہ بات بٹھا دیتا کہ
میری فتح سے اور ہماری اطاعت سے تمہاری عزت و جاہ مین کچھ بٹا نہین لگے گا۔ بلکہ انکی
اور ترقی ہو جائیگی۔ سب جگہہ ان اصولون کو جو ابوالفضل نے بیان کیے یا انگریزی مورخ بیان کرتے ہین

اسکی ساری فتوحات اور تسخیر ممالک مین توضیح وتشریح کے ساتھ دیکھو گے۔

ہم پہلے لکھ چکے ہین کہ شیر شاہ نے اپنے عہد سلطنت مین مالوہ کی حکومت شجاعت خان کو سپرد کی تھی۔ یہ سردار خاص اسکا خیل کا تھا جب وہ مر گیا تو باز بہادر اُس کا بیٹا جانشین ہوا اب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ممالک مالوہ مین باز بہادر کے ظلم سے رعایا پر بڑا ستم ہو رہا ہے تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ وہان لشکر بھیجکر اُس دیار کے طبقات خلائق کو آسیب حوادث سے بچائے اس لیے ۹۶۶ھ ۱۵۵۹ء مین مالوہ کی فتح کے لیے بہادر خان کو بھیجا تھا۔ مگر بیچ مین بیرام خان کا جھگڑا اُٹھ کھڑا ہو گیا اس لیے خانخانان نے اُسے بیچ ہی سے اُٹھا بلایا مگر اب پھر بادشاہ نے ۹۶۸ھ ۱۵۶۱ء مین پہلے سے بہت زیادہ لشکر بڑے زور و شور کے ساتھ مالوہ کی فتح کے لیے بھیجا۔ اور ادہم خان کو اسکا سپہ سالار مقرر کیا کہ جنوب کی جانب یورش کرے اور مالوہ کے ستم رسیدون کے زخمون کا مرہم بنے۔ اور داد و دہش کرے۔ اگر والئ مالوہ اپنی بیخبری کے خواب گران سے بیدار ہو کر اطاعت کرے اور اپنے ایام بیہوشی کا تدارک۔ تو اُسکو مراحم خسروانی کا امیدوار کرے۔ آستان بوسی کے لیے بھیجدے ہم اُسکی لیاقت کے موافق صلہ انعام دینگے۔ اگر وہ اطاعت و خدمت پر راضی نہو تو اُسکو ایسی سزا دو کہ جس سے اورون کو عبرت ہو۔ یہ لشکر آئین شائستہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایسا آہستہ جاتا تھا کہ اردو بازار اس کے ساتھ تھا لیکن ایسا آہستہ چلتا تھا کسی کو ان امیر خویشتن داری کی ہو۔ بیت

رہرو آن نیست کہ گہ تند و گہے آہستہ رود ؛ رہرو آن ہست کہ آہستہ و پیوستہ رود

جب یہ لشکر مالوہ کے قریب پہنچا تو باز بہادر کی مدہوشی و بدمستی تحقیق معلوم ہوئی کہ وہ تغلب تسلط کے ساتھ جسکا نام حکومت کو گرم کر رہا ہے تو ترتیب صفوف و تزئین افواج و غایت شرح ہوئی باز بہادر ذاتی بیخبرد اور فطری سبب ہو ہر تعداد مہمات ملکی پر توجہ کرتا تھا۔ شراب جسکی حکیمون نے ایک قدر معین اور وقت مشخص قرار دیا ہے اور ترتیب و ترکیب عنصری کے لحاظ سے اُنکی بعض طبائع و امزجہ کے ساتھ نسبت تجویز کی ہے وہ ہمیشہ رات دن اس سے اشتغال رکھتا اور اپنی غفلت کے اسباب کو بڑھاتا اور نغمہ و اسباب طرب جن کو دانشمندون نے اس وقت کے لیے تجویز کیا ہے کہ کاروبار خلایق کے فرط مشاغل سے طبیعت کو ملالت ہو تو انتعاش طبیعت و انبساط حال کے لیے توجہ کرے یہ مفسد

ہر بزاس کو نقد عظمیٰ سمجھ کر اس مین ہمیشہ اوقات گرامی کو جس کا بدل نہین ہے صرف کرتا نخوت مستی
و تکبر مستانہ مین اپنا زمانہ بسر کرتا اس سے غافل تھا **بیت**

درین مجلس نہان کن پردہ سازی　　　　که باید شمعہ در شمشیر بازی

سارنگ پور مین جہان اسکی غفلت سرائی تھی جب لشکر پہونچا تو وہ اپنی مدہوشی سے فوری بیدار ہوا۔
خمار آلودہ سارنگ پور سے نکل کر تین کوس پر منزل کی اور لشکر جمع کر کے لڑنے کا ارادہ کیا۔
طرفین کے لشکرون مین دو تین کوس کا فاصلہ تھا۔ فریقین سے ہمیشہ دلاور لوازم نبرد کو بجا لاتے۔ پادشاہ
کے لشکر نے ... کی سکو ہندی مین تجارہ کہتے ہین راہین بند کر دین۔ ایک دن جنگ عظیم ہوئی۔
ادھم خان کو فتح ہوئی۔ باز بہادر بھاگ گیا۔ خاندیس کیطرف جا کر برہان پور مین آیا۔ اس کا تمام مال
اسباب و حرم ... جنمین اسکی سرمایہ نشاط اور پیرایہ حیات پاترین دلولی زنان تھین ہاتھ آئے جیت لڑائی
... کی تھی تو ہندوستان کی رسم کے موافق چند اپنے معتمد آدمی عورتون اور پاترون کے سر پر
... کی شکست کی خبر تحقیق اُن کو معلوم ہو جائے تو تمام عورتون اور پاترون کو تیغ سے
بے دریغ مار ڈالین کہ وہ بیگانون کے ہاتھ مین نہ پڑین۔ جب باز بہادر کی شکست کی خبر اِن لوگون کو پہونچی
تو ... ظالمون نے ان پری پیکرون کا نقش ہستی آب تیغ سے مٹایا بعض کو زخمی کیا۔
[illegible] کچھ رمق حیات باقی تھی۔ ایک جماعت کی جان باقی تھی کہ پادشاہی لشکر پہنچ گیا جس سے
انکی [illegible] ان عورتون کی سر دفتر روپ متی ایک نازنین پدمنی تھی اُس کا حسن عالم مین مشہور
تھا۔ باز بہادر اُسپہ عاشق تھا اور ہمیشہ ہندی اشعار اُسکے عشق مین کہتا ایک بیداد گر نے چند زخم
کاری لگائے تھے لشکر آنے سے یہ طاوس نیم بسمل نیمجان باہر نکل گیا۔
جب باز بہادر بھاگ گیا تو ادھم خان سراسیمہ و حیران سارنگ پور مین گیا کہ وہان دفائن و خزاین پر قبضہ کرے
و حرمخانہ و پاترون و گاینون پر متصرف ہو جنکا نغمہ حسن و حسن نغمہ شہرۂ آفاق تھا اور حسن کے ناز و کرشمے
کی داستانین کوچہ و بازار مین بیان کیجاتی تھین ان سب چیزون پر وہ قابض ہوا۔ اُس نے روپ متی کی جستجو
مین آدمی بھیجے۔ جب یہ خبر اُسکے کان مین پہنچی تو خون فاجوش مین آیا۔ زہر ہلاہل کا پیالہ دستکامی باز بہادر کا

مردانہ پیا۔ اپنے ناموس کو اپنے ساتھ قبر مین لے گئی۔ بعض مورخ یہ لکھتے ہین کہ وہ ادہم خان کی قید مین آگئی۔ جب اس کو یقین ہوگیا کہ منت سماجت سے اسکی عفت نہین بچ سکتی تو اس نے ادہم خان سے ایک وقت کا وعدہ کیا۔ اُسوقت وہ خوب بن سنور کر پلنگ پر بیٹھی۔ زہر کا پیالہ پی لیا۔ ادہم خان جب پلنگ کے پاس آیا تو اُس نے اُس نازنین کو بستر مرگ پر آرام کرتے ہوے دیکھا۔

جب ادہم خان کو فتح ہوئی تو اُس کو مستی لگی۔ پیر محمد خان اسکے واعظ بیغرض تھے لیکن اسنے کچھ نصیحت نہ سُنی۔ جو ملک فتح ہوا تھا وہ اس طرح تقسیم ہوا کہ سارنگپور اور چند پرگنے ادہم خان کو کہ اس مہم کا ظاہر سردار تھا اور منڈو اجین پیر محمد خان کو جو حقیقی سردار تھا۔ سرکار ہندیا قیان خان کو اور مندسور اور اُسکی حدود صادق خان کو ملی۔ ادہم خان جمیع ظرائف و نفائس اشیا و ذخائر و دفائن کو جو ایک زمانہ دراز کے جمع کیے ہوے تھے اور مشہور باز بہادر کی سازندون کو لے کر عیش و عشرت مین مشغول ہوے۔ اور چند زنجیر فیل غنائم مین سے اور عرائض فتح بادشاہ پاس بھیجے۔

جب مالوہ مین ادہم خان کی فتح سے فساد پیدا ہوا تو بادشاہ نے اسکے احوال کی اصلاح اہم جانی۔ اور وہان کا ارادہ مصمم کیا۔ بادشاہانہ حسن تدابیر اسے کہتے ہین کہ مبادی سال مین نظر ہر کار کے خاتمہ پر ہو۔ اور نظر دوربین ہدایت فکرت مین حسن خاتمت و نقش نہایت پہ نظر کرے۔ بادشاہ یکشنبہ ۱۲ شعبان سنہ ۹۶۸ھ کو آگرہ سے مالوہ کی یورش ملکش کے لیے چلا۔

جب بادشاہ قلعہ رنتنبھور پر پہونچا تو اس جگہہ کے حاکم رای سرجن نے پیشکش لایق اپنے آدمیون کے ہاتھ بھیجی بادشاہ نے اس قلعہ کی تسخیر کا ارادہ نہین کیا۔ پھر وہ قلعہ گاگرون کی حوالی مین آیا۔ وہ بھی مالوہ کے مضبوط قلعون مین تھا۔ مگر معلوم ہوا کہ باز بہادر نے اپنے معتمدون مین سے کسی کے حوالہ یہ قلعہ کر رکھا ہے اور بادشاہ کے لشکر نے ابھی فتح نہین کیا۔ بادشاہ نے اس کا محاصرہ لشکر سے کرایا کہ قلعہ دار نے قلعہ کی کنجیان حوالہ کر دین اور بادشاہ کی خدمت مین چلا آیا۔ اور یہان سے بادشاہ سارنگپور کیطرف چلا۔ اتفاق زمانہ سارنگپور سے گاگرون کی تسخیر کے ارادہ سے ادہم خان آتا تھا اُسکو بادشاہ کے آنے کی خبر نہ تھی۔ اسکی مان ماہم انگہ نے قاصد تیز رو بھیجا کہ اُس کو بادشاہ کے آنے کی خبر کر دین مگر وہ بادشاہ کی تیز روی کو نہ پہونچ سکا ادہم خان نے جب بادشاہ کو دفعۃً دیکھا تو بھاگ

بادشاہ کا دورہ مالوہ ۹۶۹

رہ گیا۔ اسکی رکاب پر بوسہ دیا۔ پادشاہ نے اپنی ناراضی کا اظہار کچھ نہین کیا۔ سارنگ پور مین آیا
ادھم خان کے گھر مین اُترا۔ ادھم خان نفائس ولطائف پادشاہ کے سامنے لایا مگر پادشاہ اس سے
خوش نہین ہوا۔ اس لیے کہ آئین اخلاص یہ ہے کہ غیبت صوری کے زمانہ مین حاضر معنوی روحانی ہوکر
اپنے صاحب کے اکرام اور احترام مین اہتمام لازم جانے اور اپنی خواہش کو ولی نعمت کی رضا مین محو کردے
مگر اخلاص نہ ہر سر مین سماتا ہے نہ ہر دل مین۔ پادشاہ کی تربیت وعاطفت کے برابر تزویر وتلبیس کی
دکان آراستہ کرنی کیا معاملہ گذاری ہے۔ حساب دانی۔ سوداگری بھی اس کو نہ آئی۔ وہ پاکبازی کی بساط
پر نرد دغا کھیلتا تھا اور اپنا منہ کالا کرتا تھا۔ وہ ریا کے ساتھ پادشاہ کا تملق کرتا تھا اس لیے پادشاہ
خوش نہ ہوتا تھا۔ ہر کار اس کا پسندیدہ خاطر نہوتا تھا۔ ابھی پادشاہ کے اہل خانہ نہین آئے تھے اس لیے
وہ ادھم خان کے گھر کے کوٹھے پر رات کو سویا۔ یہ بے سعادت بدنیت اس گھات مین منتظر وقت تھا
کہ شاید پادشاہ کی نظر اسکے حرم خانہ پر پڑے تو وہ اس کا بہانہ کرکے پادشاہ کا کام تمام کرے۔ مگر
پادشاہ کا دل اس ناپاک خیال سے خالی تھا وہ آرام سے رات بھر سویا۔ اور ادھم خان کو وقت
اور فرصت اپنے کام کے کرنے کی نہین ملی۔

دوسرے روز ماہم آنگہ آگئی۔ اب اُس نے پادشاہ کی ضیافت اور پیشکش کا سامان کیا اور باز بہادر کا سارا مال واسباب
اور تمام حرمین وپاتربن جو ہاتھ لگا تھا وہ پادشاہ کی نذر مین دیا جسمین سے کچھ پادشاہ نے ادھم خان کو دیدیا۔ سارنگ پور
مین پادشاہ چار روز رہا۔ ۲ رمضان ۹۶۸ء کو آگرہ کو روانہ ہوا۔ ادھم خان نے پادشاہ کی پہلی منزل مین
یہ شرارت کی کہ باز بہادر کی دو نادر جمیلہ حرمین کہ پادشاہ کی نذر کی تھین اُن کو بھگا کرلے گیا جب پادشاہ
کو خبر ہوئی تو اُس نے کوچ موقوف کیا اور انکی تلاش مین آدمی بھجوائے۔ دونون گرفتار ہوکر آئین۔ مگر ماہم انگہ
نے یہ خیال کرکے کہ ان عورتون کی زبانی اسکے بیٹے کا بھانڈا پھوٹے گا دونون بیگناہون کو مار ڈالا سر بریدہ
آواز نکند۔ پادشاہ نے چشم پوشی کی۔ راہ مین پادشاہ نے ایک شیر کو اپنے ہاتھ سے شمشیر سے مار ڈالا۔
۱۹ رمضان ۹۶۸ء کو اپنے دار الخلافہ مین داخل ہوا۔ اب اس یورش مین ایک مہینہ سات روز لگے
چار روز سارنگپور مین توقف ہوا۔ سولہ روز جاتے مین اور سترہ روز آتے مین صرف ہوئے بادشاہ

جب آگرہ میں آیا تو اس نے ادھم خان کو اپنے پاس بلایا اور اسکی جگہ پیر محمد خان شروانی کو ریاست مالوہ مستقل طور پر عطا کی۔ اسطرح ماہم آنگہ اپنے بیٹے کے آنے سے خوش ہوئی اور صوبہ مالوہ کی جمہور رعایا ادھم خان کے ستم سے نجات پاکر امن و امان مین کامروا ہوئی۔ پیر محمد خان کو ایک ستمگار کی شرکت سے خلاص ہوئی۔ باز بہادر حدود آواس مین جاکر اپنی جمعیت سرانجام کر رہا تھا یہ خبر سنکر پیر محمد خان نے ایک فوج آراستہ کی اور اس طرف کی عزیمت کی۔ اس کو اپنی تہور کا نشا تھا۔ اس مین عقل و تدبیر پر شجاعت غالب تھی۔ وہ قلعہ بیجاگڈھ کی تسخیر پر متوجہ ہوا یہان باز بہادر کی طرف سے اعتماد خان قلعہ کا منتظم تھا۔ اس نے قلعہ کو مستحکم کیا۔ وہ بلحاظ رفعت و متانت مین مشہور تھا۔ محاصرہ مین امتداد ہوا۔ روز بہادرون نے اس قلعہ کے لیے کوشش کی۔ ایک دن خسرو شاہ نے کمند لگا کر قلعہ کے اندر دو سو جوانون کو لے گیا جب صبح ہوئی تو اہل قلعہ خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور لڑنے پر تیار ہو خوب لڑے۔ مگر آخرکار ناچار الامان کی فریاد کرتے ہوئے پریشان ہوئے۔ اعتماد خان ایک آدمی کو ہمراہ لے کر پیر محمد خان پاس امان کے لیے آتا تھا کہ ایک تیر اس کے ایسا لگا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اسکے ہمراہی نے جہان تک ہوسکا شمشیر زنی کی مردانگی سے جان دی۔ کچھ آدمی ملوا کے گئے تھے کہ انھون نے امان مانگ کر جان بچائی۔ پیر محمد خان نے چند روز یہان رہکر قلعہ کا انتظام کیا پھر متوجہ مندو ہوا۔ تھوڑی سی لڑائی سے اس کو ممالک محروسہ مین داخل کیا۔ وہ قلعہ بیجاگڈھ مین واپس آیا یہان اسکو خبر لگی کہ میران مبارک شاہ والی خاندیس پاس باز بہادر پناہ گزین ہوا ہے۔ میران نے اسکے ساتھ اپنا لشکر کیا ہے۔ پیر محمد خان نے اپنا زاد راہ اسباب قلعہ مین چھوڑا۔ ہزار جوان ساتھ لیے اور یہ ارادہ کیا کہ یلغار کرکے ناگہان آسیر و برہانپور مین پہونچکر مخالفون کی جماعت کا کام تمام کرے۔ دریائے نربدا سے گذر کر چالیس کوس ایک رات مین چلا۔ آسیر سے دو کوس ایک چھوٹا سا قلعہ تھا۔ اس کو ایک ساعت مین فتح کر لیا میران نے قلعہ آسیر سے اس قلعہ کی محافظت کے لیے آدمی بھیجے تھے۔ اس وقت کہ پیر محمد خان قلعہ کو فتح کرکے خاندیس کے دارالحکومت برہانپور کی طرف جاتا تھا۔ ناگاہ لشکر غنیم کے سپاہی دور سے دکھائی دیے۔ پیر محمد خان نے خسرو شاہ اور یار علی بلوچ کو بھیجا کہ اس لشکر کو دفع کریں انہون نے

جاکر تھوڑے عرصہ مین اس جمعیت کو پریشان کر دیا اور اُلٹے چلے آئے صبح کو وہ شہر برہان پور پہنچ آئے اور اس شہر عظیم کو غارت اور تاراج کیا۔ بہت نقد و جنس او نفون کو ہاتھ آئی۔ میران قلعہ آسیر مین بیٹھا تھا۔ پیر محمد خان نے صلاح وقت دیکھ کر معاودت کی کہ اس پاس خبر آئی کہ باز بہادر تمام دیس کے لشکر لیئے ہوئے نزدیک آگیا ہی۔ وہ اس لشکر کو لے کر بیجاگڈھ مین لڑنے کو گیا تھا مگر جب اس نے سُنا کہ پیر محمد خان کچھ آدمیون کے ساتھ آسیر و برہان پور کو تسخیر کرنے گیا ہے تو وہ سوچ سمجھکر اس طرف آیا۔ ایسے وقت مین کہ مخالف کا لشکر غنیمت کے مال سے لدا ہوا متفرق ہوکر اُٹھا جاتا تھا باز بہادر کے قریب آنے کی خبر لشکر مین پھیلی۔ پیر محمد خان نے اہل دانش کو بُلا کر مشورہ کیا اکثر آدمیون نے متفق ہوکر کہا کہ اسوقت جنگ مناسب نہین ہی۔ لشکر نے بہت سفر کیا ہے اور فتوحات حاصل کی ہین اور ہر شخص غنیمت سے گرانبار ہو رہا ہے۔ مناسب یہ ہی کہ جنگ کو طرح دیکر آب نربدہ سے اُتر ین۔ ھنڈیہ مین آرام کرین اور تازہ سپاہ لے کر لڑنے پر متوجہ ہون۔ مگر پیر محمد خان نے یہ صلاح نہ مانی اور لڑنے پر متوجہ ہوا۔ ہمراہیون نے پہلوتہی کی۔ لا زم ہمراہی بجا نہ لائے تھوڑی سی لڑائی سے بھاگ گئے۔ پیر محمد خان کو بار علی بلوچ بہ عنعت لے آیا کہ اب توقف کی کیا جگہ ہے وہ نربدہ کے کنارہ بہ شام کو پہونچا۔ ہر چند لوگون نے سمجھایا کہ غنیم دور ہے رات کو یہین آرام کرو مگر اس نے یہ ارادہ کیا کہ دریا مین گھوڑے پہ سوار ہوکر پار چلا جاؤن سراسیمہ ہوکر دریاء نربدہ مین گھوڑے پر سوار ہوکر وہ چلا۔ دریا مین ایک قطار چھرون کی تیر کر جاتی تھی کہ اُسکے گھوڑے کے پہلو سے وہ لگی گھوڑا بھی سوار کی عقل کیطرح اپنی جگہہ پر نہ رہا۔ پیر محمد خان پانی مین گرا۔ جماعت اسکی نزدیک تھی اسنے بد دردی سے اسکے بچانے مین کوشش نہین کی۔ وہ ہاتھ پاؤن مار کر ہلاک ہوا۔ یار لوگون نے لطیفہ کے طور پر کہا کہ در آب فی النار شد۔ غرض ایسا مخلص کاروان جوان مرد عالی ہمت مفت جان سے گیا۔ پادشاہی امراء جو یہان جاگیردار تھے وہ اپنی جاگیرین چھوڑ چھوڑ کر پادشاہ پاس آگئے اور باز بہادر کا مالوہ پر پھر تصرف ہوگیا پادشاہ نے عبد اللہ اوزبک کو جو جان سپار بزرگ منش اور اس ملک سے خوب واقف تھا مالوہ کی تسخیر کے لیے بھیجا۔ امور سیاست و داروگیر اس کے سُپرد کیے اور خواجہ معین الدین احمد فرنخودی

کوکہ وزراے ہیوتات میں ممتاز تھا اُسکے ہمراہ کیا۔ کہ ولایت کے نظم ونسق اور جاگیرون کی تشخیص اور محال خالصہ کا تعین کرے۔ خان کا اس کو خطاب دیا اور حکم دے دیا کہ جب ملک فتح ہو جاے تو عبداللہ خان اوزبک دہلی رہ کر ملک کشائی کرے اور معین خان اس ملک کی رعایا اور دہقین اور تمام وضیع وشریف ساکنین کو استمالت وعواطفت شاہی سے قوی دل کرے۔ پادشاہی لشکر کے گذرنے سے جو تفرقہ پیدا ہوا ہو اسکی تلافی کرے اور صلاح دولت دیکھ کر امرا اور ملازمین میں جاگیرون کی تقسیم کرے۔ یہ سب کام کر کے ہمارے پاس چلا آے۔ حکم عالی کے بموجب عبداللہ اوزبک یہان آیا سنہ ۹۶۹ھ کے اوائل مین وہ مالوہ کی تسخیر کے لیے متوجہ ہوا۔ باز بہادر اس لشکر کی روانگی کا حال سنکر بھاگ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے لڑنے کی مجھ مین تاب نہین ہے غرض نہ تلوار نکلی چمکی نہ تیرون کا مینہ برسا ولایت مالوہ پر لشکر شاہی کا قبضہ ہوگیا پادشاہ کے لشکر نے باز بہادر کا تعاقب کر کے اس کا بہت لشکر مارا۔ باز بہادر مالوہ سے نکلکر مدتون دربدر پھرا پھرا۔ اول بھرجی زمیندار بگلانہ پاس گیا۔ پھر چنگیز خان پاس گیا۔ پھر شیر خان فولادی سے توسل ڈھونڈا یہان نظام الملک دکنی کا امیدوار ہوا۔ سب جگہ سے حیران پریشان ہوکر ماروار کے رانا اودے سنگھ سے پناہ دینے کی التجا کی۔ جب پادشاہ نے اسکی خستہ حالی دیکھی تو حسن خان خزانچی کو بھیجکر اُس کو اپنے پاس سنہ ۹۷۸ھ مین بلالیا اور ازراہ خسروانہ سے سربلند ہوا۔ سلاطین مالوہ کے پاے تخت منڈو مین عبداللہ خان اوزبک نے بطریق استقلال حکمرانی شروع کی۔ اس ملک کے بلاد اور قصبات وقریات امرا مین ان کے رتبے کے موافق تقسیم ہوے۔ اولیا دولت نے اپنی جاگیرون اور محال جاگیر مین آرام لیا۔ معین خان انقسام جاگیر و انتظام ملکی کے بعد پادشاہ کی خدمت آیا۔

پادشاہ اپنی سلطنت کے ذمے فرض وقت سمجھتا تھا کہ ہمیشہ ملک کے احوال سے اور اعیان دولت کے اوضاع سے خبردار رہے۔ اور ان تنگ حوصلہ خودسرون کا اپنی تدبیر ورائے سے علاج پہلے ایسا کرے کہ وہ کامیاب دولت ہوکر ملک مین فساد کرین۔ جب اس نے سنا کہ عبداللہ خان اوزبک کہ پادشاہ کا نمک پروردہ تھا مالوہ مین شورش برپا کر رہا ہے اور اپنی تنگ ظرفی

عبداللہ خان اوزبک کا مالوہ مین متعین ہونا سنہ ۹۶۹ھ

عبداللہ خان اوزبک کا پادشاہ سے بغاوت کرنا اور مالوہ مین بغاوت کا پھیلنا

سے پادشاہ سے کفران نعمت کرنے کو ہے تو یورش مالوہ کا قصد مصمم کیا اور ہاتھیون کے شکار کا بھی
ارادہ کیا۔ اس نے ۱۲ ذیقعدہ ۹۷۱ھ کو اسی موسم مین سفر کیا کہ ابر کے فیلان کج خرام نے مستی و
مدہوشی سے تمام زمین و زمان مین جوش و خروش کر رکھا تھا۔ ہر وقت مستی سے ٹپکتے تھے اور سیلاب روان
کرکے نشیب و فراز کو نہین جانتے تھے۔ سرکشی اور گردن افرازی سے کجک برق کے فرمان پذیر نہین ہوتے تھے
پادشاہ نے نرور وسیپری کیطرف قصد کیا۔ یہان ہاتھیون کا کھبت تھا۔ اہی ہاتھیون سے وحشی ہاتھیون کو
پکڑا۔ اسیطرح شکار کھیلتا ہوا مالوہ کی طرف اس برسات مین چلا کہ امتداد برق و باران و اشتداد خلاب و
سیلاب و فور گل ولای و لزج سے اور گڑھونکی کثرت سے جو زمین مالوہ مین ہوتے ہین پادشاہ کے لشکر کا
چلنا دشوار تھا۔ گھوڑے دریائی گھوڑون کیطرح پیرتے تھے۔ شتر جہازونکی طرح طوفان نوردی کرتے تھے
راہ مین اسقدر کیچڑ تھی کہ اسمین گھوڑون کے پاؤن سینہ تک دھس جاتے تھے اور سبکرفتار اونٹون کو
اپنے بال بھی گران معلوم ہوتے تھے۔ جرثقیل سے بہزار دشواری حرکت کرتے تھے اگرچہ منزلون مین مویشی
کے لیئے چارہ دانہ میسر نہین ہوتا تھا مگر سبزہ تر و تازہ راہ مین ایسا ملتا تھا کہ جانور اُس سے سیر ہوکر خوش
رہتے تھے پادشاہ منڈو مین آیا۔ اثنا راہ مین اشرف خان و اعتماد خان کو پہلے سے روانہ کیا تھا کہ وہ
عبداللہ خان اوزبک کو جو اپنے اعمال ناشائستہ سے متوہم و خائف ہے عنایات شاہی کی نوید
سُناکر اُس پاس لے آئین کہ وہ سرکش نہو۔ پادشاہ سارنگپور مین اور یہان سے اوجین مین
کہ پہلے ملوک مالوہ کا تخت گاہ تھا آیا اور پھر دھار مین آیا۔ یہان کی ہوا بڑی خوشگوار تھی۔ یہان عبداللہ
خان کے پاس سے اشرف خان اور اعتماد خان آئے جنکی زبانی معلوم ہوا کہ عبداللہ ان شرائط سے صلح
کرنا چاہتا ہے کہ کوئی اس کو مالی و جانی ضرر نہ پہونچے اور ولایت منڈو اُس پاس بدستور سابق مفوض
رہے بعض امرا اُس پاس رہین منعم خان خانخانان کی سفارش سے ان شرائط کو بادشاہ نے منظور کرلیا
اور اعتماد خان اور دربار خان کے ہاتھ عفو تقصیر اور اسکی ملتمسات کو منظوری کا پیغام بھیجدیا۔ عبداللہ خان
اس سبب سے کہ خائن تھا خائف تھا وہ منڈو سے بھاگ کر لوانی مین چلا گیا۔ پادشاہ نے اسکے تعاقب مین لشکر
روانہ کیا اور خود ۲۶ ذی الحجہ ۹۷۱ھ کو لوانی مین آیا۔ اثنا راہ مین اعتماد خان اور دربار خان واپس آئے کہ عبداللہ خان

حضور کی ملاطفت کو خدیعت سمجھا۔ پادشاہ نے ہراول سے لڑائی شروع کی۔ پادشاہ ایلغار کرکے اپنے لشکر کی کمک کو گیا۔ لڑائی مین ایسی جگہ پہونچا کہ تیر اُسکے سر پر گذرتے تھے۔ پادشاہ کی اس جنبش سے اُسکے لشکر کو دشمن پر فتح عظیم ہوئی باوجودیکہ پادشاہی لشکر دشمن کے لشکر سے بہت کم تھا۔ اس نواح کے کل زمینداروں اور رئیسوں نے پادشاہ کی اطاعت اختیار کی۔ عبداللہ خان بھاگا۔ پادشاہی لشکر نے اُسکے پیچھے جاکر حملہ کیا۔ وہ سب اپنے بال بچون کو جنگل مین چھوڑکر اور اپنے بیٹے کو ساتھ لیکر بھاگ گیا۔ اور سرحد گجرات مین پہنچا۔ پادشاہ ۲ محرم سنہ ۹۶۹ھ کو منڈو مین آیا اور تمام ممالک محروسہ مین فتحنامے بھیجے۔ ایک مہینے یہان توقف کیا۔ یہان سنا کہ چنگیز خان حاکم گجرات کے پاس عبداللہ خان گیا ہی۔ پادشاہ نے اسکے نام فرمان منعم الملک کے ہاتھ بھیجا کہ وہ عبداللہ خان کو باندھکر ہمارے پاس بھیجدے یا اپنے ملک سے اسکو باہر نکال دے۔ چنگیز خان نے اس فرمان کے جواب مین لکھا کہ مین بندہ پادشاہ ہون فرمان پذیری ناگریز ہے حضرت خطاپوش وعطا پاش ہین۔ اگر اس کا گناہ بخش کر نوازش کرین تو اُس کو حضور کی خدمت مین بھیجدون۔ یہ بندہ نوازی سے دور نہ ہوگا۔ اگر یہ التماس قبول نہو تو مین اس کو اس ولایت سے دور نکال دونگا۔

پادشاہ نے اس صوبہ کا ایسا عمدہ جدید انتظام کیا کہ تمام سردار اور رئیس اس سرزمین کے اسکے آگے سجدہ کرنے لگے اور آخر محرم سنہ ۹۶۹ھ مین آگرہ کی طرف روانہ ہوا۔ قرابہادر خان کو اور امرا کے ساتھ منڈو مین حاکم مقرر کیا۔ راہ مین ہاتھیون کا شکار کھیلتا ہوا ۱۳ ربیع الاول سنہ ۹۶۹ھ کو دارالخلافہ آگرہ مین آیا۔ یہان منعم الملک چنگیز خان کی عرضداشت مذکور اور پیشکش لایا۔

ممالک شرقیہ کی فتوحات

ان چند برسون مین علی قلیخان خان زمان خان نے ممالک شرقیہ مین افغانون پر فتوحات عظیم حاصل کین۔ پہلے لکھ چکے ہین کہ حدود سنبل مین خان زمان منتظم مقرر ہوا تھا تو اُس نے لکھنؤ کے ملک پر قبضہ کرلیا تھا۔ جب بیرام خان کا جھگڑا تمام ہوا تو افغانون نے جانا کہ ہم کو فرصت ہی۔ انھون نے مبارز خان عدلی کے بیٹے کو

اپنا سردار بنایا۔ اور شیر خان اس کا نام رکھا اور سب نے متفق ہوکر یہ ارادہ کیا کہ چلکر خان زمان خان کو ٹھکانے

لگا دیئے۔ خان زمان نے یہ خبر پاکر جونپور کے قلعہ کو مستحکم کیا۔ سوائے اسکندر خان اوزبک کے اس نواح کے تمام امرا ان

کو جمع کیا۔ افغانون کا لشکر بڑا زور آور تھا۔ بیس ہزار سوار اور پچاس ہزار پیدل اور پانسو ہاتھی تھے۔ اس سے

آگے جا کر لڑنا مصلحت وقت نہین معلوم ہوتا تھا۔ افغان ایک لشکر گران لیکر گومتی کے کنارہ پر جونپور کے پاس

آگئے۔ یہ شہر اسی ندی کے کنارہ پر واقع ہے اور تیسرے روز ندی سے پار اُترے سپاہ کو لڑنے کیلیے مرتب

کیا۔ خان زمان بھی لشکر آراستہ کرکے لایا۔ شائستہ آئین کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ خان زمان کے

لشکر نے حسن خان بچلوتی کے لشکر کو تیرون کی مار سے بھگا دیا مگر شیر شاہ نے لشکر شاہی کو بھگا کر شہر کے

کوچون تک پہنچا دیا۔ پھر خان زمان نے اس لشکر کے پیچھے آنکر تیرونکی بوچھار سے دشمن کے لشکر کو پریشان

کر دیا اور بڑی فتح حاصل کی اور بہت سی غنیمت اور بہت سے ہاتھی اسکے ہاتھ آئے۔ اس فتح سے خان زمان کا

ایسا مغز چلا کہ وہ بادشاہ کو ایک لڑکا سمجھا اور اُسکی قوت و قدرت کو بے حقیقت جانا۔ سارے غنیمت کو

خود ہی ہضم کرنا چاہا گستاخ بیباک ایسا ہوگیا کہ بادشاہ کو خود گوشمالی کے لیے آنا پڑا۔ عقلمند جانتے ہین کہ جو

شخص نیک ذاتی خیر اندیشی کے صفات سے موصوف ہوتا ہے اور اپنے احوال کے روزنامچہ کو مطالعہ کرتا ہی

جب وہ مخالفون پر نصرت پاتا ہی اور کاردان معاون اُس پاس جمع ہوتے ہین اور اسباب دنیا میسر ہوتا

ہے تو وہ نیازمند زیادہ ہوجاتا ہے اور اپنے ولی نعمت کے شکر کے لوازم کو بجالاتا ہے اور اس شکر کا تتمہ

حسن عقیدت اور لطف خدمت کو بناتا ہی اور مراسم یکجہتی کو بڑھاتا ہے اور خالق کے سامنے زیادہ فروتنی

اور مخلوق سے بہت تواضع کرتا ہے اپنے صاحب کی بندگی و اخلاص مین زیادہ کوشش کرتا ہے اپنے

نوکرون کی قدردانی کرکے ان کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کرتا ہے لیکن وہ ان سبکے خلاف کام کرتا ہے

جو سوائے صورت کے آدمیت سے بہرہ ور نہین رکھتا سوائے نام کے اصالت اس کو نصیب نہین ہوتی۔ وہ

تھوڑے سے اعتبار اور برآمد کار سے اپنے پایہ کو بھول جاتا ہے اول خدا کے ساتھ اس کا طریقہ کچھ اور ہو جاتا

ہے دوم اپنے ولی نعمت صاحب کے ساتھ تکبر و ترفع کی طرز اختیار کرکے کچھ اور باتین دل مین سوچنے لگتا ہے سوم

اپنے ہمراہیون اور ہمنسبتون کے ساتھ اترانے لگتا ہی چہارم جمہور انام کے ساتھ ستم و عنف سے سلوک کرتا ہے

دوسرے سال کا ملک شرقی میں جانا خان زمان خان کا قوت بھی ... ۹۶۹ ہجری

وہ یہ جانتا ہے کہ مین اپنی بزرگی کا اسباب مرتب کرتا ہون۔ دانا جانتا ہو کہ وہ اپنے ادبار اور ہلاکت کے لیے معرکہ کر رہا ہو۔ اس بیان کا مصداق علی قلیخان زمان کا حال ہے کہ ان دنون جو اُسنے شیر شاہ پسر سلطان عدلی کو ہے کر شکست دی تو اُس کا دماغ آسمان پر چڑہ گیا۔ قریب تھا کہ اُس کا بھانڈا پھوٹ جائے کہ پادشاہ کی عقل کامل کا یہ اقتضا ہوا کہ بر سم شکار اس حدود کیطرف چلیے۔ اُسنے زبان سے کہا کہ اگر اس بد سرشت کو سعادت سے کچھ بہرہ ہوگا تو خواب غفلت سے بیدار ہوکر ہماری قدمبوس کے لیے حاضر ہوگا ہم اسکی تقصیرات معاف کر کے موافقت کرین گے وہ ہمارا ہی لگایا ہوا درخت ہی بزرگونکی گزیدہ ترصفت یہی ہو کہ عذر کو قبول کرین اور گناہ بخشین کہ آدمی ہشیاری اور مستی کی معجون مرکب ہے۔ اگر وہ ملازمت کے لیے نہ حاضر ہو تو پہلے اس سے کہ مرض مزمن ہو اور اُس کا معالجہ دشوار ہو اس کا کام تمام کیا جائے اور اس رض بوم کو ستمگار کے ہاتھ سے خلاصی دیجائے۔ غرض پنجشنبہ ۹۶۸ھ کو وہ بلاد شرقیہ کیطرف متوجہ ہوا۔ دار الخلافہ آگرہ کی حراست معین الدین احمد خان فرنخودی کو سپرد کی جب حدود کالپی مین پادشاہ کا گذر ہوا عبد اللہ خان اوزبک کے گھر مین اُتر کر اسکی عزت کو بڑھایا۔ پھر شیان سے کڑہ گیا۔ یہان شکار کھیلا تو خان زمان خان اور اُس کا بھائی بہادر خان خواب غفلت سے بیدار ہوے اور پادشاہ کی خدمت مین آئے۔ اُنکے بھلے دن کچھ باقی تھے غنیمت کا سب مال و اسباب اور نامور ہاتھی پادشاہ کی پیشکش مین دیئے۔ پادشاہ نے انکی تقصیرات معاف کین اور فرمایا کہ پھلدار درختون کے کاٹنے سے جب آدمی ناخوش ہوتا ہو تو انسان کو کہ ایک برومند شجر ایزدی ہے قطع کرنے سے کیا ثمرہ ملتا ہوگا اس لیے ہم تمہاری نجابت و ضراعت کے سبب سے قصور معاف کرتے ہین۔ کڑہ مین پادشاہ بیس روز رہا۔ یہان انتظام بخوبی کر کے آگرہ کو روانہ ہوا اور دس روز مین ۱۷ ذی الحجہ ۹۶۸ھ دار الخلافہ آگرہ مین داخل ہوا۔ اس سفر مین ایک مہینہ چودہ روز لگے۔ جانے مین چودہ روز آنے مین دس روز ٹھیرنے مین بیس روز۔

[illegible] ۲۵۴

اس سفر مین غبار گدہ اولیا پادشاہی کے ہاتھ آیا۔ یہ ایک حصن حصین ہو کہ اور پادشاہونے اسکو شمشیر لشکر اور فرزانی تدبیر سے تسخیر کیا ہو اسلیے کہ باہر کے آدمی تو اسکے ارتفاع و استحکام کے سبب سے اندر دخل نہین دیسکتے اور اندر کے آدمیون کو باہر کے آدمیون کی ضرورت اس سبب سے نہین ہوتی کہ کھانے پینے

کا سامان افراط سے موجود ہوتا ہے۔ مجمل بیان اس واقعہ کا یہ ہے کہ جب شیر شاہ پسر سلطان عدلی کو شکست ہوئی تو یہ قلعہ فتو کو جو اسکی خیل کے خواص مین تھا ہاتھ آگیا وہ اس حصار کو اپنا امن سمجھکر اس کا استحکام کرتا تھا کہ بادشاہ نے خواجہ عبد المجید آصف خان کو اسکی تسخیر کے لیئے نامزد کیا مگر فتو کی یہ دانشمندی اور سعادتمندی تھی کہ وہ یہ سمجھا کہ افغانون کے ادبار کے دن آگئے ہین لڑنے سے سوائے ذلت کے کچھ اور نہین حاصل ہوگا۔ اُسنے بادشاہ سے درخواست کی کہ فتح محمد آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر حضور کے روبرو لے جائے۔ بادشاہ نے اسکی درخواست کو قبول کرلیا۔ شیخ محمد اسکو بادشاہ کے سامنے لایا اس نے مرتبہ امارت اس کو مرحمت فرمایا۔

خان زمان خان کا شکست پانا خان پٹنی پر

فتح خان پٹنی اور اُسکے بھائی حسن خان اور ملو خان اور ایک جماعت کثیر نے قلعہ رہتاس مین ایک لشکر آراستہ کیا اور وہان سے آکر ولایت بہار اور بعض بعض محال پر کہ خان زمان سے متعلق تھین اپنا تصرف مین کرلیا اور سلیم شاہ کے بیٹے اواز خان کو اپنا سردار بنا کر شورش و فساد برپا کیا۔ اس فتنہ کے مٹانے کے لیئے خان زمان اور اس حدود کے امرا متوجہ ہوئے۔ مگر افغانون کا لشکر پرزور تھا۔ خان زمان نے لڑنے مین مصلحت نہ جانی۔ سون ندی کے کنارہ پر اندھیاری (اندناری) کے مقام پر قلعہ بنا کر اقامت کی۔ انہین دنون مین مولانا علاء الدین لاری و ملا عبد اللہ سلطان پوری و شہاب الدین خان وزیر خان بادشاہ کیطرف سے یہان اس لیے آئے ہوئے تھے کہ خان زمان کو نصائح ارجمند کرکے اس کا عقیدتمند بنائین اور سلیمان کرانی حاکم بنگالہ جو خان زمان سے ملا تھا اور اسنے خطبہ شاہنشاہی پڑھوایا تھا اسپر بادشاہ کے الطاف کا اظہار کرین اور اگر ہوسکے تو اسکو بادشاہ پاس لائین ان امیرون نے خان زمان کے قلعہ مین پہنچکر بادشاہ کی عنایت کی نوید اس کو پہونچائی۔ یہ سب خان زمان پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ افغانون نے لشکر آراستہ کرکے اور فیلان مست کو لیکر خان زمان کے قلعہ پر حملہ کیا۔ خان زمان نے بھی لشکر لے کر لڑنا شروع کیا۔ مگر افغانون نے خان زمان کو فوراً شکست دی اور اُس کا سارا لشکر بھاگ گیا اور اسکے منازل اور محل کو افغانون نے لوٹنا شروع کیا۔

خان زمان اپنے قلعہ کی دیوار کے نیچے کمین مین بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ کام کرے یا گوشہ گیری کرے حسن خان

پٹنی ہاتھی پر سوار ایک جماعت کو لے کر روبرو آیا۔ خان زمان کے آدمی بھاگے۔ تھوڑے آدمی مرنے کا ارادہ کر کے قلعہ کے ایک برج پر چڑھ گئے۔ وہان ایک دتوپ لگی ہوئی تھی اسکو بھر کر افغانون کی فوج پر چلائی اسکے چھوٹتے ہی گولہ حسن خان کے ہاتی پر لگا جس سے ہاتھی مرگیا اور فوج بھاگی۔ یہ تائید ایزدی تھی کہ خان زمان کے لشکر مین کوہ پارہ ایک ہاتھی تھا جو مست ہورہا تھا اور زنجیرون سے بندھا ہوا تھا۔ جسوقت کہ خان زمان خان کا لشکر بھاگا ہے۔ یہ افغان فیلون کو کھول کر لے گئے تھے اس ہاتھی نے اپنی بدمستی مین افغانون کے ایک ہاتھی کو مارڈالا جس سے وہ شور مچا کہ افغانون کے لشکر نے جانا کہ بادشاہی لشکر داخل ہوا اس خوف سے وہ بھاگنے لگا تو بادشاہی لشکر نے اس کا تعاقب کیا اور ایک فتح عظیم اسکو حاصل ہوئی اور بہت غنیمت اور ہاتھی ہاتھ آئے۔ خان زمان نے جو دوبارہ بیعت کی اور زمانیہ سے بادشاہ کے امیرون کو جو آئے تھے واپس بھیجا۔

خان زمان علی قلی خان کی بغاوت دور کرنے کے لیئے بادشاہ کے لشکر کا یورش کرنا اور اس یورش مین سوانح کا پیش آنا سنہ ۹۷۲ ہجری

اہل ہوش دنیا کو کہتے ہین کہ وہ شراب کا حکم رکھتی ہے مصرعہ کا نچنان را آنچنان ترمی کند یعنی جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا ہی اسکو بناتی ہے اگر آدمی سعادت مند ہے تو وہ اسباب دنیوی کو ہزار نیکیون کا سرمایہ بناتا ہے۔ اپنی سعادت کو بڑھاتا ہے اپنی ذات کو آرائش دیتا ہے دین و دنیا دونون سنوارتا ہے اگر وہ فطرت مین بدگوہر تیرہ درون وسیاہ بخت ہے تو ہمیشہ ذخائر دنیا کو ہزار وبال کا سرمایہ بناتا ہے۔ اپنی ترفع صدری سے خلق کو صدہا طرح کے آزار پہونچاتا ہے۔ روز بروز اسکا تاریک دل اور زیادہ سیاہ ہوتا جاتا ہے نہ وہ قدر نعمت جانتا ہے نہ اپنے ولی نعمت کو پہچانتا ہے

بکھنؤ خان و زبرک پیش بزرگ خان کا جانا

اپنی حالت کے موافق مکر و تدبیر کرتا ہے۔ کبھی اپنے کام سے پردہ اُٹھا کر ظاہر و باطن مین بغاوت کرتا ہے۔ اس حال کا مصداق علی قلی خان کا احوال ہے جسکی تفصیل آگے لکھی جاتی ہے۔

جب بادشاہ نے سُنا کہ اسکندر خان اوزبک سرکشی کا خیال رکھتا ہے تو وہ اغماض کر کے ہاتھی کا شکار کھیلنے چلا گیا۔ اور اسکندر خان پاس اس مضمون کا فرمان اشرف خان کے ہاتھ بھیجا کہ تم بغاوت کے خیال سے باز آؤ اور میرے پاس چلے آؤ مین تمھارے قصورون کو معاف کر دونگا۔ اسکندر خان کی جاگیر مین ملک اودھ تھا جب یہان اشرف خان آیا تو اُسکی تعظیم کی اور فرمان کی ظاہری فرمانبرداری کی اور بادشاہ پاس جانے کے لیئے مدتون تک ایسے حیلے کرتا رہا کہ اب سامان تیار ہو جائے تو چلتا ہون۔ مگر در پردہ وہ اور اہل نفاق کے ساتھ سازش رکھتا تھا اور کچھ اور ہی خیالات پکاتا تھا۔ آخر کار اُسنے اشرف خان سے کہا کہ ابراہیم خان نیازی ق ستغا یعنی ریش سفید ہے اور ہمسایہ مین رہتا ہے۔ ہم تم اُس سے چل کر ملین۔ اس ارادہ سے وہ اودھ سے سرہر پور مین جو ابراہیم خان کی جاگیر تھی گئے۔ پھر وہان سے علی قلیخان پاس دوڑے گئے جب ان جماعتون کا مجموعہ ہوا تو سب نے بغاوت کے اظہار مین جرأت کی۔ آپس مین یہ مشورہ ٹھیرا کہ بادشاہ تو بہت دور ہاتھی کے شکار مین مشغول ہے۔ ہم دو جوق ہو جائین۔ اسکندر خان اور ابراہیم خان لکھنو کی راہ قنوج پر دوڑے اور اسکے حدود مین خلل پیدا کرے اور علی قلیخان اُسکا بھائی بہادر خان مانک پور کی جانب سے مجنون قاقشال پر جو یہان کا جاگیر دار ہے چڑھ جائین اور شرارت برپا کرین۔ اشرف خان کو بطور قیدیون کے رکھا۔ ابراہیم خان و سکندر خان لکھنؤ کی طرف اور علی قلیخان و بہادر خان کڑہ مانک پور کیطرف چلے گئے۔

جب ان حدود کے امرا سارنے مثل شاہم خان جلائر شاہ بداغ خان و محمد امین وغیرہ نے ان نمک حرامون کے اتفاق کرنے کا اور فتنہ انگیزی برپا کرنے کا حال سُنا تو انھون نے جمعیت کا سامان کر کے ان باغیون کو روکنا چاہا۔ ان امرا اور اسکندر خان و ابراہیم خان کے ساتھ قصبہ نیمکار مین پیکار ہوئی۔ محمد امین دیوانہ نے بُری طرح دشمن پر حملہ کیا۔ اسکے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی

باغیون کی شکست ۹۷۳ھ

وہ اُس سے پکڑا اور قید ہوا۔ شاہم خان اور شاہ بداغ خان نے جب محمد امین کا حال یہ دیکھا تھا تو ان کو چاہیے
تھا کہ وہ اس کا چارہ کار کرتے اور بہادری دکھاتے مگر وہ دشمن کی کثرت سپاہ کے خوف سے قلعہ
نیمکار میں چلے گئے اور پادشاہ کو اس حال سے اطلاع دی۔ علی قلیخان اور بہادر خان مانک پور
دوڑے گئے اور اُنکی حدود میں تاخت وتاراج کرنے لگے کہ مجنون قاقشال مرد معرکہ دیدہ تجربہ کار تھا
صفدر جنگ کو مناسب نہ جانا قلعہ مانک پور میں متحصن ہوا۔ آصف خان پاس قاصد بھیجکر اس کو
بلایا۔ آصف خان کو جب اطلاع ہوئی تو وہ ولایت گڈھ کچھ سپاہ کو سپرد کرکے بہت سپاہ لیکر گڈھ
میں آیا مجنون خان کو آصف خان کے آنے سے تقویت ہوئی وہ قلعہ میں سے اپنی سپاہ کو باہر
علی قلیخان کی فوج سے لڑنے کے لیئے بھیجنے لگا۔ ان دونوں نے پادشاہ کو حقیقت ماجرا لکھ بھیجی۔

پادشاہ شکار سے فارغ ہوکر آگرہ میں آگیا تھا کہ اس کو متواتر عرائض سے اہل بغاوت کا حال معلوم
ہوا تو اُس نے ارادہ کیا کہ باغیوں کے خاردار درخت کو پہلے اس سے کہ وہ ہوا میں سربلند کرے
اور جڑ کو قائم کرے اپنے طیش وغضب کی تند باد سے بیخ وبن سے اکھیڑ کر پھینک دے اس لیئے
اسنے لشکر کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ اسکے جمع ہونے سے پہلے منعم خان کو بہت سے بہادروں کے ساتھ
برسم منقلا بھیجا اور بعد اسکے خود اپنے چلنے کا سامان درست کیا۔ تھوڑے دنوں میں بڑا لشکر تیار
ہوا اور دو ہزار زنجیر فیل اسکی ہمراہ ہوئے۔

پادشاہ کا اسکندر خان کو لکھنؤ سے بھگانا ۹۷۲ھ

آگرہ ترسون خان کو حوالہ کرکے پادشاہ پنجشنبہ ۲۳ شوال ۹۷۲ھ کو دریا جمن سے پار ہوا۔ گرمی کا
موسم تھا۔ رات کو سفر ہوتا تھا۔ منزل بمنزل چلکر قنوج کی سواد میں پہونچا۔ منعم خانخانان آگے بھیجا گیا
تھا وہ یہاں آملا۔ قیاخان بھی باغیوں کے گروہ میں تھا۔ خانخانان کی سفارش سے پادشاہ
نے اُس کا قصور معاف کیا اور وہ پادشاہ پاس آگیا۔ پادشاہ کو معلوم ہوا کہ اسکندر خان لکھنؤ میں ہے پادشاہ
آدھی رات کو گھوڑے پر سوار ہوکر بطور ایلغار ایک شبانہ روز میں لکھنؤ میں جا پہونچا یوسف محمد خان
کوکلتاش وشجاعت اور کچھ اور بہادروں کو ہراول بنا کے بھیجا۔ اسکندر خان لشکر شاہی کے خوف
سے لکھنؤ سے بھاگ گیا۔ پادشاہ نے یہاں آرام لیا۔ لشکر اسکے پیچھے روانہ کیا۔ اسکے جو کوئی باغیوں

مین سے ہاتھ لگا اس نے آب شمشیر سے اسکے کاسۂ سر مین خاک بھری اسکندر خان جان بچاکر
علی قلیخان سے جا ملا۔ پادشاہ کے لشکر کے گھوڑے تھک گئے تھے اس لیے اور زیادہ تعاقب نہین کیا
علی قلیخان اور بہادر خان جو مجنون خان اور آصف خان سے مقابلہ کر رہے تھے یہ حال سنکر متزلزل
ہوئے اور کڑہ سے جونپور چلے گئے اور سنہ و بار کو چھوڑ کر گذر نرہن سے دریا گنگ کو عبور کیا
دریا کے پار جاکر قلب زمینون مین پناہ لی۔ پادشاہ جونپور مین آیا راہ مین آصف خان و
مجنون خان اُس سے ملے۔ آصف خان نے جو گڈہ کو فتح کیا تھا تو اپنی سپاہ کو آراستہ کیا تھا
اس سپاہ رزمخواہ کو جو پانچ ہزار تھی پادشاہ کو ملاحظہ کرایا جس سے پادشاہ بہت خوش ہوا۔
پادشاہ جمعہ کے روز ۱۴ ذی الحجہ کو جونپور میں آیا۔ ان ممالک کی اصلاح مین مصروف ہوا جو اعدا
مفسدون کے ظلم سے دہ خراب ہو رہا تھا۔

پادشاہ نے علی قلیخان اور اور اہل عصیان کے تعاقب مین آصف خان کو بھیجا۔ یہ اہل بغاوت حاجی پور
کے نزدیک روبرو آئے قلب جگہہ مین مقیم ہوے اور سلیمان کرانی جو بنگالہ مین حکمران تھا اور فتح خان
پٹنی اور اُس کا بھائی حسن خان رہتاس مین ریاست رکھتا تھا۔ ان افغانون سے علی قلیخان نے
کمک مانگی یہ افغان استمداد پر مستعد ہوگئے۔ پادشاہ نے حاجی محمد خان سیستانی کو سلیمان کرانی
پاس بنگالہ بھیجا کہ وہ اس کو علی قلیخان کی معاضدت و مظاہرت سے ڈرائے۔ حاجی محمد خان رہتاس پہنچا
خود سر افغانون کی ایک جماعت نے اس کو بنگالہ نہ جانے دیا اور علی قلی پاس بھیجا جب وہ علی قلیخان
کے پاس آیا تو اس سبب سے کہ وہ روابط اسکے ساتھ رکھتا تھا اور اس طمع سے کہ وہ اسکے موافق ہو جائے
بہت عزت و حرمت سے پیش آیا مگر مقید طور پر اس کو رکھا۔ حاجی محمد خان ہمیشہ اسکو سود مند نصیحتین کرتا رہتا
تھا۔ انصاف یہ ہے کہ باغیونکی تخویف و تحذیر کے لیے اس کا رہنا بہت کام آیا کہ اسکی ہدایت سے باغی اطاعت
کی راہ پر آئے۔

پادشاہ کے لشکر کی برابر علی قلیخان چلتا رہا مگر کچھ اس کو فائدہ نہوا اس نے سکندر خان اور بہادر خان
کو ایک جماعت کے ساتھ ولایت سرور مین بھیجا کہ وہان لوٹ مچائین جب پادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو شاہ بداغ و

کڑہ مانک پور کی لڑائی ۹۷۲ھ
حاجی محمد خان سیستانی کا سلیمان کرانی پاس بھیجا جانا ۹۷۲ھ
خان زمان کا اطاعت اختیار کرنا ۹۷۲ھ

وسعید خان وقیاخان اور امرا کو بسرکردگی امیر معز الملک کو حکم ہوا کہ باغیون کو سر راہ روکین کہ اس حدود مین جا کر وہ فتنہ بپا کرین یہ لشکر خیرآباد تک دوڑا گیا۔ پادشاہ علی قلیخان کا یہ علاج کرکے خاطر جمع کے ساتھ الہ آباد مین آیا۔ علی قلی خان نے اب مکر و تزویر کی راہ اختیار کی۔ سروقد نامی عورت کو کہ جو پہلے جنت مکانی کی خدمتگارن تھی منعم خان پاس بھیجا اور اسکی معرفت منعم خان کو یاد دلایا کہ ہم تم بھی قدیمی دوست آشنا ہین اور پھر اور اپنے معتمد آدمیون کو بھیجکر ان سے یہ درخواست کی کہ صلح کرادی منعم خان نے کہنہ عملہ کی صلاح سے دشمنون کے استیصال سے دست کشی کی تھی اس نے علی قلیخان کی باتین کو پادشاہ سے عرض کرکے سفارش کی اس نے قبول کی اور غیاث علی قزوینی کو بھیجا کہ وہ علی قلیخان کو مراحم خسروانی کا یقین دلادے اور وہان کی صحبت کے اسرار پر واقف ہو کر ان کے ذنائق پر پادشاہ کو مطلع کرے۔

منعم خان نے علی قلیخان کو لکھا کہ مناسب یہ ہے کہ ہم تم قاصد و پیغام بغیر ملکر عقیدت و خدمت کے استحکام میں اہتمام کرین اندنون شہرت ہو رہی تھی کہ علی قلیخان کے قتل کے لئے عادل خان و جمال خان بنوچہ مقرر ہوئے ہین اس لئے اس کو منعم خان پاس آنے مین توقف ہوا وہ بھی چاہتا تھا کہ معاملہ مصالحت بذریعہ مراسلت و مکاتبت انجام پائے منعم خان اس بات کو نہین قبول کرتا تھا آخر کو یہ قرار پایا کہ دریا کے درمیان دونون مین ملاقات ہو ہر ایک کے ساتھ پانچ آدمی ہون یون ان دونون مین کشتی کے اندر ملاقات ہوئی اور گلے ملے۔ اگلی پچھلی محبت کی جھوٹی سچی باتین ہوئین۔ پھر عہد و پیمان زبانی مقرر ہوئے۔ مرزا غیاث الدین علی نے پادشاہ سے سارا حال عرض کیا۔ اس نے خواجہ جہان کو علی قلیخان پاس اور زیادہ اطمینان کے لیے بھیجا۔ خواجہ نے علی قلیخان سے ملکر مجنون خان قاقشال و باباخان اور بعض امرا کی انس سے آشتی کرائی۔ اس باب مین بڑی گفتگو ہوئی لیکہ وہ پادشاہ کے پاس جائے اسنے کہا کہ مین نے پادشاہ کی ایسی ناسپاسی کی ہے کہ اسکے روبرو جانے کی دلیری یکبارگی نہین کرسکتا اب مین اپنی والدہ کو اور ابراہیم خان کو جو ہماری ریش سفید ہے پادشاہ پاس بھیجتا ہون پھر خود حاضر ہون گا۔

دوسرے روز علی قلیخان کی والدہ اور ابراہیم خان اور بعض اور امرا پیشکش کے لئے بڑے بڑے شاہی نامی ہاتھی لیکر پادشاہ کی خدمت مین حاضر ہوئے۔ ابراہیم خان کی گردن مین تیغ و کفن ڈالکر پادشاہ کے روبرو خانخانان آیا۔ پادشاہ نے قصور معاف کیا اور خانخانان سے یہ فرمایا کہ اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بدنصیب اپنے عہد کی وفا نہین کرتے مگر تیری خاطر سے ان کے قصور معاف کرتا ہون اور جاگیرین انکی بدستور برقرار رکھتا ہون۔ خانخانان اس عنایت شاہانہ سے بہت خوش ہوا۔ ابراہیم خان کی گردن سے تلوار اور کفن جدا کیا اس مژدہ عفو کو والدہ علی قلی کو سنوایا وہ محل مین بیٹھی گریہ وزاری کر رہی تھی اور نوید بخشایش کی منتظر تھی۔

چند روز کے بعد پادشاہ پاس یہ خبر آئی کہ میر معز الملک اور بہادر خان کی لڑائی ہوئی اس سرگذشت کی تفصیل یہ ہے کہ علی قلیخان نے سرکار سرداریں بہادر خان و سکندر خان کو بھیجا تھا کہ وہان شور و شر کرین ناگاہ پادشاہ کی سپاہ انکے مقابلہ کے لیے سامنے آئی تو ان کے اوسان گئے جب مرد میدان اپنے تئین نہ سمجھے تو یہ مکر کیا کہ ظاہر مین میر معز الملک کو کہلا بھیجا کہ ہمارا کیا مقدور ہے کہ ہم پادشاہ کے لشکر کا مقابلہ کر سکین اب ہمارے جرائم کے معاف کرانے کا واسطہ نہین تو ہم بڑے بڑے ہاتھی پادشاہ کی پیشکش کے لئے بھیجین۔ جب ہمارے گناہ پادشاہ معاف کردے تو ہم خود اسکی ملازمت مین حاضر ہون۔ میر معز الملک نے لکھا کہ تمھارے گناہ و جرائم اس قسم کے نہین ہین کہ وہ معاف کیے جائین وہ تو آب شمشیر سے دھوئے جائینگے۔ بہادر خان نے معز الملک کو لکھا کہ آؤ ہم تم بالمشافہ اس امر کا فیصلہ کرین اسکو معز الملک نے قبول کیا۔ دونون نے اپنے اپنے مقدمات پیش کیے مگر صلح نہوئی اور باتونمین کچھ زمانہ گذرا جب پادشاہ کو اس سرگذشتہ کا حال معلوم ہوا تو اسنے لشکر خان اور راجہ ٹوڈرمل کو حکم دیا کہ وہ اپنے آدمیون کے ساتھ لشکر سے جا ملین اگر صلاح حال جنگ مین دیکھین تو لشکر کے ضمیمہ نبین اور اگر اس جماعت کی التماس کے قبول مین صلاح دیکھین تو ہمارے فضل و رحمت سے ان کو مایوس نہ کرین ان دو دو تو آ ہون نے جب مخالفون سے کہا کہ تم جو عقیدت و اخلاص زبانی ظاہر کرتے ہو اگر وہ سچا ہے تو عزم درست و خاطر مطمئن کے ساتھ پادشاہ کے آستانہ پر چلو ورنہ حیلہ و بہانہ بنانا مردونکا

ذکر پادشاہی کا بہادر خان سے شکست پانا ۹۷۳ ھ

کلام نہیں سہتا۔ مگر زبان سے اُن کا دل موافق نہ تھا اس لیے مصالحت نہوئی۔ نواحی خیرآباد میں مخالفین نے اپنے پاؤن جمائے۔ بادشاہ کے لشکر کو اسکی خبر نہ تھی کہ علی قلی کے قصور بادشاہ نے معاف کردیے ہین۔ راجہ اور لشکر خان نے جنگ کو قرار دیکر ترتیب صفوف وتسویہ افواج کیا۔ دوسری طرف بھی فوج آراستہ ہوکر کھڑی ہوئی۔ بادشاہ کے لشکر کو شکست فاحش ہوئی۔ کچھ امیر مخالف سے جا ملے کچھ اپنے مال کی حفاظت مین لگے۔ کچھ تعلق ونمک حرامی کے سبب سے نہ لڑے۔ راجہ ٹوڈرمل وقیا خان و اعتماد خان لشکر لے کر میدان مین کھڑے ہوئے مگر شکست یافتہ لشکر کو نہ لڑا سکے۔ غرض یہ پراگندہ سپاہ جمع ہوکر قنوج مین چلی آئی اور بادشاہ کو حقائق سرگذشت پر مطلع کیا۔

بادشاہ ان کے عفو جرائم کرچکا تھا اس لیے اُس نے اس شکست کی کچھ پروا نہ کی۔ امرا کو طلب کیا اس جنگ کے سبب سے اہل نفاق کورنش سے محروم ہوئے اور اخلاص مند عنایت خاص کے ساتھ مخصوص ہوئے۔

جب بادشاہ نے منعم خان کی استدعا سے علی قلی خان کے جرائم معاف کیئے تھے اور اُس کو اور بہادر خان کو جاگیر مرحمت کی تھی تو اسکی التماس کا قبول ہونا اس شرط پر مشروط تھا کہ بادشاہ کا لشکر جبتک انکی حدود مین ہے۔ خان زمان دریا سے عبور نہ کرے اور جب بادشاہ آگرہ مین جائے تو وہ اپنے وکیل بادشاہ کے پاس بھیجکر منشیر جاگیر دفتر شاہی سے حاصل کرین اور اپنی جاگیرون پر متصرف ہون مگر جب بادشاہ چنار اور بنارس کی سیر کو گیا تو علی قلی خان دریا سے عبور کرکے محمد آباد مین آیا اور اپنے آدمیون کو غازی پور اور جونپور روانہ کیا۔ بادشاہ شکار کھیل کر بنارس مین آیا کہ علی قلی نے خلاف شرط کام کیا کہ آب گنگ سے عبور کیا۔ خواجہ جہان و مظفر خان و راجہ بھگونت داس کو آہستہ آہستہ منزل بمنزل روانہ کیا اور خود شب یکشنبہ رجب ۹۷۳ھ کو بطور ایلغار کے روانہ ہوا جعفر خان تکلو و قاسم علیخان کو غازی پور مین مقرر کیا۔ جب وہ قلعہ غازی پور کے دروازہ پر پہونچے تو ایک برج سے مخالفین کودکر علی قلی پاس دوڑے گئے اور اس کو مطلع کیا۔ وہ یہ خبر سنکر سراسیمہ ہوا اور کشتی مین سوار ہوکر دریا پار بھاگ گیا۔ بادشاہ دریاے جونپور (گومتی) سے ہاتھی پر سوار ہوکر پار گیا اور آخر شب آرام کرکے سحر کو پھر سوار ہوا۔ کچھ دن

چڑھا تھا کہ اپنے لشکر سے ملا۔ علی قلیخان اپنا اسباب و خیمہ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ خبر آئی کہ وہ آب یرداد سے پار اُترنے کو ہے۔ پادشاہ کا لشکر اُسکے پیچھے گیا۔ شیا اموال سے بھری ہوئی کشتیان اُس نے پکڑ لین اور ارمغان فتح اُسکو سمجھے۔ کہتے ہین کہ محمد خان اُنبے خبر محمد آباد مین تھا۔ پادشاہ کا لشکر اُسی کو گرفتار کر لیتا۔ مگر منعم خان نے اپنے رونق کار کے لیئے اس کا گرفتار ہونا نہ چاہا۔ اور یہ دغا کی کہ اول اُسنے اُس رات کو اسپر حملہ نہین کیا کہ لشکر پہونچا تھا۔ دوم آدمی بھیجکر اُس کو بھگا دیا۔ جب پادشاہ مئو مین آیا تو اسکو معلوم ہوا کہ بہادر خان جونپور مین آکر اپنی مان کو لے گیا اور اشرف خان کو مقید کر لیا۔ اُس کا ارادہ ہے کہ پادشاہ کے لشکر سے لڑنے۔ اس لیئے پادشاہ آب سردار سے پار اُتر کر اپنے لشکر سے آن ملا۔ اس اجمالی کی تفصیل یہ ہے کہ جب علی قلیخان کے تعاقب مین پادشاہ کے ایلغار کی خبر سکندر خان اور بہادر خان کو پہونچی اور ان کو معلوم ہوا کہ والدہ علی قلیخان اشرف خان کے پاس گرفتار ہے اور اُس پاس چندان لشکر نہین ہے۔ جونپور کے قلعہ کا لے لینا نہایت آسان ہے تو وہ بہت جلد چل کر جونپور مین پہونچے۔ اشرف خان نے قلعہ داری کا سامان کچھ تیار نہین کیا تھا وہ قلعہ کے دروازہ کو جلا کر اندر داخل ہوئے اور اشرف خان کو مقید کر لیا اور اپنی والدہ کو خلاصی کر کے ہمراہ لیا۔ باوجودیکہ عمر بھر سے اسکی اور اسکے بھائی کی جاگیر مین جونپور تھا اور اہل شہر نے بہت سے روابط اور انکی خدمات کے حقوق تھے مگر اسنے سب پر دست اندازی کر کے پائمال کیا اور ان کو غریب بنا دیا پھر تاجپورن کو لوٹ کر بنارس مین وہ گیا اور یہان بھی کچھ لوٹا مارا۔ پھر زمانیہ مین گیا۔ وہان خبر معلوم ہوئی کہ علی قلی خان کے تعاقب سے پادشاہی لشکر پھر آیا سکندر خان اور بہادر خان گذر نرھن سے دریار گنگ سے پار اُترے۔ پادشاہ جونپور مین آیا۔ اُس نے یہان اقامت کا ارادہ کیا کہ جب تک علی قلیخان دستگیر نہو یہان سے وہ نہ جائے۔ جب علی قلیخان کو یہ حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے مرزا میر رضوی کہ اسکے خاص ہم نشینون مین تھا پادشاہ پاس بھیجا اور اپنے عجز و درماندگی کا اظہار کیا۔ اپنے شریکون مین سے ہر ایک کی تقصیر کا عذر کیا اور منعم خان نے ہزار زبان سے چاپلوسی کی کہ وہ قصور معاف کرا دے۔ خانخانان پادشاہ کا مزاجدان تھا وہ خود اس امر عظیم پر جرات نہین کر سکتا

لہٰس حیلے اُس نے ارباب عزت کی ایک جماعت کو جسکی خدا پرستی کے سبب پادشاہ احترام کرتا تھا
شہر یک کیا۔ اس نے پادشاہ کے روبرو بخشش و بخشایش کی داستانین بنا بین۔ پادشاہ نے لہذا باغی
بغی کے قصور معاف اس شرط سے کردیئے کہ وہ اپنی متاع اعمال و دائم افعال سے توبہ نصوح
کرکے پادشاہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرین اور دولتخواہی اور جان سپاری مین ثابت
قدم رہین۔ جب ان باتون کے آثار ایسے ظاہر ہون گے توان کو جاگیرین بدستور سابق ملینگی
خانخانان اوراس جماعت نے پادشاہ کی اس عنایت کا شکریہ ادا کیا۔ پادشاہ نے اپنے
معتمدون کو علی قلی پاس بھیجا کہ اسکی ندامت کو توبہ سے استحکام دین بخشش و بخشائش
کی نوید سے اطمینان بخشین۔ خود جونپور سے آگرہ کی طرف دوشنبہ ۱۱ رشعبان ۹۷۳ھ کو مراجعت
کی۔ منظفرخان و منعم خان کٹرہ مین ٹھہر گئے کہ وہ آدمی جو علی قلی خان پاس گئے تھے واپس آئے۔
جب علی قلیخان پاس پادشاہ کے معتمد گئے اوراسکی تسلی کی تواس نے دوام عبودیت کے
لیئے عہد قسم کے ساتھ کیا۔ پہلے پادشاہ نے بہادرخان کو بھائی کہا تھا اور علی قلیخان کو بہت دوست
سمجھتا تھا۔

جب سمجھانے والے واپس آئے تو منظفرخان و منعم خان کٹرہ سے روانہ ہوئے۔ منظفرخان کو
منعم خان کیطرف سے توہم ہوا وہ پادشاہ پاس ایلغار کرکے پہلے آیا اور بزرگان زمان کی دورو ئی کا
حال خوب بیان کرکے پادشاہ کی خاطر نشان کیا۔ جس سے منظفرخان کا پایۂ اعتبار بلند ہوا بعض
امیرون کو جو پادشاہ نے سزا دی تو منعم خان بھی ہشیار رہا۔ جس وقت پادشاہ مہمات پنجاب کی
تنظیم سے فارغ ہوکر مراجعت کر رہا تھا تو منعم خان خانخانان کی عرائض دولتخواہانہ آگرہ سے پادشاہ
پاس آئین کہ علی قلیخان و بہادرخان و اسکندرخان نے پھر خط بندگی سے سر نکالا ہے اور مرزا
حکیم کے نام کا خطبہ پڑھوایا ہے۔ مرزا کو اپنے اغراض فاسدہ کے واسطے مصیبت مین ڈالتے ہین یہ نہین
جانتے تھے کہ پادشاہی ایک عطیہ ہوتا ہے کہ جسکی ہزارون شرطین ہین جب تک وہ کسی مین فراہم
نہین ہوتین وہ پادشاہی کے لائق نہین ہوتا محض نسب اور مال کا جمع ہونا لشکر کا فراہم ہونا پادشاہی

پادشاہ کا مہم پنجاب وکابل سے فارغ ہوکر باغیون کی سزا کے لئے آگرہ آنا سنہ ۹۸۹

کے لیے کافی نہین ہوتا۔ پادشاہ مین یہ صفات ہونی چاہیے کہ والا فطرت، عالی علوفت، فراخ حوصلہ، فراوان تحمل، دریافت بلند۔ وافی کرم۔ اصلی شجاعت۔ عدل وافر۔ نیت درست۔ جد عظیم۔ عمل شائستہ۔ فکر عمیق۔ تغافل مستحسن۔ لائق عذر پذیر ہو۔ یہ سب صفات قدیمی کتابون مین حکماء نے لکھی ہین۔ سوائے اسکے وہ اپنی خواہش ناشائستہ وغضب ناشائستہ کو دانش پر غالب نکرے صلح کل اس کا مذہب ہو طوائف انام وطبقات ملل پر قادر ہو اور ان کو ایک نظر تربیت وعاطفت سے دیکھے۔ یہ سب صفات شہنشاہی ہین اسکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پادشاہی کسے کہتے ہین اور سلطنت کے معنے کیا ہین۔

غرض اس گروہ کی بغاوت پادشاہ کو ناگوار معلوم ہوئی اس لیے مرزا میرک رضوی کو جو علی قلیخان کیطرف سے آیا تھا۔ خان باقی خان کے سپرد کیا۔ اور خود دارالخلافہ کی طرف چلا کہ ارباب بغی وفساد کو سزا دے پنجاب کا خود ہی انتظام کرکے فارغ ہوا۔ جب پادشاہ دہلی مین آیا باقی خان کے پاس سے مرزا میرک رضوی بھاگ گیا۔ اور خانخانان نے تمام ممالک محروسہ کا حال سُنایا۔ علی قلیخان و بہادر خان اور مخالفونکی عصیان کا طومار پڑھا۔ قاعدہ ہے جو مبدا فطرت مین بدنہاد بے جوہر ہوتا ہے اس کو مرحمت ونصیحت سودمند نہین ہوتی بلکہ اُسکو زیان پہونچاتی ہے۔ مدارا وعطوفت کو ضعیف سمجھکر اور شورش زیادہ کرتا ہے۔ دانش منش بزرگون کو کوئی اور چارہ نہ تھا کہ بد نہادون بدکارونکا علاج حبس وضرب کے سوا کچھ اور کرتے۔ جب یہ علاج بھی ان خراب باطنون پر اثر نہ کرتا تو اُن کا عدم خانہ مین بھیجنا خلق کے حال پر بلکہ خود اُن کے احوال پر رحم کرنا تھا۔ اشغال سلطنت کے متکفل اس رموز سیاست کو نہ سمجھے اُنھون نے اول ہی مرتبہ ان باغیون کا علاج نہ کرایا مدارا کرکے یہ فساد پھیلا دیا۔

علی قلیخان کو جب یہ خبر ہوئی کہ پادشاہ مرزا محمد حکیم کے فساد مٹانے مین مصروف ہے جس کا بیان آگے آئے گا تو اسوقت باغیون نے فرصت کو غنیمت گنا اور یہ خیالات فاسد کرنے لگے کہ علی قلی خان اپنی جمعیت کے ساتھ راہ لکھنؤ سے گنگ کے کنارہ تک تمام ولایات پر تصرف کرے۔ بہادر خان کڑہ و مانکپور مین آصف خان و مجنون خان کی برابر جائے۔

اسکندرخان وابراہیم خان سرکار اودہ اور اسکے حدود پر متصرف ہو۔ پس یہ قرار دیکر وہ اس سے
جدا ہوئے۔ سرکار قنوج مین شور وشر بپا کرنے کے لیے علی قلی خان روانہ ہوا۔ ان حدود مین
کوئی سردار ایسا نہ تھا کہ اسکے ساتھ جاگیردار یہان کے متفق ہوکر فتنہ انگیزون کا مقابلہ کرتے اس لئے
یہ جاگیردار قنوج مین چلے گئے۔ جب علی قلیخان نے قنوج مین گرد حوادث اڑائی تو مرزا یوسف خان یہان
کا جاگیردار قلعہ شیرگڈہ مین متحصن ہوا۔ خلائق پریشان ہوئی اس نے عرائض متواتر پادشاہ پاس
بھیجنی شروع کین۔

پادشاہ ایسا حق شناس تھا کہ رعیت کی آسودگی کو اپنی آسایش خیال کرتا تھا اور اپنی شادمانی
خلائق کی رفاہیت سمجھتا تھا۔ پس جو شخص ایسے پادشاہ کی فرمانبرداری نہین کرتا تھا وہ اپنی ہلاکت
مین اہتمام کرتا تھا۔ خصوصاً وہ شخص کہ اس خاندان کا پروردہ نعمت ہو۔ اور اسی کے ذریعہ سے اسباب
دنیوی در بزرگی ظاہری فراہم کیا ہو اس سے زیادہ کیا نامردی ونامردانگی ونامعاملہ فہمی ہوگی۔
کہ اپنے اسباب بزرگی کو ولی نعمت سے سرکشی مین صرف کرے۔ اسکی مثال علی قلیخان کا احوال ہو
کہ جب پادشاہ نے آگرہ مین اسکی عصیان وطغیان کا حال سنا تو منعم خان خانخانان کو آگرہ اور اسکے
حدود کی حراست سپرد کی اور دو ہزار ہاتھی اپنے ساتھ لیجانے کے لیے منتخب کیئے۔ قیاخان۔ مظفرخان
مرزا قلی۔ قلیچ خان اور امرا کو حکم دیا کہ جلد جاکر مرزا یوسف کی معاونت کرین جو قنوج مین گھر رہا ہے
سہ شنبہ ۲۶ شوال ۹۷۴ھ کو خود کوچ کیا۔

جب پادشاہ قصبہ سکنیہ مین آیا تو علی قلیخان قنوج سے بھاگ کر اپنے بھائی بہادر خان پاس کڑہ
چلا گیا وہ آصف خان اور مجنون خان کی برابر فتنہ انگیزی کرتا تھا۔ پادشاہ گنگا پار قصبہ پونان مین آیا
تو محمد قلی برلاس کو سردار بناکر اور اسکے ساتھ نامور بہادر اور کارگذار دلاور کرکے ۴ ذیقعدہ ۹۷۴ھ
کو اسکندر خان سے لڑنے کے لیئے بھیجا کہ وہ اودہ مین فتنہ برپا کر رہا تھا اور خود کڑہ مانک پور کیطرف
چلا۔ جب رائے بریلی ... آیا تو آصف خان اور مجنون خان کی عرائض آئین کہ علی قلیخان اور اسکا
بھائی گولیسر کے ... مین گنگا سے پار ہوکر جانا چاہتے ہین۔ بمجرد اس خبر کے سننے کے پادشاہ

آگرہ سے جونپور پادشاہ کا جانا اور فتح پانا اور خان زمان اور بہادر خان کا قتل ہونا ۹۷۴ھ

نے ایلغار کا ارادہ کیا۔ امرا جو پادشاہ پاس تھے معلوم نہین پست فطرتی سے یا کسالت سے یا تن پرستی سے یا اس لیئے کہ باغیون کا کام انجام پانے سے انکی خود فروشی کی کساد بازاری ہوا اس ایلغا پر راضی نہوئے۔ مگر پادشاہ نے ۹ ذیقعد کو قصبہ مذکور سے ایلغار کیا۔ ایک رات اور آدھے دن مین وہ مانک پور مین آیا۔ محب علیخان یہان کا جاگیردار لوازم خدمت بجالایا۔ لشکر پادشاہ کے ساتھ بہت تھوڑا پہنچ سکا۔ آصف خان پادشاہ سے آملا۔ اس کو حکم ہوا کہ وہ اپنے لشکر مین جائے جو خان زمان کی برابر پڑا ہے۔ کچھ دیر نہوئی تھی کہ ہتوا ہبورہ کہ بڑا معتبر قاصد تیز رو تھا خبر لایا کہ علی قلیخان و بہادر خان پرگنہ سنگور مین گنگا کا پل باندہ کر اتر گئے۔ پادشاہ نے اس خبر کے سنتے ہی را جہ بھگونت داس اور خواجہ جہان کو یہان لشکر مین چھوڑا اور خود اتوار کے دن گنگا سے ہاتھی پر بیٹھکر پار اترا۔ صرف گیارہ آدمی ساتھ تھے اور دو نامی ہاتھی تھے رات کو پادشاہ نے آرام کیا قصبہ کروکا لشکر ایک کوس پر تھا۔ اس وقت مجنون خان اور آصف خان بھی آگئے۔ مجنون خان تو رات ہی کو حملہ کرنے کو کہتا تھا۔ مگر آصف خان نے کہا کہ دن مین آدمی شرم چشم اور آزرم کے سبب اچھی طرح کام کرتے ہین پادشاہ کو یہ رائے پسند آئی۔

علی قلی خان اور بہادر خان اپنی خودکامی مین ایسے مغرور تھے کہ رات بھر شراب مین اڑاتے اور ناچ کو دیکھتے رہے اور بازی شکن بشکن کھیلتے رہے۔ عجب یہ ہے کہ ان مستون کے خیمہ مین ایک آدمی نے غل مچاکر کہا کہ بادشاہ دریا سے عبور کرکے بیشمار لشکر لیکر آگیا ہے مگر انھون نے جانا کہ آصف خان اور مجنون خان کے لشکر کی خبر دیتا ہے۔

یکم ذی الحجہ مین جو پادشاہی فتح کا غرہ اور باغیون کی عمر کا سلخ تھا پادشاہ لڑنے کو تیار ہوا۔ اول پادشاہ ہاتھی پر سوار ہوا اگرچہ گرمی بہت تھی تو گھوڑے پر سوار ہوا۔ علی قلیخان اور بہادر خان بھی جنگ کے لیئے تیار ہوئے۔ لڑائی ہوئی۔ باغیون کو شکست ہوئی۔ وہ ایسے بے اوسان بھاگے کہ ان کو آگا پیچھا کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ نہ تن کی خبر تھی نہ سر کی۔ بہادر خان کا گھوڑا چراغ پا ہوا وہ زندہ گرفتار ہوا علی قلیخان کے تیر پر تیر لگا وہ ہاتھی سے گرا۔ ایک فیلبان نے اپنے ہاتھی کے پاؤن سے کچل ڈالا۔

سی فیلبان سے علی قلیخان نے کہا کہ مین بڑا آدمی ہون اگر زندہ مجھے پادشاہ پاس لے جائیگا تو بڑا
انعام پائیگا۔ مگر اس نے مکار سمجھکر کچھہ خیال نہ کیا۔ پادشاہ علی قلیخان کا حال پوچھتا تھا کہ بہادرخان کو نظر
بہادر پکڑکر پادشاہ کے روبرو لایا اُسے پادشاہ نے کہا مین نے تیرا کیا کیا تھا جو یہ تلوار مجھپر تو نے کھینچی۔
ندامت اور خجالت کے سبب سے اُس کو کچھہ اور جواب نہ بن آیا سوائے اسکے کہ اس نے کہا کہ الحمد للہ اس
آخری وقت مین اس پادشاہ کا دیدار نصیب ہوا جسکی ذات گناہون کی عفو کرنے والی ہے۔ پادشاہ
نہین چاہتا تھا کہ اس کو نیست کرے۔ مگر اولیاء دولت نے بہت کہہ کر پادشاہ سے حکم دلایا کہ اُس کے
تن کو سر سے ملازمون نے ہلکا کیا۔ پادشاہ کو سی قلیخان کے حال دریافت کرنے کی بڑی جستجو تھی۔ کوئی کہتا
بھاگ گیا کوئی کہتا کہ لڑائی مین مارا گیا۔ جب اس کا فوجدار بابو خان آیا تو اُس نے کہا کہ اس کو ہاتھی
نے مار ڈالا۔ تو پادشاہ نے حکم دیا کہ ان نمک حرام مغلون کا سر جو لائے۔ تو وہ ایک مہر طلا پائے۔
اور جو ہندوستانیون کا ایک سر لائے وہ ایک روپیہ انعام پائے۔ عوام سرون کے پیچھے
دوڑے۔ علی قلیخان کا سر ایک شخص لایا اسکے خواجہ سرا نے اسے پہچانا اور بتایا کہ وہ ہمیشہ پان
بائین دانتون سے کھاتا تھا دیکھو لوگ کہ اسطرف کے دانت اس کے سیاہ ہون گے اس دیکھنے سے
یقین ہوا کہ یہ اُسی کا سر ہے۔ پادشاہ نے خدا کا شکر ادا کیا امراء اولیاء دولت جنھون نے جانسپاری
اور حق گذاری کی تھی ان کو زیادہ مناصب اور اعلےٰ مراتب سے سرفراز کیا۔ فتحیابون کے ساتھ
علی قلیخان و بہادر کے سرون کو آگرہ۔ دہلی۔ ملتان اور ممالک محروسہ مین بھیجا۔ یہ فتح الہ باس کے
پاس قصبہ سکراول مین ہوئی تھی وہان ایک شہر آباد کرکے اس کا نام فتحپور رکھا۔ پھر پادشاہ الہاباس
گیا۔ راہ مین اور باغیون کے جرم عفو کرتا گیا۔ بہادر خان کی عورتین اور پاترین پادشاہ کے ہاتھ آئین
بنارس مین پادشاہ گیا تو نادانی سے شہر کا دروازہ لوگون نے بند کردیا۔ اس لیے پادشاہ نے شہر کو
کچھ لٹوایا تھا پھر منع کردیا۔ شہاب خان کو جونپور کی حراست کے لیئے اور قلیچ خان کو سرہرپور بھیجا۔
بعضے اوزبک وہان تھے۔ بنارس مین تین روز رہ کر پادشاہ جونپور مین آیا۔ یہان کی رعایا
کہ بہت دنون سے لکدکوب بن آ رہی تھی انکے حال پر عنایت کی۔ پھر کڑہ مین وہ آیا۔ پادشاہ نے

اسکندر خان کے سر پر جو سپاہ بسرکردگی محمد قلیخان برلاس بھیجی گئی تھی

جاگیرداروں کو اپنی اپنی جاگیرون مین بھیجدیا۔ اور منعم خان خانخانان کو آگرہ سے بلایا۔ بعضی نامی باغی
پکڑے آئے وہ ہاتھیون کے پیرون تلے کچلے گئے۔ بعد ازان سب باغیون کے معافی جرائم کا اشتہار دیدیا
آگرہ سے جب منعم خان کڑہ کے قریب بادشاہ پاس آگیا تو اُس کو تمام محال جاگیر علی قلیخان و بہادر خان
اور جونپور و بنارس و غازی پور سے لے کر آب خوشاب تک تفویض ہوئے۔ خود شاہ آگرہ مین ۱۸ محرم ۹۷۵
کو آگیا۔ فتح اکبر مبارک اسکی تاریخ ہوئی۔
اسکندر خان کے سر پر جو سپاہ بسرکردگی محمد قلیخان برلاس بھیجی گئی تھی اُس کا احوال یہ ہے
کہ وہ کوچ بکوچ یکشنبہ ۷ ذی الحجہ شہزادہ کے میدان مین پہونچی اس لشکر کے آنے سے اسکندر خان
قلعہ اودہ مین متحصن ہوا۔ امرا نے اس کا محاصرہ کیا اور اپنے مورچل قائم کیے اور لڑنا شروع کیا
شہر کے پہلو مین ایک تل (ٹیلہ) بلند تھا جس کا نام سرگ دواری تھا اور وہ قلعہ و شہر دونون کا
سر کوب تھا۔ اسکندر اپنے ہمراہیون کی ایک جماعت کو اس مقام پر لے گیا اور وہان توپ اور
بندوق سے لڑنا شروع کیا۔ اول اس مقام کو محمد قلیخان برلاس نے بڑی دلیری اور جوانمردی
سے چھین لیا جب اوزبک اس ٹیلہ سے نیچے گرے تو بڑے سراسیمہ ہوئے۔ اس اثنا مین بادشاہ
کے لشکر کے فتح کی اور علی قلیخان و بہادر کے قتل کی خبر اندر اور باہر مشہور ہوئی جس سے
اولیاء دولت کا استظہار ہوا اور اعدا کی کمر ٹوٹی۔ اسکندر خان نے اس خبر کو مخفی کیا گو اس کا
اشتہار ہوگیا تھا۔ اور امراء شاہی سے صلح کی گفتگو شروع کی اور اس مین ردّ و بدل ہوتی
رہی۔ اسکندر نے متذبذب ہو کر اولیاء دولت کو حرف و حکایت مین لگایا اور خود رات کو
قلعہ کے ایک دروازہ سے نکل کر کشتی مین بیٹھ دریا سے عبور کیا اور گرداب خطر سے نیم جان
نکل گیا۔ جب اولیاء شاہی کو اسکے بھاگنے کی خبر ہوئی تو انھون نے شہر پر قبضہ کیا۔ اسکندر
نے دریا مین اسطرف کشتیان نہین چھوڑی تھین۔ اس لیے پادشاہی لشکر کو تو ان کشتیون کے
جمع کرنے مین دو تین روز کا توقف ہوا اس اثنا مین اسکندر نے اہل و عیال کی طرف سے خاطر
جمع کر کے پیغام بھیجا کہ مین اپنے عہد پر قائم ہون۔ راجہ ٹودرمل کی اور اسکی ملاقات کشتی مین

ہوئی مگراس ملاقات کا نتیجہ نقش برآب اورگرہ بر باد تھا۔ اولیا ءدولت نے قسمین کھائین اور لوازم استمالت کو بجالائے مگر اسکندر اپنے قول پر نہ قائم رہا اور کہنے لگا کہ مجھہ سے ایسی تقصیرات سرزد ہوئی ہین کہ پادشاہ کی درگاہ مین جانے کی دلیری نہین کرسکتا۔ مناسب یہ ہے کہ بوسیلہ استغفار جرائم کے میری جاگیر کو بحال کرا دو اور کوئی خدمت اس صوبہ مین نامزد کرا دو تاکہ نیک خدمتی کی دستآویز پر پادشاہ کی سعادت ملازمت حاصل کرون۔ غرض یون ہی باتین بنا کر وہ گورکھپور چلا گیا۔ پادشاہ نے بھی یہ سمجھہ کر کہ وہ ممالک محروسہ سے باہر چلا گیا اس کا کچھہ تعرض نہ کیا اور اس کی تمام جاگیر محمد قلی برلاس کو عنایت کی۔

اسکندر خان اوزبک سلیمان کررانی حاکم بنگالہ پاس گیا۔ کچھہ دنون وہان وہ رہا۔ افغانون نے اس کا اپنے پاس رکھنا مناسب نہ جانا اسکی گھات مین لگے کہ اسکندر خان نے منعم خان سے التجا کی جو کچھہ مجھہ سے ہوا نادانستگی مین ہوا۔ مین اس سے خجل ہون۔ اگر اس عاصی کی درگاہ والا مین شفاعت کرا دیجیے تو اس دنیا مین میری زندگی ہوجاے اور زندگانی باقی بھی ہاتھہ آے۔ منعم خان نے اس کے نوشتہ کو اپنی عرضداشت کے ساتھہ پادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ پادشاہ نے فرمان اُسکے امیدوار ہونے کا بھیجدیا وہ خوداور یوسف ولد سلیمان اوزبک کو ہمراہ لیکر ایلغار کرکے پادشاہ پاس چلا آیا۔ افغانون کو خبر بھی نہوئی۔ اسکی تقصیر معاف ہوئی۔ تھوڑے زمانہ مین ممالک شرقیہ مین سرکار لکھنؤ سکندر خان کو عنایت ہوئی۔

سال دہم ۹۷۲ کے واقعات مین سے یہ ہے کہ پادشاہ نے حسن خان خزانچی کو ولایت اڑلیسہ مین کہ ہندوستان کے شرقی اور جنوبی سمت مین واقع ہے اور جس زمانہ سے کہ ہندوستان فتح ہوا ہے کسی سلاطین اسلام کا پرتو بھی اسپر نہین پڑا اور ولایت اڑلیسہ کے فرمان روا ہمیشہ باعتبار اقتدار کے ممتاز رہے خصوصاً راجہ مکند جو بالفعل یہان فرمان روائی کرتا تھا افغانون کا تسلط جب سے کہ بنگالہ پر ہوا تھا اُنکے دل مین اس ملک کے فتح کرنے کی تمنا تھی لیکن یہ بیت اُنکی نہ آئی۔ اس لیے کہ اسکے گرد بڑے بڑے عقبات خطرناک اور بہت و بلند پہاڑ اور جنگل سخت دشوار

گذارتے تھے کہ پادشاہون کو اس مملکت پر دست تصرف پہنچانا مشکل تھا اور اس سرزمین لشکر کے جانا متعسر تھا۔ جو شخص ولایت بنگالہ سے بھاگ کر جگناتھ کے راجہ پاس چلا جاتا پھر والی بنگالہ کے ہاتھ وہ نہ آتا۔ چنانچہ راجہ کی پناہ مین ابراہیم سور گیا۔ راجہ نے اڑیسہ مین کچھ ملک اسکو دے دیا۔ ہرچند سلیمان کررانی نے اُسپر تسلط پانے کے لیئے سر پٹکا مگر کچھ نہ کر سکا بلکہ اُس سے ڈرتا رہا۔ جب پادشاہ جونپور مین تھا تو اسے حسن خان خزانچی کو اور مہاپاتر کہ فنون شاعری سے ماہر اور موسیقی مین بے مثل تھے بھا گنے راجہ پاس بھیجا کہ وہ اختیار کرے۔ راجہ نے ان دونون کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور پادشاہ کی بندگی اختیار کی۔ اور عریضہ بھیجا کہ اگر سلیمان پادشاہ کی اطاعت نہ اختیار کرے اور علی قلیخان سے ارتباط پیدا کرے تو مین ابراہیم جو اس کا خصم و عویدار سلطنت ہے ساتھ لے کر بنگالہ مین جاؤن اور سلیمان کے لیے وہ کار پردازی کرون کہ اور فتنہ انگیزون کو عبرت ہو۔ راجہ نے بتین بھیجنے کے بعد حسن خان اور مہاپاتر کے ساتھ اپنا ایلچی اور ہاتھی پیشکش بھیجے۔

خواجہ عبد المجید خان دیوان قوم کا تاجیک تھا۔ اہل قلم کے طبقہ مین داخل تھا۔ مگر قلم سے سیف پر تقاعد کیا تھا اور سیف و قلم کا جامع اور طبل و علم کا صاحب ہوا تھا خطاب آصف خانی رکھتا تھا تیغ زنی مین ترک اس کا لوہا مانتے تھے وہ کٹرہ مین کہ ایک ولایت وسیع ہے جاگیر رکھتا تھا تو اُس نے اپنی کاردانی اور کارطلبی کے سبب سے خود یہ ارادہ کیا کہ وسیع مملکت پنہ کو اپنے تصرف مین لائے۔ رامچندر یہان کا راجہ تھا مدتون سے اسکے باپ دادا یہان راج کرتے چلے آتے تھے۔ آصف خان نے اسکو نصائح ارجمند کے ساتھ یہ پیغام دیا کہ اب آپ کلاہ سری کو سر سے اُتار دیئے اور حلقۂ عبودیت گوش اطاعت مین پہنیے ممالک محروسہ کے خراج گزارون مین آکر امن و امان سے کامیاب ہوجیے۔ غازی خان سوری کو جو پادشاہ سے باغی ہوکر آپ سے ملا ہے بھیجدیجیے۔ مگر راجہ اس اطاعت و عبودیت کی درخواست سے اور زیادہ مغرور ہوگیا اور جنگ پر آمادہ ہوا۔ آصف خان شائستہ سامان کے ساتھ اسکے سر پر چڑھ گیا۔ راجہ نے بھی غازی خان سوری کو ساتھ لیا اور راجپوت و افغانون کا لشکر لے کر لڑنے کو کھڑا ہوا۔ طرفین کے لشکرون نے جنگ مین جان لڑائی بے اندازہ رد و گیر کے بعد آصف خان

خواجہ عبد المجید خان کا ولایت پنہ کو فتح کرنا ۱۵۶۹ء

غالب آیا۔ راجہ رامچندر شکست پاکر قلعہ باندھو مین کہ یہان کے قلعون مین سب سے زیادہ مستحکم ہے متحصن ہوا
بہت غنیمت پادشاہ کے لشکر کے ہاتھ لگی اور نامور راجاؤن کی استدعا اور استفشاع سے پادشاہ
کا فرمان صادر ہوا کہ راجہ رامچندر نے ہماری اطاعت اختیار کی ہے اور وہ ہمارے پاس آنیکو ہی
اس لیئے اسکے ملک پر کوئی ناخت نکرے اس فرمان کے مطابق آصف خان وہان سے مراجعت
کرکے اپنی جاگیر مین آیا۔

خواجہ عبدالمجید آصف خان کا ولایت گڈھ کٹنکہ کو فتح کرنا ۹۷۱ھ

خواجہ عبدالمجید آصف خان نے اپنی حسن خدمت سے ولایت گڈھ کو تھوڑے اہتمام سے فتح کرلیا
ہندوستان مین ممالک وسیع ہین ان مین ایک ملک کو گونڈوانہ کہتے ہین جس مین قوم گونڈ
بستی ہے۔ اس قوم مین آدمیون کی تعداد کثیر ہے۔ اکثر وہ جنگلون مین رہتے ہین۔ یہین وہ توطن
اختیار کرکے اکل و مشارب و مناکح مین سرگرم رہتے ہین۔ یہ قوم ہندوؤن کی رذیل قومون مین سے
ہے۔ ہندو اس قوم کو دین و دنیا کے قوانین اور آداب سے باہر جانتے ہین اور کمین ذات سمجھتے
ہین۔ اس ولایت کے مشرق مین رتن پور کہ ولایت جھارکھنڈ مین سے ہے متصل ہے
اسکے مغرب کو اتصال رائے سین سے ہے جو صوبہ مالوہ کے مضافات مین سے ہے اسکا
طول ڈیڑہ سو کوس ہے اسکے شمال مین ولایت پٹنہ ہے اور جنوب مین دیار دکن عرض اسی
کوس۔ اس ملک کو ولایت گڈھ کٹنکہ کہتے ہین۔ ایک ملک وسیع ہے جسمین بڑے بڑے قلعے و
حصن بلند واقع ہین اور شہر و قصبات آباد ہین۔ ستر ہزار دہات اسمین بستے تھے۔ سب شہرون
مین بڑا شہر گڈہ ہے اور کٹنکہ ایک گاؤن کا نام ہے۔ ان دونون اسمون کے ساتھ ملکر یہ ملک
موسوم ہوا ہے اس کا دار الحکومت قلعہ چورا گڈہ ہے۔ پہلے زمانہ مین یہان راجہ ایک نہین ہوتا تھا
بلکہ بہت سے راجا و رائے راج کرتے تھے۔ اب بھی گو نظم و نسق سابق درہم و برہم ہوگیا ہے انکے
راجہ ہین۔ گڈہ کا راجہ۔ کرولا کا راجہ۔ ہریا کا راجہ۔ سلوانی کا راجہ۔ دانگی کا راجہ۔ کتھولا کا راجہ۔ گڈہ
کا راجہ۔ منڈلا کا راجہ۔ دیوہار کا راجہ۔ لانجی کا راجہ۔ سپاہ اس ملک مین زیادہ تر پیادہ پا ہوتی ہے
اور سوار کم۔ ہندوستان مین جب سے مسلمانون کی حکومت ہوئی تو انھون نے ان راجاؤن کے

مستحکم قلعون کے فتح کا ارادہ کیا۔ خیال تک نہین کیا ان دنون مین کہ آصف خان جاگیردار کڑہ
ہوا ولایت پنہ کو فتح کیا۔ تو اس ملک مین رانی درگاوتی راج کرتی تھی۔ شجاعت، وسخاوت و
تدبیر مین نامور تھی اور اپنی صفات برگزیدہ کے سبب سے سارے ملک کو اپنی قلمرو مین رکھتی تھی۔
۲۳ ہزار آباد موضع اسکے تصرف مین تھے۔ بارہ ہزار موضعون مین اسکے شقدار (تحصیلدار) رہتے
تھے اور باقی موضع آباد تھے جن کے راجہ سب اسکے مطیع تھے۔ اس کا شوہر یہان کا راجہ دلپت تھا
جب وہ مرگیا تو اس کا بیٹا بیرناراین پانچ برس کا جانشین ہوا۔ اور رانی درگاوتی نے راجہ اھارکا
اور راجہ مان برہمن کو اپنے ساتھ شریک کر کے راج کے سارے کاروبار کا اہتمام اپنے ذمہ لیا
جنہین وہی غالب رہی۔
لوازم شجاعت مین وہ کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتی تھی اپنی عقل دوراندیش سے عجیب عجیب کام
کرتی تھی۔ بازبہادر سے بہت دفعہ بڑی بڑی لڑائیان لڑی اور ہر ایک حرب مین غالب رہی۔
بیس ہزار سوار و ایک ہزار ہاتھی اپنے پاس جمع کر لیے۔ سارے راجاؤن کے خزانہ اسکے ہاتھ آئے تیرو
بندوق خوب لگاتی تھی۔ ہمیشہ شکار کو جاتی تھی اور جانورون کو بندوق سے شکار کرتی تھی یہ اسکی
عادت تھی کہ جب وہ سنتی کہ کہین شیر آیا ہے تو جب تک اُس کو بندوق سے نہ مارلیتی پانی نہ پیتی
غرض اسکی بزم اور رزم دونون کی داستانین ہندوستان مین بہت مشہور ہین خوشامدگویون کے سبب سے
اس کو اپنی ظاہری کام روائی پر غرور ہو گیا تھا۔
جب آصف خان نے پنہ کو فتح کیا تو درگاوتی کو اپنے لشکر و شجاعت و عقل پر ایسا بھروسہ تھا
کو وہ اپنے زبردست ہمسایہ سے ذرا خوف نہین کرتی تھی۔ آصف خان نے اس ہمسائگی کی حالت
مین ملائمت و موانست کا طریقہ جاری رکھا۔ جاسوسون اور ہوشیار تاجرون کو بھیجکر اسکے مداخل
و مخارج کا واقعی حال دریافت کر لیا کہ اس رانی کے پاس بہت خزانے اور دفینے ہین تو اس بلاد کی
عروس کے ہم آغوش کرنے کا اور اس کے ساتھ کدخدا ہونے کا خیال وہ دل مین لایا اول لہو
ولعب کے طور پر اس شاہد کے خط و خال پر دست درازی شروع کی اور سرحد کے مواضع دقریات کو تاخت

فرمانراج کرنا آغاز کیا۔ اسی سال ۹۷۱؁ھ مین پادشاہ کے حکم سے دس ہزار پیادے اور سوار نے گرگڈھ کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ اور حدود کے جاگیرداران محب علی خان و مراد خان و وزیر خان و بابا ے قشقال وغیرہ اور ایک جماعت کثیر کو جمع کیا۔ رانی کامرانی کے ساتھ بے خبر راج کررہی تھی کہ اُس کو خبر لگی کہ لشکر شاہی دموہ مین آپہنچا اسکی عملداری مین یہ بڑا شہر تھا۔ اس سے اسکی کلول مین خلل... نگالشکر اس کا گرد آوری کے لیئے اور اپنے اہل وعیال کو کسی مامن مین پہونچانے کے لیئے متفرق ہوا۔ رانی پاس پانچسو آدمی رہگئے۔ اسپر بھی رانی اپنی جرارت پر اعتماد کرکے پادشاہ کے لشکر کے مقابل لڑنے کھڑی ہوئی غرور کا قاعدہ ہی کہ تہوّر پیدا کردیتا ہے۔ راجہ اودھار نے جو اشغال حکومت کا متکفل تھا خیراندیشی سے رانی سے اپنے لشکر کے متفرق ہونے کا اور شاہی لشکر کے متفرق ہونے کا اور شاہی لشکر کے زیادہ ہونے کا حال بیان کیا تو رانی نے جواب دیا کہ اس لشکر کا برہم زدہ ہونا تو تیری بیوقوفی کے سبب سے ہی۔ مین نے مدتون اس دیار مین ریاست کی ہے۔ بھلا میری طبیعت مین بھاگنے کا خیال کب آسکتا ہے بیعزت جینے سے باعزت مرنا خوشتر ہے۔ اگر پادشاہ دادگر یہان ہوتا تو مین اُس پاس جاتی۔ یہ لوگ میری قدر کیا جانین یہی بہتر ہے کہ جوانمردانہ مرجاؤن۔ چار منزل وہ پادشاہ کے لشکر سے لڑنے چلی تو دو ہزار آدمی اس پاس جمع ہوئے۔ آصف خان نے دموہ مین توقف کیا۔ اعیان دولت نے رانی سے متفق ہوکر کہا کہ جنگ کرنا مستحسن ہے۔ مگر سررشتہ تدبیر کو ہاتھ سے دینا شجاعت و فرزانگی کا آئین نہین ہے۔ چند روز مضبوط مقامون مین ٹھیرکر انتظار کرنا چاہیئے کہ متفرق لشکر جمع ہوجاوے۔ رانی یہ بات سنکر گڈھ کے مغرب رویہ ایک درخت زار مین چلی گئی۔ شمال رویہ اسکے ایک اور درخت زار تھا اسمین وہ آہستہ آہستہ روانہ ہوئی از موضع نرہی مین کہ گڈھ کے مشرق رویہ ہی پہنچی وہان آدمیونکی درآمد و برآمد دشوار تھی۔ چار و نظرت اسکے اونچے اونچے پہاڑ تھے ندی گور اسکے آگے تھی ایک جانب اسکے دریاے نربدا بہتا تھا۔ نہایت تنگ ہولناک ایک گریوہ تھا جس کو دریا پار جاکے کرنا پڑتا تھا اس ضلع پر رسائی ہوتی تھی آصف خان دموہ مین رانی کے آنے کی خبر سنکر ٹھیرا۔ اسکو نہ معلوم ہوا کہ رانی کہان غائب ہوگئی یہ ملک ایسا تھا کہ اسمین کسی کا پتا لگانا دشوار تھا آخر وہ گڈھ مین آیا مواضع و قریات پر عمل دخل شروع کیا۔ رانی کی خبر پاکر اسکے پیچھے گیا۔ اسکی رانی کو خبر ہوئی

تو اُس نے اپنے لشکر کے سرداروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ اگر کسی اور جگہہ جانا مصلحت ہو تو بتاؤ کہ لشکر کیجمع
ہو فنے تک وہان بسر کرون۔ میرے دل مین تو یہ ارادہ ہی۔ کب تک درختون کی پناہ مین بسر کرونگی۔
میدان جنگ مین چلکر بسر کرون جس کا جی چاہے میرے ساتھہ چلے اور نہین اپنی راہ لے میری طرف سے
اس کو اجازت ہی۔ لڑائی مین ان دو صورتون کے سوا کہ مرنا ہے یا فتح پانی کوئی اور تیسری صورت
نہین ہے آخر سب آدمیون نے اس کا ساتھہ دیا۔ پانچ ہزار آدمی اس پاس جمع تھے۔ نظر محمد اور
آق محمد نے اور بہادرون کی جمع کثیر نے سرگریوہ کو کہ نکلنے کی جگہہ تھی بزور لے لیا۔ رانی سلاح در بر
مغفر بر سر ہاتھی پر سوار اپنے بہادرون کے ساتھہ جنگ پر مستعد ہوئی۔ شائستہ طور پر آہستہ
آہستہ روانہ ہوئی۔ دلیرون اور دلاورون سے کہتی تھی آگے بہت تیز نہ بڑھو۔ دشمن کو آگے آنے
دو۔ غرض ایک جنگ عظیم ہوئی۔ بہت آدمی مارے گئے تین سو مغل قید ہوئے۔ اور رانی غلبہ کر کے
بھگوڑون کا تعاقب کیا۔ اور گریوہ سے باہر آئی۔ دن ختم ہونے کو تھا رانی نے پوچھا کہ کیا صلاح ہے۔
ہر شخص نے اپنی مردانگی کے موافق بات کہی۔ رانی نے کہا کہ آج ہی کی رات شب خون مار کر دشمن کا
کام تمام کرنا چاہیئے۔ اگر یہ نہین منظور تو رات کو آرام کر کے صبح کو آمادۂ جنگ ہون۔ مگر اس مین یہ خوف
ہے کہ اس گریوہ کے سرے پر آصف خان قبضہ کرے گا۔ تو پین لگا دے گا۔ پھر آسان کام مشکل ہو جا
کوئی اسکی صلاح سے متفق نہوا۔ وہ رات کو ٹھیرے۔ رانی نے ماتم رسیدون کو پرسیہ دیا گھر آئی تو
بعض اپنے دلی دوستون سے شبخون مارنے کے لیے کہا۔ مگر کسی نے اس کا کہا نہ مانا صبح کو وہی ہوا
جو اس نے کہا تھا۔ رانی ہاتھی پر سوار ہوئی اور ہاتھیون کو اپنے اپنے مقام پر کھڑا کیا اور لڑنا شروع کیا
مردانہ حملے کیے عجیب کارنامے دکھائے۔ تیسرے پہر تک ہنگامۂ جنگ گرم رہا۔ رانی کے بیٹے راجہ
بیر ساہ نے تین دفعہ بادشاہ کے لشکر کو بھگا دیا۔ مگر آخر کو وہ زخمی ہوا جب رانی کو بیٹے کا یہ حال
معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اسکو میدان جنگ سے لے جا کر کسی امن مین بھیجدین۔ اس حکم کی تعمیل سے
لشکر ہی مین سے ایک جماعت کثیر میدان جنگ سے نکل گئی اور لشکر مین فتور پڑا۔ تین سو آدمی اس پاس
رہ گئے مگر اسکے عزم مین کچھہ سستی نہین ہوئی اپنے بہادرون کو جنگ مین سرگرم کر کے اہتمام کرتی۔

تھی کہ ناگاہ کمان کے قضا خانہ سے ایک تیر اسکی کنپٹی مین لگا۔ اسنے حرکت کرکے اس تیر کو زور سے کھینچکر نکال لیا مگر اس کا پیکان اندر رہا وہ نہ نکلا۔ دوسرا تیر آن کر گردن مین لگا۔ اس کو بھی اپنی ہمت سے نکال لیا۔ مگر درد کی افراط سے غشی نے غلبہ پایا جب رفتہ رفتہ ہوش مین آئی تو ادھار کو کہ جو قوم سے بگھیلا تھا اور شجاعت اور یکجہتی مین امتیاز رکھتا تھا اور اسکے آگے ہاتھی پر بیٹھا تھا اس نے مخاطب ہوکر کہا کہ مین نے اسلئے تجھے تربیت کیا تھا کہ کسی دن کام آسے آج وہ دن ہے کہ جب تک مین مغلوب ہوئی ہون مبادا ناموس و ننگ مین مغلوب ہون اور مخالف کے ہاتھ لگون حق نمک ادا کر۔ اور ان خنجر آبدار سے میرا کام تمام کر۔ ادھار نے کہا کہ مجھ مین کہان توانائی ہے کہ اس کام کو کرون جس ہاتھ نے عطیہ لئے ہون وہ ایسا کار دور از کار کب کرسکتا ہے۔ مگر ہان مجھ سے یہ ہوسکتا ہے کہ اس معرکۂ جانکاہ سے باہر لے جاؤن۔ اس فیل بادرفتار پر مجھے بھروسہ ہے۔ جب دھار کی نرم دلی کی یہ بات سُنی تو اسنے دشنام اس کو دی کہ مجھپر یہ عار تو گوارا کرتا ہے اور خنجر لے کر اپنا کام تمام کیا مردانہ اس دنیا سے رخصت ہوئی اور اس کے وفادار دوستون نے بھی وفاداری کرکے اپنی نقد حیات کو اس کے کام مین صرف کیا۔ آصف خان کو ایک فتح بزرگ حاصل ہوئی ہزار ہاتھی اور بہت سا مال ہاتھ آیا۔ ملک وسیع ممالک محروسہ مین داخل ہوا رانی کی مدت حکومت سولہ برس تھی۔

جب رانی کی حکومت رانی ٹھنڈی ہوئی آصف خان نے دو مہینے کے بعد قلعہ چورا گڈھ کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ یہ قلعہ۔ دفائن۔ نفائس جواہر سے بھرا ہوا تھا۔ پہلے راجاؤن کے زمانہ دراز کی کمائی یہان اندوختہ تھی جسکو وہ اپنی سلامتی کا سبب سمجھتے تھے اب وہ ہلاکت کا سبب ہوئی بادشاہ کی سپاہ نے ان خزانون کی طمع مین قلعے کے فتح کرنے مین جان لڑا دی۔ رانی کا بیٹا کہ جنگ گاہ سے یہان قلعہ مین آیا تھا کچھ تھوڑا سا لڑا تھا کہ قلعہ فتح ہوگیا۔ اور راجہ مرگیا۔ بھوج کایتھ اور میان بھکاری رومی کو ہندوستان کے راجاؤن کی رسم کے موافق جوہر (جھوہر) کی رسم کا مہتم مقرر کیا۔ چوب پنبہ جنس و روغن اور اس قسم کی چیزین جمع کین اور خواہی نخواہی عورتون کو اسمین دھکیل خاکستر کیا جس کسی عورت نے اسمین تقاعد کیا اسکو بھوج نے مار ڈالا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جب یہ خرمن گل سب

خاکستر ہوگیا اور اس کو ٹٹولا تو دو آدمی زندہ نکلے۔ لکڑیان اُنپر ایسی حائل ہوئین کہ آگ سے بچا دیا۔
ایک اُن مین رانی کی بہن کملاوتی اور دوسرے پراگڈھ کے راجہ کی بیٹی تھی یہ دونون عورتین کہ طوفان
آتش سے زندہ بچین پادشاہ کی خدمت مین بھیجی گئین۔

القصہ جب قلعہ فتح ہوا تو سونا چاندی۔ زرمسکوک وغیر مسکوک ومرصع آلات وجواہر دآلالی وہیاکل وتماثیل
واصنام مرصع مکلل۔ جانورونکی صورتین ساری سونے کی بنی ہوئین۔ اور اور نفائس واجناس بےحساب
آصف خان اور اُسکے آدمیون کے ہاتھ آئے۔ کہتے ہین کہ آصف خان کے فقط حصے مین سو دیگین
اشرفیون کی سوا اور بہت اسباب کے ہاتھ آئین۔ جب آصف خان کو ایسی دولت ہاتھ لگی کہ
جس سے وہ صاحب خزائن وجواہر ہوگیا تو اس کا اعتبار بہت بڑھ گیا۔ مگر اُسکی عقل درست نہ تھی
اس بادۂ ہوش ربا نے اُسکا حوصلہ ظاہر کردیا کہ ان نفائس اجناس وشرائف جواہر مین سے پادشاہ
پاس کچھ نہ بھیجا۔ اسمین نہ اخلاص تھا نہ انصاف نہ یہ سمجھا کہ اس حرکت سے میرا ادبار آئیگا ہزار ہاتھیون مین سے
دو سو پادشاہ پاس بھیجے۔ باقی ہاتھیون کو ہضم کرگیا اور ساری دولت وجواہر کو خاک پوش کیا۔ اور
گڑھ اور گڑھ مین تکیہ لگا کے حکومت کرنے لگا۔

جب پادشاہ تیسری دفعہ علی قلیخان زمان کی تادیب کے لیے جونپور کی جانب گیا ہے تو اس نے آصف خان
کو بلایا وہ پادشاہ سے آن کر جونپور مین ملا۔ پادشاہ نے اُسکو سپاہ مین منصب ارجمند وپایہ عالی دیا۔ مگر
خیانت گزین کو ہمیشہ خوف دامنگیر رہتا ہے وہ فتنہ اندوزونکی باتون مین آنکر گڈھ کو بھاگ گیا اس نے
اپنی کوتاہ خردی اور خست نفس وکفران نعمت کے سبب سے چوڑاگڈھ کے خزانون کو چھپایا تھا۔ ہرچند
اہلکاران سلطنت کو وہ رشوت دیتا تھا۔ مگر اُن حریصون کا پیٹ تو خاک سے بھی نہیں بھرتا اس لیے
یہ رشوت کام نہ آئی۔ یہ رشوت خوار ہمیشہ اس کو رمز وایما مین ایسی باتین سُناتے رہتے تھے جس سے
اس کو توہم رہتا۔ انھین دنون مین کہ لشکر شائستہ پادشاہ نے اُسے عنایت کیا تو بڑے بڑے آدمیون کو
اُسپر حسد ہوا۔ تسویلات وتذویرات مین کوشش کرنا اُن کا کام ہی ہوتا ہے۔ اسکے ناقص درک بیمال
نافہم۔ فتنہ اندوز دوستون نے ایک بات کی ہزار باتین دروغ بنائین کہ جن سے وہ بے دل ہوا

بتاریخ یکشنبہ ۲۰ صفر سنہ ۹۷۲ کو مع اپنے بھائی وزیر خان کے ولایت گڈھ کیطرف چلا اور سب اسباب و خیمہ یہین چھوڑ دیا۔ پادشاہ کو جب یہ خبر ہوئی تو شجاعت خان کو مع اور بہادرون کے اسکے تعاقب مین بھیجا۔ گنگا کے کنارہ پر اسکی آصف خان سے خوب بندوق چلی۔ مگر رات ہوگئی تھی اس لئے آصف خان گڈھ کو بھاگ گیا اور شجاعت خان اس کا تعاقب مشکل سمجھا وہ پادشاہ پاس چلا آیا۔

جب پادشاہ آگرہ مین آیا تو اس نے آصف خان کی جونپور سے بھاگ جانے کے سبب سے مہدی قاسم خان کو ملک گڈھ کی حراست کے لیے متعین کیا کہ وہ جاکر وہان بندوبست کرے اور آصف خان کو پکڑ کر بھیجدے مہدی قاسم خان شایستہ آئین کے ساتھ لشکر لیکر چلا تھا اور ہنوز گڈھ مین نہ پہنچا تھا کہ آصف خان خبردار ہوکر تحسر و تاسف کے ساتھ ولایت گڈھ کو چھوڑکر وحشیون کی طرح جنگل کو چلا گیا۔ مہدی قاسم خان گڈھ پر باستقلال متصرف ہوا اور آصف خان کے پیچھے پڑا۔ علی قلی خان ہمیشہ اس تدبیر مین رہتا تھا کہ آصف خان کو اپنا دوست بنائے رکھے اس نے اس حالت مین اسکو خطوط لکھے۔ وہ مع اپنے بھائی وزیر خان کے جونپور مین علی قلی خان سے جا ملا۔ مہدی قاسم نے ولایت گڈھ کا انتظام کرلیا جب علی قلی خان کی کمند خدعیت اور دام صحبت مین آصف خان پھنسگیا تو اس کو یہ صحبت ناخوش آئی اور علی قلیخان کے تکبر بیجا اور ترفع بے معنے سے وہ رمیدہ خاطر ہوا علی قلیخان طمع سے اسکے اموال کی تاک مین لگا۔ آصف خان بھاگنے کی فرصت پانے کا منتظر رہتا تھا۔ اس اثنا مین علی قلیخان نے آصف خان کو بہادر خان کے ہمراہ بھیجا۔ وزیر خان کو اپنے پاس رکھا۔ وزیر خان نے حقیقت حال اپنے بھائی کو لکھی اور دونون بھائیون نے مل کر ٹھہرا لیا کہ کب فرار کرینگے۔ ایک رات بہادر خان سے آصف خان نے جدا ہوکر کڑہ مانک پور کی راہ لی۔ اور وزیر خان بھی اسی راہ پر جونپور سے بھاگا۔ بہادر خان کو جب آصف خان کا حال معلوم ہوا تو اسنے تعاقب کیا اور قلعہ چپادہ پر اسے جا لیا۔ دونون مین لڑائی ہوئی۔ آصف خان شکست پاکر گرفتار ہوا۔ بہادر خان نے اس کو عماری دار فیل پر سوار کرکے روانہ کیا۔ بہادر خان کے آدمی تو لوٹنے مین لگے کہ وزیر خان اور اس کا بیٹا بہادر خان آن پہنچے اور انھون نے مستعد ہوکر بہادر خان کے آدمیون کو پریشان کردیا۔ بہادر خان نے حکم بھیجا کہ ہاتھی پر آصف خان کا

مہدی قاسم خان کا ولایت گڈھ مین مقرر ہونا

آصف خان کا قصور معاف ہونا

کام تمام کرین۔ دو تین تلوارین اُسکے لگین اور تین انگلیان اسکی اوڑگیئن اور ناک پر زخم آیا کہ اسکے بھائی اور بھتیجے نے ایسی بہادری کی کہ اُس کو چھڑا لیا اس کارزار مین بہادر سپہ وزیر خان نے بڑے کار نمایان کیئے۔ یہ سب حدود کترہ مین آگئے آصف خان نے پادشاہ کی خیرخواہی کا سچے دل سے ارادہ کرکے اپنے بھائی وزیر خان کو مظفر خان پاس اُس وقت بھیجا کہ پادشاہ پنجاب کو جاتا تھا مظفر خان نے پادشاہ سے عرض معروض کرکے اُسکی تقصیرات کو معاف کرایا۔ اور آصف خان کے نام فرمان بھجوایا۔ کہ وہ بالفعل حدود مانکپور مین مجنون خان قاقشال کے ساتھ رہے اور جب ہم آگرہ مین آئین تو وہ ہماری خدمت مین حاضر ہو۔

پادشاہ کی نیت درست و اندیشہ راست سے مہمات ملکی و مالی مربوط ہوتے ہین۔ جو پادشاہ صاحب اقبال ہوتے ہین وہ شوکت ظاہری اور عظمت معنوی نے اپنے تئین بھول نہین جاتے وہ دلون کے آباد کرنے مین سعی کرتے ہین خرد و بزرگ کی رفاہیت مین اپنی ہمت لگاتے ہین۔ اور ذاتی دولتمندی سے بقدر گنجائش مطابق اپنی نیت کے عمل کرکے اہل جہان کے پاسبان ہوتے ہین۔ ایزد دانا ایسے پادشاہون کے کام بناتا ہے اور دولت اور عظمت انکی بڑھاتا ہے اور ان کے مخالفون کو دوستون سے آزار پہنچا کر اور اقسام نکبت اور انواع نکبت مین گرفتار کراکے معدوم کرتا ہے۔ جن کا باطن دنیا کی ہوا و ہوس سے خراب ہوتا ہے ان کے لیئے برخلاف نتیجے پیدا ہوتے ہین اس کا چراغ دولت شعلۂ خس کی طرح کم بقا۔ نہال اقبال اُس کا سایہ درخت کی طرح زود زوال ہوتا ہے۔ اسکی مثیل ہم آگے بیان کرتے ہین۔

گکھرون کا ملک دریا سندا اور دریا بہت کے درمیان پہاڑون کے غارون و گھاٹیون اور شعاب و تلال کے درمیان واقع ہے۔ کوہ سوالک سے لیکر کشمیر کی حدود تک انھین کا ملک گنا جاتا ہے اس ملک مین ہمیشہ انھین کا تسلط رہا۔ گو سلاطین ہند نے لشکر گران اور استعداد فراوان سے مدتون تک اس ملک کی امینت مین صرف کیا ہے اس کا حال پہلے بہت دفعہ لکھا گیا ہے مگر اس زمانہ ۹ مین پادشاہ کی حسب دلخواہ یہ کام ہو گیا اور ملک اُسکے تصرف مین آگیا جس کا بیان آگے ہوتا ہے کہ

گکھرون پر پادشاہ کا حکم

کوہ گکھڑ ہمیشہ سے خاندان تیموریہ کی دولتخواہی اور یکجہتی کا دم بھرتی تھی۔ اس لیئے بادشاہ کی توجہ اس ملک کی تسخیر کی طرف نہ ہوتی تھی۔ سلطان آدم بادشاہ کی خدمت مین سنہ ۹۶۲ مین حاضر ہوا تھا اور اپنے ملک کی حکمرانی کا فرمان لکھا کرے گیا تھا۔ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ سلطان آدم کا بھتیجا کمال خان کسی طرح سے گوالیار کے قیدیون مین سے بچا تھا اور حضرت جنت مکانی کی خدمات بجالاتا تھا اور خان زمان خان جسوقت اپر عدلی سے لڑا تھا تو وہ سرکار لکھنؤ اور پرگنہ ہسوہ اور فتحپور اور محال جاگیر مین رکھتا تھا حکم پادشاہی سے جمعیت شائستہ ہمراہ لے کر وہ شریک خدمت ہوا اور اس جنگ مرد آزما مین اس سے کارنامے ظہور مین آئے۔ جب پادشاہ کو اس کا سچا حال معلوم ہوا تو پادشاہ نے کمال عنایت سے فرمایا کہ جو اس کا مقصد ہو اپنا وہ عرض کرے ہم اُسے پورا کرینگے تو اُسنے عرض کیا کہ مجھپر میری حیثیت سے زیادہ حضرت شہنشاہ نے عاطفت فرمائی۔ اب جب وطن کے سبب یہ آرزو ہے کہ مجھے میرے باپ کا ملک ملجاوے جب سے مین ناکام ہوا اور سلیم شاہ کی قید مین پڑا میرے ملک موروثی پر میرا چچا آدم متصرف ہوا۔ اس غم سے ہزارون غم میرے دل مین ہین۔ پہلے خاندان سور کی تاریخ مین ہم نے اس قوم اور سور افغانون کی معاملات بیان کردیئے ہین۔

جب کمال خان نے اپنی ناکامی کو معروض کیا اور اپنے توطن قدیم کے لیے التماس کیا تو پادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ گکھڑون کی جو ولایت سارنگ خان کے تصرف مین تھی اور اب وہ سلطان آدم کے پاس ہے اسکے دو حصے کیئے جائین اور ایک حصہ اس کو حوالہ کیا جائے دوسرے حصے پر کمال خان متصرف ہو پنجاب کے جاگیردارون کو حکم ہوا کہ اگر سلطان آدم اس حکم سے سرتابی کرے تو امرائے ولایت مین پنجاب افواج جاکر اسکی نافرمانی کا پاداش کرے سر اسکی گو مین رکھے کہ اور وحشی سرشت صحرا پرورون کو عبرت ہو۔ کمال خان اپنے مقصد حاصل کرنے کے لئے پنجاب مین آیا۔ پادشاہ کے فرمان کے مطابق امرا عظام نے سلطان آدم سے حکم شاہی گذارش کیا۔ اس نے پادشاہ کے حکم کو نہ مانا اور عذر بدتر از گناہ پیش کئے اور اپنے تسلط مستعار سے ہاتھ نہ اُٹھایا کہ کمال خان اپنے ملک موروثی پر کامیاب ہوتا۔ امرا نے فرط احتیاط سے پادشاہ سے یہ حال عرض کیا تو زمرنو حکم شاہی صادر

ہوا کہ گو سلطان آدم نے اول مرتبہ رابطہ عبودیت کو توڑا مگر اس سبب سے کہ عنایت پادشاہی اُسپر چلی جاتی ہے اگر اپنا آدھا ملک اپنے برادرزادہ کو دیدے تو آدھا ملک اس پاس رہنے دو۔ اگر وہ ایسا [illegible] اپنی نافرمانی پر ثابت قدم رہے تو اُسکی تادیب کے لئے کمال خان کو سارا ملک دلا دو۔ سلطان آدم نے پھر سرکشی کی۔ افواج شاہی اُسکے سر پر چڑھی۔ قصبہ ہیلان مین ایک جنگ عظیم ہوئی گکھرون کی سرشت مین جرات وجلاوت داخل ہے۔ جدال وقتال واقع ہوا۔ مگر آخرکو پادشاہی لشکر کو فتح ہوئی۔ اور اُن صحرائی وحشی نژادون کو ہزیمت ہوئی۔ سلطان آدم دستگیر ہوا اور اس کا بیٹا لشکری خان بھاگ کر کشمیر گیا اور کچھ دنون گمنام رہا۔ تھوڑے دنون بعد وہ بھی اسیر ہوا۔ گکھرون کا تمام ملک پادشاہ کے قبضہ مین آیا۔ وہ کمال خان کو بالاستقلال دیا گیا سلطان آدم اور اُس کا بیٹا اُسکے حوالہ ہوا۔ اس نے بیٹے کو تو وہان بھیجا جہان سے کوئی آ نہین سکتا اور باپ جنگ نہ مرا قید سے نہ چھوٹا۔ اگر وہ پادشاہ کے حکم کی اطاعت کرکے آدھے ملک پر قناعت کرتا تو کل ملک سے محروم نہوتا۔ اس نافرمانی نے اس کو اور اسکے خانمان کو برباد کر دیا۔

جنگ پرونکھ پر پادشاہ خود آپ لڑا سنہ ۹۶۹

دارالخلافہ آگرہ سے تیس کروہ پر ایک قصبہ سکینہ تھا اسکے دہات کے باشندے بڑے سرکش خصوصًا پرگنہ ٹھکینہ کے آٹھ موضعون کے باشندے سرکشی۔ دزدی۔ آدم کشی۔ بےباکی وبےاعتدالی مین اپنا جواب نہین رکھتے تھے وہ خود کھوٹے تھے اور اُن کے محال ومساکن قلعے تھے۔ تہور جسکا نام اُن مردانگی کہتے ہین وہ ان مین تھا۔ ہمیشہ حکام وعمال انکے بیداد کے ہاتھ سے فریاد کرتے تھے سنہ ۹۶۹ مین پادشاہ یہان شکار کھیلنے آیا۔ تو ایک برہمن ہوآپہ نامی فریادی آیا کہ یہان کے آدمیون نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے اور اس کا اسباب لوٹ لیا ہے۔ اس مظلوم کی نالش سنکر اس فرقہ متمردہ کی تادیب کے لئے صبحکو خود پادشاہ گیا۔ آدہ سرکش بھاگ کر موضع پرونکہ مین پہنچے یہان پادشاہ نے پہلے اپنے آدمی بھیجکر فہمائش کرائی کہ راہ راست اختیار کرین مگر اُنھون نے نہ مانا اور موضع کو مستحکم کرکے جنگ کے لیے کھڑے ہوئے۔ انکی جمعیت چار ہزار آدمیونکی تھی اور پادشاہ کے پاس دو ہزار آدمی تھے۔ طرفین مین ہنگامہ زدوخورد گرم ہوا۔ پادشاہ نے دیکھا کہ ہوا کی شدت سے

آبر آگ کی گرمی سے جوان موضع کے اطراف مین لگ رہی تھی - کچھ آدمی اس کے درختون کے سایہ مین بیٹھے تھے۔ ان سے چشم پوشی کرکے پادشاہ خود لڑائی مین مصروف ہوا - پادشاہ نے دیکھا کہ ایک جیبہ پوش مقبل خان ایک کوٹھے پر ایک دشمن سے کشتی لڑ رہا ہی اور اس کو کوٹھے سے پھینکنا چاہتاہے کہ دشمن کے اور آدمی آگئے اور اس کا کام تمام کرنے کو ہین تو اسنے ہاتھی لپکایا اور کوٹھے کے نیچے آن کر اپنے آدمیون کو اوپر چڑھایا - ایک آدمی خود پادشاہ کے اوپر سے چڑھا اور مقبل خان کو بچایا - دشمن کا کام تمام کیا - سرکش ایک مضبوط حویلی مین تھے پادشاہ نے خود جاکر اس حویلی کی دیوارون کو ہاتھیون سے ڈھوایا اور ایک ہزار سرکشون کو قتل کرایا - پادشاہ کی سپر پر جو پتون کے سات تیر لگے جس مین پانچ پانچ انگل اسکے اندر گھس گئے اور دو باہر لٹکتے رہے - عادل خان نے پادشاہ کو پہچانا نہین - اسکی یہ بہادری دیکھ کر کہا کہ تو اپنا نام بتا کہ مین پادشاہ سے تیری اس بہادری کا ذکر کرکے سفارش کرون - پادشاہ نے اپنی صورت اس کو دکھائی اور اس کا شکریہ ادا کیا - پہر دن باقی تھا کہ پادشاہ اس کام سے فارغ ہوا - اس سے سرکشون کو بڑی عبرت ہوئی -

کل معاملات و مہمات کابل جو اس پادشاہ کے عہد سلطنت مین واقع ہوئی

منعم خان کا کابل سے متعین ہونا دہلی

ہم اول کابل کا بیان وہان تک بیان کرچکے ہین کہ مرزا سلیمان کا خطبہ کابل مین منعم خان نے پڑھوایا اور مرزا سلیمان بدخشان چلا گیا اب آگے داستان سنو جب پادشاہ نے منعم خان کو بلایا تو اسنے کابل اپنے پسر غنی خان کے سپرد کیا - حیدر محمد خان اختہ بیگی کو اس کا مساعد و معاون بنایا کہ حدود کابل کی مہمات کا انتظام دونون ملکر کرین مگر دونون کو نہ حوصلہ اور طفل مشرب تھے آپسمین بنی بگاڑ ہوئی تو پادشاہ پاس دہلی مین غنی خان کی عرضداشت آئی جس سے معلوم ہوا کہ حیدر محمد آختہ بیگم ناراض ہی - پادشاہ نے منعم خان سے مشورہ لے کر حیدر محمد کو بلالیا اور

غنی خاں کی اعانت اور کمک کے لیے بہت سے امیر اور ایک جماعت کثیر بسرکردگی ابوالفتح بھیجدی یہ ابوالفتح منعم خاں کا سگا بھتیجا اور فضیل بیگ کا بیٹا تھا۔ چندروز غنی خاں اور ابوالفتح نے معاونت وموافقت سے کام کیا اور ملک میں امن وامان رہا۔

پادشاہ کو ہمیشہ کابل اور اسکے حدود کے انتظام کی اور وہاں کے سوانح کے استخبار کی طرف توجہ رہتی تھی۔ اس نے سُنا کہ ماہ چوچک بیگم والدہ مرزا محمد حکیم نے غنی خاں کو اُسکی بے اعتدالیوں کے سبب سے عشرت سرائے کابل سے باہر نکال دیا۔ پادشاہ نے منعم خاں کو مرزا محمد حکیم کا اتالیق مقرر کرکے کابل کو رخصت کیا۔ اس سرگذشت کی تفصیل یہ ہے کہ اگرچہ فضیل بیگ آنکھوں سے اندھا تھا مگر گربزی وشرارت میں ہمہ تن چشم تھا اور اپنے بھتیجے غنی خاں کی حکومت سے ہمیشہ پیچ وتاب کھاتا تھا۔ غنی خاں اصل میں ہوشمندی وسعادتمندی سے بے نصیب تھا۔ پھر اُسیر ریاست کی سرمستی نے اسے اور بھی پایہ اعتدال سے گرادیا تھا اور بدمصاحبی نے کہ آدمی زادگی بدترین آفات ہے اور بھی اسکو شقاوت کے گڑھے میں دھکیلا تھا اس نے ماہ چوچک بیگم اور اسکی جماعت کو اپنے ساتھ متفق کیا۔ شہریور ۹۷۰ھ میں غنی خاں ایکدن خالیز پرزمہ کی طرف گیا تھا کہ اُنہوں نے شہر کو مستحکم کرکے قلعہ کے دروازے بند کردیے اور لشکر آراستہ کرکے کھڑا کردیا کہ غنی خاں کو شہر میں آنے ندے وہ سیاہ سنگ پشتہ پر دروازہ کے سامنے آیا مگر کچھ نہ کرسکا اور پہلوان عیندی کوتوال کو ایلچی بناکے بھیجا کہ مکرو تزویر سے کام چلائے اس نے جاکر غنی خاں سے کہا کہ تو بادشاہ کے حکم سے یہاں کی حکومت کے لیے نہیں مقرر ہوا۔ تیری ستمگاری اور بے اعتدالی سے یہاں کے آدمی تنگ آگئے ہیں اس لیے مناسب یہ ہے کہ صحیح سلامت بادشاہ کی خدمت میں جائے اور وہاں اپنے اطوار کو درست کرے اور بادشاہ کا فرماں یہاں کی حکومت کے لیے لائے تو اُسپر عمل کیا جائے۔

اسی گفتگو میں غنی خاں سے آدمی جدا ہونے شروع ہوئے۔ وہ ایک عرصہ تک پڑا رہا۔ مگر شہر میں جانے کی کوئی صورت نہ ہوئی اور قریب تھا کہ گرفتار ہوجائے کہ حمزہ عرب اور میر مستغیث الدین نیشاپوری کی ہدایت سے وہ جلال آباد میں آگیا۔ اور شہر میں اُسکا تمام مال و

کابل سے غنی خاں کا نکالا جانا ۹۷۰ھ

اسباب غارت ہوا۔ کابلیوں کو یہ دلیری اس سبب سے ہوئی کہ اس نے تولک خاں قوچین سے بدسلوکی کی تھی جسکی سرگذشت یہ ہے کہ غنی خاں کو جوانی اور ریاست کی مستی نے شقی بنا دیا تھا وہ اپنا فائدہ اوروں کے نقصان میں دیکھتا تھا ستیزہ کاری اور ہرزہ درائی میں بسر کرتا تھا کسی کے پایہ قدر کو جانتا نہ تھا بدمستانہ سلوک کرتا تھا۔ تولک خاں قوچین نامور دلاوروں اور جنت آشیانی کے مقربوں میں سے تھا اس سبب سے اسکو مع اسکے عزیزوں کے گرفتار کرکے قید کر دیا ؎ بد با تو نہ کرد ہر کہ بد کرد + آں بدبقین بجائے خود کرد + بعض ارباب صلاح نے بیچ میں پڑ کر اس کو قید سے خلاص کرایا تولک خاں نے اس بے آبروئی کے سبب سے یہاں کا رہنا چھوڑا۔
باباخاتون کے موضع میں صبر کیے منتظر بیٹھا رہا۔ کہ کب موقع ملے کہ انتقام لوں۔ ان دنوں میں بلخ سے ایک قافلہ آیا تھا۔ اس کا اسباب انتخاب کرنے کے لیے غنی خاں چاریکاں میں کچھ تھوڑے آدمیوں کو ساتھ لیکر آیا۔ یہاں آنکر بزم بدمستی ترتیب دی اور ترانہ خود پرستی ساز کیا۔ تولک خاں توگاہ وبیگاہ انتقام کی گھات میں لگا رہتا تھا۔ اس کو خوب یہ موقع ہاتھ لگا۔ آدھی رات کو وہ غنی خاں پر چڑھ گیا۔ وہ شراب پیے خواب میں تھا اسکو پکڑ لیا۔ اور ربانی سرزنش میں اپنی بھڑاس نکال کر دل کو ٹھنڈا کیا۔ یہ سمجھکر کہ جب حاکم کو گرفتار کر لیا تو شہر لینا کیا بڑی بات ہے۔ وہ لشکر لیکر شہر پر گیا۔ مگر ناکام رہا۔ صلح اس طرح ہوگئی کہ کابل کا پانچواں حصہ ستارسے حد ضحاک تک اس پاس رہے اور غنی خاں خلاص ہو + ابیات
در اندیش اے حکیم از کار ایام + کہ پاداش عملہا بی سرانجام + سلامت باید ت کس را میازار + ادب را در عوض تیز ست بازار۔
غنی خاں نے کابل میں آنکر اپنی جگہ ابھی گرم نہیں کی تھی کہ اس نے عہد وپیماں کے دفتر کو چھپر پر رکھا اور جمعیت تمام کے ساتھ تولک خاں سے انتقام لینے کے لیے اس کے سر پر چڑھ گیا۔ تولک خاں اس سے لڑ نہ سکا۔ کوئی لکھتا ہے کہ وہ پادشاہ پاس ہندوستان بھاگا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ غنی خاں سے لڑا اور اس کا سارا کنبہ مارا گیا۔

غنی خاں فتحیاب ہوکر کابل میں آیا تحکم و ترفع خودرائی و خودآرائی میں مصروف ہوا۔ اور سرکار
محمد حکیم کو بے حقیقت سمجھکر اسکی پروا نہ کی۔ اس سبب سے مرزا کے آدمی اور کل اہل کابل اس سے تنگدل
ہوئے۔ وہ فضیل بیگ اور اُسکے بیٹے ابوالفتح کے ساتھ شریک ہوکر اسکے دفع کے درپے ہوئے
غنی خاں ایک دن فالیز پر گیا ع تو خربوزہ خور ترا بفالیز چہ کار۔ کو نہ سمجھا۔ رات کو وہیں آرام
کیا۔ ابوالفتح بیگ اور شہر کے ناموروں نے مرزا محمد حکیم کو قلعہ کابل کے آہنین دروازہ پر لاکر نقارہ
اور نفیر کا آوازہ بلند کیا اور ایک غلغلہ عظیم شہر والوں نے مچایا۔ غنی خاں یہ سُنکر سراسیمہ ہوا۔ شہر
کی طرف دوڑا۔ جب اُسکے پاس آیا تو معلوم ہوا کہ ابواب موافقت مسدود ہوا اور مداخل مخالفت
مفتوح۔ توپخانہ سے ایک گولہ بھی اسکے شامیانہ پر لگا۔ غرض یہ حال دیکھ وہ ہراسان حسرت
و حرمان کا داغ دل کی آرزو اور ارمان کا درد لیکر اور خان و بان و حکومت کابل سے دل
برکندہ ہوکر ہندوستان کو چلا۔ جانے کے بعد ماہ چوچک بیگم نے مرزا محمد حکیم کی وکالت فضیل بیگ
کو دی۔ مگر وہ نابینا تھا اس لیے اس کا بیٹا ابوالفتح بیگ باپ کی نیابت میں مہمات و معاملات
فیصل کرتا تھا۔ باپ تو آنکھوں کا اندھا تھا۔ مگر بیٹا عقل کا اندھا تھا۔ اس نے جاگیریں اندھا دھند
تقسیم کیں۔ بُری بُری جاگیریں سرکار مرزا کے ملازموں اور اچھی اچھی جاگیریں چنکر اپنے
یگانوں کے واسطے تجویز کیں مرزا خضر خاں کو کہ سرداران ہزارہ میں تھا غزنین آیا اور بابوس بیگ
کو مقید کرکے اسکے حوالہ کیا۔ اس نے اس بیچارہ کا تمام اموال اور اسباب باقیماندہ لیکر اسکو مار
ڈالا جس شخص کو نہ عقل صلاح بین ہو کہ اُسکی روشنی سے سالک اعمال میں چلے۔ نہ دیدہ بینا ہو
کہ اوروں کے احوال کو دیکھکر عبرت پکڑے۔ نہ مصاحب خیراندیش دوربین ہو کہ اُسکے سخن پر
اعتماد کرے تو وہ اس سرائے مکافات میں اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔ ابھی دو مہینے بھی نہ گذرے
تھے کہ مرزا کی والدہ اور قدیمی ملازم اسکی ستم کی برداشت نہ کرسکے اونھوں نے ایک
دن دعوت میں اپنے خیمے میں بلایا اور اُس کو خوب شراب پلاکر مست کیا۔ جب نشہ کا
زور ہوا اور وہ سو گیا تو اس کو اس جماعت نے کہ خونریزی سے مخمر ہو رہی تھی مار ڈالا۔

ابوالفتح اور فضیل بیگ کا قتل ہونا ۹۷۰ھ

سر کاٹ نیزہ پر لگایا۔ دھڑ کو پھینک دیا۔

جب ابوالفتح کی سرگذشت فضیل بیگ نے سُنی وہ سب اپنا اسباب لا دلوا کر اپنے داماد مرزا سنجر پسر خضر خاں پاس جانا چاہتا تھا کہ اہل کابل نے اُسے بھاگنے کی فرصت نہ دی۔ اور بیٹے پاس جلد پہنچا دیا اس واقعہ کے بعد بیگم نے ولی بیگ کو وکیل سلطنت مقرر کیا۔ یہ بھی عقل کے پورے تھے اپنا لقب عادل شاہ رکھا۔ بادشاہ سے اپنے تئیں کم نہ سمجھا۔ جو خطاب بادشاہ دیتے ہیں وہ اُس نے عطا کرنے شروع کیے۔ تھوڑے دنوں میں بیگم نے اسکی نیت کے فساد کو سمجھکر اس کو عدم آباد میں بھیجدیا۔ خود آپ کابل کا انتظام کرنا شروع کیا اور مصلحت وقت سمجھکر حیدر قاسم کوہ برکو جس کے باپ دادا بابر و ہمایون کے وقت سے امیر چلے آتے تھے مرزا کا وکیل مقرر کیا۔

منعم خاں کا کابل کی طرف جانا اور شکست پانا ۹۶۹

جب بادشاہ کو مہمات کابل کی پریشانیوں پر علم ہوا تو اُس نے مرزا محمد حکیم کا اتالیق منعم خاں کو مقرر کیا کہ وہاں جا کر اپنے بیٹے کا انتقام دے اور کابلیوں کے احوال کی پریشانیوں کا تدارک کرے اُسکے ساتھ اور امرا بھی گئے۔ منعم خاں دوڑا دوڑ جلال آباد میں آیا اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ چلنے کی بھی پروا نہ کی۔ ماہ چوچک بیگم نے جب سُنا کہ منعم خاں آتا ہی تو وہ ڈری کہ معلوم نہیں منعم اپنے برادر و پسر و برادرزادہ کے لیے کیا کیا ستم برپا کریگا۔ اس نے اپنے امرا سے مشورہ لیکر ایک سپاہ کو اور اسکے ساتھ مرزا محمد حکیم کو کابل سے روانہ کیا کہ تمغانات میں جاکر منعم خاں سے لڑیں۔ اس نے کہا کہ اگر مصاف میں ہم غالب ہوئے تو اس سے بہتر کیا ہے اور اگر مغلوب ہوئے تو بادشاہ پاس بھاگ جائینگے۔

وہ غلامان میں منعم خان پہنچا تھا کہ اس پاس خبر آئی کہ عیدی سرمست جلال آباد میں آیا اور اُس نے قلعہ کو مستحکم کیا۔ دوسرے روز خانخاناں نے جلال آباد کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ اسی اثنا میں اس پاس خبر آئی کہ مرزا محمد حکیم اور لشکر کابل کا آپہونچا۔ چہار باغ کے

قریب مقام خواجہ رستم میں منعم خاں اور لشکر کابل میں لڑائی ہوئی اور منعم خاں کو شکست فاحش ہوئی۔ تیس لاکھ ٹنکہ کا اسباب اس کا غارت ہوا۔ گر سپاہ لوٹ پہ نہ جھک پڑتی تو منعم خاں بھی گرفتار ہو جاتا۔

منعم خاں کا حال سنہ ۹۷۰

اب منعم خاں بکرام میں آیا۔ پادشاہ پاس اپنے حال کی عرضداشت بھیجکر درخواست کی کہ حج کی اجازت پائے۔ اور اگر یہ اجازت نہو تو پنجاب میں جاگیر عنایت کیجے۔ پادشاہ نے اسے لکھا کہ جو تمھاری پہلے جاگیر تھی وہ بدستور تمھارے لیے مقرر ہوئی۔ یہاں ہمارے پاس چلے آؤ۔ وہ اواخر ۹۷۰ھ میں بادشاہ پاس چلا آیا۔ مگر نہایت شرمندہ و خجالت زدہ رہتا تھا۔

ابو المعالی سنہ ۹۷۱

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ابو المعالی اپنے رنگ بو دمکر و تزویر سے یا نگہبانوں کی بدنیتی و گرسنہ چشمی سے اول سال جلوس میں لاہور سے کلکتر کو تو ابل کی بند سے بھاگ گیا تھا۔ باقی آیندہ حال اس کا بطریق اجمال لکھتے ہیں۔ وہ کابل کی مہمات سے بھی کچھ تعلق رکھتا ہے۔ یوسف کشمیری اسکا خدمتگار تھا۔ اسکے توسل سے وہ گکھڑوں کی ولایت میں گیا۔ کمالخاں زمیندار نے اسے مقید کیا۔ حیلہ سازی کر کے یہاں سے بھی بھاگا اور نوشہرہ میں کہ بھمبر اور راجوری کے درمیان ایک قصبہ ہے گیا۔ اندنوں میں حاکم کشمیر غازی خاں سے کشمیر میں شوریدہ خاطر ہو رہے تھے۔ یہاں ابو المعالی پاس آٹھ سات سو کشمیری اور تین سو مغل اور فراہم ہو گئے۔ شمس ملک چار ورہ اور خواجہ حاجی ملازمان جنت مکانی نے آنکر اور اسکے ہنگامہ کو رونق دیدی۔ دولتخاں ملک حاکم کشمیر جسکو غازی خاں نذکوں نے کور کیا تھا اور کشمیر کے اور بڑے بڑے امیر اُس پاس مجتمع ہوئے۔ اس جماعت کرکے گروہ ٹپن میں غازیخاں سے لڑا مگر ناکام رہا۔ آوارہ ہو کر پھر سند دبستان میں آیا۔ آشفتہ و پریشان تغیر وضع کر کے گانوں گانوں پھرتا پھرتا دیبال پور میں آیا۔ جو بہادر خاں کے برادر علی قلیخاں کی جاگیر میں تھا۔ بہادر خاں کے ایک نوکر تولک کے گھر میں چھپا پڑا رہا۔ تولک کی بیوی اپنے خاوند سے ناراض تھی اس نے بہادر خاں سے جاکر کہدیا کہ ابو المعالی میرے گھر میں چھپا ہوا ہے اور تیرے مارنے کا

ارادہ رکھتا ہے۔ بہادر خاں نے فوراً آنکر ابو المعالی کو گرفتار کر لیا اور مقید کرکے بیرام خاں پاس بھجوا دیا۔ اس نے اپنے بھتوئی ولی بیگ کو سپرد کیا کہ بکر کی راہ سے گجرات لے جاکر بھیجے کہ وہاں سے وہ حج کو جائے۔ شاہ ابو المعالی جب گجرات میں آیا تو یہاں ایک خون کرکے دیار شرقیہ میں علی قلیخاں کے پاس بھاگا۔ اس نے پھر اسکو مقید کرکے بیرام خاں پاس بھجوا دیا۔ بیرام خاں نے بیانہ میں اسکو مقید کیا۔ مگر جب اسکے کام میں تذبذب واقع ہوا اور وہ الور گیا تو راہ میں بیانہ میں اُسے قید سے رہا کر دیا۔ پھر وہ بادشاہ پاس آیا۔ بادشاہ نے اسکو حج کے لیے بھجوا دیا۔

سنہ ۹۷۱ھ میں وہ حج سے فارغ ہو کر ہندوستان میں آیا۔ حاجی ہونے سے اور زیادہ باغی ہو گیا۔ نہ وہ اپنے مرتبہ کی حد کو پہچانتا۔ نہ بادشاہ کے عفو کی قدر کرتا۔ نہ اخلاص گری دل میں رکھتا۔ نہ عقل معاملہ دان۔ وہ گجرات سے جالور میں آیا۔ مرزا اشرف الدین حسین سے ملا وہ بادشاہ سے بگڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس مرزا کا حال سُنو۔

مرزا اشرف الدین حسین کی بغاوت اور اسی میں ابو المعالی کی بغاوت سنہ ۹۷۱ھ

مرزا اشرف الدین حسین بڑا اشراف زادہ خواجہ احرار کی اولاد میں تھا۔ بادشاہ نے اس اشراف خاندانی کے سبب سے اپنی بہن بخشی بیگم کا نکاح اس سے کیا تھا وہ بڑا اعتبار اور امیر الامرا کا خطاب رکھتا تھا۔ اسلیے جاگیر سرکار ناگور اور اس کی حدود مقرر ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کہ مرزا کو کیا سودا ہوا کہ بادشاہ کی درگاہ سے صفر سنہ ۹۷۰ھ کو اجمیر و ناگور کی طرف بھاگ گیا۔ ششم صفر اسکی تاریخ ہوئی۔ بادشاہ کو اس حرکت پر بڑا تعجب ہوا۔ اس کا سبب سودا یا مالیخولیا کے کچھ اور نہ معلوم ہوا۔ بادشاہ نے حسین قلی بیگ پسر ولی بیگ ذو القدر کو ناگور میں بجائے مرزا کے مقرر کیا اور حکم دیا کہ اگر مرزا اپنے کردار ناہنجار سے باز آئے تو اسکو ہمارے پاس بھیجدو اور اگر کافر نعمتی کرے تو اس کو ایسی سزا دو کہ اوروں کو عبرت ہو حسین قلی حاجی پور میں اہل و عیال کو چھوڑ کر ناگور اس طرح گیا کہ فتنہ پردازی کا منصوبہ مرزا کا نہ بن پڑا۔ وہ اجمیر میں اپنے معتمد ترخاں دیوانہ کو حاکم مقرر کرکے جالور گیا جس نے اسپر قبضہ کیا تھا۔ جب بادشاہ کا لشکر اجمیر گیا تو اس دیوانہ نے عاقلانہ کام یہ کیا کہ قلعہ

عہد وپیماں کرکے حسین قلی کو حوالہ کیا حسین قلی نے قلعہ اپنے معتمد کو حوالہ کیا اور مرزا کا پیچھا کیا۔
اس کو ممالک محروسہ سے باہر نکال دیا۔

ابوالمعالی کا کابل میں جانا اور مرزا جانا ۹۷۱ھ

جالور میں ابوالمعالی اور مرزا شرف حسین میں ملاقات ہوکر یہ عہد وپیماں ہوئے کہ ابوالمعالی تو
کابل جائے اور وہاں سے مرزا محمد حکیم کو لاکر ہندوستان کا بادشاہ بنائے اور یہاں جسقدر ہوسکے
بغاوت پر لوگوں کو مرزا آمادہ کرے۔ ابوالمعالی مرزا کے تین سو آدمی لیکر حاجی پور کی طرف
گیا۔ جہاں حسین قلیخاں اور اوراُمرا کے اہل وعیال تھے۔ مگر یہاں پہلے بادشاہی لشکر آگیا تھا۔
کچھ کام اُسکا نہ بنا۔ مایوس ہوکر نارنول گیا۔ نارنول سے کچھ خزانہ بادشاہ پاس جاتا تھا کہ ابوالمعالی
نے اسے لوٹ لیا۔ اور شہر کو بھی غارت کیا۔ جب بادشاہی لشکر وہاں بھیجا گیا۔ احمد بیگ واسکندر بیگ
نے نارنول سے بارہ کوس پر ابوالمعالی کے بھائی خانزادہ محمد کو گرفتار کیا۔ بادشاہی لشکر کے
آنے کی خبر سنکر نارنول کو ابوالمعالی بھاگا۔ لشکر شاہی نے بھی اسکا پیچھا کیا۔ دھرسو کے مقام میں
احمد بیگ اسمٰعیل علی قلیخاں کے آدمیوں کو دو شتر بار زر ہاتھ آئے زر دوست آدمیوں میں ایسا
نزاع ہوا جس سے انکے صاحبوں میں کچھ گفتگو ورنجش ہوئی۔ اس سبب سے اسمعیل قلی دھرسو میں
رہا اور احمد بیگ اسکندر بیگ آگے ایک منزل گئے۔ بدخشیوں دوماور النہریوں نے بھی غدر مچایا
دانا قلی ایک نمک حرام ان سے جدا ہوکر ابوالمعالی پاس گیا اور کیفیت حال پر مطلع کیا وہ ایک
درخت زار میں کمین میں بیٹھا۔ جب احمد بیگ اسکندر بیگ نکلے تو اس نے کمین سے نکلکر ان پر حملہ کیا۔
جب ابوالمعالی کو بادشاہ کے لشکر کے آمد کی خبر ہوئی تو وہ بھاگ کر کابل کی طرف بے راہ چلا
بادشاہ اُس وقت متھرا میں شکار کھیل رہا تھا کہ اس نے ابوالمعالی کے تعاقب میں بداغ خاں
اور سرداروں کو روانہ کیا اور حکم دیا کہ جب تک ابوالمعالی ہاتھ نہ آئے تگاپو سے وہ باز نہ
آئیں جب ابوالمعالی ملک سندھ میں پہنچا تو اُسنے ماہ چوچک بیگم والدہ مرزا محمد حکیم کو ایک عرضداشت
بھیجی اور اُسکی پیشانی پر یہ شعر لکھا ؎ ما بدین در نہ پئے عزت وجاہ آمدہ ایم + از بد حادثہ اینجا
بہ پناہ آمدہ ایم + بیگم نے بھی اس عرضداشت کے جواب میں یہ مصرع لکھا ع کرم نما وفرود آکہ خانہ خانۂ تست

اُس کو اعزاز و احترام کے ساتھ کابل میں بُلایا۔ بیگم کو بعض آدمیوں نے یہ سمجھا دیا تھا ترمذ کے
سادات کرام میں سے ابو المعالی ہے۔ بلوچستان و کاشغر کے سلاطین سے وہ سلسلہ پیوند
رکھتا ہے جب وہ یہاں آجائیگا تو اس کو گران قدر بنا کے اپنی بیٹی ہمشیرہ مرزا محمد حکیم کی شادی
اس سے کردینا جس سے سب اندیشے رفع ہو جائینگے اور سب طرف کے کھٹکے اُٹھ جائینگے
یہ بیگم بڑی لیاقت رکھتی تھی اور اپنے خاص وزیروں اور اہلکاروں سے جسقدر خائف رہتی
تھی۔ ویسی بیگانہ دشمنوں اور اجنبی غنیموں سے نہیں ڈرتی تھی۔ مگر اس کے اہلکاروں نے
ایسی پٹی پڑھائی کہ اُس نے ابو المعالی جیسے خبیث باطن کو کاروبار ریاست سپرد کردیا۔ اول
یہ بد باطن ایسی پالیس چلا کہ جس سے بیگم کو کچھ شبہ نہ رہا کہ یہ وزیر بڑے کام کا ہاتھ آیا۔
اس نے اپنی بیٹی نیر النسا بیگم کا نکاح اس سے کردیا۔ جب ابو المعالی کو گھر میں یہ اختیار ملا
تو اُس نے بیگم کو اور اُسکے بڑے بڑے ملازموں کو نہ پوچھا کہ تم کون ہو۔ اب شگون بسر
قراضہ خاں اور شادمان جو بیگم سے پہلے رنجیدہ خاطر ہوئے تھے ابو المعالی سے جا کر گُھسے اور
اس کو سمجھایا کہ بیگم جب تک قید حیات میں ہے تم کو امور ملکی میں استقلال نہیں ہوگا۔ فضیل بیگ و
ابو الفتح اور شاہ بیگ کی طرح تم بھی جلد مارے جاؤ گے بہتر ہوگا کہ تم پیش دستی کرکے بیگم کا کام
تمام کرو۔ مرزا محمد حکیم تو خرد سال ہے اُس کو جس راہ پر چاہو گے لگا لوگے۔ ابو المعالی کی سمجھ میں
یہ بات آگئی۔ اُس نے وسط شعبان ۹۷۱ھ میں بیگم کو عدم کا رستہ بتایا اُسوقت وکالت کا منصب
پشتینی حیدر قاسم رکھتا تھا۔ دوسرے دن اُس کو قتل کیا اور اُسکے بھائی محمد قاسم کو مقید کیا تو
چند امیروں نے متفق ہو کر ابو المعالی کے قتل کا قصد کیا۔ مگر انکا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ابو المعالی کو
سارا حال معلوم ہوگیا تو ان امیروں سے لڑائی ہوئی۔ ابو المعالی کا پلہ بھاری رہا۔ اس ہنگامے
میں محمد حیدر قاسم کے بھائی محمد قاسم کو قید سے رہائی ہوئی وہ بدخشاں میں مرزا سلیمان
پاس گیا اور ابو المعالی کی فتنہ انگیزی کا حال بیان کیا اور کابل چلنے پر اُس کو برانگیختہ
کیا۔ مرزا محمد حکیم نے باوجود خرد سالی کے اپنی والدہ کے واقعہ سے غمناک ہو کر دلتخواہوں

ہوکر دولتخواہوں کی تعلیم سے پوشیدہ اپنے آدمی مرزا سلیمان کے پاس بھیجے اور اُس سے آنے
کی اور انتقام کی چارہ جوئی کی استدعا کی۔

مرزا سلیمان کو جب اس حال کی اطلاع ہوئی تو وہ کابل پر اُدھار کھائے ہوئے بیٹھا تھا
فوراً خرم بیگم کو ساتھ لیکر کابل کو روانہ ہوا۔ ابو المعالی اپنی بیخردی سے مرزا محمد حکیم کو اپنے
ساتھ متفق جانتا تھا۔ ادھر یہ اسکو اور کابلی لشکر کو لیکر آب غوربند۔ کے پل پر پہنچا اور اُدھر
مرزا سلیمان کا لشکر بھی یہاں پل پر آیا دونوں لشکروں میں لڑائی ہوئی کابلیوں کو شکست
ہوئی۔ مرزا محمد حکیم کو لوگ لشکر کا افسر بنا کے لے گئے اور اس بہانہ سے مرزا سلیمان کے پاس
لے آئے اب حقیقت حال سے ابو المعالی کو اطلاع ہوئی تو آنکھیں کھلیں اُس نے لڑنے سے دل برداشتہ
ہوکر بھاگنے کی ٹھیرائی مگر دشمنوں نے بھاگنے نہ دیا۔ اسکو پکڑ کر مرزا سلیمان کے پاس لائے اُس نے
مرزا محمد حکیم پاس اُسے بھیجدیا اس نے عید رمضان ۹۷۱ھ کو اُسے پھانسی دی۔ شعر

چو بد کردی مباش ایمن ز آفات | کہ واجب شد طبیعت را مکافات

مرزا سلیمان مہمات کابل کی سرانجام کرنے میں اور مرزا محمد حکیم کی تربیت میں مصروف ہوا۔
بدخشاں سے اپنی لڑکی کو بُلا کر مرزا سے نکاح کر دیا۔ امید علی کو کہ اسکے امرا معتمدین تھا مرزا کا
وکیل بنایا اور خود بدخشاں چلا گیا۔ خرم بیگم بجد تھی کہ کابل کو بدخشاں میں مرزا سلیمان ملالے
مگر اس نے یہ بات نہ مانی اور کہا کہ اس کام کے جلد کرنے میں نیکنامی نہیں ہے کچھ دنوں بعد یہی
صورت ہو جائیگی۔ بالفعل اس نے کابل پر قبضہ رکھنے کی بسم اللہ یہ کی کہ ولایت کابل کا تین
چوتھائی حصہ جو عمدہ تھا وہ بدخشانیوں کو جاگیر میں دیا اور ایک چوتھائی حصہ جو بُرا تھا وہ کابلیوں کو جاگیر میں دیا
مرزا سلیمان کو بڑا ارمان تھا کہ وہ کابل پر متصرف ہو۔ اور بدخشاں کے کسی محال میں
مرزا محمد حکیم کو رکھے اس لیے وہ دوستی کے لباس میں دشمنی کا کام کر گیا کہ بدخشیوں
کو کابل میں جاگیردار بنا کے خود بدخشاں چلا گیا۔ جو کابلی عاقل تھے وہ کچھ سمجھے کہ مرزا
سلیمان کا کیا اصل مقصد ہے مگر یہ مقصد انکے نزدیک ایسا مشکل تھا کہ اُس کے پورا ہونے کا

کابل سے مرزا محمد حکیم کا بھاگنا اور بدخشاں سے مدد پانا

یقین ان کو نہ تھا مرزا سلیمان نے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ کابل میں جن بدخشانیوں کو جاگیردار مقرر کر چکا تھا وہ نہیں پر بس کرتا بلکہ اُس نے اور بدخشی عبدالرحمن بیگ پسر تولک و ترنگری بردی قوچین بیگی کو ایک جماعت کے ساتھ داخل کیا تو پھر کابلیوں کو مرزا سلیمان کے ارادہ کا پورا حال کھلا وہ اسکے معالجہ کے درپے ہوئے۔ خواجہ حسن نقشبندی و باقی قاقشال سیوندوک بیگ و علی محمد اسپ و ربندہ علی میدانی نے مع تمام میرزائیوں و خواجہ خضریوں کے دیار محمد آخوند و فیروز و خلیفہ عبداللہ نے بدخشانیوں کے نکالنے کا عمدہ اہتمام کیا۔ حقیقت معاملہ مرزا محمد حکیم سے جو اب سن تمیز کو پہنچ گیا تھا عرض کیا وہ مرزا بھی تنگی معاش و بدخشانیوں کی بدسلوکی سے تنگ ہو گیا تھا۔ وہ بھی اُنکے نکالنے کے درپے ہوا اُس نے ولایت غزنین جو مرزا سلیمان نے قراتیم وابن حسین کابلی کو دی تھی اُس نے اُن کو بدل کر قاسم بیگ پروانچی کو دیدی اور جلال آباد اور اُس کے حدود نیلاب تک جو مرزا سلیمان نے قاضی خاں وغیرہ کو دیدی تھی وہ اُس سے لیکر خالصہ بنایا۔ غرض یوں بتدریج اُس نے بدخشانیوں کے تسلط کو اُٹھا کر ان کو نکال دیا۔ اہل بدخشاں یہاں سے ذلیل ہو کر مرزا سلیمان پاس گئے اور غازی خاں نے ہندوکوہ میں مرزا سلیمان سے ملاقات کر کے شرح و بسط کے ساتھ تمام حالات جو گزرے تھے عرض کیے مرزا سلیمان جلدی سے کابل کی طرف متوجہ ہوا۔ جب اُس کے آنے کی خبر مرزا محمد حکیم کو ہوئی تو اُس نے کابل کے قلعہ کو باقی قاقشال اور اپنے تجربہ کار معتمدوں کو سپرد کیا اور خود اپنے ہوا خواہوں کی جماعت کو ساتھ لیکر جلال آباد اور پشاور کی طرف چلا۔ جب مرزا سلیمان کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ مرزا کے گرفتار کرنے کے لیے کابل کو چھوڑ کر جلال آباد کی طرف چلدیا۔ مرزا جلدی سے پشاور میں نواحی قبیلہ خلیل میں چلا آیا اسکو خانی گلہ بان نے خبر دی کہ مرزا سلیمان جلال آباد میں آگیا اور یہاں حرم بیگم کو چھوڑ کر خود ان حدود کی طرف چلا ہے۔ مرزا نے آب سندھ سے عبور کر کے ایک عرضداشت اپنے بھائی پاس بھیجی جسمیں کابل کی سرگزشت اور اپنی مستمندی معروض کر کے ہر طرح کی استعداد اور استعانت چاہی۔ اور آب سندھ ساگر پر توقف کیا۔ اندنوں میں ولایت

پنجاب میر محمد خاں برادر کلاں اتگہ خاں کو تفویض ہوئی تھی۔ مرزا نے اپنے دیوان
خواجہ بیگ محمود کو اس پاس بھیجکر امداد طلب کی میر محمد خاں اور امرا پنجاب نے
قاضی عماد کے ساتھ مرزا کی خدمت میں بہت تحفے تحائف بھیجے۔ مرزا سلیمان نے
جب سُنا کہ مرزا محمد حکیم آب سندھ سے پار چلا گیا ہے تو وہ پشاور میں آکر لٹا جلال آباد
میں چلا گیا۔ اثنار راہ میں شنواری افغانوں سے لڑائی ہوئی۔ بدخشانیوں کا بازار لٹا۔
ہارون شنواری جو سب میں بڑا سردار تھا وہ قتل ہوا۔ جلال آباد میں قنبر اور ایک
جماعت کو چھوڑ کر مرزا سلیمان کابل کی طرف متوجہ ہوا۔ اور آنکر کابل کا محاصرہ کر لیا۔
اہل قلعہ نے قلعہ داری میں اہتمام کیا بادشاہ پاس نگرچین میں مرزا کی عرضداشت
پہونچی۔ بادشاہ نے قطب الدین خاں کو مرزا کا اتالیق مقرر کیا اور میر محمد خاں
کو حکم ہوا کہ پنجاب کا لشکر لیجا کر مرزا حکیم کو کابل میں مسند حکومت پر بٹھا دے۔
خزانہ عامرہ سے نقد وانی اور اسباب شوکت اور اجناس فراغت ساتھ لیجائے
حسب الحکم یہ سارا لشکر مرزا کے ساتھ گذرا اور اٹک بنارس سے گذر کر کابل کی طرف
چلا۔ مرزا پاس وہ اب سامان جمع ہو گیا کہ اس کے خواب وخیال میں نہ تھا جب
لشکر جلال آباد میں آیا تو قنبر پاس جس کو مرزا سلیمان نے یہاں چھوڑا تھا نصیحت کی
گئی کہ قلعہ حوالہ کرے مگر جب اس نے قلعہ نہ دیا تو اُسپر بادشاہی لشکر نے حملہ کیا
اور نردبانیں لگا کر قلعہ کے اندر داخل ہوا۔ بدخشانیوں نے اپنی قوت وتوانائی
کے موافق دشمنوں کی مدافعت کی۔ قنبر اور تین سو آدمی جو اُس کے ہمراہ تھے
سب ہلاک ہوئے۔ صرف دو آدمی بچے جنھوں نے مرزا سلیمان کو یہ ساری
بکٹ کہانی سُنائی۔ ادھر مرزا سلیمان نے یہ حال سُنا اُدھر بادشاہی لشکر
کی آمد آمد کی خبر ہوئی تو وہ کابل کا محاصرہ چھوڑ کر بدخشاں بھاگ گیا راہ میں
آب پروان پر ایک سیل میں اس کا اسباب پر تال ڈوب گیا۔ کابل میں مرزا محمد حکیم

آیا۔ لشکر شاہی کے افسروں نے اپنے وطن میں جا کر سیریں کیں۔ اور پھر ہندوستان کو معاودت کی اور مرزا حکیم کی چھوٹی بہن سکینہ بانو بیگم لشکر کے ساتھ بھائی سے ملنے یہاں آئی۔ مہمات کابل کے انتظام کے واسطے خان کلاں وہاں آیا۔ مرزا محمد حکیم کی طبیعت میں سعادت ذاتی نہ تھی۔ اس لیے نہ عقل مصلحت بیں اسمیں بڑھتی تھی۔ نہ اخلاص مندسعادت منش ملازم اُس کو بہم پہونچتے تھے۔ جب حضرت شہنشاہی کی توجہ سے مہم کابل کا انتظام ہو گیا۔ اور خواجہ کلاں وہاں کے مہام کا سربراہ ہوا تو کابل کے فتنہ پردازوں نے اپنی بدخوئی سے فتنہ انگیزی شروع کی۔ محمد حکیم باوجود حداثت سن کے عقل معاملہ رس سے بہرہ وافر نہیں رکھتا تھا۔ ہمیشہ واہی باتوں پر دل لگاتا تھا۔ میر محمد خاں درست اخلاص و تیز مزاج تھا۔ ذرا سی بات سے اس کا مزاج متغیر ہو جاتا تھا اور کام میں سختی کرنے لگتا تھا۔ اسلیے مرزا سے اور کابلیوں سے اسکی نہ بنتی۔ مرزا اگرچہ تبیعت کا اظہار یک گونہ کرتا تھا مگر بڑے بڑے کام وہ بغیر استصواب خاں کلاں کے کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بہن کا نکاح خواجہ حسین نقشبندی سے کر دیا جسکی پہلی شادی ماں نے ابو المعالی سے کی تھی نہ اُس نے حضرت شہنشاہی سے استصواب لیا اور نہ خان کلاں سے صلاح لی۔ جب خواجہ کو اس نسبت عالی کا افتخار حاصل ہوا تو وہ مرزا کے گھر کا بندوبست کرنے لگا۔ اور جن کاموں سے اُس کو مناسبت نہ تھی اُنمیں دخل دینے لگا اور مرزا کے اکثر آدمی ایسی حرکتیں کرنے لگے کہ خواجہ کلاں کو ناگوار تھیں اس لیے وہ وہاں سے چلا آیا۔ میر محمد خاں نے بھی کابل کو سلام کیا اور بادشاہ اور مرزا کے گھر کا اور کابل کا حال شرح و بسط سے لکھ بھیجا:۔
اب پھر کابل کا میدان خالی ہوا امرار شاہی میں سے وہاں کوئی باقی نہیں رہا۔ مرزا سلیمان ہمیشہ کابل کی تاک میں لگا رہتا تھا۔ اُسنے دیکھا کہ کابل بادشاہی امرا سے خالی ہو جسکے خوف سے بھاگا تھا وہ چوتھی دفعہ ۹۷۳ھ ۱۵۶۶ء میں لشکر فراہم کرکے اور اپنی بیوی حرم بیگم کو لیکر کابل کی جانب روانہ ہوا۔ جب مرزا محمد حکیم کو اسکے آنے کی خبر ہوئی تو

مرزا سلیمان کا کابل پر آنا اور مرزا محمد حکیم کا بھاگ جانا ۹۷۳ھ

اُس نے قلعہ کابل معصوم کوکہ کو سپرد کیا وہ اُسکے معتمدوں میں مردانگی و فرزانگی میں ممتاز تھا
اور خود خواجہ حسن نقشبندی کو جو اس کا وکیل کل تھا ساتھ لیکر شکر درہ اور غوربند میں گیا
مرزا سلیمان نے کابل کا محاصرہ کیا۔ مگر اپنی کمند قدرت کو تسخیر قلعہ کے کنگرہ تک پہنچنے میں کوتاہ
دیکھا اور مرزا کے حال سے اطلاع پائی کہ غوربند اور اُسکے نواح میں ہی تو حرم بیگم نے تلبیس سے
کام نکالنا چاہا۔ یہ بیگم غوربند کو روانہ ہوئی اور مرزا سلیمان کو حوالی کابل میں چھوڑا۔
سخن سنج آدمیوں کو مرزا حکیم پاس ایلچی بناکے بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میں نے تجھکو ہمیشہ سگے بیٹے
سے زیادہ عزیز سمجھا خصوصاً جب سے کہ میرے اور تیرے درمیان رشتہ ہوا میرا دل چاہتا
ہی کہ مجھ میں اور تجھ میں یک جہتی رہے۔ اس دفعہ میرے آنے کی کچھ غرض سوا اسکے نہیں کہ تجھ سے
ملوں۔ اور بنا ارتباط مستحکم کروں۔ بیگم کے دم میں مرزا محمد حکیم آگیا۔ اور یہ قرار پایا کہ
قریہ قراباغ میں کہ کابل سے بارہ کوس پر ہی وہ بیگم سے ملاقات کرکے قواعد ارتباط کو مستحکم
کرے۔ بیگم پاس اپنے اپنے معتمد بھیجے کہ عہد و شرط بغیر کسی مکر و فریب کے قرار پائیں۔ جب یہ آدمی
بیگم پاس آئے تو اُس نے سخت قسمیں کھائیں کہ کوئی فریب نہ ہوگا زبان اور دل ایک ہونگے
قول کے موافق عمل ہوگا۔ مرزا کے آدمیوں کے واپس جاکر اسکو قراباغ میں آنے پر برانگیختہ
کیا کہ بیگم سے ملاقات کرکے عقد فرزندی اور عہد یگانگی کمال وثوق کے ساتھ باندھا جائے
بیگم نے یہ سمجھکر کہ میرا فریب چلگیا مرزا سلیمان پاس قاصد بھیجا کہ قراباغ میں مرزا سے ملاقات
کی ٹھیری ہی تم قلعہ کے کنارہ پر سپاہ کو چھوڑکر تھوڑے آدمیوں کے ساتھ قراباغ کے حوالی
چلے آؤ اور پشتہ کے پیچھے کمین گاہ میں بیٹھے رہو۔ جب مرزا آئے تو اُسے دستگیر کرلو۔ مرزا سلیمان اس خبر کو
سنکر محمد قلی شغالی کو کابل کا محاصرہ حوالہ کرکے راتوں رات قراباغ میں اس پشتہ کے پیچھے کمین
میں بیٹھا مرزا کو ہرچند باقی قاقشال نے سمجھایا کہ بیگم تم کو اس بہانہ سے مرزا کے پنجہ میں پھنسانا
اور جھوٹی قسموں کا جال ڈال کر دشمن کے کمند میں ڈالنا چاہتی ہی تم ہرگز نہ جاؤ
جاؤگے تو پچتاؤگے۔ مگر مرزا حکیم نے کچھ نہ سُنا اور چند آدمیوں کے ساتھ قراباغ روانہ

ہوا اثنائے راہ میں ایک کابلی نے جو مرزا سلیمان کے لشکر کے ساتھ آیا تھا اس نے مرزا کے آدمیوں سے کہا کہ میں رات کو مرزا سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ اس پشتہ کی پناہ میں کمین گاہ میں مرزا کی امید میں وہ بیٹھا ہے۔ جب مرزا نے یہ سنا تو اُسکے کان کھڑے ہوئے۔ کابل کی طرف متوجہ ہوا۔ جب مرزا سلیمان کو اسکی خبر ہوئی تو اس نے مرزا کا تعاقب کیا اور اسکے چند آدمیوں کو گرفتار کیا۔ خدا خدا کرکے باقی قاقشال اور اسکے بھائی مرزا کو دشمنوں کے ہاتھ سے بچا کر غوربند میں لیگئے۔ خواجہ محمد حسن کا ارادہ ہوا کہ مرزا کو حاکم بلخ پاس لیجائے۔ مگر باقی قاقشال اسکو بادشاہ کی خدمت میں مشرف ہونے کے لیے آب نیلاب پر لے آئے اور مرزا اسے بادشاہ کی خدمت میں عرضداشت بھجوائی۔ بادشاہ کو کابل کا حال پہلے سے معلوم ہوگیا تھا۔ اس لیے مرزا کے خال فریدوں کو وہاں جانے کے لیے حکم دیا تھا کہ مرزا خردسال دبے پر واہ ہے۔ وہ وہاں جاکر اسکی مہمات کا منتظم ہو اور اس کی محافظت کرے کہ فتنہ انداز آدمی مرزا کی صحبت میں نہ آنے پائیں۔ یہ مرزا فریدوں وہاں ہنوز پہنچا نہ تھا کہ مرزا سلیمان کابل میں آگیا اور یہ واقعہ پیش آیا۔ جب مرزا محمد حکیم کے ایلچی عرضداشت لائے تو اُس نے خوشخبر خاں کو نقود اور اجناس وانی اور خلعت و اسپ خاص دیکر مرزا کے پاس بھیجا اور امیر پنجاب کو حکم دیا کہ کابل کی یورش کا سامان کرکے مرزا سلیمان کو دفع کریں خوشخبر خاں جب مرزا پاس گیا تو اُس نے بادشاہ کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھا۔

خوشخبر خاں سے پہلے فریدوں مرزا محمد حکیم پاس آگیا تھا۔ اس نے مرزا کو یہ بہکایا کہ کابل میں جو نقصان ہوا ہے بہت آسانی سے اس کا معاوضہ یوں ملسکتا ہے کہ پنجاب اور لاہور پر قبضہ کیجیے اور خوشخبر خاں کو گرفتار کیجیے۔ مرزا نے اپنی بیوقوفی سے فریدوں کی اور باتیں مان لیں۔ مگر اتنی بات عقل کی کی کہ خوشخبر خاں کے قید کرنے پر راضی نہ ہوا اور اُس کو رخصت کر دیا۔ سلطان علی المخاطب بہ لشکر خاں اور حسن خاں جو درگاہ شاہنشاہی کے مردود تھے وہ اور فریدوں کے ساتھ فساد اور افساد میں شریک ہو گئے۔

غرض مرزا میں تو نہ عقل دوربین تھی نہ دل حقیقت گزیں تھا وہ آب چناب سے گزر کر لاہور کی
سمت میں آیا اور اسکے آدمیوں نے بھیرہ میں دست اندازی کی۔ جب امرا پنجاب کو یہ خبر ہوئی
تو میر محمد خاں حاکم پنجاب نے لاہور کے قلعہ کو مستحکم کیا اور صورت حال پر بادشاہ کو مطلع کیا۔

بادشاہ اس خبر کو سُنکر آگ بگولا ہوا۔ مرزا محمد حکیم کو یہ خیال تھا کہ فریب و فسوں سے
امرا پنجاب میری جانب ہو جائینگے وہ لاہور میں مہدی قاسم کے باغ میں اُترا۔ دوسرے
روز قلعہ کے کنارہ پر پہنچکر لشکر کی صف بندی کی۔ مگر قلعہ کی توپ و تفنگ زنی نے کسی آدمی کو
قلعہ کے پاس پھٹکنے نہ دیا۔ آگرہ کو منعم خانخانان کو اور دیوانی مظفر خاں کو دیکر بادشاہ
۳ جمادی الاولی ۹۷۳ھ کو پنجاب کی طرف روانہ ہوا دس روز میں دہلی میں آیا یہاں بزرگوں
کے مرقدوں کی زیارت کی اور اُن کے مجاوروں اور معتکفوں کو بہت کچھ نذر کیا اور حضرت
جنت آشیانی کے روضہ کی زیارت کی پنجاب کو روانہ ہوا۔ جب دریائے ستلج کے کنارہ پر پہنچا
تو اُس کو معلوم ہوا کہ مرزا اُسکے آنے کی خبر سُنکر بھاگ گیا۔ اوسط رجب میں بادشاہ لاہور میں آیا
یہاں سب امرا اور غربا کو خوشدل کیا۔ مرزا محمد حکیم بھاگ کر کابل گیا تو اُسکو مرزا سلیمان سے خالی
پایا۔ اسکی سرگزشت اس طرح ہے کہ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ محمد قلی شغالی اور ایک جماعت
کثیر کو قلعہ کابل کے محاصرہ میں چھوڑ کر مرزا سلیمان مرزا حکیم کی گرفتاری کیلیے گیا تھا
معصوم کوکہ نے محمد قلی کو شکست فاش دی اور بدخشانیوں کا سارا اسباب چھین لیا
محمد سلیمان مرزا کی دو بیٹیوں کو محمد قلی ایک باغ کی چار دیواری میں چھوڑ گیا۔ کابلیوں
نے ان کو گرفتار کرنا چاہا۔ مگر معصوم کوکہ نے ان کو اس حرکت ناشائستہ سے باز رکھا مرزا
حکیم کو مرزا سلیمان گرفتار نہ کرسکا تو کابل کے قلعہ کے محاصرہ میں مصروف ہوا۔ اُدھر
اہل قلعہ نے بدخشانیوں کو اپنے بہادرانہ حملوں سے تنگ کیا اُدھر وبا نے بھی اسکے
لشکر میں قدم رکھا اس لیے مرزا سلیمان نے صلح کرلی۔ اول بدخشاں بیوی کو روانہ
کیا اور پھر آپ چلا۔ مرزا محمد حکیم کی ناہنجاریاں بادشاہ سنتا تھا مگر گوشمالی نہیں کرتا

بادشاہ کا اس فساد کے مٹانے کیلئے پنجاب میں آنا

مرزا سلیمان کا کابل سے بھاگنا

اور مرزا محمد حکیم کا ہرزہ حکومت پر چھوڑنا

تھا وہ اکثر اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ یہ مرزا والد ماجد کی نشانی ہے بیٹا اور پیدا ہو سکتا
ہے۔ مگر بھائی نہیں پیدا ہو سکتا۔ مگر یہ بھائی بادہ پیمائی اور بدنامی کی بدمستی اور خوشامد گویوں
کی دمسازی سے باز نہیں آتا تھا۔ کوئی ناصح عاقل اس پاس ایسا نہیں تھا کہ وہ اسکو بادشاہ کی
بدسگالی سے باز رکھتا اور سمجھاتا کہ آتش بلند کو تھوڑا سا پانی نہیں بجھا سکتا ناسور کہن کا مرہم خارش
نہیں بن سکتی۔ مرزا نے پہلے سالوں میں چاہا تھا کہ ہندوستان کی عافیت گاہ میں حکومت
کرے اور پنجاب کا کابل پر اور اضافہ کرے۔

مگر مرزا سلیمان اس کو بدخشاں کی طرف لے گیا۔ اس چیرہ دستی سے وہ اور دلیر ہوا۔
اور جب ہند میں ۹۸۸ھ میں دیار مشرقی میں شورش پیدا ہوئی تو یہاں کے فتنہ پردازوں
نے اُسے بہکایا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کے نام کا خطبہ پڑھوائیں اور سکہ چلائیں۔ کچھ
اہل کابل نے اغوا کیا۔ اس نے اواسط آذر ۹۸۸ھ میں حاجی نورالدین کو بھیجا کہ وہ آب سند
سے اُترا اس نواح میں مرزا یوسف خاں اقطاع دار تھا اس نے ایک فوج کو سرکردگی
حسن بیگ روانہ کیا سعید خاں گکھڑ اور مجاہدین اس سے راہ میں ملے۔ جلدی میں لشکر کمتر
روانہ ہوا تھا اسیلیے ارادہ یہ تھا کہ چند روز بعد لڑائی ہو۔ لشکر جمع ہو جائے۔ مگر لڑائی جلد ہوگئی
اور بادشاہی لشکر کو فتح ہوئی۔ ناگاہ ہرنوں کا ریوڑ نظر آیا حسن بیگ کو شکار کا شوق بہت
تھا وہ اسکے پیچھے دوڑا۔ ایک ہرن کو تیر مار کر زخمی کیا۔ اتفاقاً نورالدین بھی اس طرف سیر و تماشے
کو آیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے آئے۔ ہرنوں کے شکار سے آپس میں ایک دوسرے کے شکار کرنے
کو آمادہ ہوئے۔ ان دونوں میں خوب آویزش ہوئی۔ دونوں کوشش مردانہ کام میں
لائے نورالدین زخمی ہو کر بھاگ گیا اسکے ساتھی کچھ اسیر ہوئے۔ بہت سے ڈوب مرے
وہ خود حدود پشاور میں مارا گیا۔ اس ہنگامہ میں یہ معلوم ہوا کہ مرزا یوسف خاں نے
سرحد پر دوربینی و خرم سگالی نہیں کی۔ بادشاہ نے اسے وہاں سے بدل دیا اور کنور مان سنگھ
کو حواشی سندھ کی حکومت سپرد کی۔ وہ اس ملک کے انتظام کے لیے سیالکوٹ سے روانہ

۹۸۸ھ میں مرزا حکیم کی فوج کا پنجاب پر آنا اور نورالدین و شادمان کوکہ

ہوا اور اندیشی کے سبب سے ایک فوج بسر کردگی زین الدین علی آگے روانہ کی۔ حدود راولپنڈی میں ساحل سندھ پر شادمان کے پہنچنے کی خبر اس پاس آئی وہ جلد لڑنے کو چلا۔ نورالدین کے سانحہ سے مرزا اپنی غنودگی خرد سے واقف نہ ہوا۔ اُس نے شادمان کو بہت انبوہ کے ساتھ روانہ کیا۔ مرزا اس کو اپنے لشکر کی سپر سمجھا تھا۔ ۶ ردی کو وہ مغرور آب سندھ سے گزرا۔ قلعہ نیلاب کے محاصرہ پر باؤں جمائے۔ زین الدین علی اور کنور مان سنگھ اور گماشتوں نے استحکام حصار میں ہمت و حوصلہ کو صرف کیا۔ تب کنور نزدیک آیا۔ تو ابو خار) کچھواہہ کو ہراول اور اپنے بھائی سورج سنگھ کو التمش بنایا مخالف بے خبر تھا بتیرہ کی آواز سے بیدار ہو کر پیکار کے درپے ہوا۔ میدان جنگ کو رونق دی ناموس دوستی و دشمن آپس میں خوب لڑے۔ اس جنگ میں راجہ سورج سنگھ زخمی ہوا مگر شادمان نیست ہوا۔ شادمان سلیمان بیگ اندجانی کا بیٹا تھا۔ اس کا دادا لقمان بیگ جنت مکانی کا منظور نظر تھا۔ اسکی ماں مرزا کے گھوارہ کی خدمت میں رہتی تھی اس نے مرزا ہی کے ساتھ نشو و نما پایا تھا۔ بادشاہ نے یہ خبر سُنکر فرمایا کہ مرزا شادمان کے مرنے کی خبر سُنکر بیتابانہ ہندوستان کو آئیگا۔ ہماری پنجاب کے سفر کی بھی تیاری کرو۔ پیش بینی و معاملہ شناسی کے سبب سے رائے رائے سنگھ و جگناتھ و راجہ گوپال اور بہت سے اخلاص پیشہ امیروں کو بہت سے ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ امرائے سندھ پاس حکم بھیجا کہ اگر مرزا دریائے سندھ کے عبور کرنے کا ارادہ کرے تو اُس کو سر راہ روکنا نہیں۔ مگر لڑائی میں توقف کرنا۔ ہم خود عنقریب ہاں آئینگے اور جو ہمارے دل میں ہے وہ ظہور پائیگا۔ ۱۳ بہمن کو بادشاہ پاس خبر آئی کہ مرزا پنجاب کی طرف آیا ہے۔ بادشاہ کے اشارہ سے منجموں کی جماعت نے ساعت نیک بتانے کے لیے مشورہ کیا۔ بادشاہ کو دریائے شرقی کی نگرانی کا اندیشہ تھا۔ آسائش و ملک خلق کے لیے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ سلطان سلیم کو امرا کے ساتھ دارالخلافہ میں چھوڑ جائے اور خود پنجاب میں آئے۔ مگر شاہزادہ نے مریم مکانی کے وسیلہ سے ہمراہ جانے کی

درخواست کی۔ بادشاہ نے اُس کی ملتمس کو قبول کیا اور مرزا دانیال کو دارالخلافہ میں چھوڑا۔
دوم محرم ۹۸۹ھ کو اس ساعت میں کہ منجموں نے بتائی پنجاب کی طرف روانہ ہوا تھا۔
خرم واحتیاط سے جنگ کا سامان کیا اور پنجشنبہ وجمعہ کے لشکداروں کو تو اپنے پاس
رکھا۔ اور شنبہ وچہارشنبہ کے امرا سے برانغار کو آرائش دی اور دوشنبہ
وسہ شنبہ کے امیروں کو جرانغار اور یکشنبہ کے مبارزوں کو ہراول بنایا، ارکو تھانیسر
میں بادشاہ آیا۔ شیخ جلال سے ملا۔ شیخ پیر خدا پرست تھا۔ اس ولایت کے آدمی
اس کے معتقد تھے۔ بادشاہ کے اشارہ سے ابوالفضل نے شیخ سے پوچھا کہ آپ کی
ساری عمر نیکیوں کی صحبت میں گزری۔ روحانی مرض کا علاج آپ بتلائے کہ دل
سراسیمہ کو اختلاف کے تفرقہ سے نجات ہو۔ اوّل شیخ نے آنکھوں کے آنسوؤں سے
جواب دیا اور پھر یہ بیت زبان پر لایا ؎

گر تعظم بست بر کونین راہ　　آہ زا ستغنائے دلبر آہ آہ

سکندر ذوالقرنین ہمیشہ اپنی بزم سلطنت کے خاصوں سے کہا کرتا تھا کہ ندیم اور
بزلگو اور ہوتے ہیں اور ارکان دولت و بزرگان درگاہ اور ہوتے ہیں۔ اوّل کا کام
یہ ہے کہ کسی شاداب نکتہ اور نادر حکایت سے گو جھوٹی ہو وہ شگفتگی پیدا کرتے ہیں۔ چراغ
طرب میں روغن ڈالتے ہیں۔ اور خوشحالی کو گزند دل شکنی کیحالت میں برقرار کرتے ہیں۔
عروس نشاط کو شگرف کاری سے آراستہ رکھتے ہیں۔ اور دوم بمنزلہ دست بازو کے ہوتے
ہیں۔ سارا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ فساد عالم کا علاج کریں۔ شکستہ کاروں کا تریاک و زمانہ
کے کہن زخموں کے مرہم بنیں۔ زبان سے وہ بات کہیں کہ پراگندگی زمانہ دور ہو۔ کار برہم شدہ
فراہم ہو جہاں میں آسودگی بڑھے۔ شادمانی ایمنی کے ساتھ ہمدوش ہو۔ اگر خریدار اس کا نایاب
ہو تو خموشی و نیک اندیشی سے چارہ کار کریں۔ بارگاہ دولت کو جو آسیب پہونچتا ہے زیادہ تر
اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں گروہ اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ وہ اپنے کاربردازان

دولت سے فرماتا کہ جو شخص ہماری خوشنودی کے خیال سے راستی کو چھوڑتا ہے اور درشت عیار
نہیں رہتا اور سپاہ و رعیت کو تنگ گیری سے ہماری کشائش طلب کرتا ہے اُس سے تھوڑے
دنوں میں ہمارا دل پھر جاتا ہے اور ہماری سیاست سے وہ ٹھیک منایا جاتا ہے۔ اس حال کا
مصداق خواجہ منصور شاہ کی حالت ہے کہ وہ ہمیشہ جاہ طلبی و آزمندی سے محاسبات دیوانی
میں خردہ گیری و سخت گیری کرتا۔ آدمیوں کی غمخوارگی اس کے دل ہی میں نہیں آتی تھی
وہ اپنا گھر ہی بھرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ میں وہ ناستودہ کردار نیست ہو گیا۔ جب کنور مان سنگھ
نے شادمان کو کشتہ کیا تو اُسکی رخت گاہ میں سے چند پروانے مرزا محمد حکیم کے منشی کے ہاتھ
کے لکھے ہوئے برآمد ہوئے کنور مان سنگھ نے ان کو بادشاہ پاس بھیجدیا۔ ان میں سے ایک
خواجہ کے نام تھا جسکے مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ نیک جبتی و نیک اندیشی کی عرائض تمہاری پیہم
پہونچیں اس سے ہماری توجہ تمہارے حال پر زیادہ ہوئی۔ اب قریب ہے کہ نتائج سے تم متمتع
ہو گے۔ بادشاہ نے اس کو بدکاروں کی سازش سمجھکر خواجہ کے منہ پر کچھ نہ کہا۔ نواحی سنیت
میں ملک مانی (ثانی) جو مرزا کے قدیمی نوکروں میں تھا بہانہ دبار کے ساتھ درگاہ میں آیا۔ یہ شہرت
ہوئی کہ مرزا نے اُسکو اسلیے بھیجا ہے کہ رنجش کو اپنا پیتی بنائے اور چاپلوسی کے لوازم بجالائے۔
سادہ لوحوں کو بہکا کر اپنے بس میں لائے اور بدکاروں کو زیادہ تر منائے۔ دوراندیشی
واحتیاط گزینی سے اس کو تصرف سے باز رکھا تو خواجہ سے بہت سی باتیں اسکی جانبداری
کی ظہور میں آئیں طبقات اکبری میں یہ لکھا ہے کہ ملک علی جو مرزا کا وزیر تھا اور جسکا لقب
وزیر خاں تھا۔ خواجہ کی منزل میں اُترا اور خواجہ کی معرفت وہ بادشاہ کی خدمت
میں جانا چاہتا تھا۔ خواجہ نے بادشاہ سے اسکے ملنے کی تقریب کی بادشاہ
نے خواجہ کو خلوت میں طلب کرکے اس نامہ کو اُس سے پڑھوایا اُس نے ایسے
جواب دیئے کہ جس سے بدگمانی اور زیادہ ہوئی بادشاہ نے اس کو اختلاط سے باز
رکھا اور دوربینی کو کار فرمایا۔ ۹ ار کو ملک علی کو توال شہر کچھ نوشتے بادشاہ کے

روبرو لایا جس نے خواجہ کی تباہ سگالی تازہ ہوئی۔ ان نوشتوں سے معلوم ہوا کہ فیروزپور جو خواجہ کی جاگیر میں تھا وہاں کی سپاہ مرزا سے یکتائی رکھتی ہے اور عنقریب اُس سے ملنے کو ہے۔ اس سے بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اگر خواجہ کسی راستی منش کو ضامن دے تو بدستور زندان میں رہے ورنہ وہ ٹھکانے لگایا جائے جس سے کوتہ اندیشوں کی گوشمالی ہو۔ اور بدگوہروں کی تنبیہ۔ خواجہ نے جواب میں بیہودہ باتیں بنائیں مگر ضامن اس کو میسر نہ ہوا۔ ناگزیر حکم سیاست ہوا۔ سرای کوٹ کچھوانہ میں درخت سے لٹکا کے اس کو پھانسی دیگئی۔ اس سے لشکر کو بڑی خوشی ہوئی۔ حقیقت میں حسودان سخن ساز اور بادسرایان غرض گذار نے اسکو یہ دکھایا۔ خواجہ جیسا امارہ نویس خردہ گیر نکتہ سنج بار بردار شیواز بان متشخص کمتر پایا جاتا ہے۔ بادشاہ نے بارہا فرمایا کہ اس کے مرنے سے حساب کے بازار کی رونق گئی اور سرشتہ محاسبہ ہاتھ سے نکلگیا۔ خواجہ کے حالات کو طبقات اکبری میں یہ لکھا ہے کہ ملک علی کے قاصدوں کو گذر لدھیانہ کی سرائے میں ایک پیادہ ملا جسکے پاؤں سوجھ رہے تھے اس نے اُن سے کہا کہ میں خواجہ کے شقدار شرف بیگ کا ملازم ہوں میں نے یہ خطوط خواجہ پاس بھیجے ہیں۔ میرے پاؤں کا حال دیکھتے ہو کیا ہورہا ہے۔ تم ان خطوں کو لیکر جلد خواجہ پاس پہنچا دو۔ جب مُہر توڑ کر اُن خطوں کو نکالا تو انمیں ایک عرضداشت شرف بیگ کی تھی جسمیں پرگنہ فیروزپور کا حال لکھا تھا دوسرا خط ایک شخص نے دوسرے شخص کے نام اس مضمون کا لکھا تھا کہ میں نے فریدون خاں سے ملاقات کی وہ مجھے مرزا محمد حکیم پاس لیگیا۔ باوجودیکہ اور سارے پرگنوں میں اپنے عمال اس نے بھیجدیے ہیں مگر ہمارے پرگنوں میں نہیں بھیجے ہمیں معاف رکھا ہے۔ بادشاہ نے اس خط کو شرف بیگ کا خط خواجہ کے نام خیال کیا۔ خواجہ سے ارکان دولت ناراض تھے سب نے متفق ہوکر اسکو پھانسی لگوائی۔

مرزا محمد حکیم کا پنجاب میں آنا ۹۸۹ھ

ہندوستان میں کچھ شورش برپا تھی اور کچھ فرزونوں سے آشوب کی آتشگاہ بن رہا تھا تو اس دیار کے آدمیوں نے اور کچھ کابل کے فتنہ پردازوں نے اس آشفتہ رائے جوان مرزا سے

حرکات ناشائستہ سرزد کرائیں اس نے کچھ سپاہ پہلے بھی کہ فتنہ برپا کریں مگر وہ سپاہ سرنگوں ہوئی۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ اپنے پندار سے باز رہتا مگر اسکے برخلاف وہ پیکار کے درپے ہوا جب وہ دریائے سندھ سے پار اُترا تو اس نواح کے امرا، فرمان شاہی کے کاربند ہو کر دار الملک لاہور میں جمع ہو کر قلعہ داری کے لیے آمادہ ہوئے۔ مرزا یوسف خاں نے رہتاس کی پاسبانی کی۔ مرزا سے کوئی بادشاہ ناشناسا بھی جا کر نہیں ملا۔ روشناسوں کا تو کیا ذکر ہے۔ وہ سپاہ سے ناکام رہا۔ رعیت کا دل اپنی طرف نہ دیکھا۔ ہر لحظہ ناامیدی اسکی ماندہ کو بڑھاتی تھی۔ مگر ہرزہ گویوں کی جھوٹی باتیں اس کا دل خوش کرتی تھیں پریشان خیالی میں وہ اپنا وقت کاٹتا تھا۔ ہوا کو ہاون میں کوٹتا تھا اور پانی کو چھلنی میں چھانتا تھا یہاں تک کہ لاہور کے محاصرہ میں مشغول ہوا۔ شاہی مبارزوں کی کنارہ کشی سے اسکے دل کو کچھ دنوں خوش رکھا۔ وہ انکے کارنامے بہت سُن چکا تھا۔ اس وقت اسکا دل لڑائی پر نہیں لگا تھا۔ انکے ارادوں کی یاد کیا کرتا تھا۔ بادشاہ کے نہ آنے کی خبر سُننے سے اسکے دل کو تقویت ہوتی تھی۔ جب بادشاہ پنجاب کو دار الخلافہ سے چلا تو مرزا لاہور کے قریب بڑی شورش مچا رہا تھا۔ مہدی قاسم کے باغ میں میں روز تک خوشدامنی کرتا رہا اور شیخ چلّی کے سے خیالات کرتا تھا۔ سعید خاں راجہ بھگونت داس و کنور مان سنگھ و سید حامد و محمد زماں اور جاگیرداران نے قلعہ کو کسی قدر استحکام دیا تھا۔ وہ کارزار کے لیے آمادہ رہتے تھے پادشاہ کا حکم پیکار کے ہنگامہ برپا کرنیکا نہ تھا۔ بہادر اپنے مورچوں میں ہوشیار رہتے تھے عامہ بند یادہ گویوں کے اختلاط سے شہر کو باز رکھتے تھے۔ دروازے کھُلے رکھتے تھے۔ مرزا کی طرف سے بار ہا شبیر خواجہ دناد علی و قربان علی و مرزا اسکندر جوشش مردانگی کرتے تھے۔ مگر مُنہ کی کھاتے تھے۔ مرزا اپنے کار کی ناروائی سے زیادہ آشفتہ ہو رہا تھا کہ ناگاہ لشکر شاہنشاہی کے آنیکا آوازہ اسکے کان میں پہنچا۔ تو وہ حیران پریشان ہو کر آب راوی سے عبور کر کے کابل کو بھاگا۔ بھیرہ کے نواح میں دریائے بہت سے عبور کرنے میں کچھ اسکے آدمی سیل فنا میں ڈوبے۔ اُسنے کھیب کی راہ سے آب سندھ کو عبور کیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ جب بادشاہ نے اس کا یہ حال سُنا تو اُس نے

حکم بھیجا کہ مرزا کے تعاقب سے ہمارا لشکر باز رہے مبادا اور پاؤں کی شورش میں مرزا کی
کشتی ڈوب جائے کہ پھر اس سلیم دل کا علاج کچھ نہ ہو سکے۔ ہم عاقل ہو کر کب اسکی نقش ہستی
کو اس طرح مٹانا چاہتے ہیں امید ہے کہ وہ سعادت پذیر ہو۔ اور نیز میزان قدردانی میں
بیٹے سے زیادہ بھائی ہوتا ہے۔

بادشاہ ۲۴ رفروری کو سرہند میں پہنچا۔ ۲۸ر حوالی ماچھواڑہ کی حوالی میں دریائے ستلج کا پل
باندھ کے عبور کیا۔ امرائے پنجاب یہاں آنکر ملازمت سے مشرف ہوئے۔

بادشاہ کا سفر دریائے سندھ کی طرف

اب بادشاہ نے پنجاب سے ساحل سندھ کی طرف سفر کیا۔ یہاں اسکا ارادہ ایک قلعہ بنانے
کا تھا۔ کہ وہ سرکشوں کو راہ پر لائے۔ اور بندگان خدمت گذار کی بزرگ پناہ بنائے۔ اس نے
راہ میں نگرکوٹ کی سیر کا ارادہ کیا اور اس ارادہ سے ۱۷ کو کلانور میں آیا۔ دہم اردی بہشت کو
ایک باغ کی بنیاد یہاں رکھی۔ نندنہ میں شکار کھیلا۔ بالناتھ ٹلہ کی زیارت کے لیے متوجہ ہوا۔
یہ ایک بڑا اونچا پہاڑ رہتاس کے قریب ہے۔ وہ بالناتھ جوگی کا نیائش کدہ ہے۔ اسکو لوگ بزرگ
سمجھتے ہیں اور بہت آدمی یہاں آتے ہیں۔ ہندوستان میں طرح طرح سے آزادی کی راہ کھلی ہوئی ہے۔

بالناتھ ٹلہ کی زیارت

ایک گروہ کا نام جوگی ہے۔ پاتنجل کے قانون پر چلتے ہیں۔ فنا میں اپنی بقا جانتے ہیں۔
بہت خلاف عادات ان سے ظہور میں آتے ہیں۔ اکثر انمیں خرسندی و کم آزاری میں نامور ہیں
اور عرصہ آگہی میں تیزرو ہیں۔ بالناتھ اس گروہ کا سرآمد ہے۔ بادشاہ کو تو یزدان پرستش الٰہی منظور تھی
ہر طائفہ اور ہر جانب میں متوجہ ہونے کو ایزدی پرستش جانتا تھا۔ اس سبب سے وہ ایزد پرستوں
کی خلوتگاہ میں جاتا تھا۔ اس جوگی کے بھی پاس گیا۔ یہاں سے ۱۲ رخرداد کو ساحل سندساگر
پر پہنچا۔ یہاں سے اس نے اپنی شیریں گفتار عقیدت گزینوں کو مرزا پاس بھیجا کہ سخنان دلاویز
اس کو سنائیں ؎ ۵ تواں ساخت دلہائے فولاد نرم + بہ نیروے پیوند گفتار گرم +
بادشاہ نے جو فرمان بھیجا اُس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر دلا شکوہ باوجود توانائی اور قوت کے
مالش سے باز رہ کر نصیحت کرتا ہے اس کا مطلب سوائے خیرسگالی اور خلوص کے کوئی امر دو نہیں ہوتا

سعادت پذیر نیک اختر اپنی بیدانشی سے بیدار ہو کر شرمندہ چہرہ اور حق پذیر دل لیکر اس کی
انجمن میں آتے ہیں اور ظاہری اور باطنی نیائش کر کے چارہ گری اپنی کرتے ہیں۔ اور جو بد گوہر
تیرہ رائے ہوتے ہیں وہ حیلہ و بہانہ بناتے ہیں اور بیہودہ حجتیں گھڑتے ہیں جنسے تباہ ہو جاتے
ہیں۔ اے میرے بھائی تو مجھے بیٹے سے زیادہ پیارا ہے آگاہ ہو کہ اور سلاطین شہزادہ والا تبار
ہر سرزمین کے بزرگ میری عنایت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ تو میرا بھائی ہو کر کب تک ناسپاس
رہیگا اور باجی ہمنشینوں کی صحبت سے اپنا نقصان کریگا۔ ان بگیں طینتوں کی باتوں پر
کان نہ لگا۔ اور اندیشۂ درست۔ دل پشیمان و اعتقاد شائستہ و خاطر امیدوار لیکر میرے
پاس چلا آ کہ آیندہ زندگی تیری عزت و آبرو سے بسر ہو۔ نیک نامی ہو۔ دنیا اور عقبیٰ درست
ہو۔ اگر تو اپنی شرمندگی اور بدکاری کے سبب سے ہمارے پاس نہیں آتا اور خوف کے مارے
ہماری خدمت گاری پر دل نہادہ نہیں ہوتا تو ہماری بخشش و بخشائش مشہور ہے۔ نسبت دیک
دور کو اس کا یقین ہے۔ وہ بادشاہ ان نصائح کو افسانہ سمجھا۔ اور اس کا جواب گفتار بیفروغ
میں لکھا۔ پھر بادشاہ نے اپنی محبت کے سبب سے مرزا کو اشارہ کیا کہ اگر دل و زبان دونوں ایک
ہیں اور وہموں کی زیادتی کے سبب سے چند روز تک ملازمت میں نہیں آتا تو کسی اپنے بیٹے کو اپنی بہن
بخت نسا بیگم کے ساتھ روانہ کردے اور اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو خواجہ حسن نقشبندی کو اس سرزمین
کے اعیان کے ساتھ بھیج کہ رسوم پیمان و سوگند کو بجا لائے۔ جب ہم اسکو قبول کریں تو بخشائش
اور بازگشت کو دست آویز بنائے۔ مگر بندہائے ہوش افزا کو خوابیدہ بخت۔ شوریدہ رائے۔
نسنتے ہیں۔ ناچار بادشاہ نے حکم دیا کہ راجہ مانسنگہ دلاوروں کو ساتھ لیکر آب سندھ سے گزر کر
پشاور میں جائے اور وہاں کے سرکشوں کو نیکو خدمت بنائے۔ اور تیر کو شاہزادہ سلطان مراد
کو بہت سے امرا کے ساتھ دریا سے عبور کر کے ولایت پشاور کو روانہ کیا اور کہدیا کہ اگر مرزا بیدار
ہو کر فرمان پذیری اختیار کرے تو اسکو بہت سی نوازشوں کا امیدوار کرے۔ اور نہیں کابلستان
میں دوڑ جائے۔ پھر بادشاہ نے فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ قول کو خود زینت دی مرزا

یوسف خاں و رائے رائسنگہ۔ رائے درگا و گوجر خاں و سورج سنگہ۔ و مدن چوہان - و
شیخ عبد الرحیم و بانکا رائے۔ و رامچند و ٹھاکرسین۔ و سلیم خاں کاکر علی و سید محمد موجی و کرم اللہ
کنبو و بیرمتی و راج و رامداس چوہان و متھراداس و سونولداس کلہ کچھواہہ اسکرن و کجرہ و
جرارہ بیگ و شیخ ولی جلال و میر حسن اور ایک جماعت کثیر اس سپاہ میں افسر مقرر ہوئے جرانغار
کی سپاہ داری سید حامد بخاری و مخصوص خاں و سید مہدی قاسم و ابو القاسم نمکین و عرب بوالقاسم
و سید حسین و حسن قلی بیگ و عبد اللہ بلوچ اور نامور جوانمردوں کے سپرد ہوئی۔ برانغار کو قلیچ خاں
و جلال خاں و شیخ جمال بختیار و نور ملیح و مرزا فولاد و جمال خاں بلوچ و شیخ گکھر و ملک و رویش
جالونہ و عالم لوحانی و مولانا الہداد امروہہ و شہباز خاں لودی نے رونق دی و راجہ مان سنگہ
و نورنگ خاں و شیر و بہ خاں و بادھو سنگہ و محمد بیگ تکلو و مان سنگہ دربانی و جگمال سلہدار و بہادر خاں
قوردار و سرحن و پہلوان علی و سکت سنگہ و جگت رائے و رامچند و بھگوانداس و شیخ کبیر و جبار قلی و نقیب یوتہ
اور ایک گروہ اور ہراول کی آرائش میں مشغول ہوئے۔ بادشاہ نے پھر اپنی عاطفت فطری و رافت
ذاتی کے سبب مرزا حکیم پاس منشور حاجی حبیب کابلی کے ہاتھ بھیجا۔ یورش کا موسم نکلا جاتا تھا اور لشکر کثیر
کو تنگناؤں میں کسی قدر دشواری تھی۔ اسکو لکھا کہ تجھکو چاہیے کہ فرمان پذیری کی طرزوں میں سے
کسی طرز کو قبول کرے تاکہ لشکر حدود بگرام سے واپس چلا جائے۔ اور تیرا کام نیکنامی کے ساتھ ہو اور بادشاہ
کی نوازش کی دستاویز سرانجام پائے۔ بادشاہ کو یہ خوف تھا کہ مبادا لشکر شاہی کے شکوہ و خوف سے
مرزا فرصت جو بیگانوں میں چلا جائے۔ اور کارگزاروں کو حکم ہوا کہ دریا کا پل بنائیں۔ انھوں نے
کشتیاں جمع کرنے میں تگاپو کی اور کشکداران ہفت روز نے منازل دریائی کے بنانے
میں سعی کی۔ بادشاہ نے ارادہ کیا تھا کہ اگر مرزا فرمان نہ مانے تو خود جائے۔

جن دنوں میں بادشاہ ساحل دریائے سندھ پر مقیم تھا۔ اور دریا سے پار زابلستان جانیکا قصد تھا
تو اکثر لشکر کے مخصوص امرا اس یورش سے باز رکھنے میں کچھ نارسائی کے سبب ایک گروہ تنگ
حوصلگی کی وجہ سے ایک طائفہ ولایت سردسیر کے خوف کے مارے ایک طبقہ تن پرستی

و ہند دوستی کے سبب سے کچھ سفر کے نقصانوں کی وجہ سے بعض مرزا کی ہوا خواہی کی وجہ سے دشانسرائی کرتے تھے مگر پادشاہ
کب اپنے ارادے سے باز رہتا تھا۔ ابوالفضل کو حکم دیا کہ ان سب کا بیان اور وجوہ کلیہ ہمارے سامنے پیش کرے۔ وہ جانتے ہیں
دیر اسلیے کرتا تھا کہ عقل مصلحت بیں مرزا کی یاوری اور سعادت اندوزی دستگیری کرے مگر وہ اس دیر سے روز
بروز زیادہ مغرور ہوتا جاتا تھا۔ ؎ دشمناں از سخن نرم تو مغرور شدند + وقت باشد کہ زباں کار بود خوش سخنی +
پادشاہ اکثر کہا کرتا کہ جس عضو میں فساد ہو جاوے تو عاقلوں نے اسکے قطع کرنے کا آئین مقرر کیا ہے
کہ اور اعضا میں گزند نہ پہنچے۔ اس طرح اگر افراد انسانی میں کسی کے جوہر سعادت میں ایسا خلل پڑے
کہ وہ اوروں کو بہ آگندہ کرے تو اسکا نقش ہستی صفحہ جہان سے مٹانا چاہیے۔ لیکن پادشاہ اپنی
مہر و رافت کے سبب سے اسپر عمل نہیں کرتا تھا۔ پادشاہ کو دریا سے عبور کرنے میں یہ خوف تھا کہیں
مرزا کی زندگی نہ ختم ہو جائے۔ اسلیے اسمیں توقف کرتا تھا جب عاطفت اپنے اندازے سے گذری اور
مدارا مداہنہ ہو گئی تو اس نے حکم تیر کو دریا سے عبور کیا اور جہاں دریا سندھ اور دریا
کابل ملتے ہیں وہاں فرودکش ہوا اور اردوے بزرگ اور بہت سے پرتال کو سندھ کے کنارہ پر چھوڑا اور
اس سرزمین کی حکومت قاسم خاں کو سپرد کی کہ یہاں کے سرکشوں کو مطلع کرے اور عمدہ پل بنائے۔
۸ رامرداد کو حاجی حبیب اللہ مرزا کی عرضداشت لایا جسمیں مرزا نے کچھ پشیمانی و شرمندگی کا اظہار
اور فرمان پذیری کا بیان سوگند کے ساتھ کیا تھا لیکن پادشاہ کے فرمان کو نہ مانا۔ اس ہیلیے
اُسکی گفتار سچی نہ معلوم ہوئی۔ عذر اُس وقت مقبول ہوتا ہے کہ گفتار و کردار ایک ہوں۔ وگرنہ
دستان سرا فریب آرا زبان سے نیائش گری اور عمل میں بیکاری کرتے ہیں۔ پہلے بہت سے
سادہ لوحوں نے کارکرد اور گفتار کی ناشناسائی سے بہت نقصان اُٹھائے ہیں۔ مدارا
کے لیے شائستہ یہ ہے کہ گلشن سرائے لسانی سے عملخانہ نگارین تر نہ ہو تو کمتر بھی نہو۔ ورنہ گریزی
دابلہ طرازی کو بازار میں لانا ہے۔ اس لیے پادشاہ نے اسکے عذر کو نہ مانا۔ اور شاہزادہ مراد
کو بلدام سے آگے جانے کا حکم دیا اور خود بھی کوچ کرکے آب کابل کے کنارہ پر پہنچا۔
خواجہ محمد علی اور ایک جماعت کو پھر مرزا پاس بھیجا کہ وہ کہا مان جائے۔ خود پادشاہ

دولت آباد میں آیا اس منزل میں ایک شاطر مرزا کی عرضداشت لایا جسمیں کردار گذشتہ سے پشیمانی اور آیندہ پیمان نیکو خدمتی کو عرض کیا تھا۔ مگر بادشاہ نے اسے جھوٹھ سمجھکر نہ مانا۔ اور مجلس مشورہ امرا کو بلا کر منعقد کی اور حکم دیا کہ ہر ایک اس عرضداشت کا جواب اپنی کارشناسی سے لکھے۔

اور ابوالفضل کو حکم دیا کہ ہر ایک کی صوابدید کو دلنشین کر کے عرض کرے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ہر شخص نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا کسی کا ارادہ جانے کا نہ ہوتا تھا۔ اس لیے سب نے اپنے اس مطلب کو کہ مرزا کی خطائیں معاف ہوں اور لشکر واپس مختلف روشوں سے ادا کیا۔ ابوالفضل نے کہا کہ جب شاہزادہ مرزا مراد کی سرکردگی میں ایک لشکر دور دست راہ پر روانہ کیا گیا ہے اور یہاں سے منزل مقصود تک پہنچنا آٹھ سات روز کی راہ ہے مجرد گمنام فرستادوں کی گفتار اور جھوٹے نوشتوں پر اعتبار کر کے مراجعت کرنا سزاوار نہیں ہے ہندوستان میں بارش کا موسم ہے۔ خود دسندہ میں برسات کے ختم ہونے تک توقف کرنا پڑیگا۔ اگر کوچ کیا جائیگا تو بارش میں اسباب سپاہ گری کا نقصان ہوگا اور کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ جو کام قریب الاختتام ہے وہ پورا کیا جائے پھر مالش بسزا یا بخشش نمایاں کی جائے۔ اس کہنے پر ابوالفضل سے اہل مشورہ ناراض ہوئے۔ ایک سلامت روِ نے دوستانہ ابوالفضل سے یہ کہا کہ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ اس تیری صلاح سے شناسائی اور حق گوئی ظہور میں آئی ہے لیکن آشوب گاہ تعلق میں اہل زمانہ اور بارگاہ کے سلطنت کے چیرہ دستوں کے ساتھ سازش و موافقت ناگزیر ہے ابوالفضل نے جواب دیا کہ رازگوئی کی انجمن میں اور مشورہ کے صفوت کدہ میں جو وقت کے مناسب بات ہو اسکے چھپانے سے اور اسکے خلاف پر مائل ہونے سے ناخوشی پیدا ہوتی ہے اور دین و دنیا کا زیان ہوتا ہے۔ صورت گاہ زود زوال کے لیے جان فرسائے معنوی ہونا کیوں آدمی قبول کرے جو راہ فضول میں آوارہ نہیں ہوتا اُسکے دامن پر گرد نہیں بیٹھتی۔ مجھے جب تک بادشاہ پوچھیگا نہیں میں کچھ نہیں کہونگا اور صلاح کار

اپنی صلاح گزارش کریں سب نے متفق ہو کر کہدیا کہ حکیم مرزا کی بخشائش کیجائے اور جھوٹ موٹ
یہ بھی کہدیا کہ ابوالفضل کی بھی یہ رائے ہے۔ وہ اس وقت دردسر وتپ کے سبب سے موجود نہ تھا پادشاہ
اس صلاح سے نہایت ناراض ہوا۔ ابوالفضل سے بھی خفا ہو گیا۔ پھر جب ابوالفضل نے ساری
حقیقت حال عرض کی تو خفگی جاتی رہی۔ غرض پادشاہ منزل بمنزل زابلستان میں چلا
کور کھتری میں پہنچا۔ یہاں ایک غار بڑا گہرا ہے کہ اُسکے اندر مرتاضان باستانی کے خلوتکدہ کی
راہ ہے۔ راہ کی دشواری اور تاریکی اور پیچیدگی سے وہاں رسائی مشکل ہے۔ مگر پادشاہ تنہا اسکے
اندر گیا۔ پھر پادشاہ حصار بکرام میں آیا۔ یہاں کے عوام اس ولایت کو پرشاور کہتے ہیں اور اس شہر کا
نام بھی یہی لیتے ہیں۔ یہاں کی حکومت یار علی نامے کے سپرد ہوئی۔

قلعہ اٹک بنارس کی تعمیر ۹۸۹ھ

انہیں ایام کے سوانحہ میں سے ہے کہ ۱۵ خرداد کو اقصائے شرقی ممالک میں ایک قلعہ کی نیاد رکھی
اور کٹک نبارس اسکا نام رکھا اور خواجہ شمس الدین خانی کو اسکی تعمیر کا اہتمام سپرد کیا تھوڑے دنوں میں وہ
بند ہو گیا۔ ہندوستان و کابلستان کے درمیان ایک عجیب برزخ بنگیا۔ گردن کشونکی فرمان پذیری کا سرمایہ
ہوا بے مایہ آرزومندونکی روزی کا دستاویز بنا۔ مالدارونکی بضاعت کا اطمینان ہوا مسافرونکے لیے امنی کا مقر تھا

کابل کے واقعات

پادشاہ کا ایلغار کرکے کابل جانا ۹۸۹ھ

پادشاہ کی نیت میں یہ تھا کہ مرزا کسی طرح راہ پر آجائے۔ اس لیے وہ آہستہ جاتا تھا۔ اور
ہر منزل میں چند مقام کرتا تھا۔ شاہزادہ مراد کو بھی حکم بھیجدیا تھا کہ رفتار میں سرعت نہ کرے۔
مگر مرزا خوشامد گو بدگو ہروں کی ہمنشینی کے سبب سے کسی طرح پادشاہ پاس آنے پر راضی نہ ہوتا تھا
ہر چند اسکی بہن نے چاہا کہ میں پادشاہ پاس جاکر ملاقات کروں مگر اسپر راضی نہ ہوا۔ کج گرائی سے
خواجہ حسن بدخشاں کی طرف چلا گیا۔ مرزا نے اپنے بنہ وبار کو مستحکم مقامات میں بھیجا اور قزاقی کے
ارادہ پر آمادہ ہوا۔ جب اسکو معلوم ہوا کہ پادشاہ حدود بکرام میں مقیم ہے اور لشکر بسرکردگی شاہزادہ
مراد آتا ہے تو اس نے کارزار کا ارادہ کیا۔ پادشاہ نے آپ جریدہ تیزروی کو اختیار کیا۔
سلطان سلیم کو لشکر عظیم کی نگہبانی سپرد کی۔ اور حکم دیا کہ لشکر منزل بمنزل آہستہ روانہ ہوا

اور خود گرم رفتار ہوا اور خیبر کے سخت گریووں کو طے کر کے حواشی دکہ میں دریا کے کنارہ کچھ آرام
کیا جلال آباد میں خان درویش خاں و شمس الدین کروری کو لشکر کے آرام کے لیے متعین کیا
بادشاہ پاس مرزا کی خبر روز آتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بادشاہ باغ صفا میں تھا کہ کوئی شخص
مرزا کی خبر نہ لایا اور قراول بھی آدھی راہ سے پھر آئے۔ افغانوں نے راہ بند کر کے اُنھیں آگے
نہیں جانے دیا جب بادشاہ گندمک میں آیا تو حاجی محمد احدی جس کو بادشاہ نے بلانے کے لیے بھیجا
تھا وہ خبر لایا کہ لشکر شاہی کو گزند پہنچی ہے۔ بادشاہ نے رازگوئی کی مجلس جمع کی۔ ہر ایک سے
پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ جب تک لشکر آنکر ملے توقف کرنا چاہیے بعض نے کہا
کہ ہم اتنے کم آدمی ہیں کہ توقف کرنا مناسب نہیں۔ واپس جاکر لشکر سے ملنا چاہیے بعض نے کہا
کہ آگے بڑھنا چاہیئے بادشاہ کے خوف سے مخالف پراگندہ ہو جائینگے۔ غرض شہریار اپنی شجاعت خداداد
اور خاطر ہمیشہ بہار کے سبب سے آگے بڑھا۔ لشکر آراستہ کیا۔ قول میں خود رہا۔ اور برانغار میں زین خاں
کوکلتاش۔ جرانغار میں مطلب خاں تحدیتگی واحدی ہراول میں نامزد ہوئے۔ پھر بادشاہ پاس فتح
کی خوشخبری آئی۔ مگر یہ عرضداشت کرم اللہ کنبوہ کی تھی اور قاصد افغان تھے۔ اسلیے اسیر اطمینان خاطرخواہ
نہ ہوا۔ مگر جب بادشاہ سرخاب میں آیا تو شاہزادہ کی عرضداشت آئی جسمیں فتح کا بیان لکھا ہوا تھا۔

سلطان مراد کی فتحیابی اور مرزا حکیم کا شکست پانا

حکیم مرزا فرومایہ بدگوہروں کی دمسازی سے کہ خانہ برباد کرنیوالی ہوتی ہے۔ بادشاہ کے
فرمان پذیری کی راہ سے باہر نکل گیا اور ہندوستان کی شرقی دیار کی شورش سے بادشاہ
کے برخلاف ہو گیا۔ مگر جب یہاں ہندوستان میں آنکر ناکام اُلٹا گیا تو کبھی وہ اپنے نصیبوں کو
روتا۔ کبھی اپنی کج گرائی پر ہنستا کبھی اپنے اہل مجلس کو سرزنش کرتا۔ اس پریشانی میں تھا کہ بادشاہ
کی آمدآمد کا شہرہ ہوا۔ اب نہ رائے بودن نہ رائے آویختن۔ نہ گوہر عقل کی صفائی تھی کہ بادشاہ
کی خدمت میں آتا۔ نہ اُسکے ہمراہیوں میں ہوشمندی تھی کہ اسکے بیٹوں میں سے کسی کو بادشاہ
کی خدمت میں لاتے اسکی ہمشیر و اور خواجہ حسن دونوں خوف کے مارے بدخشاں کو چلے گئے
فریدون اور کچھ اور امرا کہ سرمایہ شورش تھے ان کا کبھی یہ ارادہ ہوتا تھا کہ خیبر کے درہ کی

استواری کو اپنی پناہ بنایئے کبھی یہ ارادہ ہوتا تھا کہ بنگش کی راہ سے ہندوستان میں جاکر فساد مچائے۔ بعض کا یہ ارادہ تھا کہ حصار کابل کو استحکام دیکر کوہستان کی تنگنائے میں زاویہ نشین ہوں۔ مگر بادشاہ کے لشکر کی خبر سُنکر سب بے اوسان تھے کچھ سامان نہیں کرتے تھے کابل کی رعایا کو پسند نہ تھا کہ وہ اپنے شہر کے دروازوں کو بند کریں کہ اپنے ولی نعمت کو آنے نہ دیں۔ مرزا نے قلعہ کی کنجیاں اربابِ شہر کے حوالہ کیں کہ بادشاہ کی نذر کریں اور خود قرا باغ میں چلا گیا۔ ہر شخص نے اپنا اسباب در دور بھیجدیا۔ مرزا کو یہ خیال تھا کہ اگر بادشاہ کا لشکر زور کرے تو توران میں بھاگ جایئے اور نہیں تو یہیں کوہ و صحرا نوردی کرنے جس شخص کے اندر خود خرد نہ ہوا اور کوئی دوست تلخ گو نہ ہو تو وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہی۔ مرزا غوربند کے کنارہ پر سراسیمہ و پریشان پڑا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ یاروں نے سمجھایا کہ بادشاہ کا لشکر پشاور سے آگے قدم نہیں بڑھائیگا۔ اسکے لشکر میں یکتا دلی نہیں ہی۔ غرض اسکو ایسی پٹیاں پڑھائیں کہ وہ کارزار کے لیے سرگرم ہوا اسکے ساتھ ان دوستوں نے دشمنوں کا کام کیا۔ مرزا نے فریدوں کو بہت ہمراہیوں کے ساتھ بھیجا کہ آق سرا میں رہ کر سپاہ و رعیت کے فراہم کرنے میں اہتمام کرے۔ اسکے پیچھے خود بھی جاکر لڑنے کے لیے تیار ہوا۔ جب بادشاہ کا لشکر قریب آیا تو اسکا لشکر پراگندہ تھا مرزا نے ارادہ کیا جب تک لشکر جمع ہو درہ سنجد میں ٹھیرے۔ اور فریدون کمین گاہوں میں ٹھیرکر بادشاہی لشکر کو گزند پہنچائے۔ حیدر علی کو کابل روانہ کیا کہ وہاں سے فارغ ہو کر نزد گاہ میں آئے۔ جب بادشاہی سپاہ کمین گاہ سے گزری اور میر حامد بخاری و مخصوص خاں کہ لشکر کے چندراول تھے۔ دور اندیشی کو چھوڑکر بہت آگے چلے گئے۔ سوا سید بہاؤالدین اور چند اور امیروں کے کوئی پیچھے نہ رہا۔ ۱۸ امرداد کو دشمنوں نے پرتال شاہی پر دراز دستی کی اور بہت سا اسباب لوٹ کر وہ لیگئے۔ جب چندراولی سپاہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے گئے۔ دشمن بھاگ گئے اعدی نے جو بادشاہ کو ناخوش خبر سُنائی تھی جسکا اوپر ذکر ہوا وہ یہی شورش تھی جس نے اُسکو بُری طرح نبیان کیا۔ شیخ جمال بختیار ایک طائفہ کو ساتھ لیکر یہ چاہتا تھا کہ چنار تو کی راہ سے اپنی منزل گاہ پر پہنچے۔ اگر غنیم دو چار ہوں تو اسیر دستبرد

گئے۔ اس روز مرزا چنار تو میں آیا تھا۔ اور فریدون کے حال کا جویا تھا۔ ناگاہ ایک فوج کی دور سے سیاہی نظر آئی۔ معلوم ہوا کہ لشکر بادشاہی کچھ آتا ہے۔ علی محمد اسپ کی سرکردگی میں مرزا کی سپاہ روانہ ہوئی۔ شیخ فالیز پہ مقیم تھا۔ اس نے جنگ گاہ کو خوب درست کیا۔ اس نبرد و خورد میں فریدون عقب سے آیا غنیم یہ سمجھا کہ لشکر شاہی کمک کو آیا۔ وہ لڑائی چھوڑ کر دور کھڑا رہا۔ شیخ نے اسکو بیگانہ لشکر جانا اور اس طرح لڑنے لگا۔ طرفین سے دلاوروں نے خوب دادگی دکھائی۔ بادشاہی لشکر لڑتا بھڑتا آخر دکابل میں شاہزادہ کے لشکر سے جا ملا۔ اُسی روز شگونہ قراول جان نثار ہوا۔ اور کئی سردار بادشاہی کام آئے۔ اس سے دشمنوں کی نخوت بڑھی۔ امیر عبداللہ کے ہاتھ لشکر کے لیے خزانہ جاتا تھا وہ بھی سب لٹ گیا۔ حکیم مرزا ایک بلندی پر جو لشکر گاہ شاہی کے قریب تھا اُترا۔ اس آویزش و تاراج سے اسکی سپاہ کا دل بڑھا۔ وہ سپاہ و رعیت کے فراہم کرنے میں ایک رات دن لگا رہا۔ ایک قدیمی دستور یہاں کے فتنہ اندازوں اور مکر اندیشوں کا چلا آتا ہے وہ اپنے دشمن کے اُمراء و افسران کے نام جعلی خط بھیجتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ وہ ہم سے سازش رکھتے ہیں تاکہ انکی نسبت بدگمانی ہو۔ چنانچہ مرزا کے آدمیوں نے بھی ایک جعل گزنت کے خطوط قلیچ خاں و مرزا یوسف خاں و نورنگ خاں و علی مراد خاں و بعض اور امراء چغتائی کے نام بھیجے۔ ان کے ساتھ نیک جہتی کا بیان ان میں کیا۔ مرزا یوسف خاں نے آشفتہ ہو کر ان خطوں کو معرکہ میں پھاڑ کر پھینک دیا اور علی مراد نے جو خط لایا تھا اُسکو بھی مار ڈالا۔ مخالفوں پر مرزا کی یہ تدبیر نہ چلی۔

۲۰ امرداد کی رات کو پہاڑ پر آگ روشن کر کے کابلیوں نے شورش مچائی اور شبخون مارنے کا قصد کیا۔ قزاق و امیر خاں اسلام آبادی و افضل توکچی کو دائیں طرف سے اور نور محمد و خواجہ خضری اور ہزارہ کے پیادوں کو بائیں طرف سے روانہ کیا کہ اندھیری رات میں بادشاہ کے لشکر کو گزند پہنچائیں۔ شاہی لشکر ہوشیار تھا آمادہ پیکار رہا۔ ۲۰ امرداد چارشنبہ غرہ جب کو مرزا تنگنا سے نکلا۔ نبرد گاہ کو آراستہ کیا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ ابھی ہراول کے سب دلیر نہ لڑے تھے کہ مرزا بھاگ گیا پھر فریدون لڑنے آیا امراء ہراول میں

سے نورنگ خاں سے لڑکر اس کو پسپا کیا۔ نورکم بیگ اور مردان بیگ وشیخ مبارک بادشاہی
لشکر میں کام آئے۔ مرزا کو اس سے دلیری ہوئی جب لشکر میں شمشیر زنی خوب ہونے لگی
تو زابلیوں کو کچھ غلبہ ہوا اس وقت راجہ مان سنگھ نے جنبش کی اس طرح سے افسروں کو
ہاتھیوں پر بٹھاکر لشکر کو آراستہ کرکے لڑایا۔ اور توپوں کو چلایا کہ اس نے دشمنوں کی
دلشکنی کی۔ غرض اس ہراول سے کہ چند دیوار آہنی کا حکم رکھتی تھی کابلیوں کو شکست ہوئی
علی محمد اسپ و چند اور ہوا خواہ مرزا کے بھاگ گئے ان کا تعاقب اس سبب سے نہ ہوا کہ خبر مشہور
تھی کہ مرزا عقب سے حملہ کریگا۔ یوں یہ فتح بزرگ آسانی سے حاصل ہوئی۔ اس بھاگنے میں
دشمن کے بہت سپاہی کام آئے۔ مرزا کے آدمی شیخی بگھارا کرتے تھے کہ بادشاہ کے لشکر میں
جتنے آدمی ایرانی تورانی ہیں وہ بے جنگ مرزا سے ملجائینگے۔ راجپوتوں اور افغانوں کو ہم مارینگے
اور ہندی شہزادوں کو گرفتار کرینگے۔ اس افسانہ طرازی سے غنودہ خرد مرزا کا خواب بیدار
زیادہ ہوگیا تھا۔ یہ ظاہری باتیں بھی وہ نہیں سمجھتا تھا کہ ایرانیوں اور تورانیوں کا اخلاص بادشاہ
کے ساتھ مشہور تھا راجپوتوں کی بہادری اور ہندی شیخ زادوں کی نادرہ کاری اور ہندوستانی
زمینداروں کی جوانمردی کے کارنامے پوشیدہ نہیں تھے۔ مرزا محمد حکیم کا ارادہ تھا کہ تاخت
کرکے مرجائے مگر علی محمد اسپ نے اس سے کہا کہ پہلے مجھے فراشخانہ نیستی میں بھیجئے پھر آپ تاخت و
تاراج کیجیے۔ غرض اسکے کہنے سے بادشاہ جنگگاہ سے باہر گیا پھر اپنے بیٹے کو ہمراہ لیکر غوربند میں پہنچا۔
شاہزادہ مراد ۱۲ امرداد کو سیاہ سنگ میں آیا اور جشن فتح آراستہ کیا۔ بادشاہ
سرخاب سے جگدلک کو جاتا تھا کہ اس فتح کی نوید شاہزادہ مراد نے اس پاس بھیجی۔
بادشاہ بھی سیاہ سنگ میں آیا۔ راجہ مان سنگھ اور شاہزادہ اس سے براہ میں ملے۔
ترک و تاجیک جوق جوق اس سرزمین میں بادشاہ کی کورنش بجالائے۔ یہاں چند روز
رہ کر اس نے تمام سیرگاہیں دیکھیں۔ اور ان مقاموں کا ملاحظہ کیا جہاں وہ اپنی خردسالی
میں جایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے یہاں رہ کر چاہا کہ زمینداروں کے زخموں پر مرہم رکھے

جلال آباد کو ہاتھی روانہ کیے اور سید حامد و سید بہاء الدین کو اسکے ہمراہ کیا۔ انھیں دنوں میں بادشاہ کو معلوم ہوا کہ مرزا دیوانہ دار سراسیمہ غور بند میں ہی اور اُس کو یہ خیال ہی کہ اگر لشکر شاہی اسکا جویا ہو تو قلندر بنکر توران چلا جائے اس سے بادشاہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ایسا ہو گا تو عبد اللہ خاں حاکم توران بادشاہ کو دق کریگا۔ اس نے لطیف خواجہ و قاضی عبد اللطیف کو اندرزگوئی کے لیے بھیجا کہ الطاف شاہنشاہی اسکے دلنشین کر کے یہاں لے آئیں۔ ۲۹ کو ارک کابل میں بادشاہ آیا جشن عالی ترتیب دیا۔

بادشاہ ایسا خدا شناس یزداں پرست تھا کہ جہان اور اہل جہاں کی آرائش میں بزم و رزم کے آراستہ کرنے میں دادار جان آفریں کی رضامندی کا طلب گار رہتا وہ اپنے کاموں کو خویشتن داری سے آلودہ نہ کرتا۔ وہ اپنی نیک نیتی سے دشمنوں کو دوست بنالیتا۔ بڑے بڑے جرموں کا معاف کر دینا اور ملکوں کا دیدینا اس کے آگے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ندامت گزینوں کی پہلی ناہنجاریاں اس کی مہربانی میں مخل نہ ہوتی تھیں۔ جب کسی کی پیشانی کی زبان پشیمانی کی گویائی کرتی تو فوراً قہر سے لطف پر وہ مائل ہو جاتا۔ بعض جان نثار مخلصوں کی رائے یہ تھی کہ وہ کسی آدمی کو کمین گاہ میں لگا کر حکیم مرزا کو ٹھکانے لگائے۔ مگر اسکی رائے یہ تھی کہ کیوں اپنے نفس نیرنگ ساز کی خواہشوں کی برآمد کے لیے تائید ایزدی کی نیرو کو چھوڑ دے اور اپنی آسائش کے واسطے اپنے بھائی کی جانکاہی میں کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص اپنی نیک اندیشی سے ہمارے خلاف کام کرتا ہی تو وہ عبادت کرتا ہی ورنہ بیمار نادانی ہی۔ نادانی کے رنجوروں کو آزار دینا روا نہیں ہی جب بادشاہ کابل کے ملک میں تھا تو مرزا مرہی گیا ہوتا مگر اس جانکاہی کی حالت میں بادشاہ کے فرستادوں نے بخشش و بخشائش کا مژدہ اس کو سُنایا جس سے اس میں جان آگئی۔ اول اس کو وہ خواب و خیال سمجھا پھر اسکو فریب کاری جان کر باور نہ کیا۔ جب حقیقت حال پر اس کو اطلاع ہوئی تو اُس نے معذرت کا دروازہ کھلا ہوا دیکھکر گریہ و

بادشاہ کا مرزا محمد حکیم کو معاف کرنا ۱۴۳

زاری کی اپنی نارسائی خرد و نامساعدی بخت و ہمراہیوں کی بیوفائی اور اپنی شرمساری کی داستان پڑہی اور کہا کہ مجھے اول پادشاہ کی آستان بوسی کرنی چاہئے تھی اب میرا یہ حال ہے کہ ہوائی دل ساتھ ہے کس دل سے کس دستاویز سے پادشاہ کے حضور میں حاضر ہوں۔ کیا منہ دکھاؤں اور کیا آرزو لیجاؤں ہمشیرہ و خواجہ حسن سے ہر چند کہا کہ پادشاہ کے پاس جا کر عذر خواہی کریں مگر میری بدنصیبی سے وہ بدخشاں چلے گئے اب پادشاہ کے پیغام روح افزا سے میری جان میں جان آئی امیدوار ہوں کہ اس مرتبہ حاضری سے مجھے معاف کریں۔ اپنے بیٹے کو پادشاہ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ جب میری خاطر کو آرام ملے گا۔ تو میں پادشاہ کی کورنش کے لئے حاضر ہونگا۔ اس مضمون کی عرضداشت لکھ کر علی محمد اسپ کے ساتھ بھیجی۔ غرہ شہر پور لطیف خواجہ و قاضی عبداللطیف نے پادشاہ سے مرزا کی پریشانی کا حال عرض کیا پادشاہ کو وہ گران گذرا۔ حکم ہوا کہ ابھی بہادر پکڑ کر مرزا کو لے آئیں کہ اتنے میں علی محمد اسپ پادشاہ کی خدمت میں آیا۔ وہ اس خاندان کا قدیمی رفیق تھا اس نے ایسی باتیں بنائیں کہ پادشاہ نے مرزا کا قصور معاف کیا۔ اور از سر نو کابلستان اس کو عنایت کیا۔ پادشاہ کے یہاں رہنے سے مرزا سراسیمہ ہوتا۔ اس لئے وہ ہندوستان کو رہ نورد ہوا۔ اور سلطان مراد اور امراء کو حکم ہوا کہ منزل بمنزل راہ سپر ہوں۔ اور خود جلال آباد کو جہاں اردوئے بزرگ تھا ایلغار فرمائی۔

مرزا حکیم کی وفات سنہ ۹۹۳ھ

پادشاہ فتحپور سیکری میں تھا اور پنجاب میں سیر و شکار کا ارادہ رکھتا تھا کہ اس پاس خبر آئی کہ مرزا حکیم مرزبان کابل ۶۔ امرداد کو دنیا سے رخصت ہوا اور کابلستان میں شورش برپا ہوئی۔ پادشاہ نے اس اپنے بھائی کے ساتھ بہت نیک سلوک کئے۔ جب اس نے ابتدا میں ناسپاسی کی تو اس کو خردسال اور ناودیدہ کار سمجھ کر کوئی گزند نہیں پہنچائی اس کے ہمراہیوں کو جنہوں نے اس کو دستاویز شورش بنایا تھا مناسب سزائیں دیں۔ جب اس نے ہندوستان میں فتنہ پردازی کی اور بعد ازاں لڑا بھی اسکی خطائیں معاف کیں اور کابلستان اسکو پھر عطا کیا۔ لیکن اس پر بھی اس بھائی نے پادشاہ کی رضا جوئی نہیں کی۔ بدکرداری اور کج رائی سے باز نہ آیا۔ بادہ پیمائی میں گرفتار رہا اور ایسی بیماریوں کا چشمہ سار بنا۔ جن کا علاج دشوار تھا

ساغر زندگی اس کا لبریز ہوا۔ نابکار پاجیوں کی صحبت سے اور احمق بدذاتوں کی دمسازی سے اپنی
نخل حیات کا ثمر چکھا نہ تھا۔ دولت دیکھی نہ گل مراد چنا۔ اس دنیا سے چلدیا۔ پادشاہ کو بھائی کا غم ہوا
اس کی اولاد کی پرورش کا خیال ہوا بعض کابلی اس کے بیٹوں کو توران میں لیجانا چاہتے تھے۔ اور
اس سے اپنا کام نکالنا چاہتے تھے۔ سپاہ کو بھی توران جانیکا خیال تھا۔ پادشاہ نے ولی بیگ ذو القدر و
فتح اللہ کو بہت جلد کابل بھیجا کہ وہ ان بیم زدہ کج گرا کابلیوں کو اپنے ارادہ سے باز رکھیں اور کنور مان سنگھ
کو حکم ہوا کہ تھوڑا لشکر لیکر بہت جلد کابل جائے۔ مرزا کے پس ماندوں کو اور آدمیوں کو جو ترک تاجیک ہوں
ہمارے پاس لے آئے۔ فریدوں مرزا یہ نہیں چاہتا تھا کہ مرزا کے کم عمر بیٹے اور توزک پادشاہ کی خدمت
میں جائیں اس فکر میں تھا کہ ان کو ما وراء النہر لے جائے۔ کنور مان سنگھ آن پہنچا۔ شاہ بیگ پرشادر
سے کابل میں آگیا۔ ساحل سندھ سے دریا پار خواجہ شمس الدین اور بہادر لشکر کے پہلے سے چلے
پشاور میں لشکر جمع ہو گیا۔ خواجہ شمس الدین اس کو ساتھ لے کر چلا۔ کابلیوں نے درہ خیبر کی راہ بند
کردی تھی اسے کھول لیا۔ راہ زن اور فتنہ اندوزوں کو کونوں میں بٹھا دیا۔ یہ لشکر جلال آباد
میں آیا۔ مرزا نے اپنی زندگی میں بخت نساء بیگم کے ساتھ اپنے بیٹے افراسیاب کو روانہ کیا تھا مرزا
شاہرخ کے بیٹوں حسن و حسین کو پادشاہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ باپ کے مرنے کی خبر سنکر
افراسیاب تو کابل چلا گیا تھا۔ مگر باقی اور سب جلال آباد میں موجود تھے وہ لشکر سے ملے
۲۹۔ آبان ۹۹۳ھ کو مان سنگھ تنگال میں تھا۔ مرزا کیقباد اور افراسیاب دو لشکر سمیت
کنور مان سنگھ سے ملے اور پادشاہ کی نوازش کے امیدوار ہوئے۔ صبح کو وہ کابل میں آئے
کشادہ دستی اور شیریں زبانی سے گروہا گروہ آدمیوں کے دلوں کو ہاتھ میں لائے
چہارم آذر کو کنور مان سنگھ نے ملک کی پاسبانی اپنے بیٹے جگت سنگھ اور خواجہ شمس الدین کو
حوالہ کی۔ اور خود مرزا حکیم کے اہلخانہ اور ملک کے سرداروں کے ساتھ مراجعت کی
۲۵۔ کو قصبہ راولپنڈی میں پادشاہ پاس آیا۔ اوس وقت افراسیاب کی عمر چودہ برس کی
اور کیقباد کی عمر پندرہ برس کی تھی ان پر پادشاہ نے سب طرح کی عنایت کی

مرزا کے بیٹوں کا پادشاہ پاس آنا ۹۹۳ھ

فریدوں کو جو فتنہ گری کا خوگر تھا اسکو زین خاں کوکہ کے حوالہ کیا۔

ہندوستان و افغانستان کے تعلقات

مرزا کامراں کے عہد سے ہندوستان کے پادشاہ سے کابلستان کا عجیب تعلق ہو گیا تھا کہ اگر ہندوستان پر کوئی مصیبت اور آفت آن پڑے تو کابلستان سے اس کو اعانت و استعانت کی کوئی امید نہ تھی اور اگر کابل میں زبردست حاکم ہو جائے تو اندیشہ تھا کہ وہ ہندوستان چھین لے۔ اگر وہاں کوئی کمزور اور ضعیف حاکم ہو تو اس خوف سے اسکی امداد کرنی پڑتی تھی کہ مبادا کوئی اور زبردست پادشاہ اس پر غلبہ و تسلط کرے اور ہندوستان سے ڈانڈا ملائے جس سے ہمیشہ خطرہ رہے۔ ہمیشہ زبردست ہمسایہ خوفناک ہوتا ہے اور زبردست ہمسایہ کو کھائے بغیر چھوڑتا نہیں۔ اینسا تعلق ان دونو ملکوں میں برٹش گورنمنٹ میں بھی چلا آتا ہے۔

واقعات متفرقہ جو ۹۶۹ھ سے ۹۷۵ھ یعنی چھ سال جلوسی میں واقع ہوئے

شاہ ایران کا ایلچی ۹۶۹ھ

۹۶۹ھ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ پادشاہ پاس شاہ طہماسپ فرمانروائے ایران کا ایلچی آیا۔ یہ ایک رسم قدیم چلی آتی ہے کہ بزرگان دانش منش دینی و دنیوی میامن کی تحصیل کے لئے اور صوری و معنوی مقاصد کے حصول کے لئے اقبالمند بزرگوں کے ساتھ انتساب پیدا کرتے ہیں اور ایک دلی و یک جہتی کی بنا کو مستحکم کرتے ہیں اور اس طرز سے نظام دولت کو سرانجام دیتے ہیں اس لئے شاہ طہماسپ نے اپنے چچا کے بیٹے سید بیگ بن معصوم بیگ کو ایلچی کے طرز پر یہاں بھیجا کہ وہ حضرت جنت نشانی (ہمایوں) کی تعزیت کرے اور جلوس شاہنشاہی کی تہنیت دے۔ وہ عربی عراقی گھوڑے اور نفائس و اقمشہ و بدائع اشیا تحفہ کے طور پر ایک مکتوب کے ساتھ لایا جسکا مضمون یہ تھا کہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اور پادشاہ عفران دستگاہ

(ہمایوں) کے ساتھ خصوصیت ذاتی اور نہایت رابطہ صوری ثابت و محقق تھا اور ہم میں محبت و دوستی کا عہد اور یک جہتی و برادری کا عقد ہوا تھا۔ اس بادشاہ عالی شان کے اعلا رشان کی طرف ہمیشہ ہماری توجہ رہی۔ اب اس محبت موروثی کی تجدید کی جاتی ہے کہ جس سے مراسم مخالصت و موافقت کی تقدیم ہو۔ پادشاہ نے اس ایلچی کو دو لاکھ روپئے دیکر رخصت کیا۔ اور مکتوب کا جواب باصواب لکھا۔

شہنشاہ نے آگرہ کے دار الخلافہ سے متھرا کی طرف جانیکا قصد شکار کے ارادہ سے کیا جب منڈھاکر گانوں کے قریب آیا تو خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین سرہٗ کے تفاخر و مناقب قوالوں کے اس کے روبرو گائے۔ خواجہ کے جلائل کمالات و خوارق عادات بارہا اسکی مجلس میں پہلے بھی مذکور ہو چکے تھے وہ ہمیشہ حق اور حقیت کا جویا رہتا تھا اور فرط طلب سے وہ ملک تقدس کے مسافروں سے توسل اور استمداد ہمت چاہتا تھا۔ اس سبب سے خواجہ کے مرقد کا شوق دل میں پیدا ہوا۔ عین شکارگاہ میں صید معنوی کا عزم مصمم ہوا۔ چہارشنبہ ۸۔ جمادی الاولی ۹۶۹ھ کو چند ہمراہیوں کے ساتھ اجمیر کی طرف روانہ ہوا جب موضع کلاولی میں وہ آیا تو چغتی خاں نے عرض کیا کہ راجہ بہاری مل کچھواہہ جیوتوں کا بڑا راجہ ہے وہ ہمیشہ حضور کے خاندان کا دولت خواہ رہا ہے وہ ایک مدت سے شرف الدین حسین مرزا کی بدسلوکی سے پہاڑوں میں متحصن ہے اگر ارشاد ہو تو اس کو بلالوں۔ اس راجہ کے ستم زدہ ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ میوات اور اس کے حدود مرزا شرف الدین کو جاگیر میں دی گئیں تو مرزا نے یہ کہا کہ قصبہ انبیر پر قبضہ کروں۔ یہ قصبہ ولایت مارواڑ میں راجہ بہاری مل کے بزرگوں کا دار الریاست تھا اس اثنا میں راجہ بہاری مل کے بڑے بھائی کے بیٹے سوجا مل نے جو ریاست اپنی لینی چاہتا تھا مرزا سے مل کر لشکر کشی کرادی۔ مرزا پاس جمعیت زیادہ نہ تھی اس طرح صلح کرلی کہ کچھ روپیہ راجہ نے مقرر کیا اور بہاری مل کے بیٹے جگن ناتھ کو اور بھتیجوں راج سنگھ پسر اسکرن اور کنگار پسر جگمال کو گرد کیا۔ جس کو ہندی میں کہتے ہیں کہ اول لیا۔ اور اجمیر کی طرف مرزا چلا گیا اس سال میں اس کا ارادہ مصمم تھا کہ لشکر

بادشاہ کا اجمیر جانا ۹۶۹ھ

فراہم کر کے اس خاندان کا نام و نشان باقی نہ رکھے۔

• شہنشاہ اکبر نے چغتے خاں کو اجازت دی کہ راجہ کو بلالے۔ جب وہ قصبہ دیوسہ میں آیا تو یہاں کے آدمی فرار ہو گئے اس پر شہنشاہ نے ارشاد کیا کہ ہم تو سوا رعایت و رافت کے کوئی اور امر جمہور خلق کے ساتھ کرتے نہیں۔ کوئی وجہ اس گروہ کے ملک کے ویران کرنے کی نہیں ہو سکتی۔ مگر ان صحرا نشین وحشیوں نے جو مرزا اشرف حسین سے آزار کھینچا ہے اس پر ہم کو قیاس کر کے وہ ہراساں ہوئے ہیں۔ راجہ بہاری مل کے بھائی روپسی کا بیٹا جے مل شہنشاہ کی خدمت سے مشرف ہوا۔ روپسی اس قصبہ میں راجہ تھا۔ اسکو شہنشاہ نے بلایا وہ بھی آیا۔ دوسرے دن قصبہ سانگانیر میں چغتے خاں راجہ بہاری مل کو لایا اور بساط بوس کرایا۔ راجہ نے اپنی بیٹی کی شہنشاہ سے بیاہ کرنے کی درخواست کی اس نے منظور فرمائی اور اس کو اس بیاہ کی تیاری کے لئے رخصت کر دیا۔ قصبہ سانبھر میں جب شہنشاہ آیا تو مرزا شرف الدین حسین مرزا اس پاس آیا۔ شہنشاہ نے راجہ بہاری مل کی خاطر داری کے لئے اس سے جگن ناتھ و راج سنگھ و کنگار کو جو مرزا کے گرو میں تھے مانگے۔ مرزا نے اس کو قبول کیا مگر وقت کو ٹالتا رہا۔ شہنشاہ اس کو سچا جان کر ان کے آنے کا منتظر رہا۔ پھر شہنشاہ نے اجمیر میں جا کر حضرت خواجہ کے روضہ منورہ کی زیارت کی۔ اسکا ارادہ ہوا کہ یہاں سے جلد معاودت کروں۔ اس لئے شرف الدین حسین کو میرٹھ (میرتھا) کی تسخیر کا حکم دیا اور اس کی کمک کے واسطے اور امرا مقرر کئے: اور دار الخلافہ کو روانہ ہوا اور مرزا کو حکم دیا کہ گروگرفتہ کو حاضر کرے سانبھر میں مرزا ان آدمیوں کو لایا۔ راجہ بہاری مل نے اپنی بیٹی کی شادی شہنشاہ سے بڑی دھوم دھام سے کی۔ یہ پہلا ہی راجپوت راجہ ہے جس نے شہنشاہ کی اطاعت قبول کی اور اپنی بیٹی بیاہی۔ اس کے چار بھائی تھے۔ جن کے نام پورن مل۔ روپسی۔ اسکرن۔ جگمل تھے۔ اس خاندان نے رتبہ والا پایا۔ اس کی اولاد کی خیر خواہی اور والا جاہی کا بیان اپنے اپنے موقع پر ہوگا۔ جب شہنشاہ رنتھنبور کے سواد میں آیا تو راجہ بہاری مل مع فرزندوں اور خویشوں کے خدمت شاہی میں آیا اور مان سنگھ خلف راجہ بھگونت داس خلف

مرزا شرف الدین حسین اور راجہ بہاری مل کے واقعات اور بہاری مل کی بیٹی سے نکاح کرنا ۹۶۹ سنہ

راجہ بہاری مل اول دفعہ شہنشاہ کی نظر عنایت سے سرافراز ہوا۔ راجہ یہیں سے رخصت ہوا۔ اور راجہ بھگونت داس اور مان سنگھ اور معزز رجپوتوں کو وہ اپنی ساتھ لیکر دار الخلافہ میں روز جمعہ ۸۔ جمادی الاخری ۹۶۹ھ کو داخل ہوا۔

اس زمانہ میں قلعہ میرٹھ (میرتھا) مالدیو راجہ مارواڑ کے قبضہ میں تھا۔ ہندوستان کی رسم و اسم کے اعتبار سے یہ راجہ اور رایوں اور راجاؤں میں مزید اعتبار اور وفور اقتدار میں امتیاز رکھتا تھا اس نے اس قلعہ کو جگمال کو جو اسکے بزرگ سرداران میں سے تھا حوالہ کیا تھا۔ اور پانچسو چیدہ رجپوت اسکی کمک کے واسطے مقرر کر رکھے تھے جن کا سردار دیوداس تھا۔ وہ جرأت و ہمت میں اس گروہ میں ممتاز بہت تھا۔ حکم شاہی کے مطابق شرف الدین حسین افواج کے ساتھ اس قصبہ میں آیا اور بے محابا تہور کرکے لشکر کو قلعہ کے نیچے لے آیا۔ ابھی سپاہیوں نے اپنے چہرہ کی گرد نہ جھاڑی تھی۔ گھوڑے آب و آتش میں غرق تھے۔ چار سواروں نے جاکر قلعہ کے دروازہ پر تیر لگائے۔ رجپوتوں نے اینٹ خشت و سنگ و تیر و تفنگ چلائے۔ دو سواروں کو مار رکھا۔ دو کو زخمی کرکے بھگایا۔ پھر مرزا شرف الدین نے آہستہ کام کرنا اور قلعہ گیری کا اسباب فراہم کرنا شروع کیا۔ شہر میں قیام کیا۔ قلعہ نشین روز لڑتے۔ قلعہ کے ایک برج کی تہ تک سرنگ لگائی گئی اور بارود سے بھری گئی اور اڑائی گئی جس سے برج دھنئے کی روئی کی طرح اڑ گیا۔ حصار میں ایک بھنیا تا پڑ گیا۔ بادشاہی لشکر اندر گھسا۔ راجپوت جان سے ہاتھ دھوکر دن بھر خوب لڑتے رہے۔ رات کو دونو لشکر اپنے اپنے مورچوں پر گئے رجپوتوں نے راتوں رات قلعہ کے رخنوں کو بھر کر مستحکم کر لیا۔ مگر آخر کار اہل قلعہ کا قافیہ ایسا تنگ ہوا کہ قلعہ انکے لئے زنداں بن گیا۔ اہل قلعہ پناہ مانگتے تھے اور باہر جانا چاہتے تھے مگر مرزا راضی نہیں ہوتا تھا آخر کو یہ قرار پایا کہ اہل قلعہ تمام اسباب چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ ملک گیری کے آداب میں داخل ہے کہ زنہاریوں کا عجز قبول کیا جائے۔ اس لئے لشکر شاہی نے انکو راہ دی۔ جگمال تو باہر چلا گیا۔ دیوی داس نے مرنے کا ارادہ کیا۔ اور سارا اسباب اپنا جلا دیا۔ چار پانچ سو سوار لے کر لشکر شاہی کے روبرو آیا۔ ایک رجپوتوں کی جماعت جنمیں جی مل اور دن کرن سردار

فتح قلعہ میرٹھ ۹۶۹ھ

پادشاہی لشکر میں تھے۔ اور وہ اہل قلعہ سے قدیم نزاع رکھتے تھے۔ اس نے مرزا شرف الدین حسین سے
کہا کہ آدمیوں نے نقض عہد کیا کہ اپنے اسباب کو جلایا اور قرار دادیہ تھی کہ اسباب کو چھوڑکر باہر جائینگے
جب وہ اپنے پیمان پر ثابت نہیں ہیں تو انکو سلامت جانے دینا ایسے حال میں کہ وہ مغلوب ہوئے دور اندیشی سے
دور ہے۔ مرزا نے بھی یہ رائے انکی پسند کی۔ لڑائی کی تیاری کی۔ دیوی داس بھی پھر کر پادشاہی لشکر سے ایسی
مردانہ لڑائی لڑا کہ داستان رستم کو دکھایا۔ بلکہ اس کو بھلا دیا۔ آخر کار وہ گھوڑے سے گرا اور ایک گروہ نے
اسکو پارہ پارہ کیا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہوکر بھاگ گیا۔ پادشاہی لشکر فتحمند ہوا۔ اور تمام ولایت
میرٹھ اور قلعہ میرٹھ۔ اولیائے دولت کے قبضہ میں آئے۔ جو بچ بچوت زندہ باقی رہے وہ مالدیو پاس چلے
گئے۔ اس قلعہ نے میواڑ کے راجہ اور شہنشاہ کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع کرادی۔

اوائل ربیع الاول ۹۶۹ھ میں شمس الدین محمد خاں انگہ جس کو اعظم خان کا خطاب ملا تھا پنجاب سے
شہنشاہ کی خدمت میں آیا۔ شہنشاہ نے اپنی عنایت سے معاقد مالی و ملکی کی تنظیم اور سپاہی و رعیت
کی مہام کا انصرام اس کو سپرد کیا۔ ماہم انگہ حسن خدمات اور فزونی خرد و فراوانی عقیدت سے اپنے تئیں
وکیل السلطنت بالاستقلال سمجھتی تھی وہ اس بات سے آزردہ ہوئی۔ منعم خاں خانخاناں کہ بظاہر وکیل
ہوکر مسند وکالت کو آرایش دیتا تھا۔ وہ بھی آزردہ دل ہوا۔ وہ انصاف و فارغی خاطر و ناچسپانی
مشاغل دنیوی کہاں ہیں۔ کہ ایسے شخص کو کہ مشاغل گیتی کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے۔ اور اشغال مہمات
کا متکفل ہو اس کو اعظم عطیات الٰہی جانکر شکر بجالائیں کہ اس زمانہ میں خان اعظم کو منعم خاں و ماہم انگہ
امداد غیبی سے شمار کرتے۔ اور سچے دل سے آداب شکر بجالاتے اور نہ اس سے انگار دروں اور آزردہ
دل ہوتے۔ انصاف کی پیشگاہ میں حقیقت کار یہ ہے۔ جب کوئی خدمت گذار کاموں کو اچھی طرح
کرے تو اس سے آزردہ ہونا بیراہ جانا ہے۔ اور خواہش نفس کا مغلوب ہونا۔ بلکہ اپنی پاؤں سے
آپ گرانا اور اپنے ہاتھ سے خراب کرنا ہے۔ ادہم خاں چھوٹا بیٹا ماہم انگہ کا جسکی عقل بہت کمی
جوانی میں مست و دولت میں مدہوش تھا۔ عہدہ سے معزول تھا ہمیشہ شمس الدین انگہ پر حسد کرتا تھا
منعم خاں خانخاناں بھی اس بیماری سے دردمند تھا مگر وہ دور کی سوچتا تھا میٹھی چھری تھا

شمس الدین محمد خاں زماں انگہ کا پادشاہ پاس آنا ۹۶۹ھ

ادہم خاں فتنہ و غدر پر تحریک کرتا تھا۔ شنبہ ۱۲۔ رمضان ۹۶۹ھ میں ایک عجیب امر یہ واقع ہوا کہ دولتخانہ
کے دیوان میں منعم خاں و انگہ خاں و شہاب الدین احمد خاں اور بڑے بڑے آدمی بیٹھے ہوئے مہمات سلطنت
میں مشغول تھے۔ کہ ادہم خاں بے اعتدالانہ ایک جماعت کے ساتھ جو اس سے زیادہ بے اعتدال تھی بارگاہ
دولت میں آیا۔ حاضرین مجلس اسکی تعظیم کو سروقد کھڑے ہوئے۔ مگر انگہ خاں نے بھی نیم قد سے تعظیم کی۔ پر قد
تعظیم نہ دینے کا بہانہ بنا کے خنجر کھینچکر اسکی طرف دوڑ گیا اور اپنے آدمیوں کو کہا کہ کیا دیکھتے ہو۔ ہاتھ صاف کرو
غرض اس بزرگ کو دولتخانہ کے صحن میں شہید کیا۔ پھر اس بیباکی کو دیکھئے کہ یہ خون کر کے بھاگا نہیں۔ حرم سرائی
کیطرف متوجہ ہوا۔ دولتخانہ سے صفہ پر گیا جو چاروں طرف سے آدمی کے آدہے قد کی برابر اونچا تھا۔ تلوار ہاتھ
میں تھی اندر جانے کا ارادہ تھا۔ حاضرین مجلس پر ایسی بیہوشی چھائی کہ نہ انہوں نے اُسے مارا نہ سب نے ملکر اسکو پکڑا
نہ۔ وہ اسکے معنی سمجھے کہ تلوار ہاتھ میں لیکر کس ارادہ سے وہ محلسرا کے اندر جاتا ہے۔ جب اس قتل ہی غوغا مچا تو بادشاہ نے
قصر کی دیوار ہی جھانک کر حال پوچھا۔ رفیق نے سارا ماجرا سنایا۔ تعجب کر کے اس سے دوبارہ پوچھا تو اُسنے
لاش کو دکھایا۔ بادشاہ غصہ میں بھر کر دوسرے دروازہ سے تلوار ہاتھ میں لیکر آیا۔ ادہم خاں کو دیکھ کر کہا اے
لاڈلے بچے تونے میرے انگہ کو کیوں مارا۔ اس گستاخ نے بادشاہ کے دونو ہاتھ پکڑ لئے۔ اور کہا کہ
آپ تفحص کیجئے غور رہی فرمائیے۔ کچھ تلاش کیجئے۔ بادشاہ نے تلوار کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ اپنے
چھڑائے اور اسکی تلوار کیطرف ہاتھ بڑھائے کہ اس اثنا میں وہ بھی اپنی تلوار کی طرف متوجہ ہوا
شہنشاہ نے ایک گھونسا اسکے منہ پر مارا کہ وہ گرا۔ اس گھونسہ کا نشان اسکے چہرہ پر گرز لگنے کا نشان
معلوم ہوتا تھا۔ فرحت خاں و سنگرام وہاں کھڑے تھے۔ انکو شہنشاہ نے غصہ سے کہا کہ کیا تماشہ
دیکھتے ہو اس دیوانہ کو باندہو۔ انہوں نے اوسے باندہ لیا۔ حکم دیا کہ صفہ کے اوپر سے اوندہا منہ کر کے
نیچے پھینکو۔ لوگوں نے اسکا ملاحظہ کر کے اس طرح پھینکا کہ اسکی نیم جان باقی رہی تو بادشاہ نے پھر اسکو
اوپر گھسیٹوا کر نیچے پھینکا تو جان نکل گئی۔ منعم خان خانخاناں و شہاب الدین احمد خاں بھی غضب
شاہنشاہی کے خوف کے مارے بھاگ گئے۔ یوسف محمد خاں پسر بزرگ انگہ خاں نے اپنے باپ کے قتل
کا حال سنا تو انگہ خیل کو مسلح ساتھ لیا ادہر ادہم خاں اور ماہم انگہ کی طرف متوجہ ہوا مگر جب اسنے

ادہم خاں کا انگہ خاں کو مارنا سنہ ۹۶۹

ادہم خاں کا مارا جانا اور ماہم انگہ کا مرنا سنہ ۹۶۹

یہاں آنکر دیکھا کہ خود شہنشاہ نے انصاف کردیا تو وہ پھر کچھ نہ بولا۔ شہنشاہ نے حرم سرا میں جا کر ماہم انگہ سے کہدیا کہ ادہم نے ہمارے انگہ کو مارا ہم نے اُسے مارا۔ وہ یہ سُنکر بادشاہ کے ادب کے سبب سے ظاہر میں روئی پیٹی نہیں۔ مگر دل اُسکا زخم جانستان سے مجروح ہوا۔ چہرہ کا رنگ فق ہوگیا۔ بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر بادشاہ نے اسکی تسلی تشفی باتیں کہکر روک لیا۔ اوسی روز بادشاہ نے دونو نعشیں دلی بھیجدیں ماہم انگہ پہلے سے بیمار تھی۔ اب بیٹے کی سوگواری میں اور زیادہ مریض ہوئی اور بیٹے کے چہلم کے دن شوال میں جاں بحق ہوگئی۔ بادشاہ کو اس اپنی انگہ کا نہایت غم ہوا وہ رویا اور اُسکا جنازہ دہلی روانہ کیا۔ کچھ قدم خود بھی اس کے ساتھ گیا۔ ان ماں بیٹوں کے مقبرہ پر ایک عمارت عالیشان تعمیر کرادی جو ابتک تین سو برس گذرنے پر بادشاہ کی شان و شوکت نیک سیر ہونے پر شہادت دیتی ہ

آدمی زاد کی بنا دیں دو امر غریب ہیں۔ اول طبیعت کہ نہ اس میں تمیز ہے نہ اسکی آنکھیں ہیں دوم عقل کہ دوربیں کارشناس ہے۔ اکثر آدمی بے پروائی سے تباہ اندیشیوں میں گرفتار ہوکر خرد کو کہ کار فرما صلاح اندیش ہے معزول کرتا ہے اور طبیعت کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اور جو کام اسکے لیے کہ دشمن سو فکر و تدبیر سے نہیں کرسکتا۔ وہ بے فکری سے اپنے لئے آپ سامان کرلیتا ہے اسکی مثال خانخاناں منعم خاں کا حال ہے۔ کہ بادشاہ نے اسکو کس اعزاز و احترام سے کابل سے بلایا۔ اور منصب وکالت و حکومت کل عنایت کیا۔ ان نعمتوں کی قدر اُسنے کچھ نہ کی۔ اس خوف سے کہ واقعہ خان اعظم و ادہم خاں میں وہ بھی اس آتش کی شعلہ افروزی میں متہم تھا۔ اُسی روز بھاگ گیا۔ وہ اپنی نامعاملہ فہمی سے یہ سمجھتا تھا کہ بعد اس واقعہ کے اس خاندان کی کارگاہ حل وعقد اور جمیع مہمات ملکی و مالی کا بندوبست اسی کے اختیار و اقتدار میں بغیر کسی دوسرے آدمی کی شرکت کے ہوگا۔ مگر یہ بات بنی نہیں تو اسکو یہ سودائے خام ہوا کہ بادشاہ کی درگاہ سے بھاگ کر کابل اپنے بیٹے غنی خاں حاکم کابل پاس جائے۔ اس ارادہ سے دارالخلافہ سے بھاگ کر دامن کوہ کی راہ لی محمد قاسم میر بحر اس کے ساتھ تھا۔ جب بادشاہ نے سنا تو فرمایا کہ منعم خاں کہیں جانے کا نہیں جلد آجائیگا۔ فرصت جو امیروں نے ہرچند بادشاہ سے تصریحاً و کنایتاً عرض کیا کہ اس کا اسباب و اموال ضبط کیا جائے مگر اس فراخ حوصلہ قدردان

منعم خاں کا بھاگنا اور گرفتار ہونا ۹۷۰ھ

پادشاہ نے فرمایا کہ اگر بالفرض وہ کابل میں چلا جائیگا تو وہ بھی ہمارا ملک ہے اس حال میں بھی
وہ ہمارا ملازم ہے۔ وہ تنگدلی کے سبب سے بھاگا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا دولتخواہ نہیں ہے۔ اگر
وہ نہ آئیگا تو اسکا مال واسباب اس پاس ہم روانہ کردینگے۔ کوئی شخص اسکے اسباب کو انگلی نہ لگائے
چھ روز کی آوارہ گردی کے بعد حوالی پرگنہ سوات میں منعم خاں پہنچا۔ یہ پرگنہ میر محمد منشی کی جاگیر میں تھا
اسکے نوکر قاسم علی سیستانی کو جو یہاں شقدار تھا خبر ہوئی۔ کہ دو شاہی امیر جاتے ہیں اسنے جاکر دونو
کو گرفتار کرلیا۔ سید محمود بارہ نے منعم خاں کو پہچان کر بڑی خاطرداری کی۔ اور پادشاہ پاس لے آیا
جسنے سر پر تیغ سیاست چلانیکی جگہ تاج ریاست رکھا۔ وہی منصب وکالت اور خطاب خانخانی عنایت کیا۔

پادشاہ کے تیر لگنا اور حالات

۵ جمادی الاولیٰ ۹۷۱ھ کو دہلی میں پادشاہ آیا تھا۔ ۲۰ کو شیخ نظام الدین اولیا قدس سرہ کے مزار منور
پر زیارت کو گیا تھا۔ وہاں سے اولٹا اپنے خیمہ گاہ کو آتا تھا۔ ماہم انگہ کے مدرسہ کے قریب ایک کافر
نعمت کھڑا تھا۔ اس نے پادشاہ کو نشانہ بنا کر تیر مارا وہ اسکے داہنے شانہ میں لگا اور ایک وجب اتر
گیا۔ تیر کے لگنے سے اس خطاوار کو گرفتار کیا۔ پادشاہ کے خیرخواہوں نے عرض کیا کہ اول اسکے
حال کی تشخیص کریں۔ پھر اسکو خاک میں ملائیں۔ مگر شہنشاہ نے فرمایا کہ فوراً اسکو نشانۂ اجل بناؤ
توقف میں یہ اندیشہ ہے کہ معلوم نہیں وہ ہمارے اخلاص مندوں میں سے کس کس کو متہم کرے
اسی وقت اسکو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ پادشاہ نے اپنا تیر نہایت استقلال سے نکلوایا۔ گھوڑے
پر سوار ہو کر گھر آیا۔ تھوڑے دنوں میں زخم اچھا ہوا۔ اگرچہ پادشاہ نے اس نابکار کے تشخیص حال
سے بمقتضائے دوربینی پردہ پوشی کی۔ مگر اس قدر مشخص ہوا کہ یہ شخص شرف الدین حسین کے
باپ کے غلاموں میں تھا اور تعلق فولاد اسکا نام تھا۔ مرزا نے پادشاہ کے قتل کے لئے شاہ
ابو المعالی کے ساتھ اس کو کیا تھا۔ جب ہندوستان سے کابل کی طرف شاہ ابوالمعالی بھاگ
گیا تو وہ اسی سبب سے یہاں پڑا رہا کہ پادشاہ کی جان نکالوں۔ پادشاہ کی کتیا کا نام مہوہ تھا
اس نے پادشاہ کے زخمی ہونے کے غم میں سات روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا دیوانی ہوگئی

پادشاہ کے تیر لگنا ۹۷۱ھ

مہوہ کتیا

کتا بھی کیا اپنی وفا دکھاتا ہے۔

سلطنت کے منصب والا کا یہ اقتضا ہے کہ معاملات کی بازپرس میں دوست دشمن خویش و بیگانہ کو منظور نظر نہ رکھے اور مظلوم کی داد دے اور ظالم سے مظالم کی عوض سزا دے اور دولت عظمیٰ کے مخصوص اپنی خصوصیت کی نسبت سرمایہ ستم و ستیزہ نہ بنائے۔ اور اگر کوئی ناہنجاری اُن سے ظہور میں آئے تو راست کردار بے خوف و خطر اس مظلمہ کی اطلاع دیں۔ اور ستم رسیدوں کے عرض احوال میں دلیری کریں۔ اس وقت شہنشاہ نے اپنے میں اسی خصلت کو خواجہ معظم کے معاملہ میں دکھایا۔ خواجہ معظم مریم مکانی کا برادر اخیافی (سوتیلا بھائی جسکا باپ اور ہو) تھا وہ اس نسبت کے سبب سے بے اعتدالیاں کرتا تھا بارہا جنت آشیانی (ہمایوں) کے زمانہ میں حرکات ناشائستہ کر چکا تھا مگر بادشاہ اپنی بیوی کے خاطر سے چشم پوشی کرتا تھا۔ یورش بدخشاں جس سال میں ہوئی ہے اُسنے خواجہ رشیدی دیوان جنت آشیانی کو مار کر کابل بھاگ گیا۔ مقربین شاہی نے اس کا قصور معاف کرایا۔ مگر پھر وہی اعمال ناپسندیدہ اس سے سرزد ہوئے جسکے سبب سے نکالا گیا۔ حجاز گیا وہاں حج کرکے اپنی شرارتوں پر اور شرارتیں بڑھا کر ہندوستان میں آیا۔ ایک دفعہ دولت سرائے شاہنشاہی میں اعیان اور ارکان سلطنت جمع تھے۔ مرزا عبداللہ مغل کو بیوجہ گھونسے مارے اور لاتیں خوب لگائیں۔ دوسری دفعہ بیرام خاں سے بدرشتی پیش آیا اور خنجر پر ہاتھ دوڑایا۔ پھر وہ خارج ہوا۔ گجرات میں گیا اپنی بدخوئی کے ہاتھ میں گرفتار تھا وہاں سے شہنشاہ پاس اول مرتبہ آگرہ میں آیا۔ اس کے ساتھ رعایت و عنایت کی گئی بی بی فاطمہ جنت آشیانی کی اُردو بیگنی تھی۔ اور شہنشاہ کے سرے محل میں یہ اعتبار رکھتی تھی۔ اس کی بیٹی آغا دختر خواجہ کی بیوی تھی ہمیشہ اس کی ناجنسی و بدخوئی کے سبب سے زندان بلامیں گرفتار رہتی تھی۔ اور طرح طرح کے آزار اُٹھاتی تھی۔ ایکدن مضطربانہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوکر یہ استغاثہ پیش کیا کہ خواجہ اپنے پرگنہ کو جاتا ہے اور میری بیٹی کو ہمراہ لیجاتا ہے۔ اپنی بدخوئی اور بدگمانی سے بارہا وہ کہہ چکا ہے کہ میں

خواجہ معظم کی بیوی کا قتل ہونا اور خواجہ کا قید ہونا ۹۷۱ھ

تیری بیٹی کو مار ڈالونگا۔ مگر یہاں دار الخلافہ میں حضور کے خوف سے اس امر کا مرتکب نہیں ہوتا اب معلوم نہیں اپنی جاگیر میں لیجا کر اسکا حال کیا کرے۔ شہنشاہ نے اس قدیم الخدمت عورت کی گریہ وزاری پر رحم فرماکر ارشاد کیا کہ اب میں شکار کو جاتا ہوں۔ تیری خاطر سے میں خواجہ معظم کے گھر کی طرف جاؤنگا وہ بر سر راہ مجھے سلام کرنے آئیگا۔ میں اُسے سمجھا کر منع کر دونگا کہ وہ تیری لڑکی کو ساتھ نہ لیجائے۔ جب پادشاہ اسکے گھر کی طرف چلا تو اس نے رستم خاں و مقبول خاں کو بھیجکر خواجہ کو اپنے آنے کی اطلاع دی پادشاہ کا مطلب جو اس اطلاع سے تھا وہ سمجھ گیا۔ اس نے جھنجھلا کر پادشاہ کے آدمیوں سے کہہ دیا کہ تم جاکر حضور سے کہدو کہ وہ نہیں آتا۔ اور غصہ میں لال پیلا ہوکر اپنی حرم سرا میں گیا۔ وہاں زہرہ آغا حمام میں نہاکر کپڑے پہن رہی تھی کہ اس سفاک نے خنجر سے اسکا کام تمام کیا۔ روزن خانہ سے سر نکال کے جس جگہ رستم خاں کھڑا تھا خون سے بھرا ہوا خنجر ڈالدیا۔ اور چلایا کہ میں نے خون کیا خون کیا جاکر کہدو۔ رستم خاں نے اس خبر کو حضور میں پیش کیا۔ یہ دیکھکر شہنشاہ قہر و غضب میں بھر کر خواجہ کے گھر میں آیا۔ خواجہ بھی تلوار کے قبضہ پر ہاتھ دہر سامنے آیا۔ شہنشاہ نے للکار کر کہا کہ یہ کیا وضع ہے کہ شمشیر کے قبضہ پر ہاتھ دہرا ہے۔ اگر تونے اس کو ذرا حرکت دی تو تیرا سر اسی تلوار سے اُڑا دونگا۔ خواجہ کے ہاتھ پاؤں دبدبۂ شاہی سے پھول گئے۔ آدمیوں نے اُسے مقید کر لیا۔ اسکا ایک گجراتی غلام تلوار لئے خواجہ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اسکے تیور بگڑے ہوئے شہنشاہ نے دیکھکر قتلق قدم خاں سے فرمایا کہ بزن۔ یہ حکم ہوتے ہی قدم نے اس صفائی سے اسکا سر اُڑایا کہ بے سر کچھ دیر تک کھڑا رہا۔ اس کی گردن سے خون بہتا رہا دیوانہ خواجہ سے پوچھا گیا کہ تونے اس عاجزہ کو کس گناہ کے سبب سے مارا۔ تو یہ سفاک بیباک بیہودہ بکواس کرنے لگا۔ لات گھونسوں سے خاموش کیا گیا۔ پھر دباپر اسکو لاتیں مارتے ہوئے بال کھینچے ہوئے لائے اسکے لئے اور اسکے ملازموں کیواسطے جو اسکی بدستی و آشفتہ دماغی میں ہم کاسہ تھے حکم ہوا کہ ہاتھ اور گردن باندہ کر جمنا میں غوطے دئے جائیں۔ ہر چند خواجہ کو بہت غوطے دئے گئے مگر وہ اپنی سخت جانی سے ہرزہ گوئی سے باز نہ آیا۔ اور بزرگان دین کو گالیاں دیتا رہا جس سے جانتا تھا کہ پادشاہ کو سخت رنج ہوتا ہے۔ سب کو یقین تھا کہ ان غوطوں میں موج فنا کی تھپیڑے نہیں

مر جاویگا۔ مگر وہ سنگ دلی اور سخت جانی سے زندہ رہا تو شہنشاہ نے اسکو مقبل خاں کے حوالہ کیا اور قید کرکے قلعہ گوالیار بھیجدیا۔ یہاں دیوانہ ہوکر قید میں مرگیا۔

تھانیسر میں ایک ایسا بڑا تالاب ہی جسکو چھوٹا دریا کہنا چاہئے۔ وہاں ایک فضا وسیع ہی جسکو کرکہیت (کرچھیتر) کہتے ہیں۔ گرہن کے دن یہاں ہندوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہی۔ سونا۔ چاندی۔ جواہر۔ اقمشہ۔ امتعہ نفیسہ ظاہر و پوشیدہ پن ہوتے ہیں۔ زر کو یہاں پانی میں ڈالتے ہیں جس سے کہ گفتہ است کوہی کن و درآب انداز۔ کا مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ اس سال میں پادشاہ کے آنے سے پہلے بہت سے سناسی یہاں جمع ہوگئے تھے۔ اسکے دو گروہ تھے ایک کا نام کر تھا۔ دوسرے کا نام پوری۔ ایک جگہ پر دونوں کا جھگڑا ہوا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہم وہاں اُتریں گے۔ ان لوگوں کی تجرد گزینی اس وجہ سے نہیں ہی کہ انکا دل دنیا سے سرد ہی۔ اگر نفس الامر میں تارک دنیا ہوتے تو ہمیشہ آزمند ہوکر شہوت و غصہ کے مغلوب اور حرص کے مقہور نہیں ہوتے۔ ان میں نزاع کا باعث یہ تھا کہ تالاب کے کنارہ پر ایک مکان متعین تھا کہ وہاں گروہ پوری بیٹھکر دام گدائی بچھاتے تھے۔ ہزاروں ہندو ان کو پن دیتے تھے۔ ان دنوں میں گروہ کر نے غلبہ کرکے پوریوں کی جگہ چھین لی۔ یہ کروں سے لڑ نہیں سکتے تھے کہ اپنی جگہ اُن سے چھٹا لیتے ان کے گرو کیسو پوری نام قصبہ انبالہ میں شہنشاہ کی خدمت میں دادخواہ آئے کہ ہماری جگہ کروں نے زبردستی چھین لی ہے۔ اگرچہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کرسکتے مگر ہمت کرکے ان سے لڑینگے اپنا خون خاک میں گرا دینگے۔ یا اس قطعہ خاک کو ان سے لینگے۔ کروں کے گرو نے آنکر یہ عرض کیا کہ یہ جگہ موروثی ہماری ہے پوریوں نے چندمدت سے چھین لی ہے۔ اب ہم یہاں آنکر بیٹھے رہیں۔ جبتک بدن سے جان کا تعلق ہے ہم کو اس زمین سے تعلق ہے۔ جب پادشاہ تھانیسر میں آیا تو ان کے معرکہ میں گیا۔ دونوں گروہ ایسے اپنے اپنے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ شہنشاہ نے ہرچند انکو سمجھایا کہ لڑو بھڑو نہیں۔ مگر اس سمجھانے سے اور زیادہ بگڑے تو پادشاہ نے دونوں کو لڑنے کی اجازت دیدی کہ وہ اپنے کئے کی سزا پائیں۔ اتفاقاً اُس دن ان سناسیوں کا ہجوم بہت زیادہ آگیا تھا جانبین سے صفیں آراستہ ہوئیں۔ اول ہر طرف سے ایک مرد لاف زن آگے آیا اور تلوار سے لڑا

تھانیسر کے نہان میں گر اور پوری کی لڑائی کا تماشا دیکھنا ۹۷۴ھ

پیر تیر و کمان سے۔ آپسمیں خوب تیر باران ہوا۔ پوریوں کے گروہ نے گردن پر تیر مارنے شروع کئے پوری کمھتے اس لئے پادشاہ نے چند نفر کو جنگ سنگ خوب جانتے تھے۔ اور نیمہائے توران او رحرف ہندوستان کو اشارہ ہوا کہ پوریوں کی کمک کرو۔ اس کمک شاہی سے پوریوں کا پلہ بھاری ہوا۔ انہوں نے گردن کے گردانند کو مار کران کو پراگندہ کردیا۔ پادشاہ نے یہ تماشا دیکھکر اپنی سپاہ سے ایسا انتظام کرادیا کہ پیر دنگا فساد کچھ نہیں ہوا۔ لاہور سے پادشاہ دہلی کو آتا تھا کہ راہ میں یہ واقعہ پیش آیا۔

سال نہم جلوس ۹۷۲ھ کے واقعات میں سے ایک یہ ہے کہ صوبہ بہار میں ہندوستان کے قلاع والا ارتفاع میں سے ایک قلعہ رہتاس ہے جو ایک پہاڑ پر نہایت بلند ہے اور عرض طول اسکا پانچ کوس سے زیادہ ہے۔ زمین ہموار سے اس قلعہ کی سطح کا ایک کوس کا ارتفاع ہے اس میں سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ باوجود اس بلندی کے اس میں جس جگہ چاہو دو دو گز نیچے کھودو تو میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ اس قلعہ کی بنا کی ابتدا سے کسی فرمانروا نے سوا شیر شاہ کے اس پر استیلا نہیں پایا۔ ہم آیندہ لکھیں گے کہ شیر خاں نے اس کو کس فریب سے لیا تھا۔ یہ قلعہ فتح خاں پٹنی کے ہاتھ آیا۔ وہ شیر خاں کے بڑے سرداروں میں تھا۔ اس قلعہ کی پشت گرمی سے وہ سلیمان کرانی حاکم بنگالہ سے خوب منازعت کرتا تھا اور دوربینی کے سبب سے شہنشاہ اکبر پاس بھی ہمیشہ عرضداشت بھیجا رہتا تھا اور اسمیں اپنی دولتخواہی کا اظہار کرتا تھا۔ جن دنوں میں علی قلیخان نے نام کی بغاوت سے شہرت پائی تو پادشاہ نے قلیج خاں کو فتح خاں پاس بھیجا کہ اوسکے احوال سے آگاہ ہوکر اسکو اطاعت اور خدمتمیں ایسا پختہ کرے کہ جب ہم جونپور میں آئیں تو وہ وہاں آجائے۔ قلیج خاں نے بہت جلد جاکر فتح خاں کو اطاعت شاہی میں پختہ بنایا اور اسکے چھوٹے بھائی حسن خاں پٹنی کو دارالخلافہ میں پادشاہ کی خدمت میں لایا۔

فتح خاں کی اطاعت سے قلعہ رہتاس بھی فتح ۹۷۲ھ

جب پادشاہ جونپور میں سال دہم ۹۷۳ھ میں آیا تو قلیج خاں کو پادشاہ نے دوبارہ فتح خاں پاس اس نظر سے بھیجا کہ سلیمان حاکم بنگالہ نے قلعہ رہتاس پر فوج بھیج رکھی تھی کہ علی قلیخاں کی مساعدت و معاضدت سے اسکو فتح کرے۔ سلیمان کے لشکر نے علی قلیخاں کے استظہار سے

پادشاہ کا قلیج خاں کو دوبارہ فتح خاں پاس بھیجنا ۹۷۳ھ

فتح خاں کو تنگ کر رکھا تھا۔ مگر اس اثناء میں جب اس پاس خبر آئی کہ پادشاہی لشکر اسکے سر پر چلا آتا ہی تو اُس نے محاصرہ سے ہاتھ اوٹھا کر قلعہ گیری کے دائرہ سے قدم باہر رکھا۔ فتح خاں دو روئی اور تزویر سے اپنا کام چلاتا تھا جب سلیمان کے لشکر کی مزاحمت سے حوالی قلعہ خالی ہوا تو اس نے ذخیرہ و آذوقہ کی گرد آوری میں اہتمام کیا اور اپنے بھائی حسن خاں پاس جسکو قلیچ خاں اپنی ہمراہ پادشاہ پاس لایا تھا۔ مخفی پیغام بھیجا کہ آذوق و ذخیرہ کی طرف سے میرا دل بیفکر ہے تو جس طرح ہوسکے یہاں قلعہ میں چلا آ۔ حسن خاں کا علانیہ جانا تو دشوار تھا اس نے یہ بہانہ بنایا کہ پادشاہ کسی خاص آدمی کو میری ہمراہ کر دے کہ وہاں جا کر میں اپنے بھائی کو استمالت شاہی سنے یہاں لے آؤں کہ وہ قلعہ کی کنجیاں حضور میں نذر دے۔ اس لئے پادشاہ نے یہ خدمت قلیچ خاں کے حوالہ کی وہ فتح خاں پاس گیا۔ اس نے ظاہری ملائمت منافقانہ بہت کی اور جھوٹے وعدے کر کے وقت کو ٹالا۔ قلیچ خاں نے یہ حال دیکھ کر مراجعت کی۔ اور پادشاہ سے یہ سارا حال عرض کیا۔ پادشاہ نے اس قلعہ کی فتح کو ولایت شرقیہ کی فتح کے ساتھ موقوف رکھا۔

سال دہم جلوس ۹۷۰ھ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حدود سامانہ میں شیر محمد نے تاخت تاراج کرنی شروع کی۔ خواجہ معظم کا خدمتگار وہ تھا۔ پھر بیرم خاں پاس وہ آیا اس نے حسن صورت کی وجہ سے اپنا مقرب بنایا۔ اور اوس کے اقبال کے زمانہ میں اس نے اعتبار پایا اس کے ادبار کے زمانہ میں وہ سامانہ گیا تھا۔ ان دنوں میں کہ پادشاہ علی قلی کی بغاوت شانے کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے فساد برپا کیا۔ ملا نور محمد ترخاں سے کہ ان حدود میں فوجدار تھا میر دوست محمد کو سامانہ میں مقرر کیا تھا۔ شیر محمد نے اس کو اپنے گھر مہمان بلایا اور اپنی مجلس میں ناگاہ ایک تیر اس کے سینہ میں لگایا اور کام تمام کیا۔ اس پرگنہ میں اس کا مال و اسباب جو تھا لے لیا اور پھر مالیر کی طرف گیا اس پرگنہ میں خالصہ کی مقدار کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور آدمی جمع کر کے ولایت محروسہ میں تاخت کرنے لگا۔ ملا نور الدین نے ایک جماعت کو ساتھ لیا۔ اور موضع دہنوری میں کہ سامانہ کی حدود میں ہے پہونچا

شیر محمد اپنی عشرت میں مشغول تھا۔ ملا نور الدین فی الحقیقۃ کچھ نہ سمجھا۔ چند آدمیوں کو لیکر مقابلہ کو آیا کہ اس کے گھوڑے نے درخت کے تنہ سے ٹکر کھائی وہ گرا۔ پیادوں کی جماعت نے اُسے قید کر لیا۔ ملا نے اُسے قتل کیا۔"

سال یازدہم ۹۷۹ھ کے واقعات میں سے یہ واقعہ ہے کہ خاندان تیمور کے شہزادوں نے غدر مچایا جسکی تفصیل یہ ہے۔ محمد سلطان فرزند رشید سلطان ویس مرزا ابن بایقرا ابن منصور بن بایقرا ابن عمر شیخ بن امیر تیمور تھا۔ والدہ محمد سلطان مرزا کی سلطان علی مرزا کی بیٹی تھی۔ اس مرزا نے اپنی فرمانروائی کے عہد میں محمد سلطان مرزا اپنے نواسے کو خود تربیت کیا تھا۔ جب وہ مرگیا اور خراسان میں تفرقہ عظیم برپا ہوا تو محمد سلطان مرزا فردوس مکانی (بابر) کی خدمت میں آیا۔ جنہے اسپر بہت عنایت کی۔ اور جب جنت آشیانی (ہمایوں) کی سلطنت ہوئی تو بدستور سابق ان پر مہربانی شاہی ہے۔ اسکے دو بیٹے تھے ایک الغ مرزا اور دوسرا شاہ مرزا۔ یہ دونو پادشاہ کے ملازم رہے۔ انکے معاملات جو ہمایوں کے ساتھ ہونے وہ ہمایوں کی سلطنت کے تاریخ میں بیان ہو چکے ہیں۔ الغ مرزا کو اپنے اعمال کی مکافات لشکر ہزارہ کی تاخت میں ملی اس کے دو بیٹے تھے سکندر مرزا اور محمد سلطان مرزا الغ مرزا کے کشتہ ہونے کے بعد شہنشاہ ہمایوں نے ان لڑکوں کی تربیت کی اور اسکندر مرزا کو الغ مرزا کا اور محمد سلطان مرزا کو شاہ مرزا کا خطاب دیا شہنشاہ اکبر کی سلطنت ہوئی تو اس نے محمد سلطان مرزا کو مع بنائر و عشائر کے اپنی عنایت سے سرفراز کیا۔ محمد سلطان مرزا بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کو سپاہ گری سے معاف رکھ کر پرگنہ اعظم پور کہ سرکار سنبل میں تھا۔ خرچ معیشت کے لئے مرحمت کیا۔ کہ یہاں آرام کرکے اشغال دعا میں مشغول ہو بڑھاپے میں اس کے کئی بیٹے ہوئے۔ اول ابراہیم حسین مرزا۔ دوم محمد حسین مرزا سوم مسعود حسین مرزا چہارم عاقل حسین مرزا۔ شہنشاہ نے ان مرزاؤں میں سے ہر مرزا کو لائق جاگیریں سرکار سنبل میں دیں۔ اکثر مہمات میں وہ پادشاہ کے ساتھ رہتے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوتے تھے تو اپنی جاگیروں میں چلے جاتے تھے۔ ان دنوں میں کہ پادشاہ مرزا حکیم کی شورش کے مٹانے کے لئے دار الخلافہ آگرہ سے پنجاب کو روانہ ہوا تو الغ مرزا اور شاہ مرزا اور ابراہیم حسین مرزا۔ و

تیموری مرزاؤں کا فساد ۹۷۹ھ

محمد حسین مرزا نے علم بغاوت بلند کیا۔ اپنی ساتھ آدمیوں کو جمع کر کے ولایت سنبل اور اسکے نواح میں تاخت تاراج شروع کی۔ جب اس نواح کے سب جاگیر دار ان سے لڑنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ان میں انسے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اس لئے وہ خان ماں سکندر خان پاس چلے گئے مگران کج رو خود سروں کی آن شورش طلب بدنہاد وں کے ساتھ صحبت نہ نبھی۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو سری اور سرداری کا دعویٰ تھا۔ وہاں سے پھر کر دو آبہ میں آن کر اور فساد مچایا نیمکار (نیمکھار) میں گئے۔ کہ یہاں کا جاگیردار پادشاہی خواہرزادہ حاجی خاں سیستانی تھا۔ وہ ان کی مدافعت کے لئے کھڑا ہوا۔ مگر اس نے اوّل شکست پائی اور ان شہزادوں کو بہت اسباب اور ہاتھی زر نقد اور اشیا ہاتھ لگے۔ اس طرح لوٹتے مارتے دہلی کی حدود میں آئے۔ تاتار خاں دہلی کو مستحکم کر کے اور منعم خاں آگرہ سے چلکر انکے مدافعت کے لئے آئے تو مالوہ کو خالی سمجھکر اسطرف چلے۔ قصبہ سنبت میں میر معز الملک سے جو پادشاہ پاس پنجاب جاتا تھا دوچار ہوئے۔ اسکا اسباب لوٹ لیا۔ منعم خاں نے انکا تعاقب صلاح وقت نہ دیکھا وہ آگرہ چلا آیا۔ اس جماعت نے جاکر مالوہ کو قبضہ میں کر لیا۔ اسوقت مالوہ میں محمد قلی برلاس حاکم تھا اور وہ بعض مہمات کی ضرورت کے سبب سے پادشاہ پاس گیا ہوا تھا۔ اس کے داماد خواجہ ہادی معروف بہ خواجہ کلاں نے اجین کو مستحکم کیا۔ مگر اسکے جو ہمراہی تھے وہ اسے ذلیل و رذیل تھے کہ وہ مرزاؤں سے جا ملے۔ خواجہ کی بساط میں جو کچھ تھا وہ انہوں نے لوٹ لیا۔ ہنڈیہ میں قدم خاں برادر مقرب خاں دکنی تھا۔ محمد حسین مرزا نے جاکر اس کا محاصرہ کیا۔ مقرب خاں دکنی قلعہ سنتواس میں تھا۔ مہدی قاسم خاں حج کو جاتا تھا اس کا بھانجا حسین خاں اس کے ساتھ کچھ دور گیا تھا کہ وہ پھر کر سنتواس میں آیا تھا کہ مرزاؤں کا غوغا سنا تو اس نے بھی قلعہ سنتواس میں پناہ لی۔ ابراہیم حسین خان نے اس کا محاصرہ کیا۔ اس اثنا میں محمد حسین مرزا ہنڈیہ پر متصرف ہوا۔ قدم خاں کو مارا۔ اسکے سر کو قلعہ سنتواس میں لائے تو مقرب خاں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ مرزا پاس آنکر ملا حسین خاں بھی باہر آیا۔ مرزا نے ہر چند اسے نوکری کو کہا۔ مگر اس نے اسے قبول نہ کیا۔ جب پادشاہ کو یہ خبر ہوئی تو اسنے حکم دیا کہ محمد سلطان مرزا کو اعظم پور سے قلعہ بیانہ میں پہنچادو۔

جب پادشاہ چیتوڑ کے قلعہ کو خود گیا تو اس نے سال دوازدہم ۹۷۵ھ میں شہاب الدین احمد خاں کو ان مرزاؤں کے مالوہ سے نکالنے کی خدمت حوالہ کی۔ شاہ بداغ خاں و مراد خاں و حاجی محمد خاں سیستانی اور ایسے ہی اور امیروں کو مالوہ میں جاگیریں دے کر انکے ذمہ اس کام کو کیا۔ وہ قلعہ گاگروں سے رخصت ہوکر جلد اجین میں پہنچے۔ مرزا پہلے اس سے کہ پادشاہی لشکر پہنچے گجرات بھاگ گئے۔ جسکی تفصیل یہ ہے کہ الغ مرزا جو سب میں بڑا تھا وہ پادشاہی لشکر کی خبر سنکر ابراہیم حسین مرزا اور محمد حسین مرزا پاس اجین میں گیا۔ تاکہ سب بھائی متفق ہوکر اپنے لئے کوئی تدبیر نکالیں۔ جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ لشکر شاہی قلعہ گاگرون کے قریب ہوگیا تو وہ سب منڈو میں آئے۔ پادشاہی لشکر کا خوف ان پر ایسا طاری ہوا کہ ان کے قدم یہاں بھی تھمے۔ وہ گجرات کی جانب بھاگے۔ اور چنگیز خاں کا دامن پکڑا۔ وہ سلطان محمود گجراتی کا غلام تھا اور اب یہاں فرمانروائی کرتا تھا۔ اب آگے ہم حال لکھیں گے کہ گجرات کے فتح ہونیسے ان مرزاؤں کا کیا ستیاناس ملا۔

نگرچین کا بسانا ۹۸۰ھ

سال نہم ۹۷۲ھ کی سوانح میں سے نگرچین کا بسانا ہے۔ ایک موضع کگرالی تھا۔ اس گل زمین کی آب و ہوا دلکشا۔ اور زمین و صحرا کی طراوت بڑی دلکش تھی۔ اس میں اور دارالخلافہ میں ایک فرسنگ کا فرق تھا۔ پادشاہ نے اس حصار دولت افزا میں دلکش عمارت بنائیں اور جان پرور باغ لگائے تھوڑے دنوں میں پابکدست معماروں نے ان کو تیار کردیا۔ اور اعیان مملکت اور ارکان خلافت نے اپنے حسب حال یہاں مکانات تعمیر کرائے اور باغ لگائے۔ پادشاہ نے اس جگہ کا نام نگرچین یعنے مکان آرائش و آسودگی رکھا۔ یہاں پادشاہ چوگان بازی اور سیر و شکار سے دل اپنا خوش کیا کرتا تھا۔ نگرچین اس پادشاہی کے عہد میں بالکل ویران ہوکر بے نام و نشان ہوگیا۔

قلعہ آگرہ کا بنوانا

پادشاہ کبھی جانداروں کی حیات کے لئے زراعت و تخم ریزی و آبدہی سے زمین کی اصلاح کرتا تاکہ اسباب معیشت میسر ہوں۔ کبھی حفظ اموال و اقوات و حراست نام و ناموس اور افراد انسانی کی بقا کی نگہبانی کے لئے مستحکم قلعے بناتا کہ دولت صوری و معنوی کی مراد حاصل کرے ان دنوں دارالخلافہ آگرہ میں کہ ہندوستان کا مرکز تھا۔ ملکی و مالی مصالح کے لئے

ایک ایسے قلعہ عالی کی تعمیر کا حکم دیا کہ وہ اس سلطنت کے لائق ہو۔ پہلے ایک قلعہ شہر کی شرقی سمت میں جمنا کے کنارہ پر تھا۔ حوادث روزگار کے تصادم سے اسکے ارکان میں اختلال آگیا تھا۔ اسکو بالکل اوکھیڑ ڈالا۔ اور اسکی جگہ حصن حصین و حصار سنگین بنایا۔ بنیاد اسکی ایسی گہری کھودی کہ وہ پانی سے بھی نیچے گئی احاطہ اسکا ڈیڑھ میل تھا۔ دیوار کا عرض تین گز پادشاہی اور ارتفاع بیس گز تھا (۰ فیٹ) ہر روز تین چار معمار۔ چابکدست اور قوی بازو مزدور اور عملہ فعلہ ہمیشہ کام کرتا تھا بنیاد سے کنگرہ تک وہ سنگ سرخ سے بنایا گیا۔ پتھروں کو آہنی حلقوں سے ایسا وصل کیا کہ اسکے اندر بال برابر بھی درز نہ رہی۔ آٹھ سال میں یہ قلعہ مع کنگروں و فصیل و سنگ اندازوں کے تیار ہوا اور ۳۵ لاکھ روپیہ اس میں خرچ ہوا۔ قاسم خان میر بحر بر اسکی تعمیر کا مہتمم تھا۔ وہ نہایت لائق و قابل افسر انجنیر (میر عمارت) تھا۔ یہ قلعہ اب تک موجود ہے انگلستانی سیاح اسکو دیکھ کر بہت تعریف کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں وہ حقیقت میں ایسا مستحکم نہیں جیسا وہ بظاہر دکھائی دیتا ہے اس زمانہ کی سائنٹفک انجنیری اسمیں بہت نہیں خرچ ہوئی۔ مگر پھر بھی وہ سلطنت شہر اور دربار پر اپنی فرمانروائی کی شان دکھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پادشاہ کا ارادہ فتحپور سیکری میں اپنے دار الخلافہ بنانے کا تھا اور وہاں قلعہ کی بنیاد کے نشان بھی ہیں۔ مگر حضرت سلیم چشتی نے اس سے فرمایا کہ یہ مقام فقیر کے حوالہ کرو۔ اور اپنا قلعہ آگرہ میں بناؤ۔ فتحپور سیکری کی آب و ہوا خراب تھی۔ کوئی دریا وہاں نہ تھا اس لئے یہاں جمنا کے کنارہ پر جس میں کشتیاں و جہاز چل سکتے ہیں یہ قلعہ تعمیر کرایا۔ شاہجہان نے اور عمارت بنوا کے اسکو اور زیادہ رونق دلائی جسکا بیان اسکی سلطنت میں ہوگا۔

پادشاہ کا اقبال سال بسال و ماہ بماہ و ہفتہ بہفتہ و روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ ملکوں کی فتوح۔ ولایتوں کی معموری۔ راہوں کی ایمنی۔ اور نرخ اشیاء کی ارزانی نے ترک و تاجیک و سپاہی و سوداگر و ملا و درویش اور تمام اقسام کی خلق کو چاروں طرف سے پادشاہ کی خدمت میں بلایا۔ سال ہشتم ۹۷۰ھ میں کاشغر سے خواجہ معین خاوند محمود سے یہ خواجہ عبد اللہ معروف خواجگان خواجہ کی اولاد میں سے تھے۔ جب وہ حوالی آگرہ میں آئے تو اکثر امراء ان کے استقبال کو گئے۔ اور شہنشاہ نے بھی درویش نوازی کی مراسم کو ادا کیا وہ

پیشوائی کو گیا۔ مرزا شرف الدین حسین جنکا ذکر اوپر ہوا انہیں کے صاحبزادہ تھے۔

سال نہم ۹۸۱ھ میں سید امل امیر مرتضیٰ جو علامہ جرجانی کی اولاد میں سے تھے۔ اور فنون معقول و منقول میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ حرمین شریفین کا طواف کرکے پادشاہ پاس آئے۔ پادشاہ نے بھی انکے آنے کو مغتنم جانا۔ امراء کی بغاوتیں سات سال تک ہیں۔ جب عبداللہ خاں اوزبک مالوہ سے شکست پاکر گجرات بھاگا ہے تو اور اوزبک سرداروں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ نوجوان پادشاہ بابر کی اولاد ہے جو اوزبک کے خون کی پیاسی تھی وہ اپنے باپ دادا کا بغض ہم سے نکالیگا اور ہمکو ذلیل و خوار کریگا ۹۷۲ھ میں اکثر اوزبک سردار باغی ہوئے خانزماں اور آصف خاں۔ سکندر خاں وغیرہ نے سرکشی اختیار کی۔ پادشاہ نے ان باغیوں کی لڑائیوں کا خاتمہ اس خوبی سے کیا کہ وہ اسکی عقل و دانش کا کارنامہ ہے۔ ان باغیوں کی لڑائیوں کی صورتیں مختلف رہیں۔ ان میں پادشاہ کی فتح اکثر رہی۔ مگر کبھی باغیوں کو بھی فتح ہوئی۔ ان سب صورتوں میں پادشاہ نے اپنی اطاعت کے لئے نہیں بلکہ انہیں کے فائدہ کے لئے انکو اپنا دوست بنایا۔ بعض باغیوں نے اطاعت اختیار کرکے اپنی حالت پہلے سے بہتر کرلی۔ بعض نے اپنے قصور بار بار معاف کرائے۔ مگر اپنی شرارت سے باز نہ آئے۔ آخر کو پادشاہ نے اپنی ذاتی کوشش و سعی سے سب بغاوتوں کو خاتمہ پر پہنچایا۔

بیگانہ ملکوں پر شہنشاہ اکبر کے متوجہ ہونے کا بیان

اب تم نے دیکھ لیا کہ کن کن پادشاہی سرداروں نے بغاوت کی اور ان سرکشوں کے دفع کرنے میں پادشاہ کو کیا کیا دشواریاں پیش آئیں۔ ادہر ان اپنے سرداروں سے کارزار کرتا اودہر شیرشاہ کے جانشینوں سے برسرپیکار رہتا۔ اسنے اپنے بدخواہوں کو خواہ اپنی زور اور قوت سے غارت و غول کیا۔ خواہ اپنی عنایت و مروت سے خیرخواہ بنایا۔ وہ اپنی پچیس برس کی عمر میں نچنت ہوگیا تو اب اسکو فرصت ملی۔ کہ بیگانہ ملکوں پر وہ متوجہ ہو۔ اول وہ رجپوتوں کے ملک پر متوجہ ہوا۔

قلعہ چتوڑ کے معاملات

شہنشاہ اکبر ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ گردن افراز سرکشوں کو پائمال کروں۔ تمام ہندوستان کی وحدت انتظامی یعنی سب جگہ ایک ہی بادشاہی انتظام قائم کروں۔ آسودگی و آسائش خلق کو پہنچاؤں۔ رعیت کے سکھ چین میں اپنی راحت سمجھوں۔ جن فاسد دماغ گردن کشوں کے دماغ میں سرداری کا مالیخولیا پیدا ہوتا تھا معالجہ وہ خوب کرتا تھا۔ جب وہ اپنے دار الخلافہ میں پنجاب سے آیا تو اس کو محمد سلطان مرزا کے بیٹوں کے فساد اٹھانے کا حال معلوم ہوا جن کا علاج اس نے بخوبی کیا۔ اس کا آگے بیان آئیگا۔

مالوہ کو بادشاہ لشکر لئے جاتا تھا جب وہ دہول پور میں آیا۔ رانا اُدے سنگہ کا بیٹا سگت سنگہ شہنشاہ کی ہمراہ تھا۔ اس سے بادشاہ نے خطاب کر کے فرمایا کہ ہند کے اکثر زمیندار اور بزرگ ہماری آستانہ بوسی سے سرفراز ہوئے۔ مگر تمہارا رانا ہماری پائے بوسی کو نہیں آیا۔ اگر ہم ایلغار اسپر کریں تو ہماری خدمت تو کیا کریگا۔ بادشاہ نے یہ بات خوش طبعی سے اس سے کہی تھی کہ مالوہ کے فتنہ انداز غافل ہوں کہ بادشاہ کا قصد اور طرف ہے۔ مگر یہ راجہ کا لڑکا اس رمز کو نہیں سمجھا۔ بلکہ اسنے یہ جانا کہ حقیقت میں بادشاہ میرے باپ کو سزا دینے جاتا ہے۔ اسکو اپنی اس بدنامی کا خوف ہوا کہ لوگ کہینگے کہ وہ خود جاکر بادشاہ کو باپ پر چڑھا لایا ہے۔ ان توہموں کے سبب سے وہ بھاگ گیا۔ ہنسی کی پھنسی ہوئی۔ مغربی ہندوستان کے حصہ اعظم میں رانا اُدے سنگہ چتوڑ کا راجہ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ قدیمی راجہ تھا۔ وہ اپنے خاندان کا افتخار اور کوہستان محکم اور متین قلعے ملک و مال رجپوتوں کی سپاہ جاں نثار۔ غرض سارے سامان دنیا کے جن سے انسان کو نخوت ہوتی ہے رکھتا تھا۔ اس کا باپ رانا سنگا بابر سے لڑا تھا۔ اس نے اپنے غرور اور خودداری کے سبب سے یہ نہ جانا کہ اکبر کون ہے۔

اب بادشاہ نے رانا سے لڑنے کا ارادہ مصمم کیا۔ اواسط ربیع الاول ۹۷۵؁ کو وہ اس کام کے لئے چلا۔ اول ولایت ہندوارہ میں قلعہ سیوی پور میں آیا۔ یہ رانا کا قلعہ آگرہ سے ۱۲۰ میل کے فاصلہ پر جنوب مغرب میں میواڑ کے تھا۔ رنتھمبور کے رائے سرجن ہاڈا کی سپاہ کو کچھ

آدمی ہیں تھے۔ وہ پادشاہی لشکر کے قریب آتے سے بھاگ گئے۔ پادشاہ دو روز یہاں ٹھیرا اور یہاں کی نواح وحوالی سے آذوقہ کا سامان قلعہ میں فراہم کرکے نظر بہادر کو اسکی حراست سپرد کی۔ یہاں سے چھ کوس سفر کرکے وہ کوٹہ میں آیا۔ یہ بھی ان حدود میں ایک محکم جگہ تھی۔ یہ ولایت شاہ محمد قندہاری کو سپرد ہوئی۔ پھر وہ مالوہ کی سرحد پر گاگرون میں آیا۔ کوٹہ کی طرح یہاں بھی قیام کیا۔ یہاں سے لشکر بسرکردگی شہاب الدین احمد خاں مالوہ میں محمد سلطان مرزا کے بیٹوں کی بغاوت کے دور کرنے کے لئے بھیجا گیا۔ وہ پادشاہی لشکر کے آنے کی خبر سنکر اجین سے منڈو میں چلے گئے۔ جب یہاں بھی انکے کان میں پادشاہی لشکر کے نقاروں کی آواز آنے لگی تو ان مرزا کی جان نکل گئی۔ الہاقی مرزا گجرات میں چنگیز خاں پاس چلے گئے۔ اسکے ساتھ ہی پادشاہ نے آصف خاں اور اسکے بھائی وزیر خاں کو حکم دیا تھا کہ قلعہ مانڈل کو فتح کرے۔ وہ رانا کے مستحکم قلعوں میں سے تھا۔ اور راوت بلوی سولنگی یہاں قلعہ دار تھا۔ اسنے سخت مقابلہ کیا۔ مگر پادشاہی لشکر نے اُسے فتح کرلیا۔

شہنشاہ اکبر پاس تین چار ہزار سوار تھے کہ وہ چتوڑ کی طرف چلا کہ شاید رانا لشکر کی کمی کا خیال کرکے پہاڑوں میں سے میدان میں باہر آئے۔ اور اس کا کام آسانی سے تمام ہوجائے۔ مگر اودے سنگھ بہادر رانا سنگا کا نامرد وارث تھا۔ اس میں یہ کہاں جرأت تھی کہ وہ اپنی جان نثار سپاہ کے ساتھ آنکر اکبر کی برابر مرد میدان ہوتا۔ وہ جانتا تھا کہ پادشاہ پاس قلعہ گیری کا سامان اس قدر کم ہے کہ وہ قلعوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اس گمان سے قلعہ چتوڑ کو مستحکم کرکے چند سال کا آذوقہ وہاں جمع کیا۔ اور جیمل جو بہادر مرد تھا اور پتّا سسودیہ کو اسے حوالہ کیا اور پانچ ہزار راجپوت نامور ناموس پرست اس قلعہ میں متعین کئے اور اطراف ونواح کو ایسا ویران کیا کہ دشمنوں کو صحرا میں گھاس کا پتا بھی نہ ملے اور خود تنگنا اردلی پربت میں دور چلا گیا کہ عاقبت میں اس خوف سے رہی جو اسکے ملک پر چھا رہا ہے۔ پادشاہ نے یہ سوچا کہ رانا کے پیچھے پہاڑوں میں سرگردان پھرنے سے قلعہ چتوڑ کا فتح کرنا بہتر ہوگا۔

پنجشنبہ ۱۹ ربیع الاول ۹۷۵ھ کو اس نے قلعہ چتوڑ کے سامنے خیمے ڈالدیئے۔ اسی روز

[illegible] ۹۷۵

کالی گھٹاؤں نے پہاڑوں کو گھیر لیا - اور قلعہ پر تاریک نقاب ڈالی - عواصف ریاح کی شدت نے
اور بوارق و صواعق کے صدمات نے زمین و زماں کو متزلزل کیا - اور ابر اور رعد کے شور نے کون و مکان میں
جوش و خروش مچایا - یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان کے معاملات میں نیچر حصہ لینا چاہتا ہے - اور یہ شدید طوفان
آیندہ طوفان کا چربہ اتار رہا ہے - ایک سچا ہندو تو ان بادلوں کی گرج کا ترجمان یہ ہوگا کہ وہ اندر کی آواز
ہے اور یہ یقین کریگا کہ چتوڑ کا محافظ جو سورج ہے غصہ سے بول رہا ہے - اور رنج و الم کی پیشین گوئی کر
رہا ہے - غرض مسلمانوں کو باد و باران کے طوفان سے اذیت ہوئی - ایک گھنٹہ میں ہوا
صاف ہوئی تو قلعہ دور سے نظر پڑا - دوسرے روز پادشاہ نے پہاڑ کے گرد دورہ کیا
اور ارباب مساحت کو حکم دیا کہ وہ مساحت اور حساب صحیح کریں کہ اس کے موافق حملہ کی تیاری
اور سپاہ کی تقسیم ہو - دورہ کوہ دو کروہ اور مابین کوہ آمد و رفت خلائق کی راہ پانچ کردہ پیمائش
ہوئی - اس کی تسخیر کے لئے بخشیان عظام کو حکم ہوا کہ مورچوں کی تقسیم کریں - جو پادشاہ کی
ہمراہ سپاہ تھی اس نے اپنے مورچے جمائے - اور جو سپاہ نئی آتی جاتی تھی وہ جدا اپنے
مورچل بناتی تھی - اس طور سے ایک مہینے میں قلعہ کے تمام دور کو لشکر شاہی نے گھیر لیا - اسی زمانہ
میں بادشاہ نے اپنے امرا کو بھیجا کہ وہ پاس کے ملک کو تاخت و تاراج کریں اور اس حدود کے
سرکشوں کی تادیب و تنبیہ کریں - شہر رامپورہ کے لئے آصف خاں کو ایک جماعت لشکر کے ساتھ تعین
کیا - اس نے جاتے ہی تلوار کی کنجی سے فتح حاصل کی - لوگ بتاتے تھے کہ اودے پور و کوہلمیر (گوہیر)
کی طرف رانا ہے - اس لئے وہاں حسین قلی خاں کو روانہ کیا کہ رانا کو گرفتار کرے - حسین قلی خاں
شہر اودے پور میں جو رانا کی دار الایالت تھی آیا - یہاں کے گردن کشوں کو مار اور مارا - اور
جہاں رانا کے آدمیوں کے گروہوں کو دیکھا ان کو تہ تیغ کیا - اور بہت کچھ لوٹ کا مال حاصل کیا
اور رانا کی جستجو میں تگاپو کی مگر اوس کا پتا نہ پایا تو پادشاہ نے اوس کو اپنے پاس بلا لیا
اس عرصہ میں لشکر کے بہادر چتوڑ کے قلعہ پر حملہ آوری کرتے اور دلیری اور دلاوری کی
داد دیتے خاص کر عالم خاں و عادل خاں لیکن کچھ سود مند نہ ہوا - اہل زمین کا

ہاتھ آسمان پر کب پہنچا ہے کہ اس قلعہ پر انکی دسترس ہوئی۔ اکبر ہمیشہ تاکید کرکے تیز جلو بہادروں کو فرماتا کہ اس طرح کی تاخت کو شجاعت نہیں کہتے ہیں۔ بلکہ وہ تہور میں داخل ہے کہ ارباب دانش اس کو اعتدال سے باہر جانتے ہیں۔ اور اخلاق ذمیمہ میں سے گنتے ہیں۔ ان آدمیوں کو تہور نے ایسا مغلوب کر رکھا تھا کہ پادشاہ کی نصائح ہوش افزا کو نہ سنتے تھے اور ہمیشہ قلعہ کے گرد دوڑے جاتے تھے اور بہت سے مردان نبرد اپنے شجاعت کے چہرہ پر زخموں کا گلگونہ ملتے۔ اور اس انجمن مردآزمائی میں شہادت کا خوش مزہ جام پیتے۔ اسلئے کہ یہ صفدر جو تیر و تفنگ پھینکتے وہ برج و کنگرہ کے سطح کو چھیلتے ہوئے گذر جاتے اور کچھ کام نہ کرتے۔ اور اس طرف سے جو وہ آتے تو گھوڑوں اور آدمیوں کا کام تمام کرتے اس واسطے پادشاہ نے ان سب باتوں پر خیال کرکے حملہ کی نہایت مناسب تدبیر یہ سوچی کہ وہ اپنی تمام سعی اور کوشش کو تین مورچلوں پر جمع کرے۔ اول مورچل لاکھوٹہ کے دروازہ کے محاذی یہاں کا اہتمام اسنے خود کیا اور حسن خاں چغتا اور راجہ بیر داس قاضی علی بغدادی اور اختیار خاں فوجدار و کبیر خاں کو اپنے ساتھ شریک کیا۔ اس طرف خارا تراش نقابوں نے نقب لگانے میں بازوئے ہمت کو قوی کیا۔ دوسرا مورچل شجاعت خاں راجہ ٹوڈرمل و قاسم خاں میر بر و بحر کو سپرد ہوا اس مورچل میں ایک تیر کے فاصلے سے عین بارش میں کمر کوہ سے جس کے تلعہ پر قلعہ تھا ساباط کی بنیاد رکھی گئی۔ مورچل سوم کا اہتمام خواجہ عبد المجید آصف خاں و وزیر خاں اور اور ونکو سپرد ہوا۔ بڑی بڑی توپوں کو اپنی جگہ سے یہاں لانے میں کام کو طول ہوتا تھا۔ اس لئے پادشاہ نے خود یہیں اپنے سامنے توپیں ڈھلوائیں۔ مگر انہوں نے کچھ کام نہ دیا۔ پادشاہ کے پاس ایک دیگ بزرگ (بڑی توپ) آئی جو آدھ من (۱۵ سیر) کا گولہ پھینکتی تھی۔

جب اہل قلعہ کو اس حال پر جوانکے وہم و خیال میں نہیں گذرتا تھا اطلاع ہوئی تو ہوش اُڑے کہ روز بروز اُنکے استیصال کا سامان زیادہ ہوتا جاتا ہے ناچار حیلہ و تزویر کے درپے ہوئے ایک دفعہ سانڈا سلحدار کو اور دوسری دفعہ صاحب خاں کو بھیجا کہ پادشاہ سے عرض کریں کہ وہ پادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں اور ہر سال پیشکش دینے کا اقرار کرتے ہیں۔ بعض اولیا دولت نے

اس سخن کو تحسین جان کر عرض کیا کہ اس قرارداد پر اس شغل کو چھوڑنا عین صلاح ہی۔ لیکن سلطنت کی غیرت نے اس بات کو نہ مانا۔ اور بادشاہ نے فرمایا کہ خلاصی جب ہی ان کو ہو گی کہ رانا اپنے تئیں حوالہ کرے بادشاہی آدمی ایسے بہ تنگ ہو رہے تھے کہ اس مہلکہ سے نکلنے میں کوشش کرتے تھے مگر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوتا تھا۔

فتح کے یقینی حاصل کرنے کے لئے اور اپنی سپاہ کے جان بچانے کے لئے بادشاہ نے ساباط بنانے کا حکم دیا۔ یہ ساباط بچپار سلامت کوچے تھے جو قلعہ سے ایک تیر انداز کے فاصلہ سے شروع ہوئے تھے اور وہ دو دیواروں کے بیچ میں تھی۔ اور یہ دیواریں اٹھا کر قلعہ کے قریب اسطرح لیگئے تھے کہ ٹوکری کی بناوٹ کے بڑے بڑے بیلن یعنی اسطوانہ کی شکل اندر سے خالی بنائے تھے اور انکے اندر مٹی بھری تھی۔ انہیں باہر سے بھینس کی کھالوں سے منڈھا تھا۔ اور بیلدار انکو اپنی سپر متحرک بناتے تھے۔ اور انکو آگے آگے گرمنگا کر لیجاتے تھے اور انکی آڑ میں اپنا کام بناتے تھے۔ جب وہ قلعہ کی دیوار کے نیچے پہنچے تو وہاں کوٹھیاں ڈالیں اور سیڑھیاں بنا کے زمین کے اندر نقبیں لگائیں جن میں باروت بھری گئی اور بیروہ اڑائی گئیں۔ ان کاموں کے کرنے میں وقت اور روپیہ بہت صرف ہوا۔ باوجود احتیاطوں کے جانیں بہت تلف ہوئیں پانچ ہزار گل کار و نجار و سنگتراش و آہنگر و نقاب رات دن کام کرتے تھے۔ ان میں سے بحساب اوسط ہر روز سو دو سو آدمیوں کو اہل قلعہ کے چابکدست توپچی اڑا دیتے تھے۔ یہ سب کاریگر اپنی خوشی سے آتے تھے۔ بادشاہ نے ان کو بیگاریں پکڑنے کی ممانعت کر دی تھی۔ اور اس کام کے عملہ فعلہ کو انعام دینے میں بادشاہ نے روپیہ کو ٹھیکری کر دیا تھا۔ اس لئے اس خطرناک کام میں جو کاریگر مارے جاتے تھے ان کی جگہ اور آجاتے تھے۔ اور ساباط آگے بڑھتے چلے جاتے تھے مردوں پر کچھ خیال نہیں کیا جاتا تھا ان کے جسم اینٹوں کی جگہ دیواروں میں چنے جاتے تھے۔ غرض باوجود ان سب موانع کے کام بہت ہوتا تھا۔ بادشاہ کے مورچل خاص سے جو ساباط بنا تھا وہ ایسا وسیع تھا کہ دس سوار برابر برابر اوس کے اندر چلے جاتے تھے اور بلند ایسا تھا کہ فیل نشین نیزہ کو ہاتھ میں لیکر اوس کے نیچے چلا جاتا تھا۔ ان تیاریوں

تین ہفتے صرف ہوئے۔ قلعہ کو دو جگہ سے مجوف کیا تھا۔ ایک مجوفہ میں ایک سو بیس من بارود۔ اور
دوسرے مجوفہ میں اسی من بارود بھری تھی۔ بادشاہ نے حکم دیدیا تھا کہ سپاہی مسلح و مکمل مترصد رہیں کہ سرنگ
کے اُڑتے ہی جب دیوار پھٹے تو وہ اس میں سے قلعہ کے اندر جاکر متصرف ہوں۔ اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہر
نقب میں جدا جدا فتیلے لگائے جائیں اور الگ الگ اُڑائی جائیں۔ لیکن کبیر خاں نے جو اس کام کا مہتمم
تھا ایسی تدبیر کی کہ دونو ایک ہی دفعہ ایک شتابہ سے اُڑائی جائیں نتیجہ سے یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ کی رائے
درست تھی۔ چہارشنبہ ۱۵۔ جمادی الاخری ۹۷۵ھ کو بارود میں آگ لگائی گئی۔ ایک برج بیخ بنیاد سے اکھڑ اڑا
اُس پر جو مخالف کی سپاہ لڑ رہی تھی اُس کو ہوا میں لے اُڑا۔ اور اس کو پراگندہ و پریشان کر دیا۔ دیوار کے
پھٹتے ہی اُس پر بادشاہ کی سپاہ بے تخمین و ملاحظہ چڑھ گئی کہ قلعہ کے اندر جائے۔ کہ ناگاہ دوسرا مجوفہ اُڑا
اس سے وہ لشکر جو قلعہ کے اندر گھسنے کو تھا۔ اور دشمنوں کا وہ گروہ جو اسکی مدافعت کے لئے آیا تھا
دونو اُڑ گئے۔ جسموں سے ان کی جانیں جدا ہوئیں۔ ان کے اعضا کی پیوستگی میں گسستگی آئی۔ سنگ
در سنگوں پر جا کر گرے۔ پچاس کوس کے گرد میں اسکی مہیب آواز گئی۔ جس سے لوگوں کو تعجب ہوا
یہ خطا اس سبب سے ہوئی کہ ان دونوں مجوف جاؤں میں فتیلہ کو ایک ہی جگہ سے روشن کیا تھا
ایک جلد بارود میں جا لگا۔ اور دوسرا دیر میں پہنچا۔ چاہئے یہ تھا جیسا کہ بادشاہ نے ارشاد کیا
تھا۔ کہ جدا جدا شتابے لگا کے الگ الگ سرنگیں اڑائی جائیں۔ بادشاہی دو سو آدمی مرے۔
جن میں سے بیس بادشاہ شناس تھے۔ سید جمال الدین پسر سید احمد سادات بارہ۔ میرک بہادر نوجوان
محمد صالح پسر میرک خاں کولابی اور بعض اور نامور کام آئے۔ دو ماہ کوہ میں چالیس آدمی عافیت
کے لئے بیٹھے۔ ان پر قلعہ کے اینٹ پتھر ایسے گرے کہ وہ مرے کے مرے رہ گئے۔ دشمنوں کے
بھی چالیس آدمی مرے۔ جب بادشاہی بہادروں کو یہ حال معلوم ہوا تو وہ اہل قلعہ سے لڑنے
لگے اہل قلعہ بھی ایک طرف لڑنے میں جان لڑاتے اور دوسری طرف اپنی شکستہ دیوار کی مرمت کرتے
تھوڑے عرصہ میں انہوں نے اپنی دیوار پہلی سی عریض و بلند بنالی۔ اُس روز آصف خاں
مورچل کی سرنگ میں شتابہ لگایا گیا۔ مگر وہ خوب نہیں اُڑی۔ مخالفوں کے صرف تیس آدمی

اس سے مرے۔ پادشاہی لشکر کو اگرچہ کوئی آسیب نہیں پہنچا۔ مگر اس نے کچھ کام بھی نہیں کیا۔ ان
سرنگوں کے اڑنے نے پادشاہ کے لشکر کی شماتت اہل قلعہ سے کرائی اور انکی تحوت بڑہائی۔ مگر پادشاہ کی
توجہ پیشتر سے بیشتر ہوئی۔ پادشاہ نے لشکر کو سمجھایا کہ تیز دستی ایسے کاموں میں کچھ کام نہیں کرتی صبر
سے کام کو سرانجام دینا چاہیے۔ پادشاہ سامان کو قلعہ گیری کی بہتر روش جانتا تھا۔ ایکے انتظام میں اہتمام
زیادہ کرتا تھا۔ بارہا وہ ساباط میں قلعہ کے نزدیک جاتا اور بندوق اندازی کرتا۔ ایک دن وہ حصار کے
گرد پھرتا تھا۔ مورچل لاکھوٹہ کے نزدیک آیا۔ پادشاہی لشکر پناہیں بناکر لوازم محاصرہ کی تقدیم کرتے تھے۔
ایک دیوار کی پناہ میں پادشاہ کھڑا ہوا اور دیوار کے روزن میں سے بندوق اندازی کرنے لگا۔ قلعہ میں
ایک قدر انداز کم خطا ایسا تھا کہ اہل لشکر نے اسکی شکایت پادشاہ سے کی کہ اس نے مورچل میں
ایک آفت مچا رکھی ہے کہ ناگاہ اسی بندوقچی نے جلال خاں کے سر کو تاک کر بندوق لگائی
گولی اس کے کان میں لگتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ بڑا آسیب نہیں پہنچا۔ پادشاہ نے کہا کہ جلال خاں وہ
قدر انداز مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر وہ دکھائی دے تو تیرا انتقام لوں۔ اب جلدی میں اس بندوقچی
کی بندوق سے انتقام لیتا ہوں۔ یہ کہ کر اس نے اپنی بندوق اس کی بندوق کی طرف ماری
اس کی گولی روزن سے نکلکر بندوقچی کے ایسی لگی کہ وہ مرگیا۔ اس وقت تو یقین نہیں ہوا کہ بندوق
اس بندوقچی کے لگی۔ مگر اسکی بندوق کے نیچے ہونے سے یہ قیاس اسپر ہوتا تھا۔ مگر احوال تحقیق کرنے سے
معلوم ہوا کہ اس بندوقچی کا نام اسمٰعیل تھا اور وہ پادشاہ کی اس گولی سے مرگیا۔ اسی طرح
اہل حصار کے نامدار پادشاہ کی گولیوں سے فنا ہوتے تھے۔ چیتوڑ میں ایک پہاڑی قلعہ کے نزدیک ہے
اس کی جانب کے مورچل پر پادشاہ گیا۔ تمام کاروں میں خود اہتمام کرتا تھا۔ وہاں گولے
گولیاں آتے تھے وہ کچھ پروا نہ کرتا تھا۔ الا آہستہ آہستہ وہاں جاتا تھا کہ ایک گولہ بیا
آن کر پڑا کہ بیس آدمی اس سے مرگئے۔ ایک دن خان عالم انکے پاس کھڑا تھا کہ ایک گولی
آن کر اس کو لگی۔ اس کے جیبہ سے گذر کر نیچے کے کپڑوں میں آئی اور پسینے سے ٹھنڈی ہوگئی۔ ایسی
ہی مظفر خاں کے ایک بندوق لگی اور خیر رہی۔ یہ سب باتیں لوگ پادشاہ کے قدموں کی

برکت کے سبب سے سمجھتے تھی۔ بہمت شاہنشاہی سے راجہ ٹوڈرمل اور قاسم خاں میر بحر و بر نے مورچل کے کام کو بہت اچھی طرح انجام دیا۔ ساباط کے اوپر منازل موافق و لکشا بنائے گئے۔ ان کے تمام ہونے سے پہلے دو رات اور ایک دن پادشاہ یہاں اہتمام کرتا رہا۔ اسکی سپاہ نے قلعہ کتانی پر دل لگا رکھا تھا۔ اور قلعہ کی دیوار کو وہ ویران کرتے تھے۔ دشمن بھی خوب لڑتے تھے۔ اور پادشاہ خود بندوق اندازی کی داد دیتا تھا اور سطح ساباط کے نشیمن میں مقام کرکے اپنے پردلیروں اور زنجیر گسل شیروں کا تماشا دیکھتا تھا۔ ان ایک دن دو رات میں اسکی سپاہ لڑنے میں ایسی مصروف رہی کہ خواب و خور کا خیال کچھ نہیں کیا ۲۵ شعبان صبح سہ شنبہ کو یہ قلعہ مفتوح ہوا اس سانحہ کی شرح یہ ہے کہ شب گذشتہ سے قلعہ کے اطراف و جوانب سے لشکر نے ہجوم کرکے جنگ شروع کی۔ اور کئی جگہ دیوار میں رخنہ ڈال دیا۔ ساباط کے نزدیک پادشاہی سپاہ نے پیشدستی کرکے قلعہ کی دیوار استوار کو بہت گرا دیا اور جانفشانی اور جانستانی کی داد دی۔ آدھی رات گئی ہوگی کہ اہل قلعہ شگاف دیوار میں ہجوم کرکے ایک طرف جان کو فدا کرتے تھے اور دوسری طرف کرپاس و پنبہ و روغن و ہیزم سے اس لئے پر کرتے تھے کہ اگر پادشاہی سپاہ اسمیں آئے تو اسمیں آگ لگا کر کسی کو نہ آنے دیں۔ اسی اثنا میں پادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص جیبہ ہزار میخی جو سرداری کی نشانی ہے پہنے ہوئے اس شگاف گاہ میں آن کر اہتمام کر رہا ہے مگر معلوم نہ ہوا کہ کون ہے۔ پادشاہ نے اپنی خاص بندوق سنگ ام کو لیکر اس کی طرف چھوڑا۔ شجاعت خاں اور راجہ بھگونت داس سے کہا کہ میں سادی و بسکی کے سبب جو شکار کرنے کے وقت ظہور میں آئی ہے یقین کرتا ہوں کہ میری گولی اس آدمی کے لگی ہوگی۔ خانجہاں نے کہا کہ یہ شخص ہر رات کو آنکر اہتمام کرتا ہے اگر پھر وہ نہ آئے تو غالباً اس آدمی کو بندوق لگی ہوگی۔ اس واقعہ پر ایک ساعت گذری تھی کہ جبار قلی دیوانہ خبر لایا کہ اس شگافگاہ میں مخالفوں میں سے کوئی باقی نہیں رہا اسی حال میں قلعہ کے اندر کئی جگہ آگ لگی ہوئی نظر آئی۔ امرا شاہی اس پر خیال کر رہے تھے کہ راجہ بھگونت نے اس نے معروض کیا کہ یہ آتش جوہر (جیوہر) ہے کہ ہندوستان کی رسم ہے کہ جب ایسی حالت پیش آتی ہے تو صندل عود وغیرہ کا خرمن اپنی مکنت کے موافق جمع کرتے ہیں اور طرح طرح کی خشک لکڑیاں اور روغن مہیا کرتے ہیں۔ حکم بردار سنگدل معتمدوں کو عورات پر متعین کرتے ہیں۔ جسوقت شکست متیقن ہوتی ہے اور درد

مارے جاتے ہیں۔ تو یہ سنگدل ان بے گناہ عورتوں کو آتشکدہ کی آگ میں ڈال کر خاکستر کرتے ہیں (فارسی میں اسکو جوہر کہتے ہیں۔ اور حقیقت میں وہ جیو ہر ہے یعنی جانوں کا کھونے والا) تحقیق ہو گیا کہ پادشاہ کی بندوق نے شیر دل جیمل کو ہلاک کیا۔ جس سے قلعہ کا کام تمام ہوا۔ یہ آگ بھی جوہر کی تھی۔ قوم سیسو یہ خاصان رانا کے خانہ پتا میں۔ اور راٹھوروں کے گھر میں۔ اور چوہانوں کے گھر میں ایسر داس کے اہتمام سے یہ جوہر ہوئے۔ تین سو عورتیں ان میں جلیں۔

جیمل کے مرنے سے ہر راجپوت بیدل ہو گیا۔ جب اسکی لاش شہر کو چلی تو سب پر مایوسی چھا گئی۔ قلعہ کی دیوار پر کوئی نہ ٹھیرا۔ جب عورتیں جل چکیں تو مردوں نے زعفرانی لباس پہنا اور پان کا بیڑا کھایا کہ اب لڑکر مرنا چاہئے جب صبح ہوئی تو اکبر شہنشاہ نے حکم قلعہ کے اندر جانے کا دیا اور آسمان شکوہ ہاتھی پر بیٹھا اور اپنی سپاہ کو قلعہ کے اندر لیگیا۔ کئی ہزار پیادے ہمراہ تھے جنگی ہاتھیوں نے بڑے بڑے کام کئے۔ اول فتح میں پچاس ہاتھی اور آخر میں تین سو ہاتھیوں نے قلعہ کے اندر دشمنوں کو پامال کیا۔ یوں تو ہر جگہ کشتوں کے پشتے لگے۔ مگر ان تین مقاموں پر بڑی خونریزی ہوئی رانا کے محل پر۔ مہادیو کے مندر پر۔ اور رامپور کے دروازہ پر۔ قلعہ کے ہر محلہ پر حملہ ہوا۔ ہر قدم پر خونریزی ہوئی۔ ہر بازار و گلی دہر گھر ایک قلعہ تھا جسکو حملہ کر کے لیا۔ رات کے پچھلے پہر سے دن کے دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی۔ راجپوت شیروں کی طرح لڑے۔ سورداس چوہان نے ایک ہاتھی کا دانت اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے جمدہر مارا اور کہا کہ یہ میرا مجرا پادشاہ سے کہدینا۔ جب پادشاہ گوبند سیام کے مندر پاس آیا تو جسم لرزاں ایک لڑکے کا جسکا نام پتا تھا۔ ہاتھی کے پانوں تلے کچلا گیا۔ اگرچہ اس لڑکے کی عمر سولہ برس کی تھی۔ مگر وہ سورج دروازہ کا محافظ تھا۔ اس نے بڑے بڑے بہادری کے کام کئے۔

نو رانیاں پانچ ان کی لڑکیاں۔ دو چھوٹے لڑکے اور سپہ سالاروں و بڑی بڑی راجپوتوں کی بیویاں جوہر میں جلیں۔ اور اس قلعہ میں آٹھ ہزار جنگ جو راجپوت تھے۔ رعایا جو اس لڑائی میں انکے ساتھ یکتائی اور خدمت گذاری میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتی تھی۔ چالیس ہزار یا تیس ہزار سے زیادہ تھی۔ یہ قلعہ پہلے ۱۰ محرم سنہ ۷۰۳ کو سلطان علاؤالدین نے چھ ماہ سات روز میں فتح کیا تھا۔ سلطان بھی رعایا لڑی

نہ تھی اس لئے اس کو امن دیا گیا تھا۔ مگر بادشاہی لشکر سے وہ خوب کلہ بہ کلہ لڑی۔ اس لئے قتل عام کا حکم ہوا اور ایک جماعت کثیر ابتر ہوئی۔

ہم قلعہ چیتوڑ کے بیان جس طرح سے رجپوت بیان کرتے ہیں ہم آگے لکھینگے جس سے معلوم ہو کہ سلطان علاء الدین و شہنشاہ اکبر کی آئین فتح میں کیا کیا کارنمایاں کئے۔ زمانہ دراز سے یہ قلعہ میواڑ میں اپنی متانت میں مشہور ہے۔ اور تاریخ و افسانہ دونوں اسکی متانت اور استواری کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مسافر بوندی سے جنوب مغرب کو پھرتی دفعہ ندی بناس کی پیچ پھیریوں میں پھرتا ہوا اور بہت سے قلعوں کے ڈھیر دیکھتا ہوا ایک میز نما کتل پر پہنچیگا جو دریائے بناس کے شرقی کنارہ پر کھڑا ہوا ہے۔ اسکو کتل چیتوڑ کہتے ہیں وہ ایک دائرہ کی شکل کا ہے جسکا محیط تین میل ہے۔ وہ ایک بڑا کتل ہے جسکو ٹائٹن نے اپنے ہاتھوں سے پہاڑ سے کھینچ لیا ہے۔ اسکا ارتفاع ۵۰۰ فیٹ ہے اور اسکا محیط قاعدہ پر قریب آٹھ میل کے ہے۔ اسکو سب طرف سے خوفناک ڈھلان اور دندانہ دار کنگرے حفاظت کرتے ہیں۔ صرف اس کے جنوبی رُخ پر آدمی چڑھ سکتا ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر قلعہ کا حصار ہے جسکی جابجا نیچر خود حفاظت کرتا ہے اور اس کے ضعیف مقامات جنوب میں ہیں جن کو قلعہ بنانیوالوں نے نیچر سے بھی زیادہ دہشت ناک متین کر دیا ہے۔ حصاروں کی دوہری فصلیں ہیں جس کے باہر کی فصیل بلندی کوہ کے کنارہ پر ہے۔ اول تو پہاڑ خود فصیل بنا ہوا ہے جسمیں آدمی کا گذر نہ ہو سکتا ہے اور پھر اس میں جہاں پانی کے چشمے یا کسی اور طرح کی بستی ہے۔ وہاں بڑی بڑی اونچی دیواریں بنائی ہیں اور ان پر برج اور کنگورے بنائے ہیں۔ جنوبی سرے پر تنگ نصف چاند کی شکل کی پہاڑی ہے۔ جس کو چیتوڑی کہتے ہیں وہ قلعہ سے ۱۵۰ گز سے زیادہ فاصلہ پر نہ ہوگی وہ چیتوڑ سے ملی ہوئی ہے لیکن اس سے نیچی ہے اسکو دانائی کے ساتھ قلعہ کے عالم سے باہر کیا ہے مگر یہ ایک ضعیف مقام ہے جس سے حملہ آوروں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ اسکے ہمسایہ میں قلعہ کی بلندی پر ایک زینہ پہاڑ میں کٹا ہوا بنا ہے جو اول شمال کی طرف جاتا ہے اور پیچدار ہو کر اوپر جاتا ہے جس میں متواتر سات دروازے آتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں گذرنا پڑتا ہے تب اس کی بلندی پر رسائی ہوتی ہے۔ رام پول اور رامپور دروازے سب سے زیادہ اونچے ہیں

کہان رس ہیں (یہ ایک کتاب ہے جسمیں رانا کہان کی داستان لکھی ہے) لکھا ہے کہ میواڑ کے
چوراسی مضبوط قلعوں میں چترکوٹ (چتوڑ) کا قلعہ اسب سے زیادہ مستحکم و متین ہے۔ وہ زمین کے
سطح مسطح سے اوپر نکلا ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین نے اپنی پیشانی پر قشقہ لگایا ہے
کسی دشمن کا ہاتھ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ وہاں کے رئیس کو خوف کا خیال دل میں آتا ہے
اس کی چوٹی پر سے گنگا بہتی ہے۔ اس کی بلندی پر چلنے کے راستے ایسے پیدا ہیں کہ اگر تم وہاں
کسی طرح پہنچ بھی جاؤ تو پھر وہاں سے آنے کی امید نہیں۔ پہاڑ پر برج اسکی حفاظت کے لئے بنے
ہوئے ہیں۔ ان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کبھی خواب میں بھی خوف سے نہیں چونکتے۔ اسکے کوٹھار میں
غلے بھرے ہوئے ہیں۔ اسکے تالاب حوض اور کنوئیں بھرے اور چھلکتے رہتے ہیں۔ رام چندر
یہاں خود آنکر بارہ برس رہے ہیں۔ یہاں چوراسی بازار ہیں۔ لڑکوں کے لئے مدارس
ہر قسم کے علم کی تعلیم کے لئے بنے ہوئے ہیں۔ تو تم نیدر کی بت منشی ہیں۔ اور اٹھارہ قسم کے
اہل حرفہ رہتے ہیں۔ پھر اس کتاب میں قلعہ کے اندر اور گرد کے ہر ایک درخت اور جھاڑی
اور پھول کا حال لکھا ہے۔ سب اقوام کے راجہ گہیلوت میں سوار اور پیادے بکثرت ان کی ہمراہ
ہیں اور راجپوتوں کی کل چھتیس قومیں ان کی باجگذار ہیں۔ وہ چھتیس کلیان سنگھار ہیں
ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ پادشاہ کو اس قلعہ کے قدر انداز دکھ خطا بزر و قچیونکی تلاش تھی
وہ اس طرح قلعہ سے نکل گئے کہ پادشاہی لشکر تو لوٹ میں مصروف تھا۔ اونہوں نے بیوی
بچوں کو اسیروں کی طرح مقید کیا۔ ان کی مشکیں باندہیں۔ اور بیچ میں رکھا اور باہر وہ ہر اُدہر پہرہ دیتے
تھے گویا یہ معلوم ہوتا تھا کہ پادشاہی پیادے قیدیوں کو لئے جاتے ہیں اس تدبیر سے ہزار بندوقچی
باہر چلے گئے۔ غرض یہ قلعہ ۲۵ شعبان ۹۷۵ھ کو فتح ہوگیا۔ اور یہاں پادشاہ نے قیام کیا۔ ۱۱ شنبہ
۲۹ شعبان کو نقارہ مراجعت بلند آوازہ ہوا۔ خواجہ عبد المجید آصف خاں کو ساری سرکار مرحمت
ہوئی۔ رانا نے اپنے تئیں حوالہ نہیں کیا۔ وہ کچھ دنوں چھپا رہا اور سب آفتوں سے بچا رہا۔ اس کے
پاس دو قلعے رنتنبھور اور کالنجر تھے۔ جنکی فتح کا ذکر آگے آتا ہے۔

[illegible]

جب قلعہ کے فتح کرنے کا پادشاہ نے ارادہ کیا تھا تو اوس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر فتح ہوگی تو میں پیادہ پا خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہٗ کے روضہ کی زیارت کو اجمیر میں جاؤنگا۔ جب یہ فتح ہوئی تو اس نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ سوار آئے ہیں خود پیادہ پا جاؤنگا۔ لوئیں چلتی تھیں۔ ریت اُڑتی تھی اس میں وہ ۲۹۔ شعبان ۹۷۵ھ کو پیادہ پا چلدیا۔ مگر جب اطرافِ قصبہ ماندل میں آیا تو شگوفہ قراول جو پہلے اجمیر روانہ کیا تھا وہاں سے واپس آیا اس نے عرض کیا کہ حضرت خواجہ نے خواب میں آنکر پیادہ پا آنے سے منع کیا ہے کہ اس سے آپکو تکلیف و شرمندگی ہوتی ہے۔ تو وہ سوار ہوا۔ اور جب اجمیر ایک منزل رہا تو پھر پیادہ پا چلا۔ اور ۷۔ رمضان ۹۷۵ھ کو روضہ کی زیارت کی اور دس روز قیام کیا۔ پھر اجمیر سے راہ میں شکار کھیلتا ہوا۔ ۱۵۔ شوال ۹۷۵ھ کو آگرہ میں داخل ہوا۔

پادشاہ کا پیادہ پا اجمیر جانا ۹۷۵ھ

جب پادشاہ قلعہ چیتوڑ کو فتح کرکے آگرہ میں آیا تو اس نے قلعہ رنتھنبور کی فتح کا ارادہ کیا یہ قلعہ اجمیر سے ۷۵ میل ہے۔ اور وہ سردار اور فوج شاہی جو قلعہ چیتوڑ کو نہیں گئی تھی وہ اس قلعہ کے فتح کرنے کے لئے بسرکردگی اشرف خاں روانہ کئے یہ لشکر تھوڑی دور چلا تھا کہ یہ خبر آئی کہ ابراہیم حسین مرزا اور محمد حسین مرزا گجرات سے شکست پاکر مالوہ میں آئے ہیں اور اجین کو لے لیا ہے۔ .... اس لئے پادشاہ نے اس لشکر کو مرزاؤں کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا جسکا حال ہم آیندہ لکھینگے۔ یوں اس قلعہ کی تسخیر کے لئے سپاہ کی روانگی میں توقف ہوا۔

محاصرۂ قلعہ رنتھنبور کی فتح ۹۷۶ھ

پادشاہ دوشنبہ غرہ رجب ۹۷۶ھ کو حصار رنتھنبور کی فتح کو دہلی سے روانہ ہوا اور سہ شنبہ ۲۱۔ شعبان کو قلعہ کے میدان میں آیا۔ یہ قلعہ کوہستان کے درمیان واقع ہے اس سبب سے اور قلعوں کو برہنہ کہتے ہیں اور اسکو خوش پوش۔ اور اس قلعہ کا اصل نام رن تنہ پوری ہے رن ایک بلند کوہچہ ہے جو قلعہ کا سرکوب ہے۔ قلعہ اس کے نیچے واقعہ ہے اس لئے اسکو رن تہ پور یعنی ایسا شہر کہ کوہ رن کے نیچے واقع ہے۔ وہ بہت بلند اور مستحکم ہے۔ ان دنوں میں رائے سرجن اس قلعہ پر تسلط رکھتا تھا۔ اس نے سب طرح کے سامان سے اسکو تیار کیا۔ اور اول ہی سے لڑائی کا ارادہ کیا تھا۔ پادشاہ نے اس قلعہ کے گرد پہاڑوں کو دیکھ بھال کر گرداگرد مورچے بنائے

اور ایسا محاصرہ کیا کہ اہل قلعہ کسی طرح آجا نہیں سکتے تھے۔ اہل قلعہ توپ اندازی اور آتشباری میں گرم ہوئے۔ بادشاہ نے ساباط کہ دشمنوں کے سرکوب ہوں بنائے۔ قاسم خاں میر بر و بحر و راجہ ٹوڈرمل نے اس کام کا اہتمام نہایت خوبی و شتابی سے کیا درّہ رن میں چابکدست معماروں اور سخت بازو خارا تراشوں اور آہنگروں اور نجاروں اور جملہ فعلہ عمارت نے ایک ایسا ساباط بنایا کہ وہ حصار کی بلندی کا دست و گریبان ہوا۔ ایسی بڑی بڑی توپیں کہ جنکو دو سو جوڑیاں بیلوں کی کھینچتی تھیں۔ ہزار جر ثقیل سے بڑی مشکل سے ان پہاڑوں کی نشیب فراز اور مار پیچ راہوں میں آہنین بازو کہاروں اور سنگین دوش حمالوں نے کوہچہ رن پر چڑھائیں۔ وہ توپیں قلعہ ڈھانے کے لیے چلائیں گئیں جنکی گونج پہاڑوں کے اندر کانوں کے پردے پھاڑتی تھی جن کے گولے ہر دفعہ دیوار میں ایک رخنہ ڈالتے رہتے تھے۔ غرض اس آتش زنی سے سورجن رائی کی آتش پندار ٹھنڈی ہوئی۔ اُسنے محاصرہ کی یہ کیفیت دیکھکر بادشاہ کی خدمت میں اپنے دو بیٹے اودی سنگھ دبھوج سنگھ بھیجے۔ اُنھوں نے باپ کا جرم بادشاہ سے معاف کرایا۔ بادشاہ نے حسین قلیخاں کو سورجن سنگھ کے پاس بھیجدیا۔ وہ اس کو سہ شنبہ سوم شوال کو قلعہ سے بادشاہ پاس لایا۔ اسنے قلعہ کی چاندی سونے کی کنجیاں بادشاہ کی نذر کیں۔ اور تین روز کی اجازت مانگی کہ میں اپنا اسباب مال قلعہ سے باہر نکالکر قلعہ کو بندگان حضور کو سپرد کرونگا۔ بادشاہ نے اُسے اجازت دیدی اور اُسنے تین روز بعد اپنا اسباب مال نکالکر قلعہ کو مع انباروں اور جمیع آلات و ادوات قلعہ داری کے بادشاہ کے حکم سے مہتر خاں کو حوالہ کیا جس قلعہ کو سلطان علاء الدین نے ایکسال میں فتح کیا تھا۔ بادشاہ نے ایک مہینہ میں فتح کر لیا۔ بادشاہ اجمیر میں درگاہ کی زیارت کر کے چہارشنبہ ۲۴ ذی قعدہ کو دارالخلافہ آگرہ میں آگیا

یہ قلعہ کالنجر وہی ہے جسکی تسخیر میں شیر شاہ کی جان گئی تھی۔ وہ پہاڑ پر نہایت بلند و مضبوط قلعہ ہے۔ اس قلعہ پر راجہ رامچندر والی ولایت پٹہ متصرف تھا۔ جب افغانوں کا ادبار آیا تو اُس نے قلعہ کو بجلی خاں پسر خواندہ بہار خاں سے نہایت گراں قیمت نقد دیکر خریدا تھا اور اُس پر اپنا قبضہ و تسلط جمایا تھا۔ جن دنوں میں بادشاہ قلعہ رنتنبھور کی فتح کو گیا تھا تو اس نے

مجنون خاں قاقشال اور شاہم خاں جلائر کو اور امراء کو جو شرقی سمت میں جاگیریں رکھتے تھے حکم دیا تھا کہ قلعہ کالنجر کو فتح کریں۔ ان بادشاہی امرا نے جاکر اسکا محاصرہ کیا اور کسی اہل قلعہ کو باہر نکلنے کے لیے جائے باقی نہیں رکھی۔ قلعہ چتوڑ اور رنتھنبور کی فتح کی شہرت نے یہاں اہل قلعہ کا دل سرد کیا۔ راجہ رامچند نے امان طلب کی اور قلعہ بادشاہی ملازموں کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ پاس اس فتح کی خبر آگرہ میں چہارشنبہ ۲۹ ذی القعدہ ۹۷۷ھ میں آئی۔ مجنون خاں قاقشال کو یہاں کی قلعہ داری مرحمت ہوئی۔

فتح گجرات اور محمد سلطان کے فرزندوں کی بغاوت

ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ محمد سلطان کے فرزندوں نے بغاوت اختیار کی اور مالوہ میں جاکر اپنے پاؤں جمائے۔ اور جب لشکر شاہی مالوہ میں آیا تو وہ گجرات میں بھاگ گئے۔ سلطان محمود کی شہادت کے بعد اس کا غلام چنگیز خاں قلعہ جانپانیر و سورت و بروج پر مسلط ہو گیا تھا۔ اور اس وقت وہ احمد آباد پر قبضہ کرنے کا قصد رکھتا تھا۔ ایسے وقت میں مرزاؤں کے آنے کو مغتنم سمجھا۔ اور خوب جمعیت لیکر احمد آباد پر چڑھا۔ حوالی شہر میں معرکہ نبرد گرم ہوا۔ اور اعتماد خاں کو شکست دیکر احمد آباد پر متصرف ہوا وہی یہاں کا حکمراں ہوا۔ مرزاؤں نے اس پیکار میں کارہائے نمایاں دکھائے تھے چنگیز خاں نے اُن پر مہربانی کرکے حوالی بروچ میں انکو جاگیریں دیدی تھیں۔ مگر یہ جاگیریں ان شاہزادوں کی شاہ خرچی کے لیے کافی نہ تھیں۔ اسلیے اُنھوں نے چنگیز خاں کی اجازت بغیر اوروں کی جاگیر پر بھی قبضہ کرنا شروع کیا اور ناحق کے حق اپنے جتانے اور شیخیاں بگھارنی شروع کیں۔ چنگیز خاں نے اُن کے رفع کرنے کے لیے لشکر بھیجا۔ اس سے تاب مقابلہ نہ لاسکے۔ خاندیس میں بھاگے وہاں بھی دنگا و فساد کرکے اُجین میں مالوہ کے قصد سے آئے۔ مراد خاں جاگیردار اُجین اور مرزا عزیز اللہ دیوان سرکار مالوہ کو دور سے پہلے اہل فتنہ کا حال معلوم ہو گیا تھا اُنھوں نے قلعہ اُجین کی تاسیس و تعمیر کرلی تھی۔ جب بادشاہ کو اس فتنہ و فساد کی خبر آئی تو قلعہ

رنتھنبور کی تسخیر کے لیے جو سپاہ جاتی تھی اُسکو مالوہ میں بھیجکر اس فتنہ کا دفع کرنا مقدم جانا۔ حسب الحکم
بادشاہی لشکر مالوہ کی طرف عناں تاب ہوا اور برسات کی شدت میں منزل پیما ہوا۔ بادشاہ نے
قلیج خاں و خواجہ غیاث الدین علی قزوینی کو اس لشکر کی کمک کے لیے اور بھیجا۔ جب سرونج میں
لشکر شاہی آیا تو شہاب الدین احمد خاں کہ یہاں کا جاگیردار تھا۔ ان امرا سے سامان شائستہ کے
ساتھ ملا۔ اور سارنگپور میں شاہ بداغ خاں جو یہاں کا حاکم تھا وہ بھی آنکر شریک ہوا۔ مرزاؤں
نے جب اس لشکر کا حال سنا تو وہ منڈو کی طرف بھاگے۔ مراد خاں اور میر عزیز اللہ دیوان
اور تمام اُمراء عظام نے ان کا تعاقب کیا۔ مرزا سراسیمہ ہوکر دریائے نربدا کے پار ہوگئے۔ بہت سے
آدمی انکے اس دریا میں ڈوب کر مر گئے۔ اس نواح میں جھجھار خاں حبشی نے گجرات میں تفرقہ
برپا کرکے چنگیز خاں کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس لیے مرزا گجرات کو اپنا مفر عظیم سمجھکر چلے گئے۔ بادشاہی
لشکر نے آگے تعاقب نہیں کیا۔ ان مرزاؤں نے گجرات کو حاکم سے خالی پایا۔ قلعہ جانپانیر و سورت کو بے جنگ و
جدال لے لیا اور ابراہیم حسین قلعہ بروج میں پہنچا۔ رستم خاں ترکی غلام جو چنگیز خاں کا بہنوئی تھا
اُس نے قلعہ کو مضبوط کیا اور اُس میں متحصن ہوا۔ دو سال تک یہ مرزا قلعہ پر جھولا کیا۔ مگر کچھ نہ
کر سکا۔ رستم خاں ہمیشہ قلعہ سے نکلکر اُن سے لڑتا اور اپنی رستمی دکھاتا۔ مگر بے سرا تھا۔ امداد اور اعانت سے
ناامید تھا اسلیے صلح کر لی۔ فند و مکر سے ارباب شرارت نے اسکی جان تن کے حصار سے باہر نکال لی۔

یہ خدا پرست بادشاہ بغیر اپنی اغراض کے خلق کی آسودگی میں اپنی آسائش جانتا اور ہمیشہ
اہم اور مہم میں تمیز کرتا۔ زمانہ کی پراگندگیوں و پریشانیوں کے دور کرنے میں توجہ کرتا۔
شہروں کی فتح اور ممالک کی تسخیر میں اول فکر و اندیشہ اسکو یہ ہوتا کہ زمانہ کے ستم رسیدوں کی
غمخواری اور دادرسی و غور رسی کرے۔ اسیواسطے جس ملک میں فرمانروا ہشیار دل اور رعیت پروری کے
ساتھ فرمانروائی کرتا باوجود اسباب تسخیر کے اس ملک کی طرف وہ نگاہ طمع نہیں کرتا۔ اسکے دلمیں یہ بات
بنی ہوئی تھی کہ جسقدر ملک میں وسعت بڑھیگی تو ہندوستان میں سلطنتوں کی کثرت ایک قہرمان
دادگر کی وحدت میں آئیگی۔ اور اس سے عموم رعایا اور خصوص خلائق کا حال اچھا ہوگا۔

بادشاہ کا سفر دوبارہ گجرات کی تسخیر کے لیے ۹۸۰ھ

اسلیے وہ اُن ہی ولایات پر توجہ کرتا کہ جو عدالت دوست فرمانروایوں سے خالی ہوتیں اور ان کو اپنی معدلت کی روشنی سے روشن کرتا۔ رعایا کو حوادث کی تفسیدگی سے بچاکر اپنے سایہ عاطفت میں لاتا۔ اور وحدت قہری کی وحدت آزادی کے ساتھ دلخواہ صورت پیدا کرتا۔ قدرت ایزدی نے طبقہ انام کی استعدادوں میں تفاوت عظیم رکھا ہے۔ ایک طائفہ تو ایسا ہے کہ وہ بادشاہ کی خردمندی و طرز نشست و برخاست و بخشش و بخشائش اور خلق کی خطاؤں کے اغماض نظر کو دیکھکر اُس کو بزرگ جانتا ہے۔ اور یگانہ درگاہ الٰہی شمار کرتا ہے اور اسکی خدمت کو عبادت ایزدی جانتا ہے اور اپنے عقیدت و اخلاص کو بڑھاتا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے کہ وہ ان کاموں کو نہیں دیکھتا۔ بلکہ سطوت صوری اور افزائش ملک ظاہری کو دیکھکر بادشاہ کی بزرگی معنوی کا گرویدہ ہوکر کمند ارادت کو گلے میں ڈالتا ہے۔ اور اپنے تئیں مخلصان جان سپار کے زمرہ میں داخل کرتا ہے۔ لہذا اس زمانہ میں کہ ملک ہلی شور انگیز بگس طینتوں سے پاک ہوا اور فتنہ اندوز کوردل مستی و ناکامی کے گڑھے میں گرے تو بادشاہ نے ملک گجرات کی طرف توجہ کی۔ وہاں کی رعایا حد سے زیادہ ستمزدہ ہورہی تھی۔ سلطان محمود والی گجرات نے اپنی بے پروائی سے چرب زبان دشمنوں کو دوست بنایا۔ اور اُسکے تیرہ درون ملازموں نے اپنے صاحب و منعم کے زیان میں اپنے فائدہ کو دیکھا تو اس دنیا سے وہ رخصت ہوا۔ جس کا حال صوبہ گجرات کی تاریخ میں مفصل بیان ہوگا۔ اس دیار کے امرا نے خصوصاً سید مبارک اور اعتماد خاں اور عماد الملک نے خودکامی اختیار کی۔ اُنھوں نے سلطان احمد کے فرزندوں میں سے کسی کو پیدا کرکے برائے نام اُس کو بادشاہ بنایا اور در پردہ خود حکمرانی کرنے لگے۔ اور جب بادشاہ سن رشد کو پہنچا تو اُسکا بھی کام تمام کیا۔ اور اراذل میں سے کسی کا چھوٹا سا لڑکا لے لیا۔ جسکا نام نتو تھا۔ اور یہ مشہور کیا کہ وہ سلطان محمود کا بیٹا ہے اسکو تخت پر بٹھایا اور مظفر شاہ اسکا لقب رکھا اور مملکت کو اس طرح آپس میں تقسیم کر لیا کہ گجرات کا دار الحکومت احمدآباد اور کنبات اور اکثر حصہ اس ملک کا پٹن کا اعتماد خاں کے تصرف میں آیا۔ سرکار پٹن موسیٰ خاں و شیر خاں فولادی کے قبضہ میں تھی اور سورت۔ بروچ۔ دبڑودہ و چانپانیر عماد الملک کے بیٹے چنگیز خاں کے حصہ میں آئے۔

دند وقہ و دولقہ وغیرہ سید حامد نبیرہ سید مبارک کو ملے۔ جونہ گڈھ ولایت سورتھ میں خان غوری
کے لیے معین ہوئے۔ اعتماد خاں اپنی گرنیت سے اس سفلہ خرد سال کو اپنے پاس رکھتا تھا۔ ان
بے سرے سرداروں میں آپس میں جھگڑا شروع ہوا۔ چنگیز خاں کو جھجار خاں حبشی نے مار ڈالا۔
اور شیر خاں فولادی کے بہکانے سے نتو احمد آباد سے بھاگ کر پٹن میں آیا۔ اور شیر خاں فولادی نے
احمد آباد پر لشکر کشی کی۔ اعتماد خاں احمد آباد میں متحصن ہوا۔ اور اُس نے مرزاؤں سے التجا کی۔ ایک
ہنگامہ شورش برپا ہوا اور بازار فتنہ و فساد گرم ہوا۔ پادشاہ نے تسخیر گجرات کو اہم مہام میں
جانکر اس شورش کے اسباب کا انتظام کیا۔ اور شنبہ ۲۰ صفر ۹۸۰ھ کو دار الخلافہ میں فتحپور سے
گجرات کے تسخیر کے ارادہ سے سفر کیا۔ اور اجمیر میں پہنچکر بہت سے امیروں کو برسم منقلا گجرات کی طرف
روانہ کیا اور خود دوشنبہ ۲۲ ربیع الثانی کو اجمیر سے سفر کیا کہ خود شکار کھیل کر خوش ہو اور
امرا جو آگے آگے ہیں وہ کارطلبی میں اپنا جوہر ہنر دکھائیں۔ اور گجرات کو جلد تر تصرف میں لاکر
ستم رسیدہ رعایا کا تدارک کریں جب پادشاہ ناگور سے دو منزل تھا کہ شاہزادہ سلیم کی ولادت کا
مژدہ اس پاس پہنچا جسکا حال ہم پیچھے بیان کرینگے۔ پادشاہ چہارشنبہ ۹ جمادی الاولی کو قصبہ ناگور میں آگیا۔

سروہی کے راجہ کا مطیع ہونا سنہ ۹۸۰ھ

امرا عظام جو پہلے سے بھیجے گئے تھے وہ قصبہ بھاورا جن (بھار و راجن) میں کہ سروہی کے
نزدیک ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ سروہی کے راجہ رائے رائسنگھ دیوھرہ نے راجپوتوں کو
برسم رسالت بھیجا اور اطاعت کا دم بھرا۔ خان کلاں ان رجپوتوں میں سے ہر ایک کو پان
دے دیکر رخصت کرتا تھا کہ ایک اجپوت نے اس کے جمدھر مارا کہ تین انگل اُس کے شانہ سے
نکلکر باہر آیا۔ اس اجپوت کو اور آدمیوں نے مار ڈالا۔ جب پادشاہ کو خبر ہوئی تو وہ یہاں آیا اس نے
سروہی میں فوج کو بھیجا کہ یہاں کے سرکشوں کو ہلاک کرے۔ یہ انکے آدمی شعاب جبال میں بھاگ گئے۔ بہادر
راجپوت اپنے معمول کے موافق مہادیو کے مندر پر جو سروہی سے ایک کوس پر تھا خوب جان لڑا کر
لڑے۔ یہ مر مٹے مگر ہٹے نہیں۔

پادشاہ نے رائے رائسنگھ کو حدود جودھپور اور سروہی میں مقرر کیا کہ اگر کوئی گروہ

باغیوں کا گجرات سے نکلکر ممالک محروسہ میں فساد مچائے تو اسکو جانے نہ دے۔ جب بادشاہ گجرات کی حدود میں پہنچا تو یہاں سے شاہ فخر الدین کو منشور دیکر اعتماد خاں پاس بھیجا کہ اُس کو سمجھا کر ہمارے پاس لے آئے۔ وہ ہمیشہ عرضداشتیں بھیجا کرتا۔ اور بادشاہ پاس خبر آئی کہ شیر خاں فولادی نے حضور کے لشکر کے آمد کا حال سُنکر احمد آباد کا محاصرہ چھوڑ دیا اور سورت اور جوناگڈھ کی طرف بھاگ گیا۔ اپنے بیٹوں محمد خاں و بدر خاں کو پٹن بھیجدیا کہ اہل عیال و اسباب کو وہاں سے لیکر محکم مقاموں میں پہنچا دیں اور اب وہ سب اپنا اسباب لیکر باپ پاس جاتے ہیں۔ اور ابراہیم حسین مرزا کہ اعتماد خاں کی کمک کو آیا تھا وہ بھی اپنی محال میں گھر جاتا ہے۔ اعتماد خاں حضور کی خدمت میں آتا ہے۔ بادشاہ نے راجہ مان سنگھ کو بھیجا کہ شیر خاں کے بیٹوں کو پکڑ لائے ان لڑکوں کی ساتھ کی جماعت نے بھاگ کر جنگلوں میں پناہ لی۔ اور بادشاہ کی سپاہ نے اُنکے اشیاء و اسباب پر دستبرد کی۔ بادشاہ غرہ رجب ۹۸۰؁ کو شہر پٹن میں کہ پہلے نہروالہ مشہور تھا آیا۔ یہاں سے احمد آباد کی طرف چلا۔ موضع جوتانہ میں اسنے آدمی بھیجکر مظفر شاہ کو پکڑوا یا اور اس کو کرم علی کے حوالہ کیا۔ گجرات کے عمدہ امراء میر ابو تراب اعتماد خاں اختیار الملک مشرقی جھجار خاں حبشی و وجیہ الملک مجاہد خاں بادشاہ کی خدمت میں آئے۔

۱۴ رجب ۹۸۰؁ کو بادشاہ کا خطبہ پڑھا گیا۔ جب بادشاہ قصبہ کرمی میں پہنچا تو یہاں امراء گجرات کو بُلا کر فرمایا کہ اس ملک کو ہم نے اعتماد خاں کے سپرد کیا اور وہ جن میروں کو کہے گا ہم چھوڑ دینگے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر امیر اپنا ضامن دے تاکہ مراسم خرم دوراندیشی میں فتور نہ ہو اور لوازم فتوت میں قصور نہ ہو۔ اعتماد خاں کا ضامن میر ابو تراب ہوا سب میروں کا سوائے حبشیوں کے اعتماد خاں ضامن ہوا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ حبشی جس طور سے کہ سلطان محمود کے غلام تھے۔ ہمارے غلام رہیں گے اُن کو امراء عظام کے حوالہ کیا۔

ہر ملک میں ہزاروں رند و اوباش و مفسد آدمی رہتے ہیں اُنھوں نے مشہور کیا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ گجراتیوں کے لشکر کو خلق لوٹ لے۔ یہ سنتے ہی بدمعاش اوباش لوگ اُن پر جھمک پڑے۔ بادشاہ نے خود آنکر اس کا یہ بندوبست کیا کہ غارتگروں سے مال چھین کر

مالکوں کو دلوایا۔ اور اُن کو فیلان مست سے پائمال کرایا۔ ۱۴ رجب کو پادشاہ احمد آباد میں آیا
مظلوموں پر نوازش کی۔ ظالموں کی گذارش کی۔ آرزومندوں کا کام نکلا۔ نیازمندوں کی دعائیں
قبول ہوئیں۔ جشن ہوا جسمیں شادی پر شادی اور خرمی پر خرمی ہوئی۔ احمد آباد مصر جامع
ہی۔ تین سو اسی پورے یعنی محلے اُسمیں آباد ہیں۔ ہر محلہ بمنزلہ شہر کے ہی۔

پادشاہ کا کنبایت میں جانا اور دریائے شور کی سیر کرنا سنہ ۹۸۰ھ

جب گجرات میں امن امان ہو گیا۔ تو احمد آباد اور دریا مہندری کی طرف کا ملک خان اعظم
مرزا کوکہ کو عنایت ہوا۔ اور جانپانیر و سورت اور اسکے حواشی و حوالی جن پر مرزا متسلط و متصرف
تھے۔ ان امراء گجرات کو عنایت کیے کہ ابھی تازہ مطیع ہوئے تھے۔ ان کا سرگروہ اعتماد خاں گجراتی
کو مقرر کیا۔ ان امراء قدیم و جدید نے اس مملکت کی مہمات کے انتظام کا عہد و پیماں لیا۔ اور
خود پادشاہ نے مرزاؤں کے استیصال کا کام اپنے ذمہ لیا۔ اب پادشاہ کا ارادہ ہوا کہ
دریائے شور کی سیر کرکے دارالخلافہ کو مراجعت کرے۔ ۲۲ شعبان ۹۸۰ھ کو وہ کنبائت کی طرف
جو احمد آباد سے تیس کوس ہی چلا۔ امراء گجرات نے چندروز کی رخصت لی۔ کہ شہر میں جاکر اپنے کاموں
کا سرانجام کریں۔ پادشاہ نے ان خودآرایوں کے ایتلاف کے لیے حکیم عین الملک کو یہاں چھوڑا۔
اثناء راہ میں پادشاہ نے سُنا کہ اختیارالملک بھاگ گیا۔ اعتماد خاں اور اور امراء
گجرات سرکش ہونے کو ہیں۔ پادشاہ نے شہباز خاں کو بھیجا کہ اس خائف و خائن گروہ کے
پاس چلا جائے اور اسکا علاج کرے۔ پادشاہ کنبائت میں آیا۔ روم و شام و ایران کے
تاجر اسکی خدمت میں آئے۔ اُن پر اس نے بہت مہربانی کی۔ پھر اس نے جہاز میں سوار ہو کر
سمندر کی سیر کی۔ اعتماد خاں اور بعض اور امرائے گجرات کو شہباز خاں گرفتار کرکے پادشاہ
کے روبرو لایا۔ اُنہوں نے پیمان بندگی کو توڑا تھا۔ اس لیے اس جماعت میں سے ہر یک کو
پادشاہ نے اپنے امراء کے حوالہ کیا۔ یہ جماعت گجراتی ایک معجون مرکب ہراس و فریب و زنادستی
کی تھی جسمیں قدرے راستی و سادگی و فروتنی بھی تھی۔ انکا سرگروہ اعتماد خاں تھا۔ جب ان امراء
نے پادشاہ کی آمد سُنی تو سررشتہ تدبیر انکے ہاتھ سے نکل گیا۔ حیلہ اندازی کرکے پادشاہ

جلدہ

کے پابوس ہوئے۔ سب یہ سوچتے تھے کہ کسی طرح پھر ان کو اس ملک کی ایالت بدستور سابق ملجائے
مگر وہ یہ جانتے تھے کہ جب تک بادشاہ اس ملک میں ہے حکومت ملنی دشوار ہے۔ اسلیئے اُنھوں نے
ارادہ کیا کہ الگ الگ ہوکر شورش برپا کیجیے۔ اختیار الملک تو فرصت پاکر بھاگ گیا۔ اور اعتماد خاں
اور اسکے ساتھ اور بھاگنے کو تھے کہ میر ابوتراب و حکیم عین الملک نے انکو باتیں بناکر روکا کہ شہباز خاں پہنچ گیا
وہ اختیار الملک کے پیچھے نہیں پڑا کہ اعتماد خاں وغیرہ ہاتھ تلے سے نکلجائینگے۔ اسلیئے وہ انکو پکڑکر بادشاہ
کے پاس لایا۔ اگر بادشاہ انکو پہلے سے قید کرلیتا تو خلقت پر بادشاہ کی خیراندیشی اور بزرگ منشی ایسی
ظاہر نہ ہوتی اب انکی گرفتاری کی وجہ معقول تھی۔ خلقت اس سے نہایت مسرور تھی۔

مرزاؤں سے بادشاہ کی لڑائی ۹۸۰ھ

جب بادشاہ کو ان نامعقول امیروں کی مہم سے فراغت ملی تو اس نے مرزاؤں کے استیصال پر
کمر باندھی۔ یہ مرزا مالوہ سے بھاگ کر گجرات میں آئے تھے تو بڑودہ اور اسکے حدود میں مرزا ابراہیم حسین
کا غلبہ اور سورت اور اسکے نواح میں محمد حسین مرزا کا تصرف اور چانپانیر اور اسکے مضافات میں شاہ مرزا
کا تعلق تھا۔ بادشاہ نے بندر کھنبایت کا انتظام حسن خاں خزانچی کو تفویض کیا۔ اور خود بڑودہ کی طرف
روانہ ہوا۔ اور شہباز خاں قاسم خاں و بازبہادر خاں کو چانپانیر کو روانہ کیا کہ اس قلعہ کو دشمنوں سے
خلاص کرے۔ خان اعظم مرزا کوکہ کو احمدآباد کی ایالت اور اس حدود کی حراست عنایت کی۔ ان سب
امیروں کو بادشاہ کی رعیت پروری کے رموز و فراخی حوصلہ و دستداری معدلت و دوام آگاہی
و طبقات مردم کا حفظ مراتب و عموم خلائق کی عرض ناموس کی حمایت و عاطفت عام و صلح کل
خوب سمجھائے اور فرمایا کہ مجھے خیال ہے کہ جو ہم نے تم میں جوہر کاردانی سمجھ رکھے ہیں اس کا
یقین تم دلادوگے۔ بادشاہ قصبہ بڑودہ میں آیا۔ دوسرے روز اس نے سُنا کہ مرزاؤں نے
قلعہ سورت کو مستحکم کیا ہے اور وہ حدود چانپانیر میں جمع ہوئے۔ بادشاہ نے خان عالم و
سید محمود خاں بارہ و راجہ بھگونت سنگھ و مان سنگھ اور بعض امیروں کو ان مرزاؤں کی
سرزنش کے لیئے روانہ کیا۔ آدھی رات کو بادشاہ کو خبر ہوئی کہ بادشاہ کے آمد کی خبر
مرزا ابراہیم حسین نے سنکر قلعہ بروج میں رستم خاں رومی کو اس سبب سے مارڈالا کہ اس کا

قصد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھا۔ پہلے تو بادشاہ نے امیروں کو اُن میرزاؤں سے لڑنے
کے لیے بھیجا تھا۔ مگر اب اس کا خود ارادہ ان سے جا کر لڑنے کا ہوا

بادشاہ نے جو لشکر پہلے مرزاؤں کے لیے بھیجا تھا اُس کو اُلٹا بلا لیا۔ اور اپنے ساتھ تھوڑا سا لشکر
اُس نے لیا۔ اس کو خوف تھا کہ ابراہیم حسین مرزا لشکر کی کثرت سُنکر کہیں اور نہ چلا جائے رات دو
گھنٹے باقی تھی کہ بادشاہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ ملک اشرف گجراتی راہ بتانے کے لئے ساتھ ہوا۔
مگر تیز روی میں راہ بھولا۔ اسلیے دشمن تک پہنچنے میں کچھ توقف ہوا۔ دشمن بھاگ کر دریا بیکانیر سے
گذر کر قصبہ سرنال میں بہت سی جمعیت کے ساتھ چلا گیا۔ بادشاہ سے وہ چار کوس پر تھا۔ بادشاہ نے
اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اُنھوں نے یہ عرض کیا کہ لشکر ابھی آیا نہیں اور غنیم پاس جمعیت بہت ہی
دن کو لڑنا نہیں چاہیے رات کو شب خون مارنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے شب خون پسند نہیں۔ وہ
تلبیس و تزویر کی صورت رکھتا ہے۔ یہی بہتر ہے کہ دن کے کام کو رات پر نہ ٹالیں۔ بادشاہ تیز روی
کر کے قصبہ سرنال میں کہ ایک ٹیلہ پر واقع ہے پہنچا۔ اُس وقت بادشاہ کے ساتھ چالیس آدمی تھے کہ لڑنیکا
ارادہ کیا۔ بادشاہ کا لشکر رستہ بھول گیا تھا۔ اسلیئے اسکے آنے میں توقف ہوا غرض بادشاہ دو سو آدمیوں
کو ساتھ لیکر لڑنے گیا۔ دریا میں گھوڑا ڈال کر پار اُترا۔ دریا کا کنارہ ایسا ٹیڑھا بیڑا تھا کہ بادشاہ کا لشکر
اس کنارہ کی کجیوں کے سبب جدا جدا ہو گیا۔ ابراہیم مرزا لڑنے کھڑا ہوا۔ بادشاہ تھوڑے آدمیوں کے ساتھ
دروازہ سرنال پر گیا تھا۔ کچھ آدمیوں نے اُسے روکا۔ ان سب کو مار ڈالا جب وہ شہر میں آیا
تو معلوم ہوا کہ ابراہیم حسین دوسری طرف سے نکلکر لڑ رہا ہے۔ بادشاہ شہر سے نکلکر اس طرف گیا
دوستوں کی دلدہی اور دشمنوں کی جان ستانی میں کوشش کی۔ بھوپت سنگھ برادر راجہ
بھگونت سنگھ اس لڑائی میں کام آیا۔ یہاں زمینیں کیکروں سے خارستان بن رہی تھیں۔
دو سوار ہم پہلو نہیں گزر سکتے تھے۔ ان تنگناؤں میں بادشاہ آہستہ آہستہ جاتا۔ راجہ
بھگونت اسکے ساتھ تھا۔ ہر طرف ہنگامہ جانفشانی اور جاں ستانی گرم تھا۔ مخالفوں میں سے تین آدمی
دلیر شہریار شیر دل کی طرف آئے۔ انمیں سے ایک نے راجہ بھگونت سنگھ کے نیزہ مارا مگر وہ خالی گیا

ابراہیم مرزا کا بادشاہ سے مقابلہ کرنا اور لڑنا اور اس کو شکست دینا ۹۸۰ھ

راجہ نے اس کے برچھا ایسا مارا کہ اُس کا حال دگرگوں ہوا۔ باقی دو آدمیوں نے پادشاہ پر حملہ کیا
کانٹوں کے بھاڑ جھنکار درمیان میں تھے۔ پادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو گھوڑے کو اُس جھاڑی
سے کُدایا تو وہ دونوں ڈر کر بھاگ گئے۔ ابراہیم مرزا کا دل لڑائی سے ہار گیا۔ اور دفعتہً وہ
سراسیمہ ہو کر بھاگ گیا۔ پادشاہی لشکر نے اسکا تعاقب کیا اور اُسکے بہت آدمیوں کو مارا۔
پادشاہ نے سرنال میں آکر شکرانہ ادا کیا۔ اور چارشنبہ ۸ شعبان کو اپنے لشکر سے آن ملا۔

پادشاہ نے شاہ قلیخاں محرم و صادق کو بھیجا کہ قلعہ سورت کی حدود میں جا کر کسی اہل قلعہ کو باہر
نہ جانے دیں۔ مرزا کامران کی بیٹی گل رُخ بیگم کو جو ابراہیم حسین مرزا اپنے بیٹے مظفر حسین مرزا کو
نکالکر دکن میں چلی گئی۔ پادشاہی آدمی ہر چند اُسکے پیچھے پڑے۔ مگر یہ فرزانہ عورت ایسی
مردانہ گئی کہ کسی کے ہاتھ نہیں آئی۔ پادشاہ کو تحقیق ہو گیا کہ مرزاؤں نے قلعہ سورت کو اپنی
پناہ گاہ سمجھکر مستحکم کیا ہے۔ اور تمام فوج جمع کر کے اسکی حراست ہمزبان کو سپرد کی۔ جو پہلے
جنت آشیانی کے نوکروں میں تھا مگر باغی ہو کر ان مرزاؤں سے مل گیا تھا۔ پادشاہ نے جب اسکی تسخیر پر توجہ
کی اور راجہ ٹوڈرمل کو بھیجا کہ حسن حصین کے مداخل و مخارج کو ملاحظہ کر کے اطلاع کرے کہ اسکی تسخیر آسان
طور پر کیجائے۔ یہ امر قرار پا گیا تھا کہ پادشاہ خود اس قلعہ کو فتح کریگا۔ راجہ نے اس دشوار کار کو
آسان بتلا دیا۔ اس نے اقبال شہنشاہی پر نظر کی اگر زمانہ کے مزاج کا ملاحظہ کرتا تو عرض مطلب میں
یہ جرأت نہ کرتا۔ اُس وقت ایک نیا وسیع ملک ہاتھ آیا تھا۔ جہاں سے دارالملک سے دور تھا چند مہینے
سے لشکر برابر سفر کر رہا تھا۔ واقعہ طلب شورافزا ہر گوشہ میں بھرے تھے۔ کچھ اس دیار کے فتنہ اندوز تھے
کچھ دیار مشرق کے مناسب نہ تھا کہ پادشاہ خود اس قلعہ کو فتح کرتا۔ مگر پادشاہ جانتا تھا کہ اگر میں خود
اپنی ذات سے اس قلعہ کی فتح میں نہیں مصروف ہونگا تو ان سرکشوں کی جڑ نہیں کٹے گی وہ پھر
بحال ہو جائینگے۔ ناحق طول ہو گا۔ اس لیے اُس نے اس دشوار کار کو آسان اس طرح کیا کہ خود اسپر
متوجہ ہوا۔ اس نے شاہم خاں جلائر کو حکم دیا کہ فوج کو قلعہ چانپانیر پر لے جائے۔ قاسم خاں میر بر و بحر
کو جو وہاں ہی یہاں ساباط و نقب لگانے کے لئے بھیجدیے۔ جب پادشاہ نے احمد آباد اور اس نواح کا

سب طرح سے بند وبست کر دیا تو وہ خود دوشنبہ ۲ رمضان ۹۸۰ھ کو حوالی قلعہ میں ایک کوس پر آن پہنچا اور اُس روز مداخل و مخارج کو دیکھکر مورچلوں کو امرا میں تقسیم کیا۔ دو تین روز بعد دولتخانہ عالی ایسا قلعہ کے نزدیک آیا کہ وہاں توپ تفنگ کے گولے و گولیاں آتی تھیں۔ داروغہ فراشخانہ نے عرض کیا کہ پاس یہاں ایک کولاب (تال) ہے جسکو بلاب کہتے ہیں اگرچہ وہ دیوار قلعہ سے متصل ہے لیکن زمین کی پستی وبلندی اور بعض درخت ایسے حائل ہیں کہ وہ توپ تفنگ کے مانع ہیں۔ بادشاہ وہاں اپنا دولتخانہ لے گیا۔ غرض ایک مہینہ سترہ روز محاصرہ رہا۔ بادشاہ کے لشکر نے اہل قلعہ کا پانی کھینچنا بند کر دیا۔ اور سرنگ لگانیوالوں نے دیوار تک سرنگوں کو پہنچا دیا۔ دمدمے ایسے اونچے بنائے کہ اہل قلعہ کو تیرانداز کرنے لگے۔ توپ اندازوں نے کاربرداری نمایاں کی۔ بہت گولہ بارود خرچ کیا۔ اہل قلعہ کا آنا جانا بالکل بند کر دیا تو انکا غرور ٹوٹا۔ ہمزبان نے اپنے خسر ملا نظام الدین لاری کو بادشاہ پاس بھیجا۔ اس زبان آور کاردان کی تقریر نے بادشاہ عجز دوست عاجز پرور پر تاثیر کی۔ اگرچہ امرا نے عرض کیا کہ اہل قلعہ میں جب تک قوت وطاقت جگر میں تھی تمرد وعصیان کیا اور اب جو دیکھا کہ بادشاہ کی فتح آجکل میں ہونیوالی ہے تو امان مانگتے ہیں۔ انکو امان دینے کی جگہ قتل کرنا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے فرمایا ؎ بدی را مکافات کردن بدی + برا اہل صورت بود بخردی + بمعنی کسانے کہ پے بردہ اند + بدی دیدہ و نیکوی کردہ اند + مولوی نظام لاری بادشاہ سے رخصت ہوا۔ اہل قلعہ کو مژدہ امان سنا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مولانا نظام الدین کے ساتھ قاسم علیخاں و خواجہ دولت ناصر جائیں اور ہمزبان اور تمام قلعہ کے آدمیوں کو دلاسا دیکر اپنے ہمراہ لائیں۔ دیانت مند محرر جا کر تمام صامت و ناطق اموال قلعہ کو ضبط کر کے ہمارے سامنے پیش کریں۔ اور تمام آدمیوں کے نام نویسی کر کے ہماری نظر سے گذاریں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ ہمزبان با وجودیکہ بادشاہ کو گالیاں دینے میں بڑا زبان دراز تھا اُسکی زبان کاٹی گئی۔ بعض دیگر مفسد بعد تادیب کے موکلوں کو سپرد کیے گئے۔ یہ فتح ۲۳ شوال ۹۸۰ھ کو ہوئی تھی جسکی تاریخ ہمزبان دار وقلعہ سورت ہوئی۔ دوسرے روز جو بادشاہ قلعہ کو دیکھنے گیا۔ وہاں کی بڑی بڑی بھاری بھاری توپیں نظر پڑیں۔

جن کو سلیمانی اس وجہ سے کہتے تھے کہ سلطان روم نے جس سال میں کہ فرنگیوں سے بنادر ہندوستان کے لے لینے کا ارادہ کیا تھا تو اُس نے اُن توپوں کو جو ناگڈھ میں اپنے لشکر کے ساتھ جو جہازوں میں آیا تھا بھیجا تھا۔ مگر کچھ موانع ایسے عارض ہوئے کہ لشکر سے کچھ کام نہو سکا تو توپوں کو قلعہ جوناگڈھ میں وہ چھوڑ گیا اور خود اپنے ملک کو چلا گیا۔ سمندر کے کنارہ پر یہ توپیں پڑی رہیں۔ جب خداوندخاں نے قلعہ سورت بنایا تو اُن توپوں کو قلعہ پر لگایا۔ بادشاہ نے ان توپوں کو دارالخلافہ آگرہ میں بھجوایا۔ اس قلعہ کی حکومت و حراست قلیج خاں کو سپرد ہوئی۔

سورت کے قلعہ کا حال یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا ہے۔ مگر جدید قلعوں میں نہایت متین و استوار ہے۔ کہتے ہیں کہ صفر آقا نام غلام سلطان محمود گجراتی مخاطب خداوندخاں نے ۹۴۷ھ میں دریا تاپتی کے کنارہ پر اسکو بنایا۔ جو سمندر سے ۲۰ میل ہے کہ فرنگیوں کے حملوں کو دفع کرے۔ جب تک یہ نہ بنا تھا فرنگی مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کی شرارت کرتے تھے۔ جب قلعہ بن رہا تھا تو کئی دفعہ جہاز تیار کر کے حملہ کرنے کے لیئے فرنگی آئے مگر کچھ نہ کر سکے۔ خداوندخاں نے ہوشیار معماروں کو جو اُس وقت میں دستیاب ہوئے بلا کر استحکام حصار میں اہتمام کیا۔ دقیقہ رس معماروں نے اس طرح قلعہ کو تعمیر کیا کہ قلعہ کی دو طرفیں جو خشکی کے متصل تھیں ایک خندق ۲۰ گز عریض ایسی گہری کھودی کہ پانی نکل آیا اور پانی کے اندر سے چونہ و خشت پختہ و سنگ سے وہ بنائی۔ پتھروں کو لوہے کے قلابوں سے جوڑکر انمیں پارہ پلایا۔ کہ کوئی درز انمیں باقی نہیں رہی۔ کنگرے اور سنگ انداز نہایت ہیبت ناک ہوئے۔ اور ہر برج پر چوکھنڈی بنائی جس کو اہل فرنگ پرتگیزوں کا ایجاد بتاتے ہیں۔ جب اہل فرنگ اس قلعہ کی تعمیر کو زور سے نہ روک سکے تو زر سے ان کو روکنا چاہا اور بہت روپیہ پیش کیا کہ قلعہ نہ بنایا جائے مگر خداوندخاں نے انکی اس درخواست کو نہ مانا اور قلعہ بنا دیا جسکی دیواریں بیس بیس گز بلند تھیں اور دو دیواروں کا آثار پانچ پانچ گز کا تھا۔ اور چاروں طرف کی دیواروں کے آثار ملکر پندرہ گز تھی۔

بندر گوہ سے ایک جماعت نصاری بادشاہ کی خدمت میں آئی۔ اصل میں اس گروہ کو اہل سورت نے اپنی حمایت کے لیئے بلایا تھا کہ قلعہ ان کو سپرد کرکے آپ سلامت رہیں جب اس گروہ نے پادشا

کے سامان قلعہ گیری اور لشکر کو دیکھا تو اپنے تئیں ایلچی بنا کر بادشاہ کی بارگاہ میں آئے اور کورنش بجا لائے اور اپنے ملک کی طرح طرح کی نفیس دستکاریاں بادشاہ کو دکھائیں۔ بادشاہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنی عنایت سے مخصوص کیا۔ اور بنگال کے عجائب و غرائب کا اور وہاں کے اوضاع کا حال پوچھا۔ غرض اس وحشی گروہ سے ایسی باتیں کیں کہ ان کو موانست بادشاہ سے ہو گئی۔

مرزاؤں کا حال ۹۸۰ھ

محمد حسین مرزا اور شاہ مرزا تو پٹن کی حدود میں شورش کے کمین میں بیٹھے تھے۔ ابراہیم مرزا سرنال میں شکست پاکر ان مرزاؤں سے ایدر میں ملا۔ ابراہیم حسین مرزا کو جو شکست ہوئی تھی اسکے باب میں ان تینوں بھائیوں میں گفتگو ہوئی۔ نکتہ گیری سے بحث اور درشتی سے رنجش پر نوبت آئی جسکا انجام یہ ہوا کہ ابراہیم حسین مرزا جو شمشیر زنی میں مشہور تھا۔ مگر دماغ عقل سے خالی رکھتا تھا۔ اپنے بھائیوں سے رنجیدہ ہو کر دار الخلافہ آگرہ کی طرف چلا۔ (طبقات اکبری میں اس رنجش کا ذکر نہیں ہے اسمیں لکھا ہے کہ وہ بھائیوں کی صلاح سے گیا) ان دو بھائیوں نے اسکی کچھ پروا نہ کی۔ بادشاہ نے یہ حال سنکر سید محمود خاں بارھہ اور شاہ قلیخاں محرم و راجہ بھگونت سنگھ داس کو دار الخلافہ کی طرف تعین کیا۔ کہ وہ ابراہیم مرزا کا تعاقب کریں۔ اس تعاقب سے مرزا ابراہیم کی شورش نے تسکین پائی جس کا آگے بیان ہوگا۔ محمد حسین مرزا و شاہ مرزا و فولادیوں نے جو کوہستان میں پھرتے تھے پٹن میں ڈیرے ڈالے۔ سید احمد خاں بارہا نے قلعہ کی حراست میں کمر ہمت چست کی۔ جب خان اعظم مرزا عزیز کوکلتاش کو اسکی خبر ہوئی تو اس نے سپاہ جمع کی اور مالوہ کا لشکر جو گجرات کو آتا تھا وہ بھی اس پاس آگیا۔ شیخ محمد بخاری کو بھی دولقہ سے خان اعظم نے بلالیا۔ خان اعظم اس لشکر کو لیکر پٹن کی طرف چلا ۱۸ رمضان ۹۸۰ھ کو حدود پٹن میں آیا۔ طرفین کے لشکر مرتب ہو کر لڑنے کے لئے میدان جنگ میں آ گئے شیر خاں فولادی نے حیلہ سازی سے خان اعظم پاس آدمی مصالحت کے لئے بھیجے خان اعظم نے اس کا جواب دیا کہ اگر حرف صلح سچ ہے تو تم اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہم تمہاری جگہ پر آجائیں۔ ہمارے آئین میں پھرنا جائز نہیں ہے۔ اس بات کو مخالفوں نے نہ مانا۔ وہ ان کا صلح کا پیغام جھوٹا تھا۔

پٹن کی جنگ ۹۸۰ھ

دونوں طرف کی فوجیں مرتب ہو کر میدان نبرد میں آئیں۔ مرزاؤں کی ہراول کی فوج نے بادشاہی

ہراول کو شکست دی۔ اور خان اعظم دست راست پر قطب الدین محمد خاں تھا۔ اسکو بھی پریشان کیا
شاہ محمد اتکا زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ جب فوج کے ان دو حصوں نے شکست پائی تو وہ احمد آباد کی طرف
بھاگے۔ قطب الدین احمد کا خیمہ گاہ اکھڑ گیا۔ شیخ محمد بخاری جاگیردار دولقہ مارا گیا۔ جب اعظم خاں نے
یہ حال معائنہ کیا تو اُس نے ارادہ کیا کہ خود اس کا انتقام لے اور جب لڑے کہ بداغ خاں نے جو خود
مرد معرکہ تھا۔ اعظم خاں کی باگ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر پھیر لی اور جانے نہ دیا۔ غنیم کا لشکر لوٹ کی تلاش
میں متفرق ہوا اور اُسکے غول میں تھوڑے آدمی رہ گئے۔ اعظم خاں نے بداغ خاں کے ساتھ اتفاق کر کے
میدان جنگ میں آ نکر غنیم کے قلب لشکر پر حملہ کر کے شکست دی اور بادشاہی لشکر کو فتح ہو گئی اور
اسکے مخالف اطراف میں چلے گئے۔ شیر خاں فولادی نہایت عجز و ناتوانی کے ساتھ امین خاں حاکم
جونہ گڈھ پاس گیا اور وہاں آسایش سے رہا۔ اور محمد حسین مرزا اور اور امرا دکن کو گئے۔ یہ فتح ۱۸ رمضان
۹۸۰ھ کو ہوئی۔ ابو الفضل نے قطب الدین کو لکھا ہے کہ اُس نے حملہ کر کے فتح پائی۔ اعظم خاں اور
امرا نے مرزاؤں کا تعاقب کیا۔ مگر بادشاہ نے اسکو اپنے پاس سورت میں بلایا۔ اور اور امرا کو
تعاقب میں بھیجا۔ اعظم خاں نے پٹن کا انتظام کر کے بدستور سابق سید احمد خاں بارہ کو حوالہ کیا اور
۲ شوال کو سورت میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام امرا اور نوکروں کی جاں سپاری
کا فرداً فرداً بیان کیا۔ اثنا راہ میں قطب الدین محمد خاں اور امرا کو محمود آباد میں بھیجا کہ اختیار الملک
اور لشکر مفرور کی تنبیہ کرے وہ جنگلوں کے حصار میں متحصن ہوا ہے۔ قصبہ محمود آباد میں قطب الدین خاں
پہنچا تو اور افواج کو بھیج کر اختیار الملک و حبشیوں کو جنگل سے نکال کر قلعوں پر متصرف ہوا اور اپنے
تھانے وہاں بٹھائے اور قصبہ محمود آباد میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔

بگلانہ ایک ولایت ہے کہ جسکا طول ہو کوس اور عرض تیس کوس ہے ہمیشہ دو ہزار سوار اور دس ہزار
پیادے اسمیں رہتے ہیں جمع اسکی ساڑھے چھ کروڑ دام ہے۔ اس ملک میں جو حاکم ہوتا ہے اسکو بھرجی
کہتے ہیں۔ سالہیر و مولہیر دو سنگین قلعے قلہ کوہ پر واقع ہیں۔ دو بڑے شہر انتاپور اور جنتاپور
ہیں یہ ملک گجرات اور دکن کے درمیان واقع ہے اسکے حاکموں کی یہ عادت ہمیشہ رہی کہ

جس جانب کو غالب دیکھتے ہیں اسکی ہر ایک طرح کی وہ اطاعت کرتے ہیں اُس زمانہ میں کہ شہنشاہ نے گجرات
کو فتح کیا تو بھرجی نے بادشاہ کی درگاہ میں حاضر ہوکر اور خدمات شائستہ بجا لاکر سرخروئی حاصل کی ۔

شرف الدین حسین مرزا کا باغی ہونا اور گرفتار ہونا سنہ ۹۸۰ھ

شرف الدین جس کا پہلے حال بیان ہوا ہے کہ وہ بادشاہ سے باغی ہوگیا تھا وہ فولادیوں سے ملگیا
اور جالور انکو دیدیا جس کو اس نے خود فتح کیا تھا۔ کچھ دنوں پٹن میں رہ کر چنگیز خاں سے التجا کی
پھر مرزاؤں سے ملگیا۔ اس وقت کہ حاکم خاندیس گجرات کی فتح میں ناکام رہا اسکا ہمراہ ہوا
پھر تباہ حال ہوکر محمد حسین مرزا سے ملا۔ جب مرزاؤں میں تفرقہ پڑا تو دکن کو بھاگا۔ یہاں کے
زمیندار نے اسکو دولتخواہی بادشاہ کی نظر سے یا اپنے فوائد کی وجہ سے گرفتار کیا اور مال
اسباب لوٹ لیا۔ ابراہیم حسین کی بیوی بھاگی تھی اسکی گرفتاری کے درپے یہ زمیندار ہوا۔ مگر ناکام رہا۔
مرزا کی دو برس کی لڑکی اسکو ہاتھ لگی۔ بادشاہ نے اس لڑکی اور اور قیدیوں کو اپنے آدمی بھیجکر بلا لیا
لڑکی کو محلسرا میں دیدیا۔ اور اس خواجہ زادہ کو ہاتھی سے کہ مست نہ تھا ڈروایا اور پھر قید خانہ میں بھیجدیا۔

بادشاہ کا شمشیر سے زخمی ہونا سنہ ۹۸۰ھ

سال سیزدہم ۹۸۰ھ کا ایک سانحہ یہ ہے کہ بادشاہ کی مجلس میں ہندوستان کے شجاعوں
کا ذکر ہوتا تھا کہ وہ اپنی جان کی قدر کچھ نہیں کرتے ۔ چنانچہ بعضے راجپوت ایک برچھہ کو دوسناں
رکھتا ہے لیکر کھڑے ہوتے ہیں اور دو مردانہ ہمسر دوسرے ان دونوں سنانوں (انیوں) کے
محاذی دوڑتے ہیں کہ یہ سناں انکی پیٹھوں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ سنکر اسی پہلوان ابلہی
کے دل میں یہ آئی کہ شمشیر خاصہ کا قبضہ دیوار میں مضبوط گاڑا اور پھر تلوار کے سر پر سینہ رکھکر
کہا کہ اگر راجپوت اس طور پر اپنی شجاعت ظاہر کرتے ہیں تو ہم اس شمشیر پر حملہ کرتے ہیں ۔
سب دیکھنے والے یہ دیکھکر سکتے کے عالم میں تھے کہ مان سنگھ نے دوڑ کر ایسی سبکدستی کی
کہ اس شمشیر کو دور پھینکدیا۔ بادشاہ کی گھائی میں کچھ زخم لگا۔ اور نوکر شمشیر کو دور لے گئے ۔
بادشاہ نے غصہ ہوکر مان سنگھ کو زمین پر دے مارا اور رگڑنے لگا کہ سید مظفر نے بادشاہ
کی زخمی انگلیوں کو مروڑ کر مانسنگھ کو چھڑا دیا۔ جس سے زخم بڑھ گیا مگر تھوڑے دنوں میں اچھا
ہوگیا بعض نے لکھا ہے کہ اہل مجلس میں سے کسی نے شراب کے نشہ میں رجپوتوں کی شجاعت کی یہ تعریف

کی تھی جب بادشاہ سورت سے چلکر بروج میں آیا تو والدۂ چنگیز خاں دادخواہ بادشاہ پاس آئی کہ اس جھجار خاں حبشی زرمست نے براہ دوستی میرے بیٹے کو بُلا کر اس کا ساغر زندگانی لبریز کیا۔ اگرچہ یہ بات مشہور تھی۔ مگر پھر بھی بادشاہ نے اس معاملہ کی خوب تشخیص و تحقیق کرائی۔ اور اسمیں سوال و جواب ہوئے تو خوب جرح ہوئی۔ مدعی کا دعوی سب طرح سے سچ ثابت ہوا تو بادشاہ نے عدالت سے خاص و عام کے روبرو اس حبشی کو ہاتھی کے پاؤں تلے مسلوایا جس سے اس بیچاری بڑھیا کے دل میں ٹھنڈک پڑی جھجار خاں حبشی گجرات کے امرار بزرگ میں سے تھا۔ اور جمعیت اور قوت میں ممتاز تھا ایسے قوی دست کو سزا دینے سے بادشاہ کی عدالت کی شہرت ہوگئی۔

۲ ذی القعدہ کو احمد آباد کے باہر بادشاہ کے خیمے لگے اور بادشاہ نے دس روز رہ کر یہاں کا یہ انتظام کیا کہ اس سرزمین کو ایک سلطنت کبری تھی۔ خان اعظم کو تفویض کی اور سرکار پٹن خاں کلاں کو عنایت ہوئی۔ سرکار بروج اور اسکی حدود قطب الدین خاں عمر خاں اعظم کو دولقہ و دندوقہ سید حامد بخاری کو اور ایسے ہی اور محال اور امرار کو مرحمت ہوئیں اگرچہ خان کلاں و قطب الدین محمد خاں عم خاں اعظم عمر میں بڑے تھے مگر بادشاہ کے نزدیک آئین سلطنت میں عدالت یہی ہے کہ نداء عنایت عقل پر ہو نہ سال پر ع بزرگی بہ عقل است نہ بہ سال + اور اعتماد فزونی اخلاص پر ہو نہ درازی عمر پر۔ دوربینی عمدہ ہوتی ہے۔ نہ بزرگی جثہ اہل جوہر معقول ہوتے ہیں۔ نہ عظیم ہیکل محسوس۔ اساس فرماندہی شمائل و اخلاق پر موقوف ہے۔

دوشنبہ ۱۰ ذی الحجہ ۹۸۰ھ کو بادشاہ آگرہ کو روانہ ہوا۔ جب سدھ پور میں آیا تو خان معظم کو یہ نصیحتیں لکھیں کہ فزونی آگاہی۔ فراخی حوصلہ آدمیوں کی خطاؤں سے اغماض نظر گنہگاروں کا عذر قبول کرنا۔ فصل خصومات میں غور و تعلیم کرنا۔ اور جان و انجان کو یکساں جاننا۔ اُس کو اور امرار کو اپنی اپنی جاگیروں میں رخصت کیا۔ اور راجہ علی خاں حاکم خاندیس جو آیا تھا وہ بھی رخصت ہوا۔ اور مظفر خاں کو جو ایام محاصرہ سورت میں حاضر ہوا تھا اور اس کی ناہمواریوں

جھجار خاں حبشی کا مارا جانا

بادشاہ کا احمد آباد میں انتظام کرنا اور وہاں سے آگرہ روانہ ہونا ۹۸۰ھ

کو بادشاہ نے معاف کر دیا تھا۔ صوبہ مالوہ عنایت ہوا۔ مان سنگھ و شاہ قلی خاں محرم کو اور بعض بعض امرا کو حکم ہوا کہ ایدر کی طرف سے ڈونگر پور اور اس کے حدود میں جائیں اور پھر دارالخلافہ میں آئیں +

ابراہیم حسین مرزا کا گرفتار ہونا

ابراہیم حسین مرزا کا گرفتار ہونا ۹۸۱ھ

۱۰ محرم کو اجمیر میں بادشاہ آیا اور زیارت سے مشرف ہو کر اپنے دارالخلافہ فتحپور میں دوم صفر ۹۸۱ھ کو آ گیا۔ اس سفر میں بادشاہ سروہی میں تھا کہ اس پاس امرا پنجاب کی عرضداشت آئی کہ مرزا ابراہیم گرفتار ہو گیا اور مر گیا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ہم نے پہلے لکھا تھا۔ کہ وہ ایدر سے اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر دارالخلافہ کی طرف چلا ہے۔ اُس نے اپنے چھوٹے بھائی مسعود مرزا کو بھی ہمراہ لے لیا تھا۔ وہ گجرات سے ایلغار کر کے میرٹھ (میرٹھا) کی نواح میں آیا۔ اور ایک قافلہ کو کہ گجرات سے آگرہ کو آتا تھا۔ اس قلعہ سے گیارہ کوس پر لوٹ لیا اور ناگور میں آیا۔ فرخ خاں پسر خاں کلاں جو بادشاہ کی طرف سے یہاں حاکم تھا وہ قلعہ میں متحصن ہوا۔ مرزا ابراہیم نے چند غریبوں اور فقیروں کے گھر جو شہر سے باہر تھے لوٹے اور نارنول گیا۔ رائے رام سنگھ اور امرا جو بادشاہ نے گجرات کے جانے کے وقت ہزاروں سواروں کے ساتھ جودھپور میں تعین کئے تھے۔ وہ ایلغار کر کے ناگور میں آئے اور فرخ خاں کو ساتھ لیا۔ اور مرزا کے تعاقب میں چلے۔ موضع کھتولی میں کہ ناگور سے بیس کوس پر ہے رات کو پہونچے۔ مرزا ہوشیار ہو کر بھاگنے کا انتظام کرتا تھا۔ ۱۰ رمضان ۹۸۰ھ کو لشکر کے آدمی ایک بزرگ حوض پر افطار کو آئے۔ مرزا کچھ تھوڑی دور گیا تھا۔ الٹا آیا۔ اور اُس نے اس سپاہ پر جو اس کے تعاقب میں تھی حملہ کیا۔ اس جماعت نے ثبات قدمی کر کے اپنی حفاظت کی۔ مرزا نے تین دفعہ اپنی سپاہ کی توپ بنا کے دو طرف سے شاہی لشکر پر تیروں کا مینھ برسایا جب دیکھا کہ کچھ کام نہیں نکلتا تو وہ بھاگ گیا۔ ایک توپ سپاہ کا رات کو اس سے جدا ہو گیا تھا وہ اس نواح کے مواضع و قریات میں گرفتار ہوا۔ اکثر آدمی ان میں مارے گئے۔ ان میں سے

سو آدمی زندہ فرخ خاں کے ہاتھ سے گرفتار ہوئے۔ مرزا ابراہیم خاں تین سو آدمیوں کو ساتھ لیکر چلا
اور راہ میں جو قصبات آئے۔ اُن کو لوٹتا مارتا جمنا گنگا سے پار اُتر کر پرگنہ سرکار سنبل اعظم پور میں
جو اسکی جاگیر میں تھا آیا۔ اُس کو یقین تھا کہ سرکار سنبل اور اس کا قلعہ مثل کوہ کمایوں جس کی خندق
دریا گنگ ہی ہاتھ آجائیں گے۔ اور بہت جمعیت اس پاس جمع ہو جائیگی۔ مگر یہ صورت نہ ہوئی۔
حسین خاں مہدی قاسم خاں کانت گولہ کے جاگیردار اسکے رفع کرنے کے لیے مستعد ہوئے۔ پانچ
چھ روز یہاں رہ کر وہ پنجاب کی طرف بھاگا۔ قصبہ پانی پت اور کرنال کو کہ سرراہ تھے غارت
کرتا ہوا آگے چلا۔ راہ میں اوباش واقعہ طلب بہت اس کے ساتھ ہوئے اور خلق کو آزار
پہنچانے لگے۔ مرزا دیپالپور میں آیا۔ تو اس نے سنا کہ نگرکوٹ کے فتح میں جو امرا اور لشکر مصروف تھا
وہ اسکے پیچھے آتا ہے۔ تو اس نے لاہور کا ارادہ ترک کیا۔ اور ملتان کی طرف چلا۔ جب لشکر تہی تلنبہ
کے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ مرزا کل اس قصبہ میں آیا تھا۔ اور آج مقیم ہے۔ ترتیب فوج میں افسران
سپاہ مشغول ہوئے۔ حسین قلی خاں و اسمٰعیل قلی خاں اور ایک جماعت قول میں۔ محب علی
و مرزا یوسف خاں برانغار میں مقرر ہوئے۔ خرم خاں و دولت خاں مہدی و شاہ
غازی خاں تبریزی جرانغار میں قرار پائے۔ جعفر خاں فتو۔ اور بعض اور دلاور
ہراول مقرر ہوئے۔ اسی طرح انتظام کر کے روانہ ہوئے۔ اس روز ابراہیم حسین مرزا کچھ
آدمیوں کے ساتھ شکار کو گیا ہوا تھا۔ مسعود مرزا نے جب لشکر شاہی کے آنے کا حال سنا تو
خود جنگ کے لیے مستعد ہوا اور سپاہ کو بلایا اور فوج کے قریب گیا۔ اور لڑائی میں مشغول ہوا
مگر وہ گرفتار ہو گیا۔ اور بہت آدمی اُسکے مارے گئے۔ ابراہیم مرزا بہت تکاپو کر کے
بھاگا اور ملتان کے قریب آیا۔ بلوچوں نے اسکی مدد کی۔ دریا گارا سے جو اس دریا
کا نام ہے جو بیاس اور ستلج کے ملنے سے بنتا ہے اُترنا چاہتا تھا۔ مگر رات کو کشتیاں
نہ تھیں اُسکے کنارہ پر سو رہا۔ قوم جھیل نے جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اس پر شبخون مارا
مرزا کے ساتھ آدمی بعض مجروح و بعض مغلوب بے حال تھے وہ اس گروہ کو لیکر زمانے

کھڑا ہوا ع صف مغلوب را ہولے بسند است + جھیل غالب ہوئے۔ مرزا کی گردن میں عنز کے
پیچھے ایسا تیر لگا کہ وہ منہ کی راہ سے نکل گیا۔ اب مرزا نے اپنا حال دگرگوں پایا تو وہ لباس
بدل کر اپنے آدمیوں سے جدا ہوا۔ اسکے دو ایک قدیمی غلام قلندروں کا لباس پہنا کر باہر
لیے جا چاہتے تھے۔ مگر مرزا کو ضعف اس قدر تھا کہ ناچار ایک درویش گوشہ نشین شیخ زکریا
کے گھر میں مقام کرنا پڑا۔ شیخ نے بظاہر تو مرزا کے جراحت پر ملائمت کے مرہم رکھے۔ مگر
ملتان کے حاکم سعید خاں کو خفیہ اطلاع دی ع ہر کجا گوشت و نشینے است درو مگرے ہست
سعید خاں نے اپنے غلام دولت خاں کو بھیجا۔ وہ مرزا کو مقید کر کے لے آیا۔ بادشاہ کو اس کی
اطلاع دی۔ بادشاہ نے قیدی کو اپنے پاس بلایا۔ مگر بادشاہ کے پاس روانہ ہونے سے
پہلے اس جہاں کو روانہ ہوا۔ جب حسین قلیخاں بادشاہ پاس فتحپور سیکری میں آیا۔ مسعود حسین
مرزا کو اور اُسکے تین سو آدمیوں کو قید کر کے اس طرح لایا کہ مرزا کی آنکھیں سی ہوئی تھیں۔ اور
قیدیوں کے منہ گائے کی کھالوں میں جنکے سینگ الگ نہیں کیے گئے تھے لپٹے ہوئے تھے +
بدایونی لکھتا ہے انکے منہ گدھے۔ سؤر کی کھالوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ طبقات اکبری میں لکھا ہے
کہ چہرہائے گاؤ در گلو انداختہ جسکے معنی یہ ہیں۔ گلوں میں تسمے گائے کے چمڑے کے پڑے ہوئے
تھے۔ غرض ان قیدیوں کی ایک عجیب ہیئت تھی بادشاہ نے دیکھتے ہی فوراً مسعود حسین کی آنکھیں کھلوائیں
اور چند سرغنوں کو تو بُری طرح مارا باقی سب کو رہا کر دیا۔ سو آدمی مرزاؤں کے ساتھ ایسے بھی تھے۔
کہ خانی کا خطاب رکھتے تھے۔ انکو حسین خاں نے جو سنبل سے چلکر اس لڑائی میں شریک ہوا تھا۔ اپنے گھر جانیکی
اجازت دی اور اس نے حسین قلیخاں سے کہدیا کہ بادشاہ کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی قیدی مارا
جائے اسلیے میں نے ان قیدیوں کو بادشاہ کے صدقہ میں چھوڑ دیا۔ اُسی روز سعید خاں ابراہیم حسین
مرزا کو بادشاہ کے روبرو لایا۔ انھیں دنوں میں بادشاہ نے حسین قلیخاں کو خان جہاں کا خطاب دیا۔

اس سنہ کے واقعات میں سے ایک یہ ہے

ابوالفضل نے اکبر نامہ میں یہ لکھا ہے کہ راجہ جے چند راجہ نگر کوٹ بادشاہ کی خدمت میں تھا

اس نے اپنی مآل اندیشی سے اپنے خرد سال بیٹے ہری چند کو راجہ گوبند چند جسوال کے حوالہ کیا تھا
اس زمانہ میں گوبند چند نے قلعہ میں آنکر لوازم قلعہ داری کا اہتمام کیا۔ مگر تاریخ بدایونی میں اس
واقعہ کو اس طرح بیان کیا۔ بادشاہ کو ایام طفلی سے کل اصناف ہنود کی طرف رغبت دلی تھی۔
خاصکر برہمنوں او رکبیوں (شاعروں) کی طرف ایک برہمن کی برہمداس نامی کالپی کا رہنے والا
ہنود کی مداحی میں نامور۔ فہم و ادراک میں بلند پایہ بادشاہ کا ملازم ہوا۔ بادشاہ کی ہمزبانی
سے اس نے مزاج میں دخل پیدا کیا۔ روز بروز اسکی تربیت سے منصب عالی پر پہنچا۔
شرف ندیمی سے مشرف ہوا۔ اول کب رائے (ملک الشعراء) کا خطاب ہوا۔ بعد ازاں راجہ بیربل
(یعنی بہادر نامور) کا خطاب ملا۔ راجہ جیچند حاکم نگرکوٹ سے بادشاہ کا مزاج برہم ہوا۔
جیچند کو مقید کیا۔ اور ولایت نگرکوٹ راجہ بیربر کو جاگیر میں عنایت کی۔ اور حسین قلیخاں کو
حکم ہوا کہ مرزا یوسف خاں وجعفر خاں وفتح خاں چنباری ومبارک خاں گکھر وغازی خاں اور
امرائے پنجاب کو لیکر ہری چند سے نگرکوٹ لیکر راجہ بیربر کو دلادی۔ راجہ بیربر لاہور میں آیا۔
حسین قلیخاں مع اور امراء پنجاب کے نگرکوٹ پر متوجہ ہوا۔ جب یہ سیاہ دھمری کے قریب پہنچی
تو یہاں کا ناظم چھوٹو نام جو جے چند کا رشتہ دار تھا اور اپنے قلعہ کی استواری پر مغرور تھا۔ خود تو
ایک گوشہ میں چھپ گیا۔ اور اس نے وکلا کو پیشکش دیکر بھیجا اور عرض کیا کہ میں خوف کے سبب سے خدمت
میں حاضر نہیں ہوا۔ مگر راہداری کا کفیل ہوں۔ حسین قلیخاں نے وکلا کو خلعت دیکر رخصت کیا
اور ایک قریہ میں کہ سر راہ تھا اپنا تھانہ مقرر کیا اور آگے چلا۔

جب قلعہ کوٹلہ میں پہنچا تو یہاں مقام کیا۔ یہ قلعہ بہت بلند ہے۔ وہ پہلے گوالیار (پہاڑوں
میں ہے) کے راجہ رامچند سے متعلق تھا۔ مگر راجہ دھرم چند اور راجہ جے چند نے بزور اس سے
چھین لیا تھا۔ راجہ جے چند کی طرف وہاں جو افسر محافظ مقرر تھے اُنھوں نے اس لشکر پر
کہ لوٹنے گیا تھا تیر و تفنگ چلائے جب حسین قلیخاں خان جہاں نے یہ حال سُنا تو وہ
گھوڑے پر سوار ہو کر اطراف قلعہ کو ملاحظہ کرنے گیا۔ قلعہ کے محاذی اس نے ایک پہاڑ

دیکھا کہ وہ قلعہ کا سرکوب ہوسکتا تھا۔ اس پہاڑ پر نہایت مشقت سے توپیں چڑھائیں اور وہاں سے
اُنھیں قلعہ پر چلایا۔ لوگوں سے قلعہ کی عمارات شق ہونی شروع ہوئیں۔ اور بہت سے آدمی
اسکی دیوار کے نیچے دب مر گئے۔ اور قلعہ میں بڑی کھلبلی پڑی۔ جب عصر کا وقت آیا تو حسین قلیخاں اپنے
خیمہ میں آیا۔ اور مورچے پر شکر کو چھوڑ آیا۔ توپوں کے صدموں سے راجپوت جو قلعہ کے اندر تھے رات
کو سب بھاگ گئے۔ جب صبح کو حسین قلیخاں کو خبر ہوئی تو وہ ڈنکا بجاتا ہوا قلعہ کے اندر گیا۔ اور راجہ
گوالیار کو یہ قلعہ دیدیا۔ اسی کے باپ دادا کا وہ تھا۔ مگر یہاں اپنا تھانہ بھی مقرر کیا۔
اب حسین قلیخاں آگے چلا تو ایک جنگلستان ایسا آیا کہ درختوں کی کثرت سے وہاں مور و
مار کا گذرنا مشکل تھا۔ ایک گروہ جنگل کو کاٹکر راستہ بناتا تھا تو لشکر چلتا تھا متواتر کوچ
کرکے اول رجب ۹۸۰ھ کو راجہ رامچندر کے باغ چوگان میں کہ نگر کوٹ کے قریب تھا
پہنچا۔ لشکریوں نے اپنے زور بازو و شجاعت سے پہلے ہی حملہ میں حصار بھول کو جو مہامائی
کا مندر تھا لے لیا۔ یہاں سوا پجاریوں کے اور کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ راجپوتوں کی ایک
جماعت جنھوں نے اپنا مرنا ٹھان لیا تھا خوب بہادری سے لڑی اور مری۔ وہ برہمن
جو ایک لمحہ اُس بتخانہ سے جُدا نہ ہوتے تھے اور چند سال سے اس کی خدمت کرتے تھے
اُنھوں نے بھی لڑکر اپنی جان اسپر سے قربان کی۔ اس ہنگامہ فساد میں بتخانہ کو
دارالامن سمجھکر ہندوؤں کی دو سو کالی گائیں چلی آئیں تھیں۔ بعض سادہ لوح ترکوں نے
اُن کو ایسے وقت میں کہ تیر و تفنگ مینہ کی بوندیوں کی طرح برس رہے تھے ذبح کیا اور اُنکے
خون کو اپنے موزوں میں بھر کر بتخانہ کی دیواروں اور چھتوں پر پھینکا۔ نگر کوٹ کا شہر
بند بیرونی ان کے قبضہ میں آگیا۔ ان کی عمارات کو ڈھا کر لشکر کے اُترنے کے لیے
میدان صاف کیا۔ پھر قلعہ کے محاصرہ میں مصروف ہوئے۔ ساباط و سرکوب تیار کیے
چند بھاری توپیں اس پہاڑ پر کہ قلعہ کے محاذی تھا چڑھائیں۔ ہر روز چند توپیں قلعہ اور
راجہ کے مکانات پر ماری جاتیں۔ اتفاقاً ایک دن کار فرمائے توپ خانہ نے اس

مکان پر توپ لگائی جس کو مستحکم سمجھکر راجہ وہاں کھانا کھانے آیا تھا۔ اسی آدمیوں کے قریب
اس مکان پر دب کر رہ گئے۔ ان میں سے ایک بھوج دیو ولد راجہ بختمل راجہ مؤ تھا۔ اوائل
شوال سنہ ۹۸۰ھ میں خطوط سے معلوم ہوا کہ مرزا ابراہیم نے ملک میں شورش برپا کی ہے اس لیے
بعض امرا کی یہ صلاح ہوئی کہ قلعہ کا صلح سے معاملہ طے کر کے اس کوہستان سے نکلکر مرزا کی
شورافزائی کا علاج پہلے اس کے آنے سے کرنا چاہیے۔ بعض امیروں کی یہ رائے تھی کہ بہت
محنت اُٹھا کر قلعہ کا کام اختتام کے قریب پہنچا ہے صلح نہیں کرنی چاہیے۔ امرا نے کہا کہ اس قلعہ
کے لینے اور نہ لینے کے ضرر و نفع کی مقدار معلوم۔ مگر مرزا کی فتنہ افزائی کا ایک سانحہ عظیم ہے۔
خانجہاں نے کہا کہ میں صلح اس شرط سے کرتا ہوں کہ ہر ایک اہل مجلس صورت مجلس کو لکھکر اپنی مہر
کردے۔ اگر اس محاصرہ کا اُٹھا دینا بادشاہ کی مرضی کے خلاف ہو تو ہر یک جوابدہی اپنی آپ کرے
امرا نے خط لکھ دیے اور صلح ان شرائط پر ٹھہری جس سے راجہ بہت خوش ہوا۔ اول راجہ اپنی لڑکی
بادشاہ سے بیاہنے کے لیے بھیجدے۔ دوم پیشکش لائق تیار کرے۔ سوم اپنے آدمی معتبر جیسے فرزند
خویش ہیں ہماری جمع خاطر کے لیے ہمراہ کرے کہ اگر شہریار کو یہ صلح نہ پسند ہو تو جب تک وہ قلعہ حوالہ
کرے یہ آدمی گرو (اول) میں رہیں چہارم یہ ولایت راجہ بیربر کو ملی ہے بہت سے مباخ اسکو
دیئے۔ راجہ نے چاروں شرطوں کو قبول کر لیا۔ خان جہاں نے پانچویں یہ شرط پیش کی۔
راجہ گوپی چند آن کر ملاقات کرے۔ راجہ کی تسلی کے واسطے مرزا یوسف خاں کو قلعہ کے
اندر بھیجا کہ وہ راجہ کے آنے تک وہیں رہے۔ راجہ ان کے ساتھ چلا آیا۔ خان جہاں نے
راجہ کو رخصت کیا۔ مگر راجہ نے کہا کہ اب تم غنیم سے لڑنے جاتے ہو۔ میں تمھارے لشکر کے ساتھ
چلتا ہوں۔ طبقات اکبری میں لکھا ہے کہ اہل قلعہ نے پانچ من سونا بوزن اکبرشاہی اور
اجناس قماش بادشاہ کی پیشکش کے لیے دے۔ راجہ جی چند کے محل کے سامنے ایک
مسجد (پیش طاق) بنایا گیا روز جمعہ اواسط شوال سنہ ۹۸۰ھ میں منبر پر حافظ محمد باقر نے
بادشاہ کے نام کا خطبہ پڑھا۔ خطیب نے بادشاہ کا نام تین دفعہ لیا اس کے سر پر سونا

نثار کیا گیا۔ سکہ جاری کیا گیا۔ اس لیئے ملا حسین قلیچخاں یہاں سے روانہ ہوا۔

بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنگدل حسداندوزوں کے لیے سرمایہ خوشدلی اور پراگندہ خاطر نفاق اندیشوں کے واسطے باعث نشاط۔ مگر حقیقت میں وہ افزائش اقبال شہنشاہی کے مقدمہ اور آمال و آمانی کی کنجی اور فتنہ فساد کے دروازہ کا قفل اور مواد اخلاص کی افزونی اور اہل نفاق کے لیے خمیر مایۂ ہلاکت ہوتے ہیں۔

بادشاہ کا دوبارہ گجرات جانا اور فتح و نصرت کے ساتھ مراجعت کرنا ۹۸۱ھ

اسی قبیل سے گجرات میں شورشوں کا برپا ہونا اور بادشاہ کا انکے مٹانے کے لیے جانا تھا جس کی شرح یہ ہے کہ جب بادشاہ خان اعظم کوکہ کو گجرات کے سب اختیارات دیکر دارالخلافہ کو روانہ ہوا تو خان نے دیکھا کہ ایدر کی حدود میں رائے نرائن یہاں کے زمیندار اور شیر خاں فولادی کے بیٹوں کے ساتھ اختیار الملک متفق ہوکر فساد برپا کررہے ہیں تو اس نے مہمات ملکی میں تاخیر کو مناسب سمجھا۔ وہ احمد آباد نہ گیا اور ایدر کی طرف روانہ ہوا۔ مرزا مقیم اس نواح میں جاگیردار تھا وہ فتنہ اندوزوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ خان سے آن ملا۔

خان اعظم اس گروہ کے استیصال میں مصروف تھا کہ محمد حسین مرزا نے تازہ فتنہ برپا کیا اسکی تفصیل یہ ہے کہ محمد حسین مرزا کو دولت آباد دکن کی حدود کی طرف سے خبر پہنچی کہ سورت سے بادشاہ اپنے دارالخلافہ کو روانہ ہوا۔ تو اس نے سورت کے لے لینے کا ارادہ کیا اور اس کی حدود میں آکر شورش برپا کی۔ مگر قلیچ خاں نے اپنے قلعہ کو لڑائی کے لیے تیار کیا تو مرزا نے اسکے لینے کا منصوبہ چھوڑ دیا۔ بروچ میں آیا اور قطب الدین خاں کے ملازموں سے ملکر اُسے لے لیا اور وہاں سے کھنبایت میں آیا حسن خاں بہوں کا شقدار اس سے مقابلہ نہیں کرسکتا تھا وہ بھاگ کر احمد آباد چلا گیا۔ مرزا کو بے جنگ کھنبایت ہاتھ آگیا۔ خان اعظم نے سید حامد و سید بہاءالدین و شیخ محمد مونگیری کو قطب الدین خاں کی مدد کو بھیجا۔ ان دنوں میں اختیار الملک وردہ جماعت کہ پہاڑوں کی تنگنائے میں چلے گئے تھے باہر آئے۔ خان اعظم نے ایک مستحکم جا اپنی پناہ گاہ بنائی تھی۔ مخالفوں کا گروہ اس پر دست اندازی نہیں کرسکتا تھا۔ اب اس گروہ نے یہ ارادہ کیا کہ احمد آباد

پر چڑھے ۔ اگر اعظم خاں اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلے تو اس سے لڑے نہیں احمد آباد پر قبضہ کیجئے
جب خان اعظم کو ان مخالفوں کی احمد آباد کی طرف جانے کی خبر معلوم ہوئی تو وہ جلدی سے اس
شہر میں آگیا۔ اسی رات کو محمد حسین مرزا کو کھنبایت میں شکست ہوئی تو خان اعظم کے لشکر
سے دور دور جاکر اختیار الملک اور پسران شیر خاں فولادی سے مرزا ملا۔ اس شکست کا حال
یہ ہے کہ خان اعظم کے ملازموں اور قطب الدین و سید حامد بخاری اور نورنگ خاں سے جو کھنبایت
میں پہنچے مرزا لڑا۔ باوجودیکہ اس پاس کم آدمی تھے مگر بہت ہاتھ پاؤں مارے اور شکست پائی
سید بہار الدین مارا گیا۔ امرائے اس فتح کو غنیمت جانا۔ اس کا تعاقب نہیں کیا۔

خان اعظم نے احمد آباد میں آکر اسکے مداخل و مخارج کو مستحکم کیا۔ چند روز بعد مخالف بھی احمد آباد
میں آگئے۔ دونوں میں روز لڑائیاں شروع ہوئیں۔ اگرچہ بادشاہی لشکر اس قدر تھا
کہ اگر وہ صف آرا ہوتا تو فتح کرتا۔ مگر خان اعظم کو اپنے ملازموں اور قطب خاں پر اعتماد
نہ تھا۔ اس لیے وہ اس کام میں مبادرت نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ کی نصیحت اسکو یاد تھی کہ اگر
مخالف جمع ہوکر ہنگامہ شورش گرم کریں تو جنگ میں نہایت حزم و احتیاط چاہیے۔ ایک دن
فاضل بیگ خاں نکلکر مخالفوں سے لڑا اور زخمی ہوا جس سے وہ مرگیا اور سلطان خواجہ گھوڑے
سے گر کر خندق میں جا پڑا۔ اس کو رسیوں سے نکالا۔ سب کی یہ رائے ہوئی کہ ان مخالفوں
سے لڑنا نہیں چاہیے۔ خان اعظم نے ایک عرضداشت تمام حال کی لکھکر سلطان خواجہ کے
ہاتھ بادشاہ پاس بھیجی۔ بادشاہ کو اس عرضداشت سے جب سارا حال معلوم ہوا تو ارادہ ہوا کہ
ایلغار کرکے وہاں جائے۔ لشکر شاہی ابھی ایک برس لڑکر گجرات سے آیا تھا اس نے
اپنی جاگیروں سے روپیہ نہیں وصول کیا تھا۔ اسلیے بادشاہ نے خزانہ شاہی سے روپیہ انکو دیدیا
اور بہت سا لشکر کا سامان تیار کیا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ سارا لشکر بھر بنگاہ سمیت جلد نہیں
جاسکتا۔ اس لیے اس نے دو ہزار کارآزمودہ منچلے بہادر چنے چنائے دلاور سپاہی
لیے اور رستہ کے حاکموں کو حکم بھیجا کہ جتنی کوتل سانڈنیاں ہوں تیار کرکے اپنی انتخابی فوج

ساتھ سر راہ حاضر ہوں۔ شجاعت خاں۔ راجہ بھگونت سنگھ۔ سید محمود بارھہ۔ رائے رائسنگھ کو پہلے سے روانہ کیا۔ مگر زبان سے یہ فرمایا کہ ہم سب سے پہلے سرکار پر کوئی نہیں پہنچے گا۔ دہلی کی حراست راجہ ٹوڈرمل اور امیروں کو سپرد کرکے ۲۴ ربیع الآخر ۹۸۱ھ کو سوار ہوا۔ تین چار جان نثار اور نامی سردار اور منصب دار اس کے ساتھ تھے۔ سانڈنیوں پر بیٹھکر کوتل گھوڑا لگا نہ دن دیکھا نہ رات جنگل اور پہاڑ کاٹ ساڑھے چار سو میں سفر کو نو دن میں ختم کیا جسکو قافلہ دو تین مہینے میں طے کرتا ہے۔ بادشاہ کبھی گھوڑے پر کبھی سانڈنی پر سوار ہوتا۔ کبھی گاڑی میں بیٹھتا۔ گاڑیبان سے وہ کہدیتا کہ خواہ کیسا ہی تجھکو آہستہ روی کے لیئے لوگ کہیں۔ مگر تو کچھ نہ سننا۔ اپنے آرام کی فکر اس سفر میں وہ نہیں کرتا تھا۔ راہ میں جالور کی نواح میں ایک کاروان سے گھوڑے خریدے۔ پٹن سے لشکر کو شائستہ طور پر مرتب کیا۔ راہ میں لشکر اس کے ساتھ جابجا سے ہوتا گیا یہاں سے خود سو سوار لیکر چلا۔ جب وہ موضع مالینہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مخالف یہاں قلعہ کو مستحکم کرکے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ بادشاہ نے اپنے لشکر کو بھیجکر ان شخصوں کو بھگایا اور مارا وہ قلعہ میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے محقر قلعہ کو اس لائق نہ جانا کہ خود اس پر متوجہ ہوتا بعد ازاں مرزا یوسف خاں اور قاسم خاں شکار کے لیے آتے تھے۔ ان کو دیکھکر اہل قلعہ بھاگ گئے۔ قلعہ فتح ہو گیا۔ بادشاہ جب احمدآباد سے تین کوس پر پہنچا تو آصف خاں کو احمدآباد میں بھیجکر سب مرزاؤں کو بلایا۔

جب بادشاہ کا لشکر غنیم کے قریب آیا تو یہ واقعہ عجیب پیش آیا کہ بادشاہ نے خود جیبہ (زرہ بکتر) پہنا اور ہتھیار بندوں کو جیبہ تقسیم کر رہا تھا کہ جیمل بسر روپسی کو دیکھا کہ وہ بدون جیبہ کے ہتھیار بند بیٹھا ہے بلکہ ایسا ہے کہ اس کے بوجھ سے دبا جاتا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کو خاص اپنا ایک زرہ بکتر جیبہ خانہ سے منگا کر عنایت کیا اور اس کا زرہ بکتر بال دیو کے پوتے کرن کو دیدیا اس پاس جیبہ نہ تھا۔ جب روپسی جیمل کے پاس گیا تو اس نے اپنی زرہ بکتر کو پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے تمام حال عرض کیا۔ روپسی اور مال دیو کے خاندان میں قدیم سے عداوت چلی آتی تھی۔ اس لیئے وہ ایسا خفا ہوا کہ

بادشاہ کی خوش اخلاقی

...... اس نے بادشاہ پاس آدمی بھیجکر زرہ بکتر اپنا منگایا۔ اس گستاخی پر بادشاہ خفا نہیں ہوا۔ بلکہ نہایت خوش اخلاقی سے جواب دیا کہ زرہ بکتر کے عوض میں ہم نے اپنا خاص زرہ بکتر دیدیا ہے۔ یہ جواب سنکر روپسی نے اپنا زرہ بکتر اُتار کر پھینکدیا اور کہا کہ اب ہم بغیر زرہ بکتر کے لڑینگے۔ بادشاہ نے اس معاملہ نافہم کو بجائے تادیب کرنے کے خود اپنا زرہ بکتر اُتار کر پھینک دیا۔ اور فرمایا کہ مجھکو یہ گوارا نہیں کہ میرے سردار مجھسے زیادہ جان جوکھوں میں پڑیں۔ یہ مردمی نہیں ہے کہ میں مسلح ہوں اور وہ بے سلاح ہوں۔ پیچھے بادشاہ سے روپسی کی طرف سے معذرت ہوئی کہ اس نے بھنگ کے نشہ میں یہ حرکت کی ہے۔ بادشاہ نے اس کی معذرت قبول کرلی۔

بادشاہ کو فتح ہونی اور محمد حسین مرزا گرفتار ہونا ۹۸۱ھ

بادشاہ نے ۵ رجمادی الاول ۹۸۱ھ کو لڑائی میں فیروزی پائی جسکی تفصیل یہ ہے کہ جب بادشاہ کا لشکر غنیم کے قریب آیا تو غنیم سامنے نہ آیا بعض مقربین بادشاہ نے عرض کیا کہ شب خون مارنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں خدعہ ہے ؎ شب خون بودن شیوہ بیدلان است + از ین ننگ دارند خیل یلان + بادشاہ نے نقارۂ جنگ بجایا مخالفوں کو اپنی کثرت پر غرور تھا محاصرہ تنگ کر رکھا تھا اور شیر خان فولادی کے آنے کے منتظر تھے۔ جب بادشاہ کا لشکر سابرمتی کی ندی پر آیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ فوج آئین کے ساتھ مرتب ہوکر دریا کو عبور کرے۔ امرا لشکر گجرات کے منتظر تھے کہ اس اثنا میں تین سو سوار گجراتیوں کے جو مقام سرکیچ سے پھرے تھے نمایاں ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بندوقچیوں کو حکم ان سے لڑنے کا دیا۔ سوار بھاگ کر اپنے مورچل میں چلے گئے۔ جب بادشاہ کے نقارہ اور کرنا کا آوازہ دشمن کے لشکر کے کان میں پہنچا تو محمد حسین مرزا سراسیمہ ہوکر برہم آوا لی آیا۔ سبحان قلی ترک اور کئی بہادر اس دریا کے کنارہ پر کھڑے مخالف کا تجسس حال کررہے تھے۔ مرزا نے بآواز بلند اس فوج کا حال استفسار کیا۔ سبحان قلی نے مرزا کے ڈرانے کو جواب دیا۔ اے بیخبر تجھے خبر نہیں کہ یہ شاہی لشکر ہے اور اعلحضرت شہنشاہ ہے۔ کیا کھڑا پوچھتا ہے جا اپنی جماعت کو

رہبری کر۔ محمد حسین مرزا نے کہا کہ اے برادر تو مجھے ڈراتا ہے اور اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے۔
چودھواں دن ہے کہ میرے جاسوسوں نے ایک خبر دی ہے کہ بادشاہ فتحپور میں ہے۔ اس پر
سبحان خاں نے قہقہہ مارا۔ مرزا نے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے کہ شہنشاہ یہاں آیا ہے تو اسکے نشان
کے ہاتھی کہاں ہیں جو اسکے ساتھ رہتے ہیں۔ سبحان خاں نے اسکا جواب دیا کہ بادشاہ کو نواں
دن ہے کہ فتحپور سے چلا ہے۔ ہاتھیوں کو کیا ہاتھ پر اٹھا لاتا۔ تو مرزا کو یقین بادشاہ کے آنے کا
ہوا اور وہ اپنے لشکر میں دوڑا گیا اور تسویہ صفوف میں مصروف ہوا۔ جب بادشاہ کو معلوم
ہوا کہ غنیم اسکے آنے سے بے خبر تھا۔ تو اپنی مردانگی اور فتوت کے سبب لڑائی میں اتنا توقف
کیا کہ اسکو خبر ہو جائے۔ نقارہ بجا کر اپنے آنے کی اسکو اطلاع کی کہ قراول خبر لائے کہ غنیم
جیبہ پوشی وصف آرائی کر رہا ہے۔ حکم شاہی صادر ہوا کہ دریا سے عبور ہو۔ ہر چند امراء نے
سمجھایا کہ نشان کالاں کے لشکر کو آنے دیجئے۔ مگر اس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا
پایاب تھا لشکر اتر گیا۔

مرزا نے ولی خاں پسر جھار خاں حبشی کو دست راست کی فوج کا سردار بنایا اور حبشیوں
اور گجراتیوں کی ایک جماعت اسکے ساتھ کی محمد خاں پسر شیر خاں فولادی کو افغانوں کے
انبوہ کے ساتھ دست چپ سپرد کیا۔ شاہ مرزا بہت سے بدخشی ماوراء النہری کہ جنکے خود با تنخواہ
حرام نمکی سے پرورش پائے تھے اپنے ہمراہ لیے اور بادشاہ سے لڑنے کو تیار رہا۔ بیس ہزار سپاہ
کی جمعیت اسکے ساتھ تھی۔ بادشاہ دریا سے ایک کوس پر بلندی پر بیٹھا لشکر کا تماشہ دیکھ رہا
تھا۔ کہ آصفخاں نے آنکر عرض کی۔ مرزا کو کہ کو کہ حضور کے آنیکی خبر نہیں ہوئی۔ جب کوئی
حضور کی تشریف آوری کی خبر دیتا تھا تو اسکو وہ میر ابوتراب اور تمام دولتخواہوں کے لطائف الحیل
سمجھتا تھا جب سکو قسمیں دیکر خاطر نشان کیا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو اب وہ لشکر گجرات کو آراستہ
کر کے آنے پر مستعد ہوا ہے۔ ابھی اس نے اپنی سرگذشت پوری نہیں کی تھی کہ غنیم کا لشکر درختوں
میں سے نمودار ہوا۔ ہراول بادشاہی لڑنے گیا۔ مگر شکست پا کر الٹا چلا آیا۔ بادشاہ نے راجہ

بھگونت داس سے کہا کہ اگرچہ غنیم کا لشکر بظاہر بہت ہی مگر عنایت ایزدی ہمارے ساتھ زیادہ ہی
آؤ ہم تم یکدل ویک روے ویک راہ ہو کر اُس فوج سے چلکر لڑیں جس لشکر کی بیرقین سُرخ
ہین وہ محمد حسین مرزا کا لشکر ہی اگر اس کا کام تمام کر دیا تو بیڑا پار ہی۔ محمد حسین مرزا اپنے لشکر میں
سب سے آگے بڑھ کر آتا تھا۔ شاہ قلی خاں محرم وحسین خاں نے عرض کیا کہ تاخت کا وقت ہی۔
بادشاہ نے فرمایا کہ عقل دوربین معاملہ داں ہمیشہ واعظ ونگہبان وکار فرماے آدمی زاد کی ہی۔
ابھی یہ دور کا ہی اور ہم بظاہر کم ہیں دور جا کر تاخت اور آویزش کرنے میں جمعیت لشکر میں پراگندگی
ہوگی اور کوئی شائستہ کام نہیں ہوگا۔ جوہر مردانگی ظاہر نہ ہوگا اور ... حقیقت ... ...
سے اسکی توضیح کی کہ ہاتھ کی انگلیوں کو باندھکر گھونسہ مارئے تو وہ زیادہ اثر کرتا اور کارگر ہوگا۔
بہ نسبت اسکے کہ پانچوں انگلیوں کو کھول کر مارئے۔ وہ دانستہ آہستہ آہستہ ... دلی و
مردانگی سے خراماں خراماں چلا۔ اپنے لشکر کو دائیں خود دیکھتا تا۔ مراتب دلیری بجا لاتا۔
جس سے وہ یک دل سے ہزار دل ہوتے ان کا اخلاص بڑھتا۔ معاملہ دانی رونق پائی۔
بادشاہ کی فوج دشمن کے نزدیک ہوئی۔ مگر اس میں نظم ونسق نہ رہا۔ برانغار کی فوج شکست
پا کر اُلٹی پھری۔ جب مخالف بہت نزدیک ہوا تو اُس پر تاخت کی۔ اللہ اکبر کے نعرہ کا اور
سورنا کے زمزمہ کا شور ہوا۔ حقیقت عظیم ہوئی۔ ایک دو تلواروں کے ہاتھوں کی رد وبدل
میں بادشاہ کے دست راست کی فوج کو غنیم نے پسپا کیا۔ محمد حسین مرزا نے بادشاہ کی
جانب چپ کی سپاہ کو مار ہٹایا۔ وہ یہ جانکر کہ کھیت میرے ہاتھ آیا کچھ آگے گیا تھا کہ بادشاہ
کی فوج توں نے مرزا کے جرانغار و برانغار کو مار کر تباہ کر دیا جسکی تفصیل آگے ہوتی ہے۔
مان سنگہ درباری اور رگھو داس کچھواہہ و محمد وفا و کرن نبیرہ مالدیو نے بڑی بڑی جوانمردیاں
کیں۔ رگھو داس کی جان گئی اور محمد وفا زخمی ہوا۔ اس زد وخورد میں ایک جوان مرد
نے بادشاہ پر شمشیر کا ہاتھ چلایا جو اُسکے گھوڑے پر پڑا جس سے وہ چراغ پا ہوا۔
مگر اس شہسوار شہریار نے گھوڑے کو سنبھال کر شمشیر زن کو برچھہ مارا کہ اس کے اندر

بیٹھ گیا۔ جب اس کو کھینچا تو سنان اسکی ٹوٹ گئی کہ دوسرے آدمی نے آنکر پادشاہ کی ران میں تلوار ماری مگر پادشاہ بچ گیا۔ ایک اور آدمی نے آنکر نیزہ مارا۔ مگر چیلہ گوجر نے برچھے سے اُس کو مار ڈالا اُسی وقت قول پادشاہی دردمند ہوکر پادشاہ سے نزدیک ہوئی۔ اس فوج میں ہا میر بدخشی نے اپنی بدذاتی و بیخبری سے پادشاہ کی خبر ناخوش اُڑادی تھی۔ پادشاہ نے جب ہر قول کی فوج میں جاکر اپنی آواز اُس کو سنائی تو اسکی جان میں جان آئی۔ اور دشمن کے دفعہ کرنے میں وہ متوجہ ہوئی۔ سید محمود خاں بارہہ اور رائے رایسنگہ و فرحت خاں قول سے جدا ہوکر لڑے اور فتح پائی پادشاہ آہستہ آہستہ احمدآباد کی طرف جاتا تھا اور مرزا کوکہ اور لشکر گجرات کے دیر لگانے کا سبب پوچھتا تھا کہ مغل کلانوت نے آنکر کہا کہ یوسف خاں کوکلتاش مارا گیا۔ پادشاہ اسکے مرنے کے افسوس میں تھا کہ مژدہ فتح پہنچی کہ محمد حسین مرزا گرفتار ہوا۔ قول شاہی سے لڑتے میں اسکے چہرہ پر زخم لگا تھا وہ بھاگا جاتا تھا کہ گھوڑا اُس کا سہوں کے کانٹوں سے گرا۔ گدا علی جو کہ پادشاہی تھا وہ اس پاس گیا اس سے کہا کہ تو آئین تجھے بچا لونگا۔ اس نے قبول کیا۔ اس کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھاکر پادشاہ پاس لے چلا۔ خان کلاں کا ملازم ساتھ ہولیا۔ جب وہ حضور والا میں آیا تو دونوں میں سے ہر ایک نے دعوی کیا کہ میں نے مرزا کو پکڑا ہے۔ پادشاہ نے مرزا سے پوچھا کہ تم بتاؤ کس نے تم کو پکڑا ہے تو اُس نے جواب دیا کہ مجھے کسی نے نہیں پکڑا۔ حضور کے نمک نے گرفتار کیا ہے۔ پادشاہ نے مرزا کے ہاتھ جو پیچھے بندھے ہوئے تھے کھلواکر مانسنگہ درباری کے حوالہ کیے۔ شاہ مدد کوکہ مرزا کا کوکہ تھا پادشاہ کے روبرو لائے اُسکو پادشاہ نے اپنے نیزے سے مار ڈالا اُس نے سرنال کی لڑائی میں بھپت برادر راجہ بھگونت داس کو مارا تھا

محمد حسین مرزا نے مان سنگہ درباری سے پانی مانگا۔ فرحت خان چیلہ نے اُسکے سر پر دستہ ماری کہ ایسے شورانگیز بدخواہ دولت کو پانی پلانا کس آئین میں درست ہے۔ پادشاہ نے جب انکا شور سُنا تو فرحت خاں پر اعتراض کیا اور آب خاصہ طلب کرکے اسکو پلا کر اپنی عنایت سے سیراب کیا۔ ابر رحمت برسایا۔ برق مہربانی چمکائی۔ حوصلہ کا روز بازار دکھایا۔ قدردانی کی

آرائش پدید کی۔ جرم بخشی و مجرم نوازی کا رتبہ بلند کیا۔ اپنی والا فطرتی و فتوت و اہلیت مردانگی کی داد دی۔

ابھی بادشاہ پاس کوکہ مرزا نہیں آیا تھا کہ بادشاہ آگے بڑھا جاتا تھا۔ اُس نے رائے رائسنگھ کو حکم دیا کہ محمد حسین مرزا کو ہاتھی پر ڈال کر ساتھ لے چلو۔ اسوقت اکثر آدمی بادشاہ کی استراحت کے لیے گوشوں میں چلے گئے تھے۔ سو آدمیوں کے قریب بادشاہ کے پاس تھے کہ سامنے سے ایک فوج نمودار ہوئی جس میں پانچہزار آدمیوں سے زیادہ معلوم ہوتے تھے بعض یہ سمجھے کہ فوج گجرات مرزا کوکہ کی ہے۔ بعض نے کہا کہ شاہ مرزا کا لشکر ہے۔ جو محمود آباد کو ابتدا جنگ میں بھاگ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ اختیار الملک اس لشکر کو لیے چلا آتا ہے۔ بادشاہ کا لشکر اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کے سبب سے ڈرا نقارہ جنگ کا حکم ہوا۔ مگر نقارچی کے خوف کے مارے ایسے ہوش اُڑے ہوئے تھے کہ اُسے بادشاہ کا حکم سُنائی نہیں دیا۔ برچھے سے ہوشیار کیا گیا۔ تو اُس نے نقارہ پر چوب لگائی شجاعت خاں اور راجہ بھگونت سنگھ نے آگے بڑھکر مخالفوں پر تیر چلائے۔ اس ہنگامہ میں بادشاہ کے حکم سے محمد حسین مرزا کا سر جدا کیا گیا۔ یہ فوج کہ پرشکوہ معلوم ہوتی تھی جستی لشکر شاہی کے قریب آتی جاتی تھی۔ پراگندہ ہوتی جاتی تھی۔ اختیار الملک کچھ آدمیوں کو ساتھ لیکر اس سے جدا ہوا کہ مہلکہ سے نکل جائے۔ کہ خار بست زقوم کے صدمہ سے زین سے زمین پر گرا۔ سہراب ترکمان جو بادشاہی یکون میں تھا۔ اسکے پیچھے جاتا تھا۔ اس کا سر تن سے جدا کیا۔ یہ لشکر احمد آباد کا محاصرہ کر رہا تھا۔ جب اس نے سُنا کہ بادشاہ آتا ہے اور محمد حسین مرزا گرفتار ہو گیا ہے تو وہ حواس باختہ ہو کر گریزاں ہوا۔ اختیار الملک دو سو آدمیوں کے ساتھ بادشاہ کے لشکر کی دہشت دست کی طرف سے اور فوج کلاں فیلان آراستہ کے ساتھ بائیں طرف سے بھاگ گئی۔ بادشاہ کو فتح حاصل ہوئی۔ نو دن میں بادشاہ نے وہ کام کیا جو برسوں میں ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں دشمنوں کے بارہ سو آدمی مارے گئے۔ اور زخمی جو ادھر اُدھر بھاگے انمیں پانچسو جنگلوں میں مر گئے۔ اور پانچسو

نیجان نکل گئے۔ غرض ان مرزاؤں کا حال یہ ہوا کہ ابراہیم حسین مرزا تو سعید خاں کی قید میں ہلاک ہوا
محمد حسین مرزا اس لڑائی میں تلوار سے قتل ہوا۔ شاہ مرزا کہیں بھاگ گیا۔ بادشاہ کی طرف سو آدمی
مارے گئے جنمیں نامور آدمی یہ تھے سیف خاں کوکہ سہراب خاں لہزاد صادق خان راگھوداس و عمر علی جلائر۔
جب بادشاہ کو اختیار الملک سے فراغت ہوئی کچھ دن باقی تھا کہ ایک فوج آراستہ
نمودار ہوئی۔ قریب تھا کہ لشکر شاہی سے ایک مٹ بھیڑ ہو کہ شیخ محمود غزنوی نے اطلاع دی
کہ مرزا کوکہ کا لشکر آتا ہے۔ بادشاہ اس سے خوش ہوا اور کوکہ مرزا پر ایسی عنایت و شفقت
کی جیسے کہ باپ بیٹے پر کرتا ہے۔ اختیار الملک کا سر بادشاہ پاس سہراب لایا۔ بادشاہ سجدۂ
شکر میں جبہ سا ہوا۔ عبرت عوام کے لیے اس نے باغیوں کے سروں کا مُنار بنایا۔
کوئی لکھتا ہے کہ آخر روز میں بادشاہ احمد آباد میں آیا منازل سلاطین گجرات میں گیا۔ اور
فتح نامے تیز رو قاصدوں کے ہاتھ چاروں طرف روانہ کیے اور اپنے جان نثار مخلصوں
کو انعام اکرام دیا۔ اپنے دارالخلافہ آگرہ کی طرف مراجعت کا عزم مصمم کیا۔ مرزا کوکہ نے بعض
ارباب علم اور اصحاب گوشہ نشین کا شکوہ کیا کہ وہ ان فتنہ اندوزوں کے ہمراہ تھے
ان میں سے ایک شیخ وجیہ الدین کہ علم معقول و منقول میں متصف تھے اور آداب قناعت
و عزلت و اصلاح نفس میں اشتغال رکھتے تھے۔ اُنھوں نے حرام خوروں کا مال اپنے گھر میں بہت
کچھ جمع کر رکھا تھا۔ جب شیخ سے پوچھا کہ آپ کو ان امور سے کیا مناسبت تھی۔ مولوی نے عرض کیا
کہ آشنائی اور آنکھوں کی شرم اسکا سبب ہوئی۔ کہ میں نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر
ان کو دیدیا۔ وہ سچا معلوم ہوتا تھا اس لیے بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ میر غیاث الدین قادری کے
فرزندوں کے گھر میں سے اختیار الملک کے اموال برآمد ہوئے۔ ان کو بھی بادشاہ کی
دور بینی اور غریب پروری سے نجات ہوئی۔ شیخ مظفر خویش شیخ عبدالنبی کہ صدر گجرات
تھے اور رشوت ستانی کے سبب سے مرزا نے ان کے سر پر جوتیاں لگوائیں تھیں۔
ان کو بھی بادشاہ نے معاف کر دیا بہت سے مخالف نکلے زخمی بادشاہ کے روبرو آئے انکو بھی نجات دی

آگرہ آباد میں پادشاہ اعتماد خاں گجراتی کے مکانات میں اُترا ہوا تھا کہ شجاعت خاں نے منعم خانخاناں کی نسبت کلمات ناشائستہ زبان سے نکالے اور مجلس معلی کا ادب مرعی نہ رکھا اور دولت شاہی کے اس تورہ کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ حافظ حدود اور مرتب مراتب ہے اس بے ادب کی تادیب ضرور تھی اس کو قاسم خاں کے حوالہ کیا کہ اسکو خانخاناں پاس لے جائے۔ اُس کا جو جی چاہے وہ اسکا حال کرے۔ قطب الدین اور نورنگ خاں کو بروج کی طرف بھیجا کہ شاہ مرزا اس طرف بھاگا ہے اس کا علاج کرے۔ راجہ بھگونت داس اور شاہ قلی خاں محرم اور لشکر خاں کو رخصت کیا کہ وہ ایدر کی راہ سے رانا کی ولایت میں جائیں۔ اور ان حدود کے سارے گردن کشوں کو تابع بنائیں اور جو سرکشی کرے اس کی تنبیہ و تادیب شائستہ کر کے خواب غفلت سے بیدار کریں۔ شہر پٹن کی حکومت بدستور خان کلاں کو عنایت ہوئی۔ دندوقہ و دولقہ اور بعض درمحال وزیر خاں کو مرحمت ہوئے۔

گیارہ روز میں مملکت گجرات کی مہمات سے پادشاہ نے انفراغ پایا۔ یکشنبہ ۶ ار جمادی الاولی ۹۸۱ھ کو دارالخلافہ کے قصد سے چلا۔ محمود آباد میں اوّل منزل ہوئی۔ مرزا کوکہ کو رخصت کیا۔ خواجہ غیاث الدین علی قزوینی کو گجرات کی بخشیگری عنایت کی کہ وہ باستصواب مرزا کوکہ کے اپنے کام کو رونق دیا کرے اور آصف خاں کا خطاب دیا۔

چار دن بعد جب ست پور میں پادشاہ آیا تو معلوم ہوا کہ راجہ بھگونت داس جو ایدر کی راہ سے بھیجا گیا تھا اس نے قصبہ بدھ نگر میں شیر خاں فولادی کے غلام روپیا نے قلعہ کو استحکام دیکر لڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ مگر وہ انجام بینی سے جو گیوں کے لباس میں قلعہ سے بھاگ جاتا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ پادشاہ اجمیر آیا اور بشارت الٰہی زیارت روضہ خواجہ معین الدین کی بجا لایا۔ اور حکم دیا کہ لشکر آہستہ آہستہ چلے اور خود بطور ایلغار دارالخلافہ کو روانہ ہو کر ٹبہ میں آیا تھا کہ راجہ ٹوڈرمل جسکو دارالخلافہ سے بلایا تھا وہ یہاں آیا۔ اسکو پیچ گجرات کی تحقیقات اور بعض مہمات کی تنقیح کے لئے گجرات روانہ کیا کہ بمقتضاء فور کاردانی

پادشاہ کا گجرات سے دارالخلافہ کو آنا ۹۸۱ھ

عدالت ونصفت کے موافق بغیر اغراض بشری و دوامی طمع متمع مقرر کرے اور اسکی نقل پادشاہ پاس
بھیجدے کہ متصدیان کارگاہ سلطنت اسکے موافق سپاہ و رعیت کے ساتھ عمل کریں۔ ۸۔ جمادی الاخری
کو پادشاہ دار الخلافہ میں داخل ہوا تینتالیس دن اس آنے جانے میں لگے۔ پادشاہ کے کارہائے عظیم
میں سب سے بڑا کام مہم گجرات کا انصرام دینا سمجھا جاتا ہے سپاہ جو ایدر کی طرف بھیجی گئی تھی اس نے قلعہ بدہ نگر
پر قبضہ کیا۔ ایدر کا زمیندار نراین داس تھا وہ خدمات شائستہ بجالایا پیشکش پادشاہ کے لئے روانہ کی
گوگندہ میں جہاں رانا رہتا تھا۔ اس نے پادشاہ پاس نہ حاضر ہونے کے بہت سے عذر کئے اور راجہ
بھگونت داس کو اپنا شفیع بنایا۔ اور چھوٹا بیٹا ساتھ کیا۔ اور عرض کیا کہ میں خود خوف کے مارے حاضر نہیں ہو سکتا
یہ خوف دور کر کے حاضر ہونگا۔ کچھ دنوں بعد راجہ ٹوڈرمل جو گجرات کی جمع مقرر کر کے پادشاہ
پاس آتا تھا تو اس سے بھی رانا نے یہی عذر پیش کیا۔ پادشاہ نے مظفر خاں کو وکیل سلطنت مقرر
کیا۔ جب اسے داغ سپاہی کا سخن درمیان آیا۔ تو وہ حقیقت معاملہ پر نہ پہنچا۔ بیہودہ باتیں
بنانے لگا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آقا اور نوکروں میں مخالفتوں کا ہونا پادشاہ کو ناگوار خاطر
تھا۔ دون ہمت زر بندہ ملازم جو عقل و اخلاص سے کچھ فروغ نہیں رکھتے۔ اوروں کے
نقصان میں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں۔ بہت بے انصافی و بے تمیزی و قدر ناشناسی عمل میں آتی
ہے۔ اس سبب سے نوکر تھوڑی سی نا ملائمی میں بے وفا نوکر دوسرا صاحب قبول کر لیتا ہے
اور تیہ روائی سے اپنی بیوفائی کی برائی پر خیال نہیں کرتا۔ آقا اور سردار بھی مغلوب آز ہو کر
جمع مال میں کوشش کرتے ہیں۔ ناموس کی بقا کا خیال نہیں کرتے۔ کچھ نوکروں کو دیتے ہیں اور
ناموس کی عوض میں درہم و دینار جمع کرتے ہیں اس لئے پادشاہ نے ارادہ کیا کہ معاملہ قانون
داغ اور ممالک محروسہ کا خالصہ بنانا۔ اعیان دولت کا پایہ مقرر کرنا۔ اور جمعیت
و خدمت و اخلاص و بے غرضی و کار طلبی کی رعایت کرنی اور رواتب و وظائف
و آذر اوات مقرر کرنا یہ سب کام اپنی خرد دوربین سے عدالت کے موافق مقرر کرے
اس کا ذکر راجہ ٹوڈرمل سے بھی کیا تو اس نے یہی عرض کیا کہ یہ اندیشہ صواب ہے لیکن

ظن غالب یہ ہے کہ منعم خاں و مظفر خاں اس معاملہ پر راضی نہ ہوں۔ پادشاہ نے جب یہ باتیں مظفر خاں سے کہیں۔ اس نے خود آرائی اور معاملہ نشناسی سے اس آئین کے رواج میں تساہل کیا اس لئے اکبر پادشاہ کی نظر عاطفت سے گر گیا۔ اب اکبر کا دوسرا بڑا کام یہ تھا کہ اس نے بنگالہ و بہار کو فتح کیا۔

جب مبارز خاں عرف شاہ عدلی فرمانروائی اور پادشاہی کا مدعی تھا تو تاج خاں کرانی اپنے بھائیوں سمیت بہار میں آیا۔ محمد خاں حاکم بنگالہ کے عہد میں شورش برپا کرتا رہا اور بہادر شاہ کے زمانہ میں گریز و نفاق کو رواج دیتا رہا۔ جب بہادر شاہ اپنی موت مرگیا۔ اور اسکے بھائی جلال الدین نے بہار و بنگال کی ریاست کا دعوی کیا تو ان دونوں بھائیوں تاج خاں و جلال الدین میں کبھی مخالفت سے کبھی موافقت سے بسر ہوتی تھی۔ بہت سے واقعات کے بعد جلال خاں مرگیا۔ اور تاج خاں ریاست بنگالہ اور بہار کا مالک ہوگیا اور یہ بھی تھوڑے دنوں میں ملک عدم کو روانہ ہوا۔ اس کا چھوٹا بھائی سلیمان کرانی بنگالہ و بہار اور اس کے حدود پر مستقل حاکم ہوا۔ خان زمان سے دوستی پیدا کرکے اپنے تئیں مستقل کر لیا۔ بے سر افغان سب اس کے گرد جمع ہوگئے اس نے خزانے اور ہاتھی بہت سے جمع کئے۔ جب خان زماں اپنی بد افعالی کی سزا میں گرفتار ہوا اور شہنشاہ اکبر نے منعم خاں خان خاناں کو جونپور اور اس کے نواح کی حکومت حوالہ کی جس کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے۔ زمانیہ جس کو خان زمان نے آباد کیا تھا اس میں خان زمان کی طرف سے اسد اللہ خاں حاکم تھا۔ جب خان زمان مرگیا تو اسد اللہ خاں نے سلیمان پاس آدمی بھیجکر ایک حاکم طلب کیا کہ زمانیہ اس کو سپرد کرکے نمک حرام بنے۔ مگر خان خانان کو جب اس امر کی اطلاع ہوئی تو اس نے آدمی بھیجکر اسد اللہ خاں کو سمجھایا وہ نصیحت پذیر ہوا اور خان خاناں کے گماشتہ قاسم مشکی کو زمانیہ سپرد کرکے خود خان خاناں پاس چلا آیا۔ افغانوں کا لشکر جو زمانیہ کے خیال سے آیا تھا وہ بے بہرہ پھر گیا۔ لودی کہ عقل و تدبیر میں افغانوں کے اندر ممتاز تھا وہ سون ندی کے کنارہ پر سلیمان شاہ کا وکیل مطلق تھا اس نے

بنگالہ میں سلیمان حاکم بنگالہ کی شکست اکبر کا مظفر خاں پر غصہ ۹۸۰ھ

یہ دیکھکر کہ خانخاناں صلح جو اور مصالحہ طلب ہے اس سے دوستی پیدا کرلی اور اس طرح افواج شاہی کے صدمات سے اپنے ملک کو امن کرلیا۔ اسکے اور منعم خاں کے درمیان تحف و ہدایا و رسل و رسائل بھیجے جاتے تھے جس سے رابطہ رسمی کو ہر ایک طرح کا استحکام ہوتا تھا۔ جسوقت کہ پادشاہ قلعہ چتوڑ کی فتح کو روانہ ہوا تو راجہ اڈیسہ اور ابراہیم کے استیصال کے درپے سلیمان تھا منعم خانخاناں سے اسکو اطمینان نہ تھا اسلئے وہ لودی کے وسیلہ سے سلسلہ یکجہتی کا محرک ہوا کہ اس سے خاطر جمع ہو۔ دوستانہ خط و کتابت کے بعد یہ امر قرار پایا کہ منعم خانخاناں اسکی ملاقات کو آئے۔ خانخاناں یہ سوچا کہ سلیمان سے ملنے سے ظاہری انتظام ہو جاویگا اگرچہ دوربین خیرخواہ اس اندیشہ ناصواب کے مانع ہوئے۔ مگر وہ سوچنے چنے امیر ہمراہ لیکر پٹنہ چلا۔ راہ ہی میں لودی نے آنکر تعظیم و احترام کی رسم کو ادا کیا۔ بعد ازاں سلیمان کا بڑا بیٹا بایزید آیا۔ جب پٹنہ پانچ چھ کوس رہا تو سلیمان استقبال کو آیا۔ اول خانخاناں نے سلیمان کو اپنی منزل میں بلاکر جشن کیا۔ دوسرے روز سلیمان نے خانخاناں کی مہمانی کی اور منبر پہ شہنشاہ اکبر کے نام کا خطبہ پڑھوایا اور سکہ چلایا اور لائق پیشکش دیں۔ اس کے اعیان میں سے ایک جماعت نے شورش انگیز ہوکر یہ چاہا کہ منعم خاں کو گرفتار کرلیجئے لیکن لودی نے سمجھایا کہ اس شہنشاہ کے خانخاناں کو گرفتار کرنے سے کیا فائدہ اٹھاوُنگے۔ جوہر سکین کو تربیت کرکے خانخاناں بناسکتا ہے۔ سوا اس کے ابراہیم شاہ ہمارا مخالف کمین میں بیٹھا ہوا ہے سلیمان نے تو لودی کا کہا مان لیا۔ مگر اور افغان غل مچاتے رہے۔ منعم خاں یہ خبر سنکر بلا توقف اپنے لشکر سے جدا ہوا۔ اور لودی کی صلاح سے جریدہ چلا۔ بہت دور جا چکا تھا کہ افغانوں کو خبر ہوئی۔ مگر اب وہ کیا کرسکتے تھے بناچار ملائمت اختیار کرنی پڑی۔ بایزید لودی جریدہ خانخاناں کے روبرو آئے۔ اعزاز اور اکرام کرکے واپس گئے۔ خانخاناں گنگا سے دو تین منزل چلا تھا کہ قلعہ چتوڑ کی فتح کی خبر اس پاس آئی جس سے اولیا دولت کو تقویت ہوئی۔ اور سلیمان دلجمعی کے ساتھ بنگالہ میں آیا۔ اور اپنے مہمات کے انصرام میں مشغول ہوا۔ ملک اڈیسہ کو جس میں جگناتھ کا مندر ہے اس نے فریب سے لے لیا۔ اور وہاں کے

راجہ کو بد عہدی کرکے مار ڈالا۔ اور ابراہیم کو نہ جسکی عقل درست تھی نہ نصیبہ بلند تھا۔ اور سرگردان ہوکر راجہ اڈیسہ پاس گیا تھا اور سروری کا اندیشہ اپنی ساتھ رکھتا تھا۔ اسکو قسم اور تزویر سے اس نے ہاتھ تلے لاکر، رم خانہ کو رخصت کیا۔ سلیمان کررانی اڈیسہ و بنگالہ و بہار کا مستقل فرمانروا کیا۔ اس نے یہ عمل منافقانہ جاری رکھا کہ ہمیشہ عرائض اور پیشکش پادشاہ پاس بھیجا تھا اس سبب سے اسکے نفاق دلی کا پردہ فاش نہیں ہوتا تھا۔ وہ ۹۸۰ھ میں مرگیا۔ اوسوقت پادشاہ خود مہم گجرات میں مصروف تھا منعم خانخاناں کو حکم بھیجا کہ وہ بہار و بنگالہ و اڈیسہ کو تسخیر کرے۔ سلیمان کا بڑا بیٹا بایزید باپ کا جانشین ہوا۔ اس کی بیخردی کا ضمیمہ زیادہ سری ہوئی اس نے اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا۔ باپ مغرور سرکشوں کو اپنی مدارا سے مطیع رکھتا تھا۔ اس نے اُسے چھوڑ دیا۔ خود رائی سے تنگ گیری اور کینہ کشی اختیار کی اور اپنے باپ کے اعیان کا ذلیل کرنا اپنا پیشہ بنایا۔ ہنسو اس کے چچازاد بھائی کا بیٹا ہانسوی تھا وہ اس کا داماد بھی تھا۔ اور یک جہتی اور دوستی بھی اسکے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کی بدسلوکی سے رنجیدہ ہوا۔ اس حدود کے فتنہ جویوں نے اس کو ملک کی طمع دلائی اور اسکو سمجھایا کہ بایزید کو ٹھکانے لگائے۔ اس بدبخت نے ان سب نسبتوں کو جو اس کے ساتھ تھیں چھپر پر رکھا اور بایزید کو مار ڈالا۔ یہ شہنشاہ اکبر کی اقبالمندی تھی کہ یہ کام وہ ہوا کہ اس کے اولیاء دولت ہزار رتگا پو کرتے تو نہ ہوتا۔ لودی اس ملک کا نفس ناطقہ تھا اس نے اس دیار کے اعیان سے اتفاق کرکے سلیمان کے چھوٹے بیٹے کو پادشاہ بنایا اور ہانسوی کو قید کرکے قتل کیا۔ گوجر خاں کررانی نے جو اس ملک کی شمشیر تھا برخلاف لودی کی رائے کے بایزید کے بیٹے کو صوبہ بہار میں فرمانروا بنایا۔ بنگالہ سے لودی بہت سا لشکر لے کر بہار کے قصد سے چلا۔ اور منعم خان خاناں کی بے توجہی اور لودی کے فسوں و فسانہ نے گوجر خاں کو مطیع بنایا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب سلیمان کے مرنے کی شہرت ہوئی تو منعم خان خاناں چنارگڈھ سے صوبہ بہار کی طرف متوجہ ہوا اس نے تنگری قلی و فرخ برغلیق و پاینده محمد نفلق سنگ کش اور ایک جماعت کو حاجی پور بھیجا اور طالبی اور مرزا علی اور ندیم بیگ کو

سلیمان کا مرنا اور بنگالہ و بہار میں فساد برپا ہونا سنہ ۹۸۰ھ

پٹنہ بھیجا۔ گوجر خاں میں ان سے لڑنے کی قوت نہ تھی۔ اس نے تحفے و ہدئے بھیج کر یک جہتی کا دم بھرا۔ اور یہ قرار دیا کہ پادشاہ کے ملازموں میں داخل ہوتا ہوں اور بنگالہ کی فتح میں شائستہ خدمات بجا لاؤں گا میری ملتمس یہ ہے کہ پادشاہ کے ملازموں کے زمرہ میں داخل کرکے گورکھ پور میرے اہل و عیال جاگیر میں دیا جائے اور صوبہ بہار امراء شاہی اپنی جاگیر میں لے لیں۔ یا یہ کہ سرکار حاجی پور اور بہار اس سال مجھے دیدیں کہ میں اس کا حاصل نقد سرکار اعلیٰ میں داخل کروں۔ اور دوسرے سال مجھے بنگالہ میں جاگیر دیدیں۔ منعم خانخاناں نے اس کی درخواست قبول کی اور یہ ارادہ کیا کہ گورکھ پور اس کو دیدے۔ اس اثناء میں لودی کہ اس دیار کی روباہ تھی حقیقت حال سے واقف ہوکر ہاشم خاں سے کہ ہمیشہ دو رنگی رکھتا تھا۔ اتفاق کرکے اس مہم کو اس نے درہم و برہم کر دیا۔ گوجر خاں جب خانخاناں سے مایوس ہوا تو وہ لودی سے جا کر ملا۔ لودی کو یقین تھا کہ افغان خراب ہونگے باوجودیکہ وہ داؤد سے مخالفت رکھتا تھا۔ اس نے خانخاناں کے ساتھ صلح کا ڈول ڈالا۔ آئین التفات اور آشنائی قدیم کو یاد دلایا۔ جو سلیمان کے ساتھ خانخاناں رکھتا تھا۔ اور یہ قرار داد ہوا کہ دو لاکھ روپیہ نقد اور ایک لاکھ روپیہ کا قماش پیشکش لیکر افواج پادشاہی ابھی چلی جائے۔ منعم خاں نے پیشکش لیکر مراجعت کی۔

ان دنوں میں خبر آئی کہ گورکھ پور کو یوسف محمد نے لے لیا اور فساد مچایا۔ اس سرگزشت کی شرح یہ ہے کہ یوسف محمد پسر سلیمان اوزبک کو منعم خاں پادشاہ پاس لے گیا تھا۔ پادشاہ نے نصیحت پذیری اور اصلاح مندی کے واسطے دار الخلافہ آگرہ میں مقید کیا تھا جب پادشاہ نے مہم گجرات کے لئے سفر کیا تو بندی خانہ آگرہ سے کسی طرح نکل بھاگا اور آدمیوں کو جمع کرکے گورکھ پور کو پاینده محمد سنگ کش سے لے لیا۔ جب خان خاناں کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے اس فتنہ کے دور کرنے کے لئے خان محمد بہسودی اور پاینده محمد سنگ کش اور تنگری قلی کو بھیجا اور خود بھی قصبہ محمد آباد سے محمد قلی خاں برلاس اور مجنوں خاں قاقشال اور اور امیروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں مجنوں خاں

تاقشال سب قاقشالوں کو ہمراہ لیکر خانخاناں کے لشکر سے بھاگ گیا۔ اسکے بھاگنے کا سبب یہ تھا کہ یار لوگوں
نے جھوٹی خبر اڑادی تھی کہ مہم گجرات میں باباخان وجباری خاں وغیرہ شہباز خاں کو مار کر مرزاؤں سے
ساتھ مل گئے ہیں۔ اس سبب سے مجنوں خاں تاقشال کی گرفتاری کا حکم پادشاہ نے بھیجدیا ہی منعم خاں نے
ہر چند اسکو تسلی دی مگر اس نے نہ مانا جب اُس پاس باباخان وجباری خاں کے خط آئے جن میں عنایات شاہی
کا بیان لکھا ہوا تھا تو اُس کی خاطر جمع ہوئی۔ منعم خاں گورکھپور کو فتح کرکے واپس آیا تو مجنوں خاں اس کے
لشکر میں تحمل ہو کر آیا۔ خانخاناں نے اسکی دلجوئی کی۔ اس اثنا میں داؤد لشکر گراں لیکر جونپور پر متوجہ ہوا۔ اپنے
سے آگے لودی کو منتخب لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اس نے زمانیہ پر قبضہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ
اسکو ویران کیا محمد قاسم خاں مہردار امان لیکر نکل آیا۔ خانخاناں نے بھی منزل اول میں بیٹھ کر امرا کو چاروں طرف
سے جمع کیا۔ محمد قلی خاں برلاس مجنوں خاں قاقشال و راجہ گجپتی اور ایک جمع کثیر کو آگے روانہ کیا اور خود
آہستہ آہستہ چلا۔ خانخاناں نے لسان الغیب میں فال دیکھی تو یہ شعر نکلا ؎

دل بے تو بجان آمد وقت است کہ باز آئی — اے پادشہ خوباں داد از غم تنہائی

اس غزل کو اپنے عریضہ میں ملفوف کرکے درگاہ والا میں بھیجا۔ لودی نے زمانیہ کو لے کر پانچ چھ
ہزار سپاہ بسرداری یوسف محمد گنگا پار بھیجے۔ یہ یوسف محمد گورکھپور سے بھاگ کر افغانوں
سے مل گیا تھا۔ مرزا حسین خاں و راجہ گجپتی وغیرہ ملازمان شاہی اس لشکر سے لڑے اور
اس کو شکست دی اور بہت آدمی مارے۔ اس کے بعد محمد قلی خاں برلاس اور امرا بھی آگئے
لودی نے سیاہ آب (کالی ندی) اور آب گنگ کے درمیان قلعہ بنایا اور بھاری لشکر لیکر
اس میں ہو بیٹھا ہر روز اس کے اور پادشاہی لشکروں میں لڑائی ہوتی۔ اگرچہ پادشاہی لشکر
دل تنگ ہوکر لڑتا مگر غنیم پاس لشکر و فیل و توپخانہ بہت تھا۔ پادشاہ سورت کے قلعہ کی فتح میں
مصروف تھا اس لئے منعم خاں صلح چاہتا تھا۔ لودی اس کو قبول نہیں کرتا تھا۔ امرا شاہی کا عجب
حال تھا۔ نہ رائے جنگ کردن نہ روئے برگشتن کہ ناگاہ یہ واقعہ پیش آیا کہ داؤد شاہ بنگالہ
سے مونگیر میں آیا۔ یہاں یوسف خاں کو مار ڈالا۔ وہ اس کے چچا زاد بھائی تاج خاں کا بیٹا

تھا۔ اسکی طرف سے اسکو یہ اندیشہ تھا کہ لودی اسکو بلند پایہ کریگا۔ لودی تاج خاں کا نوکر تھا اور اپنی بیٹی کو اس لڑکے کے ساتھ نامزد کر چکا تھا۔ داؤد سے لودی کے بداندیشوں نے جو کچھ کہا اسکو سچ جانا جب لودی کو یہ خبر ہوئی تو وہ داؤد سے برگشتہ ہو گیا۔ اور منعم خاں سے بڑی نیازمندی کے ساتھ مصالحت کا طالب ہوا۔ اور لائق پیشکش درگاہ والا میں بھیجیں۔ داؤد نے جب لودی کے برگشتہ ہونے کی اور اس کے آنے کی خبر سنی تو سراسیمہ ہو کر گڈھی کو مضبوط کیا۔ اور سپاہیوں میں باپ کا خزانہ تقسیم کیا لودی۔ جلال خاں سدھوری اور کالا پہاڑ راجو پھر گئے۔ جب اسکی جمعیت میں تفرقہ پڑا۔ تا گریز لودی جو داؤد کے قصد سے جاتا تھا وہ قلعہ رہتاس میں متحصن ہوا منعم خاں سے استمداد چاہی۔ صریح لکھا کہ میں درگاہ والا کا ملازم ہوں اور جلد آپ سے ملونگا اور آپ کے وسیلہ سے پادشاہ کی پائے بوسی سے مشرف ہونگا۔ منعم خاں نے ہاشم خاں و ننگری قلی وغیرہ کو کمک کے لئے بھیجا۔ پادشاہ کی آمد کا منتظر تھا۔ پادشاہ جب گجرات کی مہمات سے فارغ ہو کر دارالخلافہ میں آیا تو وہ ممالک شرقیہ کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوا کہ مغرور گردن کشوں کو ان حدود سے نکالے۔ نوارہ کا عملہ اور انتظام پرمانند خویش راجہ ٹوڈرمل سے متعلق تھا۔ اس نوارہ میں جنگی کشتیاں ہوتی تھیں۔ جن میں توپ خانہ ہوتا تھا۔ پرمانند اور اشکر خاں میر بخشی کو نوارہ کے ساتھ روانہ کیا۔ اور ان حدود کے امراء کبار اور جاگیرداروں کے نام حکم بھیجا کہ یکجہتی اور اتفاق کو اپنا رویہ بنا کر منعم خاں خان خاناں کی صلاح سے باہر نہ جانا۔ اگرچہ بادشاہ نے بہت سا لشکر ان مہمات کے لئے نامزد کیا۔ مگر سب آدمیوں کی یہ حالت نہیں ہوئی کہ مراسم خدمت کو غائبانہ حاضرانہ کی برابر بجالائیں۔ اکثر ضعیف اعتقاد اور سوداگر طبیعت ہوتے ہیں کہ خدمت بے بہا اور تردد بے مجرا کو اکارت جانتے ہیں۔ اور منفعت نقد پر مرتے ہیں۔ راجہ ٹوڈرمل کو کہ امانت و دیانت و عنایت و محرمیت میں امتیاز رکھتا تھا پادشاہ نے مقرر کیا کہ وہ آدمیوں کے حاضر کرنے میں اور لشکر کی شان دیکھنے میں اہتمام کرے زر بندہ گروہ اس کو جاسوس خدمت سمجھ کر کاہلی اور فتنہ اندوزی کی طرف مائل نہ ہوں

بندگانِ اخلاص مند کے شعار کے موافق وہ خدمت آرا ہوں اور ہماری غیبت میں چستی و چالاکی ایسی کریں جیسی ہماری حاضری میں۔ منعم خانخاناں ترہینی کے کنارہ پر جہاں گنگا جمنا و سرسوتی ملتے ہیں پہنچا تھا کہ راجہ ٹوڈرمل آنکر اس سے ملگیا۔ ان پاس تھوڑے عرصہ میں لشکر گراں جمع ہوگیا۔ لشکر شاہی کی ترتیب اس طرح ہوئی کہ قول سپاہ نے خانخاناں کی شمشیر و تدبیر سے استحکام پایا اور جرانغار کا ناظم محمد قلی خاں برلاس مقرر ہوا۔ ہراول میں خاں عالم کار طلب ہوا۔ کچھ لشکر شاہی دریا سے پار گیا تو وہ انبوہ افغانوں کا بھاگ گیا جو اس قلعہ میں تھا کہ افغانوں نے ابھی بنایا تھا۔ اسی اثنا میں تنگری قلی خاں کی تحریر آئی کہ داؤد خاں سے لودی مل گیا اور ہم کو رخصت کیا۔ اور اب وہ بر سر پرخاش ہے۔ قتلو خاں گوجر خاں کے دموں میں لودی آگیا۔ داؤد نے اسکو پیغام دیا کہ تو بجائے سلیمان کے ہے۔ اگر اس خاندان کی محبت کے سبب سے تو مجھ سے خفا ہوگیا ہے۔ حق دولت تونے ادا کیا اور میں اس سے ناخوش نہیں ہوا۔ اور تجھ ہی سے جمیع امور میں مجھے استظہار ہے۔ اس وقت سے کہ لشکر والا شکوہ سر پر آیا ہے۔ تو ہمیشہ خیر اندیش رہا ہے۔ عزیمت پیکار کے لئے چست کر۔ لشکر و خزانہ و توپ خانہ تیرے ہمراہ کرتا ہوں غرض گوجر خاں کے وسیلہ سے داؤد خاں اور لودی میں صلح ہوگئی۔ اور داؤد نے لودی کو اپنے سے پہلے لڑنے کو بھیجا۔ لودی نے لشکر شاہی کے روبرو قلعہ بنایا اور جنگ و ستیزہ سے پیش آیا دریائے سون کے کنارہ پر لڑائیاں کشتیوں پر ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ لعل خاں نے تیز دستی کر کے مخالفوں کی چودہ کشتیاں چھین لیں۔ اس میں لعل خاں کا بیٹا جان دیدینے سے سرخرو ہوا۔ دشمن بہت ہلاک ہوئے۔ اسی زمانہ میں لودی کا مارا جانا مشہور ہوا۔

لودی کا مارا جانا

اس قضیہ کی حقیقت اکبرنامہ میں یہ لکھی ہے کہ لودی مطمئن خاطر ہوکر ہنگامہ نبرد کو گرم رکھتا تھا کہ داؤد اس کے بعد یہاں آیا۔ جلال خاں کہ ہوریہ کے گھر میں اترا اور آدمی بھیجا کہ لودی اور اسکے وکیل کالو اور بھول کو بلا لائے۔ ان سے بعض باتوں کا مشورہ کرنا ہے۔ لودی دلجمعی کے ساتھ بھول کے ساتھ آیا۔ کالو ساتھ نہ آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کام میں خیر نہیں معلوم ہوتی۔ داؤد اول لودی کے لوازم تعظیم بجا لایا۔ اور پھر خود چلا گیا۔ قتلو اور ایک اور جماعت آئی لودی کو

گرفتار کرنے لگے کہ اسکے ملازم نے قتلو کے ایک تلوار ماری مگر لوگوں نے اس نوکر کو مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لودی کو مقید کر لیا۔ افغانوں میں ایک شورش برپا ہوئی۔ سب اعیان نے اسکے مارنے پر اتفاق کیا۔ داؤد نے اس سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیئے۔ لودی نے کہا کہ میری عرض و ناموس میں دست درازی نہ کرنی چاہیئے۔ کوتہ اندیشوں کے اغوا سے اس بلا میں پڑا ہوں صلاح حال یہی ہی۔ کہ خلوت کدہ عدم میں آرام کروں۔ ان احمقوں نے اسکو اور بھول کو نہانخانہ عدم میں بھیجدیا۔ یہ بھی شہنشاہ اکبر کی اقبالمندی تھی کہ لودی افغان جسکو ہزار تدبیر سے دور کرنا دشوار تھا وہ مخالفوں کے ہاتھ سے دنیا سے اٹھگیا۔ اسمعیل پسر لودی کو کہ بہت ہی چھوٹا تھا منعم خاں پاس لائے۔ طبقات اکبری میں اس واقعہ کو یوں تحریر کیا ہے کہ لودی نے ....

جلال خاں کروری کو بھیجکر داؤد سے صلح کر لی۔ مگر داؤد ایک لونداؤ باش تھا۔ اور سلطنت کے کاموں سے محض ناآشنا۔ ادھر قتلو خاں نے جس پاس مدتوں سے ولایت جگنناتھ تھی بہکایا۔ ادھر سریدھر بنگالی نے اسکو اکسایا۔ خود وہ عقل کا پورا ہی تھا۔ لودی کو کہ امیر الامرا اور مدار الملک تھا گرفتار کرکے مقید کر لیا اور سریدھر بنگالی کو حوالہ کیا۔ وہی نے بندی خانے میں قتلو اور سریدھر کو بلایا اور انکی زبانی داؤد کو پیغام بھیجا کہ اگر تو اپنے ملک کی اصلاح میرے مارنے میں سمجھتا ہی تو مار ڈال۔ اگرچہ میری مارنیکے بعد تو بہت پشیمان ہوگا۔ تجھے ہمیشہ خیر خواہانہ نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ اب بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے مار کر تو بے تحاشا مغلوں سے لڑ۔ تجھے فتح ہوگی ع۔ گزشت پیشین را بدل بیست ۔ اور اگر تو یہ کام نہیں کریگا تو مغل تجھپر چڑھ آئینگے اور تو انکو نہ ہٹا سکیگا۔ مغلوں کی مصالحت پر مت بھولنا وہ اپنے وقت پر کبھی نہیں چھوڑتے ہیں افغانوں کا ادبار آچکا تھا۔ خدا انکا زوال چاہتا تھا۔ اور شہنشاہ کے عدل و انصاف کا آفتاب متمردوں پر چمکانا منظور الٰہی تھا۔ داؤد نے یہ قرار دیا کہ لودی کو مار ڈالنا چاہیئے کہ میری حکومت بالاستقلال خاطر جمعی کے ساتھ ہو۔ لودی سے قتلو و سریدھر عداوت رکھتے تھے جانتے تھے کہ اگر لودی زندہ نہ رہیگا تو ان کو وکالت اور وزارت ملجائیگی۔ انکو یہ موقع خوب ملا جسے غرضکہ

بناوٹ سے داؤد سے اُنہوں نے لودی کے قتل کے مقدمات خوب گھڑے۔ داؤد بے بادۂ
ارغوانی میں مست اور جوانی میں مغرور تھا۔ اس نے لودی کو قتل کروا دیا۔ ہاتھیوں اور خزانوں
اور سب چیزوں پر قبضہ کرلیا۔ وہ حماقت اور نادانی سے بیہوش تھا۔ دفع غنیم کی طرف اصلا
متوجہ نہ ہوا اور اس صلح ناتمام پر کہ لودی نے کی تھی اعتماد کرکے کچھ پروانہ کی۔ لودی اپنے
حسن تدبیر و اصابت رائے و حدت فہم سے مملکت بنگالہ کو آشوب سے بچاتا تھا اسکے قتل کرنیکا
داؤد کو دلی افسوس تھا۔ باوجودیکہ اس پاس اتنا لشکر اور سامان جنگ تھا۔ مگر بغیر اس کے
کہ شمشیر میان سے نکالے۔ یا تیر کمان میں لگائے۔ پٹنہ میں آن کر متحصن ہوا۔ اور اس کی
مرمت کرکے مورچے جمائے۔ خانخانان ان حالات کو سنکر خوش ہوا اور دریا سون سے شائستہ
آئین سے پار اُترا۔ مراسم احتیاط کے برتنے سے آسان کام مشکل ہوگیا۔ افغانوں کا لشکر ایسا
متفرق ہوگیا تھا کہ اگر لشکر بادشاہی ہمت کرکے تیزدستی کرتا تو آسانی سے کام انجام پاتا۔ چابکی
و چستی کی جگہ تاخیر کی۔ لشکر تمام زرہ و بکتر پہن کر سوار ہوتا۔ راجہ تودڑمل آگے جاتا۔ لشکر کے اُترنے
کی جگہ تجویز کرتا اور اس زمین کو آدمیوں میں تقسیم کرتا۔ وہ جلدی سے قلعہ بناتے۔ گہری خندق
کھودتے۔ غرض پٹنہ تک یہی حزم احتیاط جاری رہیں افواج شاہی نے یہاں آنکر مورچلوں کو
قسمت کیا اور محاصرہ کرلیا۔

برسات شروع ہونے کو تھی کہ منعم خان خانان کی متواتر عرضیاں بادشاہ پاس آئیں کہ حصار
پٹنہ کے محاصرہ پر مدت گذر گئی ہے۔ قلعہ کے ایک جانب دریا ہے۔ قلعہ کے اندر آذوقہ
خوب پہنچتا رہتا ہے اسکے پاس سامان قلعہ داری دلخواہ ہے۔ لشکر و توپ خانہ خزانہ
اور ہاتھی بہت ہیں۔ ابر و باراں کے موسم کے آنے نے اور آب و باد کی طوفان خیزی
نے لشکر شاہی کو متزلزل اور مضطرب کر رکھا ہے۔ اگر حضور تشریف لائیں تو یہ مشکل آسان
ہوجائے۔ اکبر علی خاں اور اسکے بیٹے نے نہایت مردانہ لڑکر جان دی۔ عالم خاں نے بیچ بہاری
چر گرم روی کرکے بڑے بڑے ہاتھی اور غنائم حاصل کئے۔ حسن خاں پٹنی اس زمانہ کے

نہایت شجاع اور دلیروں میں تھا۔ وہ مخالفوں کے لشکر سے جدا ہوکر بادشاہی لشکر میں آگیا
تھا۔ منعم خاں نے اُسکو عواطف شاہی سے ستمال کیا۔ اور سرکار سارن اسکی جاگیر مقرر کی۔ وہ اولیار
دولت کی دلجمعی اور اپنے گرمی ہنگامہ کیلیئے ہمیشہ دشمنوں کے استیصال کے لئے دلنشین باتیں کیا کرتا
تھا۔ اُس نے یہ دو کام بتائے۔ جن سے یہ عقدہ مشکل نہایت آسانی سے حل ہوجائیگا۔ اول دریاے
پن پن (یہ دریا پٹنہ سے ۱۰ میل پر مشرق میں گنگا کے داہنے کنارہ پر ہے) کا بند توڑ دینا چاہیئے
کہ اس موسم میں جو پانی ہر روز بڑھتا جاتا ہے وہ گنگا میں جا ملیگا اور نہیں تو قلعہ کے چاروں طرف
پانی کھڑا ہوجائیگا۔ جس سے محاصرین پر کام دشوار ہوجائیگا۔ دویم تدبیر کی کارفرمائی اور تیز دستی
کے زور سے حاجی پور کو غنیم کے ہاتھ سے نکالنا چاہیئے کہ قلعہ میں آذوق اس شہر سے پہنچتا ہے۔
منعم خانخاناں نے حاجی پور کی تسخیر کے لئے خان عالم کو حکم دیا مگر اسنے عذر کیا کہ میں شہنشاہ کے حکم
سے ہراول میں افسر مقرر ہوا۔ اسلئے یہ معاملہ التوا میں پڑگیا۔ مجنوں خاں بند توڑنے کیلئے مقرر ہوا
اسنے راتوں رات جاکر اس کام کو بخوبی سرانجام دیا۔ سلیمان اور بابو منگلی غنیم کے امرار
کبار اس رات کو خواب غفلت میں سوتے تھے شرمندگی کے مارے گھوڑا
گھاٹ کو وہ چلے گئے۔

جب محاصرہ کو امتداد ہوا اور منعم خاں کی یہ عرائض آئیں تو بادشاہ نے خود یورش کا
ارادہ کیا۔ اور بڑی بڑی کشتیوں کے تیار کرنے کا حکم دیا اور یہ قرار دیا کہ حضرت شہنشاہ
اور شاہزادے اور بعض بیگمات اور بساط رزم و بزم کے مقرب تو کشتیوں میں جائیں اور
باقی لشکر خشکی کی راہ سے روانہ ہو۔ سب طرف لشکر بہت جلد جمع ہوگیا اسباب یورش میں
کشتیاں عجیب و غریب تھیں۔ اُن میں طرح طرح کے منازل دلکشا اور مناظر فرح بخش
بنائے گئے اور وہ باغ اور چمن جن کا زمین پر لگنا مشکل تھا وہ لگائے گئے
ان خانہائے آبی (کشتی) کے سر پہ ایک جانور کی شکل بنائی گئی کہ جسکو دیکھکر لوگ حیران
ہوتے تھے۔ ایک بڑی کشتی کارخانہ کے واسطے تھی ہر امیر کے لئے حسب مراتب

بادشاہ کا دارالخلافہ سے کشتیوں میں سوار ہوکر غنیم حاجی پور جانا ۹۸۲

کشتی میں منزل تیار کیگئی اس لشکر کی سربراہی مرزا یوسف خاں رضوی کو سپرد ہوئی۔
ابو الفضل لکھتا ہی کہ سلطنت کرنیوالوں کا اور فرمان دہان دادگری آئیں کا اقتضا یہ ہے
کہ فرمان پذیروں کو تو قناعت اسپر کرنی چاہیئے جو ان پاس ہو کہ وہ ان چیزوں کی گرد آوری
میں جو انکے ہاتھ میں نہیں ہیں پراگندہ دل نہ ہوں۔ اسیطرح فرمانروایان انصاف گزیں عدالت
دوست کو لازم فطرت اور فرض وقت ہے کہ جن مملکتوں کو تصرف میں رکھتے ہیں اکتفا نہ کریں
اور ملکوں کی تسخیر میں دل لگانے کو عبادت جانیں۔ اسمیں منصف دانش پروروں نے زمانہ کی
مزاج شناسی کر کے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ معمورۂ عالم نے عالی فطرتوں کی بے توجہی سے انقسام
پایا ہے۔ ایک فراخ حوصلہ کاردان دادگر کو قرار ہو تو اختلاف کا غبار نہ پیدا ہو اور اہل جہان
کو آسائش ہو اس سبب سے شہنشاہ اکبر اور ملکوں کے تسخیر کی فکر کرتا تھا۔ اس مضمون کا ماحصل
انگریزی مورخ اسطرح بیان کرتے ہیں کہ اکبر کی یہ رائے تھی کہ جب تک ساری ہندوستان کا
ایک بادشاہ نہ ہو اسمیں امن وامان نہیں رہ سکتا۔ اسی اصول کو برٹش گورنمنٹ نے اختیار
کر کے کل ہندوستان پر اپنی فرمان روائی جمائی ہے۔ انکے مدبروں کی بھی یہ رائے تھی
کہ جب تک ہندوستان میں پیرے موونٹ پاور یعنی ایک قوت سب پر غالب نہ ہو ہندوستان
میں امن وامان نہیں قائم رہ سکتا بادشاہ نے جب سامان یورش تیار کیا تو شہاب الدین احمد وکیل
دیوان خالصہ کو آگرہ تفویض کیا۔ اور سہ شنبہ ۹ صفر ۹۸۲ کو مع شاہزادوں اور بیگمات کے
کشتی میں بیٹھا۔ ساختہ از حکمت کار آگہان ؛ خانہ گردندہ بگرد جہاں ؛ نادرۂ حکم
خدائے حکیم ؛ خانہ رواں خانگیانش مقیم ؛ اہل سفر را ہمہ بروے گزر ؛ ہمرہ او
ساکن دادر سفر ؛ ایک کشتی میں ایک منزل میں ایک ہاتھی نامی بال سندر
مع دو ہتنیوں کے سوار تھا اور ایک دوسری منزل میں فیل سمن۔ یہ عجیب تماشا
تھا کہ دریا میں طرح طرح کی کشتیاں چل رہی ہیں ان کے اونچے اونچے بادبان لگے ہوئے
ہیں انکے نقش ونگار و کوششیں طرفہ نگار بہار دکھا رہی ہیں۔ دریا کی موجوں کا تلاطم ہی

ہوا شدت سے چل رہی یا گھنگھور گھٹائیں اُٹھ رہی ہیں۔ موسلا دھار مینہ برس رہا ہے۔ بجلی کوندتی چمکتی کڑکڑاتی ہے۔ بادل گرجتے ہیں۔ قصبہ اٹاوہ کے قریب جمنا کی طغیانی نے چند کشتیاں ڈبو دیں قصبہ کالپی میں ایک دن توقف کیا۔ ایک برہمن کو اس قصور میں کہ اسنے دختر کو زوجہ بنایا تھا پھانسی دی۔ گو بعض نے یہ صلاح دی کہ اس برہمن کو مارنا نہیں چاہیئے۔ جس سے معلوم ہو کہ ہندوں کے مذہب میں ایسی نامعقول حرکتیں ہوتی ہیں جسکے سبب سے مسلمانوں کو انسے نفرت ہو۔ الہاباد پاس پہنچنے تک گیارہ کشتیاں غرق ہوئیں۔ نقارخانہ کو بھی آسیب پہنچا۔ مگر سب کشتیاں سلامت باہر نکل آئیں۔ جب بادشاہ چنارگڈھ میں پہنچا تو دریا کے چڑھاؤ اور ہوا کی شدت کو دیکھکر اکثر آدمیوں نے خشکی کی راہ اختیار کی۔ مگر بادشاہ بے خوف و خطر کشتی میں سوار چلا۔ بنارس میں تین روز توقف کیا۔ ہر روز کشتی سے اُتر کر بادشاہ شکار بھی کھیلتا تھا۔ جونپور میں بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے دل لگی سے عوام کی شوریدگی خاطر کے دور کرنیکے لئے۔ میر عبدالکریم جفری سے اس یورش کی استخراج احوال کے لئے فرمایا تو اسنے علم جفر کے آئین ضوابط کے موافق مفردات حروف سے استنباط کرکے اس بیت کو ترتیب و تالیف کیا ؎ بزودی اکبر از بخت ہمایوں ؛ برد ملک از کف داؤد بیروں احمقوں نے یہ واقعہ دستاویز تسکین بنایا۔ جب بادشاہ آگرہ میں تھا تو میر جفردان سے نے یہ حکم لگایا تھا ؎ گرچہ باشد لشکرے جرار بیحد و شمار ؛ لیک باشد فتح و نصرت در قدوم شہریار جب بادشاہ جونپور میں واپس آیا تو اس نے فال جفر یہ نکالی ؎

مژدہ فتح بناگاہ رسد		سر داؤد بدرگاہ رسد	

کہتے ہیں یہ علم اہل بیت کا حصہ ہے اور اسکی تحصیل کے لئے چند شرائط موقوف علیہ ہیں غرض یہ بات اہل شیعہ نے گھڑ رکھی ہیں۔ جفر کی فالیں بھی مثل اور فالوں کے جعلی اور اختراعی ہیں۔ جس کسیکو تھوڑی سی بھی قوت عقل ہو تو مثل انکی فالیں ایجاد کرسکتا ہے۔ علم جفر کی بابت عارف جامی کے اس قول کو یاد رکھنا چاہیئے ؎

چند حرفے نوشتہ پہلو بہ ہم		وز عدد زیر شان نہادہ رقم	

بستہ باخود تخیلے باطل	یکسر از حلیہ خرد عاطل
مرد را وقت اہل دل راوق	چیست ایں جعفر جعفر صادق
جعفر صادق از تو بیزار است	صادقاں راز کا ذباں عار است
طرفہ تر آنکہ ایں جاہ و جلال	کہ ندارند ز زمانہ مثال
بخر د گرچہ در جہاں سمرند	ایں زعارف از آں خراں بخرند
ایں جواہر کہ فاضلاں سفتند	واں معارف کہ عارفاں گفتند
ہمہ در گوش ہوش شاں باد است	طبع شاں زاجتناب شاں شاد است

پادشاہ کی کشتیوں نے جب گنذر چونسہ پر لنگر ڈالے تو اس فتح کا مژدہ اسکو پہنچا کہ افغان بسرکردگی عیسی خاں نیازی قیاخاں کے مورچل پر حملہ آور ہوا اور جنگ عظیم ہوئی۔ عیسی خاں کارزار کرنے اور کار زار کرنے میں مشہور تھا مورچل سے شاہی لشکر نکلکر لڑا۔ اور راجہ تودڑمل اسکی کمک کو آیا تو لشکر خان کے غلام کے ہاتھ سے عیسی خاں مارا گیا اور فتح ہوئی پادشاہ اس فتح سے بہت خوش ہوا اور شاہزادوں کو یہ مژدہ سُنا کر انکے دل سے فکر دور کیا۔ غرض شہنشاہ ایسے پرشور موسم میں کہ ہمیشہ مینھ برستا اور سیل سیلابوں کا زور تھا۔ چہارشنبہ ۵ اربیع الثانی سنہ ۹۸۲ کو پٹنہ کے قریب آیا منعم خانخانان نے اسکے آنیکی خوشی میں آتشبازی اور توپونکی دھواں دھوں کی وہ دھوم دھام کی کہ مخالفوں کو خوف پیدا ہوا۔ دوسرے روز پادشاہ نے قلعہ کا معائینہ کیا حاجی پور شہر کے محاذی تھا اور ان دونوں شہروں کے درمیان گنگا کا دو کوس کا پاٹ تھا اور بڑے زور شور سے بہتا تھا۔ اس کی فتح کو قلعہ کے فتح ہونے کے لئے ضروری جانا۔ دوسرے روز مرزا علی علم شاہی اور شمس الدین بخاری اور راجہ گجپتی اور سپاہ کو عالمخاں کی سرکردگی میں بھیجا۔ وہ کشتیوں میں سوار ہوا۔ اور توپ خانہ ساتھ لے کر روانہ ہوئے انہیں دنوں میں داؤد کا ایلچی پادشاہ پاس آیا۔ خانخانان نے خالدین خان کو داؤد پاس بھیجکر یہ نصیحتیں کی تھیں کہ ابھی سر رشتہ کار تیرے ہاتھ میں ہی اپنے روزنامچہ کو پڑھ

عیسی خاں نیازی کی شکست ۹۸۲ھ

حاجی پور پر لشکر کشی

پادشاہ کے اقبال پر نظر کر۔ اپنے اوپر رحم کر۔ اور جانداروں کے خون اور آدمیونکے مال و ناموس کی ویرانی کا سبب نہ ہو۔ دنیا کی مستی کا بھی ایک اندازہ ہوتا ہی کس لئے تو ہوش میں نہیں آتا اور پادشاہ کے فتراک کا وابستہ نہیں ہوتا۔ داؤد خاں نے بہت تامل کرکے خالدین کے ساتھ اپنے اعیان میں سے ایک شخص کو بھیجا اور بہت سی نیازمندی کی باتیں بنائیں کہ میں سروری اپنے لئے نہیں چاہتا۔ لودی نے مجھے اس پندار میں ڈالا اور وہ اپنے سزای کردار کو پہنچا۔ میں اب اطاعت شاہنشاہی کے لئے تیار ہوں۔ کچھ جگہہ مجھے ملجاے۔ اسکو میں سرمایہ سعادت جانونگا۔ خردسالی اور مستی شباب کے سبب سے مجھ سے خطائیں ظہور میں آئیں۔ جب تک میں انکی تلافی خدمات شائستہ سے نہیں کرونگا۔ آستان بوسی نہیں ہو سکتا۔

داؤد کے صلح کے پیغام ۱۴ ربیع ۹۸۲ھ

پادشاہ اسکے دل کی باتوں کو خوب سمجھا اور یہ جواب دیا کہ ہم ظل اللہ ہیں۔ اندک پذیر اور بسیار بخش ہیں اگر داؤد سچا ہے تو ہمارے پاس چلا آئے۔ مار اد بار اُسکا ہم دور کردینگے ورنہ ان تین باتوں میں سے ایک بات قبول کرے کہ ہزاروں آدمیوں کی جان و نان تلف نہ ہوں۔ اول ایک آدمی اپنا ہمارے لشکر میں اور ہم اپنا ایک آدمی اسکے لشکر میں بھیجدیں کہ وہ نبردگاہ میں لشکر میں سے کسی آدمی کو نہ جانے دے پھر میں اور تو دونو آنکر جس ہتھیار سے تو کہے لڑیں۔ جو کوئی فیروزمند ہو اُسکا ملک ہو اگر یہ تیری ہمت نہ ہو تو تو اور میں ایک ایک اپنے سردار کو لڑنے کے لئے بھیجیں کہ انیں سے جسنے نصرت ہو اُسی کے لشکر کی ظفر سمجھی جائے اور اگر کوئی شیر مرد ایسا اُس پاس نہ ہو تو ہاتھیوں کو انتخاب کرکے لڑائیں۔ جو غالب ہو۔ اُسی کی فتح ہو پادشاہ کی یہ باتیں سنکر اُس افغان کے ہوش اُڑے۔ کسی بات پر راضی نہ ہوا پادشاہ پنج پہاڑی ہاتھی پر سوار ہو کر گیا۔ یہ پنج پہاڑی پانچ گنبد اینٹ کے ٹھوس قدیمی زمانہ کے بنے ہوئی ہیں اور ایسی بلند ہیں کہ پہاڑیاں معلوم ہوتی ہیں۔ یہاں پادشاہ پر افغانوں نے توپیں چلائیں۔ مگر وہ محفوظ رہا۔

جنگ حاجی پور ۱۶ ربیع ۹۸۲ھ

پادشاہ شاہم خاں کے مورچل میں گیا یہاں سے حاجی پور نظر آتا تھا۔ پادشاہ کے لشکر اور افغانونکے لشکر میں لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی ترازو تھی۔ پادشاہ نے چند اپنی

جنگی کشتیاں کمک کو بھیجیں۔ قلعہ نشینوں نے بھی اپنے جنگی جہاز لڑنیکو اُنسے بھیجے۔ لڑائی
ہوئی پادشاہی لشکر نے انکو بھگا دیا۔ حاجی پور کی فتح ہونیکا حال یہ ہی کہ یہ مہم عالم خاں کی
سُپرد ہوئی تھی۔ وہ کشتیوں میں سوار ہوکر رودبانوں کی ہدایت سے اوپر کیطرف چلا اور رات کو
اسطرح کہ غنیم کو خبر نہ ہوئی اُس نہر میں پہنچا کہ دریا گنگ سے جُدا ہوتی ہی اور حاجی پور تک جاتی ہی
قلعہ نشینوں نے بھی کشتیوں میں بیٹھکر مبارزت پر مبادرت کی۔ اول لشکروں کے درمیان
کشتیوں ہی میں ضرب زنی۔ بندوق بازی ہوئی۔ غالب یہ معلوم ہوتا تھا کہ افغانوں کو فتح ہو
مگر پھر غراب شاہنشاہی نے جو اپنا زور ڈالا تو دشمن سامنے نہ ٹھہر سکے۔ پادشاہ کی کشتیاں
چڑہاؤ پر مشکل سے جاتی تھیں اسلئے مخالفوں کا کام انجام کو نہ پہنچا سکیں۔ پھر یہ دریا نورد گنڈک
نہر ہی میں جاکر حاجی پور کی طرف مڑے۔ قلعہ کے اوپر سے اُنپر توپوں کے گولے برسنے لگے گرد کشتیوں
سے اُترکر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ فتح خاں پسر عادل خاں و ابراہیم خاں اللہ دیا سروانی
کوچہ بند ہوکر سرگرم پیکار ہوئے۔ فتح خاں مرد آزمائی کرکے مارا گیا۔ بعض وباشوں نے شہر میں
آگ لگا کر لوٹنا شروع کیا۔ پادشاہی لشکر کو قلعہ ہاتھ آیا۔ راجہ گجپتی و مرزا علی بیگ اور
سید شمس الدین بخاری اور اسکے بیٹوں نے خان عالم کی ہمسایہ میں خدمت نمایاں کیں۔

جب حاجی پور فتح ہوا اور داؤد خاں پاس پیغام شاہی جسکا اوپر مذکور ہوا پہنچا تو غفلت
سے ہوش میں آیا۔ اب اسکی تدبیر میں نہ نور تھا نہ ضمیر میں فروغ۔ وہ قلعہ سے نکل کر کشتیوں
میں سوار ہوکر بھاگ گیا۔ گوجر خاں جو اس گروہ کا میر شمشیر تھا ہاتھیوں اور سپاہیوں
کو لے کر خشکی کی راہ سے بھاگا۔ اب انکے ایسے ہوش اُڑے اور اوسان گئے۔ کہ
کشتی میں بیٹھنے والوں نے قلت اور کثرت پر کچھ خیال نہیں کیا۔ آدمیوں کے زیادہ
بیٹھنے سے کچھ کشتیاں ڈوب گئیں۔ نشیب کو سمجھے نہ فراز کو نہ کشتی کو نہ دریا کو۔ خندق
اتنے جاندار مرے کہ وہ بھر گئی۔ دریا میں بھی بہت آدمی غرق ہوئے۔ قلعہ پٹنہ یوں
مسلے جنگ ہاتھ آگیا۔ پادشاہ قلعہ کے اندر گیا اور سپاہ کو داؤد کے تعاقب میں بطور

بطور ایلغار کے روانہ کیا۔ مگر دشمن ایسے گریز پا تھے کہ یہ لشکر اس تک نہ پہنچ سکا۔ اس فتح میں دوسو پینسٹھ ہاتھی ہاتھ لگے اور بہت سی غنیمت حاصل ہوئی۔ دشمنوں کے آدمی جو دریا گنگ اور ہن پن اور نہر میں ڈوبے تھے اُنکی لاشیں نکالکر ان کی کمر میں سے اشرفیوں کی ہمیانیاں بادشاہی لشکر نے نکال لیں۔ حسین خاں پسر سلطان عدلی ہاتھ آیا اُسکو خان خاناں نے قتل کرایا۔ اس فتح کی تاریخ یہ ہوئی ع ملک سلیمان ز داؤد رفت [۹۸۳] ۔ اب بعض امیروں کی رائے یہ تھی کہ برسات میں بہار کے مخالفوں کو نیست و نابود کرنا چاہیئے اور بعد برسات کے بنگالہ کو تسخیر کرنا چاہیئے۔ بعض کی رائے یہ تھی کہ ابھی بنگالہ پر لشکر کشی نہ کرنی چاہیئے۔ بادشاہ نے اس دوسری رائے کو پسند کیا۔ وہ خود اس مہم پر جاتا لیکن عقلمندوں کے اس قول کو جانتا تھا کہ جس خدمت کو ادنیٰ امیر سرانجام دے سکتے ہوں وہ طبقہ اوسط کو سپرد کرنی نہیں چاہیئے اور جس خدمت کو طائفہ اوسط سرانجام دے سکے وہ نوئینان بزرگ کو حوالہ نہیں کرنی چاہیئے اور جو کام اس گروہ والا سے صورت اتمام پائے فرزندوں اور خویشوں کو نہ دینا چاہیئے اور جو مقاصد اس گروہ سے سرانجام پاسکیں اسکو خود پادشاہ کو نہیں کرنا چاہیئے۔ اس لئے اس نے بنگالہ کی فتح کا اہتمام منعم خان خاناں کے سپرد کیا۔ اور بیس ہزار لشکر اور بہت اسباب ملک گیری کا اسکو حوالہ کیا اور آسانی کار کے لیئے حدود بہار میں اسکی جاگیر مقرر کی۔ جونپور کو خالصہ بنایا۔ اسکی وزارت رضوی خان کو سپرد ہوئی۔ راجہ توڈرمل کو علم و نقارہ مرحمت ہوا اور لشکر کے ساتھ بھیجا۔ غرض حسن خدمات کے جلدو میں امرا کو بزرگ منصب اور سیر حاصل جاگیریں عطا کیں خود جونپور کی طرف روانہ ہوا۔ اس شہر میں آنکر اس نے مقام کیا کہ بہار کے مفسدوں کو تنبیہ کرے۔ قاسم خاں جسکو کالو کہتے تھے اور محمود خاں اور افغانوں کی ایک اور جماعت نے حدود بہار میں فساد مچایا۔ میرزادہ علی خاں و شاہ غازی خاں تبریزی اور جاگیرداروں نے بہار کے تمام مفسدوں کو برباد کردیا۔

پادشاہ نے جو سپاہ بنگالہ کی فتح کے لیئے بھیجی تھی اسکی فتوحات کی

سنہ ۹۸۳ بنگالہ کی فتوحات اور منعم خاں کا مرنا

تفصیل یہ ہے کہ اس نے قصبہ سورج گڈھ کو فتح کیا۔ یہاں سے افغانوں کو بھگایا پھر قصبہ منگیر پر تصرف
کیا راجہ سنگرام زمیندار گورکھپور اور پورنمل راجہ گیدھور اور اس نواح کے بہت زمینداروں نے
اطاعت اختیار کی۔ خانخانان اس موسم باراں میں لشکر گراں دریا کی اور خشکی کی راہ سے
اپنی کاردانی کے سبب سے نہایت شائستہ طریقہ سے لیگیا۔ اور فیروزمندی میں اہتمام کیا بھاگلپور اور
(کھیل گانو) میں افغان ٹھہرے ہوئے تھے وہ بے جنگ ہاتھ آیا۔ جب موضع کونہ میں لشکر شاہی پہنچا
تو یہاں تحقیق معلوم ہوا کہ اسماعیل خاں سلحدار نکو داؤد نے خانخانان کا خطاب دیا تھا اسنے
گڈھی کے حصن حصین کو بڑے اہتمام سے استحکام دیا ہے۔ بڑی مشکل یہ آنکر پڑی کہ پادشاہ کے
لشکرگاہ سے گڈھی تک پانی ہی پانی بھرا ہوا تھا لشکر کا گذر نہیں ہوسکتا۔ گڈھی کو دروازہ بنگالہ
کہتے ہیں۔ اسکے ایک جانب بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں جنپر پیادہ کا چڑھنا دشوار ہے۔ سوار تو
کیا چڑھیگا۔ اسطرف گنگا میں بہت سے دریا ملے ہیں اور وہ بہت زور سے بہتے ہیں اس مرحلہ میں مجلس
شورہ منعقد ہوئی اور یہ قرار پایا کہ پہلے اس عقدہ کی کشائش کا طلبگار ہونا چاہیئے۔ اس نواح
کے زمینداروں نے بتلایا کہ ولایت تبلی راہ (تیلی یا تبلی) میں ایک پوشیدہ راہ ہے جس میں
باربرداری چوپایہ تو نہیں جاسکتا مگر تیز سوار جاسکتے ہیں۔ پس اس راہ سے گڈھی کی فتح کا ارادہ
کیا۔ مجنون خاں قاقشال اور قیا خاں دونو الگ الگ لشکر لیکر اسطرف روانہ ہوئے یہاں
دونوں فوجوں کے آنے سے گڈھی میں غنیم ایسا ڈرا کہ وہ بے لڑے بھاگ گیا۔ اسطرح گڈھی
جو لڑنے سے بھی کم تر ہاتھ آتی ہے بہ آسانی ہاتھ آگئی۔ گڈھی کے فتح ہونے سے داؤد بھاگا ٹانڈہ
پر دریا ر گنگ کے دو شقیں ہوگئی ہیں۔ ایک شعبہ ساتگام کو جاکر ملک اُڈیسہ پر منتہی ہوتا ہے
اور دوسرا محمود آباد و فتح آباد و سنار گانو و جیٹ گانو کو جاتا ہے۔ داؤد دریا کی راہ سے ساتگام
کی طرف بھاگا۔ کالا پہاڑ و سلیمان و بابو منگل گھوڑا گھاٹ کو بھاگے۔ منعم خاں ٹانڈہ میں کہ
مرکز بنگالہ ہے پہنچا۔ اور راجہ تو ڈرمل بھی یہاں آیا۔ انتظام ایسا کیا کہ سب جگہ بنگالہ میں
انتظام ہو جائے۔ چاروں طرف سپاہ بھیجی۔ محمد قلی خاں برلاس کو ساتگام کی

طرف بھیجا کہ وہ داؤد کو سامان جنگ کرنے کی فرصت نہ دے۔ اور مجنوں خاں قاقشال کو گھوڑ گھاٹ کی طرف روانہ کیا کہ اسطرف کے فساد کو مٹائے اور مراد خاں کو فتح آباد و بنگلہ کی طرف روانہ کیا کہ اسمیں امن قائم کرے۔ اعتماد خاں کو سارگانو میں بھیجا کہ ظالموں کے ہاتھ سے اس ملک کو چھڑائے

جنید کررانی کہ درگاہ شاہی سے فرار ہوا تھا اور داؤد کا چچا زاد بھائی تھا۔ گجرات اور دکن سے مایوس ہو کر جھارکھنڈ میں فتنہ اندوزی اور شر انگیزی کی گھات میں بیٹھا۔ راجہ تو ڈرمل نے جا کر اس فساد کو مٹا دیا۔ قاقشال جب گھوڑا گھاٹ میں آئے تو سلیمان منگلی کہ یہاں کا جاگیردار تھا۔ اور امرا افاغنہ میں شجاعت میں ممتاز تھا جمعیت کرکے دشمن کی ممانعت و مدافعت کے لئے آیا۔ سخت محاربہ ہوا۔ مجنوں خاں کو فتح ہوئی۔ سلیمان منگلی مارا گیا سب اہل و عیال اسکے اسیر و دستگیر ہوئے۔ قاقشالوں کو بہت غنیمت ہاتھ لگی۔ سلیمان منگلی کی لڑکی سے مجنوں خاں نے اپنے بیٹے جباری کا نکاح کیا اور کل ولایت کو قاقشالوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ یہ سارا حال خانخاناں کو لکھ بھیجا۔ یہ سبز آباد ملک اولیاء دولت کے تصرف میں آیا جنید جھارکھنڈ سے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا اور فوج شاہی پھر کر بردوان میں آئی۔

داؤد کو شکست [illegible] ۹۸۲

اس زمانہ میں محمود خاں پسر سکندر خاں و محمد خاں اور جنید اور خود سروں نے قصبہ سلیم پور میں شورش برپا کی۔ راجہ تو ڈرمل نے شائستہ فوج بھیجکر معرکہ جنگ آراستہ کیا اور اس گروہ کو ہیچ خاک میں ملایا پسر سکندر خاں بھاگ گیا جنید نے پہاڑوں سے نکلکر شورش برپا کی راجہ تو ڈرمل نے اسطرف توجہ کی جنید جھارکھنڈ سے داؤد پاس گیا تھا۔ خود سری اور زیادہ طلبی کے سبب سے اس سے صحبت نہ بنی وہاں بغاوت کی اور نظر بہادر و ابو القاسم نمکین اور امرا آگے لشکر سے جاتے تھے۔ وہ اس سے دور دور رہے مگر جنید نے ان پر حملہ کیا۔ راجہ تو ڈرمل نے لشکر شاہی کو شکست سے بچایا۔ جنید تاب مقاومت نہ لایا جھارکھنڈ کی جانب بھاگا۔ اس کا فتنہ بھی فرو ہوا۔

یار محمد ارغون قراول موطھیر کے نزدیک آیا اور تاخت و تاراج کی اور اسباب و اموال بہت تصرف میں لایا۔ اور ایا ربڑے نامور ہاتھی کو اس نے لے لیا۔ ہرچند منعم خاں نے اسے طلب کیا مگر اسنے معذرت کرکے نہ بھیجا اور جھاڑکھنڈ کی حدود میں جاکر مال جمع کیا اور یہاں سے شہر بلگھتہ تک لوٹتا مارتا جنگل لونی و لنکر میں جہاں افغان اپنا بنہ و بار رکھتے تھے پہنچا وہاں دست برد کرکے خوب مال مارے۔ اسکی نیت میں یہ تھا کہ جھاڑکھنڈ سے بھاگ کر بادشاہ پاس چلا جاؤں اور اپنا جمع کیا ہوا مال مامن میں پہنچاؤں۔ جب وہ تارہ میں آیا تو بھوپت چوہان کی رہنمائی سے جنید نے اس پر شب خون مارا اور سارا اسکا اندوختہ اور مال سوداگری اور اس قافلہ بزرگ کا اسباب لوٹ لیا۔ چوروں پر مور پڑے تو وہ لشکر شاہی میں راجہ توڈرمل پاس آیا۔

محمد قلیخاں برلاس ہوشمندانہ داؤد کی طرف مرحلہ پیما ہوا۔ جب ساتگام بیس کوس رہا تو داؤد بھاگ کر اُڈیسہ میں چلا گیا لشکر شاہی بندر ساتگام میں آیا اس نواح کا انتظام کیا مسرعان راست گو نے اطلاع دی کہ سرھنری کہ داؤد کا نفس ناطقہ ہے نفائس خزانہ کو چھتر میں لیئے جاتا ہے۔ محمد قلیخاں نے ہرچند سرعت کی کہ اس کو لوٹے۔ مگر سودمند نہ ہوئی۔ دشمن اپنی سبک پائی سے مامن میں پہنچ گیا۔ اس لشکر کے تمام اعیان کی رائے یہ تھی کہ اپنی حدود میں آسائش سے رہیں۔ اس اثنار میں راجہ توڈرمل اس فوج سے آن ملا۔ اس نے اُڈیسہ کے فتح کرنے اور داؤد کے استیصال کے لیئے لشکر کو سختی سے ہمت افزا اور اخلاص طراز باتیں سمجھائیں اور اپنی دانش اور بردباری سے محمد قلی خاں برلاس کو چلنے پر آمادہ کیا۔ مگر جب قصبہ مندل پور میں لشکر آیا تو محمد قلیخاں کا آخر وقت آگیا۔ پان کھانے سے ایسی حرارت ہوئی کہ وہ بالکل سرد ہوگیا۔ کوئی اور سبب نیکا نہیں معلوم ہوا ایک خواجہ سرا غلام کی بداندیشی پر لوگوں کو گمان ہوا۔ اس سانحہ ناگزیر سے لشکر میں بے انتظامی ہوئی۔ زمانہ کے واقعہ طلبوں کا بازار گرم ہوا۔ اکثر آدمیوں نے قیا خاں کو جو غائنانان سے رنجیدہ رہتا تھا۔ سردار بناکے یہ ارادہ کیا کہ جھاڑکھنڈ سے

پادشاہ پاس چلے جائیں۔ جنید کے دفعہ کرنے کو دست آویز کورنش بنائیں۔ راجہ تو ڈرمل اپنے عقل و اخلاص کو بہت کام میں لایا مگر وہ سود مند نہ ہوا۔ خانخانان پاس آدمی بھیج کر روپیہ منگایا۔ اور ان زر بندوں کو بقدر آرامش روپیہ دیا۔ منعم خاں و شاہم خاں و خواجہ عبداللہ اس لشکر سے آنکر لے تو کچھ انتظام ہوگیا۔ داؤد کے استیصال کے واسطے یہ لشکر ناخوش راہ نورد ہوا۔

داؤد جو اقصائے ہندوستان میں بھاگ گیا تھا۔ جب اس نے سُنا کہ پادشاہ کے لشکر میں اختلاف ہے اور جہاں خاں نے جو اسکی دلدہی کی تو اس نے لڑنے کے ارادہ سے بغاوت کی۔ امرائے شاہی بردوان سے نکلکر مدارن کی راہ سے کوچ بکوچ جیتوہ میں آئے مگر اعیان لشکر کی پیشانی سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑنے سے دل چُرلاتے ہیں۔ راجہ نے دوربینی کرکے یہ خیال کیا کہ لشکر کا حال یہی رہا تو لڑائی کے دن کہ عقیدت اور شجاعت کی جوشش کا زمانہ ہوتا ہے۔ کام کیونکر چلیگا۔ اسلئے اس نے خانخانان کو لکھا کہ اگر آپ اس لشکر سے ملجائینگے تو لشکر کی بددلی کم ہو جائیگی خانخانان پاس پادشاہ کا حکم بھی آیا تھا کہ دیدہ وری اور دوربینی سے مہم کی زبونی کو آسان نہ شمار کرنا۔ داؤد کے استیصال کی بھی ہمت کرنا تاکہ ایک ہی دفعہ میں اس ملک کے رہنے والے اسکی شورش سے آسودہ ہو جائیں۔ پادشاہ کے حکم کے موافق وہ جیتوہ میں لشکر شاہی سے آملا۔ داؤد بہت سا لشکر لے کر ہرپور میں آیا۔ جو بنگالے اور اُڑیسہ کا برزخ ہے۔ اس نے مداخل کا استحکام کیا۔ پادشاہ کے لشکر میں بہت سے اعیان لشکر اور عموماً سپاہی کوتہی حوصلہ و پستی فطرت و ناشناسائی کار و بد اندیشی باطن اور کاہلی سے اپنی خدمات پر دل نہاد نہیں ہوتے تھے اور جب یہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جاوے۔ خانخانان نے کار آگاہوں کی انجمن جمع کرکے اول اقبال شاہنشاہی کا دفتر کھول کر دلدہی اور جگر بخشی میں استادی کی اور بعد ازاں اس عقدہ مشکل نما کی کشایش میں اور ناموس اور دولت کی پاسبانی میں سخن سرا ہوا۔ ہر ایک نے

اپنی شناسائی و مردانگی کے اندازہ اور عقیدتمندی فراخی حوصلہ کے مقدار کے موافق جواب دیا۔ بعض نے صلح کو جنگ پر مقدم رکھکر سلامت جوئی کی۔ بعض نے محاربت کو مصلحت پر ترجیح دیکر جوہر مردانگی کو دکھایا۔ بعض نے جنگ کو پسند کیا۔ مگر راہوں کی صعوبت کے سبب تامل کیا۔ بعض نے اپنی شجاعت کے سبب سے مشکل اور آسان کو یکساں سمجھکر پیکار کا شوق ظاہر کیا غرض راجہ توڈرمل کی سعی اور منعم خاں کی ثبات پائی سے لڑائی کی ٹھہری۔ مگر راہ اور تلاش کی روبرو جانے سے کام مشکل ہوتا تھا۔ الیاس خاں لنگاہ اس ملک کی راہوں سے خوب واقف تھا اسنے ایک آسان رستہ بتلایا۔ اور کارطلب ملازموں نے اس رستہ کو صاف کرکے آسان گذار بنایا۔ اس راہ سے چستی و چالاکی سے لشکر ملک اڈیسہ میں آیا۔ داؤد کی ساری تدبیریں جو آخر کام راد کیلئے تھیں وہ بیکار تھیں۔ وہ پھر کر پیکار پر آمادہ ہوا اور مقام نکردہی میں دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ طرفین سے دلاوروں اور نام آوروں میں تلوار چلنے لگی۔ جمعہ ۲۰ ذی قعدہ ۹۸۲ھ کو داؤد کو شکست ہوئی جسکی تفصیل یہ ہے کہ منعم خاں نے لشکر اسطرح مرتب کیا کہ قول کا انتظام خود لیا۔ لشکر خاں، و ہاشم خاں، محسن خاں کو اپنا شریک بنایا شجاعت خاں، خان زادہ خاں کو التمش کو رونق دی (التمش ایک ترکی لفظ ہے جسکے معنے ساٹھ کے ہیں مگر اس فوج کو کہتے ہیں جو ہراول اور سپہ سالار لشکر کے درمیان ہوتی ہے) فوج ہراول خاں عالم کو اور برانغار شاہم خاں جلائر اور جرانغار اشرف خاں و راجہ توڈرمل کو سپرد کی سپاہ مخالف میں۔ قلب لشکر میں داؤد اور میمنہ میں سکندر برادر خاں جہاں اور میسرہ میں اسمٰعیل خاں اور مقدمہ میں گوجر خاں منتظم تھی خان عالم اپنی نوجوانی سے میدان جنگ میں سب سے آگے بڑھکر تلوار چلاتا تھا وہ اب بھی بہت آگے بڑھ گیا۔ خانخاناں نے درشتی گوئی کرکے اسکو واپس بلایا ابھی بادشاہی لشکر میں انتظام نہیں ہوا تھا کہ گوجر خاں اپنے سبک پا تیز رو ہاتھیوں کو آگے اور سپاہ کو پیچھے رکھکر لڑنے آیا۔ ان ہاتھیوں کے دانتوں اور سر گردوں میں درندے جانور ونکے سیاہ اور ڈراونے پوست لگا دئے تھے جس سے انکی شکل عجیب ہوگئی تھی۔ بادشاہ کے ہراول کی گھوڑے

ان کے سامنے نہ ٹھہرے اور شکست ہوئی ۔ شاہم خاں کا گھوڑا تلوار کے زخم سے چراغ پا ہوا۔ وہ زین سے زمین پر گرا ۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑا ۔ مگر ایک ہاتھی نے اسکو زمین پر دے پٹکا اور زمین کا پیوند بنا دیا ۔ جب ناظم فوج کا یہ حال ہو تو گوجر خاں نے اسکی ساری فوج کو مار کر ہٹا دیا اور التمش پر جھکا ۔ اسکے سردار خان زادہ محمد خاں کو ملک بقا کا مسافر بنایا ۔ اس سپاہ کو بھی اپنی جگہ سے مار کر ہٹایا ۔ قول پر متوجہ ہوا اور اسمیں ہل چل ڈالدی منعم خانخاناں لشکر کی دلدہی کرتا تھا ۔ اسکے خود تین زخم لگے لشکر خاں اور حاجی خاں سیستانی اور ہاشم بھی زخمی ہوئے۔ منعم خاں ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ اگرچہ سر کا زخم اچھا ہو گیا مگر بینائی میں فرق آگیا ۔ گردن کے زخم نے اندمال پایا ۔ مگر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا کندھے کے زخم سے ہاتھ سر تک نہیں پہنچ سکتا ۔ غرض گوجر خاں نے پادشاہی لشکر کا خستہ حال کیا اور اسکو بالکل تاراج کیا ۔ اور پکار پکار کر اپنے لشکر کی دلدہی اس طرح کرنے لگا کہ میں نے منعم خاں کو زخمی کیا اب امتداد جنگ کس لیئے ہی کوشش کرو اور کام تمام کرو ۔ اب اسکا لشکر لوٹ پر جھک پڑا اور پریشان ہو گیا کہ اس اثنا میں میا خاں اور اس کا بیٹا جو بھاگ گئے تھے پھر کر مرنے پر تیار ہوئے اور خواجہ عبد اللہ نور سرد از آپس میں ملک آب رفتہ رابجوی آوردند ۔ یہ لشکر شاہی لڑ رہا تھا کہ ایک تیر گوجر خاں کے ایسا لگا کہ وہ سفیر مرگ ناگہانی ہوا اسکے مرتے ہی اسکے ہمسر اور ہم بازو دل شکستہ ہو کر بھاگے منعم خاں بھی جو تین کوس بھاگ کر چلا گیا تھا الٹا میدان جنگ میں آنکر لڑنے لگا ۔ راجہ تو ڈرمل اور داؤد کے لشکروں میں لڑائی ہوئی ۔ ایک شخص نے راجہ کو منعم خاں اور عالم خاں کی خبر ناخوش سنائی تو راجہ نے مستقل ہو کر یہ کہا کہ شاہنشاہی اقبال ہمارا یاور ہے ۔ اگر ایک مر گیا دوسرا زخمی ہوا تو اس سے لشکر شاہی کو کچھ گزند نہیں پہنچا اب عنقریب فتح ہوتی ہے شاہم خان بھی شکست پا کر آتا تھا اسکو سید شمس الدین نے تلخ و شیریں باتیں کہکر آمادہ جنگ کیا ۔ غرض پادشاہ کے لشکر شکست یافتہ نے پھر ہنگامہ کارزار خوب گرم کیا ۔ اور داؤد کو بھگا دیا اسکے لشکر کو پریشان کر دیا ۔ بہت آدمیوں کا کشت و خون

تین روز تک ہوا اور خون سے صحرا لالہ زار بنا۔ رزم کی بزم میں بہت سے دلیر ایسے مست پڑے تھے کہ کبھی ہوشیار نہ ہوئے لشکر شاہی کو بہت غنیمت ہاتھ لگی۔ خانخانان کو نا اُمیدی کے بعد ارجمندی حاصل ہوئی۔ اس کے زخم نصرت کے مرہم سے بھر گئے۔ اگرچہ بنگالہ پہلے بھی بادشاہ کے تصرف میں آگیا تھا مگر حقیقت میں آج کے روز سے سمجھنا چاہیئے کہ یہ وسیع ملک فتح ہوا۔ منعم خاں اسیروں کے جمع کرنے میں غصے کو کام میں لایا اور ان کو قتل کیا اور ان کے سرونکے آٹھ مینار اونچے اونچے بنائے۔ لشکر خاں نے جو لڑائی میں زخمی ہوا تھا اس کی بے پروائی سے نقاہت اُسپر غالب ہوئی اس نے قالب خالی کیا۔ یار محمد ارغوں جسکا پہلے حال لکھا ہے کہ فیل ایا راسکو ہاتھ لگا تھا جسکو منعم خاں نے طلب کیا وہ اس نے نہ دیا تھا اور اپنی نیکو کاری کو خودرائی سے برباد کیا تھا اس لڑائی میں بھی اس نے بعض ملازموں سے غنائم کے چھین نے میں یاد دی کی۔ اس گروہ نے اپنی داد طلب کی۔ منعم خاں کے دل میں پہلے ہی اس سے کینہ تھا اسکو ایسا پٹوایا کہ اسکا دم نکل گیا۔ اسپر یہ ظلم ہوا۔

منعم خاں اور داؤد کی ملاقات ۹۸۲ھ

منعم خاں نے داؤد کے تعاقب میں شاہم خاں جلائر اور راجہ تو ڈرمل کو بھیجا۔ جب وہ قصبہ بھدرک میں پہنچا تو اسکو معلوم ہوا کہ جب داؤد بھاگا جاتا تھا تو جیاں خان مدارا دلدہی کرکے اسکو کٹک میں لیگیا جو اس دیار میں بڑا مضبوط قلعہ ہے۔ اس ملک کے آدمی اسکے گرد جمع ہوئے اور ان لوگونکو یہ خیال تھا کہ اگر بادشاہی لشکر ادھر آئے تو اس سے میدان رزم گرم کیجئے اور جو شکست پہلے ناگہانی ہوگئی ہے اسکا عوض لیجئے۔ اس خبر کو سنکر لشکر شاہی میں سراسیمگی پھیلی ہر چند راجہ تو درمل نے لشکر کو تسلی و تسکین دی مگر کارگر نہ ہوئی اس لئے راجہ نے خان خانان کو لکھا کہ اگر یہ سپاہ لڑائی میں کام نہ کرے گی تو بڑی دشواری پیش آئیگی اس لئے آپ اس کام کا اہتمام اپنے ذمہ لازم جانیں۔ بے توقف یہاں تشریف لائے خانخانان کے زخم باوجودیکہ ہرے تھے مگر وہ سنگاسن میں بیٹھ کر اس شہر میں آیا۔ کچھ اپنی بخشش و بخشایش سے کچھ غصہ کی نگاہ سے لشکر کو جنگ پر آمادہ کیا۔ جس سے حصار حصین میں افغانوں کو لغزش ہوئی۔ نہ سامان قلعہ داری تھا

نہ اسباب پیکار نہ جائے گریز۔ داؤد کو متواتر شکستیں ہو چکی تھیں۔ گوجر خاں اسکا وزیر مارا گیا تھا۔ اسلئے اس نے مکر و فریب سے عجز و زاری کے ساتھ صلح کی درخواست کی فتو و شیخ نظام کو بھیجا۔ یہ فریب کار و جادو نفش لشکر منصور کے سرداروں کو زر و سخن سے صلح پر لائے۔ ان کمبخت سرداروں نے داستان مصالحت کو غنیمت جانا اور اسکو اپنے مزید اعتبار کا ذریعہ جانا راجہ ٹوڈرمل حقیقت کار سے آگاہ تھا اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ صلح نہ ہو مگر غرضمندوں نے اسکی ایک نہ سُنی داؤد کے پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا تباہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ بندوں اور نوکروں کی طرح بادشاہ کی خدمتگاری کے لئے بندہ حاضر ہے۔ مگر التماس یہ ہے کہ مملکت وسیع بنگالہ میں کچھ جگہ مجھے بھی ملجائے اوقات گذاری اپنی جماعت کے ساتھ ہو جائے میں اس پر قانع ہو کر کبھی سرکشی نہیں کرونگا۔ اُمرا نے ان شرائط کو خانخانان سے عرض کیا۔ اس نے امرا کی ملتمس کو اس شرائط سے منظور کیا کہ داؤد میرے پاس آئے اور میرے پاس اپنے عہد و پیمان کو سوگند سے موکد کرے۔ داؤد نے اس شرائط کو قبول کیا۔ ابوالفضل نے لکھا ہے کہ خانخانان نے ہاشم خاں کو بھیجکر شرائط صلح کی تنقیح کرائی۔ جسکا خلاصہ یہ ہے کہ اول داؤ بادشاہ کی نوکری تسلیم کرے اور نامور ہاتھی اور پیشکش درگاہ والا میں بھیجے اور کچھ دنوں کے بعد خدمات پسندیدہ کرکے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو اور بالفعل اپنے معتمد خویشوں میں کسی کو درگاہ والا میں بھیجدے داؤد نے شرائط منظور کرلیں۔ غرہ محرم ۹۸۳ھ کو داؤد مع اپنے امرا کے خانخانان کے خیمہ میں آیا۔ اسکا استقبال اور اعزاز و احترام کیا گیا داؤد نے کمر سے تلوار کھولکر خانخانان کے آگے رکھدی۔ جسکے معنے یہ تھے کہ میں نے سپہ گری کو چھوڑا اور اپنے تئیں بادشاہ کے حوالہ کیا۔ جو بادشاہ کا دل چاہے اسکے ساتھ سلوک کرے طبقات اکبری میں لکھا ہے کہ اسنے یہ کہا کہ آپ جیسے عزیزوں کو زخم پہنچتا ہے اس لئے میں سپاہ گری سے بیزار ہوں۔ خانخانان نے تلوار لیکر اپنے خواص کو

سُپرد کی اور داؤد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر بٹھایا۔ دونوں نے کھانا بر تکلف ساتھ بیٹھکر کھایا۔ غرض عہد و پیمان قسم کے ساتھ ہوئے۔ صلح نامہ لکھا گیا۔ بعد اسکے خانخانان نے پادشاہ کیطرف سے ایک خلعت و شمشیر و کمر مرصع اسکو پہنایا۔ داؤد نے اپنی فروتنی دکھانے کیلئے دار الخلافہ کیطرف سجدہ کیا۔ اس دیار کے نفائس امتعہ و شرائف اسباب اور نامور ہاتھی اور بہت سا خزانہ پیشکش کے طور پر دیا۔ شیخ محمد پسر بایزید کو جو اسکا بھتیجا تھا۔ پادشاہ کی خدمت کے لیئے ہمراہ کیا۔ غرض اس روز خوب جشن ہوا اور جب وہ رخصت ہوا تو بعض محال اڈیسہ اسکو تیول میں دے گئے۔ راجہ تودرمل اس صلح کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے نہ اس صلحنامہ پر دستخط کیئے نہ وہ اس مجلس میں حاضر ہوا وہ فکرمند ہی رہا۔

گھوڑا گھاٹ کی سوانح سورش کا حال یہ ہی کہ جب خانخانان کٹک کو روانہ ہوا تو جلال الدین سور کی ولاد کالا پہاڑ و بابو منگلی نے زمینداروں کے ساتھ اتفاق کر کے سورش برپا کر کے قاقشالوں پر گرے قاقشال کچھ لڑے مگر ذلیل ہو کر وہاں سے نکالے گئے اور گھوڑا گھاٹ کی ولایت پر افغان متصرف ہوئے اور قاقشال کے پیچھے پنجے جھاڑ کر پڑے کہیں انکا پانو جمنے نہ دیا وہ حوالی ٹانڈہ میں رہے۔ خانخانان جلد غنیم کے روبرو آیا۔ دریا گنگ کے دو شعبے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک پل باندھا اور دوسرے پل کے باندھنے کی تیاری تھی کہ غنیم کے پیر اکھڑے اور بھاگے۔ خانخانان حدود ٹانڈہ تک آیا۔ یہاں سے لشکر کو بسر کردگی مجنون خاں ولایت گھوڑا گھاٹ میں بھیجا اس نے اس ملک کو فتنہ پردازوں سے خالی کر کے لے لیا مخالف پریشان ہو کر جنگلوں میں ناپدید ہوئے۔

پادشاہ کو قلعہ رہتاس کی تسخیر منظور تھی۔ یہ قلعہ متانت میں بے نظیر تھا۔ اسکے اوپر بہت سے دہات آباد تھے وہاں زراعت ہوتی تھی۔ جس سے قلعہ کے نگہبانوں کو کافی آذوقہ ملتا تھا۔ خوشگوار چشمے اس میں جاری رہتے تھے۔ باوجودیکہ وہ پہاڑ پر تھا مگر اس میں پانی تھوڑی دور پر کاوش سے نکل آتا تھا۔ اس قلعہ کو ہیبت خاں کررانی اور اس کے بیٹے بہادر خاں استحکام دے کر خواب غفلت میں پڑے سوتے تھے کہ پادشاہ نے

اس خدمت پر فرحت خاں کو نامزد کیا اور مظفر خاں کو ہمراہ کیا اور بڑے بڑے امیروں کو لکھا کہ
اسکی کمک کریں۔ مظفر خاں نے اپنے اندوختہ سے لشکر کا سامان درست کیا۔ جونڈہ اور سہسرام
کوکہ بادشاہ نے ابتک کسی کو جاگیر میں نہیں دئے تھے۔ اپنی شجاعت سے اُنپر قبضہ کیا اور اپنا
سامان مہیا کیا۔ بہادر خاں پسر ہیبت خاں قلعہ رہتاس سے نکلکر شورا فزا ہوا مظفر خاں نے
تیزدستی کرکے اسکے مال ومنال اور ہاتھی چھین لئے۔ اس زمانہ میں اور اُمرا قلعہ رہتاس کے محاصرہ
میں مصروف ہوئے۔ کچھ عرصہ گذرا تھا کہ بادشاہ کا فرمان مظفر خاں پاس آیا کہ اگروہ اور
ملازموں کے ساتھ اتفاق کرکے قلعہ کے تسخیر کی میعاد مقرر کرسکے تو اس کام میں مصروف
ہو۔ اور اگر اسکا تعہد نہ کرسکے اور اسکی تسخیر میں زمانہ دراز لگے تو صوبہ بہار کے
تمام متمردوں کی سزا میں تگاپو کرکے ہمارے پاس چلا آئے جو سرکش
تجھ سے التجا کرے اُسکو بخشش و بخشائش سے سربلند کرے اور جو نہ کرے
تو اسکو ایسی مالش دے کہ اوروں کو عبرت ہو۔ مظفر خاں نے اس فرمان کی
جواب میں عرض کیا کہ قلعہ گیری کا اسباب لشکر میں موجود نہیں ہی اس لئے میں
کوئی تعہد نہیں کرسکتا۔ مناسب یہی ہے کہ اس عرصۂ دلکشا کو ناسپاسوں کے خاروخس سے
پاک کروں۔ بعد ازاں وہ لشکر کو لیکر اس خدمت پر مستعد ہوا۔ بادشاہ جو لشکر چھوڑ
گیا تھا اُسکو ساتھ لیا۔ محسن خاں و آفاق و عرب بہادر جو منعم خاں کی جاگیر کا اہتمام رکھتے
تھے اسکے ساتھ شریک ہوئے۔ اور انہوں نے شائستہ کام کئے اور سارے صوبے
میں متمردوں کو تتر بتر کردیا۔ ابراہیم پور سے آدم خاں بٹنی اور جرکان (جرکان)
سے دریا خاں کاشی بے جنگ بھاگ کر جھارکھنڈے میں چلے گئے۔

جب اس ملک میں کوئی کام باقی نہیں رہا تو منعم خاں کے گماشتوں کو مظفر خاں
کی اوپر بھی پر حسد ہوا۔ اسلئے بے آزرمی سے اُسے رخصت کیا اس کی جاگیر
کوئی معین نہ تھی اسلئے جونڈہ اور سہسرام کو معاودت کی۔ خداداد برلاس اور خواجہ

شمس الدین نے اس کی رفاقت کی۔ اثنار راہ میں اُسے معلوم ہوا کہ ان دونوں قصبوں پر اہل رہتاس نے قبضہ کرلیا ہے۔ اپنی شمشیر و تدبیر سے ان قصبوں کو دشمنوں سے چھین لیا کچھ اپنے اندوختہ سے کچھ اِدھر اُدھر لوٹ مار سے اپنا کام چلایا کہ ناگاہ بہار میں سورش برپا ہوئی اور اس ملک کے ناظموں نے مظفر خاں کو بلایا۔ اسنے اُنکے پہلے سلوک پر نظر نہ کی وہاں دوڑ کر خدمات شائستہ بجا لایا جسکی تفصیل یہ ہے کہ خانخانان نے بہیر میں کہ ولایت بہار اور جھارکھنڈ کے درمیان میں ہے عرب بہادر کو منتظم مقرر کیا تھا۔ حدود جھارکھنڈ سے حاجی خاں و غازی خاں دو بھائی افغانوں کو ساتھ لے کر نکلے اور قلعہ بہیر پر قبضہ کرلیا اور اہل قلعہ کو شربت واپسین چکھایا۔ عرب بہادر بھاگ گیا اس صوبہ کے امرا جمع ہو کر سورش کے مٹانے کے درپے ہوئے۔ افغان کوہستان کی تنگناؤں میں چلے گئے اُمرا نے انکی برابر جا کر توقف کیا۔ اب نہ اُسلئے جانے کو نہ آگے بڑھنے کو مصلحت سمجھتے تھے۔ ایک دن افغانوں نے گریوہ میں راجہ بھگونت داس کے ملازم تین سو راجپوت اور انکے سوار اور جوان مرد و مردانہ وار گھس گئے یہ احمقانہ کام انکا سرسبز نہ ہوا۔ ہزیمت اُٹھائی تین بڑے سردار اور سو آدمی اس لڑائی میں کام آئے اس واقعہ سے اُمرا کے استقلال میں بھی خلل آیا۔ ناگزیر اپنے پہلے ناہموار سلوک سے شرمگیں ہو کر کاردانوں کو بھیجا اور مظفر خاں سے استمداد چاہی۔ یہ عالی ہمت لشکر کو لے کر آموجود ہوا اعیان لشکر کی عزیمتوں میں منعم خاں کی تحریر کے سبب سے فتور آگیا تھا۔ اس تحریر کا خلاصہ یہ تھا کہ جھارکھنڈ کی راہ سے جنید بہار کی طرف جاتا ہے۔ تنگری بردی بہت سے لشکر کے ساتھ اس کام کے لئے مقرر ہوا ہے مگر جب تک کمک نہ پہنچے۔ وہ جنگ پر مبادرت نہ کرے اور محمد خاں ککھر کے مارے جانے کا اور یار محمد قراول کے لٹ جانے کا حال اسمیں لکھا ہوا تھا۔

مظفر خاں نے ثبات پائی اور دلدہی میں کوشش کرکے اس تحریر کا جواب لکھا کہ عقل دوربین کا مقتضا یہ ہے کہ جو سرگزشت گزری ہے وہ پیکار میں مزید دلیری

اور افزونی اہتمام کا سبب ہو۔ پہلے اس سے کہ ان خودسروں سے جنید ملے ان کا کام تمام کیا جاوے۔ یہ تو معلوم نہیں کہ دس روز میں اس نواح میں جنید آئیگا۔ مگر یہ اُمید ہے کہ ایک روز میں دشمن پراگندہ کر دئے جائینگے اس سے لشکر کی شکستہ ہمت میں توانائی آئی۔ وہ اس ملک کے راہ شناسوں سے راہ پوچھکر گروہ میں لشکر کو مرتب کرکے لیگیا اور خواجہ شمس الدین کو سپاہ کے ساتھ دشمن کے عقب میں بھیجا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ غنیم کی سپاہ نے آگے اور پیچھے آن کر گھیر لیا تو وہ بھاگا لشکر کو بہت غنیمت ہاتھ لگی اُمرا نے تعاقب کیا۔ دشمن نے گروہ آرامپور میں جو جھار کھنڈ کی اعمال میں سے ہے جاکر لشکر کو مرتب کیا اور وہاں سے وہ پھرا۔ ان میں عمدہ سردار آدم خاں بٹنی پسر فتح خاں و دریا خاں کاکرا ور جلال خاں سور و حسین خاں و یوسف بٹنی و عمر خاں کاکرا ور محمود کاسو تھے مظفر خاں نے بھی میدان کارزار کو آرائش دی۔ جنگ عظیم ہوئی حسین خاں و غازی خاں و جلال خاں سور ہلاک ہوئے۔ آخر کو جب افغانوں کا ہاتھ نہ چل سکا تو پاؤں سے کام لیا۔ بھاگ نکلے۔ پادشاہی فوج کو فتح ہوئی اور وہ اپنی جگہ پر چلے گئے۔

جنید جس نے بہار کا قصد کیا تھا جب اس واقعہ کا حال سُنا تو اس نے کچھ توقف کیا پھر بہار میں جاکر سورش مچائی۔ اس دیار کے اُمرا پٹنہ میں جمع ہوئے اور مظفر خاں سے دوستانہ خط و کتابت کرکے اُس سے امداد چاہی۔ ان دنوں پادشاہ نے اس کو جاگیر میں غازی پور مرحمت کیا تھا اس سے اور بھی اس کا دل بڑھ گیا تھا۔ فتنہ انگیزوں کی استیصال میں اور زیادہ کوشش کرنے لگا۔ اور پن پن کا پل باندھ کر پار گیا۔

اس اثنا میں خانخانان کا پیغام مظفر پاس آیا کہ جنید سے لڑنے میں شتابی نہ کرے میں خود آتا ہوں۔ اُمرا نے اپنی عزیمت کو فسخ کیا۔ مظفر خاں نے داستان موعظت اور کارستان معاملت کی تنقیح تفصیل کے ساتھ کی مگر سودمند نہ ہوئی۔ یہاں تک پھر جانے سے آزردہ خاطر تھا وہ ایسا کار طلب تھا کہ جنید سے تنہا لڑنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر

افغان اور مظفر خاں کی لڑائیاں ۹۸۵ھ

حاجی پور کی سورش برپا ہونیکا آوازہ بلند ہوا۔ اسطرف اُسکو جانا پڑا۔ یہاں اسکی طرف سے میر محمود شوکتی انتظام کرتا تھا اسکو اور سو آدمیونکو تاخجان بنوار و فتح خاں موسی زئی و شہباز خاں بحزی و سلیمان بنوارا ور بھان رائے نے مار ڈالا وہ خداداد برلاس اور عرب اور خواجہ شمس الدین کیساتھ حاجی پور کیطرف گیا۔ دشمن کے سامنے سے دشوار تھا اس لئے وہ قصبہ سوانہ میں گنگا سے اُتر گیا اور حاجی پور اور اُسکے درمیان دریار گندک طغیانی پر تھا۔ ادی کرن زمیندار چنیار ن اُسکے دوستوں میں ہو گیا۔ اسنے اپنے برادری کے آدمیوں سے کشتیاں دلوائیں اور آسان راہ بتائی۔ مظفر خاں نے تین سو سپاہی بسرکردگی قاسم علی سیستانی اور عرب بہادر کے اس راہ سے بھیجے۔ جب اُسکے پہونچنے کی خبر آگئی تو وہ کشتیوں میں لشکر کو خود سوار کرکے غنیم کی برابر آیا۔ افغانوں نے تیروں بندوقوں سے بہت کچھ زور مارا مگر آخر کو بھاگنا پڑا۔ حاجی پور فتح ہوا اور بہت سی غنیمت مظفر خاں کو حاصل ہوئی۔ اس کو معلوم ہوا کہ نہر مدھ گندک کے اسطرف فتح خاں موسی زئی و جلال خاں عربی و سلیم برمیہ اور ستری اور جسبری اور بہت سے افغان سورش برپا کرنے کے لئے جمع ہیں۔ مظفر خاں اپنی کارطلبی اور دوربینی کے سبب سے اس گروہ کے دفع کرنے کے درپے ہوا۔ وہ خود چند آدمیوں کو لیکر ندی پر گذرگاہ کی تجویز کرنے گیا۔ اس ندی کا عرض بہت کم اور عمق بہت زیادہ تھا سامنے دو سو سوار نظر آئے۔ ان سے لڑنے کے لئے خواجہ شمس الدین و عرب بہادر کو اشارہ کیا وہ گئے کہ دشمن نے کمک طلب کی مگر اس فوج کو دیکھکر اپنے لشکرگاہ میں وہ چلا گیا۔ مگر جب کمک ان پاس گئی تو وہ پھر لڑنے کے لئے آیا۔ مظفر خاں بھی اپنے لشکر سے جا ملا۔ مگر اسکی سپاہ تھوڑی سی لڑکر بھاگی اور بہت سی دریا میں غرق ہوئی۔ مظفر خاں بھی دریا کی فوج خیزی میں جانا چاہتا تھا کہ خواجہ شمس الدین اسکی باگ پکڑکر کوہستان کی طرف لے گیا غرض مظفر خاں کا حال نہایت تنگ ہو گیا پچاس آدمیونکے ساتھ دامن کوہ میں وہ پڑا تھا۔

لشکر شاہی میں مظفر خاں کے مارے جانے کی شہرت ہو گئی مگر اس کا ایک قاصد

لشکر میں جا پہنچا جسنے تردد دور کیا۔ خداداد برلاس و مہر علی تین سو سپاہ کے ساتھ دریا سے پار ہو کر روبراہ ہوئے۔ دشمن سے لڑائی شام تک ہوئی رات کو دشمن بھاگ گیا شکست کے بعد فتح سے لشکر شاہی میں غوغا و جوش ہوا۔ افغان بھاگ کر تاج خاں بنوار پاس گئے اسکی تدبیر کے موافق فتنہ انگیز ہوئے مال اور سپاہ کی افزونی سے اور عقل کی کمی سے لڑنے پر تیار ہوئے مظفر خاں نہایت احتیاط سے آب مدھ گندک سے پار گیا۔ اور اسباب نبرد کو فراہم کرنے لگا۔ وہ ایسی جگہ اُترا کہ جسکے تین طرف پانی تھا اور ایک طرف دلدل افغانوں نے اسکے لشکر کے گرد دائرہ بنایا۔ مگر یہ جگہ ایسی قلب تھی کہ وہ ناکام رہے جتنی کوشش ہوتی تھی اتنی ناامیدی بڑھتی تھی اب مظفر خاں کا لشکر ایسا بڑھتا گیا کہ اس نواح کے زمیندار اسکے طرفدار ہوتے گئے۔ پل بنایا خندق کھود کر ایک پناہ بنائی۔ اسکی آڑ میں لشکر کم سمجھکیا پل پر سے لشکر گذرنے لگا۔ تو افغانوں کے لشکر نے اس پر حملہ کیا۔ بادشاہی پیادے بھاگے۔ تو سواروں کا دل بھی چھوٹا۔ بھاگنے والوں کے صدموں سے پل ٹوٹا۔ تین سو پیادے و سوار دریا میں ڈوبے۔ خواجہ شمس الدین و خداداد برلاس دشمنوں پر تیر اندازی کرتے تھے کہ ایک تیر جبین خاں کے گھوڑے کے لگا وہی سپاہ کا سردار تھا وہ گھوڑے سے گرا کہ افغانوں کی جمعیت میں تفرقہ پڑا۔ پھر شیر مردوں نے پل بنایا اور اُس سے لشکر کو اُتارا۔ افغان بھاگ کر تاج خاں کی قلبگاہ میں گئے مظفر خاں نے انکا تعاقب کیا انکے قریب پہنچا۔ اکثر اعیان افغان خندق کی جا کو تلاش کرتے تھے۔ اُن کو خبر نہ تھی کہ دشمن کا لشکر قریب آگیا ہے۔ ناگاہ مظفر خاں کے آدمی ان کے سر پر پہنچے وہ بھاگے بہت سے مارے گئے۔ ان میں سے تاج خاں بنوار کا سر حاجی خاں پہلوان کاٹ کر لایا۔ اور جمال خاں غلزئی زندہ گرفتار رہوا۔ اور بہت سے اسیر شمشیر اور گرفتار کمند ہوئے۔ رات کی تاریکی اور درختوں کے جھنڈوں نے لشکر شاہی کو انکے منازل پر جانے نہ دیا۔ مگر بہت سے بہادروں نے اس سرزمین میں

غنیمت پائی۔صبح کو لشکر اپنی منازل پر آیا وہ لشکر کے آنے سے پہلے دریا پر بھاگ کر چلے گئے تھے اس دریا کو وہ اپنی پناہ سمجھتے تھے مگر اس نے انکو ہلاک کیا۔بہت دقت سے غرقاب سے وہ نکل کر ساحل نجات پر پہنچے وہ پریشان و پراگندہ ہو گئے۔کچھ دریا میں ڈوبے۔کچھ اِدھر اُدھر پراگندہ ہوئے۔انکا سارا گھر بار لٹا۔

جب اس یورش سے تسکین ہوئی تو ستری وچتری نے افغانوں سے اتفاق کر کے ولایت نگرہ (نگرہ) پر تصرف کیا۔اس ملک کا طول تیس کوس اور عرض بیس کوس منگیر کے محاذی ہے دریان میں گنگا موج خیز تھی۔مظفر خاں نے وزیر جمیل، خداداد برلاس و خواجہ شمس الدین اور بعض امرا کو انکے استیصال کے لئے بھیجا۔لڑائی ہوئی فتح خاں کہ مخالف گروہ کے اعیان کا سردار تھا مارا گیا اور اُناسی آدمی اور مارے گئے اور اس ملک پر قبضہ شاہی ہو گیا۔

[فتح ولایت نگرہ سنہ ۹۸۰]

منعم خاں جب مظفر خاں کی فیروزمندی دیکھی تو اس نے یہ چاہا کہ وہ یہاں پر نہ رہے بادشاہ پاس چلا جائے۔اس پاس حکم تھا کہ جب جائے مظفر خاں کو بادشاہ پاس بھیجدے۔اب اس نے لکھا کہ یہاں سے بادشاہ پاس چلے جاؤ۔مگر اسوقت اس پاس بادشاہ کا یہ حکم آگیا کہ وہ ان حدود کی خدمات میں سرگرمی کرے۔اور جب تک ہم نہ بُلائیں وہ نہ آئے۔گو منعم خاں اسکو ہمارے پاس آنے کو کہے جیسا وہ خانخانان کی تحریر سے پژمردہ خاطر ہوا تھا۔ایسا ہی وہ بادشاہ کے فرمان سے شادمان و شگفتہ خاطر ہوا۔حاجی پور میں جاکر بساط انبساط بچھایا پادشاہ نے اس ملک وسیع کی حراست گذر چوسہ سے گڑھی تک اسکی تدبیر و شجاعت کو تفویض کی اور حکم دیدیا کہ سپاہ میں سب چھوٹے بڑے اسکی صلاح پر چلیں وہ قوانین سلطنت اور احکام خلافت کا پابند ہو کر عدالت پیرا ہوا۔

[منعم خاں کا پٹنا اور حاجی پور کا فتح کرنا ... اور داؤد کا ... سنہ ۹۸۲]

داؤد کے ساتھ منعم خاں صلح کر کے گھوڑا گھاٹ دوڑا گیا اور اسطرف کے فتنہ کو فرو کر کے وہ شہر گور میں آیا۔یہ شہر پہلے زمانہ میں

دار الملک تھا۔ اس کو افغانوں نے اسلئے کہ اسکی آب و ہوا ان کو ناموافق تھی چھوڑ کر خواص پور ٹانڈہ کو اپنا دار السلطنت بنایا تھا۔ منعم خاں نے اس نظر سے کہ گھوڑا گھاٹ خود فتنہ اندوزوں کا سرچشمہ ہے لشکر کے قریب ہو جائیگا۔ اور ان حدود کی شورش بالکل فرو ہو جائیگی اور اس دلکشا جگہ میں عمدہ قلعہ موجود ہے اور بڑی بڑی عمارات بنی کھڑی ہیں حکم دیدیا کہ تمام آدمی اور سپاہ اور رعیت خواص پور ٹانڈہ کو چھوڑ کر گور میں آباد ہوں۔ مگر اس سے وہ غافل تھا کہ تداول روزگار اور خرابی عمارات سے اس جگہ کی ہوا میں خواص سمیت آگیا ہے۔ خصوصاً یہ سمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ برسات کا موسم ختم ہوتا ہے۔ اور بنگالہ کے اکثر حصہ پر پانی بھر جاتا ہے ہر چند حقائق شناسوں نے اس کو سمجھایا۔ مگر اس نے عام پسند توکل اختیار کرکے شہر گور میں ایک خلق کو گور میں سلایا۔ توکل کے معنی یہ ہیں مراتب تدبیر و فروغ خرد کو کہ عالم اسباب کے لئے ہیں ملحوظ کرکے اکی کارسازی کو خدا کے حوالہ کرے۔ نہ عقل صواب اندیش سے اسباب ظاہر کو ترک کرے اسی سبب سے بہت سے امیر کہ جنمیں سے ہر ایک معرکہ آرائی کے لائق تھا بستر خواب پر ہم آغوش نیستی ہوئے اور عام دیہوں میں موت کا بازار گرم ہوا۔ یہانتک نوبت پہنچی کہ مُردوں کے دفن کرنے سے آدمی عاجز ہو گئے اور پانی میں بہانے لگے۔ اگرچہ اس سال میں تمام دیار مشرق میں تند باد فنا چل رہی تھی۔ مگر اس شہر میں اس کا طوفان اُٹھ رہا تھا۔

خانخانان اپنی بات پر ایسا اڑا کہ اس مرگ عام سے خبر نہ ہو کہ اس اثنا میں خبر مشہور ہوئی کہ جنید نے بہار میں فتنہ برپا کیا۔ اس بہانہ سے گور کے گورستان سے آدمیوں کو نجات ہوئی۔ تعجب ہے کہ اس طوفان وبا میں منعم خاں تندرست رہا۔ مگر ٹانڈہ میں جاکر رجب المرجب ۹۸۳ھ کو تھوڑی بیماری سے پیمانہ حیات اُس کا لبریز ہوا۔ اس سے لشکر کی جمعیت میں خلل عظیم واقع ہوا۔ اگرچہ اولیاء دولت نے شاہم خاں کو سردار بنایا۔ اور اعتماد خاں خواجہ سرا کو کارساز اپنا کیا۔ مگر اعیان لشکر کی بے اتفاقی اور اکثر کی وہم گرائی اور عام مصلحت بینوں کی کوتہی حوصلہ اور ارباب نفاق کی شعلہ افروزی نے کسی ایک بات پر مشورہ نہ دیا۔ خیر اندیشوں کی شمع افروزی سے نور یکجہتی نہ چمکا۔ جب داؤد نے

یہ قصے سُنے تو اُس نے صلح کے پردہ کو اُٹھا دیا اور شکست عہد کیا۔ نظر بہادر کو جو قصبہ بھدرک میں تھا محاصرہ کر لیا۔ عہد وپیماں کر کے اس کو مار ڈالا۔ مراد خاں جلیسر سے ہمت ہار کے بے آویزش کے ٹانڈہ میں آیا۔ شاہ بردی اس صوبہ کے کارخانہ کشتی اور توپ خانہ کا سربراہ تھا اُس سے عیسیٰ خاں زمیندار لڑا۔ اگرچہ شاہ بردی کو فتح ہوئی۔ مگر توہم کے وفور سے اس سرزمین کو چھوڑ کر توپ خانہ اور نوارہ سمیت امرار سے آن ملا۔ غرض امرار پادشاہی کہ ٹانڈہ میں تھے اُن کا کوئی معتبر سردار نہ تھا وہ اس ملک کو خالی چھوڑ کر حاجی پور میں چلے آئے۔ سپاہ کے افسر اس دیار سے ایسے دل گرفتہ ہوئے کہ گنگا پار شہر گور میں آئے۔ اصل میں سب کی نیت میں یہ تھا۔ کہ اس طرح اپنے اندوختوں کو اس دیار سے نکال لیں اس لیے بات اُنھوں نے یہ بنائی کہ دریا کو بیچ میں ڈالکر ہم جنگ بر دل بہانہ ہوتے ہیں اور حدود گھوڑا گھاٹ کے آدمی بھی ہم سے ملجائینگے۔ جب دریا سے عبور کیا تو قتلق قدم نے ایک مزور نامہ بناکے پادشاہ کی طرف سے یہ خبریں شہور کیں۔ اسکو آزمنشوں اور ناموس دشمنوں نے دست آویز بنا کر پرنیہ اور ترہت کی راہ سے بہار کی طرف راہ لی۔ تعجب یہ ہے کہ اس زمانہ میں کہ آدم تاج بند جو پادشاہ کے فرامین خانخانان اور امرار بنگالہ کے نام لے گیا تھا۔ شرارت ذاتی سے اس شورش میں منعم خاں کے خیلخانہ اور اموال کو اپنے تصرف میں لایا۔ اور ہزاروں ابواب خذ وجبر کے کھول کر یہ ظاہر کیا کہ پادشاہ کے حکم والا سے حراست اموال میں کوشش کرتا ہوں۔ مگر حقیقت میں آزمند ہو کر اپنے زعم میں اپنے گھر کو آباد کرتا۔ اور اپنے لیے اسباب نکال ہمیشہ کے لیے سرانجام دیتا تھا خانخانان کے اولاد کوئی نہ تھی اس لیے اس کا سارا مال صامت وناطق دیوان اعلیٰ کی سرکار میں ضبط ہوا اور اس کی تفصیل پادشاہ پاس بھیجی گئی۔

جب امرار کی عرضداشت ان واقعات کی پادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو اُس نے خانجہاں کو جو پنجاب کا حاکم خود مختار تھا اور اب بدخشاں کو لشکر لیجانے کو تیار تھا اس کو بنگالہ کی فتح اور اس ناحیہ کے تصفیہ کے لیے مقرر کیا اور وہ بنگالہ کو روانہ ہوا۔ راجہ ٹوڈرمل اسکے ہمراہ گیا۔ حکم نافذ ہوا کہ بنگالہ کے کل امرار اور زمیندار خان جہان کو احکام خلافت کا کارفرما جانیں

اور اسکی صلاح دید کو ہماری مرضی سمجھیں۔ اور ملک کی فتح اور آبادانی میں تگاپو کریں۔ امرائے بنگالہ
صوبہ بہار میں بھاگل پور کے حوالی میں پہنچے تھے۔ کہ خان جہاں لشکر لیکر وہاں آ گیا۔ یہ اہل غرض
سراسیمہ ہوئے کہ نہ رائے برگشتن و ہمراہی گزیدن نہ روئے تافتن و عزیمت درگاہ نمودن۔ اکثر
نے شرم کے ساتھ خوب توضیح سے کہا کہ ہم کو یہ ملک ناسازگار ہے۔ اور اس دیار کی ہوا
مسموم ہے۔ ہزاروں آدمیوں کی جان لے چکی ہے۔ ہم معاودت نہیں کرینگے بعض نے یہ
فتنہ اُٹھایا کہ مذہب کو چھیڑا کہ خان جہاں قزلباش ہے اور ہم اس کی سرداری نہیں
قبول کرینگے۔ راجہ ٹوڈرمل کی تدبیر افزائی اور خان جہاں کی فراخ حوصلگی نے سب کو
خاموش کر دیا۔ اور سب نے اُسکی ہمراہی کو قبول کیا۔ اسمٰعیل قلیخاں نے پیش دستی کی کہ
وہ گڈھی کے فتح کرنے کو روانہ ہوا۔ داؤد نے یہاں تین ہزار آدمی معین کیے تھے۔ اور
ایاز خاصہ خیل کو یہاں کا منتظم بنایا تھا۔ اس لشکر شاہی نے زندہ گرفتار کر لیا اور
مار ڈالا۔ داؤد کو یہ خیال نہ تھا کہ بادشاہی لشکر ایسا جلد آ جائیگا اب وہ اپنی چارہ گری
میں مصروف ہے آک محل کو اپنا معسکر بنایا جسکے ایک طرف دریا رحصار بنا ہوا تھا۔ اور
دوسری طرف پہاڑ تھا جو کسی کو جانے نہ دیتا تھا۔ آگے دلدل تھی جس نے رستہ بند کر رکھا
تھا قطع نظر اس سے کہ وہ اپنا استوار تھی ولایت بنگالہ کی پیش گاہ تھی۔ چنانچہ اس مرحلہ
دشوار گزار کے بیٹھنے والے جیسے حوادث سے محفوظ ہے ایسے ہی بالفعل یہ مملکت لشکر کی
بے سپری سے عموماً محفوظ رہی۔ خانجہان نے دشمن کی برابر صفوف نبرد کو آمادہ کیا لیکن
عوائق مکانی اور زمانی نے عرصہ مبارزت کو آراستہ نہ ہونے دیا۔ ہر طرف سے جوانمرد
آ نکر سرفشانی اور جانستانی کرتے جس سے انکی مردانگی ظاہر ہوتی بادشاہ پاس یہ پیغام
آیا کہ اگر کوئی تازہ فوج کمک کو جلد بھیجی جائے تو بنگالہ کی فتح دلخواہ ہو جائے۔ ورنہ
پھر برسات کا موسم آتا ہے جو بنگال میں طوفان مچاتا ہے۔
پادشاہ نے مظفر خاں اور تمام امراء صوبہ بہار کے نام حکم بھیجدیا کہ اس ملک کی سپاہ کو

تیار کر کے بنگالہ پر متوجہ ہوں۔ بادشاہ کو سپاہ بنگالہ کی تنگدستی اور کم آذوقی کا حال بھی معلوم ہو گیا تھا۔ اس لیے نقد و جنس سے کشتیاں مالا مال کر کے روانہ کیں۔ جس سے سپاہ بنگالہ کے ضعیف دلوں کا چارہ ہوا اور دشمن کے دلوں میں خطر پیدا ہوا۔ ....

خواجہ عبداللہ نقشبندی اپنے مورچل سے آگے بڑھ کر گئے اور دشمنوں سے لڑے شکست پائی اور اپنی جان گنوائی۔

لشکر شاہی ایک محل پر آیا اور اس سے داؤد کے ساتھ ہنگامہ کارزار گرم ہو جائے ایسی قلب تھی کہ میدان رزم آراستہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں ہی جو انمرد اپنے جوہر مردانگی کو بازار رزم میں دکھلاتے تھے۔ مخالفوں کو یہ خیال تھا کہ برسات آئی ہے وہ اس لشکر شاہی کو پراگندہ کر دیگی۔ بادشاہی لشکر کے اعیان اکثر الوس جغتائی سے تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مہم بزرگ خان جہاں کے اہتمام سے تمام ہو۔ وہ قزلباش تھا۔ اُن میں وہ عقیدت نہ تھی کہ اپنے صاحب کے کام کے لیے کیش اور دین کی مخالفت کا خیال نہ کر کے سرآمدہ ... میں کوشش کرتے۔ لشکر بنگالہ وبا کے پھیلنے سے اس ملک سے برداشتہ خاطر تھا۔ وہ یہ سعی کرتا تھا کہ یہ کام آگے نہ چلے اس میں یہ عقل نہ تھی کہ پیمانہ زندگی کے پر ہونے میں مال و مکان کو سود و زیاں میں دخل نہیں ہے بلکہ جو مدت عمر کہ علم ایزدی میں ہے اسقدر ہوتی ہے خواہ آدمی شیروں کے جنگل میں رہے یا عشرت کدہ بزم میں۔ نہ اس میں یہ اخلاص تھا کہ اپنے ولی نعمت کی خدمت میں جانفشانی کر کے اپنے اوپر احسان کرنا۔ ظاہر میں ان کو کیفیت اور کمیت میں غنیم زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس لیے وہ لڑنے پر دل نہیں لگاتا تھا۔ اور مستحکمی جا کے سبب سے بھی ہنگامہ نبرد رونق نہ پاتا تھا برسات کی شدت اور پانی کی طغیانی بھی رزم آرا نہیں ہونے دیتی تھی۔ اور غلہ کی کمی اور نرخ کی بیشی بھی ہمت ہراتی تھی۔

خانجہاں اور راجہ ٹوڈرمل اخلاص مندی اور زمانہ کی مزاج شناسی کے سبب سے دلدہی و ہمت بخشی و جدکاری میں بڑی کوشش کرتے تھے۔ سپاہیوں کی ناملائمی کو

[illegible] ۱۰۳۴

بڑی قیمت پر خرید کرکے اپنے جوہر خدمت کو قابل تحسین بناتے تھے۔ غرض اس لشکر کی صورت کہے دیتی تھی کہ اس سے کچھ کام نہ ہوگا۔ لشکر بہار کا انتظار تھا جس کو بادشاہ بنگالہ میں جانیکا حکم دے چکا تھا۔ مظفر خاں اس کو ٹال رہا تھا کہ بادشاہ کے سزاول اس پاس متواتر آئے۔ وہ لشکر تیار کرکے کاگل پور (باگل پور) میں لایا اور یہیں اقامت کا ارادہ کیا۔ اکثر بزرگان لشکر سے وہ سخن آرائی اور نکتہ گوئی کرتا کہ موسم باراں نے طوفان مچا رکھا ہے اس ملک میں جانا اور کام کا نہ بنانا دل کا توڑنا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ جب تک برسات ختم ہو یہیں قیام کریں۔ خانجہاں امتداد مقابلہ اور اشتداد عسرت سے تنگ ہو گیا ہے معاودت کرے۔ طلوع سہیل کے شروع میں کہ ہوائیں اچھی چلتی ہونگی۔ پانی کم ہو گیا ہوگا اُس وقت یکدلی کے ساتھ بنگالہ کی تسخیر اور افغانوں کا استیصال مناسب ہوگا۔ اس اثنا میں محب علیخاں آیا اس نے مظفر خاں سے کہا کہ جب پادشاہ کا حکم جزم ہو کہ بنگالہ میں جاکر پیکار آرا ہو تو یہ مصلحت بینی اور تدبیر اندیشی و توقف گزینی شائستگی نہیں رکھتیں وہ عقیدت اور معاملت سے بعید ہیں۔ پادشاہی حکم کی اطاعت کرکے ایک دل و یک جہت ہو کر خدمت کے لیے جانا چاہیے۔ اور جس کام کا طول کھچ گیا ہے اُسے سرانجام دینا چاہیے۔ یہ بات محب علیخاں نے ایسی اچھی عقیدہ و اخلاص سے کہی کہ سب کے دلنشین ہو گئی۔ اُس طائفہ نے بھی جو تاخیر کے درپے تھا خواہی نخواہی اسے قبول کرکے ایک یہ شاخسانہ نکالا کہ کارشناس آدمیوں کو بھیجکر پہلے لشکر بنگالہ سے عہد و پیمان استوار کرنے چاہئیں۔ کہ جب دو لشکر مل جائیں تو کارزار کو تاخیر میں نہ ڈالیں اور اس بزرگ کام کو انجام دیں مبادا اعیان لشکر جنگ پر دل نہاد ہو کر یہ بہانہ بنائیں کہ حضرت شہنشاہی کو آجانے دیں۔

(بادشاہ بنگالہ کے قصد سے ۲۵ ربیع الاول ۹۸۳ھ کو فتحپور سے چل چکا تھا) جس سے موسم کی خرابی میں یہ لشکر بھی پھنس جائے۔ میر معز الملک اور وزیر جمیل کو بھیجکر خاطر جمع کی گئی تھی۔ یہ دونوں لشکر ۲۹ رتیر ماہ الٰہی ۹۸۴ھ کو مل گئے اور آپس میں خوب عیش و طرب کی مجلسیں اور جشن ہوئے۔ خانجہاں اور مظفر خاں کے درمیان مشورہ ہو کر ترتیب افواج اور تسویہ صفوف

اس طرح ہوئی کہ قول کو خانجہاں آراستہ کرے۔ برانغار کو لشکر بہار رونق دے جرانغار کو
راجہ ٹوڈرمل وجباری و بابا قاقشال و اعتماد خاں خواجہ سرا اور راجہ گوپال آراستہ کریں۔
ہراول میں شاہم خاں و مراد خاں و خان محمد بہسودی و اسمعیل بیگ ازبک ہنگامہ افروز ہوں
التمش میں اسمعیل قلیخاں و قیا خاں مقرر ہوئے اور غنیم کی فوج کی ترتیب یہ تھی کہ قول میں
داؤد اور دست راست میں کالاپہاڑ اور دست چپ میں جنید اور ہراول میں خانجہاں حاکم اڈیسہ
مقرر ہوئے تھے۔ اسمعیل افغان کو داؤد نے خانجہاں کا خطاب دیا تھا۔ پنجشنبہ ۱۵ ربیع الثانی ۹۸۴ھ
کو رزمگاہ کی طرف لشکر نے رخ کیا۔ سب جگہ پانی پانی ہی تھا اور پیل باندھنے کو بھی جگہ نہ تھی
مگر دامنہ کوہ میں ایک راہ لشکر کو ملگئی جس کی بڑی خوشی ہوئی۔ مگر تھوڑی دور چلکر آب عمیق سیاہ
آگے آیا۔ اب روے گزشتن و نہ راے برگشتن تھی۔ سب غم کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے مگر
تھوڑی دیر میں ندی کا پانی اُترکر پایاب ہوگیا۔ غنیم حقیقت حال پر آگاہ ہوکر نبرد کا طلبگار
ہوا ادھرسے بابا خاں جرانغار کا لشکر لیکر لڑنے کو آگے بڑھا۔ اُدھرسے کالاپہاڑ سرپر
آیا۔ ہنگامہ کارزار گرم ہوا سینوں پر سناں چلنے لگے خون کی رو سروں کو گیند کی طرح
لڑکانے لگی۔ بابا خاں عنان تاب ہوا۔ مگر جباری اور بہادروں نے مدد کی سخت لڑائی
ہوئی۔ اور قریب تھا کہ بادشاہی لشکر کو شکست ہو کہ راجہ ٹوڈرمل حمایت کو آگیا اور
جنگ حیرت افزا میں کالاپہاڑ زخمی ہوا۔ خان نے بچاؤ بھاگنے میں سمجھا آگے دلدل پڑی
تھی اس لیے بادشاہی لشکر نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ اُلٹے چلے آئے۔ برانغار شاہی
سے دشمن کچھ نہ لڑا۔ جنید کہ شمشیر افغانان تھا۔ فنون نبرد سے خوب آگاہ تھا وہ اپنی چارپائی
پر سوتا تھا کہ بادشاہی لشکر کی توپ کا گولا اس کو لگا جس سے اُسکی ران ٹوٹ گئی۔
بادشاہی ہراول کو مراد خاں دریا سے پار لے کر گیا۔ اور پیشدستی کی ایک ہنگامہ عظیم
برپا ہوا۔ دشمنوں نے شاہی لشکر کو بھگا دیا تھا کہ اُس کی مدد کو ہراول کا لشکر اور
التمش آیا اور پھر مفرور سپاہ کو لڑنے کے لیے اُلٹا لایا۔ سپاہیوں کی تلواریں خون سے

لال ہوئیں۔ کسی نے جان سپاری کی۔ کسی نے گریز کی۔ لڑتے لڑتے کمریں شکستہ ہوئیں ہاتھ میں قوت رہی نہ سر میں نیرو۔ غنیم کا سرگروہ مقدمہ خانجہاں مارا گیا۔ اور مخالف کی جمعیت میں تفرقہ پڑا۔ وہ سراسیمہ ہو کر بھاگا۔ بادشاہی لشکر اسکے پیچھے پڑا۔ بہت سے سرکش دریاؤں اور ندیوں کی طرف بھاگے اور وہاں ڈوبے۔ داؤد کا گھوڑا دلدل میں پھنسیا طالب بدخشی پسر خواجہ ابراہیم کہ مرزا ہندال کے معتبروں میں تھا اپنی بدگوہری سے داؤد کو عرصۂ کارزار سے اپنے گھوڑے پر لے گیا کہ مراد سیستانی اور حسین بیگ گرد کو اسکی خبر ہوئی وہ داؤد کو مقید کر کے خانجہاں پاس لائے۔ خانجہاں نے اُس سے پوچھا کہ وہ عہد و پیمان جو قسم کھا کر لیے تھے کہاں گئے تو اُس نے شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ وہ سب خان خاناں کے ساتھ تھے اب وہ از سر نو تمہارے ساتھ ہو جائیں خان جہاں نے یہ سنکر اُسکا سر اُڑا دیا۔ اور سید عبد اللہ کے ہاتھ بادشاہ پاس سر اور ٹانڈہ میں دھڑ بھجوا دیا۔ بادشاہ نے اس فتح کی خبر سُنی بڑا جشن کیا۔ اور ناظمان ملک کے نام فتحنامے روانہ کیے۔ بادشاہ نے خود بنگالہ جانے کا قصد نہ کیا۔ ایک منزل جلکر وہیں اُلٹا آ گیا۔ جانے سے اس زبردست بے ہنگام یورش سے اس کے لشکر کو تکلیف ہوتی خانجہاں کی حسن سعی اور راجہ ٹوڈرمل کی یاوری نسے یہ ملک وسیع نیا ہاتھ آیا جس سے عموم خلائق کو آسودگی ہو گی۔

صوبہ بہار کے نامور زمینداروں میں سے راجہ گجپتی تھا۔ وہ ہمیشہ لشکر شاہی کی ہمراہی کرتا اور بنگالہ کی مہمات میں خدمات شائستہ بجا لاتا۔ رخصت لیکر اپنی ولایت میں آیا جب خانجہاں افواج لیکر اسکے پاس ہو کر گذرا تو اسکو کچھ ایسا وہم پیدا ہوا کہ وہ لشکر کے ہمراہ نہ ہوا۔ جب لشکروں کے مقابلہ میں طول ہوا تو وہ رہزنی کرنے لگا اور ضعیفوں کو آزار پہنچانے لگا۔ واقعہ جو آدمیوں کا ہجوم اسکے گرد ہوا۔ بلاد اصحابہ پھر رفتہ رفتہ اسکی فتنہ زائی کا ہنگامہ گرم ہونے لگا۔ قصبہ آرہ کے نواح میں اسکا غلبہ ہوا یہاں کا جاگیردار

فساد بغاوت راجہ گجپتی ۹۸۴ھ ۲۱

فرحت خاں اُس سے لڑ نہ سکا۔ ناچار متحصن ہوا۔ راجہ نے اُسے گھیر لیا۔ اور داؤد سے ملگیا۔ بادشاہی
ملازموں کی راہ روکنے لگا۔ پیشرو خاں کشتی میں سوار ہوکر دار الخلافہ سے بنگالہ کو ایلغار کرکے جاتا تھا
اسکو پکڑ کر مقید کر لیا۔ فرہنگ خاں پسر فرحت خاں نے سُنا کہ گجپتی نے اسکے باپ کو گھیر رکھا ہے تو وہ
تیول سے اس طرف متوجہ ہوا قراطاق خاں بھی اس نواح میں تھا وہ اسکے ساتھ گیا۔ جب فرہنگ خاں
کے راجہ کے نواڑہ سے لڑائی ہوئی اور اُسکو وہ شکست دیکر دریا رسون سے گذر گیا۔ پھر راجہ
اس سے لڑنے کھڑا ہوا فرہنگ خاں نے گجپتی پر تلوار کے دو وار کیے۔ قریب تھا کہ اسکو مار ڈالتا۔ مگر شمشیر
بازوں نے فرہنگ خاں کے گھوڑے کے پے کاٹ دیئے۔ وہ پیادہ ہوکر لڑا اور مارا گیا۔ پھر قراطاق خاں
اپنی مردانگی دکھا کر نیست ہوا۔ فرحت خاں جہر بدری کے سبب سے قلعہ سے باہر آیا اور جان سے گیا۔
گجپتی غازی پور کی غارتگری کے فکر میں ہوا کہ شہباز خاں لشکر سمیت وہاں جا پہنچا۔ گجپتی ڈر کر
گذر جوسنہ پر بھاگا لشکر شاہی نے کشتیوں کو جمع کرکے دریا کو عبور کیا۔ اور گجپتی کے وہ پیچھے پڑا۔
اسکا کچھ اسباب توپ کشتیاں چھین ہیں۔ اثنا راہ میں قلعہ کا محاصرہ کیا۔ یہاں کے قلعہ دار سنگرام
نے قلعہ کی کنجیاں حوالہ کیں۔ شہباز خاں نے قلعہ اپنے آدمیوں کو سپرد کیا۔ اور گجپتی کے پیچھے پڑا۔
ہاتھ نہ آیا۔ لشکر شاہی نے معاودت کرکے ایاک در راہ لی۔ دوسرے روز دریا کے کنارہ پر گجپتی
آنکر رات تک لڑا۔ اور اپنے سامنے سے لشکر کو عبور نہ ہونے دیا۔ سنگرام کی رہنمونی سے لشکر اسکی
بنگاہ کے لوٹنے کے لیے گیا۔ کئی جگہ بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں۔ گجپتی نے لشکر شاہی پر شبخون مارا
مگر ناکام رہا اور جگدیس پور میں چلا گیا۔ یہ جگہ نہایت مستحکم ہے۔ دو مہینے تک جنگل کو لشکر شاہی نے
کاٹا پھر قلعہ کو فتح کیا اور گجپتی کے زہ و زاد پر قبضہ کیا۔ گجپتی بھاگ کر کوہستان رہتاس میں چلا
گیا۔ یہاں اسکا بھائی بیری سال بہت سے بہادروں کے ساتھ رہتا تھا۔ کہ لشکر شاہی نے
دفعتہً جاکر اسکا کام تمام کیا۔ جب گجپتی پامال حوادث ہوا تو اُسکا بیٹا سری رام قلعہ شیر گڈھ کی
قلعہ داری کے لوازم میں مصروف ہوا۔ شہباز خاں مع لشکر کے وہاں آیا اور سامان قلعہ گیری
کا مہیا کیا۔ اس سرزمین کے اکثر سرکش اُسکے مطیع ہوگئے۔ اتفاق سے یہ نیا گل کھلا کہ یہ قلعہ

قلعہ شیرگڈھ و رہتاس کا فتح ہونا ۹۸۳ھ

رہتاس جنید کے ہاتھ آیا۔ اس نے اپنے معتمد سید محمد کو سپرد کیا۔ اور جب جنید مر گیا اور مظفر خاں نے اس حصار کی تسخیر کا ارادہ کیا تو اہل قلعہ نے اپنے معتمدوں کو شہباز خاں پاس بھیجکر امان طلب کی۔ اُس نے کشادہ پیشانی سے قبول کی۔ قلعہ یوں ہاتھ آگیا۔ مظفر خاں بھی اس واقعہ کو سنکر بہت خوش ہوا۔ جب قلعہ رہتاس ہاتھ آیا شیر گڈھ کو سری رام نے حوالہ کر دیا۔ ان نیک خدمتوں کو بجا لاکر شہباز خاں بادشاہ پاس گیا بادشاہ نے قلعہ رہتاس کی حراست محب علیخاں کو سپرد کی

سات گاؤں میں داؤد کا زوروزاد تھا۔ اور متی و جمشید خاصہ خیل اور بہت افغانوں نے یہاں شورش برپا کر رکھی تھی جب میانہ ولایت بنگالہ متمردوں سے صاف ہوا تو خانجہاں اس طرف متوجہ ہوا متی نے داؤد کا اندوختہ گزیدہ جمع کیا تھا اور نیک بختی سے چاہتا تھا کہ بندگان بادشاہی میں داخل ہو۔ جمشید نے تمام افغانوں کو اپنے ساتھ بلا کر اس سے لڑائی ٹھانی۔ متی اس سے لڑا مگر آخر کو کہیں چھپ گیا۔ اُس کا سارا مال اسباب افغانوں کے ہاتھ آیا۔ یوسف بلوچ و سرمست افغان اور متی کے کچھ دوست جمشید سے عوض لینے پر آمادہ ہوئے۔ وہ ایک دن ان لوگوں کی دلدہی کرنے گیا تھا کہ اس کا پیمانہ زندگی آب خنجر سے اُنھوں نے لبریز کیا۔ بادشاہی لشکر کی انگلی بھی نہ ہلی کہ وہ شورش مٹ گئی۔ داؤد کی ماں نے مع سب اپنے متعلقین کے پناہ مانگی اور یہ قرار پایا کہ جب لشکر حدود ٹانانڈہ میں جائے تو وہ مع اپنے بیٹوں کے خانجہاں کی خدمت میں حاضر ہو۔ خانجہاں نے اسکی نیازمندی کو قبول کیا۔ اور سات گاؤں سے پھر اپنی قرارگاہ پر چلا آیا۔ اس گروہ نے اپنے پیمان کا پاس کیا اور خان جہاں پاس چلا آیا ۹۸۵ھ میں خانجہاں کی عرضداشت اس مضمون کی آئی کہ ملک بنگالہ قبضہ میں آیا ولایت بھاٹی میں ابراہیم نرل و موسیٰ زنی فتنہ و فساد کے گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کا زمیندار عیسیٰ باتیں بنا کر اپنا وقت گزارتا ہی بنشاہ بردی میر نوارہ بھی اپنے گھمنڈ میں پھول رہا ہی۔ خانجہاں نے سپاہ آراستہ کرکے اس طرف بھیجی ہی۔ قصبہ کو اس میں نولکا ما داؤد نے مع اپنے متعلقین کے اور محمود خاں خاصہ خیل مشہور بہ متی اور بہت سے سرکش افغان خان جہاں کی پناہ میں آئے۔ بہت مال ہاتھ لگا اور بہت عمدہ اندوختے لیے گئے

خانجہاں کی لشکر کشی سات گاؤں پر اور اس کی عرضداشت ۹۸۵ھ

نولکا اور متی میں دشمنی ہوئی ۔ خانجہاں نے متی کو مار ڈالا ۔ تاکہ مال جو لیا گیا ہے پوشیدہ رہے ۔ شاہ بردی سمجھانے سے راہ پر آ گیا ہے ۔ قصبہ بھوال میں لشکر شاہی آیا ۔ ابراہیم نرل اور کریم داد اور اس سرزمین کے اور افغانوں نے فرمان پذیری کی داستان درمیان میں لاکر یکجہتی میں سخن سرائی کی عیسیٰ نے جو گریہ نشین تھا ایک لشکر گران بھیجا جسکے سردار شاہ بردی اور محمد قلی تھے وہ دریا کنارہ سندھ سے گزر کر حدود کتل پر آیا یہاں سخت لڑائی ہوئی ۔ عیسیٰ بھاگ گیا ۔ اور بہت سے نفائس غنائم لشکر شاہی کو ہاتھ لگے ۔ مگر عیسیٰ کے نامدار امرا میں سے مجلس دلاور و مجلس پرتاب ندیوں اور دریاؤں سے نوارہ لائے ۔ اور مار دھاڑ کی آگ کو بھڑکایا ۔ پادشاہی لشکر میں لغزش آئی اور اس نے پیٹھ دکھائی ۔ اس چپقلش میں کچھ دریا نوردوں میں سے کشتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے ۔ محمد قلی نے تیز دستی اور مردانگی سے مخالفوں کی کشتیوں پر قبضہ کر کے لڑنا شروع کیا ۔ مگر وہ گرفتار ہو گیا کہ اس عرصہ میں تیلہ غازی زمیندار آ گیا اور اس نے ایسی جرأت اور بہادری کی کہ پادشاہ کے لشکر کو ناامیدی کی حالت میں فتحمند کیا اور دشمنوں کو بھگا دیا اور بہت غنیمت ہاتھ آئی اس سال میں ابراہیم نرل نے اپنے بیٹے کو مع تحائف کے بھیجکر پناہ مانگی ۔ سپہ آرا خانجہاں نے اس کو پناہ دیکر معاودت کی صحت پور میں کہ حوالی ٹانڈہ میں ہے ۔ عشرت و کامرانی سے وہ اوقات بسر کرنے لگا سنہ ۹۸۶ء میں اسی مقام پر تاپ تپ اور بستگی شکم کے امراض میں ڈیڑھ مہینہ مبتلا رہا اور مر گیا ۔ اس کی جگہ ایالت بنگالہ پر مظفر خاں مقرر ہوا ۔

۳ فروردین ماہ الٰہی سنہ ۹۸۷ (۲۴) کو بنگالہ کی طرف روانہ ہوا ۔ سپاہ کی بخشیگری رضوی خاں سے متعلق ہوئی اور شغل دیوانی میر ادہم و رائے پتر داس کی کاردانی کو مفوض ہوئی اور حکیم ابوالفتح صدارت اور امینی پر مقرر ہوا ۔ اور اور امرا کو بھی لکھا گیا کہ اسکے ہمراہ جائیں ۔ سب کو خلعت فاخرہ اور اسپ عنایت ہوئے اور

خانجہاں کا مرنا اور اس کی جگہ مظفر خاں کا مقرر ہونا ۹۸۶

اسمٰعیل قلیخاں یعنی پسر خانجہاں کو حکم دیا گیا کہ جب نیا مرزبان اس سرزمین میں آئے
تو کشادہ پیشانی سے ملک اس کے حوالہ کرکے ہمارے پاس جلد آئے کہ اسکی سوگواری
کے زخم پر نوازش شاہ کا مرہم لگے لقیا خاں اور بابا خاں جباری اور کل امرا بنگالہ
کے نام فرمان صادر ہوا کہ وہ سپہ آرائی صوابدید سے باہر کوئی کام نہ کریں۔

امرائے بہار و بنگالہ کی سرتابی اور انکی سزا کیواسطے سپاہ کی روانگی

منصف بادشاہوں کا بڑا فرض یہ ہے کہ وہ شہروں اور ملکوں میں جنھیں طوائف انام
اور گوناگوں جانور فراہم ہوتے ہیں۔ [illegible] معدلت اندوز فراخ حوصلہ ملازموں کے سپرد
کریں۔ تاکہ فروغ بینش سے آدمیوں کا جوہر روشن ہو۔ اور راستی کی ترانہ میں
تلے۔ داددہی اور دولت افزائی اپنی فراست جگہ پکڑے اور شکستگی ہمت باربردار
اور ملائم کش ہو۔ اور خوی گزیدہ کی قوت ناکامی کے وقت اپنی پاسبانی کرے
اور بیش بینی کو اپنا یار بنائے۔ تاکہ روزگار کی پریشانی کا انتظام ہو۔ اور آسودگی اور
شادمانی ہو۔ اگرچہ انھیں باتوں پر خیال کرکے بادشاہ نے امراء مذکور کو بنگالہ میں مقرر کیا تھا
مگر روزگار بوقلموں کی نیرنگی اور دیر کہن کی شگرف کاری بیان نہیں ہوسکتی۔ اسکی سبب سے
بدتر خو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فتنہ اندوزوں کی پرورش کرتا ہے اور باطل ستیزوں کے گروہ
کے ہنگامہ کو رونق دیتا ہے اور نیک سگال سعادت گزینوں کی غم افزائی اور خرد پژوہ
حقیقت منشوں کی جانگزائی کرتا ہے۔ دوربیں ہشیار خرام اس نقش بدیع کی پردہ کشائی
نہیں کرتے اور چون وچرا کرنے میں خاموش رہتے ہیں ؎

بے اندیشہ کردم پئے وپس را + بحکمتہا را دزہ نیست کس را
دریں بستان زبان باید در دکرد + خموشی را بحیرت پیش رو کرد

اس دشوار معمے کی گرہ کشائی دشوار ہے۔ سوانح روزگار کے دیکھنے والے کم ہیں اور

کوتاہ حوصلہ ہیں اور انکی آنکھ تمام نشیب فراز کو نہیں دیکھتی ہی وہ پاؤں میں کانٹا چبھنے کو آشوب جہان
اور ایک شخص کے گزند پہنچنے کو بلائے عام سمجھتے ہیں۔ مگر تیز نگاہ وحقیقت پژوہ جانتا ہی کہ
زہر گیا اور تریاق دونوں نشو و نما پاتے ہیں اور جانوروں میں دل صید کن اور جان شکر نشاط
کرتا ہی آدمیوں میں بھی نیک بد کا ظہور اور خفا ہوتا ہی اور جس طرح ادویہ جسمانی میں دونوں زہر
اور تریاق کام میں آتے ہیں ایسے ہی معالجہ روحانی میں دونوں گروہ نیک بد زمانہ شناس
پر ظاہر ہی کہ نیک اختر والا گوہروں کی کارروائی اور بدکیش لیموں کی تباہی سے ہستی کو فروغ
ہوتا ہی اور اسباب پاداش سرانجام پاتا ہے۔ آسائش خلق میں فتنہ اندوزوں کی سرافرازی
اُسی کے لیے ہوتی ہی کہ وہ زیان و نقصان کے گڑھے میں نگونسار کیے جائیں ؎

این بادہ کہ روزگار دارد + یک مستی و صد خمار دارد
گر بر دو فراز از نشیب + ہشدار کہ میدہد فریبت

اسی سے چارچمن ابہت کی خادپیرائی اور نونہالان شہادت کی طراوت افزوزی
ہوتی ہی۔ طرز تعلق کا دانا جانتا ہی کہ حق پرست و دولتمندوں کی کامیابی آرائش
جمال ہی اور بطلان منشی تبقاوت اندوزوں کی برآمد زیب و زینت جلال ہی۔ غرض
ان دونوں میں لطف ایزدی وجمال الٰہی جلوہ دکھاتا ہی۔ اس تمہید کی تفصیل یہ ہی کہ امرار
بہار پادشاہ سے پھر گئے۔ ہر ایک اپنی اپنی آرزو کے پورا ہونے سے خوش ہوگیا ۹۸۷ھ
کے شروع میں پادشاہ نے پرکھوتم و مولانا طیب و شیخ نجم الدین و شمشیر خاں خواجہ سرا
کو بہار کی طرف روانہ کیا کہ اس صوبہ معمورہ کے انتظام میں اپنی کارروائی کام میں
لائیں ملک کی آبادی میں سپاہ کی تیمارداری میں زیر دستوں کی غمخواری
میں کوشش کریں مگر فرومایہ تنگ حوصلوں نے پٹنہ میں جاکر ڈیرے ڈالدیئے۔
اور اپنی حرص کا دامن دراز کیا۔ کار داغ میں سخت گیری اور خیرہ روئی اختیار کی اور
اپنے اندھے پنے سے مدارا اور پرورش پذیری کو کہ جسکے بغیر دار و گیر جہاں انتظام نہیں پاتا

امرا بہار کی سرکشی ۹۸۷ھ

چھوڑ دیا۔ ایک وہ نے تو اخلاص کے سبب سے اپنی طبیعت خرد دوست کا عقیدت سے علاج کیا۔
اور کوئی ایک نے معاملہ پر نظر کر کے پہلی نعمتوں کی فراموشی کو اپنے حال کی ناکامی سمجھکر کوئی شکوہ
نہیں کیا۔ اور بعض نے سوداگری سمجھکر محنت کی اور ظاہر میں اپنا کچھ نہ بگاڑا۔ مگر بہت سے
بدذات ایسے ملمع کے امیر تھے کہ وہ اپنے بادشاہ سے برگشتہ ہوئے اور شورش میں سر اُٹھایا
اور مخالفت میں گردن بلند کی۔ نہ انکے دل میں خلاص تھا اور نہ انکو اپنے معاملہ میں سود
وزیان کی شناخت تھی نہ عقل صواب اندیش نہ رائے ظاہر بیں تھی۔ نہ کوئی دانا اُن کا
ہمنشین نہ دل ہمت گزین تھا۔ پٹنہ اور اسکے نواح میں معصوم علی کابلی کے اقطاع تھے۔
وسعید بیگ بخشی (عرب جاگیردار سسرانو کے تھے سعادت علی کے پاس پرگنے نمودائن (نمودار ی)
بہک کے تھے۔ حاجی کولابی اور بعض اور کی تیول میں دیوارہ تھا سعید بخشی اور اس کا بیٹا بہادر اور درویش علی
سنجر تربت اور اسکے نواح میں خوان نعمت پر بیٹھے تھے۔ اُنھوں نے اور اور آدمیوں نے کار ریزاز دو
کی سخت گری سے بغاوت اختیار کی اور قسم دوم کے آدمیوں کو اس نے اپنی چرب بانی اور سخن سرائی
سے بھکایا جیسے کہ شاہم خاں جاگیردار حاجی پور اور میر معز الملک میر اکبر د سماجی خاں پرگنہ دار
آرہ اور اسکے نواح کے تھے یہ سب ملکر شور افزا ہوئے۔ بادشاہ کا اخلاص چھوڑا۔ اور یہ نہ سمجھے
کہ آدمی دیوار سے گر کر خاک کی برابر ہوتا ہی۔ ہم جو بادشاہ کی اخلاص کی بلندی سے گرتے ہیں تو
ہمارا کیا حال ہوگا۔ کتے بلی کو نہ دیکھا کہ وہ کیسے انسان کے بندۂ احسان ہوتے ہیں اور کیسے اسکے
ساتھ دوستی وموانست کرتے ہیں اور ہمسر ان صنفی میں کیسی مواسا اور مدارا ہوتی ہی۔ آشناؤں
اور یکجانشینوں اور احسان ونوازش کے اسیروں پر کون سے امر ناگریز ہوتے ہیں ان سب
معاملہ شناس آزمندوں نے ملکر اپنی خواہش کا دروازہ کھول دیا اور عموم لشکری
پر کار دشوار کر دیا وہ لوگ کہ زر بندگی کے سبب سے بجائے سپاہ کے زر جمع کرتے وہ رشوت
دینے سے عاجز ہوئے اور جو لوگ کہ سپاہ میں روپیہ صرف کرتے وہ ان حریصوں کے
پیٹ بھرنے سے متحیر ہوئے اسلیے دونوں گروہوں نے اس کو فتنہ اندوزی کا بہانا بنایا اور

شورش کا خیال کیا۔ محب علیخاں نے سب کو پٹنہ سے محب علی پور میں جو [illegible] گیا۔
اور داغ کے کام میں مصروف ہوا فقط وہی کام روائی کرتا۔ اور اور امرا [illegible]
خیرہ چشمی کرتے اس اثنا میں کہ محب علی داغ میں سرگرم تھا بنگالہ سے ایک بڑا قافلہ آیا [illegible] کی
سپاہ وردی برملازمی مظفر خاں نے خانجہاں کے اندوختوں اور منتخب ہاتھیوں [illegible] کی
ماں کو مع سارے خاندان اور سامان کے فتح چند منگلی کے ہمراہ بادشاہ کے پاس [illegible]
ساتھ بہت سی سپاہ تھی اور سوداگر بیتال لیے ہوئے ہمراہ تھے۔ [illegible]
میں لگے۔ اور آپس میں عہد و پیمان کرنے میں تگاپو کرنے لگے۔ محب علیخاں نے انکو [illegible]
اس ناشائستہ حرکت سے باز رکھا اور اس سبب سے کہ عموم اہل کار [illegible]
سے ہر سال تھے اپنے سپاہ بسر کردگی جبش خاں انکے ہمراہ [illegible]
شہر پٹنہ کو لوٹ لیا۔ محب علیخاں قلعہ رہتاس میں قلعہ داری کے لیے چلا گیا [illegible] خیال
سے کہ معصوم خاں فرنخودی کو لڑائی کے لیے لائے غازی پور گیا شمشیر خاں [illegible]
گیا کہ راجہ ٹوڈرمل کی سپاہ کو جا کر آمادہ پیکار کرے۔ [illegible]
لوٹ لے مگر وہ گنڈ جو اسے [illegible] گیا اور اسکو سوائے چند ہاتھیوں کے جو پیچھے رہ گئے تھے کچھ اور
ہاتھ نہ آیا۔ جبش خاں نے مردانگی میں کارپردازی کی مگر گرفتار ہو گیا [illegible] محب علیخاں
کے ساتھ جبش خاں ایسی رویہ یاری کرے کہ وہ اس کا احسان ہو جائے۔ مگر جبش [illegible]
کہ محب علیخاں میری باتوں میں نہیں آئیگا اور وہ کسی طرح آپکے ساتھ یکدل نہیں [illegible] اگر آپ [illegible]
پیمان استوار کریں اور میری خواہش کو قبول فرمائیں تو میں [illegible] جا کر اہل قلعہ کو آپکا طرفدار
بناؤں۔ پھر بہ آسانی اس [illegible] کے پیمانہ حیات کو لبریز کردوں اس طرح سے یہ قلعہ [illegible] ہاتھ
آجائیگا اور پناہ حوادث ہوگا۔ غرض یہ دوست دشمن نما اپنی چرب زبانی اور افسانہ گوئی سے
اس خطرگاہ سے نکلا اور اپنے خداوند پاس گیا اور یہ ساری باتیں کہدیں اسی اثنا میں
رہتاس پر کھوتم کا واقعہ ناگزیر پیش آیا۔ جب وہ غازی پور میں گیا معصوم خاں فرنخودی نے

بہانہ سازی اور حیلہ اندوزی اختیار کی اور اس کو گذرجونسہ پر روانہ کیا کہ میں وہاں آنکر تجھ سے ملونگا۔ یہ سادہ لوح اسکے دم میں آگیا اور نگسر میں اور اس ولایت کی سپاہ جمع کی اور کئی جاگیردار اس کے ساتھ متفق ہوئے۔ ایکدن وہ گنگا کے کنارہ پر اشنان کر رہا تھا اور اپنے دل کی پوجا میں لگ رہا تھا کہ ناگہانی عرب بہت سی سپاہ لیکر اس حدود میں آیا۔ قابو پاکر چیرہ دستی کی رلے کے بیدل ساتھیوں نے آمادگی کا بہانہ کرکے کنارہ کیا۔ وہ خود لڑائی میں گرم ہوا۔ زخمی ہوا۔ ہمراہی کشتی میں ڈال کر اس کو غازی پور میں لائے۔ دو روز بعد یہ نیکنام دنیا سے سدھارا۔ محب علیخاں میدان جنگ میں آیا۔ لبش خاں نے شہرت جو نفشانی پیا عرب بھاگا۔ جب بادشاہ کو ان واقعات پر اطلاع ہوئی تو راجہ ٹوڈرمل و شیخ فریدبخشی و مہر علیخاں سلدوز و راجہ اسکرن و رائے لونکرن و نقیب خاں و قمر خاں و شاہ [illegible] و سید ابو القاسم و ابو المعالی و باقر سفرچی اور ایک گروہ انبوہ کو فرمان ہوا کہ اس ملک میں جاکر ناسپاس بدسگالوں کو سزا دیں۔ ترسون خاں و معصوم خاں فرنخودی و غازی خاں بدخشی و رائے سرجن اور اور جاگیرداران صوبہ الہ آباد و اودھ کو فرمان بھیجا گیا کہ جب لشکر شاہی ان دیار میں آئے تو اسکے ساتھ ساز و سامان پسندیدہ لیکر یکتائی و یکجہتی [illegible] ساتھ کریں۔ اور ترسون خاں اور راجہ کی صوابدید سے باہر نہ ہوں۔ یہ بھی اشارہ ہوا کہ صادق خاں و باقی خاں و الغ خاں حبشی و طیب خاں و میر ابو المظفر جنیدی و [illegible] اسطرف جائیں۔

جن اقبالمند بادشاہوں کی خدا تائید کرتا ہے وہ اپنی ہمت کو ان دو کاموں کے آراستہ کرنے میں لگاتے ہیں۔ اوّل فرومایہ بداندیشوں کو جو روباہ بازی و حیلہ سازی سے نیک سگالوں کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں انکے کار سے پردہ اٹھاکر اپنی سلطنت کو انکے خس و خاشاک سے پاک کرتے ہیں اور سعادتمند حقیقت اندوزوں کو جو نارسیدگی دولت اور بدکاروں کی پیش آمد کے سبب سے ناشناسائی میں رہتے ہیں۔ بشناخت کرکے عشرت سے کامیاب کرکے اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں۔ زیادہ تر روزی کے فراخ کرنے کو اسباب شادمانی

امرائے بنگالہ کی سرکشی و سرزنش ۹۸۸ھ
۲۴

جمع کرنے انکو۔ ناملائم کے پیش لانے کو۔ اور آدمیوں کو شکنجہ غم میں کھینچنے کو آغاز سے انجام پر پہنچاتے ہیں۔ جو شخص کہ درستی دریافت کو شائستگی کردار کے ساتھ ہم آغوش رکھتا ہے وہ آرامش سے بے آرامی میں نہیں جاتا اور افزونی جاہ اور فراوانی مال سے اپنی آگہی کو گزند نہیں پہنچاتا آزمائش کے دن دونوں زمانوں میں فرمان پذیری اور خدمتگزاری کو سر پر رکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور اپنے نفس کی بیہودگی کو روکتا ہے مگر جسکی اصل سرشت بدگوہر ہوتی ہے وہ شناخت کی شاخسار سے پھل نہیں کھاتا ہے اور اگر کچھ اس سے فائدہ اُٹھاتا ہے تو کردار کی گلشن کے نسیم اس کو نہیں پہنچتے اور وہ اپنی معیشت کی افزونی میں اپنا چراغ ہوا میں رکھ دیتا ہے اور بدمست ہوجاتا ہے اور ناکامی میں سعادت سے کنارہ کرکے بے اعتدالی کرتا ہے۔ یہی حال امرا بنگالہ کا ہے۔ ایمنی روزگار اور آبادی اقطاع اور افزائش مال سے انکی بینائی زمان زمان تاریک ہوتی گئی۔ اور بیدانشی اور کج گرائی سے اپنے فائدے زیان کاری میں سوچکر روپیہ جمع کرتے اور سپاہ پر نگاہ کمتر رکھتے اور شورش کے دانوں گھات میں لگے رہتے۔ ان دنوں میں منظفر خاں یہاں آیا۔ اس نے اپنے بزرگ عہدہ کی قدر نہ کی اور ملک و لشکر کے انتظام میں کوشش نہ کی حساب دانی کو جو اسکے اعتبار کا سرمایہ تھا چھوڑ دیا اور ہمیشہ اس سے چیں بہ جبیں رہنے لگا اور زبان کو شکایت اور آزردگی سے آلودہ کرنے لگا ہم نے لکھا ہے جس وقت وہ ریاست بنگالہ پر مقرر ہوا ہے تو اسکی امداد کے لیے دیوان اور بخشی اور امین بھی مقرر ہوئے تھے۔ کوتاہ بینی سے اس نے انکو اپنا حریف جانا اور ان سے آزردہ ہوا اور کام سے ہاتھ اُٹھالیا اور شکوہ فروش ہوگیا اور اس گروہ کو مہمات سپرد کرکے خود رعیت اور سپاہ کی تیمارداری کو چھوڑ بیٹھا۔ یہ نہ سمجھا کہ ملک داروگیر میں جتنے یار و یاور زیادہ ہوتے ہیں اُتنا ہی انجام کار شائستگی کے ساتھ ہوتا ہے مان لیا جائے کہ اس سودے میں اس کو زیان ہوا۔ پایۂ جاہ اسکا پستی کی طرف مائل ہوا۔ مگر ان کو ایسے فتنہ زار میں اس طرح جینا کیونکر سزاوار ہو سکتا تھا۔ اور تعلق کی

حالت میں مدارانہ رکھنے سے کیسے منزل مقصود پر پہنچ سکتا تھا۔
دیار بنگالہ ایسی سرزمین ہے کہ اُس کی آب و ہوا کا اثر سفلہ پروری ہے جس سے ہمیشہ فتنے برپا ہوتے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ دولتیں زوال پاتی ہیں۔ اس واسطے پہلے زمانہ کی کتابوں میں اس ملک کا نام ملناک خانہ لیا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ نے اس کو لکھا ہے کہ وہ ایک جہنم ہے جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ یا یوں کہو کہ ایک آتشناک جنت ہے یہ آرا اپنے جامے کے پندار میں ایسا آیا کہ آشنا و بیگانے کو دلاسا نہ دیتا۔ اور اس کے کار پرداز رشوت ستانی پر پل پڑے۔ زور سے زر کو لیکر اپنے لیے جمع کرنے لگے۔ کاش یہ آزمندی ترقی ہوتی اور راہ آزرم سے بیراہی نہ ہوتی اور سررشتہ معاملہ دانی کو ناہنجاری سے نہ توڑتے جو کوئی زیر دستوں کا خانہ خراب کر کے اپنے مکان کو نگارین بناتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں اپنی آبرو کھوتا ہے اور اپنی زندگی کی بنیاد اکھیڑتا ہے۔ اول یہ ہوا کہ خانجہاں کے اندوختوں کے وہ دبیے ہوئے۔ اسمعیل قلیخان اور تمام ترکمانوں سے پرخاش شروع کی ترکمانوں نے انکے معدۂ حرص کو ناشتا دیکر گرگ آشتی کی اور بادشاہ پاس چلے گئے۔
پھر علی العموم اس ناحیہ کے ترکمانوں کے زرطلبی و سخت گیری اس طرح کرنی شروع کی جیسے کہ صوبہ بہار میں کارگزار کر رہے تھے۔ بابا خاں اپنا یہ دکھڑا زہ یا کرتا تھا کہ ستر ہزار روپیہ خرچ کر چکا ہوں مگر ابھی سو سوار داغ نہیں ہوئے ہیں اور بتیول دار و بی کا حال اس سے بھی زیادہ بدتر تھا۔ غرض ناظم اپنی آبادی کے لیے اوروں کی خرابی کے درپے ہوے۔
زبر دست شوریدہ مغزوں نے آزار پاکے فرمان پذیری سے گردن کال لی اور گنگا پار جاکر دارالملک ٹانڈہ کے گرد چلے گئے۔ اور یکم ذالحجہ ۹۸۸ھ میں فتنہ برپا کیا۔ اُنھوں نے مودت حقوق نعمت رسیدگی فراموش کیے۔ نمک شناسی کو نظر سے پنہاں کیا۔ بنگلہ میں بابا خاں جباری۔ وزیر جمیل سرغنہ فتنہ تھے اور باقی اور سعید توقبائی۔ و مرزا خاجی بیگ۔ و عرب بخشی وصالح و میرکی خان و مرتضی قلی ترکمان و فرخ بھی فساد کی ہیزم میں چنگاری ڈال کر دور کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور قیا خاں حاکم اڈیسہ و مراد خاں حاکم فتح آباد اور شاد تردی

حاکم سُنارگانوں کو نیکو خدمتی کی توفیق نہ ہوئی۔ یکجہتی کرکے اپنی قوت نہ دکھائی بے راہ جانے
کے اسباب بہت سے ہیں۔ اول عقل کی کجلرائی ہی کہ وہ سیدھی راہ سے باہر نکالتی ہی اور
سود کو زیان میں ابتلاتی ہی دوم بدذاتی ہی کہ دل کو سیاہ کرتی ہی اور چراغ احسان سے
روشنی نہیں لیتی سوم افزائش مال جو نیک سرشت خردمندوں کو گمراہ کرتا ہی بیخرد و بدنہادوں
کا ذکر تو کیا ہی چہارم حواشی جونپور میں معاملہ داغ میں رضوی خاں کی دغابازی ہی خطاب
بخشی گری کا اُس کے نام پر تھا۔ وہ طمع کرکے گداطبع بنا۔ پہلے داغوں کی تصحیح نہیں کی اور ازسرنو
کام شروع کیا جس سے زربندہ تنگ چشموں پر کار دشوار ہوا اور وہ اندیشہ تباہ سے
سراسیمہ ہوئے پنجم کوئی مرد خیرسگال ایسا نہ تھا کہ اپنی دانادلی و سیرچشمی و کاردانی و نیک اندیشی
سے اس ہنگامہ شورش کو فرو کرتا۔ زرپرست غافل نہ ایسے گرامی گوہر کی جستجو کرتے تھے۔
ششم خالدین خاں کی آبروریزی اسکی تیولداری سے جلبسر کو نکال کر میر جمیل الدین حسین
انجو کے حوالہ کیا اور چونکہ اُس نے روپیہ تحصیل کیا تھا۔ اسلیے مظفر خاں نے مدارا کو چھوڑ کر
شکنجہ میں ایک ہاتھ اسکا رکھکر لٹکایا۔ اس سے اور زردوستوں کو خوف پیدا ہوا جب
خانجہاں مرگیا تھا تو اسمٰعیل قلیخاں نے بعض آدمیوں کی جاگیریں بے حکم شاہی کے بڑھا دیں۔
پہلے مظفر خاں نے انکی بازخواست کو مصلحت وقت نہ دیکھا ہفتم روشن بیگ کو قتل کرنا۔ وہ
وہ پہلے خالصہ کا عمل گذار تھا۔ خیانت کے سبب سے کابل بھاگ گیا تھا۔ وہاں سے فتنہ اندیشوں
کے اشارہ سے بنگالہ میں آیا۔ شورش افزائی اور بدآموزی پر مستعد ہوا۔ بادشاہ نے یہ حال
سُنکر اسکی نسبت حکم فرمایا کہ وہ ٹھکانے لگایا جاوے۔ مظفر خاں نے زمانہ کو نہ دیکھا اُس کے
قتل کرنے سے یہ جانا تھا کہ اور سرکش اسکے نیازمند ہونگے۔ برخلاف اس کے وہ اور سرکش
ہوگئے۔ اور زردوستی اور خویشتن داری اور کین توزی پر آمادہ ہوئے ہشتم شاہ
منصور دیوان کی کفایت اندوزی جب بہار و بنگالہ فتح ہوئے تو بادشاہ نے اس سبب
سے کہ اس ولایت کی آب ہوا گھوڑوں کو ناسازہی اور آدمیوں کے لیے بھی بعض خال

جان گزا ہیں تو اُس نے بنگالہ میں سپاہ کا وظیفہ دس بیس اور بہار میں دس پندرہ روپیہ کو دیا تھا۔ خواجہ نے وقت کو نہ دیکھا۔ بنگالہ میں دس پندرہ اور بہار میں دس بارہ وظیفہ کا فرمان بھیجدیا۔ منظفر خاں حکم کا پابند ہوا۔ اور امارہ نویسی سر سال سے کی۔ اور بہت مال ان سے طلب کیا۔ فتنہ اندوز زر دوستوں کو بدکاری کے لیے یہ بہانہ ہاتھ آیا۔ اگر وہ انصاف کرتا۔ بادشاہ کے حکم پر عمل کرتا تو یہ ناسپاسی اور گردن تابی ظہور میں نہیں آتی۔ ہم بادشاہ کا مذہب صلح کل کا اختیار کرنا جس کا ذکر بادشاہ کے مذہب کی باب میں بیان کرینگے۔ لوگوں نے جانا کہ بادشاہ مذہب اسلام سے پھر گیا اسکو بھی انھوں نے اپنی آزمندی اور حرص کا بہانہ بنایا۔ منظفر خاں نے معہ اور بہت سے سرداروں کے گنگا کے کنارہ پر ان فتنہ اندوزوں سے معرکہ نبرد آراستہ کیا۔ نجات خاں آیا نہیں۔ وزیر جمیل آیا۔ مگر دودلی اختیار کی۔ اس سرکش گروہ نے اپنا نقصان دیکھکر مصالحت کے لیے سلسلہ جنبانی کی۔ اعیان دولت نے اُس سے بے اعتنائی کی۔ وہ اسکے منتظر تھے کہ کوئی بندہ خیر سگال ان تنگ گیریوں کو بادشاہ کو سُناکر فرمان عاطفت لے آئے۔ بادشاہ کا فرمان بھی منظفر خاں کی نکوہش میں آیا اور ان کو بخشش و بخشائش سے شاد کیا۔ لڑائی ہو رہی تھی کہ قاسم نوجہ گھوڑے کی ڈاک میں دلیا دولت پاس پہنچا تو اولیا دولت کی آنکھیں کھلیں۔ خوشامد و معذرت گذاری کرنے لگے۔ بادشاہ کے حکم سے خود سروں نے تازہ جان پائی اُنھوں نے جشن کیا اور یہ چاہا کہ بعض اعیان لشکر کے ذریعہ سے منظفر خاں پیمان نیک اندیشی استوار کرے تاکہ خوف ہمارا دور ہو اور ہم بندگی اختیار کریں۔ منظفر خاں نے اپنے امرا کو اُن پاس بھیجا۔ اور اس گروہ کے سرداروں نے خلوت کدہ میں اُن سے خاکساری کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی باتیں کیں۔ مگر یہ اتحاد خدا کو منظور نہ تھا اس لیے دوستی میں کدورت پیدا ہوئی اور گرد فتنہ اوٹھی۔ نرائن داس گھلوت اور راے پیتمبر داس کے بعض رجپوتوں کے دل میں آئی کہ ان تھوڑے ایک ناسپاسوں کے مار ڈالنے کا موقع اس سے زیادہ اچھا نہیں لگے گا۔ ان میں سے

ایک ہمنے رائے سے کان میں چپکے سے یہ کہدیا۔ اُس نے سادہ لوحی سے اور آدم شناسی سے
رضوی خاں سے گزارش کی اُس نے رمز و اشارے سے اس گروہ کے سرداروں کو مطلع
کیا ان میں سے ہر ایک بہانہ بنا کے مجلس اتحاد سے باہر آیا اور فتنہ و فساد برپا کیا۔ ابو اسحاق نے
رضوی خاں کو جس نے بیوقوفی سے پردہ دری کی دستگیر کیا۔ غرض ہر طرف سے ایک طوفان
فتنہ اُٹھا اور اس میں جوانمردوں نے میدان جنگ میں خواب واپسیں میں آرام کیا عقلمندوں
نے اس واقعہ سے جان لیا کہ پیمان توڑنا اور بیدلی کی راہ پر چلنا اور فرمان پذیری سے سر پھیرنا
اُور راز گوئی کی جگہ کو نہ پہچاننا۔ زبان و بلا کو سر پر بلانا ہے۔ جب بادشاہ کو ان حالات پر
اطلاع ہوئی تو وہ خود بنگالہ جاتا۔ مگر مرزا حکیم کا اندیشہ ہندوستان میں آنے کا لگا ہوا تھا
اسلیے اس نے مرکز سلطنت سے سرکنا مناسب نہ جانا۔ داد و دہش سے کام چلایا۔

بادشاہی لشکر و سرکشوں میں دریائے گنگ کے کنارہ پر تیر و تفنگ رواں رہتے
گو مخالفوں کا انبوہ زیادہ تھا۔ مگر وہ لشکر شاہی سے ہزیمت پاتا۔ اس سبب سے
بادشاہ کے کار پردازوں کو سخت گیری پر اور جرأت ہوئی۔ مرزا بیگ قاقشال لشکر کو
ساتھ لیکر گنگا پار گیا اور ٹانڈہ کی طرف چلا کہ بادشاہ کے لشکر کو دو دلہ کرے۔ منظفر خاں اور
خواجہ شمس الدین اور امرا نے اس سے لڑ کر شکست دی۔ گردن فرازوں نے پناہ
مانگی اس عذر پذیری کے زمانہ میں بزرگان دولت کا تکبر اور بڑھا اور لا پروائی اور
نیاز گزاری کام میں نہ آئی۔ اگرچہ بہار کی آشوب کی خبریں سنتے تھے مگر اسکی پرواہ
کچھ نہ کرتے تھے اور اس کا خیال بھی نہ کرتے۔ بہار و بنگالہ کے سرکش باہم مل جائیں گے۔
مستی غرور کے در پے خمار ناکامی حاضر رہتا ہے۔ بہار کے فتنہ انداز بنگالہ کے سرکشوں
سے یوں ملے کہ جب بہار کے سرکشوں نے سُنا کہ بادشاہ کی سپاہ آنیوالی ہے
تو وہ حیرت میں ہوئے کہ اب نہ رائے آویزش ہے نہ راہ گریز تو اس سراسیمگی
میں اُنھوں نے اپنے آدمیوں کو بھیجکر بنگالہ کے سرکشوں کے ساتھ یکجہتی کا پیمان

بہار و بنگالہ کے سرکشوں کا باہم مل جانا ۲۵ ۹۸۸

کرلیا۔ جب بہار کے سرکشوں کے آنے کی خبر آئی تو مظفر خاں نے قمر خاں و خواجہ شمس الدین کو بھیجا کہ وہ گڈھی کی جو بنگالہ کا دروازہ ہے پاسبانی کریں مگر ان کے پہنچنے سے ایک دن پہلے سرکشوں نے اس گڈھی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اگرچہ لڑائی ہوئی۔ مگر قمر خاں کے ہمراہیوں نے بیدلی کی اور خواجہ شمس الدین زخمی ہوا۔ دونوں اسلیے چلے آئے۔ اس زمانہ میں بابا جان قاقشال بہت سے آدمیوں کو ساتھ لیکر آگ محل میں دریا گنگ سے پار جاکر بہار کے سرکشوں کے ساتھ ملگیا۔ مظفر خاں حسین بیگ نعمۃ علی (عنبر علی) کو سپاہ کے ساتھ بھیجا کہ کھاری گنگ (گڈھی گنگ) پر مخالفوں کو روکے۔ مگر دشمن دریا پار چلے آئے مظفر خاں کے پاس اور آدمی بھاگ کر ان سے جاملے۔ ہر روز بادشاہی لشکر سے لڑائی ہوئی۔ ناموس کی پاسبانی میں جانیں جاتیں۔ تیر خدنگ کے مرغ ہوا میں اُڑکر خون پینے کے لیے چونچ کھولتے۔ جام کی طرح ہاتھ میں شمشیر خون سے بھری ہوئی رہتی اور اپنے جُرعہ سے خاک کو مست کرتی۔ سرداروں کے سر پاؤں میں روندے جاتے۔ خواجہ شمس الدین نے فتح پائی۔ مگر حسین بیگ کی جان گئی۔ دس روز تک لڑائی رہی سرکشوں کو ایسی شکستیں پے درپے ہوئیں کہ ان کے دانت کھٹے ہوگئے تو اُنھوں نے اس میں ایک مجلس راز جمع کی اور یہ کہا کہ ابھی یہ حال ہے جب لشکر شاہی آجائیگا۔ تو معلوم نہیں کیا حال ہوگا اسلیے بہتر ہوگا کہ ندی کی راہ سے گنگا میں جائیں اور وہاں سے اڈیسہ میں پناہ لیں اور اگر کہیں قابو پائیں تو پادشاہی مورچل پر دست جرأت درازکریں غرض اُنھوں سنے ندی میں کشتی کا لنگر اُٹھایا اور قاقشال اور بہت سے اور فتنہ اندوز گنگا میں آپس میں مل گئے۔ راہ میں بادشاہی مورچل پر توپ چلائی جس سے سپاہیوں کے پاؤں اُکھڑے اور بے لڑے بھاگے اور زلف علی بدخشی اور کوچک قندوزی کہ اس گروہ میں عمدہ تھے بہت سے آدمیوں کو ہمراہ لیکر مخالف سے جاملے مظفر خاں کو جب اطلاع ہوئی تو وہ سست پڑگیا۔ بدگمانی اور بیدلی سے دیوانہ ہوگیا نہ عقل چارہ گر اُس کی رہ نما تھی نہ کسی فریاد رس کی بات سُننے کی طاقت تھی ہر چند کارشناس خیر سگالوں نے

گذارش کی کہ اس گروہ کے ویرانی سے کیا بگڑا ہے۔ لشکر کو شائستہ آئین کے ساتھ بھیجنا چاہیے مگر یہ پند سودمند نہ ہوئی۔ اُس کا حال روز بروز زیادہ آشفتہ ہوتا گیا۔ اختلاف رائے۔ تذبذب عقل و توہم بیجا و دشمن نشناسی اور دوست داری جان سے انتظام اس کے ہاتھ سے گیا۔ نہ خود افواج شاہی کو لڑنے کے لیے بھیجتا نہ اور امرا کو جو ہر جگہ پر اُس کے حکم کے انتظار میں بیٹھے تھے لڑنے کی اجازت دیتا۔ بہت سی گفتگو کے بعد خواجہ شمس الدین کو کچھ لشکر کے ساتھ بھیجا کہ وہاں جاکر قابو کی تلاش میں بیٹھے اور حقیقت حال سے اطلاع دی ایک جماعت اپنے عیال کے اندیشہ سے اسکے ساتھ نہ گئی۔ ایک جماعت کو شکستہ دلی سے ہمراہی کی توفیق نہیں ہوئی۔ جب کارفرما کا دل برقرار نہ ہو تو فرمان پذیر کی گرفت کیا ہو سکتی ہے ع چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی +

خواجہ شمس الدین نے گزارش کیا کہ میں نے کچھ راہ ملے کی تھی کہ کیا دیکھتا ہوں گروہ کے گروہ آدمی غنیم پاس چلے آتے ہیں۔ اور اُس کے ہمراہی اُس سے روز بروز جدا ہوتے جاتے ہیں تھوڑے دنوں میں کوئی اُس پاس سوائے مطلب مصاحب کے پاس نہ رہا۔ ناچار وہ میدان کارزار میں آیا اور زخم کھاکر زندگانی کو نیک نامی کی عوض میں بیچا۔ اس اثنا میں محمد علی ارلات آیا جس کو اس نے جانا کہ ایک دوست آیا مگر اس نے ایک نیزہ اسکے مارا جس سے وہ گر پڑا۔ مرنے کے قریب ہوا کہ ناگاہ مرزا محمد کہ جس سے کچھ امید امداد نہ تھی آیا۔ مہربانی کرکے معصوم خاں پاس اس کو لے گیا۔ اس نے دلدہی کرکے قاضی زادہ کو حوالہ کیا۔ ہاتھی پر سوار ہو کر جاتا تھا زمانہ کی نیرنگی سے نصیحت کا سبق پڑھتا تھا۔ اگرچہ لڑائی نہ تھی اور سرکشوں کا گروہ بڑھتا جاتا تھا مگر ان کو عجب طرح کا خوف و خطر تھا۔ ناگاہ ایک بڑا لشکر نظر آیا جو معلوم ہوتا تھا کہ سرکشوں کے گروہ کو پراگندہ کریگا۔ مگر اس کا سردار وزیر جمیل دشمنوں سے دوستی کے قصد سے آیا تھا لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بادشاہی حقوق کو فراموش کرکے جمیل سے جاملا

مظفر خاں کا مارا جانا ۹۸۸ھ

مگر پھر بھی دشمنوں کو خوف تھا کہ مظفر خاں سے لڑائی میں معلوم نہیں کہ کیا حال ہوگا۔ اسی اثنا میں ان پاس خبر آئی کہ مظفر خاں قلعہ نشین ہوگیا ہے جس سے وہ دلیر ہوئے اور جلد اسکو جا گھیرا۔ مظفر خاں کے پاس سوائے میر جمال الدین آنجو و حکیم ابو الفتح و جعفر بیگ باقر انصاری و تردی بیگ یکہ او یزد عیسی ترکمان اور چند اور ملازموں و خیلا تلاشوں کے کوئی پاس نہیں رہا تھا ناچار وہ شہر بند ٹانڈہ میں بیٹھ رہا تھا۔ اور اندوختہ کو پراگندہ کر رہا تھا۔ مگر بے ہنگام خوش خوئی و گرم خوئی سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور بے وقت زر فشانی اور کالا دہی سے کیا ہنگامہ کو رونق ہوسکتی ہے۔ جو دانشمند فرزانہ ہوتے ہیں وہ بیکاری کے زمانہ میں تیر مردوں پر بخشش و عاطفت کرتے ہیں اور ناکامی کی جانگزائی سے پہلے واقف ہوکر اسکی چارہ گری کرتے ہیں۔ سرکشوں نے مظفر خاں سے کہا کہ اگر وہ ہمارا طریقہ اختیار کرے تو ہم اُس کو سب سے زیادہ پایۂ والا اختصاص دینگے اور اگر اس کو یہ منظور نہ ہوگا تو ہم اس کو حجاز جانے کی اجازت دیں گے۔ مظفر خاں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ناسپاہی و بیراہہ روی تو توہین و دنیا کی زیان افزائی ہے۔ پاسبانی ناموس کے ساتھ مجھے دریا کی راہ سے بادشاہ پاس جانے کی اجازت دیجائے سرکشوں نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا اور اقرار کیا کہ اس کا اپنا تمامی مال لیجانے دینگے۔ مگر اس گروہ کی باتوں پر اس کو اعتبار نہ تھا اس لیے اس شب نے معصوم خاں پاس بیس ہزار اشرفیاں بھیجیں اور پرانی دوستی یاد دلائی کہ اس کے ناموس کی پاسبانی کرے۔ معصوم خاں نے بھی اسکو جواب لدہی کے ساتھ دیا۔ مرزا اشرف الدین حسینی خاں قلعہ سے بھاگ کر معصوم خاں پاس آیا۔ یہ شرف الدین حسین خاں وہی ہے جو واجب القتل تھا۔ مگر بادشاہ نے اس کو چند روز قید کر کے بنگالہ ۹۸۷ھ میں بھیجدیا تھا کہ اگر اُس کے اطوار درست ہوں تو اس ملک میں جاگیر دیدی جائے۔ اور نہیں حجاز بھیجدیا جائے۔ اس خواجہ زادہ میں کوئی ندامت کا اثر نہ تھا۔ مظفر خاں نے فرمان پذیری اور خیر اندیشی سے قلعہ ٹانڈہ میں زندانی اس کو بنایا اور موسم کشتی کا منتظر تھا کہ یہ

طوفان آشوب اٹھا۔ اس نے قلعہ کے نگہبانوں کے ساتھ سازش کرکے باہر جانے کی تدبیر
کی وہ قلعہ سے نیچے اترتا تھا کہ ایک جماعت کو اس سے اطلاع ہوئی تیر اس پر چلائے مگر وہ
زخمی ہوکر مخالفوں سے جا کر ملگیا۔ اور مخالفوں کو اس نے یہ بتلاکر کہ اہل قلعہ بڑے خوف زدہ
ہو رہے ہیں ان کو اور دلیر کیا۔ دوسرے دن سحر کو سرکشوں نے اپنے پیمان استوار کو توڑ کر
شورش برپا کی۔ قاقشالوں نے تاراج کرنے میں پیش دستی کی۔ ہر جانب سے ایک
گروہ قلعہ پر چڑھ آیا اور اس مصر معمور کو لوٹ لیا معصوم خاں نے اپنے قرار کے موافق بنگاہ
مظفر خاں پر آرام کیا تاکہ اسکے ناموس میں سرکش خلل انداز نہ ہوں اور بہت سامال خود
اس کے ہاتھ آئے۔ مظفر خاں اپنے چند غلاموں کے ساتھ ہتیار لگا کر حیران تھا کہ کیا کرے
نہ رلت پیکار نہ روے گریز۔ معصوم خاں ایک دو آدمیوں کے ساتھ آیا۔ اور منافقوں کی
طرح باتیں کہنے لگا کہ مظفر خاں سے حرم سرا میں غوغا ہوا معصوم خاں وہاں بھاگا گیا
اور قلعہ سے باہر جان سلامت لے گیا۔ سب سرکشوں کو بہت دولت ہاتھ آئی۔ خاصکر
مرزا شرف الدین حسین کو بہت روپیہ اس طرح ملا کہ اس برہم زدگی میں مظفر خاں نے آٹھ لاکھ
روپیہ صندوقوں میں بھر کر ایک کولاب میں ڈالدیا تھا کہ عافیت کے زمانہ میں کام آئے مگر
مرزا کو اس سے اطلاع ہوئی اس نے اس روپیہ کو صندوقوں سے نکال لیا اس میں پتھر
بھر دئے اس روپیہ کے ذریعہ سے مدتوں تک وہ شورش برپا کرتا رہا۔ سرکشوں نے
بعض امرا کو قید کیا۔ بہت سے امرا سے مل گئے۔ حکیم ابوالفتح اور رائے پتر داس ل
کرکے تدبیر سے بھاگ کر بادشاہ پاس چلے گئے۔ خواجہ شمس الدین کو سعید بیگ نے
آشنائی کا پاس کرکے اپنی پناہ میں رکھا۔ اس طرح جان کاہی کے آسیب سے
رستگاری ہوئی۔ مگر زرطلبی کے شکنجہ میں گرفتار رہا۔ جعفر بیگ نے بذلہ گوئی
و نکتہ سرائی سے اس باز خواست سے رہائی پائی۔ مظفر خاں کو سرکشوں نے مارڈالا
اور منصبوں کے مقرر کرنے کے لیے اور ولایت کی تقسیم کے واسطے اور مرزا حکیم کے نام کا

خطبہ پڑھنے کے لیے اُنھوں نے انجمنیں منعقد کیں۔ خانجہاں کی بارگاہ کو لگایا اور آراستہ کیا اور اس میں سب اکھٹے ہوئے۔ خان جہاں خان وکیل بنا۔ خاندوران خان کا خطاب ملا۔ بابا قاقشال خان خانان بنا۔ اور ریاست بنگالہ سپرد ہوئی۔ جباری خانجہاں خان ہوا اور دس ہزار سپاہ کا سردار ہوا۔ وزیر جمیل خاں زمان ہوا۔ اور توزک بیگی کا منصب ملا۔ خالدین خاں نے اعظم خانی کا اور خان محمد بہسود نے خان عالمی کا اور عبدالباقی نے خداوند خانی کا اور مرزا بیگ نے بہادر خانی کا خطاب پایا۔ خواجہ شمس الدین کو لشکر خانی کا اور جعفر بیگ کو آصف خانی کا خطاب ملا تھا۔ مگر اُنھوں کی تدبیر سے اسکے قبول کرنے کو اور وقت پر ٹالا۔ عرب یہاں موجود نہ تھا مگر اس کو شجاعت خانی کا خطاب ملا۔ اسی طرح اور امرا کو مناصب اور خطاب عنایت ہوئے۔ جب مناصب اور اقطاع کا فیصلہ ہوا تو یہ قصد ہوا کہ مرزا حکیم کے نام کا خطبہ پڑھا جاوے۔ مگر مینھ کا وہ طوفان آیا کہ بارگاہ کے ٹکڑے ہوگئے اور تمام خیمے اور شامیانے کیچڑ سے پُر ہوگئے اور ہر ایک میر افتان وخیزان اپنے گھر چلا گیا کہ اس اثنا میں بادشاہ کی سپاہ کی آمد کا آوازہ ہوا۔ جس سے وہ منبر پر خطبہ پڑھوانے کو بھول گئے اور کچھ اور ہی فکر میں ہوئے۔ زبردستی کو چھوڑ کر میدان جنگ میں آنا پڑا۔ اب ہم یہ لکھتے ہیں کہ اس عرصہ میں بہار کے سرکشوں کا حال کیا ہوا۔

بہار کے سرکشوں کا حال ۹۸۸ھ

اُس زمانہ میں کہ بہار کی سرزمین میں سرکشوں نے سر اُٹھایا بہادر پسر سعید بدخشی ترہت میں عمل گزار تھا اس نے شورش وفساد برپا کیا اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر وہ سرکشوں کے ساتھ مل گیا اور مال خالصہ کو سپاہیوں میں تقسیم کرکے خود بڑا سردار بن گیا۔ معصوم خاں نے سعید بدخشی کو بھیجا کہ پدرانہ نصیحت کرکے اپنے بیٹے کو اس حرکت سے روکے مگر بیٹے نے باپ کی نصیحت کو کچھ نہ سُنا اور اپنے خدائے مجازی کو قید کیا۔ اسی کشاکش میں بادشاہ کا لشکر آگیا۔ معصوم خاں بہت سے سرکشوں کو ساتھ لیکر بنگالہ چلا گیا۔ اور پٹنہ میں عرب کو مقرر کیا۔ شاہم خاں نے سرکشوں سے اپنا پیمان توڑا اور حاجی پور میں چلا گیا۔

اور علم دولتخواہی بلند کیا اور اولیا، دولت کو اپنی نیت دکھانے کے لیے اُس نے ایک لشکر بہادر سے لڑنے کے لیے بھیجا مگر وہ شکست کھا کر اُلٹا چلا آیا جس سے سرکشوں کی اور نخوت بڑھی تو پھر خود لشکر کشی کر کے اُس نے فتح پائی اور سعید کو مار ڈالا محب علیخاں دوبارہ عرب سے پٹنہ میں لڑا اور اس کو شکست دیکر شہر میں بھگایا یہاں سعادت علیخاں کہ اُسکی نگاہ کا نگہبان تھا اس سے پھر گیا۔ عرب اس سے لڑا زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ شہر پٹنہ پر محب علیخاں کا قبضہ ہو گیا بادشاہ کی سپاہ اپنا سامان درست کر کے جونپور میں آئی اور اس حدود پر ترسون خاں۔ صادق خاں غازی خاں۔ والغ خاں اور بہت سے اور امرا لشکر شاہی اُس سے آنکر ملے۔ غازی پور سے دو کوس پر معصوم خاں فرنخودی بھی لشکر شاہی سے ملا۔ مگر اسکی ہرزہ درائی کو سب جانتے تھے اس لیے اس کو حکم ہوا کہ وہ ہراول بنکر آگے جائے کہ بالفعل اس کی گزند سے کچھ خوف نہ رہے۔ گنگا کے کنارہ پر جا کر مظفر خاں کی سرگذشت لشکر کو معلوم ہوئی محب علیخاں و شاہم خاں وسمانجی خاں و باقی کو لابی بھی لشکر شاہی سے آن ملے۔ پٹنہ کے حوالی میں ایک عمدہ مجلس جمع ہوئی اور بزرگان دولت نے یکجہتی و یکتا دلی کا عہد و پیمان کیا اور سپاہ اسطرح مرتب ہوئی کہ قول میں ترسون خاں راجہ توڈرمل رائے سرجن راجہ اسکرن جھتر خاں اور برانغار میں محب علیخاں۔ شاہم خاں۔ میر ابوالمظفر اور جرانغار میں صادق خاں الغ خاں نقیب خاں قمر خاں اور ہراول میں معصوم خاں فرنخودی۔ شیخ فرید بخاری۔ سید ابوالقاسم۔ سید ابوالمعالی۔ سید عبدالواحد۔ سید عبدالہادی مقرر ہوئے اس منزل سے سپاہ سلاح بند ہو کر اس سبب سے چلی کہ بعض بزرگان لشکر کا دل دگرگون تھا اور سرکشوں کا طائفہ قزاقی کر رہا تھا۔ عرب جیب اور بعض اور سرغنہ تنگناؤں میں جا چھپے۔ لشکر شاہی پر دشمن کوئی وار نہ کر سکے۔ جب لشکر منزل منگیر میں آیا تو معصوم فرنخودی نے یہ ارادہ کیا کہ راجہ توڈرمل کو مار ڈالے جسکی تدبیر و شجاعت و اخلاص سے لشکر کا انتظام تھا اس نے چند آدمیوں کا لشکر آراستہ کر کے راجہ سے درخواست کی کہ آپ اس کو ملاحظہ فرمایئے۔

راجہ نے عذر کیا۔ اس طرح معصوم کا پردہ ڈھکا رہا۔

اس زمانہ میں بنگالہ کے سرکش گڈھی سے گزر کر بادشاہی لشکر کے قراولوں سے کچھ لڑے، راجہ ٹوڈرمل نے اپنے لشکر کے عاقلوں کو انجمن مشورہ میں جمع کیا۔ بعض بہادروں نے اُن میں سے کہا کہ ایزدی تائید پر بھروسہ کر کے لڑائی شروع کرنی چاہیے۔ بعض ژرف نگاہ ہشیار خرام نے گذارش کی کہ آج شورش کی تند باد کا طوفان اُٹھ رہا ہے۔ اور نیک اندیش نیک سگال کی تمیز دور دیئے تباہ پیچ سے نہیں ہوتی۔ معصوم خاں فرنخودی جسپر بادشاہ کے بہت احسان ہیں وہ تذبذب کی حالت میں ہو رہا ہے۔ دوربینی کا اقتضا یہ ہے کہ حصاری ہوکر بیٹھو ہے اس عرصہ میں یہ حال معلوم ہو جائیگا کہ سرکشوں کے لشکروں میں سے کون آنکر ہم سے ملتا ہے اور ہم میں سے کون ان سے جا کر ملتا ہے۔ آخر یہی رائے پسند ہوئی۔ قلعہ منگیر میں بادشاہی لشکر کی گنجائش نہ تھی۔ اس لیے ایک دو سرزمین میں شائستہ حصار بنایا گیا۔ امرا ر خدمت گذار نے مورچل بنائے۔ اور خندق اور دیوار بنانے میں کوشش کی۔ تھوڑے دنوں میں بلند چار دیواری چوڑی تیار ہوگئی اور حصار شہر ایک قلعہ بن گیا۔ سرکشوں نے اسکے حوالی میں شورش برپا کی اور توپ تفنگ طرفین سے چلنی شروع ہوئیں۔ اس زد و گیر میں بادشاہ کے لشکر میں سے بہت سے آدمی دشمنوں سے جا ملے۔ انکے سرگروہ ہمرجاں و ہمایوں قلی شاہ تھے۔ اُس طرف سے بھی گروہا گروہ آدمی ادھر آنکر ملے۔ قلعہ گزینی کی سرگزشت ہمراہیوں کی بدگوہری۔ مخالفوں کا ہجوم اور تازہ کمک کے لیے گزارش عرائض میں لکھکر اُمرا لشکر نے بادشاہ پاس بھیجیں۔ بادشاہ نے مرزا کوکہ کو پنجہزاری منصب و اعظم خانی کا خطاب دیکر روانہ کیا اسکی اطاعت کے لیے لشکر کے نام فرمان جاری کیا۔ انہیں دنوں بنگالہ سے حکیم ابوالفتح بادشاہ پاس آگیا تھا۔ اس نے بادشاہ کے روبرو بنگالہ کی بےہمزدگی اور سپاہ کی ناسپاسی کا بیان شیوا زبانی سے ادا کیا اور اپنا حال بھی قلعہ پر سے کودنے کا اور پیدل چلنے سے پاؤں میں چھالے پڑنے کا ذکر کیا۔ عرض کیا کہ میر معز الملک اگرچہ اول سرکشوں

سکے ساتھ گیا تھا۔ لیکن دور اندیشی کر کے ان سے جدا ہو گیا۔ اس زمانہ میں کہ سرکشوں کا ہنگامہ شکست ہو رہا ہے۔ تعجب ہے کہ اس نے آدمیوں کو جمع کر کے جونپور میں فساد مچا رکھا ہے۔ اور مولانا محمد تبریزی فتنہ اندوزی میں اسکے ساتھ کندھا ملا کے چلتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسد خاں ترکمان مانک پور سے اس حدود میں جاکر ان زیادہ سروں کو بادشاہ پاس حاضر کرے۔ وہ بادشاہ کے فرمان کا کاربند ہوا اور سرکشوں کو پکڑ کر بادشاہ پاس لے چلا۔ راہ میں اٹاوہ کے قریب کشتی ڈوب گئی جس میں یہ سرکش تھے۔ خان اعظم کے نام خرم اندوزی کے سبب بادشاہ نے حکم دیا کہ معز الملک کے چھوٹے بھائی علی اکبر کو مسلسل کر کے زمانیہ سے ہمارے پاس بھیجدے اگرچہ وہ سرکشوں میں شریک نہ ہوتا تھا۔ مگر آتش فساد میں پھونکیں مارتا تھا۔ بادشاہ پاس وہ آیا اور زندان میں بھیجا گیا۔

قلعہ نشین لشکر شاہی پاس آذوق بحر و بر سے آتا تھا۔ مرزا شرف الدین حسین اور معصوم خاں نے پٹنہ کی راہ سے خشکی کی گذرگاہ کو بند کیا اور ایک نوارہ دریائی بنا کر دوسری راہ روکنے کا ارادہ کیا۔ جب لشکر شاہی کو اطلاع ہوئی کہ کشتیاں دشمنوں کی نو کوس کے فاصلہ پر آگئی ہیں۔ تو صادق خاں۔ الغ خاں۔ نصیب خاں۔ و باقر سفرچی خشکی کی راہ سے دوڑے۔ رائے پتر داس دریا کی راہ روانہ ہوا۔ مہتر خاں دریا سے پار گیا۔ غرض اس خوبی سے یہ تیز دست بہادر چلے کہ دشمن کی تین سو کشتیاں کو کہ ساز پیکار سے پر تھیں تصرف میں لائے جس سے لشکر کو بڑی تقویت ہوئی۔ ہم نے پہلے لکھا ہے کہ جب مظفر خاں جان سے گیا تو معصوم خاں نے خواجہ شمس الدین کو مالدار سمجھکر اپنی حمایت میں لے لیا تھا۔ مگر جب روپیہ خوشخوئی سے نہ وصول ہوا تو خیرہ روئی شروع ہوئی۔ قریب تھا کہ اس شکنجہ فرسائی میں قالب تہی ہو کہ عرب بہادر نے اس کی دوستی سابق کا بدلہ کرنا چاہا اور اس خیال سے کہ اس کے اندوختہ کو نصیحت کر کے لے لے اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے پاؤں کو زنجیروں سے نکالا اور اسکی لابہ گری شروع کی۔ خواجہ نے فرصت پا کر ان

شکست کھانا عرب بہادر اور معصوم خاں کا سنہ ۹۸۸

سپہ تیرہ کاروں کی انجمن سے کنارہ کیا اور قصبہ کھرک پور میں راجہ سنگرام سے ملگیا۔ راہ کے بند ہونے سے لشکر سے تو نہ مل سکا لیکن دشمن کی سراسیمگی کا سبب اس طرح ہوا کہ لشکر مخالف میں جو سوداگروں کا کارواں جاتا تھا اس کو لوٹ لیتا اور جو اس گروہ کے مویشی چرنے آتے انکو دستبرد کرتا۔ تھوڑے دنوں میں حسن علی عرب آفاق دیوانہ و مرزا حسین نیشاپوری و علی قلی و عزیز اور بہت سے آدمی جو بیچارگی کے سبب سے غنیم سے ملے تھے اس سے آن ملے اور بارہ سو آدمیوں کے قریب اس پاس جمع ہوگئے جس سے بدکاروں کے کاموں کے رونق کم ہوگئی۔

یہ شاہ منصور دیوان آوارہ نویسی اور کفایت اندوزی سے سپاہ کی داد و ستد میں باریک بینیاں کرتا۔ اور وزارت کے کام کو چھوڑ دیا۔ آئین استیفا کو اختیار کیا۔ وزیر اُسے کہتے ہیں کہ دیدہ وری اور راستی سے مال کی پاسبانی کرے۔ بندگان پادشاہی کی نگاہداشت میں ہمت لگائے۔ داد و دہش نرمی و درشتی میں میانہ روی کرے۔ دوست و دشمن کے ساتھ یکساں رہنے کو راست میزانی جانے۔ بائست وقت و ہنگام اور حال کو ہاتھ سے نہ دے زر اندوزی کو سب سے بہتر کام نہ جانے۔ کشادہ پیشانی و شیریں زبانی اور دل توانگر و خاطر مہربانی اور انصاف ہمیشہ کرے۔ ناتوان بینی مشکل پسندی و سخت گیری نہ کرے فراخ حوصلگی کرے۔ اور خلقت کی خدمت کو نرخ گراں سے خریدے۔ تاکہ گروہا گروہ سوداگریاں عمکے بازار سے نکلکر عقیدتمند ہو جائیں خواجہ نے اپنی حد سے پیرے پاؤں نکالے۔ کفایت اندوزی شروع کی۔ اور نہ زمانہ کی شورش کا خیال کیا نہ دستبرد روزگار کو منظور رکھا۔ بقایا کی بازخواست کی۔ راجہ ٹوڈرمل نے پادشاہ پاس عرضداشت بھیجی کہ اولیاء دولت ہنگامہ نبرد گرم رکھتے ہیں۔ اور سربازی کا بازار تیز ہے۔ کارپردازان سلطنت بے تاملی اور وقت ناشناسی سے ایسے معرکۂ زد و گیر میں آویزش جانفشانی و دل شکری کے درمیان داد و دہش کے کیسے کا منہ بند کرکے مال برگزفتہ کو طلب کرتے ہیں۔ اس بازیافت کا نام کیا رکھنا چاہیے اور طلبگار بے ہنگام کو کس گروہ میں سے شمار کرنا چاہیے۔ شہریار نے شاہ منصور کو

شاہ منصور دیوان کا معزول ہونا ۲۵ سنہ ۹۸۸

موقوف کرکے اس کا کام شاہ قلی محرم کو سپرد کیا اور وزارت کا منصب الاوزیر خاں کے حوالہ کیا۔ اس سے شرقی دیار کی سپاہ نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ اور لڑنے پر کمر ہمت چست کی اور بہت سے سرکشوں نے اطاعت کی۔

ترسون خاں و راجہ توڈرمل و محب علیخاں و معصوم خاں فرنخودی سرداری کا پاس کرکے حصار سے باہر آنکر نہ لڑتے۔ مگر صادق خاں و شیخ فرید والغ خاں جانوں کی داد و ستد کا ہنگامہ گرم رکھتے۔ اس دو مہینے کے عرصہ میں کہ سرکشوں سے جنگ ہی بادشاہ خزانے اور لشکر سے برابر مدد کرتا رہا بیشرو خاں و صالح و زین الدین و تاراچند کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اگرچہ خان اعظم اور شہباز خاں اور اور امراء بادشاہی لشکر سے ہنوز آنکر نہیں ملے ان کے آنیکی شہرت نے سرکشوں کے لشکر میں ہلچل ڈالدی اور وہ بھاگ کر چلے گئے۔ بادشاہی لشکر نے یہ سمجھکر کہ اس بھاگنے میں انکی کوئی تزویر ہو۔ حصار سے باہر آنکر انکے پیچھے پڑے مگر بعض عاقلوں نے ہمت کی اور محب علیخاں و مہر علیخاں کو ہراول بنا کے بھیجا مگر وہ احتیاط اور ناشناسائی کے سبب سے دو دلی کے ساتھ قدم اٹھاتے تھے۔ کہ خواجہ شمس الدین بارہ سو سواروں کو لیکر اُن سے آن ملا۔ اور اُس نے دشمن کی برہمزدگی اور تباہ حالی کو عام لشکر پر روشن کیا۔ اور ارزانی بدسگالی اور کمی خیراندیشی اور گرم بازاری دو روئی کو دور کیا۔

اب بنگالہ میں اڈیسہ میں قیا خاں اور فتح آباد میں مراد خاں اور ستگاؤں مرزا انجات زبان سے باتیں تو نیک خدمتی کی بناتے مگر گفتار سے کردار میں آ دھا قدم بھی نہیں اُٹھاتے۔ مراد خاں تو عمر طبعی پر پہنچ کر مر گیا۔ اور اس ناحیہ کے زمیندار مکند نے اسکے بیٹوں کو بھی مہمان بلا کر طعمہ اجل چکھایا۔ قیا خاں کی بھی حیات ختم ہوئی۔ اس نواح کے بومیوں (ڈیسیوں) نے چیرہ دستی کی۔ مرزا انجات پر قتلو چڑھکر گیا۔ حدود سلیم پور میں مرزا بُری طرح لڑ کر بھاگ گیا۔ اور پرتاب بار فرنگی کی پناہ میں گیا۔ باباقاقشال سخت بیمار رہوا۔ مگر اس جان کنی میں بھی ہمزبان کو مرزا انجات کے سر پر

سنہ ۹۸۷ھ

بنگالہ کا حال سنہ ۹۸۷ھ

بھیجا۔ اس نے راہ کے درمیان جب قتلو کی چیرہ دستی سُنی تو اُس سے بنگلوت میں لڑا اور
شکست پائی۔ تو بابا نے کین توزی کا ہنگامہ آراستہ کیا۔ قتلو نے آشتی کے لیئے افسانہ
سرائی کی۔ مرزا شرف الدین حسین وجباری بنگالہ کی طرف نگئے۔ معصوم خاں کابلی کیدھور
کے زمیندار کی رہنمونی سے بہار کی طرف گیا۔ عرب بہادر و کورم پسر ترخاں قزاقی کرنے
لگے۔ چودھری کشتہ پادشاہی لشکر کے لیے خزانہ لیئے جاتا تھا کہ عرب بہادر و کورم
نے اسکے لوٹنے کو قدم اُٹھائے۔ مگر وہ چالاکی کر کے خزانہ کو حصار پٹنہ میں لے گیا۔ اُنھوں نے
قلعہ کو گھیرا۔ بہادر خاں نے قلعہ کی حفاظت خوب کی۔ پادشاہی لشکر دشمن کے پیچھے
آہستہ آہستہ جاتا تھا۔ اُس نے معصوم خاں کابلی کی طرف جانے سے مُنہ موڑا۔ اور
پٹنہ کی طرف چلا۔ آئین یہ قرار پایا کہ افواج تو منزل بمنزل کوچ کرے اور بعض تیز دست
دلاوری کرکے آگے جائیں۔ معصوم خاں فرنخودی نے اس خدمت کی درخواست کی۔
راجہ تو ڈرمل اس سے عاجز آرہا تھا اس کو رخصت کیا اور اتفاقیا تھا اسکے پیچھے محب علیخاں
اور مہر علیخاں کو روانہ کیا۔ ان سب نے ملکر پٹنہ کے اہل قلعہ کو بچایا جن کو دشمن گھیر کر بیٹھا
تھا۔ دشمن کچھ لڑکر بھاگ گئے۔ قلعہ اور خزانہ انکے ہاتھ سے بچ گیا۔ اگرچہ معصوم خاں فرنخودی نے
شائستہ خدمت بجالایا۔ مگر بے صلاح و مشورہ پادشاہ کے لشکر سے جدا ہو کر جونپور
چلا گیا۔ اور راہ میں بہادر خاں کے گماشتوں سے حاجی پور چھین لیا۔ اور حوالی ترہت
سے نکلکر بہت سا ملک دبا بیٹھا اور سرکار حاجی پور کا مالک بن گیا۔

شورش عرب فرو ہوئی تھی اور لشکر شاہی سرائے رانی سے بہار کو جاتا تھا
کہ معصوم علیخاں کابلی کا کام تمام کرے۔ مگر بارش کی شدت کے سبب دریا رین پن
پر اس کو توقف کرنا پڑا۔ جب ہوا میں اعتدال ہوا تو لشکر چلا۔ معصوم خاں بہار سے
نکلکر کوہستان شمالی کے دامنہ میں آیا۔ لشکر شاہی قصبہ گیا میں پہنچا۔ غنیم شہر بہیرہ
میں آیا اور چار کوس چلکر اس نے حلقہ باندھا۔ پانی کی کثرت سے لشکر شاہی کا

معصوم خاں کابلی کا پیچھا بھگون مارنا ۹۸۸ھ

سلسلۂ انتظام ٹوٹ گیا۔ دو فرسنگ پر غنیم تھا۔ پادشاہی لشکر اپنی کثرت کی نخوت سے اور دشمنوں کی قلت کے سبب سے خواب غفلت میں ہوا۔ لیکن راجہ توڈرمل اور صادق خاں خوب ہوشیار تھے اور پیکار کے لیئے تیار تھے۔ رات کو خان بیگ۔ اور الغ بیگ حبشی کی قراولی تھی۔ سرگروہ خواب غفلت میں خود سوتے تھے۔ اور خواب آلودہ نوکر کا آگہی کے لیے بھیجے تھے۔ غنیم نے دن کو اپنے میں لڑائی کی توانائی نہیں دیکھی۔ رات کو اُلّو کی طرح دستبرد کا ارادہ کیا۔ ایک پہر گذری تھی کہ بہت سے سپاہیوں کو لیکر جنگ کا آہنگ کیا۔ اور غافلوں پر غالب ہوا۔ ماہ بیگ اور چند حبشیوں کو مارا اور لشکر شاہی صادق خاں کے لشکر پر گرا۔ وہ بہادری سے لڑا کہ کمال خاں فوجدار دوخیل بادرفتار لایا۔ جس سے لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ اور دشمنوں کے سواروں کو اُنہوں نے سونڈوں میں پکڑ پکڑ کر گرانا شروع کیا۔ ان ہاتھیوں پر جو تیر لگا انکو اور زیادہ تیز دست بنایا ایک ہاتھی کے بیاسی اور دوسرے کے پچپن تیر لگے پادشاہی سپاہ کے بہت آدمی زخمی ہوئے مگر کوئی مرا نہیں اس کو فتح حاصل ہوئی اور معصوم خاں بنگال کو بھاگا۔ اور گڈھی پر پادشاہی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔

خان اعظم کے لشکر پہنچنے سے پہلے بہت سی سرکشی فرو ہو گئی تھی۔ خان اعظم کے لشکر کے آنے میں دیر اس سبب سے لگی کہ جب لشکر گذرچوسا سے گذرا تو رجنبہ کے زمیندار دلپت نے سرکشی اور مردم آزاری کے لیے سر اُٹھایا۔ خان اعظم۔ اس سرکشی کے سزا کے درپے ہوا۔ شہباز خاں بھی آن پہنچا اُس نے دلپت کی بنگاہ جگھ دیس پور کو غارت کیا۔ درخت زاروں میں سرکش چلے گئے اور لڑائی ہوتی رہی۔ اس اثنا میں خان اعظم اور شہباز خاں میں رنجش ہو گئی۔ خان اعظم یہاں سے جا کر اس لشکر شاہی سے جا ملا جس پر ایک دن پہلے معصوم خاں کابلی نے شبخون مارا تھا۔ اس سے لشکر میں رونق ہی اور ہو گئی۔

عرب بہادر شکرے کر شہباز خاں سے لڑنے آیا۔ شاہی لشکر میں سے

سعادت علیخاں اُس سے لڑنے گیا اُس نے دشمنوں کو پراگندہ کر دیا۔ رہتاس کے متصل قلعہ گنگت میں سعادت علیخاں کو شہباز خاں نے مقرر کیا۔ دلپت اور عرب بہادر نے اُس پر حملہ کیا۔ اور قلعہ لے لیا اور سعادت علیخاں کو مار ڈالا۔

سعادت علیخاں کا مارا جانا ۹۸۸ھ

جب لشکر شاہی سے خان اعظم مل گیا تو سرکشوں نے بنگالہ کی طرف رُخ کیا۔ لشکر شاہی میں بعض ایسے بداندیش تھے کہ انھوں نے سرکشوں کا تعاقب کرکے ایک ہی دفعہ میں سارے سرکشی کو فرو نہ کیا۔ مگر ہاں ملک بہار کے انتظام میں خوب ہمت صرف کی۔ بھیرہ سے رہتاس تک کی ذیدہ بانی محب علی خاں کو سپرد ہوئی۔ یہ لشکر شاہی گیا میں آیا۔ راجگڈھ کے پاس دوست محمد بابا دو سو آدمیوں سے آن ملا۔ وہ باغی ہو گیا تھا۔ جب لشکر شاہی غیاث پور میں آیا تو معلوم ہوا کہ شہباز خاں سے عرب بہادر شکست پاکر سارنگ پور کی طرف جاتا ہے ضعیف کشی اور زیر دست آزاری ہمیں دست درازی کرتا ہے۔ شاہم خاں کو اس نواح میں جاگیر دیکر روانہ کیا کہ اس سرکشی کا علاج کرے انھیں دنوں میں بہار میں غازی خاں بدخشی کو متعین کیا۔ معصوم علیخاں فرنخودی کی فتنہ پردازی کی بڑی شہرت ہو رہی تھی اسلیے ترسون خاں کو جونپور جانے کی اجازت ہوئی۔ صادق خاں و شیخ فرید بخاری والغ خاں حبشی وطیب خاں کو منگیر کی طرف روانہ کیا کہ اس نواح کو مخالفوں کے خس و خاشاک سے پاک وصاف کریں۔ خان اعظم و راجہ ٹوڈرمل اور امرا اور سپاہ پٹنہ و حاجی پور کو روانہ ہوئی۔ مگر اس سے پہلے کہ یہ پٹنہ میں امرا ملیں۔ شہباز خاں نے وہاں آنکر اپنی اور ہی دُکان جما رکھی تھی۔ اُس نے دلپت اور عرب کی مالش کی تھی اور بہادر کے ہاتھوں سے حاجی پور کو چھڑایا تھا۔ لیٹے وہ اپنے تئیں کچھ اور ہی سمجھنے لگا تھا۔ معصوم خاں فرنخودی جونپور آیا۔ خان اعظم و راجہ ٹوڈرمل نے حاجی پور میں اقامت کی۔ شہباز خاں نے پٹنہ میں اپنے کاموں کو رونق دی۔ امرا کو منصب اور جاگیریں دیکر اپنا اقتدار خوب بڑھا لیا۔ خان اعظم سے دل گرفتہ ہوا۔ راجہ نے بھی طرح دی اس طرف کی تمام مہمات شہباز خاں کے ہاتھ میں آئیں۔ نیک اندیشوں اور سچے کارگزاروں نے چاہا کہ اُن کے

صوبہ بہار کا انتظام و امرار شاہی میں باہمی کشمکش ۹۸۸ھ

درمیان یک جہتی ہے اور دوتائی ہو مگر مدارا نہ ہے۔ لشکر شاہی کے دو حصے ہوگئے آپسمیں اغراض نفسانی کے سبب سے یہ بات بھی قرار نہ پائی کہ ایک گروہ خدمت بنگالہ کو اپنے ذمہ لیتا۔ اور دوسرا مہمات بہار سے دارالخلافہ تک پاسبانی کو اپنے اہتمام میں لیتا خان اعظم و راجہ تھوڑا لشکر لیکر ترہت کو روانہ ہوئے۔ منافقانہ شہباز خاں کو بھی بلایا مگر وہ بہت سا لشکر لیکر جونپور گیا اور ظاہر یہ کیا کہ میں معصوم خاں فرنخودی کو مطیع کرنے جاتا ہوں۔ اصل مطلب اس کا یہ تھا کہ اس ہنگامہ سے اور ہر روز کی گفتگو سے نجات ہو جائے۔

جب معصوم خاں کابلی بھاگ کر بنگالہ میں گیا تو مرزا شرف الدین حسین اور اسکے درمیان بگاڑ ہو گیا۔ اور ایک دوسرے کی گھات میں لگا۔ مرزا پاس لوٹ کا مال بہت جمع تھا اسکے پاس آدمی بہت تھے معصوم خاں نے روبہ بازی کر کے چاپلوسی اور لابہ گری کی اور اُس کو اس طرح مسموم کیا کہ ایک پسر ہندی مرزا محمود نام اس کا دوست تھا معصوم نے اس کو روپیہ کا لالچ دیا اس نے خشخاش میں زہر ملا کر مرزا کو دیا تھوڑی دیر میں وہ مر گیا۔

میر ہاشم نیشاپوری کا بیٹا نیابت خاں تھا۔ چھوٹی عمر میں بادشاہ نے اُسکی پرورش کی تھی اور اس کا اعتبار بڑھایا تھا وہ خالصہ کا عمل پرداز تھا۔ خردہ گیر آوارہ نویسوں نے باقی نکالی تھی۔ اُس زر بندہ نے حق گزاری سے سرکشی کو بہتر جانا اور فتنہ اُٹھایا قصبہ کڑہ کا محاصرہ کیا۔ الیاس خاں لنگاہ اسمٰعیل قلیخاں کے تھوڑے نوکر دن کو ساتھ لیکر اُن سے لڑا۔ اور مارا گیا۔ بادشاہ نے اسمٰعیل قلیخاں و عبدالمطلب خاں و شیخ جمال بختیار اور اور اخلاص مند بہادروں کو اجازت دی اور وزیر خاں کو جس کو بادشاہ نے اودھ کا جاگیردار مقرر کیا تھا اور امرا کو لکھا کہ یک جہتی کر کے اس سرکش کو سزا دیں جب لشکر آیا تو وہ بعض قلعوں کو مستحکم کر کے اریل میں چلا گیا۔ وزیر خاں نے اُس قلعہ کی فتح کرنے سے پہلے آلہاباس کے لینے کا قصد کیا۔ نیابت خاں کے پیچھے اسمٰعیل قلیخاں گیا۔ غرض دونوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ دوست دشمن نے ایک دوسرے کے لڑنے کی تعریف کی۔ اسمٰعیل قلیخاں

مرزا شرف الدین حسین کا مرنا ۹۸۹ھ

نیابت خاں کا سزا پانا ۹۸۹ھ

کی مردانگی سے فتح ہوئی نیابت خاں بھاگ کر کہیں چھپ گیا۔ لشکر کو بہت غنیمت ہاتھ لگی!

معصوم خاں فرنخودی کا جونپور میں آنا

ہم نے پہلے لکھا ہی کہ معصوم خاں فرنخودی لشکر شاہی سے جدا ہو کر اپنی خودسری سے جونپور چلا گیا تھا۔ بہت آدمیوں کو اس نے یہاں جمع کر لیا جب اس نے سنا کہ بادشاہ پنجاب میں مرزا حکیم کے آنے کی خبر سنکر گیا ہی تو اس کے باطن میں جو خبث بھرا ہوا تھا وہ اوس نے باہر اُگلا۔ اور ترسون خاں کے گماشتوں سے اس نے جونپور کو بزور لے لیا۔ کھلی بغاوت اختیار کی بادشاہ کو اسکے باغی ہونے کا یقین نہیں ہوتا تھا۔ اس نے چند عاقل صلاح اندیش اس پاس بھیجے کہ اس کو راہ پر لائیں اور کہیں کہ یا وہ لشکر شاہی سے جا ملے یا ہمارے پاس چلا آئے۔ مگر بادشاہ کے اس کہنے سننے نے اسکا مانیخولیا اور بڑھایا اس نے نامعقول غدر کرکے اپنی فتنہ اندوزی کو اور بڑھایا۔ پھر بادشاہ نے فرمان بھیجا کہ اگر وہ ان دو کاموں سے کوئی ایک کام نہیں اختیار کرتا تو جونپور کو چھوڑ کر وہ اودھ میں چلا جائے یہ صوبہ اُس کی جاگیر میں دیا جاتا ہی اس کا انتظام کرے۔ وہ اودھ میں چلا گیا۔ ظاہر میں فرمان پذیر ہوا۔ مگر حقیقت میں وہ یہاں اس لیے آیا کہ اسباب شورش کے تیار کرنے کی فرصت پائے۔ بادشاہ نے شگوفہ تراول اور آدمیوں کو اس کا حال دریافت کرنے کو بھیجا انھوں نے اپنی کوتاہ عقلی اور حرص درازی سے بادشاہ کو اسکے مخلص اور خدمت گزار ہونے کا یقین دلانے کے لیے عرض کیا کہ اگر وہ اپنے مقربین سے ایک دو کو اسکے پاس بھیجے تو وہ حضور کی آنکر قدمبوسی کرے۔ بادشاہ نے شاہ قلی محرم و راجہ بیربر کو اس خدمت پر رخصت کیا جب وہ اسکے قریب آئے اور نامہ یک جہتی بھیجا تو وہ ناشائستہ کلمات زبان پر لایا اس لیے یہ دونوں الٹے چلے آئے۔ ہم نے پہلے لکھا ہی کہ خان اعظم اور راجہ توڈرمل ترہت کی جانب منزل پیما ہوئے اور شہباز بہت سا لشکر لیکر جونپور کی طرف آیا اس سبب سے بنگالہ کے سرکشوں کی سزادہی کا کام کھٹائی میں پڑا۔ جب شہباز خاں حوالی قصبہ بھیہ میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ترسون خاں سے عرب بہادر شکست

پاکر یہاں ٹھہر رہا ہے اور زیر دستوں کو تکلیف دیتا ہے اس نے بعض اپنے بہادروں کو بھیجکر
اس کو خوب سزا دی اور خود جگدیس پور میں آیا یہاں گردن کشوں کی مالش میں مصروف
ہوا۔ اس کو یقین ہوگیا کہ معصوم فرانخودی بالکل باغی ہوگیا۔ نیابت خاں اور عرب بہادر
اس کے ہنگامہ کو رونق دیتے ہیں۔ تو وہ ادھر کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک نامہ اس کو اس
مضمون کا لکھا۔ نیابت خاں و شاہ دانہ کو گرفتار کرکے عرب بہادر پادشاہ پاس روانہ ہو
یا بھیجے ان کو بھیجدے تاکہ اسکے کام پر سے پردہ اٹھے مگر اس نامہ کو وہ افسانہ سمجھا اور آپ سر
پا او اپنا بنہ دبار قلب جا میں بھیجدیا اور خود ترکوں کو آمادہ جنگ ہوا۔ شہباز خاں بھی کارزار پر
آمادہ ہوا اور لشکر کو اس طرح مرتب کیا۔ قول کا اہتمام خود لیا برانغار ترسون خاں کو دیا۔
جرانغار مطہر خاں و بہادر خاں و سید عبداللہ خاں و لعل خاں کو دیا۔ ہراول میں مہر علی خاں
سلدوز و جیوت خاں کوکہ و مرزا [illegible] قاسم و میر ابوالمعالی کے حوالہ ہوا۔ [illegible] کو کمین
میں ٹھہایا۔ مخالف نے اپنے لشکر کو اس طرح مرتب کیا کہ دست راست میں عرب بہادر کو
دست چپ میں شاہ دانہ و [illegible] کو قلب میں مرزا قلی توقبا کو اور التمش میں نیابت خاں کو
مقرر کیا قلب گاہ میں خود تھا۔ ۱۳ ربیع الثانی ۹۸۹ھ کو ادھر سے پچیس کوس پر سلطان پور بیلہری
پر دونوں لشکر ملے۔ اول پادشاہی ہراول نے دشمن کو شکست دی مرزا قلی مارا گیا۔
پادشاہی برانغار نے بھی اپنے مقابل کی سپاہ کو ہٹایا معصوم خاں نے قول میں آنکر پیکار
شروع کی شہباز خاں کے دل میں ہول تھا اور وہ بھاگا مگر جب برانغار اور ہراول کو
اسکی خبر ہوئی تو وہ اس کی مدد کو آئے مخالف کے لشکر میں یہ افواہ اڑگئی کہ معصوم خاں
مارا گیا جس سے ہنگامہ مخالف پریشان ہوگیا جب معصوم خاں کچھ چلکر میدان میں آیا تو اس نے
اپنے لشکر کو نہ پایا سامنے اس کے ایک لشکر نمودار ہوا جس کو وہ اپنا سمجھکر خوش ہوا اسکی
طرف گیا تو معلوم ہوا کہ وہ برانغار شاہی ہے وہ اور زیادہ سراسیمہ ہوا لشکر شاہی نے اسکے
خیمہ گاہ پر پہنچکر لوٹنا شروع کیا۔ لوٹ کے مال لشکر لیکر خیموں میں لائے تھے کہ معصوم بھی

لڑنے آیا اور زخمی ہو کر ایک بلندی پر چڑھ گیا میدان جنگ بادشاہ کے لشکر کے ہاتھ آیا
مگر اس کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آگے بڑھکر دشمن کا کام تمام کرتے وہ ادھر کو چلا گیا۔ بادشاہی
لشکر اکبر پور میں ادھر سے بارہ کوس پر آنکر ٹھہرا۔ شہباز خاں دشمن کے مارنے کو بنو پور میں میدان
جنگ سے بیس کوس پر چلا آیا۔ غرض بادشاہی لشکر کو ایک فتح بزرگ حاصل ہو گئی۔

بہادر بکلی کا مارا جانا ۹۸۸ھ ۲۵

بنگالہ کے آس پاس میں بہادر بکلی بھی سرکش ہو رہا تھا جس نے اقصائے بہار
میں خان محمود بہسودی سے اتفاق کر کے ظلم کرنا شروع کیا۔ بادشاہی امرا میں دو رنگی
کی ہوا چل رہی تھی اور بنگالہ کی طرف لشکر کی روانگی میں تاخیر ہو رہی تھی۔ صادق خاں
منگیر میں، الغ خاں حبشی بابو منگلی بھاگلپور میں غافل پڑے تھے ان سرکشوں نے
ان کو ستایا۔ اور ایسے غالب ہوئے کہ وہ بھاگ کر منگیر میں آ گئے۔ صادق خاں نے
بعض سرداروں کو بھیجا۔ اُن سے لڑائی ہوئی اور بہادر مارا گیا۔ اور سب کے ساتھی بنگالہ
کو بھاگ گئے۔ بہار اب بالکل سرکشوں کے خس و خاشاک سے پاک ہوا۔

معصوم خاں فرنخودی پر شہباز خاں کا دوبارہ فتح پانا ۹۸۹ھ ۲۶

شہباز خاں کی پہلی کام روائی اور ناکامی اوپر بیان ہوئی۔ اب وہ تیز دستی اور
کاروانی سے پھر ہنگامہ آرا اور تھوڑے عرصہ میں آمادۂ کارزار ہوا۔ معصوم خاں شکست
پاکر لشکر کے جمع کرنے میں مصروف ہوا اور بادشاہی دولت کو جو اُس پاس جمع تھی
خرچ کرنے لگا۔ بادشاہی فوج بھی دشمن سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئی معصوم خاں
بھی اُن سے لڑنے نکلا۔ اسکی فوج میں دست راست پر عرب بہادر تھا۔ اور دست چپ
پر نیابت خاں اور مقدمہ میں شاہ دانہ تھا اور خود کمین میں بیٹھا تھا۔ ۲ بہمن ۹۸۸ھ
کو دونوں لشکروں نے میدان جنگ آراستہ کیا۔ معصوم خاں نے کچھ توقف کیا۔
بادشاہی لشکر نے خندق کو کھود لیا۔ دوسرے روز جنگ شروع ہوئی بادشاہی
ہراول اور ہاتھیوں نے غنیم کے ہراول کو شکست دی مخالف کے برانغار نے لشکر
شاہی جرانغار پر زور ڈالا اور اس کے کام کو دشوار کیا مگر بادشاہی ہراول

اور التمش نے آنکر اسے سنبھال لیا۔ اور دشمن کو سب طرح سے میدان جنگ سے بھگا دیا۔ اور
بہت مال اسباب اس کا لوٹ لیا۔ شہباز خاں نے فیروزمندی کو غنیمت جانا نبرد گاہ سے
اُس نے آدھا قدم نہ بڑھایا۔ لشکر نے جاکر شہر کا کنارہ لوٹا۔ عرب بہادر نے اُن کو مار کر
بھگایا۔ مشہور یہ ہوا کہ شہباز خاں بھاگا معصوم خاں تھوڑی دیر سُنکر خوش ہوا شہر کے اندر اور
باہر نگاہداشت کی اور برج دوبارہ درست کیا ایک توپ دروازہ پر لگائی لڑنے پر آمادہ ہوا
مگر یہ توپ پھٹ گئی جس سے جھوٹے دوست زر بندے پراگندہ ہوگئے اب معصوم خاں کو
شہر بند حوادث سے نکلنے کو جا نہ تھی نہ بیٹھنے کی جا تنگنائے آشوب میں تھی بنہ و بار اس کثرت
سے تھا کہ اُس کے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا اس اندیشہ جانکاہ میں عرب نیابت خاں
و شاہ دانہ جنسے اس کا سارا کام بنا ہوا تھا اس سے جدا ہوگئے اور اپنا اندوختہ یہیں چھوڑ گئے۔
معصوم خاں سات آدمیوں کو لیکر پوشیدہ بھاگا اس بری حالت میں زمیندار کومچ
اس سے ملا اور اپنے گھر لے گیا اور سارا مال اسباب اس کا سنگوایا۔ دوستی کے لباس
میں قزاقی کرکے اس کو باہر نکال دیا۔ وہ نہایت تباہ حال ہوکر دریا رسرو سے پار اترا۔
راجہ مان زمیندار نے اسکی دستگیری اپنے گھر لے جاکر کی۔ شہباز خاں نے امید وبیم کی
داستاں راجہ کو لکھکر بھیجی کہ وہ معصوم خاں کو حوالہ کرے یا مار ڈالے مگر اس نے انکار
کیا اور پوشیدہ معصوم خاں کو اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا وہ کہیں جاکر چھپ گیا
شہباز خاں قصبہ اودھ میں آیا اور تمام معصوم خاں کے زہ وزاد و بنہ و بار پر قبضہ کیا
ڈیڑھ سو ہاتھی ہاتھ آئے۔ بادشاہ پاس فتحنامہ بھیجا گیا۔ بادشاہ نے شہباز خاں کو
لکھ بھیجا کہ معصوم خاں کے زہ وزاد اپنے پاس رکھے لوگوں میں مشہور تھا کہ معصوم خاں دامنہ
شمالی کوہ سے کابل جانا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے روکنے کے لیے قلیچ خاں
[illegible] اُس نے واپس آنکر بادشاہ کا اطمینان کر دیا کہ وہ

طرف گیا تو معلوم ہوا کہ وہ بر[illegible]
قصبہ گگاؤ پر پہنچکر لوٹنا شروع کیا۔ لوٹ

قیا خاں کا مارا جانا ۹۸۹ھ

جب سے بنگالہ میں ہنگامہ شورش برپا تھا قیا خاں ملک اڈیسہ میں اپنا زمانہ گذارتا تھا
اگرچہ اسکی ہمت نے یاوری نہیں کی کہ اسباب شورش کو تسکین دیتا۔ مگر اس سرزمین کو مخالفوں
کی گرد سے پاک وصاف رکھتا تھا۔ ان دنوں ملک بنگالہ پادشاہی سپاہ سے خالی ہوا تو
قتلو خاں نے غلبہ پایا۔ قیا خاں اس سے لڑکر حصارنشین ہوا امتداد پیکار اور ہمراہیوں کی
جدائی سے ناکام رہا اور مردانہ لڑکر جان اپنی دیدی۔

عرب بہادر کی شکست ۹۸۹ھ

عرب بہادر و نیابت خاں و شاہ دانہ معصوم خاں سے جدا ہوکر حدود سنبل میں
فتنہ اٹھانے گئے کہ اس ملک سے دولت لوٹ کر سامان فتنہ سازی بہم پہنچائیں۔
اور اگر یہ نہو تو مرزا حکیم پاس راتوں کو سفر کرکے چلے جائیں۔ اس حدود کے فوجدار عین الملک
نے قلعہ بریلی کو مستحکم کرکے سپاہ کو جمع کیا۔ نام بردوں نے اول یہ خیال کیا کہ امید و بیم
کی داستان گزارش کرکے حکیم کو اپنا یار ویاور بنائیں جب اس کام میں اُن کو ناامیدی
ہوئی تو حصار کے گرد آئے اور آدھے شہر کے گردہ میں آگ لگائی۔ حکیم استقلال سے قائم
رہا۔ اس شورش میں رات ہوگئی تو سرکشوں نے دن کو لڑنے کا ارادہ کیا۔ زمین شکستہ
تھی اور لشکر کے آنے کی بھی ان کو خبر تھی اس لیئے وہ قلعہ سے زیادہ دور جاکر ٹھیرے۔ حکیم کو
ایک ہوشیار مغرور جاسوس بناکر غنیم کے لشکر میں بھیجا کہ وہ خود غنیم کے ہاتھ میں گرفتار
ہو جائے اور جب اُس کو وہ بہت تکلیف دیں تو یہ ان سے کہے کہ لشکر شاہی چاروں
طرف سے جمع ہوگیا ہی ان کا ارادہ شبخون مارنے کا ہی اور مجھے اُسی کی خبرگیری کے لیے
بھیجا ہی۔ تدبیر چل گئی آدھی رات کو دشمن بھاگ گیا ناامید حصاریوں کو بڑی خوشی ہوئی۔
تھوڑے عرصہ میں مختار بیگ بداؤں سے شیخ محمد غزنوی شمس آباد سے شیخ معظم و میر ابوالحسن
امروہہ سے غلام حسین سلیم پور سے و قاسم لکھنؤ سے و مولانا محمود اور ابوالقاسم سنبل سے آنکر ملگئے
اولیائے دولت کو ایک رونق تازہ ہوئی۔ سرکش اس نواح سے بہت دور چلے گئے لیکن اس ملک
کے اطراف میں لوٹ مار کرتے رہے وہ غریبوں کے مارنے کو مردانگی جانتے رہے راجہ گاؤں و

و رام شاہ وکمت سین راجہ اور بہت سے سرکش زمیندار انکے ساتھ ہوگئے اور بڑی شورش مچائی حکیم نے انمیں تفرقہ ڈالا نیابت خاں کو اپنے ساتھ بلالیا ان سب کو ہرادل بناکے شاہ دانہ سے لڑوایا۔ غرض بادشاہی لشکر کو سب طرف فتح ہوئی۔

شہباز خاں سے معصوم خاں شکست پاکر پر درخت صحرا میں چلا گیا اور ہر روز خارزار میں پھر کر اپنے پاؤں کو زخمی کرتا اس سرگردانی میں اس کے ملازموں میں سے مقصود اس پاس آیا جسکے پاس مدتوں کی دولتیں جمع تھیں وہ سب اس نے اپنے آقا پر نثار کیں۔ پھر اس شورہ پشت نے آدمیوں کو جمع کر شہر بہرائچ کو لوٹ لیا۔ قمر علی وزیر خاں اس سے کچھ لڑے مگر اپنے ہمراہیوں کی نالائقی سے کچھ کام نہ کرسکے یہ آباد شہر مع توابع اسکے قبضہ میں آیا وزیر خاں و مہتر خاں اور اقطاع داروں نے یکجہتی کی اور اس سے لڑنے کو آمادہ ہوئے دریا سرد کو درمیان میں رکھکر توپ بندوق سے لڑنا شروع کیا معصوم خاں دن کو لڑتا رات کو لشکر سے باہر کنج تنہائی میں چلا جاتا تھوڑے عرصہ میں اس سرزمین کے رہنے والے لشکر شاہی کے خدمت گزیں ہوئے جس سے لشکر کو بڑی قوت حاصل ہوئی ایک رات کو معصوم خاں اپنا بنہ و بار چھوڑ کر فرار ہوا کلیان پور تک لشکر نے اس کا تعاقب کیا وہ سارے رستہ لوٹ مار کرتا ہوا اور محمود آباد کو ویران کرتا ہوا جونپور لوٹنے کے ارادے سے گیا۔ تربت سے شاہم خاں۔ غازی پور سے پہاڑ خاں چاندپور سے قاسم خاں آئے تو معصوم خاں گھبرایا اس کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑا اپنے اہل و ختان کو چھوڑ کر آب سرو سے گذر جلدی سے پار گیا۔ فتنہ اندیشی سے بس کی حاجی پور میں مرزا کوکہ پاس نیاز نامہ بھیجا اس نے پرانی آشنائی کا پاس کر کے مردمی کی اور نقد و جنس و جاگیر سے یاوری کی اور بادشاہ سے التماس بخشش کی شہریار نے بخشش کر کے سفارش سے اسکی تقصیریں معاف کیں جس سے ایک خلق شگفتہ خاطر ہوگئی۔

بہادر خاں سعید بخشی کا بیٹا تھا اس نے جو رعیت آزاری اور سرکشی کی اس کا بیان اوپر

معصوم خاں کی خرابی و فرار ۹۸۹ھ

معصوم خاں ۹۸۹ھ

ہوا ہی کوہستان ترہت کو اپنی شورش گاہ اُس نے بنا رکھا تھا ہنگام فرصت میں یورش کیا کرتا
یہ نواح غازی خاں بدخشی کی جاگیر میں آئی خان اعظم نے اسکی یاوری کی۔ اس نے کاردانی کو
مردانگی کے ساتھ پیوند دیا۔ اور خدمت گزینی کو آگاہ دلی کے ساتھ ہمدوش کیا تو بہادر نے
اُس سے دل شکن شکستیں پائیں۔ بنہ و بار اُس کا تاراج میں گیا اس لیے اُس نے گریزت
ولابہ گری اختیار کی غازی خاں پاس آکر ملاقات کی انکی گفتار و کردار سے فتنہ اندوزی
و شورافزائی کے آثار نمودار تھے اس لیے اُسکو غازی خاں نے مقید کرکے خان اعظم پاس
حاجی پور بھیجدیا اس نے پادشاہ پاس روانہ کیا زنجیر گردن میں اور کندہ پاؤں میں تھا
پادشاہ نے اُس کو قتل کروا دیا۔

شہباز خاں کا سرتابی کرنا ۹۸۹ھ

شہباز خاں پادشاہ پاس حدود پانی پت میں آیا وہ معصوم خاں فرنخودی کو شکست
دیکر دارالخلافہ فتحپور کی پاسبانی کرتا تھا لیکن وہ حوصلہ سے زیادہ یاؤہ دینا پی گیا تھا اسلیے
پرسش کے وقت خودآرائی اور خویشتن فروشی اور خودسری کرتا تھا ۲۴ ذی قعدہ ۹۸۹ھ کو
تسلیم چوکی میں بخشیاں بارگاہ نے مرزا خاں کو جو خطاب عالی خانخانان کا رکھتا تھا اسپر تقدیم دی
شہباز نے حکم کے ماننے میں سرتابی کی۔ کچھ بڑبڑانے لگا۔ پادشاہ نے پندپذیری و سعادت آموزی
کے لیے اُس کو رائے سال درباری کے حوالہ کیا کہ معاملہ دانی کے مکتب میں سبق پڑھے۔

معصوم خاں فرنخودی کا دارالخلافہ میں آنا ۹۹۰ھ

اواسط بہمن ۹۹۰ھ میں معصوم خاں فرنخودی فتحپور میں آیا ابھی مستی اُسکی بالکل جھڑی نہ
تھی دارالخلافہ سے باہر ٹھیرا۔ اس کا منتظر تھا کہ پادشاہ اسکی پرسش کرے خان اعظم کی
سفارش نے اُسکی یاوری کی تھی اور دامنہ کوہ بھی ولایت میں اس کو دی تھی اور یہ قرار پایا
تھا کہ جب پادشاہ کابل سے دارالخلافہ میں آئے تو وہ اس کی خدمت میں جائے وہ
خان زماں سے رخصت لیکر تیتیہ اقطاع میں گیا بہت سے آدمی اس پاس جمع ہوئے
خان اعظم اسکے بھیجنے سے پشیمان تھا۔ چارہ گری کے درپے ہوا اس سے معصوم خاں
لڑ نہیں سکتا تھا اس لیے وہ پادشاہ کی خدمت میں روانہ ہوا اس کے دل میں ارادہ

تھا کہ اگر تاب ہو ملے تو شورش مچائے۔ بھیں درگاہ والا میں جائے۔ اس نے سارے رستہ میں فتنہ پردازی کے لیے بہانے ڈھونڈے۔ مگر اس پاس سامان جنگ نہ تھا اسکی ماں و بہن و بیوی قید میں تھیں۔ اسلیے ناچار اس نے پادشاہ کی قدمبوسی سے اپنا پیدار بڑھانا چاہا۔ دارالخلافہ کے پاس عشوہ فروشی کرتا رہا حضرت مریم مکانی کی سفارش کے لیے ڈھب لگایا اور زنہار نامہ حاصل کیا عین الملک سے ملکر شورش کا ارادہ کیا مگر کچھ کام نہ بنا۔ شہباز خاں کے آدمیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوا لیکن مریم مکانی کا زنہار نامہ اس پاس تھا کون اس سے بول سکتا تھا پادشاہ پاس اسے بھیجدیا اس نے اسکی تقصیرات معاف کر دیں خان اعظم اور بہت سے امرار دیار بہار کے پادشاہ کے جشن نوروزی ۹۹۰ھ میں مبارک آباد کے لیے پادشاہ پاس آگئے تھے خبیطہ وجباری اور ترخاں دیوانہ نے بنگالہ سے بہار میں آکر رعیت آزاری اور زیردستوں پر درازدستی شروع کی۔

۱۵ صفر سنہ ۹۹۰ھ کو نوروز کا جشن ہوا محفل آراستہ ہوئی۔ پادشاہ نے اہل مجلس سے ارشاد کیا کہ ان میں سے ہر یک کسی پسندیدہ کار کو عرض کرے اول اس نے خود فرمایا کہ حقیقت میں سوار ایزد بے ہمال کے کسی کو خداوندی سزاوار نہیں اور مردم زاد کو بندگی لائق ہے مجھ مشت ضعیت کی کیا مجال ہے کہ اپنے تئیں صاحب کہوں اور بنی نوع سے بندگی چاہوں اُسی وقت کئی ہزار غلام آزاد کر دیئے اور زبان سے فرمایا کہ جو آدمی بزور گرفتار ہوں ان کو بندہ (غلام) نہ بنانا۔ اور اُن سے پرستاری چاہنا شائستگی سے بعید ہے۔ آج سے اس گروہ کا نام چیلہ اس لیے رکھا کہ چیلہ کے معنی ہندی میں مرید کے ہیں شاہزادہ سلطان سلیم نے عرض کیا کہ زنا شوئی بارہ برس کی عمر سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے نقصان بہت ہوتے ہیں اور فائدے کم خان اعظم مرزا کوکہ نے عرض کیا کہ ممالک محروسہ کے مرزبان کسی کی جان لینے میں دلیری نہ کریں اور جب تک پادشاہ کی منظوری نہ منگائیں اس بنا ایزدی کی خرابی میں ہاتھ

جشن نوروزی ۹۹۰ھ

نہ لگائیں۔ مرزا خانخانان نے التماس کیا کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کا پکڑنا جیسے کہ چڑیاں اور مچھلیاں ہیں ناشائستگی میں داخل ہے تھوڑے فائدہ کے لیے بہت جانوں کا نقصان ہوتا ہے وہ موقوف کیا جائے۔ راجہ ٹوڈرمل نے کہا کہ بارگاہ دولت میں روز خیرات ہوتی ہے اسلیئے ایک قانون مرتب کیا جائے کہ ہر ہفتہ یا ہر ماہ یا ہر سال مفلسوں کے حال پر امرا متوجہ ہوں مرزا یوسف خاں نے استدعا کی کہ تمام شہروں اور قصبوں سے سوانح کار وزنامچہ آیا کرے۔ راجہ بیربر نے یہ خواہش کی کہ ہمیشہ سب طرف راستی منش عدگزیں جاسوسی میں تگادو کریں۔ اور دادخواہ مظلوموں کا حال اور ضروری کاموں کو بادشاہ سے عرض کریں قاسم خاں کی ملتمس یہ تھی کہ قلمرو کی رہ گزروں پر سرائے آباد کی جائیں کہ خلق سے مسافروں کو آسائش ہو۔ شیخ جمال نے عرض کیا کہ مردم شناس بے غرض آدمی کچھ مقرر کیے جائیں کہ کم مایہ مفلسوں کو بارگاہ حضور میں لائیں۔ شیخ فیضی نے یہ آرزو کی کہ شہروں و بازاروں میں کچھ کارشناس ہرگزیں مقرر ہوں کہ وہ ہر چیز کا نرخ دیدہ دری سے مقرر کریں۔ حکیم ابوالفتح نے دارالشفا کے مقرر کرنے کے لیے درخواست کی۔ ابوالفضل نے عرض کیا کہ ہر شہر و قصبہ کے داروغوں کو حکم ہو کہ اپنے اپنے علاقہ کے بندہ داروں کے نام بنام اور حرفہ بحرفہ لکھکر بھیجیں اور ہمیشہ ان کی آمد و خرچ کو غور سے دیکھتے رہیں۔ بیکار ہرزہ گرد اور بد دشتوں کو برباد کرتے ہیں یہ وہی باتیں تھیں جو بادشاہی گفتار سے امرا نے دریوزہ کی تھیں وہ سب منظور ہوئیں جس سے افسردہ جہاں نے تازہ روئی پائی۔

خان اعظم مرزا کوکہ کا بنگالہ کی مہم پر تعین ہونا ۹۹۰

جب نوروز کی عشرت ختم ہوئی تو ملک کے کام میں بادشاہ مشغول ہوا۔ اس نوروز کی زینت کے لیے خان اعظم اور بہت سے امرا آئے تھے۔ ۲۷ فروری کو خان اعظم کو لشکر کے ساتھ بنگالہ روانہ کیا ترسون خان۔ شاہم خاں شاہقلیخاں محرم شیخ فرید اور بہت سے امرا کو اس لشکر میں شامل کیا صادق خاں و محب علی خاں اور صوبہ بہار و اودھ کی سپاہ کو فرمان ہوا کہ آمادہ پیکار ہو کر اس لشکر سے ملیں ان اندنوں خبر آئی کہ بنگالہ

میں باغیوں نے شورش برپا کی ہے۔ جباری وخبیطہ وترخاں دیوانہ نے اور بہت سے بد ذاتوں نے صوبہ بہار میں آکر رعیت آزاری شروع کی ہے۔ حاجی پور اور کچھ اور بلاد پر قبضہ کر لیا ہے۔ خان اعظم کے آدمی انکو نہ بچا سکے صادق خاں ومحب علی خاں ان کے علاج کے درپے ہوئے معصوم خاں کابلی نے ان شورہ پشتوں کی یاوری سے سر اٹھایا تھا بہادر کو ردہ قتلو کے افغانوں کی فوج لیکر شہر ٹانڈہ کے حوالی میں آیا۔ صادق خاں پٹنہ میں ثابت قدم رہا۔ اور اس نے اس طرف کو اقطاع داروں کو جمع کیا اور آپس میں یکتائی پیدا کی اور فوج یوں آراستہ کی کہ قول میں خود رہا۔ برانغار میں محب علی۔ اور جرانغار میں الغ خاں حبشی اور ہراول میں پہاڑ خاں۔ و ابوالمعالی۔ توپ خانہ محمد علی بیگ کہ سپرد ہوا۔ جانب مخالف میں یوں صف آرائی ہوئی کہ خبیطہ جو سرکشوں کی شمشیر تھا قلب گاہ میں۔ دست راست میں جباری۔ اور دست چپ میں خبیطہ کے بھانجے وستم ورستم مقدمہ میں ترخاں دیوانہ وسعید بیگ کچھ بادشاہی لشکر اور توپ خانہ گنگا کے پار گیا۔ اور گنگا کے کنارہ پر ایک حصار بنایا ہمیشہ دونوں طرف سے خوب جنگ ہوئی۔ چالیس روز تک لڑائی ہوتی رہی سرکشوں نے شبخون مارا جس میں صادق خاں کا عمزاد علی یار بیگ مارا گیا مگر سرکش ناکام رہے امراء شاہی دریا سے گزر کر صف آرا ہوئے خوب لڑائی ہوئی استاد زکریا و قادر علی نے توپ خانہ شاہی کو خوب چلایا۔ لڑائی کا پلڑا کبھی ادھر جھکتا تھا۔ کبھی اُدھر۔ ناگاہ میرک حسین برادر عرف خانجہانی خبیطہ کا سر کاٹ کر لایا توپ سے وہ مارا گیا تھا ہوا خواہ اسکے تن بیجان کو لیکر چلے مگر سراسیمگی سے رستہ میں اسکو پھینک دیا۔ غنیم کا لشکر پانچہزار تھا اور بادشاہی لشکر صرف دو ہزار۔ مگر اس قلیل لشکر نے اس کثیر سپاہ پر فتح کامل پائی اور دشمنوں کو پراگندہ کر دیا مشرقی دیار کے ناسپاسوں میں نور محمد بھی نامور تھا۔ رعیت کی دل آزاری کی راہ میں ڈگیں بھرتا تھا۔

جب خان اعظم مرزا کوکہ پادشاہ سے رخصت ہو کر حوالی جونپور میں آیا تو یہ

۹۹۰ھ ۱۵۸۲ء

ناخن خیر بنگالہ سے ترہت کی راہ سے آیا اور خواجہ عبدالغفور نقشبندی نے ہمداستان ہو کر سارن کی حدود
میں لوٹ مچائی۔ ان تباہ کاروں نے بادشاہی لشکر کی آمد سنی اس سے لڑنے کا ارادہ کیا۔
سوداگروں کا بڑا قافلہ جاتا تھا اسکے لوٹنے کو وہ آئے۔ سوداگروں نے جوالوں (مٹی بھرے بورے) کو
پناہ بنایا اور انکے بیچ لڑے۔ اور انکو بھگایا۔ پھر وہ ترہت سے بارہ کوس پر پہنچکر زیردستوں کو آزار
دینے لگے۔ کہ بادشاہی لشکر آن پہنچا۔ انہوں نے باہر جانے کے لیے پل باندھا تھا وہ بھاگ کر کلیانپور
کے زمیندار پاس پناہ لے گئے مگر وہاں سے ناکام آئے۔ بادشاہی لشکر کے کچھ آدمی انکے
پیچھے ہو گئے۔ عبدالغفور کا ارادہ ہوا کہ ترہت کی راہ سے بنگالہ جائے۔ مگر اس کو منتشر
آدمیوں کے گروہ کھینہ نے مار ڈالا کھینہ کی قوم کوہستان میں بہت رہتی ہے وہ صورت
و سیرت میں قلماق ہیں۔ نور محمد پور ترخاں گیا کو جاتا تھا کہ وہ چنپارن کے پاس خان اعظم
کے آدمیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوا۔ گردن میں طوق اور ہاتھوں میں کندہ ڈالا گیا
اور گردن مارا گیا جس سے اور بدگوہروں کی آنکھیں کھلیں۔

سنہ ۲۸ جلوس روز دوشنبہ ۲۶ صفر سنہ ۹۹۱ھ کو جشن نوروزی ہوا۔ اس سال آغاز بنگالہ
کی تیسری دفعہ فتح ہونے سے ہوا۔ پہلے سال میں بہار کے فتنہ اندوزوں کی سزا کے لیے
اور بنگالہ کی تسخیر کے لیے خان اعظم مرزا کوکہ کو لشکر کے ساتھ بادشاہ نے بھیجا تھا۔ مگر اس
لشکر کے پہنچنے سے پہلے بہار کے سرکشوں کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ صادق خاں گھوڑے
کی ڈاک میں بادشاہ پاس آیا موسم بارش نے لشکر کو روکا اور اس سال میں ارادہ
پورا نہ ہوا جب یورش ابر اور ریزش باران موقوف ہوئی۔ شاہ قلیخاں محرم
صادق خاں شیخ ابراہیم شیخ فرید کو بادشاہ نے رخصت کیا۔ تمام اودھ صوبہ الہاباس
واودھ و بہار کے تمام تیول داروں کے پاس بادشاہ نے لائق سزاول بھیجے تھوڑے
دنوں میں بڑا لشکر حاجی پور میں جمع ہوا اور کشایش کار میں ہمتیں طلبگار ہوئیں۔ خان اعظم
لشکر لیکر گڈھی کی طرف چلا۔ ترسون خاں و شیخ ابراہیم و میرزادہ علی خاں و سید

بنگالہ کا تیسری دفعہ فتح ہونا ۹۹۱ھ

عبداللہ خاں و کیچک خواجہ و سبحان قلی ترک دریا سے گذر اس طرف کے فتح کرنے میں
مصروف ہوئے۔ راہ میں درخت زار اور ندیاں اور گل آب بہت تھے سب کو طے کیا
منگیر کے قریب لشکر آپسمیں ملے۔ اور حدود کمل (کھل گاؤں) سے ترسون خاں و
شاہ قلیخاں محرم و محب علیخاں و میرزادہ علیخاں و شیخ ابراہیم ورائے پترداس ایک دو
منزل آگے گئے۔ سرکشوں نے کالی گنگ کے پاس لڑنے کا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے
مرزا شرف الدین حسین و بابا قاقشال اور بہت سے فتنہ انداز مر چکے تھے۔ اب معصوم علیخاں
کابلی ناسپاسوں کے ہنگامہ آرا تھے و قتلو لوحانی ولایت اڈیسہ میں چیرہ دستی رکھتا تھا اور
بنگالہ کے کچھ حصہ پر اس نے قبضہ کر لیا تھا معصوم خاں کابلی نے قتلو سے پیمان یکتائی
کر لیا تھا کہ امرار شاہی سے بڑے سامان کے ساتھ لڑینگے وہ گھوڑا گھاٹ میں آیا اور جباری
و مرزا بیگ و تمام الوس قاقشال کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کی خاطر جمع کے لیے اپنا زہ و زادان
کی نبگاہ میں چھوڑا اور خود لشکر لیکر کالی گنگ پر آیا اور استواری جان و آمادگی پیکار میں ہمت چیست کی
۹ر فروردین ۹۹۱ھ کو لشکر شاہی نے گڈھی کو کہ دروازہ ملک بنگالہ ہے لے لیا
۱۶ ارکو دشمنوں کے ساتھ صف آرا ہوئے کالی گنگ کے کنارے پر مورچل جمائے اور پیکار
کے واسطے کشتیاں تیار کیں اولیا ء دولت کو قتلو کی طرف سے تردد تھا اس لیے سید
عبداللہ خاں و میرزادہ علیخاں و خواجہ عبدالحی و شیخ محمد غزنوی کو بسرکردگی وزیر خاں
چار ہزار سوار دیکر بلکھنہ کو روانہ کیا۔ یہ فوج معسکر شاہی سے بارہ کوس پر دیدبانی و
چارہ جوئی کے لیے بیٹھی ہر روز تیر و تفنگ سے بڑی لڑائی ہوئی۔ بادشاہی لشکر میں کوچک
دلوں کی بیہودگی سے لشکر کے بزرگوں کی عزیمت میں خلل پڑا۔ لشکر غنیم بڑا گراں وزن
ان کو معلوم ہوا۔ بادشاہ سے کمک طلب کی بشیر بیگ نواجی باشی کو گھوڑے کی ڈاک میں
بھیجکر بادشاہ کو مطلع کیا جسپر بادشاہ کو تعجب ہوا۔ ۱۳ ار اُردی بہشت ۹۹۱ھ کو مرزا خاں
وزین خاں کوکہ و اسمٰعیل قلیخاں و مخصوص خاں اور بہت سے امرار کو شرقی دیار کی

طرف روانہ کیا۔ مگر یہ لشکر نہ پہنچنے پایا تھا کہ پادشاہی لشکر کو فتح ہوئی اور دشمن کس طرح پامال ہوئے کہ قاضی زادہ جو بداندیشوں میں بڑا نامور تھا اور فتح آباد سے لڑائی کے لیے بہت سی کشتیاں شائستہ سامان کے ساتھ لایا تھا وہ توپ سے اُڑ گیا معصوم خاں کالا پہاڑ کہ جنگ بحری میں یکتا تھا اس کا جانشین ہوا وہ بھی توپ سے مارا گیا معصوم خاں کابلی سے الوس قاقشال و خالدین کا بگاڑ ہوا پادشاہی سخن سرا کلمہ دانوں نے دلاویز گفتار انکی دستاویز بنائی بہت سے فرمان پذیر ہوئے اول خالدین سے سوگند و پیمان ہوئے پھر مرزا آقا قشال و جباری سے بہت سے آدمیوں سے غائبانہ عہد و پیمان ہوئے یہ امر قرار پایا کہ وہ کارزار سے ہاتھ اُٹھائیں اور اپنے بنگاہ کو چلے جائیں اور چند روز بعد لشکرگاہ میں انکر خدمات پسندیدہ بجا لائیں۔ گفتار کے موافق کردار ہیں۔ مخالف سراسیمہ ہو کر آزردہ خاطر ہو کر بھاگ گئے۔ خان اعظم نے ہر چند انکا تعاقب کیا۔ مگر ایک جماعت کی ہرزہ گوئی اور بیدلی سے کچھ پیش نہ گئی جب اس فتح کی نوید پادشاہ پاس پہنچی تو اس نے جو لشکر کمک کے لیے بھیجا تھا واپس بلا لیا۔

جب معصوم خاں بھاگا تو وہ قاقشالوں کی بنگاہ پر پہنچا کہ اُنسکے زن و فرزاد پر گزند نہ پہنچے اور وہاں سے اپنے کنبے کو نکالے۔ کابلی کی دوست داعری کے سبب مرزا محمد قاقشال اس کے کنبے کو سلامت گاہ میں لے گیا تھا۔ قاقشالوں نے گھوڑا گھاٹ کی نواح میں ایک جگہ کو استوار کیا۔ اور آمادہ پیکار ہوئے معصوم خاں نے گھوڑا گھاٹ کو لوٹا اور اس گروہ سے لڑنا شروع کیا خان اعظم نے محب علی خاں و شیخ ابراہیم فتحپوری و بابوی منگلی و سکندر حلکنی کو چار ہزار سوار دیگر لسبر کردگی ترسون خاں اس ناحیہ میں روانہ کیا جس وقت کہ قاقشالوں کا حال تنگ ہو رہا تھا یہ لشکر انکے پاس آیا سرکش بھاگ گئے۔ پادشاہی لشکر نے ان کا تعاقب کیا اور گھوڑا گھاٹ میں وہ آیا مرزا بیگ خالدین و وزیر جمیل

اور ۲ آدمیوں نے اپنے وعدہ کے موافق بادشاہی اطاعت کی اور لشکر سے اس لیے
جدا ہوئے کہ معصوم خاں کو ٹھکانے لگائیں۔

جب معصوم خاں یوں ناکام ہوا تو اب لشکر شاہی قتلو کے دفع کرنے کے درپے ہوا۔
اور اس کی طرف چلا۔ خان اعظم پاس دیار کی ہوا سے دل گرفتہ تھا اور ناحیہ کی خدمت
چاہتا تھا۔ اُس نے بادشاہ سے اپنی بدلی کی درخواست کی۔ شہریار مہربان دل نے
فرمان بھیجا کہ اگر کوئی امرا میں سے لشکر کے انتظام کو اور آبادی ملک کو چند روز کے لیے
اپنے ذمہ لے تو خان اعظم اس کو حوالہ کرے اور اپنے اقطاع میں جا کر آسائش کرے
اور نہیں چند روز توقف کرے کہ شہباز خاں وہاں پہنچے۔ اس کو ہم نے خورداد ۹۹۱ سنہ
کو اس خدمت پر مقرر کر کے بھیجا ہے۔

شہباز خاں کو بنگالہ ملی ۹۹۱ھ

پہلے ہم نے لکھا ہے کہ خان اعظم اور کل امرا کی توجہ قتلو کے علاج کرنے کی طرف
تھی۔ اس نے صلح کی درخواست کی جس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر اُسکی گفتار کے موافق
کردار کو کارگزاران شرقی دیار دیکھیں گے تو اسکو ملک اڈیسہ دیدینگے۔ اس اثنا میں صادق خاں
کو خان اعظم اپنا کام سپرد کر کے چلا گیا تو قتلو نے نئی درخواستیں کیں اور وزیر خاں کی طرف
رجوع کی۔ اس نے کشادہ پیشانی سے قبول کیں اور خود حاجی پور کی طرف روانہ ہوا۔
اسکے چلے جانے سے قتلو نے کوتاہ بینی اور تنگ حوصلگی سے نخوت بڑھائی اور ناہنجار [illegible]
پیش کیں جس سے وزیر خاں آشفتہ ہوا۔ اور ہدہ و شیرپور سے قتلو سے لڑنے کو آیا۔ تیر ۹۹۱ سنہ کو
ہردوان میں لشکر آیا۔ پھر قتلو لشکر سے چھ کوس پر آیا اور نیاز مندی کو اپنا پیشرو بنایا جس سے اڈیسہ
پیرداران اور مہدی پور کا اور اضافہ امرا شاہی نے کر دیا اور اس نے بیان کیا کہ بادشاہ کی
میں اطاعت کرونگا۔ اور اپنے بھتیجے کو بہت سے تحائف کے ساتھ درگاہ والا میں
بھیجونگا۔ جب یہ شرائط منظور ہوئیں تو اُس نے اور پاؤں پھیلائے۔ اور ارادہ کیا کہ
باتیں بنا کر لشکر کے سرداروں میں سے ایک کو اپنے ہاتھ میں لائے اور پھر اپنا کام

وزیر خاں کا قتلو اور قتلو سے دوبارہ جنگ کا شکست پانا ۹۹۱ھ

دلخواہ بنائے۔ اسنے درخواست کی کہ میں اپنے بیٹے کو درگاہ والا میں بھیجتا ہوں۔ صادق خاں جریدہ اپنے لشکر سے اور میں بھی چند آدمیوں کے ساتھ آؤں اور ملکر اپنا دل خوش کروں اور اپنی خلاصہ زندگی کو اس کے حوالہ کروں۔ صادق خاں نے دوربینی کے سبب اس امر کو قبول نہیں کیا۔ شیخ فرخ بخش کو یہ خدمت سپرد ہوئی وہ چند ہزاریوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ جو جگہ قرار پائی تھی وہاں آیا۔ قتلو خاں کا نشان نہ پایا۔ لوگ باتیں بناکر قتلو کی منزل گاہ میں شیخ کو لے گئے۔ قتلو بڑی نیازمندی کے ساتھ پیش آیا۔ مگر اس کی نیت میں یہ بات تھی کہ جب آدمی اپنی اپنی جگہ چلے جائیں تو شیخ کو ایک کونہ میں بٹھاؤں اور اس کو گرفتار کر کے اپنا کام بناؤں۔ شیخ کو جب حال کھلا تو اسنے اول شب بھاگنے کا ارادہ کیا جلوخانہ میں کوئی گھوڑا نہ تھا۔ چند جگہ راہ میں اسکی آدمیوں سے مٹ بھیڑ ہوئی اور کئی آدمی مارے گئے۔ شیخ اپنے ہاتھی پر سوار ہوا۔ مگر تقدیر سے فیل فرمان پذیر نہ تھا بیراہ چلا۔ رات اندھیری تھی۔ اسلئے اسکے پیچھے آدمی نہیں پڑ سکتے تھے۔ شیخ نے ندی سے عبور کیا۔ کہ چند تیراندازوں نے اسے آلیا اور زخمی کیا۔ وہ ہاتھی سے اتر کر بھاگا۔ دشمنوں نے جانا کہ وہ ہاتھی کی عماری میں بیٹھا ہے۔ اس رداروی میں ایک ملازم شیخ کا گھوڑا لے آیا۔ وہ لشکر میں آیا تو امراء بےخبر با خبر ہوے اور آب دمودر پر سے گذر کر دو کوس پر اُس سے قریب بنے گئے اس نے قلعہ بناکر لڑنا شروع کیا۔ حصار میں قتلو نے پناہ لی۔ اور دوسرے مقام پر بہادر کوروہ آیا جنگ ہوئی۔ غرہ امرداد ۹۹۱ء کو صادق خاں و شاہ قلی محرم نے بہادر سے لڑکر اسکا قلعہ لے لیا وہ بھاگ کر قتلو پاس چلا گیا۔ دوسرے روز بادشاہی لشکر نے توپیں بلند جگہ پر لگا کر قتلو کو بھگا دیا۔

عرب بہادر حدود سنبل سے بہار میں آیا اور لوٹ مار شروع کی۔ جب خان اعظم بنگالہ سے اس نواح میں آیا تو اسنے سبحان قلی کے ہمراہ لشکر بھیجا کہ اس سرکش کو ٹھیک بنائے۔ ترہت و چنپارن کے درمیان وہ لڑا اور شکست پاکر جون پور میں چلا گیا

عرب بہادر کا شکست پانا ۹۹۱ھ

شہباز خاں کا فتح پانا اور معصوم خاں کابلی کا آوارہ ہونا — ۹۹۲ھ ۱۵۸۴ء

یہاں اُسے راجہ ٹوڈرمل کے بیٹے گوردہن نے اسکو پہاڑوں میں بھگا دیا۔

ہم نے پہلے لکھا ہے کہ معصوم خاں کابلی کو لشکر شکست دیکر اُڑیسہ کی طرف گیا اور قتلو خاں کررانی کو شکست دیکر وہ دریاے دامودر کے کنارہ پر مقیم ہوا۔ لشکر کا ایک حصہ گھوڑا گھاٹ میں قاقشالوں کے بچانے کے لئے گیا۔ تھوڑے دنوں میں معصوم خاں نے بہت سا لشکر جمع کیا۔ اور ملک بھاٹی سے مرزا بیگ قاقشال سے لڑنے آیا وہ ترسون خاں پاس تاجپور کی حدود میں چلا گیا۔ ترسون خاں قلعہ نشین ہوا۔ سرکش شہر ٹانڈہ سے سات کوس پر پہنچے۔ اور اُنھوں نے اس ملک کو تاخت و تاراج کیا اور بڑی شورش مچائی شہباز خاں کو جب اسکی اطلاع پہنچی تو اس نے کچھ لشکر تیز رو کشتیوں میں روانہ کیا کہ معصوم خاں کے آنے کو روکیں اور خود لشکر آراستہ کرکے پٹنہ سے خشکی کی راہ پر چلا اور تھوڑے عرصہ میں آشرب گاہ میں پہنچ گیا معصوم خاں کہ دریاے جمنا کے پاس پہنچ گیا تھا یہیں ٹھہر گیا اور امراء اُڑیسہ جو ٹانڈہ میں تھے۔ اُن کو لکھا کہ قتلو خاں میں بادشاہی لشکر سے لڑنے کی قوت نہیں رہی ہے اسلئے بہتر ہے کہ اُن میں سے کچھ اس جانب کو چلے آئیں۔ اُمراء شاہی میں سے وزیر خاں نے تو قتلو کے دفع کرنے کا اہتمام اپنے ذمہ لیا۔ اور شہباز خاں نے اور سرکشوں کے سزا دینے کا کام لیا وہ دریاے گنگ سے پار اُترا۔ یہ تائید ایزدی ہوئی کہ شاہ بردی ان دنوں میں مر گیا تھا اسکے تین ہزار توپ چی بھاٹی سے آنکر ملازم شاہی ہوئے۔ پھر ترسون خاں اور مرزا بیگ قاقشال شہباز خاں کے لشکر سے آن ملے شاہ قلیخاں محرم اور اُمراء ہنگامہ آرا ہوئے۔ ان دنوں میں خبر آئی کہ سرکشوں کی سپاہ بسر کردگی بابا بھکری قصبہ سنتوس میں گئی ہے اور ترسون خاں کے نوکروں نے ہزیمت پائی ہے شہباز خاں نے محب علیخاں و تیمور بدخشی و سلیم خاں کو روانہ کیا اور بعد ازاں خود جلد چلا غنیم پہلی ہی سے فوج کی آمد سنکر بھاگ گیا۔ بہت سی غنیمت بادشاہی لشکر کو ہاتھ آئی اٹھارہ کوس کی پھر راہ دشوار کو طے کرکے جمنا کے کنارہ پر شہباز خاں

آیا دوسرے کنارہ پر معصوم خاں اس سے لڑنے کو تیار ہوا۔ معصوم خاں نے فرمان
پذیری کے لئے خط لکھے۔ اور شہنشاہ کی شائستہ خوئی کی تحسین اور اپنی لغزشوں کی
نفرین کی اور بہت سی چھپی خبریں لکھیں ایک رات دن میں تین دفعہ پیغام بھیجے۔ جنکے جواب
اُمرا رشاہی نے لکھے۔ آخر کو پیمان نامہ پر لشکروں کے سرداروں کی مہریں ہوئیں اور یہ ٹھہرا
کہ کل کے دن بزم یک جہتی آراستہ ہو کہ تھوڑے ایک فتنہ دوستوں نے اُسے پوشیدہ
لکھکر ڈرایا۔ اور معصوم خاں فرخودی کی داستان یاد دلائی۔ اُسنے فریب اور پند میں
تمیز نہیں کی اور اس سرگذشت کو لکھکر عذر آرا ہوا۔ شہباز خاں برآشفتہ ہوا اور آشنا و بیگانہ
سے ناہنجاری کے ساتھ پیش آیا اور آپس میں دوئی ہوگئی۔ جب سے سرکشوں کی نخوت
بڑھی۔ جنگ جو جوانمرد تیر و تفنگ کی بارش میں دریا سے پار گئے اور ہنگامۂ پیکار گرم کیا
ہم آذر کو سرکش بھاگ گئے اور فتح شاہی کا آوازہ دور و نزدیک سب پاس پہنچ گیا۔ اس
شتاب روی میں نوارہ شاہی نے پہنچا۔ لیکن نرائن زمیندار و افراد قاقشال اپنی کشتیاں
لائے۔ محب علیخاں و سلیم خاں سرمور سرکشوں کے تعاقب میں گئے۔ سرکشوں میں سے مرزا
محمد اور رستم نے پھر کر کارزار اختیار کی۔ شہباز خاں کو جب اُسکی خبر ہوئی تو وہ بہت
جلد اس وقت کہ پیش دست لشکر تنگ ہو رہا تھا آگیا۔ سخت جنگ ہوئی بہت سے
سرکش مارے گئے۔ ذوالقدر گرفتار ہوا۔ پیل ہربرشاد اور اور ہاتھی اور بہت
سا اسباب غنیمت کا ہاتھ آیا۔ مرزا بیگ قاقشال اور سنگرام اور دلپت شائستہ
خدمت بجالائے۔ صبح کو لشکر ندیوں اور دلدلوں سے گذر کر گھوڑا گھاٹ کے قریب آیا۔
اس لشکر کا حصہ کچھ لُٹ گیا۔ معصوم خاں چند آدمیوں کے ساتھ ولایت بھاٹی میں گیا اور
جباری ملک کوچ میں اور ہر گروہ ایک کونے میں چھپا۔ اور شیرپور کی طرف جہاں بہت سے
سرکشوں کا بنگاہ تھا وہ چلے گئے دوسرے دن انسے کچھ لڑائی ہوئی۔ اور زہ و زاد انکا چھینا۔ ڈیڑھ سو آدمی انکے قید کئے
پہلے ہی روز کہ اُمرا آپس میں ملے راہ کے اندر صادق خاں کا ہاتھی شہباز خاں کی

طرف دوڑا قریب تھا کہ اُسکا کام تمام کرے مگروہ بچگیا اگرچہ ظاہر میں کوئی آسیب اُسکو نہیں پہنچا مگر دلمیں اُسکے کینہ بیٹھا۔ پھر اُن میں آشتی کی جگہ دشمنی برملا ہوئی تو صادق خاں پادشاہ کی خدمت میں روانہ ہوا۔

شہباز خاں امرا بہاری سے لڑرہا تھا اور وزیر خاں اڑیسہ کی طرف آمادہ آویزش تھا درمیان کا ملک خالی تھا۔ اس زمانہ میں ولایت کوچ سے جباری گھوڑا گھاٹ میں آیا تاجپور کو سلیم خاں سرمور کے آدمیوں سے اور پرنیہ کو ترسون خاں کے خویشوں سے لے لیا اور دارالملک ٹانڈہ کی طرف متوجہ ہوا۔ حسن علی کوتوال بیمار بستر پر پڑا تھا۔ شیخ الہ بخش صدر دست و پا زنی کرتا تھا اور آدمیوں کی کمی سے حیرت میں تھا۔ ناگہاں شیخ فرید آگیا اسکے آنے سے خوف جاتا رہا وہ آزردہ ہوکر لشکر اڑیسہ سے پادشاہ پاس جاتا تھا وہ پادشاہ کے حکم سے اُلٹا پھرا۔ جب وہ اس حدود میں آیا تو جباری نے کنارہ کیا۔ شیخ تاجپور میں آدمیوں کی دلدہی کرنے بیٹھا اور شاہی گماشتے اپنے تیول میں گئے۔

جب بنگالہ تیسری دفعہ فتح ہوا۔ کار آگاہوں کی ہوشیاری سے میرزا بیگ و وزیر جمیل و خالدین فرخ برغلیق اور بعض آدمیوں نے دولت خواہی کی راہ لی۔ لیکن اپنی بداعمالی کی سبب سے ہمیشہ بیمناک اور سراسیمہ رہتے تھے۔ جب شہباز خاں سے بگڑ کر صادق خاں پادشاہ کی خدمت میں جاتا تھا کہ اماں خواہوں نے اُسکا سہارا ڈھونڈا اور پادشاہ پاس اسکے ساتھ جانے کا قصد کیا مگر پادشاہ نے موہن داس کو گھوڑے کی ڈاک میں اس حکم کے لیجانیکے لئے بھیجا کہ صادق خاں اُلٹا جاکر وزیر خاں سے ملجائے اور امان خواہوں کو نوازش فرمائی کا امیدوار کرکے ہمارے پاس بھیجدے۔ یہ تیز رو فاصد ٹانڈہ میں صادق سے ملا۔ وہ پادشاہی فرمان کا فرمان پذیر ہوا۔ بے قراروں ہمناکوں کی شکیبائی کے لئے اپنے بڑے بیٹے زاہد کو ان کی ہمراہ کرکے پادشاہ پاس بھیجا وہ پادشاہ پاس آئے اور پادشاہانہ نوازش سے سربلند ہوئے۔

روانگی صادق خاں اور بنگالہ کے آدمیوں کا بادشاہ پاس آنا۔ سنہ ۹۸۹

شہباز خاں نے معصوم خاں کو شکست دی تو وہ اُسکے پیچھے ملک بھاٹی کو گیا۔ اس نے ندی نالوں دریاؤں کی طغیانی پر کچھ خیال نہیں کیا۔ اسکو یہ خیال تھا کہ اس ولایت کا مرزبان عیسیٰ جو زبان سے ہمیشہ عقیدت گذار رہتا ہے اسکا امتحان ہو جائیگا۔ اگر وہ معصوم خاں اور اور ناسپاسوں کو ہمکو سپرد کر دیگا تو البتہ اُسکے دل اور زبان کی یکرنگی ظاہر ہوگی اور اگر یہ نہو گا تو اس کا پردہ فاش ہو جائیگا اور اپنی نادرستی کا پاداش پائیگا۔ بھاٹی کے معنے نیچی زمین کے ہیں۔ چونکہ بنگالہ سے وہ زیادہ اونچا ہے اسلئے اُسکا یہ نام ہے مشرق سے مغرب تک اسکا طول قریب چارسو کوس کے ہے اور جنوب سے شمال تک قریب تین سو کوس کے عرض ہے اُس مُلک کے مشرق میں دریا رشور و ملک حبشور ہے مغرب میں کوہستانی ملک۔ جنوب میں ٹانڈہ۔ شمال میں دریا رشور و نتہار۔ کوہستان تبت۔ اس ملک کے سردار کا باپ راجپوتان بنس میں سے تھا۔ اسی زمین میں بھی رود رامیں جنکے سبب سے وہ ہمیشہ نخوت اور سرکشی کرتا۔ سلیم شاہ کے عہد میں تاج خاں و دریا خاں بڑی سپاہ لے کر اس ملک پر چڑھے اور اسکو اپنا مطیع کیا مگر تھوڑی مدت کے بعد پھر وہ ناسپاس ہوا اُنہوں نے اُسکو پکڑ کر مار ڈالا اور اسکے دو بیٹوں عیسیٰ اور اسماعیل کو سوداگروں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ قطب الدین خاں عیسیٰ کے چچا نے جب نیکو خدمتی کے سبب سے تازہ روئی پائی تو وہ سخت تگاپو کرکے توران کی زمین سے ان دو بھائیوں کو لایا۔ عیسیٰ نے پختگی و آہستگی سے نام پیدا کیا۔ بنگالہ کے بارہ زمینداروں کو اپنا تابع کیا۔ پیش بینی اور دور اندیشی کے سبب سے بنگالہ کے مرزبانوں کو ہمیشہ پیشکش بھیجتا رہا مگر اُنکے پاس کبھی نہیں آیا دور ہی سے زبان سے پیرو ہونے کا اقرار کرتا رہا۔ جب دریا رگنگ کے کنارہ پر خضر پور کے نزدیک بادشاہ کا لشکر اُترا۔ یہ جگہ اس دربار میں آنے جانے کی گذرگاہ تھی۔ اسلئے یہاں دریا کے دونو کناروں پر استوار قلعے بنائے گئے تھے تھوڑے دنوں میں یہ دونوں قلعے بادشاہی لشکر نے خوب لڑکر فتح کر لئے۔

ملک بھاٹی کا حال اور ترسون خاں کا مارا جانا ۹۹۲ھ

سنار گانو اُس کے ہاتھ آگیا۔ کرابوہ (کراپور) میں کہ اسکا بنگاہ تھا پہنچا اور اُس آباد شہر کو لوٹا۔ پھر فوجیں بارہ سمدر پر کہ ایک بڑا شہر ہے گیا اور وہاں سے بہت غنیمت ہاتھ آئی پھر دریاے برہمپتر پر لشکر آیا۔ یہ بڑا دریا ہے آسام سے آتا ہے معصوم خاں تھوڑا سا لڑ کر ایک جزیرہ میں بھاگ گیا۔ قریب تھا کہ وہ دستگیر ہوتا کہ اس پاس عیسیٰ جو والیت کوچ میں گیا ہوا تھا۔ بڑا بہادر لشکر اور سامان لیکر آن پہنچا۔ لشکر شاہی نے کنار سمندر کی برابر مقام ٹونک میں دریاے برہمپتر کے کنارہ پر خیمے ڈالے اور قلعہ بنایا۔ بری اور بحری سخت حملے ہوئے۔ مگر ہر دفعہ لشکر شاہی کو فتح حاصل ہوئی۔ ترسون خاں کو بھیجا کہ سامان لشکر کرکے بجراپور میں جاکر غنیم کو دو دو اکر دے قصبہ بھوال سے دو راہیں جاتی تھیں۔ ایک مخالفوں کے مقام سے بہت دور تھی۔ دوسری دریا کے کنارہ پر اس سے بہت نزدیک ترسون خاں اس راہ سے گیا معصوم خاں کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تیز دستی کرکے جلد کرنے گیا۔ شہباز نے یہ اطلاع پاکر محب علیخاں و راجہ گوپال و کھنکار کو روانہ کیا۔ اور ایک تیز رو قاصد کو بھیجا کہ وہ ترسون خاں کو اس خوف کی اطلاع دے اور کہے جب تک یہ لشکر کمک کو نہ پہنچے وہ کسی مستحکم جگہ میں ٹھہرے اور لڑائی نہ لڑے۔ ترسون خاں کو شہباز خاں کی طرف سے غم پیدا ہوا کہ فریب کاری سے اُس طرف سرکش اس لئے آئے ہیں کہ ایک گروہ کو شہباز خاں سے جُدا کر دیں۔ فرستادہ نے آنکر بہت کوشش کی۔ اور ہمراہیوں نے احتیاط کی اور سودمندی۔ بے پروائی زبان زدگی گذارش کی۔ ناگزیر اسکو مقام اور پناہ کی جستجو کرنی چاہیئے تھی۔ مگر اس نے ان باتوں کی کچھ قدر نہیں کی۔ اسی اثنار میں ایک فوج نمودار ہوئی جسکو وہ اپنی کمک سمجھا اور مہمانی کے سامان تیار کرنے لگا۔ چند قدم گیا تھا کہ معلوم ہوا کہ غنیم کا لشکر ہے ہر چند ہوا خواہوں نے سمجھایا کہ پناہ گاہ میں چلا جائے اور وہاں اپنا لشکر جمع کرے کمک کا انتظار کھینچے۔ مگر کچھ سودمند نہ ہوا۔ لڑنے پر تیار ہوا۔ کچھ آدمی یہ کہکر کہ سامان نبرد تیار کرتے ہیں جُدا ہو گئے۔ پندرہ آدمی اسکے ساتھ تھے کہ لڑائی شروع کی اسکے

خویشی فریدون حسین و علی یار نے نقد زندگی دیکر ناموس جاوداں خریدی۔ اور ترسون خاں زخمی ہو کر زندہ گرفتار ہوا۔ معصوم خاں نے مہر و محبت کی باتیں بنائیں کہ اسکو اپنا ہمداستان بنائے مگر اس اخلاص سرشت نے ان باتوں پر سرزنش کی۔ اس نے اسکو مار ڈالا پیرانہ سری میں یہ نیک نامی جاوید حاصل ہوئی۔

قتلو کا راج کا مطیع ہونا ۹۹۲ ہجری

ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ لشکر بنگالہ کچھ تو شہباز کے ساتھ بھاٹی گیا تھا اور کچھ وزیر خاں کے ساتھ حدود بردوان میں قتلو خاں کی چارہ سازی کے لئے بیٹھا تھا۔ اس لشکر سے قتلو مدارا کی باتیں سنا رہا تھا کہ صادق خاں آیا۔ وہ معاملہ دانی کا کاربند تھا۔ قتلو اسکے خوف سے بھاگ کر اڈیسہ میں گیا۔ امرا اسکے تعاقب میں ایک کوس کے فاصلہ پر پہنچے وہ سراسیمہ ہو کر ہر تپر کے درخت تلے میں ٹھہرا۔ زر کے ساتھ زاری شروع کی۔ امرا نے آزورزی اور آزار لشکر کشی کے سبب سے اسے منظور کیا اور اسی منشور شاہی کو دستاویز بنایا کہ اگر قتلو اطاعت اختیار کرے تو اڈیسہ اس کو دیدیا جاوے۔ اس نے سپاس گذاری کے لئے اپنے برادر زادہ کو بادشاہ کی خدمت گری کے لئے روانہ کیا اور ساتھ ہاتھی اور اور اسباب نذر کے لئے بھیجا۔ شیخ ابراہیم فتحپوری انکو اوائل تیر سنہ ۹۹۲ میں بادشاہ کی خدمت میں لایا جب یہ انجمن آشتی پیراستہ ہوئی تو وزیر خاں ٹانڈہ میں واپس آیا اور صادق خاں پٹنہ میں گیا۔ ہر ایک نے اپنی جاگیر میں جاکر ہنگامہ شادی آراستہ کیا۔

شہباز خاں کا ملک بھاٹی سے ناکام پھرنا اور اسکا دوبارہ لڑکر [illegible] ۹۹۲ ہجری

جب شہباز خاں حدود بھاٹی میں آیا۔ دریا برہم پتر کی ایک شاخ پنار ندی تھی اسکے کنارہ پر اسنے اپنا بنگاہ بنایا۔ اس نے نہ ناسپاسوں کو مارا نہ اُن کو آوارہ کیا بلکہ پیغام گذاری اور اندرز گوئی سے اُن کو اپنی راہ پر لانا چاہا۔ اس کے جواب میں عیسے نے بھی چکنی چپڑی باتیں بنائیں اور زنانہ باتوں میں کاٹا جیب معلوم ہوا کہ زبان و دل میں یکتائی نہیں ہے تو سوزش آویزش برپا ہوئی سات مہینے تک لڑائی رہی۔ مناسب یہ تھا کہ دونوں چراغ آگہی کو روشن

کرتے اور نیالش گری اختیار کرتے۔ مگر خود غنودگی سے تیرگی نے افزائش پائی اور نخوت بڑھائی۔ شہباز خاں خود بینی سے دل آزاری کرنے لگا اور سر رشتۂ تدارک کو چھوڑ کر بیہودہ باتیں بنانے لگا۔ مخالفت کی بھی تیہ کاری زیادہ ہوئی۔ لوٹ کا بازار گرم ہوا۔ سرمایۂ زندگی گراں ارز ہوا۔ غنیم کو یہ خیال تھا کہ برسات میں لشکر شاہی ضرور الٹا جلد جائیگا۔ لیکن بارش کم ہوئی تو شرمندگی مٹانے کے لئے اس نے بہت سے بیلدار جمع کرکے دریا برہمپتر کو پندرہ جگہہ سے کاٹ کر بادشاہی مورچلوں میں چھوڑ دیا کہ جس سے وہ بالکل ڈوب گئے اور بڑی جنگی کشتیاں بلند سر اور لمبی شہباز خاں کے قلعہ کے پاس لایا۔ ان کشتیوں کو یہاں کے لوگ پتارہ کہتے ہیں جن سے توپ اندازی اور بندوق افروزی شروع ہوئی اور لشکر شاہی میں پراگندگی آئی کہ مخالفوں کی کشتیوں کا سرگروہ بندوق سے مارا گیا۔ کئی کشتیاں ٹکرا کر ڈوبیں اور دفعتاً پانی کم ہوگیا۔ ناچار دشمن بھاگے اور بہت سے سیلاب نیستی میں دھسے۔ ہر مورچل میں بادشاہی لشکر کو فتح ہوئی مگر سید حسن تھانہ دار ڈھاکہ کو مغلوب کرکے پکڑ لیے اور اسی گرفتار کی معرفت صلح کا ڈول ڈالا۔ شہباز خاں نے اُسے قبول کیا۔ عیسیٰ خاں نے فرمان پذیری پر کمر باندھی اور خدمت گذاری کو وہ اپنی رستگاری سمجھا۔ قرار یہ پایا کہ بندر سنارگانو میں پادشاہی داروغہ ہووے معصوم خاں حجاز جاوے۔ اور ہمیشہ پیشکش بھیجی جائے۔ عیسیٰ نے بہت سا مال خرچ کرکے امرا کو راضی کرلیا۔ لشکر شاہی نے یورش کیا۔ جب شہباز خاں ندیوں پر سے اُتر کر بھوال میں آیا اور اُسکو اُمید تھی غنیم کی گفتار کردار کی صورت میں آئے۔ لیکن لشکر شاہی کے بدگوہروں نے ایسی ناسزا گفتار اس زمیندار کے ساتھ کیں کہ وہ دودلہ ہوگیا اب وہ کچھ اور شرطیں پیش کرنے لگا۔ سپہ آرا کا دل آشفتہ ہوا۔ اس نے کہا کہ ہر وقت رائے کو بدلنا اور نئی باتیں بنانی درست اندیشوں کا کام نہیں ہے۔ سخت روئی اور درشت گوئی کا آغاز ہوا اور آویزش

پرآمادگی ہوئی ۔ ۱۹ ر مہر ماہ الہی سنہ ۲۹ ۹۹۲ کو عیسیٰ لڑائی پر متوجہ ہوا ۔ اُمراء شاہی نے اپنی کوتاہ بینی و تباہ سگالی سے اپنے نقصان میں فائدہ جانا ۔ اور شہباز خاں کی شکست کو اپنی دلبستگی ۔ اول محب علی خاں بغیر لڑے لشکر سے اُٹھکر چلا گیا ۔ ہر ایک امیر اپنی جگہ چھوڑ جہاں اُسکا جی چاہا چمپت بنا شاہ قلی محرم کچھ لڑا ۔ آدمیوں کے ہمراہی نہ کرنیسے زخمی ہوا اور بھوال کو چھوڑ دیا ۔ شہباز خاں خواب سے بیدار ہوا ۔ تالیف قلوب کرنے لگا ۔ لیکن پشیمانی بیجا میں فائدہ نہ تھا ۔ ناگزیر دارالملک ٹانڈہ کیطرف چلا ۔ سارے اندوختے برباد گئے ۔ پسران میر عدل اور اور آدمی اسکے اسیر ہوئے ۔ شیخ محمد غزنوی اور بعض اور اُمراء ڈوب گئے ۔ کھنکار و سید عبد الرحمن و راجہ گوپال و میرزادہ علی خاں اُسی ہنجار بازگشت میں ترخاں ، دیوانہ و مرزا محمد و نوروز علی قاقشال سے جو غارت گری سے واپس آگئے تھے مل گئے اور بدنصیبی سے یہ سمجھے کہ وہ اپنے ہی ہیں ۔ جب دونوں مل گئے تو لڑائی ہوئی نوروز مارا گیا اور سرکش بھی بھاگ گئے ۔ بادشاہی لشکر کو فتح ہوئی ۔ بہت غنیمت ہاتھ آئی آٹھ روز بعد یہ اُمراء شیرپور میں آئے ۔ شہباز خاں کا ارادہ تھا کہ یہیں لشکر کو درست کرے اور پھر جاکر لڑے ۔ مگر اسکی بدخوئی کے سبب سے اسکے ہمراہ عاجز ہوگئے تھے وہ اسبات پر دل نہاد نہ ہوئے ۔ جب وہ ملک ٹانڈہ میں آئے تو وزیر خاں کشادہ پیشانی اور گرم خوئی سے پیش آیا ۔ شہباز خاں اپنے پہلے منصوبے کو کام میں لانا چاہتا تھا ۔ مگر رایوں میں اتفاق نہ ہوا اور دلوں سے دورنگی نہ نکلی ناگزیر اُس نے پادشاہ پاس جانے کا قصد کیا ۔ بادشاہ نے آگہی پاکر چند سزاول بھیجے کہ اُسکو واپس بھیجیں ۔ اور ہر ایک امیر کے مناسب سرزنش کرکے نصیحتیں ہوش افزا فرمائیں سعید خاں اور اور صوبہ بنگ و بہار کے اور جاگیرداروں کے نام فرمان صادر کیا کہ یک جہتی کرکے اس بومی کو سزا دینے میں کوشش کریں ۔ اول بیشیرو خاں و خواجگی فتح اللہ کو اس خدمت پر روانہ کیا اور بعد ازاں راے راسنگھ کو بھیجا ہے اور مجاہد کنبوہ کو کہ تلخ سخنوں سے شیریں کام کرکے ہنگامہ کو گرم کریں ۔

معصوم خاں کا دوبارہ شکست پانا

ہم نے اوپر لکھا ہے کہ بھاٹی کے لشکر کو خود پرستی اور ناتواں بینی سے کیا پیش آیا۔ شہباز خاں شکایت کرتا ہوا بادشاہ کی طرف چلا۔ صوبہ بہار کے اُمرا میں سے محب علی خاں کے سوا کوئی اپنے تیول میں نہیں بیٹھا۔ عیسیٰ نے دور اندیشی سے اپنا بنگاہ نہیں چھوڑا۔ اسکے اشارہ سے معصوم شیرپور میں آیا۔ بعض سرکشوں نے مالدہ سے لیکر ٹانڈہ سے بارہ کوس پر عمل دخل اپنا کرلیا۔ وزیر خاں کو لڑنے کی تو توفیق نہ ہوئی مگر وہ اپنی جگہ کو سنبھالے رہا۔ اور شہر بزرگ ٹانڈہ کو دشمنوں سے بچا لیا۔ بادشاہی سزاولوں نے تلخ گوئی اور راست گذاری سے شہباز خاں کو بازگشت پر اور بہار کے اور جاگیرداروں کو مقصود پر رہ گرای کیا اور یک جہتی اُن میں پیدا کی۔ شہباز خاں پاس فرمان والا آیا کہ اگر اور سپاہ درکار ہو تو راجہ توڈرمل اور مُطلب خان و شیخ جمال بختیار کو بھیجیں۔ اسکی عرضداشت جواب میں آئی کہ یہاں لشکر بہت ہے اور سب کارگذاری پر آمادہ ہیں۔ ۸ ذی الحجہ ۹۹۳ھ کو وہ بنگالہ میں آئے اور ولایت بھاٹی کی تسخیر کا ارادہ کیا۔ دشمن سراسیمہ ہوکر بے لڑے بھاگا۔ جمنا کے کنارہ پر اطلاع ہوئی کہ معصوم خاں شیرپور میں ہے اور اسکو خیال بھی نہیں ہے کہ لشکر شاہی دریا سے پار آئیگا۔ شہباز خاں نے دریا کے پار جانے اور آگے بڑھنے کو لشکر سے کہا کہ امرا نے اسکو پسند نہیں کیا۔ رامداس اور خواجگی فتح اللہ کی کاردانی اور کوشش سے بہانہ ورزی اور گراں پائی کو جا نہیں رہی کام وناکام اس دریا سے وہ گذرے۔ جب نزدیک پہنچے تو غنیم بھاگا۔ کچھ دشمن اسیر ہوئے بہت غنیمت ہاتھ آئی۔ ملک کو چھوڑنا اور سب امرا کا دشمن کے پیچھے جانا مناسب نہ تھا اسلئے شہباز خاں اور شاہ قلی یہاں رہے وسعید خاں و وزیر خاں و صادق خاں و محب علیخاں و سید عبداللہ خاں آٹھویں بہمن کو آگے روانہ ہوئے۔ رامداس اور خواجگی فتح اللہ ان کے ساتھ ہوئے جو ملک پہلے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب وہ حاصل ہو گیا تھا اور غنیمت بھی ہاتھ لگی تھی۔ اسلئے یہ سب شیرپور میں آئے۔ اب لشکر میں دوئی اور دورنگی نہیں تھی۔

جب لشکر شیرپور میں آیا معصوم خاں اُڈیسہ کی طرف فتح آباد سے بھاگا اور رستم خاں تا قشال نے اسطرف توقف اس نظر سے کیا کہ بادشاہی سپاہ کے دو ٹکڑے ہوجائینگے تو مجھے موقع ملیگا کہ میں اُسیر دستبرد کروں۔ اسے معصوم خاں کے آنے کا علم بھی نہ ہوا تھا کہ اس سرکش نے لشکرگاہ شاہی سے بارہ کوس پر سورش برپا کی۔ شاہ قلی محرم و محب علی خاں و راجہ گوپال داس و میرزادہ علی خاں اور خواجہ باقر لڑنے کو چلے تو وہ بھاگا اور امرا شاہی نے اسکا تعاقب شہزادپور تک کیا۔

تباہ پیچ و غرض پرستی عقل صلاح اندیش کو دیوانہ بناتی ہے اور گوش حقیقت شنوا کو سیماب غفلت میں آگندہ کرتی ہے۔ پادشاہ کی نصیحتیں کچھ کام نہ آئیں۔ بدشگالوں کی ہمراہی شہباز خاں کو شورش میں لائی۔ پھر اسنے مدارا کی راہ چھوڑی۔ صادق خاں کا دل بیکار رہوا۔ اور زبان دلشکنی کرنے لگی۔ اس گروہ میں جانفشانی ہمت تھی مگر خرد معاملہ دان ہمراہ نہ تھی کہ اپنے خداوند اور پادشاہ کے برآمد کار میں خویشتن بینی کو چھوڑ کر بزم آرائے دوستی ہوتے۔ اپنی ناستودہ خواہشوں کے زیر باد ہوئے اور بے ہنگام خشم شروع کیا اور انصاف کو چھوڑا اور بے راہ چلے۔ اگرچہ سرگروہ حرف اخلاص کو زبان پر لاتے تھے مگر اس میں راستی نہ تھی۔

پہلے اخلاص مندوں کی دو قسمیں دانشمند کر گئے ہیں۔ ایک وہ اخلاص مند ہیں جو اپنی آئین یکتائی کو اپنی سود اندوزی کے لئے قبول کرتے ہیں اور اس روش سے اپنی خودکامی کے پایہ کو بلند کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ سوداگروں سے آگے قدم رکھتے ہیں لیکن آگاہ دل ان سود بندوں پر یگانگی کا نام نہیں رکھتے ہیں دوم وہ اخلاص مند والا نگہ حقیقت ~~پرست ہیں کہ~~ غرض دشمن دل کو فروغ دوستی سے روشن کرتے ہیں۔ خدا کے برگزیدوں کو اپنا سردار بناتے ہیں اور تعجب اسمیں یہ ہے کہ سرمایہ کامروائی ان کو اس طرح ملتا ہے جیسے کہ کسان کو مویشی کا چارہ درازی داستان و کوتہی گفتار کے بعد امرا شاہی نے مدارا کے وقت درشت گوئی اور سخت گیری اختیار کی۔ ان دنوں میں معصوم خاں کی شورش کی شہرت تھی

حاشیہ: رستم خاں قاقشال کا فرار ... ۹۹۳ھ ... پادشاہی لشکر کی ... دو گروہوں میں ... ۹۹۴ھ

یہ قرار پایا کہ غنیم دو جگہ ہے اسلیئے بادشاہی فوج بھی دو فوجیں ہو کر خدمت بجائے۔ ۲۰ بہمن ۹۹۳ کو کو وزیر خاں و شاہ قلی خاں محرم و صادق خاں و محب علی خاں و راجہ گوپال و کیجک خواجہ نے معصوم خاں کو شکست دینے کی خدمت لی اور جدائی اختیار کی شہباز خاں و بہادر خاں و سید عبداللہ و میرزادہ علی خاں بابوے منگلی تمر بدخشی و شاہ قاسم نے اور ترسون خاں کے بھائیوں ابابکر اور رام نے اسطرف کے بدنہادوں کی چارہ گری کو اپنے ذمہ لیا۔ اسی طرح ہر روز کی خانگی پرخاش دور ہوئی اور ہر گروہ اپنی خدمت پر مستعد ہوا۔

معصوم خاں نے لشکر شاہی کی آمد سُنی تو اسنے مقام ترمہانی جہاں گنگا و جمنا و سالبی و برہمپترو ملتی ہیں دو قلعہ بنائے (آرائش محفل میں لکھا ہے کہ ڈھاکہ سے کچھ فرسنگ پر گنگا کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ ایک شاخ پدماوتی تو مشرق کی طرف بہ کر برہمپتر میں چاٹگام میں ملتی ہے اور دوسری شاخ شمال کو بہ کر تین شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے جن کے نام سرستی جمنا۔ گنگا ہیں) بیگ محمد والغ بیگ اور چیند اور بدگوہروں کو زمینداروں کے ساتھ یہاں بٹھایا۔ اسکو وہ دربند سمجھا اور آپ پیچھے جاکر ٹھہرا۔ امرا پیکار ہنگامہ آرا ہوئے عیسٰی نے کارداںوں کو بھیجکر لابہ گری کی مگر اسکی شنوائی نہ ہوئی۔ لشکر شاہی نے کشائش قلعہ پر ہمت لگائی۔ سخت لڑائیاں ہوئیں۔ ہر بار غنیم ایک انبوہ کے ساتھ بھاگا۔ ۱۲ فروردین کو ایک قلعہ کو کشتیوں کی لڑائی سے لے لیا اور دوسرے کو دوسرے دن فتح کر لیا۔ پھر معصوم خاں کی طرف توجہ کی۔ اس میں لڑائی کی تاب نہ تھی۔ اس نے دریا نوردی اختیار کی شتاب روی کے ہجوم سے اور شورش دریا سے اسکی کشتی ڈوبی۔ بہت تگاپو کرکے نیم جان کنارہ پر گیا۔ اسکی دوسری دفعہ بے آبروئی ہوئی طاہر تاجپور میں شورش برپا کر رہا تھا۔ تمر بدخشی نے بُری طرح لڑ کر شکست پائی جس سے وہ اور بدمست ہوا۔ ترخاں دیوانہ دارالملک ٹانڈہ میں آیا اور فتنہ بپا کیا اور بعض نے گھروں میں آگ لگائی۔ شہباز نے قاسم خاں و محمد خاں و محمد جان نثار کو

معصوم خاں کابلی کا ذلیل ہونا ۹۹۳ھ

۹۹۴ھ ترخاں دیوانہ وطاہر اور معصوم کابلی کا ٹانڈہ میں اودھم مچانا

بھیجکر اسکی خوب مالش کی اور وہ ولایت مورنگ میں بھاگ کر گیا اور اسطرح ظاہر بھی ناکام رہا۔

• جب اُمرار بہار خدمت گذاری کے لئے بنگالے دوڑے گئے۔ یوسف افغاں نے
تاخت وتاراج شروع کی۔ حبیب علی پور محب علیخاں جوش جوانی میں آکر اُس سے
لڑا اور مارا گیا۔ محب علیخاں اس سے بڑا پریشان ہوا اور جانے کے لئے بیتاب
ہوا۔ مگر اُمرار بنگالہ نے اسے جانے نہ دیا۔ شاہ قلی خاں محرم بادشاہ پاس جاتا تھا
اس سے کہا کہ وہ راستہ میں یوسف کو ٹھیک بناتا جائے اس نے تھوڑے دنوں
ان سب باغیوں کو برباد کردیا۔

صادق خاں کا بنگالہ میں مقرر ہونا ۹۹۳ھ

اوپر بیان ہوا کہ اُمرار بنگالہ نے اپنی خودبینی اور غرض پرستی سے رشتہ یکدلی کو
توڑا۔ صادق خاں ایک طرف ہوا اور شہباز خاں دوسری طرف۔ جہالت کی سرخی
تھی اس لئے یہ جُدائی سودمند نہ ہوئی۔ کام دونوں نے چھوڑا۔ لیکن آپس میں کہیں
توزی شروع کی۔ بادشاہ نے خواجہ سلیمان کو نصیحت کے لئے فرمان دیکر بھیجا کہ ایک کام
دو گروہ کو سونپنا شائستگی نہیں رکھتا۔ خیر سگال کار دیدہ انجمن آراستہ کریں اور سپاہ کی سرداری
میں ژرف نگہی کو کام میں لائیں ان میں سے جو چاہے بنگالہ کا انتظام اپنے ذمہ لے لے
اور دوسرا صوبہ بہار میں چلا جائے۔ خواجہ اول صادق خاں پاس گیا اُس نے خامکاوی
سے بغیر اسکے کہ دونوں گروہ جمع ہوں بنگالہ کے انتظام کو اپنے ذمہ لے لیا۔ شہباز خاں
اور سعید خاں اور سردار اس سے درہم ہوئے بغیر اسکے کہ بنگالہ بالکل فتح ہو وہ بہار سے
باہر نکل گئے۔

عیسیٰ زمیندار کا فرمان پذیر ہونا ۹۹۳ھ

لشکر شاہی کے آنے سے عیسیٰ زمیندار اگرچہ پریشان خاطر تھا مگر اس نے
دیکھا کہ بزرگان لشکر اپنی غرض پرستی اور کوتاہ بینی سے باہم عناد رکھتے ہیں تو اس
نے کچھ دنوں آرام کیا۔ عاقبت بینی سے اس نے صادق خاں اور اور سرداران
لشکر کے پاس اپنے کاردواں آدمی بھیجے۔ اور لابہ گری اختیار کی

یہ قرار دیا کہ معصوم خاں کابلی کو حجاز روانہ کرے اور خود بندگان سعادت سرشت میں داخل ہوکر
خدمت گذاری کرے اور اپنے خویشوں میں سے ایک کو بادشاہ کی پرستاری کے لئے بھیجے
اور عمدہ پیشکش روانہ کرے اور اس شورش میں لشکر شاہی کا جو کچھ گیا ہو اُسکو حوالہ کرے
وہ اس سامان میں تھا کہ بنگالہ سے شہباز خاں وسعید خاں اور امرا چلے آئے جسکا اوپر بیان
ہوا تو پھر عیسیٰ نے رشتہ نیاز کو چھوڑا اور بڑی خواہشیں کرنے لگا۔ اُمرا نے ولایت کا ایک
حصہ اُسکو دیا اس نے بھی کچھ اطاعت اختیار کی۔ ہاتھی اور توپ وغیرہ جو کچھ اسکو ہاتھ آئے
تھے۔ واپس بھیجدئے۔ معصوم خاں کو اُس نے نہیں بھیجا مگر فتنہ اندوزی سے باز رکھا۔ شہریار نے
صلح کو منظور کرلیا مگر امرا کے اس طرح چلے آنے کو ناپسند کیا۔ خواجہ سلیمان نے عرض کیا کہ
کہ میں نے شہباز خاں سے ہرچند کہا کہ چند روز بنگالہ میں توقف کرے مگر اُس نے غصہ سے
قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے خواجہ کو ناظر دولت کے ساتھ پھر روانہ کیا کہ وہاں جاکر شہباز خاں
کے کام سے مطلع ہو اور امرا انکو پیش کرے

امرا کرارانی کی فوجکشی کا رد ہونا سنہ ۹۹۲

اس زمانہ میں کہ اس ملک کو کچھ امن تھا امیر اس سبب سے کہ عیسیٰ اپنی قرارداد کا کاربند
ہو لواحی اڈیسہ میں چشم براہ تھے کہ اس بدعقل نے سلیمان سرہٹنی کی دستیاری سے
فتنہ انگیزی کی اور افغانوں کا ایک ہنگامہ جمع ہوا اور لوٹ مار کرنے لگا۔ وزیر خاں
حاکم بردوان پر گیا۔ بردوان کے قریب لڑائی ہوئی۔ خوب لڑکر بردوان میں مجبوراً وہ حصاری
ہوا اُمرا نے اطلاع پاکر اس کی کمک کے لئے فوج روانہ کی خود بھی پیچھے چلے۔ جب پہلے
فوج غنیم سے چند کوس پر پہنچے تو دشمنوں نے حصار کا محاصرہ چھوڑ دیا
اور کار زار پر آمادہ ہوئے۔ دریائے منگل کوٹ پر لشکر شاہی ٹھہرا
اس پاس اور سپاہ بھی آگئی اور دریا سے ہاتھی پر سوار ہوکر پایاب ہوسکتے
تھے اسی اثنا میں خواجہ سلیمان وناظر دولت بادشاہ کے پاس سے آئے
اور فتح کی نوید لائے۔ تھوڑے عرصہ میں دریا کی برابر دوگلی سے قلعے

بنالئے کہ دریا سے گذرنے کے وقت مخالف چیرہ دستی نہ کرے ۔ ۱۳ خرداد ۹۹۳ھ کو امرا کو فتح ہوئی
اور انجمن نشاط آراستہ ہوئی۔ رات بھر بارش رہی صبح کو سپاہ نے بارش میں دریا سے عبور
کیا۔ کچھ آدمی اور گھوڑے سیلاب میں بہہ گئے۔ غنیم نے صف آرائی کی۔ صادق خاں صفیں آراستہ
کرکے قلعہ میں جاکر سو رہا اور کار آگاہوں کو مقرر کیا کہ فوجوں کو درست رکھیں۔ دوپہر ہوئی تو
دشمنوں نے یہ خیال کرکے کہ آج لڑائی نہیں ہوگی وہ اپنے بنگاہ کو چلے گئے تو صادق خاں نے
لڑنے کا ارادہ کیا اور امرا سے کہا کہ میری یہ تدبیر اس لئے تھی کہ دشمن عنان تاب ہو۔ اب میں
لڑنے پر آمادہ ہوں۔ دلاور میدان جنگ میں آئے غنیم نے بھی اپنے لشکر کے دو حصے کئے ایک
وزیر خاں سے اور دوسرا صادق خاں سے لڑنے لگا۔ وزیر خاں کو شکست ہونے کو تھی کہ
محب علیخاں و میرزادہ علیخاں نے اُسے جاکر سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر میں مخالف کو بے آبرو کیا
تین سو آدمی غنیم کے مارے گئے اور سو آدمی بادشاہی کام میں آئے۔ شاہی لشکر نے
تعاقب کرکے ہزار آدمی اور مارے اس ملک سے فتنہ دور ہوا۔

رستم قاقشال کا مارا جانا ۹۹۳ھ

جب بنگالہ کو بغیر انتظام کے چھوڑ کر امرا باہر چلے آئے تو رستم قاقشال نے گھوڑاگھاٹ
کے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ سیف الملک و خواجہ مقیم نے قلعہ کی اچھی نگہبانی کی اس اثنا میں
بابوے منگلی لشکر پور سے آیا۔ مشہور یہ ہوا کہ محب علیخاں آکر بلاہے۔ غنیم قلعہ کو چھوڑ کر
دور چلا گیا۔ بادشاہی لشکر نے باہر آنکر ہنگامۂ پیکار گرم کیا اور اپنے گروہ کے ساتھ
مارا گیا۔ رستم بھاگا اور اپنے گروہ کے ساتھ مارا گیا۔ اس کا بیٹا قوش قالمی اسیر
ہوا۔

صوبہ بنگالہ کا امن امان ۹۹۳ھ

بادشاہ کو معلوم ہوا کہ تنہا وزیر خاں اس ملک کی مہمات کو سرانجام نہیں
کرسکتا اور ابھی سرکش اپنی ناسپاسی سے باز نہیں رہتے۔ اسلئے شہباز خاں کے
چھوٹے بھائی کرم اللہ کو بادشاہ نے بھیجا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو بنگالہ لیجائے
بادشاہ دریا ربہت کے کنارہ پر تھا کہ اسنے سُنا کہ شہباز خاں اسکی خدمت
میں بیتابانہ چلا آتا ہے تو اُس نے سزاول بھیجے کہ اسکو کام ونا کام اُلٹا لیجائیں

وہ جونپور میں اس سے ملے۔ وہ ۲۰ بہمن ۹۹۴ھ کو بنگالہ کا پاسبان ہوا زبان کے دل آسے سے اور دست کشادہ سے اس نے دلوں کو صید کیا۔ سب کج گرا افغانوں نے اطاعت اختیار کی اور شورشوں کی گرد بالکل بیٹھ گئی۔ زیردستوں کو آسودگی ہوئی۔ عیسیٰ کی کین توزی کے سبب ملک بھاٹی کو سپاہ روانہ کی۔ صادق خاں نے جو ملک آشتی کے سبب سے دیدیا تھا وہ لے لیا۔ بندر چاٹ، گانو تک قبضہ ہوگیا۔ عیسیٰ نے بہت سے تحائف بھیج کر لابہ گری کی اور گذارش کیا کہ معصوم نے اپنی بدبختی سے ناسپاسی اختیار کی تھی اب وہ لرزان ہی چاہتا ہے کہ چند دنوں غائبانہ شائستہ سے پرستاری کرے اور اب وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے۔ یہاں جواب ملا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ حجاز جاوے اور وہاں سے پھر کر بادشاہ پاس آئے۔ قتلو سے بھی افغان جدا ہو کر شہباز خاں سے آملے اس نے ملک اڈیسہ اسکو دیدیا۔

اڈیسہ اور دکن کے درمیان ایک آباد ملک کوکرہ ہے۔ یہاں کا زمیندار مادھو سنگہ اس سبب سے کہ ایک کوہ دشوار گذار اس پاس تھا بڑا غرور کرتا تھا۔ پادشاہی لشکر نے وہاں جاکر لوٹ مار کی اس نے بھی مالگذاری کا اقرار کرکے اطاعت اختیار کی۔ مرزبان مگھ نے بہت سے ہاتھی اور مال اسباب بھیجکر یک جہتی اختیار کی تعجب ہے کہ امراء بزرگ میں سے سواے وزیر خاں کے کوئی اور نہ تھا کہ یہ سب کام شائستگی کے ساتھ ہوتے اس دیار میں سب سے زیادہ ضروری اسباب نبرد میں سے نوارہ ہے۔ اسکا بھی انتظار کچھ نہ تھا اور دشمن پاس جنگی کشتیاں بہت تھیں۔

۲۰ امرداد سنہ ۹۹۶ھ کو وزیر خاں نے اس دنیا سے انتقال کیا اور اسکی جگہ سعید خاں صوبہ بہار سے بنگالہ میں مقرر ہوا اور راجہ بھگونت سنگہ اور مان سنگہ کو صوبہ بہار میں اقطاع ملیں۔ گھوڑا گھاٹ میں پاینده خاں جاگیردار مقرر رہا۔ جب سعید خاں بنگالہ پہنچ گیا تو شہباز خاں پادشاہ پاس آگیا۔

سنہ ۹۹۸ میں راجہ مان سنگہ کی پیشکش بہار سے پادشاہ پاس آئے

سنہ ۹۹۵ء کوکرہ سنہ ۹۹۶ء

صوبہ بہار میں راجہ مان سنگہ کا انتظام

صوبہ بہار میں راجہ مان سنگہ کا انتظام سنہ ۹۹۶

اس نے آگہی کو مردانگی کے ساتھ ہمدوش اور ہمت کو جدکاری کیساتھ ہم آغوش کیا۔ اس طرف کا
بالکل انتظام کر لیا۔ سرکشوں کو فرمان پذیر بنایا۔ پورن مل کیدھوریہ بڑی خود بینی و نخوت فروشی
کرتا تھا۔ راجہ چابکدستی کر کے اسکے بنگاہ پر چڑھ گیا۔ اور ناکامی میں وہ اپنے قلعہ کو پناہ
سمجھتا تھا اسکو نہ بچا سکا۔ اسکی شورش ہستی افسردگی خار بنے لابہ گری کر کے پناہ مانگی۔ نامور
ہاتھی اور منتخب اسباب سپاس گذاری کے ساتھ پیش کیا۔ اپنی بیٹی راجہ کے بھائی چندر بھان
کو بیاہی۔ پھر راجہ سنگرام کو درست کرنے راجہ گیا وہ فرمان پذیر ہوا۔ ہاتھی اور اس ملک کے
تحائف نذر کیئے۔ پٹنہ میں راجہ آیا۔ انت پر چڑھ کر گیا۔ بہت غنیمت جمع کی راجہ کے بیٹے
جگت سنگہ نے بھی یہ خدمت کی کہ ناگہانی بنگالہ کے سرکشوں میں سے سلطان قلی قلماق اور
کچکنہ نے فتنہ برپا کیا۔ گھوڑے گھاٹ کی راہ سے تاجپور اور پورنیہ کو لوٹا مارا اور دربھنگہ
میں آئے۔ فرخ کی ہمت نے یاوری نہ کی وہ پٹنہ میں آیا جگت سنگہ جو قصبہ
بہار کا پاسبان تھا پیکار کے لئے آمادہ ہوا۔ فرخ خاں اور اقطاع دار اُس کے
ساتھ ہوئے۔ جب وہ حاجی پور سے سات کوس پر پہنچے تو غنیم نے اپنے میں لڑائی کی
طاقت نہ دیکھی۔ بھاگ گیا۔ تیزی کے ساتھ اُسکا تعاقب کیا۔ اور انکے اندوختوں پر قبضہ
کیا۔ راجہ نے نفائس غنیمت اور ۵۴ ہاتھیوں کو بادشاہ پاس بھیجا۔

اڑیسہ فتح ... سنہ ۹۹۸

جب راجہ مان سنگہ کی کاروانی سے صوبہ بہار کا انتظام ہوگیا اور گردن کش
تابع ہو گئے تو سنہ ۹۹۷ کے آخر میں جھارکھنڈ کی راہ سے ملک اڑیسہ کے فتح کا ارادہ
راجہ نے کیا اور بھاگل کے نزدیک توقف کیا اور سعید خاں حاکم بنگالہ کو ہمراہ لیا۔ برسات
کے قریب آنے سے اور وقت پر یہ کام مقرر کیا۔ سنہ ۹۹۸ کے شروع میں بردوان
کی راہ سے روانہ۔ پہاڑ خاں۔ بابوے منگلی رائے پترداس کو توپ خانہ
کے ساتھ بنگالہ سے ساتھ لیا۔ جہان آباد میں بنگاہ بنایا۔ برسات کے ختم
ہونے پر یہ خیال تھا کہ سعید خاں و مخصوص خاں اور اور زمیندار اُن سے آن ملینگے

قتلو خاں جسکے پاس اڑیسہ تھا وہ لشکر شاہی سے پچیس کوس پر آیا - اور لڑائی کی تیاریاں کرنے لگا
بہادر کوردہ کو بہت سپاہ کے ساتھ رائے پور بھیجا - راجہ نے ایک فوج اسکی مالش کے لیے بسرکردگی
جگت سنگھ روانہ کی - بہادر حصاری ہوا اور لابہ گری کی - جگت سنگھ نوجوان ناآزمودہ کار کو افسانے
سنا کر بے پروائی کے خواب میں سلایا اور خود قتلو سے مدد مانگی - ۲۰ خرداد ۹۹۹ھ کو جبوقت جگت سنگھ
بادہ غنودگی سے سرخوش ہو رہا تھا ناگہانی بہادر بہت سا لشکر لیکر اسپر حملہ آور ہوا اور غالب ہوا -
قتلو خاں نے جلال خاں کو اور بہت دلاوروں کو بسرکردگی عمر خاں برادرزادہ و میرو پسر
کہ سود خواجہ عیسی اپنے وکیل کو روانہ کیا - ہر چند ہمیر زمیندار نے بہادر کی حیلہ سازی
کہا اور اسکی یاوری کے لیے لشکر کے آنیکا جگت سنگھ سے کہا مگر اس نے کچھ نہ سنا ہزاروں
کوشش سے کچھ سپاہ فرونی کے لیے بھیجی - غنیم درخت زار میں آیا - خیمہ و پرتال کو یہاں
چھوڑکر پوشیدہ راہ سے چلا - غنیم کے جلد چلے جانے نے لوگوں کی غفلت کو اور زیادہ کیا
آخر روز ہیں غنیم آیا - یہاں نہ کوئی تدبیر تھی نہ لشکر میں انتظام تھا - بہت سے بے لڑے پراگندہ
ہو گئے - کچھ ڈٹے - بیکہ راٹھور مہین داس و نرو چارن نے لڑکر جان دی - پادشاہی لشکر
کو شکست ہوئی - لیکن اسطرف بھی عمر خاں و میرو اور بسیاران ہمایوں قلی مع اور عزیزونکے
مارے گئے - نوجوان مدہوش جگت سنگھ کو ہمیر اپنے گھر لے آیا - مشہور یہ ہو گیا کہ وہ مر گیا
راجہ نے انجمن رازگوئی مرتب کی اور چارہ گری کے درپے ہوا - بہت آدمیوں نے یہ
گذارش کی کہ مناسب یہ ہے کہ سلیم آباد میں جہاں سپاہیوں کا زن و زاد ہے اُٹھ جائیں
اور باران سے آنکر آمادہ پیکار ہوں - راجہ نے جواب دیا کہ انکا جانا غنیم کو اپنے اوپر دلیر بنانا
اور ہم کو برباد کرنا ہے - اعزوفتا کو طلب کیا اور لڑنے کا ارادہ کیا - قتلو بیمار تھا شتاب روی
سے دس روز میں پیمانہ عمر اسکا لبریز ہوا - خواجہ عیسی نے اسکے چھوٹے بیٹے نظیر خاں کو
باپ کا جانشین بنایا - اس سے افغانوں کا ہنگامہ کچھ افسردہ ہو گیا - لابہ گری اور حیلہ سازی
کرکے وہ آشتی کے جویا ہوئے سپاہ کی نزار دلی اور بارش کی فزونی سے صلح کو تو راجہ نے

قبول کرلیا اور یہ عہد ہوا کہ بادشاہی خطبہ و سکہ جاری ہو اور خدمت گذاری اور فرمان پذیری کے لئے سوار کچھ اور خیال نہ کیا جائے - جگنناتھ کہ سب سے بڑا پرستش کدہ ہے مع توابع کے خالصہ میں دیا جائے اور دولت خواہ زمینداروں کو کچھ آسیب نہ پہنچایا جائے مخالفوں نے زمانہ سازی اور فریب کاری سے سب شروط کو قبول کرالیا۔ ۲۸ شہریور ۹۹۹ سنہ ۳۶ کو راجہ کے پاس قتلو کو خواجہ عیسیٰ لایا - ڈیڑھ سو ہاتھی اور بہت سے منتخب اشیاء بادشاہ کے پیش کش کے لئے روانہ کئے گئے - راجہ نے اُسکی دلدہی کی اور خود بہار میں چلا آیا۔

جب تک عیسیٰ خاں زندہ رہا - عہد و پیمان برقرار رہا - جب وہ مرگیا تو عہد و پیمان ٹوٹ گیا - افغانوں نے پرستش کدہ جگنناتھ کو لے لیا - ولایت حمیر کو جو بادشاہ کا فرمان پذیر تھا لوٹ لیا - راجہ مان سنگھ آشتی سے پشیمان تھا - اس نے بادشاہ سے اجازت حاصل کرلی کہ بنگ و بہار کی سپاہ اس خدمت پر نامزد کی جائے - ۲۲ آبان سنہ کو وہ دریا کی راہ سے چلا - اور تولک خاں اور امیروں کو خشکی کی راہ پر روانہ کیا - مادھو اور لکھی رائے اور زمینداروں کو جھارکھنڈ کی راہ سے بسرکردگی یوسف خاں والی کشمیر روانہ کیا - جب سپاہ بنگال میں آئی تو یہاں کا سپہ آرا سعید خاں بیمار تھا - راجہ کارطلبی کے سبب سے آگے روانہ ہوا - جب سعید خاں اچھا ہوا تو وہ راجہ کے لشکر سے جا ملا - اسکے ساتھ اور امرا اور چھ ہزار پانچسو سوار تھے - بہت سے ملک پر قبضہ کرلیا - تب کار افغانوں نے صلح چاہی - لیکن اس سبب سے کہ آزمودہ را آزمودن ابلہی است انکے پیغام صلح کو کسی نے نہ سُنا - اور انکو پیمان شکنی پر لعنت ملامت کی - اگرچہ امرا بنگالہ کہ آشتی کرنے پر راضی تھے مگر مدناپور کے درخت زار میں جو اڈیسہ کے وسط میں ہے غنیم مقیم ہوا - ۱۰ فروردین سنہ کو راجہ نے اپنے ہراول کو اجازت دی کہ ایک سرکوب کو کہ غنیم کے نزدیک ہے لیکر قلعہ بنائیں - غنیم نے دریا کے پار آنکر اپنی سپاہ کو مرتب کیا - قتلو خاں کے بیٹے نعیب خاں اور جمال خاں قلب لشکر میں تھے - تین ہزار سوار اور ۲۵ پچیس ہاتھی ان کے پاس تھے -

جرانغار و برانغار میں دو ہزار سوار پچیس ہاتھی اور ہراول میں بارہ سو سوار اور اسی ہاتھی تھے خوب لڑائی ہوئی کچھ دیر تک معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون مغلوب ہوگا اور کون غالب مگر آخر کو بادشاہی لشکر کو فتح ہوئی اور دشمن کے تین سو آدمی اور بادشاہ کے چالیس مارے گئے۔

سرداران مشرق کا مطیع ہونا سنہ ۱۰۰۱ ہجری

جب فتح مند سپاہ نے غلبہ پا کر تعاقب کیا تو دوسرے روز جلیسر میں کہ اڑیسہ کے منتخب شہروں میں سے ہے وہ آئی۔ ممبر پر خطبہ شاہی پڑھا گیا سکہ نے بادشاہ کے نام سے رونق پائی سعید خاں بنگالہ میں آیا۔ تھوڑے دنوں میں سب زمیندار اسکے مطیع ہوگئے اور اُسکا سارے ملک پر قبضہ ہوگیا۔ راجہ مان سنگھ نے یہاں کے فتنہ کو مٹایا۔ قصبہ بھدرک میں معلوم ہوا کہ پسران قتلو اور خواجہ سلیمان اور امرا تین سو ہاتھی لیکر قلعہ کٹک میں فراہم ہوئے ہیں یہ ایک حصار انتہا پر شور دریا کے کنارہ پر تھا۔ افغان جنگل میں کہ دریا شور سے ملا ہوا تھا بھاگ گئے اور علاد لخاں خاصہ خیل قتلو نے قلعہ آل حوالہ کیا۔ کلکل گھاٹی کے قریب نند راجہ کہ اس سرزمین کا منتخب زمیندار تھا بادشاہی لشکر سے آن کر ملا۔ راجہ رامچندر نے پناہ مانگنے والوں کو سارنگ گڈھ میں راہ دی جب راجہ مان سنگھ کٹک پہنچا تو یوسف خاں حاکم کاشمیر کو اسکے گرد چھوڑ گیا اور خود جگناتھ کی جاترا کو اس قصد سے گیا کہ راجہ رامچندر سے نزدیکی ہو جاوے اور فرصت پاکر اسپر دست بازی کرے جو اُس نے سوچا تھا جب وہ عمل میں ایا تو وہ سیلی میں آیا ہر روز لڑائی ہوئی اُس کی نصیحت گذاری سے رامچندر نے فرمان پذیری قبول کی اور اپنے بیٹے بیربل کو پیشکش کے ساتھ روانہ کیا

افغانوں کا [illegible] ہونا سنہ ۱۰۰۱ ہجری

راجہ کٹک میں پھر آیا اور قلعہ سارنگ گڈھ کے قریب ٹھہرا۔ اسوقت یہ معلوم ہوا کہ پٹھانوں نے جلیسر پر حملہ کیا۔ بابو منگلی نے اپنے اپ میں لڑنے کی قوت نہ دیکھی تو کنارہ کیا راجہ نے بہار خاں کو بھیجا اس نے جلیسر کو پھر لے لیا اور افغاں کو پراگندہ کردیا سارنگ گڈھ میں جو افغان تھے وہ بھی راجہ پاس حاضر ہوئے ہر ایک کو خسروانی نوازش کا امیدوار کیا۔

جب اڑیسہ کے سرتابوں نے فرمان پذیری اختیار کی تو راجہ نے اپنی

کاروائی کے سبب سے خواجہ سلیمان و خواجہ عثمان شیر خاں و نقیب خاں کو خلیفہ آباد میں تیول دیئے طاہر خاں و خواجہ باقر انصاری کو ہمراہ لیا۔ اور جو ہرزہ درے بکار رہتے تھے۔ انکی جاگیروں کو ضبط کرکے انکو اپنے پاس طلب کیا۔ یہ جاگیر دار ڈر گئے اور فتنہ افزائی کو اپنی دستاویز رہائی سمجھے ۲۷ بہمن سنہ ۱۰۱۱ کو گورکھپور کے قریب باقر جنید ہاتھیوں کو لئے اپنی جاگیر کو جاتا تھا اس کو انہوں نے لوٹ لیا وہ زخمی ہوکر الگ ہوگیا۔ راجہ مان نے اپنے بیٹے ہمت سنگھ کو اسکی مدد کے لئے بھیجا۔ مگر وہ کچھ تھوڑی دور جاکر الٹا چلا آیا۔ ملک کو افغان لیتے ہوئے بندر سنارگانو کو چلے گئے۔ کچھ قدرت نہ پاسکے ناکام رہے اور چاند راے کی بنگاہ پر متوجہ ہوئے۔ اس نے نواب کے کہنے سے ان کی گرفتاری کا ارادہ کیا۔ مگر جب دلاور و سلیمان و عثمان نے چار کوس پر دائرہ بنایا یعنی ڈیرہ ڈالا تو اس نے انکو مہمان بلایا۔ ۵ اسفندیار سنہ ۱۰۱۱ کو وہ اس کے بنگاہ میں آئے دلاور کسی کام کو اٹھا تھا کہ اسکو دستگیر کر لیا۔ سلیمان کو جب معلوم ہوا تو وہ تلوار ہاتھ میں لے کر باہر نکل آیا اور کئی آدمیوں کو مارا۔ چاند راے اسکے پیچھے آیا سلیمان کی مدد کو گیا۔ اس سے سلیمان نے اپنے بچنے اور دلاور کی گرفتاری اور غنیم کے آنے کا حال کہا اس سے ہنگامہ جنگ برپا ہوا اس بوم میں نوکر اکثر افغان تھے وہ اس گروہ سے ملگئے دونوں لوٹتے ہوئے پھر چاند راے کے قلعہ میں گئے۔ اہل قلعہ نے جانا کہ چاند راے آیا۔ قلعہ کا دروازہ کھولدیا۔ اس طرح انکو چیرہ دستی حاصل ہوئی پھر وہ عیسیٰ زمیندار کی پناہ میں چلے گئے۔ اور قلعہ اور ضلع کو کیدار راے پدر چاند راے کو حوالہ کر گئے۔

تینتسویں خرداد سنہ ۱۰۱۱ کو راجہ مان سنگھ نے شیر بیگ تواچی باشی کے ساتھ ایک سو ستائیس ہاتھی اور اسباب فتح اڑیسہ میں ہاتھ آئے تھے بادشاہ پاس بھیجے۔

لچھمی نراین کوچ کا مرزبان تھا جسکے پاس چار ہزار سوار اور دو لاکھ پیادے اور سات سو ہاتھی اور ہزار جنگی کشتیاں تھیں۔ یہ ملک بڑا آباد تھا۔ لمبا دو سو کوس اور چوڑا چالیس کوس سے سو کوس تک تھا مشرق میں دریا برہمپتر۔ شمال میں پایان تبت و آسام

جنوب میں گھوڑاگھاٹ مغرب میں ترہت سو برس پہلے کشنا یہاں کا راجہ تھا اسکا پوتا بالگسائیں تھا۔ اِس نے اکبر کی ستائیش میں ایک کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کو بیش بہا اسباب کے ساتھ پادشاہ کی نذر میں بھیجا تھا وہ آزاد رہتا تھا۔ پچاس برس کی عمر میں اپنے بھتیجے کنور کو اپنا جانشین کیا۔ اسکے بڑے بھائی شکل گسائیں نے بھائی سے بیاہ کی اجازت کی درخواست کی اس نے بھائی کی محبت کے سبب سے اس درخواست کو قبول کیا بیٹا پیدا ہوا۔ لچھمی نراین اسکا نام رکھا۔ وہ اپنے باپ کی جگہ راجہ ہوا اس سبب سے پات کنور نے سورش برپا کی۔ لچھمی نراین نے راجہ مان سنگہ کے وساطت سے پادشاہ کی اطاعت کرنی چاہی۔ راجہ مان سنگہ سلیم نگر سے آنند پور گیا۔ اسکا استقبال چالیس کوس سے ہوا۔ ۱۳ اردی بہشت ۱۰۰۵ھ کو ملاقات ہوئی۔ پھر راجہ اپنے گھر لیگیا اور اپنی بہن کی شادی راجہ سے کیچھ دنوں بعد دی منبان کوچ بھی حاکم بنگالہ پاس نہیں جاتا تھا سلیمان کرانی اس سے لڑنے گیا مگر ناکام پھرا۔

لچھمی نراین مرزبان کوچ بہار کا مطیع ہو گیا تھا۔ پات کنور کچھ ملک دبا کے اس سے لڑنے گیا پادشاہی لشکر بسرکردگی ججھار خاں و فتح خاں سور اسکی مدد کو آیا۔ لڑائی ہوئی اور پات کنور کے بہت آدمی مارے گئے اور اسکو شکست ہوئی۔ بہت غنیمت ہاتھ آئی۔ عیسیٰ زمیندار پات کنور کے یاوری کے لئے روانہ ہوا۔ راجہ مان سنگہ کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک شائستہ سپاہ خشکی کی راہ سے روانہ کی اور اپنے بیٹے درجن سنگہ کے ہمراہ سپاہ دریا کی راہ سے بھیجی کہ وہ ان زمینداروں کی بنگاہ کو لوٹے اس لئے کہ خانگی سورش سے بہت نقصان ہوا ہے مگر کسی نے انکو اسکی خبر کردی۔ یہ دریائی سپاہ سب جگہ لوٹ مار کر کے قصبہ کریوہ پر یورش کر رہی تھی۔ کرم پور سے چھ کوس پر عیسیٰ و معصوم نے بہت سی جنگی کشتیاں لا کے پادشاہی لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا لڑنے کے بعد سر گروہ اور بہت سے آدمی مارے گئے کچھ اسیر ہوئے کچھ بچ گئے۔ پادشاہی لشکر کو بھی صدمہ پہنچا مگر مرزبان کوچ نے گزند سے رستگاری پائی۔ عیسیٰ نے دوربینی کی لابہ گری اختیار کی

اور درجن سنگہ کا مارا جانا ۱۰۰۵

اور جو اسباب لوٹ کر لے گیا تھا واپس کیا۔

سنہ میں عیسیٰ زمیندار مر گیا۔ راجہ مان سنگھ اجمیر میں گیا مگر ناشناسائی سے اس دوردست ملک میں بیٹھ کر بنگالہ کی پاسبانی کو اپنے ذمہ لیا اور فتنہ اندوزوں کو دولت خواہ جانا۔ عثمان وسجاول اور اور افغانوں نے جو تابع تھے فتنہ اُٹھایا۔ مہاسنگھ ونیرتاب سنگھ نے اسکا علاج آسان جانا لڑنے کھڑے ہوئے۔ ۱۸ اراردی بہشت سنہ کو بھدرک میں لڑکر شکست پائی۔ لشکر شاہی کو صدمہ پہنچا۔ گو سارا ملک بنگالہ ہاتھ سے نہیں گیا۔ مگر کچھ حصہ دشمنوں کو مل گیا۔

ہم نے اوپر لکھا ہے کہ پسر قتلو کے ساتھ ایک گروہ افغانوں کا بنگالہ میں فساد کر رہا تھا۔ کئی دفعہ راجہ مان سنگھ کے آدمی اُن سے لڑے مگر ہر دفعہ شکست پائی۔ میر عبدالرزاق معموری کہ سپاہ کا بخشی تھا اسیر ہوا۔ جب راجہ مان سنگھ شاہزادہ کے ہمراہ الہ آباد میں آیا تو اُس نے بنگالہ جانے کی اجازت حاصل کی اور رہتاس میں آن کر سامان درست کیا اور پھر سرکشوں کی مالش کے لئے آیا۔ شیر پور کے قریب دونوں لشکر قلعہ بنا کے آمنے سامنے ہوئے۔ ۲۸ اسفندیار مذ سنہ ۹ کو کچھ لڑائی ہوئی۔ باغی پراگندہ ہوئے میر عبدالرزاق ایک ہاتھی پر سوار تھا گلے میں طوق تھا۔ پاؤں میں زنجیر تھی۔ ایک آدمی تعین تھا کہ اگر شکست ہو تو اسے مار ڈالے۔ لیکن وہ لڑائی میں بندوق سے مارا گیا۔

اب کی دفعہ باغیوں کا بہت نقصان جانوں کا ہوا اول راجہ مان سنگھ ولایت ڈھاکہ میں گیا۔ کیدرائے یہاں کے مرزبان کو امید وبیم کی باتیں بنا کر مطیع کیا۔ پھر جب اسکو معلوم ہوا کہ جلال کھکرہ وال قصبہ آگرہ و مالیرہ کو مار رہا ہے سوداگر اور رعیت اس سے حیران ہو رہے ہیں تو اُس نے خواجہ باقر الصعاری کو گھوڑا گھاٹ میں مہاسنگھ پاس بھیجا کہ اسکے ساتھ اتفاق کر کے سوزش کو مٹائے۔ جب مہاسنگھ کھکرہ میں آیا تو جدل خاں دریا مندری سے گذر کر پانچہزار جنگی پیادوں اور پانچ سو سوار ونکے ساتھ نمودار ہوا مہاسنگھ نے بے تامل دریا میں گھوڑا ڈالدیا۔ دریا کا کنارہ بلند تھا۔ گھوڑوں کا اُس سے

نکلنا دشوار تھا۔ کچھ ہمراہی آب نیستی میں غرق ہوئے۔ اور بہت سے باہر آئے اور اُنہوں نے مخالفوں کے خرمن ہستی میں آگ لگائی اور جلال خاں ہوا کی طرح اُڑ گیا۔ مہا سنگہ کو جب اُس سے فراغ ہوا اور قاضی مومن کے فتنہ دور کرنے پر متوجہ ہوا وہ پُرنیہ کے نواح میں لوٹ مار کر رہا تھا اسنے ندی کے کنارہ پر قلعہ بنایا تھا۔ بھاگنے کے فکر میں تھا کہ لشکر آیا تو وہ اپنا زن و زاد کشتی میں لیکر اس طرف بھاگا۔ مہا سنگہ نے اسکے تعاقب میں پانچ سو سوار بھیجے۔ وہ جزیرہ میں آیا۔ جنگل ابتو ہی سے فوج شاہی کا نشان برقرار نہ تھا۔ وہ پراگندہ ہو گئی تھی۔ ہر طرف سے اس جزیرہ پر چڑھتی تھی۔ قاضی مومن اسلیئے انکو تھوڑا سا سمجھتا تھا اور لشکر سے اسکو خبر نہ تھی اتنے لڑتا تھا۔ یہ خوف تھا کہ بادشاہی لشکر شکست پائے۔ مگر قاضی مومن گھوڑے سے گرا۔ اور وہیں کشتہ ہو گیا۔ عثمان نے دریا برہم پتر سے عبور کرکے بازبہادر قلماق تھانہ دار کو بھگایا وہ بھوال میں آیا۔ راجہ مان سنگہ ایک رات دن میں بھوال میں آیا۔ دوسرے دن آب بہار پر دشمن سے لڑنے کو تیار رہا۔ لڑائی میں بہت افغان مارے گئے اور بادشاہی لشکر کو بہت اسباب اور نوارہ اور توپ خانہ ہاتھ لگا یہاں کے تھانہ کو اُستوار کرکے راجہ ڈھاکہ میں آیا اور ایک جماعت سپاہ کو حکم دیا کہ آب اچھامتی سے گذر کر عیسیٰ و کیدرائے مرزبان بکرم پور و سری پور کی مالش کریں افغانوں نے داؤد لسیر عیسیٰ و زمینداروں سے اتفاق کرکے گذرگاہوں کو بند کیا اور لڑنے کو تیار رہے اور چند روز بادشاہی لشکر کو اُن سے اُترنے نہیں دیا۔ راجہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو وہ ڈھاکہ سے شاہ پور گیا۔ یہاں سے پہلے لشکر کو کمک پہونچی جب دیکھا کہ یہ کام اس لشکر کی طاقت سے باہر ہے تو وہ خود گیا اور ہاتھی پر سوار ہو کر بے محابا دریا سے پار گیا جس سے سب آدمی اُسکے قوی دل ہو کر مردانگی سے دریا میں تیرنے لگے دریا سے پار جا کر غنیم کو شکست دی۔ گروہ مخالف بھاگا۔ راجہ نے اُن کے پیچھے سفر کرکے برہ نپور اور شیرپور میں توقف کیا۔ شیر خاں بومی بھاگنے کے راجہ

سے ملنے آیا۔ یہاں سے وہ سرہرپور و بکرام پور میں گیا۔ داؤد و کل افغان حدود دُسنارگانوں میں بھاگ گئے۔ راجہ اپنے غنیم سے خاطر جمع ہوکر ڈھاکہ میں آیا۔

بنگالہ میں ایک فتح ۱۰۱۲ھ

سرحد بنگالہ کے نامور بومیوں میں کیدار تھا۔ زبردست نوارہ لیکر زمیندار مکھیر کا وہ یاور ہوا اور تھانہ سری نگر پر زور ڈالا۔ راجہ مان سنگہ کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ توپ خانہ لیکر اس برگشتہ پر پہنچا نگر سور کے نواح میں بڑی لڑائی ہوئی۔ شاہی لشکر نے غنیم کے بہت آدمیوں کو مارا اور باقی کو بھگا دیا۔ کیدار تیر و تفنگ سے زخمی ہوکر بھاگا جاتا تھا کہ گرفتار ہوا۔ راجہ کے پاس آتے ہی مرگیا۔ پھر راجہ بھوال میں عثمان افغان کے لئے تیار رہا۔ مکھیر زمیندار نے بھی سورش مچا رکھی تھی اسکے دفعہ کرنے پر متوجہ ہوا۔ یہ زمیندار تو مقابلہ نہ کرسکا۔ اپنے ملک کو بھاگا راجہ پھر عثمان کیطرف متوجہ ہوا وہ بھی بھاگ گیا۔ غرض راجہ کو ان حدود کی طرف سے سب طرح اطمینان ہوا اور تھانوں میں منتخب کاردان تھانہ دار مقرر کردئے خود ڈھاکہ میں چلا آیا۔

ان سب لڑائیوں کا انجام اور نتیجہ

بنگال اور بہار دونوں ملکوں کی حالت ایسی تھی کہ وہاں امن و امان کا مستقل طور پر قایم رہنا دشوار تھا۔ اول وہاں اسباب بغاوت کی کمی نہ تھی۔ دوم جنوب کا بھاری جنگلی خطہ اور شمال کے پہاڑ اور جنگل اور سمندر کے آس پاس کی دلدل اور جنگل باغی مفسدوں کے ایسے ٹھکانے تھے کہ وہاں سے اُنکو رفع دفع کرنا نہایت مشکل تھا۔ سوم جب مغلوں نے ہندوستان بالا کو فتح کیا اور پٹھانوں سے سلطنت کو چھینا تو ان میں سے جن افغانوں نے مغلوں کی اطاعت اور ملازمت نہیں پسند کی وہ سب کے سب ان ملکوں میں چلے آئے ان کی کثرت سے یہ ملک ہندوستان کا افغانستان بن گیا۔ وہ اکبر کی سپاہ سے پندرہ برس تک لڑتے جھگڑتے رہے۔ وہ خاکستر کے نیچے کی چنگاریاں تھیں کہ جب ان کو ہوا لگتی تو وہ چمکنے لگتیں۔ مگر راجہ مان سنگہ نے ان چنگاریوں کو ایسا ٹھنڈا کیا کہ پھر وہ نہ چمکیں۔ سترہ برس میں بیسیوں لڑائیوں کے بعد صوبجات بنگالہ و اڑیسہ و بہار بالکل قبضہ شاہی میں آگئے۔

مہمات و معاملات گجرات

ہمنے پہلے لکھا ہے کہ گجرات کی تسخیر میں مرزاؤں کا حال کیا ہوا۔ ہر ایک بادیہ ادبار میں سرگردان ہوا۔ گلرخ سلطان بیگم اپنے خوردسال بیٹے مظفر حسین مرزا کو دکن میں لیگئی مگر یہاں بھی اقبال نے یاوری نہ کی۔ اب گجرات کو خالی دیکھکر مرزا کچھ آدمیوں کو ساتھ لیکر اسطرف چلا بادشاہ نے جب یہ سُنا تو اسنے ان امیروں کو کہ خاندیس کی فتح کو گئے تھے حکم بھیجا کہ گجرات کی سورش دفع کرنے کو خاندیس کی تسخیر پر مقدم جان کر اسطرف چلے آئیں مگر اس گروہ نے اس خدمت کے بجالانے کو اپنے حوصلہ سے باہر جانا اور وقت کو یونہیں ٹالا اور آزمندی سے یہ چاہا کہ اس دیار کے حکام سے باتیں بناکر زرلیں اور مصالحت کا ڈول ڈالیں۔ اس خیانت ملکی سے کہ جس سے بنیاد سعادت کندہ ہوتی ہے اپنے قصر دولت کا بام بلند کریں مگر یہی تصور باطل رہی خیال محال بیگڈھ میں بیٹھے ہوئے یہ راگ گا رہے تھے کہ بادشاہ کا فرمان پہنچا تو ہر ایک اپنے اپنے تیول میں گیا

جو سبک سر کوتہ خرد مملکت میں سورش اُٹھاتا ہے اسکو زمانہ ہی خود سزا دیتا ہے کبھی اُسکا مال لٹوا دیتا ہے کبھی اُسکی جان لے لیتا ہے۔ کبھی اُسکے ناموس کی پردہ دری کرکے رسوا کرتا ہے۔ کبھی اس سے اسباب دنیا لیکر عریاں پھراتا ہے۔ کبھی اُسکو سعادت کی راہ پر لاکر اسکی جان سلامت رکھتا ہے۔ کبھی پھر گمراہ کرکے اسکی جان کو برباد کرتا ہے۔ اسکی مثال مظفر حسین کا حال ہے جسکی تفصیل یہ ہے۔ گجرات میں بادشاہ نے وزیر خاں کو منتظم مقرر کیا تھا وہ سپاہ کے انتظام میں زبردستوں کی آسائش میں اور بدکاروں کے استیصال میں شائستہ طور پر کاربند نہ ہوا۔ اسلئے بادشاہ نے راجہ ٹوڈرمل کو کہ کاردانی اور خدمت گزینی میں یکتا تھا۔ اس دیار میں بھیجا وہ اس سرزمین میں جلد آیا اور اس نواح کی پراگندگیوں کو دور کیا۔ اول سلطان پور اور ندربار میں آیا۔ یہاں کا مناسب انتظام کرکے گیا پھر سورت کی مہمات کو عدالت سے روشن کیا

مظفر حسین مرزا کی شورش افزائی ۹۸۵ھ

وزیر خاں اور راجہ ٹوڈرمل کی ... مظفر حسین مرزا ... ۹۸۵ھ

بروچ و بڑودہ و جا بنپانیر کے مشاغل کو سرانجام دیکر احمد آباد میں آیا یہاں وزیرخاں کے ساتھ متفق ہو کر داد دہی کر رہا تھا کہ سورش برپا ہوئی۔ ابراہیم حسین مرزا کے نوکروں میں ایک مہر علی کولابی تھا۔ اس نے آدمیوں کو جمع کیا اور دکن سے گجرات میں خردسال مظفر حسین مرزا کو لایا اور سلطانپور کے گرد فتنے کی گرد کو بلند کیا۔ شریف خاں کے بیٹے عارف و زاہد بادشاہ سے بیوفائی کر کے اس سے مل گئے وہ بڑودہ کے نواح میں آیا۔ وہاں کا داروغہ اسکے سامنے نہ ٹھہر سکا باہر بھاگا۔ ایسا بڑا شہر بے جنگ غنیم کو ہاتھ لگ گیا۔ باز بہادر لڑنے کو آیا۔ مگر ناسپاس ملازموں کی فرومائگی سے کچھ کام نہ کر سکا۔ وزیرخاں کا ارادہ یہ ہوا کہ احمد آباد میں قلعہ کے اندر بیٹھے۔ مگر راجہ تو ڈرمل نے اسکو مرد میدان بنایا اور شہر بند سے باہر لایا اور بڑودہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس شہر سے چار کوس پر آیا تو شہر کو چھوڑ کر مخالف بھاگا اور کھنبائت کی طرف چلا۔ لشکر شاہی نے اسکے پیچھے جانے میں آہستگی کی اسلئے کھنبائت میں وہ سوزش برپا کرنے لگا۔ یہاں کے عامل خالصہ سید ہاشم نے اول نکلکر خوب دستبرد کی مگر دشمنوں کی کثرت کے مارے آخر قلعہ نشین ہونا پڑا دشمن نے اُسے گھیرا۔ مگر افواج شاہی پاس آئی تو وہ محاصرہ کو چھوڑ کر جونہ گڈھ کی راہ پر چلا حدود دولقہ میں امرا شاہی سب آن کر ملے اور سپاہ اسطرح مرتب ہوئی کہ قلب گاہ میں وزیرخاں اور برانغار میں خواجہ یحیی نقشبندی وجیہ الملک اور جرانغار میں راجہ تو ڈرمل و روپ رای گجراتی تو شیخ ولی و بیاگ داس افسر مقرر ہوئے۔ غنیم جانتا تھا کہ بادشاہ کی فوج میں بیدلی اور دورُوئی پھیل رہی ہے جب ہم سے اسکی لڑائی ہو گی تو بہت حصہ اسکا ہم سے آن ملیگا کچھ بھاگ جائیگا اور وزیرخاں و راجہ تو ڈرمل کی جان جائیگی وہ اس لشکر کی جان راجہ تو ڈرمل کو جانتے تھے اسلئے اسکی جان لینے کیلئے زیادہ در پے ہوئے۔ وزیرخاں سے لڑنے کے لئے مظفر حسین خاں نے قدم سست اُٹھائے مگر راجہ سے لڑنے کے لئے مہر علی کولابی بڑی تیزدستی سے آیا

میدان جنگ میں راجہ تو ڈرمل نے فتح پائی۔ اٹھارہ بڑے بڑے آدمی غنیم کے مارے مگر دست راست پر پادشاہی سپاہ کو شکست ہوئی اور بری طرح سے وہ بھاگے وہ بھاگے وزیر خاں کی جان پر آن بنی تھی کہ راجہ تو ڈرمل ہزار دل ہو کر اسکی مدد کو آیا اور غنیم کو پسپا کیا مظفر حسین مرزا نے جونہ گڈھ کو بازگشت کی مگر یہ بازگشت ایسی تھی کہ **بیت**

چناں بازگشتند ہرکس کہ زیست ٭ کہ بر زندگی شان بباید گریست

پادشاہ پاس عریضہ فتح او غنائم کے برگزیدہ ہاتھی بھیجے گئے۔ پادشاہ اجمیر جاتا تھا کہ لساور میں راجہ تو ڈرمل اس کی خدمت میں آیا اور بہت سے سورش منشوں کو جنکا سرغنہ دواہ بیگ تھا ساتھ لایا۔ جنکو عدالت نے قتل کرایا۔ راجہ کو عہدہ وزارت عنایت ہوا۔

خدا کسی کی عقل کو خراب نہ کرے کہ اس سے دنیا میں ہزاروں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اگر اس خرابی عقل کی بابت نجات ہے تو بری صحبت سے بچے۔ بروں کی صحبت اچھے اچھوں کو برا کر دیتی ہے۔ عقلمند کہتے ہیں کہ آدمی کی طبیعت دزد پنہانی ہوتی ہے۔ خواہی نہ خواہی اپنے دمسازوں کی خو اختیار کرتی ہے جس چیز سے کہ طبعی نفرت ہوتی ہے۔ ایک مدت تک صحبت کے اثر سے اسکی طرف رغبت ہونے لگتی ہے اسکی مثال مظفر حسین کا حال ہے باوجودیکہ وہ پاک گوہر نیک ذات تھا مگر بری صحبت سے بری چال چلا باوجودیکہ وہ اپنے باپ دادا کی بدحالی کو دیکھ چکا تھا مگر وہ اپنی غفلت سے باز نہ آیا۔ مہر علی کے بہکانے میں آگیا جب گجرات سے پادشاہ کی خدمت میں راجہ تو ڈرمل آگیا تو پھر وہاں فساد اندیشوں نے مظفر حسین مرزا کو اپنی دستاویز بنا کر اول کھنبایت میں انہوں نے سوداگران کے مال پر ہاتھ صاف کیا اور بہت دولت جمع کی۔ احمد آباد سے وزیر خاں ان سے لڑنے کے لئے چلا۔ بیرپور کی حدود میں بازبہادر کے آدمیوں کی بیوفائی سے اسکی ہمت ٹوٹ گئی قصبہ سرنال سے وہ لڑنے کے لئے باہر نکلا ہی تھا کہ بہت سے اسکے سپاہی غنیم سے جا ملے جب اسنے اپنے آدمیوں کی بدذاتی اور ناہنجاری دیکھی تو وہ احمد آباد میں

دوبارہ مظفر حسین مرزا کا فساد برپا کرنا اور مارا جانا ۹۸۵ھ

اُلٹا آکر قلعہ نشین ہوا۔ دشمنوں نے اُسکا محاصرہ کیا۔ بہت سے واقعہ طلب اور فرصت جو مخالفت سے ملگئے۔ اور ہنگامہ بداندیشی سرگرم کیا۔ حصار کے اندر بھی نمک حلالیت آدمیونکا حال کچھ اور ہو گیا وزیر خاں نے ان کا علاج یہ کیا انمیں سے ایک گروہ کو مقید کیا اور دوسرے گروہ کی دلدہی کرکے سرگرم پیکار کیا۔ ہر روز مورچل بدلتا تھا۔ قلعہ کے اندر کے آدمیونکی دوروئی سے وہ عاجز ہو رہا تھا کہ یہ ایک تائید غیبی اسکی ہوئی کہ غنیم نے اندر کے آدمیوں سے سازش کرکے بہت سے سپاہیوں سے حملہ کیا اور قلعہ پر نردبانیں لگاکر چڑھنا شروع کیا۔ قلعہ میں کچھ آدمی داخل ہوکر لوٹنے لگے کچھ ابھی راہ ہی میں تھے کہ مہر علی کے ایک بندوق لگی جسنے وہ فوراً نشانہ اجل بنا۔ اسکے مرتے ہی لشکر اسکا سراسیمہ ہوا اور ندربار کو بھاگ گیا متحصن ہمیناک تھی۔ اسلئے دشمن کی فریب آرائی کے گمان سے باہر نہ نکلے جب دوسرے روز پہر دن چڑھا تو وہ باہر آئے

مظفر حسین مرزا گجرات سے بھاگ کر پھر دکن میں آیا اور بہار میں بدکیش فتنہ افزوں سے ملکر ہنگامہ آرا ہوا۔ اس ملک کی سپاہ اُس سے لڑی اور اُسنے ہزیمت دی۔ وہ خاندیش میں آیا۔ راجہ علی خاں نے اسکو گرفتار کیا کہ وہ تصرف و تسلط سے باز رہے اگرچہ اصلی مطلب اس گرفتاری سے یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کو اسکی سورش سے بچائے۔ مگر اس نے ظاہر یہ کیا کہ اسکو پادشاہی دولت خواہی کا دستمایہ بنائے۔ جب پادشاہ کو یہ حال معلوم ہوا تو مقصود دنبہ کے ہاتھ راجہ علی خاں پاس فرمان بھیجا کہ وہ اُس کو درگاہ والا میں بھیجے۔ راجہ علی خاں نے اسکے حوالہ کرنے میں تامل کیا اور شرائط دور از کار پیش کیں۔ پادشاہ نے قطب الدین خاں و فتح اللہ خاں بھیجکر اسکو سمجھایا تو اُس نے انکی ہمراہ کچھ سپاہ کے ساتھ پادشاہ پاس مرزا کو بھجوایا۔ وہ ۲۷ آذر ماہ الٰہی سنہ ۹۸۶ کو پادشاہ کی خدمت میں پابزنجیر آیا۔ پادشاہ نے اُسے بندی خانہ میں بھیجا کہ پندپذیر ہو

جب پادشاہ کو معلوم ہوا کہ گجرات میں وزیر خاں سے احکام معدلت کی پاسبانی اچھی طرح نہیں ہوسکتی اور داد دہی کی ناروائی سے ملک میں خلل پیدا

مظفر حسین مرزا کا گرفتار ہونا سنہ ۹۸۶ ہجری ۲۴ جلوس

ہوئے تھے اسکو معزول کر کے ۹۸۵ھ میں شہاب الدین احمد خاں کو اس ملک کی حراست سپرد
کی وزیر خاں کو مہمات ایدر کے سرانجام کے لئے بھیجا۔

جب سے بادشاہ نے گجرات کو فتح کیا تھا۔ اعتماد خاں گجراتی خدمات شائستہ بجالاتا تھا بادشاہ نے
نوازش فرما کر سرکار پٹن اسکو اقطاع میں عنایت کی اور خالصات گجرات کی آبادی اسکو
تفویض فرمائی۔ ہاتھی اور سو گھوڑے اسکو بخشے۔ اور میر ابو تراب کو اندرز
گوئی اور صلاح اندیشی کے لئے ساتھ کیا۔ شہاب الدین احمد خاں نے ایک لشکر
بسر کردگی مرزا خان کے امیر خاں غوری پر حملہ آوری کے لئے بھیجا کہ سورت کو اُس
سے چھین لے مگر اُسکی بے تدبیری اور بزدلی سے کوئی کام نہ ہوا آسان بات
دشوار ہوئی وہ ناکام پھرا۔ جب سپہ آرا میں کار شناسائی اور مردانگی سگالش نہیں
ہوتی اسکے ماتحت جوانمردوں سے بھی کام نہیں ہوتا۔ سنہ ۹۹۱ھ میں گجرات میں
سورش برپا ہوئی۔ اگرچہ شہاب الدین احمد خاں و قطب الدین احمد خاں کے ملازموں
کی بدگوہری اس فتنہ کا سرمایہ تھا۔ مگر ان دونوں امیروں کی بے پروائی
اور کار ناشناسی اس نافرمانی کی دستاویز تھی۔ وہ ہرزہ گویوں سے مدارا
رکھتے تھے اور غفلت نے ایسے یک جہت یاوروں کے جمع کرنے میں کوشش
نہیں کرنے دی تھی کہ کار افتادگی کے زمانہ میں اپنے جوہر ذاتی کو دکھاتے۔

اس دیار کی مرزبانی اعتماد خاں کو سپرد ہوئی۔ تو اعتماد خاں کو مال پرستی و کم فکری
سے اور کمک کے دیر میں بھیجنے سے بغاوت کے اسباب جمع ہوگئے۔

۲۳ شہریور سنہ ۹۹۱ھ کو فتنہ جویوں نے مظفر شاہ کو احمد آباد میں فرماں روا
بنایا۔ ابوالفضل نے تو یہ لکھا ہے کہ مظفر کے باپ دادا کو کوئی شخص نہیں جانتا تھا
اسکو نتھو کہتے تھے۔ اعتماد خاں نے اُسکو سلطان محمود کا بیٹا بنایا۔ طبقات اکبری
میں لکھا ہے کہ سنہ ۹۶۷ھ میں گجرات کی مجلس امرا میں اعتماد خاں ایک لڑکے کو

اعتماد خاں گجراتی [illegible] مرزا خان سنہ ۹۸۹ھ

مرزا خان کا سورت سے ناکام پھرنا - سورش بغاوت گجرات سنہ ۹۹۱ھ

جسکا نام ننو تھا لایا اور بقسم یہ کہا کہ یہ سلطان محمود کا بیٹا ہے۔ اسکی ماں حرم خاص سلطان کی تھی۔ مگر وہ کنیزک تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو سلطان نے اسقاط حمل کیلئے اسکو میرے حوالہ کیا۔ پانچ مہینے کا حمل تھا۔ میں نے اسکو اپنے گھر میں چھپا رکھا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا جسکی میں نے ابتک پرورش کی۔ گجرات کا تخت خالی تھا۔ سید مبارک نے اسکے سر پر تاج سلطنت رکھا مظفر شاہ اسکا لقب ہوا۔ اکبر کی فتح گجرات سے پہلے بارہ برس تک وہ سلطنت کرتا رہا۔ رعایا نے اسکو اپنا بادشاہ مانا۔ اول یورش گجرات میں مظفر کھیت میں چھپا پڑا تھا کہ بادشاہ کے آدمیوں نے اُسے گرفتار کرلیا۔ چغتائی کی رسم قدیم کے موافق اسکا سر اُڑانا چاہیئے تھا۔ مگر اکبر نے اسکو لڑکا سمجھکر اس سے آبائی رسم کے خلاف کام کیا اگر وہ اسوقت تحمل کا کار فرمانہ ہوتا اور اسکو گردن سے مارتا تو پھر بڑی خونریزی نہ ہوتی۔ مگر کون جانتا تھا کہ اناج کے کھیت کا پکڑا قیدی جسپر اکبر نے مہربانی سے تبسم کیا ہو چند سال میں ایسا بالغ ہو جائیگا کہ گجرات کا بادشاہ بن کر اکبر کا ایسا مقابلہ کرے گا۔

بدایونی نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے تیس چالیس روپیہ اسکا کر دیا تھا۔ مراۃ احمدی اور بدایونی نے یہ لکھا ہے کہ بادشاہ اُسپر ایسا مہربان ہوا کہ اسکو اچھی جاگیر دیدی۔ فرشتہ نے اس جاگیر کا حال نہیں لکھا۔ مگر یہ لکھا ہے کہ اکبر اسپر نظر عاطفت رکھتا تھا۔ جب وہ پکڑا گیا تھا تو کچھ دنوں کرم علی داروغہ خوشبوخانہ کی حوالات میں رہا۔ پھر وہ منعم خان خانان کا زندانی بنا۔ بعد ازاں خواجہ شاہ منصور اسکی دیدبانی کرتا تھا مگر اسکی بےپروائی سے ۲۲ جلوس میں وہ بھاگ کر اپنی جنگاہ کیطرف چلا۔ راجہ بیلہ (بلیلہ) زمیندار کی پناہ میں۔ قطب الدین نے اسپر لشکرکشی کی تو وہ جونہ گڈھ کے حواشی میں لونیہ کاٹھی کے پاس مقیم ہوا۔

جب بادشاہ نے اعتماد خاں کو گجرات بھیجا اور شہاب الدین احمد خاں کو اپنے پاس بلایا تو شہاب الدین کے نوکروں کا ارادہ اپنے آقا کی جان گزائی کا تھا۔ مراۃ احمدی میں لکھا ہے کہ یہ اسکے ملازم اکثر مرزاؤں کے ملازم تھے

اسکے برباد ہونیکے بعد وہ گورنمنٹ گجرات کے خواہ کوئی ہو ملازمت کرنے کو تیار تھے
ان ملازموں کی یاوری سے مظفر شاہ اپنے گوشہ سے نکلا اور فتنہ پرداز ہوا۔
۔ احمد شہر پور کو شہباز خاں نے درگاہ والا کا قصد کیا۔ دوسرے روز شہر میں اعتماد خاں آن کر
مسند آرائے حکومت ہوا۔ عابد بیگ خلیل بیگ اور اور بدخشی و تورانی امرا دولقہ کی
طرف ناسپاس ہو کر چلے گئے اور ننو کے دستگیر بنے عمر حاجی نے اور آتش فتنہ کو بھڑکایا
یہ حاجی پہلے پادشاہ کا دیوان صدارت تھا اور تباہ کاری میں مرزا شرف الدین کا پیشوا بنا تھا
گجرات میں اس نے اعتبار پیدا کر لیا تھا۔ جب یہ ملک فتح ہو گیا تو وہ دکن چلا گیا جب شہاب الدین
احمد خاں یہاں کی دارائی پر سرفراز ہوا تو پہلی آشنائی کے سبب سے عابد اُس سے آنکر ملا۔ ان سب
بے حقیقت زر بندوں کا قول یہ تھا کہ اب جاگیریں تو ہاتھ سے گئیں۔ جب تک دار الخلافہ جائیں
نہیں اور وہاں سے خرچ ملے نہیں اور داغ کا معاملہ درست نہ ہو روٹی ہاتھ آنی دشوار ہے یہی بہتر ہے کہ
ننو کو سردار بنا کر سوزش برپا کریں۔ ہرچند کار آگاہ خیر اندیشوں نے اعتماد خاں کو سمجھایا کہ شہاب الدین
احمد خاں ابھی پادشاہ کے پاس چلا ہے۔ کچھ دور نہیں گیا ہے اسکو اُلٹا بلا کر چند روز اسکی اقطاع اس پاس
رہنے دو۔ یا خزانہ کا مُنہ کھو کر ان سنگ کس طینتوں کا علاج کرو۔ ان بدسرانجاموں کو جنکا
ہنگامہ ہنوز سرانجام نہیں ہوا جلد کام تمام کرو مگر اعتماد خاں نے ایک نہ سنی
اور یہ جواب دیا کہ شہاب الدین احمد خاں کے نوکروں نے یہ ہنگامہ
برپا کیا ہے۔ آپ سے وہ اسکو منائے گا۔ شہاب الدین احمد خاں کچھ تھوڑا
دور گیا تھا کہ بہت سے سرکش جمع ہو گئے اور انہوں نے ننو کی لڑائی کا
آوازہ بلند کیا۔ ناگاہ بیچل رائے جو شہاب الدین کے واپس
بلانے کی تھی قرار پائی۔ اعتماد خاں اس لئے کہ پیغام
گذاری کا وقت کوتاہ ہے خود چلا گیا کہ جس طرح ہو سکے شہاب الدین
احمد خاں کو واپس لائے۔ ہرچند دیدہ وروں نے اسکو سمجھایا کہ

اس شورش میں شہر کو خالی چھوڑنا۔ آسان کام کو مشکل کرتا ہے مگر یہ سمجھانا سود مند نہ ہوا وہ رات کو امیر ابو تراب اور نظام الدین احمد کے ساتھ گیا۔ راستہ بھولا مگر صبح کو گڈھی میں آیا۔ اور شہاب الدین احمد خاں سے ملا۔ بعد گفتگو کے اُس کا واپس جانا قرار پایا تمام اسکی درخواستیں مان لیں۔ اقطاع کو اسکے مسلم رکھا دو لاکھ روپے اور اضافہ کیے بہت سے دن اس پیمان و سوگند کی استواری میں لگے۔ شہاب الدین احمد خاں بنہ وبار کے ساتھ روانہ ہوا۔ اور احمد آباد سے آٹھ کوس پر پہنچا۔ شہاب الدین کنبوہ و میر معصوم بھکری نے پہلے سے آنکر کہا کہ فتنہ اندوزوں کے ہنگامہ میں نو آن ملا۔ اس کا ارادہ کھنبایت جانے کا تھا۔ مگر شہر کو خالی دیکھکر اب وہاں وہ جلوہ ریز ہے اور احمد آباد پر چیرہ دستی کر رہا ہے۔ پہلوان علی سیستانی کوتوال شہر مارا گیا۔ آدمیوں کا مال اور ناموس لٹ گیا اُس کا چارہ یہ سوچا گیا کہ لڑائی ہو۔ صبح کو حوالی عثمان پور میں دریا سابرمتی کے کنارہ پر دہ آئے اور غفلت میں آن کر سو رہے درست اندیشی پیش بینوں نے ہر چند کہا کہ شہر میں بڑے ناسپاس پھیل رہے ہیں اور تاراج کی کشائش میں لگ رہے ہیں ایسی حالت میں صفیں آراستہ کرکے اس شہر کے اوباشوں کو مارنا چاہیئے جس سے شورش دور ہو اور مراد پوری ہو۔ مگر امرا نے سہل نگاری کرکے کچھ نہ سُنا اور یہ سمجھے کہ شہاب الدین احمد خاں پرانا مرزبان ہے اور استمالت ناموں کے نکلنے سے اس کے نوکر سب آنکر ملجائیں گے یوں ہنگامہ ناسپاسی پراگندہ ہو جائیگا۔ اس سگالش کے سبب سے اعتماد خاں اور میر ابو تراب لشکر سے ایک اپنے آشنا کے گھر چلے گئے۔ شہاب الدین احمد خاں نے اپنے نوکروں کو خطوں سے دلاسا دینا شروع کیا اس عرصہ میں مخالف جمع ہوکر آمادہ پیکار ہوئے اور صف آرائی کا انتظام کیا تو شہاب الدین احمد خاں خواب سے بیدار ہوا۔ سرانجام سپاہ پر متوجہ ہوا۔ مصطفی شیروانی اور حاجی بیگ ازبک اور بہت سے امرا اپنی سپاہ کو ہمراہ لیکر مخالف سے جا ملے۔ قریب

پانچ سو آدمیوں کے چلے گئے۔ پہلے اس سے کہ لڑائی ہو عثمان پور کے پیچھے سے غنیم آنکر لشکر شاہی پر چڑھ آئے۔ اس لشکر میں سے بہت سے تو غنیم سے جا ملے۔ تھوڑے ایک خانہ وزادہ کے سنبھالنے میں رہے۔ سات ہزار سواروں سے کچھ زیادہ یہ لشکر تھا۔ اب اس میں سے سوا چند خویشاوندوں کے کوئی اور نہ رہا ایک نوکر نے شہاب الدین احمد خاں کے شانہ پر تلوار ماری اور بندوق سے اس کے گھوڑے کو گرا دیا وہ زمین پر گرا چند وفاکیشوں نے پھر اُسے گھوڑے پر سوار کیا اور اس آشوب گاہ سے نکالا۔ لوٹنے سے دشمن لدے تھے اس لیے اُنھوں نے تعاقب نہیں کیا۔ ۲۵ کو شہاب الدین احمد خاں و اعتماد خاں و نظام الدین احمد تین سو آدمیوں کے ساتھ پٹن میں جمع ہوئے۔ مظفر شاہ (نتھو) نے اپنے حسب دلخواہ احمد آباد میں فرمان روائی شروع کی اپنے ملازموں کو بلے بلے خطاب شاہانہ اور بڑی جاگیریں عطا کیں۔ یہ نہ سمجھا کہ خردوں کو بزرگوں کا دنیا رسوا کرنا ہے تھوڑے عرصہ میں یہ سب اہل خطاب بے آبرو ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے منصب و علوفہ کی گفتگو میں اپنا چھچھوراپن دکھایا اور بعض نے تیول کی خواہش میں ایک دوسرے کی آبرو کو خاک میں ملایا۔ پائندہ محمد سگ کش اور تہمک ایک پرگنات لگانے گئے ان کی دشمنی کی نوبت خونریزی پر آئی۔ مکار تہمک نے اس کی طرف سے شہاب الدین احمد خاں کو خط لکھا اور اُس کے پہرہ دار سے ملکر اپنا کام چلایا۔ مظفر نے کچھ سوچا نہ سمجھا اس نے پائندہ خاں کو پابند کر دیا۔ یہ پادشاہی کی اقبال مندی تھی کہ اسکے لیے دشمنوں نے وہ کام کیا جو اسکے دوستوں سے نہ ہو سکا۔

اسی زمانہ میں شیر خاں فولادی سورت سے آنکر مظفر سے ملا۔ مظفر کو قطب الدین خاں کی طرف سے تردد رہتا تھا اور اُس کے نوکروں کو بلایا تھا۔ عابد کو اُس نے احمد آباد سپرد کیا۔ اور خود اُس کی طرف گیا اور شیر خاں فولادی کو پٹن کو روانہ کیا اسی شورش میں سید دولت نے کھنبایت میں دست درازی شروع کی۔

خواجہ علاءالدین حسین نے چودہ لاکھ روپیہ بندر سے نکال کر تیز دستی سے قلعہ بروج میں قطب الدین خاں پاس پہنچا دیا۔ قریب چالیس لاکھ دام کے سید دولت کو ہاتھ آئے۔ جب یہ سرگزشت بادشاہ نے سنی تو نہم مہر ۲۸ ۹۹۱ھ سید قاسم و سید ہاشم و شیردبہ خاں اور بہت سے امرا کو بسر کردگی مرزا خاں بیرام خاں رخصت فرمایا کہ سیدھے گجرات کو جائیں اور سرکشوں کو سزا دیں۔ قلیچ خاں اور نورنگ خاں کو مالوہ جانے کی اجازت دی کہ اس سرزمین کے امرا کو لیجا کر لشکر گجرات سے ملائیں وہ یکتا دلی وخیر سگالی سے نیکو خدمتی بجا لائیں۔ اور قطب الدین کو فرمان بھیجا کہ اگرچہ اُسکی حسب دانی آشوب کے دور کرنے کے لیے کافی تھی مگر ہم نے خرم اندوزی کے سبب لشکر بھیجا کہ اگر شر و فساد دور نہ ہوا تو وہ اُس سے کام لے۔

شہاب الدین احمد خاں و اعتماد خاں و نظام الدین احمد خاں کا ارادہ ہوا کہ پٹن سے بھاگ کر جالور چلے جائیں اور اس ملک کو بالکل چھوڑ جائیں کہ اُن دو دلی میں محمد حسین و شیخ ابو القاسم اور اور امرا پندرہ سو سپاہ لیکر کمک کو آئے اور ایکہزار آدمی غنیم سے جدا ہوکر شہاب الدین احمد خاں سے آن ملے تو پٹن سے جانے کا ارادہ موقوف ہوا۔ اس ہنگامہ میں راولیہ خاصہ خیل شیر خاں نے قصبہ جوتھانہ میں شور و شر اُٹھائی۔ بیگ محمد توقبائی نے مردانگی کرکے اس فتنہ کو مٹا دیا۔ شیر خاں نے یہ سُنکر اپنے داماد حسین کو بہت سے آدمیوں کے ساتھ وہاں بھیجا۔ بیگ محمد نے جنگ میں صلح نہ دیکھی پیچھے ہٹ آیا۔ بادشاہی امرا اسکی امداد کو آگئے۔ غنیم اس فوج کے شکوہ سے خوف کرکے پھرا تھا کہ بیگ محمد ان سے جا بھڑا۔ اور سخت لڑائی ہوئی راجپوتوں کی طرح وہ گھوڑے سے اُتر کر لڑا اور قریب تھا کہ وہ مارا جائے لیکن خواجہ نظام الدین احمد اُسکی مدد کو آیا جس سے غنیم کو پراگندگی ہوئی۔ پھر شیر خاں بہت سی سپاہ کے ساتھ لڑنے آیا لشکر شاہی نے تہیدستی سے نالش شروع کی۔ ناگریز اعتماد خاں نے لشکر کی آز کا چارہ کچھ کیا۔ خود مع شہاب الدین احمد خاں کے

شیر خاں فولادی کا مغلوب ہونا ۹۹۱ھ

بنگاہ داری کے لیے رہا اور امرا کو لشکر سمیت بسرکردگی شیر خاں اپنے بیٹے کے روانہ کیا۔ لشکر آئین جنگ کے موافق مرتب ہوا۔ ۲۸ آبان ۹۹۱ھ کو ٹپن سے اٹھارہ کوس پر میانہ کے نزدیک آتش جنگ روشن ہوئی۔ لشکر شاہی کے جرانغار کو لغزش ہوئی۔ لیکن حسین خاں مخالف کا سردار برانغار میں مارا گیا اس لیے لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا اور بادشاہی لشکر نے فیروزی پائی اور بہت غنیمت پائی۔ بہت سے باطل ستیز ہلاک ہوئے۔ کارآگاہوں کی سگالش یہ تھی کہ احمد آباد پر ابھی چلے چلیں اور دشوار کار کو آسان کریں لیکن بیہودہ آدمیوں نے اسے قبول نہیں کیا اور اس عزیمت میں یکتائی نہیں ہوئی۔

قطب الدین خاں کا مارا جانا اور قلعہ بروچ کا دشمنوں کے ہاتھ آنا ۹۹۱ھ

سب چھوٹے بڑوں کو یہ خیال تھا کہ جب اس دیار میں مرزا خاں پہنچے گا اور قطب الدین خاں اس کے ساتھ ملکر کام کرے گا۔ تو شائستہ طور پر فتنہ کی گرد بیٹھ جائیگی۔ مگر قطب الدین خاں نے ناشناسائی اور خویشتن بینی کے سبب سے چارہ گری نہ کی۔ امرا ہیں نے ہر چند اس سے کہا کہ سرکشوں میں منصب و جاگیروں کے باب میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور ان کا حال غیر منتظم ہو رہا ہے۔ چاہیے کہ چستی و چالاکی سے روانہ ہو تو ناسپاسوں کا ہنگامہ پراگندہ ہو جائیگا اور دشوار کار آسانی سے سرانجام پائیگا مگر اس نے گزان پائی کی کچھ لشکر کی بے سامانی کا عذر کیا کچھ مالوہ کی سپاہ کا انتظار کیا۔ اس عرصہ میں گرد فتنہ بہت بلند ہوئی۔ بادشاہ نے جب اس کو سرزنش کی تو چارہ گری شروع کی۔ اپنے سے پہلے فوج روانہ کی۔ وہ رود بار مہندری سے پار جا کر قصبہ سرنال پر دشمن سے لڑی اور ان کو شکست دیکر شرمسار کیا قطب الدین خاں نے خود سری اور خویشتن بینی سے قلعہ بروچ کا پسندیدہ سامان نہیں کیا اور زر بندوں کا دل ہاتھ میں نہیں لایا یونہیں ۸ آبان ۹۹۱ھ کو بروچ سے باہر بلایا آیا۔ خیر سگالوں نے اس سے پوچھا کہ اس شورش بزرگ کو آسان سمجھنا اور لشکر کو نہ آراستہ کرنا کس لیے ہے؟

اس وقت ضرور ہی کہ سپاہ کو جو روپیہ کے لیے دہائی دے رہی ہی اور زبان درازی کر رہی ہی روپیہ دیکر اُس کی زبان کو بند اور اُس کے دلوں کو صید کرنا چاہیے مگر اس نے کچھ نہ سُنا۔ یہاں تک نوبت آئی کہ سلطان مظفر بہت سا لشکر لیکر نزدیک آیا دونوں طرف سے فوجیں آراستہ ہوئیں اس اثنا میں چرکس خاں اور میرک افضال غنیم کی طرف آ گئے۔ قطب الدین خاں دیوار بند میں بیٹھا۔ غنیم نے اُس کو چاروں طرف سے گھیرا۔ اس زمانہ میں یہ خبر آئی کہ شیر خاں کو شکست ہوئی جس کا اوپر بیان ہو چکا ہی اس سے مظفر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ لشکر بادشاہی احمد آباد پر چیرہ دستی نہ کرے اس طرف چلے۔ گر یہ لشکر شادمان سے اُلٹا چلا آیا تھا۔ اس لیے وہ حصار کے لینے میں اور دلیر ہوا۔ قطب الدین خاں نے مال پرستی اور جان دوستی کے سبب سے جانفشانی میں ہمت نہ کی۔ دشمن پاس زین الدین اور سید جلال کو بھیجکر صلح کی خواہش کی اور حج زمع مال جانے کی درخواست کی مگر اُس نے یہ نہ جانا کہ مال اندوزی آبرو کی پاسبانی کے لیے ہوتی ہی پسندیدہ زندگانی وہی ہی کہ عزت کے ساتھ ہو۔ سپاہی کا آئین یہی ہی کہ زیست ناپایدار کو اپنے خداوند کے کار میں مردانہ وار کام میں لائے۔ اور اس جوانمردی سے جاوید زندگی اور دائمی ناموس حاصل کرے۔ مظفر اس پیغام سے ایسا مغرور ہوا کہ اُس نے زین خاں کو تو ہاتی کے پاؤں تلے کچلوایا اور دوسرے کو زندانی بنایا۔ اس شورش سے بھی وہ بیدار نہ ہوا اور خوشامد کر کے عہدنامہ حاصل کیا۔

۱۳ آذر کو مظفر کے پاس گیا اس نے اُس کو اور اس کے بھانجے عماد الدین حسین کو قتل کرایا پھر قلعہ بروج کا محاصرہ کیا۔ خواجہ عماد حسین نے پناہ مانگی کوتوال نے قلعہ کی کنجیاں سپرد کیں۔ دشمن کو ۱۹ آذر کو یوں قلعہ بے جنگ ہاتھ آیا۔ اُنھوں نے کھنبایت میں خزانہ شاہی اور مرزبان کا مال لوٹا۔ اور رعیت آزاری اور

بار زگانن گیری کو اپنا پیشہ بنایا۔ اس سبب سے یورش گجرات پر پادشاہ
کی توجہ ہوئی۔

جب مظفر پاس سپاہ اور مال بہت جمع ہوا تو امرا پٹن کا ارادہ ہوا کہ جالور
چلیے اور اس ملک کو چھوڑیے۔ اس وقت مرزا خاں لشکر لیکر آ گیا اس سے جلنے کا
ارادہ موقوف ہوا۔ کچھ امرار کے آنے کے لیے انتظار رہا کچھ کار نشناسوں کی ہرزہ درائی
سے آہستہ سفر ہوا۔ خواجگی طاہر نے مرزا خان سے پٹن کی حقیقت سنائی۔ اُس نے
قطب الدین خاں کا حال ظاہر نہ ہونے دیا۔ ۱۰ دی سنہ ۹۹۲ھ کو وہ پٹن کے
باہر آیا۔ انجمن مشورہ کو جمع کیا۔ کسی نے کہا کہ جب تک مالوہ کا لشکر قریب نہ آئے
یہیں اقامت کرنی چاہیے۔ بعض نے کہا کہ جب تک خدیو عالم تشریف نہ لائیں ہلنا نہیں
چاہیے۔ بعض نے کہا کہ سامان بکار زار آمادہ ہے۔ کاردان جوانمرد بہت سے ہیں۔
پھر لڑائی میں توقف کرنا کیا ضرور ہے۔ غرض لشکر آئین جنگ کے موافق مرتب ہوا۔ مظفر
بہت سا لشکر لیکر احمد آباد میں آیا اور اس کو مرتب کیا عثمان پور میں جہاں پہلی لڑائی
ہوئی تھی لڑنے کا قصد کیا۔ توپوں کو شائستہ آئین سے لگایا۔ مصلحت آمیز ساختگی بھی
پسندیدگی رکھتی ہے۔ فرمان شاہی جعلی بنایا گیا اور اس میں یہ حکم لکھا گیا کہ ہم فلاں تاریخ لشکر کی
کمک کو خود روانہ ہوئے جب تک ہم آنکر نہ ملیں کارزار میں شتابی نہ کرنا اس فرمان کے
مشتہر کرنے کے لیے بزم نشاط آراستہ ہوئی سراسیمہ دلوں کو اطمینان ہوا۔
ہمت نفسوں کا قصد اور بڑھا۔ غنیم کو خوف پیدا ہوا۔ اولیائے پادشاہی نے
اس خیال سے کہ ہم سے لشکر مالوہ ملجائے اور مخالف کی نبرد گاہ بدل جائے پادشاہ
کے آنے کا مژدہ لوگوں کے دلنشین کیا وہ دشمن کے روبرو سے ہٹ کر سرکیچ
کو چلے ۶ بہمن کو وہاں پہنچے۔ جنگ کا مقام تجویز کیا جس کے ایک طرف شہر تھا
اور دوسری طرف دریا اس دلکش جگہ کو شاخ بندی (درختوں کی ٹہنی لگا کے)

سلطان مظفر کا دوبارہ شکست پانا سنہ ۹۹۲ھ

کر کے استوار کیا۔ منظفر اس طرف روانہ ہوا اُس کے ایک گروہ نے بادشاہ کے لشکر پر
شبخون مارا مگر ناکام رہا۔ صبح کو لشکر شاہی نے اپنے خارپست کو مٹی کی دیوار سے
مستحکم کیا۔ غنیم کو یہ خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں بادشاہ نہ آجائے اور لشکر شاہی سے لشکر
مالوہ نہ ملجائے اس لیے اُس نے لڑائی میں جلدی کی لشکر شاہی کے امرا معرکہ آرائی
میں تساہل امرا مالوہ کے انتظار کے سبب سے کرتے تھے مگر اب ناچاری کو لڑنا پڑا۔
مشہور تھا کہ منظفر عقب سے دوسرے لشکر کے روبرو آئیگا۔ اس لیے رائے دُرگا اس طرف
متوجہ ہوا اور سپاہ مرتب ہو کر چلی بیچ میں ایک بڑی جھیل اور ریگستان آتے ہراول نے
اُس سے باہر جانے میں دل چرایا۔ مگر التمش نے پیش قدمی کر کے ہراول کی ہمت بندھوائی
اس تنگنا کے گزرنے لشکر میں پراگندگی ہوئی اور کئی جگہ لڑائی ہوئی اور سرافشانی اور
جان ستانی نے آرائش پائی۔ سید ہاشم بارہ نے ستر ہ زخم کھا کر جان دی خضر آقا
نے بھی خوب خدمات کیں۔ طرفین کے جوان مرد خوب لڑے ہراول اور التمش کے
پہلوانوں نے پرگندہ چپقلش کیں۔ جدا جدا گروہ آپس میں لڑ رہے تھے مرزا خاں کے
ساتھ تین سو جوان اور سو ہاتھی تھے وہ منظفر سے لڑ رہا تھا جس کے پاس چھیاسٹھ ہزار
سوار تھے۔ ہوا خواہ مرزا کو منظفر کے آگے سے پیچھے لیجانا چاہتے تھے مگر وہ کب انکی
مانتا تھا اس نے صف شکن ہاتھیوں کو جوش میں لاکر مخالف کے پاؤں اُکھیڑ
دیئے اور فتح حاصل کر لی۔ رائے دُرگا نے غنیم کے برانغار میں بیم پیدا کی ہر کس و ناکس
کی زبان پر تھا کہ بادشاہ ایلغار کر کے آگیا۔ مخالف اس خوف کے مارے بے لڑے
بھاگ گیا۔ منظفر بھی معمور آباد کی راہ سے دریائے نہندری پر جلد آگیا اور ہر گروہ
بے اوسان ہو کر جلد بھاگ گیا۔ تھوڑے مارے گئے بہت سے بے آبرو
ہوئے اخیر دن تک یہ ہنگامہ گرم رہا۔ باوجودیکہ بادشاہی لشکر دس
ہزار سوار سے زیادہ نہ تھا اور دوسری جانب چالیس ہزار اور ایک لاکھ پیادے تھے

نظم

بس اندک سپاہے کہ روز نبرد	زبسیار لشکر برآورد گرد
کہ در جنگ پیروزی از اختر است	نہ از گنج و بسیاری لشکر است

لڑائی بہت ہوئی تھی اور شام ہونے کو تھی اس لیے تعاقب نہیں کیا گیا پہلی نصرت گاہ میں خدا کا شکر ادا کیا گیا صبح کو احمد آباد میں بزم عشرت آراستہ ہوئی۔ ہر گلی کوچہ میں شادیانے بجائے گئے۔ ۲۵ رکو حدود گھاٹم پور میں بادشاہ کو اس فتح کی خبر ہوئی۔

مظفر خاں کی دوبارہ شکست سنہ ۹۹۲ھ

ایک روز درمیان قلیج خاں و شریف خاں و نورنگ خاں و تولک خاں اور سپاہ مالوہ بادشاہی لشکر سے آن ملی۔ مظفر نے زر پاشی کر کے پھر سپاہ کو جمع کیا اور کھنبایت میں جا کر سوداگروں سے بہت مال لے لیا۔ بہت سے زر بندے اس پاس جمع ہوئے اور رعایا نے اس سبب سے کہ اُس کو اپنے سلاطین پیشین کا فرزند جانتے تھے اس سے وفاداری کی۔ یوں بہت دلیر ہو گیا۔ اولیائے دولت سپاہ کی تہیدستی کی نالش سے اور کارشناس بیدلوں کی بیہودگی سے لڑائی پر متوجہ نہ ہوتے تھے اور بادشاہ کے مقدم ہمایوں کی آرزو کرتے تھے اور خواہش کو فسخ راے ترک کر کے نادرست اندیشی کرتے تھے۔ بادشاہ نے اُن کو بہت نصیحتیں کیں اور سمجھایا کہ بہت جلد یہ فتنہ دور ہو جائیگا جس کا اثر یہ ہوا کہ امرار نے لڑنے کا ارادہ کیا۔ بہت سے امرار کی رائے یہ تھی کہ سب یکدل ہو کر مظفر کے آوارہ کرنے میں کوشش کریں۔ بعض یہ کہتے تھے کہ پہلا لشکر ابھی کارزار کی محنت اُٹھا چکا ہے وہ آرام کرے۔ تازہ لشکر قلیج خاں اور نورنگ خاں لیکر اس کام میں دل لگائیں اور احمد آباد میں مرزا خاں اور اور امرار جا کر آبادی ملک میں مشغول ہوں۔ آخر کو اس تدبیر پر سب کا اتفاق ہوا لشکر مالوہ ایک دو منزل چلکر وقت کو ٹالنے لگا۔ مرزا خاں نے سید قاسم زخمی کو اور بعض امرار کو دو ہزار

لشکر کے ساتھ احمد آباد کی حفاظت کے لیے چھوڑا خود کھنبایت کی طرف جو مظفر کی شورش گاہ تھی روانہ ہوا۔ مظفر نے سید دولت کو کچھ سپاہ کے ساتھ دمقہ بھیجا اور پسران اختیار الملک اور مظفر شیروانی کو محمود آباد کی طرف لڑنے کو روانہ کیا۔ جب سپاہ شاہی مظفر سے دس کوس کے فاصلہ پر آئی تو وہ قصبہ سید میں جو اچل نہر یار زمیندار کا بنگاہ تھا چلا گیا۔ شاہی لشکر بڑودہ میں آیا۔ تولک خاں کو روانہ کیا کہ سید دولت کو سزا دے کر واپس آئے اور باقی سپاہ مظفر سے لڑنے چلیں۔ ۹ اردیبہشت بار مذکور کو لڑائی ہوئی۔ شاہی لشکر غالب آیا گرمی کے سبب سے تعاقب نہ ہوا۔ مظفر نربدہ کے پار قصبہ نادوت میں آیا۔ وہاں سے کوہ جھاپیہ میں گیا۔ یہ ایک قریہ احمد آباد سے ساٹھ کوس پر ہے اس کی استواری مشہور ہے تین طرف اس کے پہاڑ ہیں اور ایک طرف اس کے جنوب میں رود تاپتی ہے۔ جب لشکر شاہی نادوت میں آیا تو آگے چلنے اور پیچھے ہٹنے اور ٹھیرنے کے باب میں مشورہ کیا گیا ہر ایک نے اپنی دانائی کے موافق رائے دی نادان چپ رہے۔ انھیں دنوں میں تولک خاں شکست دیکر واپس آیا اور ملک مر گیا۔ جو مظفر کا سرمایہ شورش تھا۔ جب لشکر شاہی کی شہرت گرم ہوئی تو مظفر نے بروج میں اس کو اور نصیرا اور چرکس کو چھوڑا تھا قاعدہ ہے کہ دوردیاں وہ دل زبان سے دوستی کی باتیں بناتے ہیں اور باطن کی آگہی نہیں رکھتے ہیں ہمیشہ پایندہ خاں مغل کو لک اتحاد نامی بھیجا تھا۔ ان میں سے کچھ نصیرا کے ہاتھ آگئے وہ اس کی جان کے پیچھے پڑا اپنے تئیں بیمار بنایا۔ ملک عیادت کو آیا اس کو مار ڈالا۔ اور تین سو تورانی جو اس کے ساتھ تھے۔ ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ تولک خاں نے جب سید دولت کو شکست دیکر باہر نکال دیا اور خود واپس چلا آیا تو وہ کھنبایت آنکر قابض ہوا اور پیلاد کے تاراج کرنے کا ارادہ کیا۔ خواجہ سم بردی تھانہ دار نے مردانگی کرکے عرصہ نبرد کو آرائش دی اور فتحمند ہوا۔ انھیں دنوں میں اتالیق بہادر بھاگ گیا۔ اس یورش

بزرگ میں یہ اوزبک غنیم سے جدا ہو کر لشکر شاہی میں آیا تھا۔ اور میاں بہادر نے
اس کی دولت خواہی کو گزارش کر کے اپنے پاس رکھا تھا۔ جب لشکر شاہی
نادوت میں آیا تو وہ بھاگ گیا۔ میاں بہادر قید ہوا۔ ۹ [illegible] اسفندارمذ کو
لشکر نادوت سے نکل کر لڑنے آیا۔ مظفر بلند پہاڑ پر چڑھ گیا لڑائی خوب ہوئی۔
لشکر شاہی نے اس پہاڑ کو گھیر لیا اور بندوق و توپوں سے خوب کام لیا وہ
ایک جگہ پر قبضہ کرتا اور وہاں سے دوسری جگہ توپیں اور بندوقیں مار کر اس سے
لے لیتا اس طرح دشمن کو بھگایا اس کے دو ہزار آدمیوں کو مارا اور پانچ سو کو اسیر
کر کے قتل کیا۔ بادشاہ اس فتح نمایاں سے بہت خوش ہوا اور مرزا خاں کو خانخانان
کا خطاب اور پنجہزاری منصب عطا کیا۔ [illegible]
میں جا کر پھر چیرہ دستی کرنے لگا تھا۔ [illegible]
راجہ اس کی مدد کے واسطے نامزد ہوئے۔ پیشتر اس سے کہ لشکر اس کے سر پر
آئے وہ [illegible] کو تباہ کر رہا تھا۔ [illegible] کو شکست دی وہ
زخمی ہو کر بھاگا۔ اس کے ہاتھی اور سب اسباب چھن گیا۔ انہیں دنوں [illegible]
میرک یوسف [illegible] اور سرکشوں نے راجپیپلے کے کوہستان سے نکل کر
رعیت آزاری شروع کی۔ خانخانان نے [illegible] خواجہ نظام الدین کو بھیجا وہ دولقہ
میں آیا سرکشوں کا لشکر پراگندہ ہوا اور بادشاہی لشکر واپس گیا۔

۱۵ اردی بہشت ۹۹۲ھ کو خانخانان احمد آباد میں آیا ملک کی آبادی اور زیردستوں
کے [illegible] میں مصروف ہوا۔ پراگندیاں سب کچھ کم ہوئیں۔ مظفر کہستان راجپیپلے
نکل کر ایدر کی طرف گیا۔ پھر کاٹھیواڑہ میں پناہ لی۔ بندر کھوکھر میں گمنامی کے
کونے میں بیٹھا اور اپنے ہمراہیوں میں سے ہر ایک کو ایک گوشہ میں چھپایا۔
شیر خاں فولادی ولایت بگلانہ میں گیا۔ اس سرزمین کا مرزبان اس کی گرفتاری کے

[illegible] ۲۹ جلوس ۹۹۲

سلطان مظفر [illegible] ۳۰ جلوس ۹۹۳

درپے ہوا وہ اپنا مال ومنال چھوڑ کر حیلہ سازی سے دکن کی طرف چلا گیا۔ کچھ سرکش جیسے کہ مہدی سلطان اور خضر خواجہ خاں و پسر مرزا محمد مقیم نقشبندی بادشاہی لشکر سے آن ملے۔ سید دولت کا تعاقب کچھ کیا گیا اگر زیادہ کیا جاتا تو وہ گرفتار ہوتا۔

قلعہ بروچ کی فتح ۲۹ سنہ ۹۹۲

جب مظفر خاں کو دوبارہ شکست ہوئی۔ قلیج خاں و نورنگ خاں نے آغاز فروردین سنہ ۹۹۲ میں بروچ کے حصار حصین کا محاصرہ کیا۔ اس کی کشائش میں دیر لگی تو خانخانان نے شہاب الدین احمد خاں کو بہت سے آدمیوں کے ساتھ کمک کو بھیجا اور یہ سرکار اسی کی تیول میں مقرر کی۔ امرا نے اب سخت کوشش کی۔ ادھر کو بند و چیولہ کا سرگروہ باہر آیا اس قلعہ کی عاجزی کو بیان کیا اور بادشاہی افسروں سے کہا کہ اگر وہ قلعہ کے دروازہ پر آئیں تو میری طرف کے آدمی دروازہ کو کھول دینگے اور دشوار کار آسانی سے ہو جائیگا۔ یہی کیا گیا جس سے قلعہ فتح ہو گیا۔ نصیرا فکر کرکے مورچل سے باہر نکل گیا اور چرکس بہت سے سرکشوں کے ساتھ مارا گیا۔

سلطان مظفر کی بے آبروئی سے خودکشی ۲۹ سنہ ۹۹۳

ستودہ خو آدمی میں جب تک یہ صفات نہ جمع ہوں وہ افسر فرمانروائی کے قابل نہیں ہوتا۔ اول دریافت والا جس سے حق گزاری اور کردار کی مرتبہ شناسی ہوتی ہے۔ دوم دادوہی کے وقت خویش و بیگانہ دوست و دشمن کو نہ دیکھنا تاکہ بے زر و زور ستم رسیدہ کامیاب ہوں اور بدگو ہر مردم آزار کونوں میں چھپتے پھریں۔ سوم خداداد دلاوری کہ ستمگاروں کے شکوہ کے سبب سے دادگری سے باز نہ رہے اور شورشوں کے وقت مستقل رہے۔ چہارم جدکاری جہانبانی میں رات دن کو نہ جانے اور راحت کو محنت سے زیادہ نہ پسند کرے۔ پنجم فطرت عالی اسکے دل میں سیم و زر کا وزن کچھ نہو بخشش و بخشائش سے زر بندوں کو پرستار بنائے۔ ششم فراخ حوصلگی کشادہ پیشانی سے زمانہ کی ناخوشیوں کو برداشت کرے۔ ناکامی سے غمناک نہ ہو۔ ہفتم دیگر گونگی کیش و مذہب اس کو پاسبانی سے باز نہ رکھے اور گرد و ہا گروہ آدمیوں کو ایمن کرے۔ ہشتم مہرافزونی

آدمیوں کی ناخوشی سے آزردہ ہو اور خوش خوئی سے چارہ گری کرے تاکہ جگر استاب غاشیۂ بندگی دوش پر رکھیں۔ اور ترہت گاہ دولت سے غبار دوئی نہ اُٹھے۔ نہم گزیدہ تدبیر دستشناسائی کو کردار میں لائے۔ بائست وقت کو شائستگی کے ساتھ کرے تاکہ بدکاری کا خاربن اُکھڑ جائے۔ اور آشوب گاہ جہان آرائش پائے۔ دہم کم آزی خواہش ناہنجار کو پیدا نہ ہونے دے اور عقل کے خلاف کام نہ کرے تاکہ خشم کی چیرہ دستی سے باز آئے اور دولت روز افزوں ہو یازدہم رائے زنی میں اپنی دانش و بینش پر اعتماد نہ کرے اور کار آزمودہ کارآگاہوں سے پُر دہش کرے۔ ہر شخص پر راز نہ کھولے اور دیدہ درخیر سگال سے شرم کو باز نہ رکھے۔ تاکہ اُس کو روزگار گزند نہ پہنچائے۔ اور ہمیشہ خوش رہے۔ دوازدہم تقلید دشمنی۔ ہمیشہ تحقیق دوستی کو اپنا پیشکار بنائے۔ دلیل پرستی کو اپنا شعار رکھے تاکہ بہت سے آدمیوں کو ایک روش خاص پر دیکھکر ڈھیل مل نہ ہو جائے۔ اور جستجوی حجت سے صبر نہ کرے مظفر خاں میں یہ خصلتیں نہ تھیں کہ وہ فرماں روا بنتا۔ دولت کی کثرت نے اُس کو دیوانہ بنا دیا تھا باوجودیکہ دوبار اُسکے سر پر سنگ دبار لگا۔ مگر وہ اپنی غفلت سے بیدار نہ ہوا اور شورش زیادہ مچانے لگا۔ اپنے اندوختوں کو لٹا کر ہنگامہ آرا ہوا۔ زر بندے اسکے گرد جمع ہوئے۔ قصبہ کوندل میں جو جونہ گڈھ سے پانچ کوس پر ہے وہ فتنہ جو ہوا اور امین خاں غوری اور جام سے دوستی کا ڈول ڈالا۔ ان بومیوں نے باتیں بناکر اس سے زر لے لیا اور اپنے ملنے کو اور وقت پر ٹالا۔ وہ فرصت کی کمین گاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت کہ لشکر شاہی واپس آیا اور اس سرزمین کے تیولداروں کو شورش کے سبب سے کم حاصل ہوا اور کچھ پراگندگی ہوئی تو اس کو قابو ملا اور اُس نے فتنہ مچایا خانخاناں نے قلیج خاں کو کار شناسوں کے ساتھ احمد آباد کی پاسبانی کے لیے روانہ کیا اور دو طرف فوجیں نامزد کیں میدانی رائے اور امیروں کو موضع ہدالہ میں دندوقہ سے سات کوس پر چھوڑا اور سرداروں کو شہر سے آٹھ کوس

پر بیرا ھو بٹھایا۔ سید قاسم کو سادات بارہ کے ساتھ پٹن میں چھوڑا اور ۹۹۳ھ/۲۹ کو نورنگ خاں
اور خواجہ نظام الدین احمد کو خود لیکر مظفر کی مالش کے لیے روانہ ہوا۔ وہ مورلی میں زمینداروں
کی راہ دیکھ رہا تھا۔ اور ہر طرف اپنے آدمیوں کو بھیجکر مال جمع کرتا تھا۔ رادھن پور کو لوٹ لیا
تھا۔ لشکر شاہی کی خبر سُنکر وہ گھبرائے اور راجوٹ کو کہ ملک کاٹھیواڑہ کا بڑا شہر ہے
روانہ ہوا۔ خانخاناں نے لشکر کو چھوڑا اور تیز رو ہوا۔ بیرم گاؤں سے کھری تک ساٹھ
کوس میں آبادی نہ تھی۔ پادشاہی لشکر نے آذوق ساتھ لیکر لوٹنا شروع کیا مظفر اُس
کے سامنے نہ ٹھیر سکا۔ کوہستان بورہ کی طرف چلا گیا یہ ایک پہاڑ بڑا بلند سمندر کے قریب
ہی تیس ۳۰ کوس لمبا اور دس ۱۰ کوس چوڑا ہی اس میں شیریں چشمے رواں رہتے ہیں اور
خود رو میوے فراواں ہوتے ہیں۔ اس سے بیس کوس پر دوارکا شمال رویہ ہے
اس نواح میں افواج شاہی نے قیام کیا۔ یہاں کے زمیندار لابہ گزاری سے پیش آئے
اور اُنھوں نے اپنی دولت خواہی کی دستاویز یہ بات بنائی کہ مظفر یہاں آیا اور
ہم اس کے ساتھ نہیں ہوئے۔ امین خاں غوری نے اپنا بیٹا پادشاہ کی پرستاری
کے لیے بھیجا وکلاء جام نے عرض کیا کہ مظفر چالیس ۴۰ کوس پر ہی تیز دست آدمی جائیں
تو اُسے گرفتار کریں خانخاناں نے جریدہ تگاپو کی مگر اس کا نشان نہ پایا۔ لوگوں
نے کہا کہ وہ اس سرزمین سے نکل کوہ بورہ میں چلا گیا ہی خانخاناں نے لشکر کی چار
توپ بنائے اور اس کو چارگوشوں میں بھیجا۔ اس سرزمین کے راجپوت اُس سے کٹ کٹ کر
لڑے اور مر مٹے۔ یہ آباد زمین لوٹ مار میں آئی اور پادشاہی لشکر کو بہت غنیمت
ہاتھ آئی۔ مگر سلطان مظفر کا نشان کہیں نہ پایا۔ اس سے جام کی حیلہ اندوزی
اور فریب آرائی معلوم ہوگئی۔ مظفر ولایت جام کی طرف گیا اور اپنے بیٹے کو
وہاں چھوڑکر خود احمد آباد کی طرف چلا۔ خانخاناں نے اُس کے اس طرف
جانے پر خیال نہیں کیا بلکہ جام کے سزا دینے کو مقدم جانا۔ جام بھی لشکر لیکر

آیا۔ وہ جانتا تھا کہ مظفر کی خبر سنکر لشکر شاہی سراسیمہ ہو گا وہ جب چار کوس پر
لشکر شاہی سے آیا تو خواب غفلت سے بیدار ہوا۔ رائے درگا و کلیان رائے کی
معرفت اطاعت قبول کی اور اپنے بیٹے جسا کو بھیجا۔ خانخانان نوانگر سے جو اُسکی
بنگاہ تھی واپس آیا اور احمد آباد کی طرف چلا۔ مظفر زمینداروں کو ساتھ لیکر اس
فوج سے لڑا جو دھالہ میں تھی پرانتی کے نزدیک لڑائی ہوئی اور اس کو شکست
ہوئی اور بڑے بڑے مشہور ہمراہی اُس کے مارے گئے اور شورش مٹ گئی۔
خانخانان کو حکم تھا کہ جب گجرات سے اس کی خاطر جمع ہو تو وہ بادشاہ کی خدمت
میں حاضر ہو وہ ۸ ربیع الثانی ۹۹۲ھ کو چلکر ۲۴ کو بادشاہ کی خدمت میں آیا۔

سلطان مظفر کی سرکشی اور فتنہ کا اٹھنا سنہ ۹۹۳ھ

بادشاہ کی خدمت میں گجرات سے خانخانان چلا آیا تو مظفر نے میدان
کو خالی جانا اور فتنہ اُٹھایا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ احمد آباد کو لے لے۔ جام نے
نصیحت کی کہ وہاں جلد جانا نہیں چاہیے اور بزرگ کام کو آسان نہ سمجھنا چاہیے۔ اول
امین خاں غوری سے خاطر جمع کرنی چاہیے اگر وہ ہمراہ نہ ہو تو اُس کی ماتش اول
کرنی چاہیے پھر جونہ گڈھ لینا چاہیے۔ میں عمدہ سامان لیکر میچاؤں گا۔ اور
آسانی سے ملک گجرات ہاتھ آجائیگا۔ ان باتوں کو سنکر اس نے قصبہ بریلی
پر تاخت کی اور امین خاں کی ولایت پر غلبہ پایا۔ اس زمیندار نے کارگذاران
شاہی سے گذارش کی کہ مجھ میں لڑنے کی قوت نہیں ہے اگر میری کچھ یاوری
ہو گی تو یہ شورش آسانی سے مٹ جائے گی۔ قلیج خاں خود تو احمد آباد میں یکا
کے لیے چھوڑا اور سید قاسم و خواجہ نظام الدین احمد کو اس طرف روانہ کیا اور
بیگ محمد توقبائی اور امیر محب اللہ و سید سالم کو پہلے سے روانہ کیا۔ یہ لشکر
تیس کوس چلا تھا کہ مظفر بھاگ کر کاٹھیاڑہ میں چلا گیا۔ امین خاں کو شاہی لشکر
کے آنے سے بڑی تقویت ہوئی اور اُس نے گذارش کی کہ اگر ہزار سوار اور

ملجائیں تو میں اس راہ سے مظفر کا تعاقب کروں اور دوسری جانب راہ سے لشکر شاہی اُسکے پیچھے پڑے۔ اسواسطے قلیچ خاں و میدلاداور اور امرا کو اس پاس بھیجا اور دوسری راہ سے اور سرداران شاہی تیز قدمی سے چلے۔ امین خاں نے قصبہ راجکوٹ کو کہ اسکے پناہ گاہ تھے لوٹ لیا تو مظفر رن میں چلا آیا۔ یہ رن زمین شورہ زار ہے۔ دریا کا مد و جزر اس میں رات دن تماشے دکھاتا ہے۔ وہ ۱۰۰ کوس لمبا اور تیس کوس سے پچاس کوس تک چوڑا ہے۔ گرمی میں وہ خشک ہو جاتا ہے میٹھا پانی اس سرزمین میں گذرنے سے شور بنجاتا ہے دار الملک کے مزار کے نزدیک مرار آئے۔ یہاں امین خاں بھی جُن تے سے ملگیا اور جام بھی پیمان کے موافق آیا ان دونوں زمینداروں کو دلاسا دیکر اپنے اپنے ننگاہ میں جانے کی امراء شاہی نے اجازت دی اُنھوں نے اپنے فرزندوں کو لشکر کی خدمت گذری کے لیے چھوڑا دفعتہً اس طرح شورش مٹ گئی۔ انجام کار خانخانان بھی آگیا۔ اثنار راہ میں سروہی اور جامور کی مہمات کا انصرام بھی کیا راے سروہی تو تھوڑے دنوں میں راہ پر آگیا۔ غزنی خان جاموری نے سرتابی کی جب دیکھا کہ رستگاری دشوار ہے تو پناہ مانگی اس کو خانخانان ساتھ لیکر چلا آیا۔ جالورا ور ان اقطاع میں دیدیئے۔ سروہی کے نزدیک شکار کو گیا۔ گرمی کے سبب سے درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ ایک شکاری نے گائے پر ستم کیا۔ اس سبب سے راجپوتوں نے لڑنا شروع کیا۔ خانخانان بھی لڑائی میں شریک ہوا۔ جب ان پر آن بنی تھی مگر ع رسیدہ بود بلاے ولے بخیر گذشت + اسی کو فتح ہو گئی +

جب مظفر میں پیکار کی نیرو نہ رہی تو اس نے مکاری اختیار کی۔ ایک شخص کو جس کو ہامانی کا خطاب دیا تھا۔ پنہان احمد آباد میں بھیجا اور اولیاے دولت کو چند نامے لکھے جس سے مراد یہ تھی کہ اگر خطوط کارپردازوں پاس پہنچ گئے تو ان میں سے بعض اسکی طرف ہو جائیں گے بعض دورنگی کرنے لگیں گے بعض کی ہمت میں خلل ہوگا

سلطان مظفر گجراتی کی حیلہ گری و قتل ہامانی

یہ نامے پکڑے گئے اور باطل ارادے اُس کے معلوم ہو گئے۔ ہامان کی سیاست کی گئی اُس نے ایک جماعت کو اپنا سلطنت کے جانوں کے شکار کرنے کے لیے مقرر کیا تھا یہ مکر بھی کھُل گیا چنانچہ شہباز خاں افغان نے طمع زر میں آنکر مکمل بیگ کو مارا تھا وہ اس نمک حرامی کے جرم میں ہلاک کیا گیا۔

ولایت کچھ کے مرزبان کھنکار کے برادر زادہ پنجانن نے آدمیوں کو جمع کر کے پسلو وکو لوٹنا شروع کیا۔ رائے سنگھ جھالا اُس سے لڑا اور مارا گیا۔ قلیچ خاں اور چند امرا از احمد آباد میں پاسبانی کے لیے بیٹھے سید قاسم اور نظام الدین احمد میدنی رائے اور اور امرا اس سرکش کی سزا دینے کے لیے دوڑے پادشاہی لشکر کے آنے سے کھسار بری میں سرکش پناہ لے گئے۔ سارا بنگاہ ان کا لٹ گیا۔ جام دھنکار نے عاجزی شروع کی۔ امرا نے پھر کر بزم نشاط آراستہ کی۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ مظفر باہر آیا اور دولقہ کی طرف فتنہ برپا کیا۔ امرا شاہی اسکے در پے ہوئے تو وہ اسکی جانب چلا۔ تن آسانی کے سبب سے لشکر شاہی نے اسکی شائستہ جستجو نہیں کی۔

پنجانن وجیا برادر زادگان کھنکار نے مہرادن عم جام مظفر ارغون سے ملکر ایک شور شش مچائی۔ قصبہ رادھن پور کو گھیر لیا۔ رادھن خاں بلوچ اور راور جوانمردوں نے مردانگی اور آگاہی کے ساتھ پاسبانی کی اور دو دفعہ دشمن پر شبخون مارا اور دو روز تک باہر رہ کر سخت لڑائی لڑے سید قاسم وکامران بیگ ور اور سردار مدد کو دوڑے گئے۔ تھوڑے عرصہ میں یہ شہرت ہوئی کہ مظفر گجراتی اور کاٹھیون نے سر اُٹھایا ہے۔ خواجہ نظام الدین احمد بخشی وخواجہ رفیع اور اور افسر اُس کے پیچھے پڑے اور بیرم گاؤں کی طرف جہاں فتنہ انداز رہتے تھے نورنگ خاں دوڑا۔ قلیچ خاں احمد آباد میں مقیم رہا۔ جب لشکر دس کوس پر غنیم سے پہنچا تو سرکش پراگندہ ہو گئے۔ جب دوسری فوج آن کر ملی تو وہ

پرتاں کو چھوڑ کر تیز رفتار ہوئے رن سے گزر کر قصبہ کٹاریہ میں اُنھوں نے اپنا بنگاہ بنایا
بہت اسباب جمع کیا۔ اس ولایت کے سرگروہ کھارہ نے لابہ گری شروع کی۔ اُمرا
اُسے قبول کر کے قصبہ مالیسہ میں شتاب روانہ ہوئے۔ رن کے ہولناک میدان کو ایک اور
راہ سے طے کیا۔ فتنہ افزا تھے نہ آئے مگر ملک کی لوٹ بہت ہاتھ آئی۔ قصبہ مورلی میں
وہ آئے راہ میں بہت سی آبادیوں کو لوٹا۔ بڑے بڑے سنگروں کو فتح کیا۔ جب لشکر
مورلی میں آیا تو زمینداروں نے پناہ مانگی وزیر خاں نے یہ ملک کھنگا کو دیا تھا خانخاناں
نے بھی اُسے دیا۔

ہم نے پہلے لکھا ہے کہ مضافات گجرات میں ایک وسیع ملک ہے جسکی ریاست
مندو کو بھی کہتے ہیں اسکے بھائیوں نے شورش برپا کی۔ [illegible] مستحکم قلعہ میں
چلا گیا وہ بادشاہ کا مطیع تھا اسلیے قلیج خاں و خواجہ رفیع انکی مدد کو گئے پیشتر اسکے کہ یہ
لشکر پہنچے بھرجی کو دوست نما دشمنوں نے مار ڈالا جو امرا گئے تھے اُن سے سرکشوں
نے مدارا کر لی۔ امیر خاں غوری کے چھوٹے بیٹے فتح خاں نے باپ سے لڑنا شروع کیا۔
آتش فتنہ کو ظاہر کیا۔ مظفر نے بھی اس سے مدد نہ کیا۔ امین خاں نے اپنے میں لڑنے
کی سکت نہیں دیکھی کنارہ کیا اور اور دیا روولت کو نیاز نامہ لکھکر یاوری طلب کی۔
[illegible] خاں و خواجہ نظام الدین احمد و میرزا [illegible] اور [illegible] مدد کو گئے۔ مظفر اس لشکر
سے [illegible] کوہستان میں چلا گیا اس اندیشے سے کہ ملک ہاتھ سے نکل جائے [illegible]
[illegible] جام کے بیٹوں کو [illegible] آئے [illegible] یہ فتنہ مٹ گیا
[illegible] خاں کی جگہ اسمعیل قلیخاں بھیجا گیا۔ گجرات سے [illegible] خان اعظم مرزا
کوکہ اسکی جگہ بھیجا گیا۔ پھر یہاں سرکشوں نے سر اٹھایا۔ جام ان سرکشوں کا سرگروہ
تھا اس نے سرکشوں کے جمع کرنے میں خوب اہتمام کیا اور مدتوں کے خزانے جمع کیے
ہوئے باہر نکالے اور سلطان مظفر کو سپہ آرائے بنایا۔ دوست خاں پسر امین خاں

خان اعظم مرزا کوکہ کا [illegible] جانا اور مظفر گجراتی کا بھاگ آنا برباد ہونا سنہ ۹۹۹ ۳۶

غوری مرزبان جونا گڈھ و سورت کو اور کھنگار کچھ کے سردار کو مدد کے لیے بلا لیا۔ پہلے
اس سے کہ ان سرکشوں کا ہنگامہ گرم ہو کوکہ وہاں پہنچا اور کچھ سرکشوں کی پروا نہ کی کہ
وہ کیا کر رہے ہیں۔ انکی حقیقت کچھ نہ سمجھا۔ یہاں تک کہ بعض سرکشوں نے شورافزائی کی تو
بعد وہ سب کام چھوڑکر اس سرکش کی چارہ گری میں مصروف ہوا قلیچ خاں کے بھائیوں
اور اسمعیل خاں قلی اسکے بیٹوں نے جو اس ملک کے بڑے اقطاع دار تھے نامعقول عذر کر کے
اُسکی ہمراہی نہ کی۔ اس گروہ کا نہ آنا اچھا ہوا اسلیے کہ سپہ کشی میں جسقدر جگرا خود سر کمتر
ہوتے ہیں اتنا ہی کام شائستگی کے ساتھ بیشتر ہوتا ہی۔ ایک آدمی کی بیدلی ایک گروہ کو
اپنی جگہ پر قائم نہیں رہنے دیتی ایک ناہنجار سخن بڑی درہمی و برہمی پیدا کرتا ہی بیرم گاؤں
کے نزدیک فتح خاں و چند بعض زمیندار صلو و اور کرن پرمال کلانتر سورٹی اور بہت سے
اور سرکش بادشاہی لشکر سے لڑنے کو تیار ہوئے۔ نورنگ خاں و سید قاسم و
خواجہ جہان آگے پیچھے لشکر یہ لوگ اور [illegible] غنیم کے لشکر سے بیس کوس کے فاصلہ
پر پوشی پڑے رہے اور صلح کا پیام بھیجے تھے [illegible] قبول نہ کیا اور قوت کی اختیار کی سرکشوں
نے صلح منظور نہ کی اور لڑنے کا ارادہ کیا۔ کوکلتاش چارہ گری کے درپے ہوا۔ باوجودیکہ
بادشاہی لشکر دس ہزار سے کم اور غنیم کا لشکر تیس ہزار سے زیادہ تھا مگر اس نے
سات کوس سے لشکر آراستہ کیا۔ قول میں خرم خواجہ ابوالقاسم دیوان حکیم مظفر
اردستانی۔ قول ابدال اور دو ہزار سپاہ اور برانغار میں نورنگ خاں پندرہ
سو سپاہ جرانغار میں خواجہ رفیع محمد حسین شیخ قاضی حسین سید ابوالاسحاق بندر سین
اٹھارہ سو سپاہ ہراول میں سید قاسم سید بایزید سید بہادر سید عبدالرحمن
سید سلیم۔ میر شرف الدین سید مصطفی چودہ سو سپاہ التمش میں سولہ سو سپاہ اور
کوکلتاش و کامران بیگ و محمد قلی توقبائی و خواجہ بابا و قادر قلی کوکہ مع چار سو سپاہ کے
طرح التمش میں گوجر خاں چھ سو جوانوں کے ساتھ طرح برانغار میں خواجہ [illegible] بردی

اس قدر دلاوروں کے ساتھ طرح جرانغار۔ دوسری طرف قلب گاہ میں مظفر سپاہ چار ہزار گردہ لونیہ کاٹھی۔ برانغار میں چار ہزار پانچ سو سپاہ جرانغار میں جام آٹھ ہزار سوار مقدمہ میں آجا پسر جام اور بانیہ اس کا چچا اور جسا اور اس کے بھائی چار ہزار پانچسو سپاہ یہ قرار پایا کہ سپاہ آب سے گزر کر ۳۰ تیر ۹۹۹ھ کو لڑائی ہو۔ مگر جب اس دیار سے گزر ہوا تو ایسا مینھ برسا کہ دو رات دن تک لشکر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ غنیم کا لشکر بلندی پر تھا اور اولیاء دولت نشیب میں تھے۔ پانی کی افزونی سے اور آذوقہ کی تنگی سے وہ [illegible] تھے۔ وہ [illegible] اور ناکام رہے۔ جب سختی حد سے زیادہ ہوئی تو [illegible] لشکر نے انگرشگاہ جام کی طرف سلوک ہوا کہ کہیں بہ دوری ہاتھ آئے [illegible] پہنچا [illegible] غنیمت اور بہت غنیمت ہاتھ آئی۔ دشمن بازی لینے آئے۔ [illegible] مردانہ [illegible] سخت لڑائی ہوئی۔ تیر و شمشیر سے کار دو خنجر پر نوبت آئی۔ غنیم کے راجپوت اپنی آئین کے موافق گھوڑوں سے اتر کے خوب لڑے۔ مہراون [illegible] اور [illegible] جسا اور پانچ سو راجپوت یک جگہ لڑ کر مرے۔ [illegible] لطیف خاں وکیل دولت خاں اسیر ہوا۔ جام و مظفر بے لڑے بھاگ گئے۔ دولت خاں زخمی ہو کر جونہ گڈھ میں گیا۔ دو ہزار غنیم کے مارے گئے۔ بادشاہی لشکر میں سو آدمی مارے گئے اور پانچسو سخت زخمی ہوئے۔ اور سات سو گھوڑے تلف ہوئے۔ لشکر شاہی کو فتح ہوئی۔ فیلخانہ اور توپ خانہ اور اور اسباب غنیمت ہاتھ آیا۔

جب مرزا کوکہ نے فتح پائی تو وہ صبح کو نوانگر کی طرف دوڑا اور بہت غنیمت جمع کی۔ جام و مظفر کہسار برپرہ میں چلے گئے۔ کوکلتاش نے ان سرکشوں کی مالش کے لیئے توقف کیا اور چارہ گزی کے درپے ہوا۔ نورنگ خاں۔ سید قاسم خواجہ سلیمان کو جونہ گڈھ کے قلعہ کی فتح کے لیے بھیجا۔ ارادہ اس کا یہ تھا کہ اس

جونہ گڈھ میں مرزا کا جانا ۹۹۹ھ

سرزمین سے فارغ ہو کر خود قلعہ کی فتح کو جائے۔ لشکر جو بھیجا گیا اُس کو ملک کی ویرانی
اور سرگرانی ارزی سے بہت تکلیف ہوئی۔ افسردگی اور گرانبائی کے ساتھ
قلعہ سے نزدیک ہوئے۔ دولت خاں جو زخمی ہوا تھا وہ مر گیا۔ اس لئے قلعہ کشائی
کا ارادہ ہوا۔ اہل قلعہ سے کہا کہ مالک قلعہ مر گیا۔ سپاہ فتحمند ہوئی۔ اب مناسب
ہے کہ قلعہ کی کنجیاں یہاں کی دستاویز پر حوالہ کردو۔ اہل قلعہ نے جواب دیا کہ کسی معتمد کو
بھیجدو کہ جس سے ہم اپنی خواہش ظاہر کر کے دلجمعی کریں۔ اس زمانہ میں معلوم ہوا
کہ ایک گروہ کاٹھی نے بڑتال کو لوٹ لیا ہے۔ ناگزیر اس طرف کوچ کیا۔ ......
مظفر بھی وہاں پہنچ گیا۔ اہل قلعہ نے نخوت اختیار کی۔ خان اعظم برآشفتہ ہوا اور
قلعہ کی فتح کا ارادہ کیا۔ مظفر باہر آیا اور مشہور ہوا کہ وہ احمد آباد کی طرف جاتا
ہے۔ کوکلتاش نے فوج بسرکردگی خرم خواجہ اس کے پیچھے روانہ کی خود چاہتا تھا کہ
قلعہ فتح کرے اتنے میں اس کو معلوم ہوا کہ جام نگاہ کے قریب جاتا ہے تو وہ بہت
جلد اس طرف آیا تو وہ پھر کر لابہ گری کرنے لگا۔ اسی زمانہ میں نظر بے اور اُس کے
فرزندوں نے شورش برپا کی۔ ناگزیر جام کا عذر قبول کر کے اس کی طرف متوجہ
ہوا۔ انھیں دنوں میں میر ابو تراب وغیرہ بادشاہ کے پاس آیا۔ خدمتگزار ملازموں
کے لیے خلعت و گھوڑے اور فرمان لایا۔ مالوہ کے سرکشوں کے بھی دبجانے کا مژدہ آیا۔
کوکلتاش خاں کا ارادہ تھا کہ قلعہ کو فتح کرے مگر ہمراہیوں کی واماندگی سنگ راہ ہوئی۔
مگر جب سپاہ نے آرام لیا تو پھر اس قلعہ کی کشادگی کی طرف خیال ہوا
کھوکھن بیسر جام اور بہت سے سرکش اس سرزمین کے عاجزی کر کے مطیع ہوئے
سومناتھ و کوکر منگلو دیوہ دبیرہ وغیرہ سولہ بندروں پر بے جنگ قبضہ ہو گیا
اس کے بعد جوناگڑھ کے قلعہ کو سپاہ روانہ ہوئی وہ امین خاں غوری کے
پوتوں کے پاس تھا۔ یہ بڑا نامور قلعہ تھا اور ولایت سورٹھ سے وابستہ تھا

جوناگڑھ مشہور و معروف قلعہ اور ولایت سورٹھ [illegible]

پہلے فرمانرواؤں میں سے کسی نے اس پر قبضہ کم تر پایا تھا۔ ۲۲ خرداد سنہ ۱۰۰۰ھ سپاہ
اُن کے پاس آئی۔ سترہ مورچے بنائے۔ نورنگ خاں نے کاٹھی کے گروہ کو سزا دی
وہ اہل قلعہ کی مدد کرتے تھے۔ آج ہی قلعہ میں آگ لگ گئی اور بہت سا اسباب
قلعہ داری جل گیا۔ فرنگی توپ انداز کہ مسلمان ہوگیا تھا اور اس پیشہ میں چابک دست تھا
سراسیمہ ہوکر خندق میں گرا مگر اہل قلعہ پاس آذوقہ بہت تھا اور جگہ استوار تھی۔ سو توپیں ہر روز
چند بار چلاتے تھے اور ہر توپ میں ڈیڑھ من کا گولہ آتا تھا۔ سپاہ تو درماندہ تھی مگر کوکلتاش
سب کی دلدہی کرتا تھا اور سررشتہ کوشش کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک کوہچہ معلوم ہوا اسپر سرکوب بنایا
اور وہاں سے توپ اندازی شروع کی تو اہل قلعہ بیدار ہوئے۔ لابہ گری کرنے لگے تین دن
تک لڑائی رہی۔ ۱۷ شہریور سنہ ۱۰۰۰ھ کو قلعہ نشینوں نے پناہ مانگی اور کنجیوں کے حوالہ
کرنے کو اپنی بستگیوں کی کشائش سمجھے۔ سات برس کا لڑکا میاں خاں اور بارہ برس
کا لڑکا تاج خاں جو امین خاں کے پوتے تھے اور سترہ سو نامور آدمی کوکلتاش خاں
پاس آئے۔ اس نے درست پیمانی کے ساتھ اُن کے مال و جان و ناموس کی پاسبانی
کی اور ہر ایک کو اپنی آباد جاگیروں میں خلعت دیکر بھیجدیا۔

مظفر گجراتی کا گرفتار ہونا اور اپنے تئیں ہلاک کرنا ۱۰۰۱ھ

جب جونہ گڈھ فتح ہوگیا اور زمیندار مطیع ہوئے تو کوکلتاش نے اپنی ساری
ہمت مظفر کی گرفتاری میں صرف کی۔ مظفر سیوا آبادھیل میں چلا گیا وہ ایک بڑی
ولایت لار کی ہے اس میں دوارکا پرستش کدہ ہے۔ کوکلتاش نے نورنگ خاں اور
امرا کو اس طرف بھیجا۔ ۱۶ مہر سنہ ۱۰۰۱ھ کو دوارکا میں پہنچے وہ بے آویزش ہاتھ
آیا۔ یہاں معلوم ہوا کہ مظفر سیوا کے گھر میں بیٹھا ہے۔ قصبہ امرہ میں سنگرام
اس زمیندار کا خویش خیرہ سر ہو رہا ہے۔ قادر علی کو اس پرستش گاہ میں چھوڑ کر
سپاہ کے دو حصے ہوئے نورنگ خاں تو ایک حصہ کو لیکر مظفر کی تلاش میں
مصروف ہوا۔ نظام الدین احمد سپاہ لیکر دوسری طرف چلا۔ سہ پہر کو سیوا کے

بنگاہ پر یہ پہنچے۔ کچھ دیر پہلے سپاہ کے آنے سے مظفر کو مع زن و فرزند کے کشتی میں بٹھا کر ایک استوار جزیرہ میں پہنچا دیا تھا اور بعد اس کے سیوا خود چلا گیا تھا۔ جب لشکر شاہی آیا تو وہ پھر کر اُس سے لڑنے آیا اور شام تک جنگ میں دونوں لشکر دست و گریباں رہے۔ اس زد و خورد میں سیوا کے ایک تیر لگا اور وہ مر گیا۔ سرکش پراگندہ ہوئے۔ بہت مارے گئے۔ جو سپاہ کہ سنگرام کی مالش کو گئی تھی وہ بھی غالب آئی اور دونوں جگہ سپاہ کو بہت غنیمت ہاتھ آئی۔ مظفر ولایت کچھ میں بھاگا۔ بھارا جو اس سرزمین کا کلانتر تھا اس نے مظفر کو یہاں ایک گوشہ میں چھپا دیا۔ ۲۶ آبان ۱۰۰۱ھ کو خان اعظم جونہ گڈھ سے یہاں آیا۔ اپنے بیٹے عبداللہ کو پہلے بھیجا تھا۔ ۲۳ آذر کو ۵۵ کوس کو دس کوچوں میں طے کر کے موضع امیران میں آیا۔ جو ملک داور کی خوابگاہ تھا جام مع فرزندوں کے آنکر ملا۔ مرزبان کچھ نے اپنے کار دیدوں کو بھیجا کہ جا کر گذارش کریں کہ میں فرمان پذیری قبول کرتا ہوں اور اپنے بیٹے کو پرستاری کے لیے بھیجتا ہوں کوکلتاش نے جواب دیا کہ اگر اپنی خیر منظور ہے تو مظفر کو حوالہ کر دو یا خود آؤ۔ انہیں دنوں میں نوکن کو حل بے اجازت اپنی بنگاہ کو بھاگ گیا۔ سپاہ جونہ گڈھ نے اُس کا خان و مان لوٹ لیا اور اُس کے تینوں بیٹوں کو مار ڈالا۔ خان اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ خرم کو اُدھر بھیجا اور خود موربی سے ۱۲ کوس کو پانچ کوچوں میں طے کر کے موضع چارہ بارہ میں آیا زمیندار سے جو دو باتیں کہی گئیں تھیں ان میں سے کوئی عمل میں نہیں آئی تو کوکلتاش نے یہ چاہا کہ اسکے اقطاع جام کو دیدے پھر اُس نے پیغام بھیجا کہ اگر قصبہ موربی کہ مدتوں سے اسکے باپ دادا پاس تھا مجھے انعام میں دیدیں تو میں مظفر کو حوالہ کرتا ہوں کوکلتاش نے قبول کر لیا۔ کچھ سپاہ بھیجی۔ ۱۳ ارتے کو وہاں پہنچی۔ زمیندار کے گماشتوں نے مظفر سے کہا کہ بھارا آپ پاس آتا ہے وہ خوش وقت ہو کر استقبال کو آیا۔ جب وہ نزدیک آیا تو اُس کو گرفتار کر کے لے آئے راستہ تو رہ نوردی میں

گزری صبح کو خلاخانہ کا بہانہ بنا کے ایک جگہ گیا اور اُسترے سے کہ اپنے پاس پوشیدہ رکھتا تھا اپنا گلا آپ کاٹ ڈالا اور اگر یہ نہ کرتا تو خان اعظم اس کو بادشاہ کے بغیر حکم کے نہ مارتا اور اگر وہ بادشاہ پاس جاتا تو وہ بھی اسکی جان نہ لیتا مگر اسکی غیرت نے یہ خودکشی کرائی اسکے مرتے ہی گجرات کے سب جھگڑے تمام ہوئے ۔

مہمات گجرات کا بیان طبقات اکبری اور کتابوں سے گجرات میں خانخانان کے جانے تک

طبقات اکبری کا مؤلف نظام الدین احمد گجرات میں بخشیگری کی خدمت رکھتا تھا۔ اس لیئے اس نے جو حال اپنی تاریخ میں لکھا ہے وہ زیادہ اعتبار بہ نسبت ابوالفضل کے رکھتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا حال نہایت قلیل اللفظ وکثیر المعنی لکھا ہے اور ابوالفضل نے ہزار کوس کے فاصلہ پر بیٹھے ہوئے لکھا ہے۔ سوا اس کے نظام الدین احمد کی برابر معاملات جنگ کو ابوالفضل سمجھتا بھی نہ تھا۔

واقعات ۲۹ جلوس مطابق ۹۹۱ سنہ طبقات میں بیان کیا ہے کہ بادشاہ کی خاطر اشرف میں آیا کہ اعتماد خاں گجرات میں مدتوں تک رہا ہے اور گجرات کی آبادانی کا طریقہ اوروں سے بہتر جانتا ہے اگر اس کو ہم گجرات عنایت کریں تو ان بلاد کے حکام جو ہمارے تصرف میں نہیں ہیں یہ دیکھکر ہمارے امیدوار ہونگے ۔ اسلیے گجرات کی حکومت اس کو سپرد کی ۔ میر ابو تراب کو امین کیا۔ خواجہ ابوالقاسم کو دیوانگری کا منصب دار اور نظام الدین احمد مؤلف طبقات اکبری کو بخشیگری کی خدمت مرحمت کی۔ محمد حسین شیخ و میر ابوالمظفر و میر حبیب اللہ ابو اسحاق و میر صالح و ہاشم دنبیا دبیگ و سید جلال بخاری و بیگ محمد توقبائی و میر حبیب اللہ و میر شرف الدین

برادر زادہائے میر ابو تراب کو گجرات میں جاگیردار مقرر کیا۔
اعتماد خاں کو حکم دیا کہ ولایت سروہی کو دیورہ کے سرتابوں سے لیکر رانا کے بھائی
جگمال کو کہ دولت خواہوں میں سے ہے حوالہ کرے۔ نظام الدین احمد کے ہاتھ اسکی
مدد خرچ کے لیے ایک ہزار اشرفی بھجوائی جب اعتماد خاں جالور میں آیا تو نظام الدین
و میر معصوم بکری و (بھکری) و میر بیگ ایشک آقا و زین الدین کنبوہ و پہلوان علی سیستانی
کہ احمد آباد کا کوتوال مقرر ہوا تھا اس سے ملے۔ محمد حسین اور اکثر جاگیردار اس سے پیچھے
تھے آ ملے۔ جب جالور سے سروہی پہنچے۔ اور دیورہ کے سرتابوں کو نکال کر جگمال کو
غزنین خاں و محمود خاں جالوری و بیجا دیورہ و رائسنگہ ولد چندر سین و لد رائے مالدیو کے
ساتھ وہاں چھوڑا اور خود احمد آباد کی طرف چلے جب احمد آباد کے قریب اعتماد خاں آیا تو
شہاب الدین احمد خاں شہر سے باہر آ نکر عثمان پور میں جو شہر کے محلوں میں سے ہے۔ فرود کش
ہوا۔ ۱۲ / شعبان سنہ [illegible] کو اعتماد خاں داخل شہر ہوا دو روز کے بعد معلوم ہوا کہ عابد بدخشی
امیرک بلاق و وفادار و مرزا بیگ و عبید اللہ و میر محمد بیگ اور ایک جماعت کثیر شہاب الدین خاں
کے نوکروں کی جدا ہو کر کاٹھی [illegible] سلطان مظفر گجراتی اور اس کی ماں کے رشتہ داروں
کی طلب میں گئے ہیں وہ یہاں بادشاہی لشکر کے خوف کے مارے چھپا ہوا تھا۔ وہ فتنہ و
فساد کا ارادہ رکھتے ہیں اعتماد خاں نے صلاح جانکر ابو تراب نظام الدین کو شہاب الدین خاں
پاس بھیجا کہ اس باب میں گفتگو کرے انھوں نے جا کر اس کو سمجھایا کہ جن امیروں
کی جاگیریں ضبط کیں ہیں وہ ان کو پھر دیدے یا ان پر پہلے اس سے کہ وہ کسی
زبردست کو اپنا سردار بنائیں سخت حملہ کرے۔ اعتماد خاں نے شہاب الدین
احمد خاں سے احمد آباد کی مراجعت کے لیے کہا تو اس نے یہ عذر کیا کہ سفر کی تیاری
میں بہت روپیہ خرچ کر چکا ہوں اور میرے آدمی اپنے کنبوں کو ساتھ لیکر شہر
سے چلنے میں بہت تکلیف اٹھا چکے ہیں مگر نظام الدین یہ لکھتا ہے کہ شہاب الدین احمد خاں نے

بغاوت امرا کی [illegible]

یہ جواب دیا کہ یہ جماعت میرے قصد میں تھی اور مدت سے اس کام کا فکر کر رہی تھی اب اس نے اپنے کام پر سے پردہ اُٹھا دیا۔ میری باتوں سے اس کو تسکین نہیں ہوگی اور مجھ سے کوئی امداد متصور نہیں ہے۔ جب نظام الدین نے صورت حال کو اعتماد خاں سے کہا تو اُس نے اسی میں صلاح سمجھی کہ اس جماعت کی تسلی کرنے ایک دو آدمی تسلی کے لیے امراء سرکش کی جماعت پاس بھیجے مگر اس کو تسلی نہ ہوئی اور وہ آگے کاٹھیاواڑ کو بڑھی۔

مرآۃ احمدی میں لکھا ہے کہ اعتماد خاں نے شہاب الدین سے کہا کہ تم جب تک ٹھیرے رہو کہ بادشاہ نے جو کمک بھیجی ہے وہ یہاں آجائے۔ کئی مراسلات بھیجکر اعتماد نے کوشش کی کہ شہاب الدین چندروز توقف کرے۔ مگر اس نے توقف نہ کیا اور کری میں جو احمد آباد سے ۲۰ کروہ (۴۰ میل) ہے روانہ ہوا۔ ۲۷ شعبان کو خبر آئی کہ باغیوں کی جماعت مظفر کو اور کاٹھیوں کو ہمراہ لیکر دولقہ میں آگئی یہ قصبہ احمد آباد سے ۲۴ میل تھا میر ابو تراب شہاب الدین پاس خبر لایا کہ وہ قصبہ کری میں توقف کریگا۔ اعتماد خاں و نظام الدین و میر ابو تراب اس کی تسلی کرکے لے آئیں۔ اعتماد خاں آخر روز فرار ہو کر کری کی طرف چلا۔ ہر چند اس کو سمجھایا کہ غنیم بارہ کروہ (۲۴ میل) پر آگیا ہے ۲۰ کروہ (۴۰ میل) حاکم شہر کا جانا مناسب نہیں ہے مگر اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کری کو اس ارادہ سے روانہ ہوا کہ شہاب الدین کو سمجھا کر احمد آباد میں لے آئے اس کے ساتھ ابو تراب اور نظام الدین گئے۔ نظام الدین نے اس بات کو چھپایا کہ اس نے حاکم شہر کو دارالحکومت سے جانے پر سخت اعتراض کئے تھے۔ شہاب الدین خان کے آنے کو اعتماد بیکار آمد ضروری سمجھتا تھا اس کے برخلاف جو نظام الدین خاں نے سمجھایا وہ کچھ کام نہ آیا۔ شیر خاں پسر اعتماد خاں کو شہر کی حفاظت سپرد ہوئی اور اس کے معاون میر معصوم بھکری اور پسر نظام الدین خاں مقرر ہوئے۔

کری میں شہاب الدین سے باتیں ہوئیں اس رنگ سے اس کی تسلی ہوئی کہ سابق میں اس کی جاگیر میں جو پرگنے تھے وہ چھوڑ دیے جائیں اور دو لاکھ روپئے اُس کو اور دیئے جائیں۔ غالباً یہ روپیہ اس خرچ کی بابت ٹھیرا ہوگا جو اس کا سفر میں خرچ ہو چکا تھا اور جس کی شکایت وہ کرتا تھا۔ غرض شہاب الدین کو راضی کرکے اعتماد خاں کے ساتھ گیا اور قصبہ کری سے احمد آباد کی طرف وہ چلے اس روز کہ اعتماد خاں کری کو روانہ ہوا تھا۔ مظفر گجراتی شہر احمد آباد میں آیا اور شہر کے آدمیوں نے قلعہ حوالہ کیا قلعہ کی دیوار ایک جگہ شکستہ تھی وہ بلا تکلف اُس میں سے چلا آیا۔ احمد آباد سے دس کوس پر شہاب الدین احمد خاں اور اعتماد خاں پہنچے تھے کہ میر معصوم بھکری وزین الدین کنبوہ یہ خبر لائے اس خبر کو سُنکر ان دونوں نے مشورہ کرکے یہ قرار دیا کہ ابھی ایک روز سے زیادہ نہیں گزرا ہے اور مخالفوں کے کار نے استقامت نہیں پائی ہے اس راہ سے شہر میں جانا چاہیے جس میں سے کہ دشمن داخل ہوا ہے شہر کی طرف متوجہ ہوئے صبح کو عثمان پور میں کہ شہر دریا کے متصل ہے پہنچکر اترے۔ مظفر گجراتی نے شہر سے باہر نکلکر دریا کی ریتی میں صف کشی کی۔ شہاب الدین کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ نوکروں کی نا اعتمادی سے صف آرائی کی فرصت نہ ملی کچھ سپاہی کہ اس کے ساتھ رہے تھے حرکت مذبوحی کرکے بھاگ گئے۔

مراۃ احمدی میں لکھا ہے کہ شہاب الدین نے بڑی بہادرانہ کوشش کی مگر اسکے دو سو کے قریب سپاہی بھاگ گئے اسکا گھوڑا زخمی ہو گیا رشتہ مند زخمی ہو کر اسکے گرد گرے بعض اسکے دوستوں نے اسکے گھوڑے کی باگ پکڑ اُسکو مجبور کرکے میدان جنگ سے لے گئے۔ اعتماد خاں مع ابو تراب کے لڑائی سے الگ کھڑا رہا اور عثمان پور میں کھڑا تماشا دیکھا کیا اور اس تاک میں رہا کہ کب موقع ہاتھ لگے کہ بھاگ جائے۔ نظام الدین نے اپنے تھوڑے سے آدمیوں سے ہاتھ پاؤں ملے مگر کچھ نہ ہوا اور اسکے بیٹے کے سپاہی کہ اعتماد خاں نے شہر میں محافظت

کے لیے متعین کیے تھے مع خان و مان کے لٹ گئے اور شہاب الدین خاں اور اعتماد خان بھاگ کر نہر والہ میں جو پٹن مشہور ہے ۴۵ کردہ (۹۰ میل) چلے گئے نظام الدین نے یہ سارا حال لکھکر بادشاہ پاس بھیجا بعد تین روز کے محمد حسین شیخ و خواجہ ابوالقاسم دیوان وابوالمظفر و میر محب اللہ و میر شرف الدین توقبائی اور جاگیرداران گجرات کہ پیچھے رہ گئے تھے پٹن میں پہنچے۔ قلعہ کو مرمت کرکے یہاں استقامت کی۔ سلطان مظفر گجراتی نے ارباب فتنہ و فساد کو خطاب و جاگیریں دیں اور جمعیت بہم پہنچائی۔ شیر خاں فولادی کہ پٹن میں مدتوں حکمراں رہا تھا اور چند سال ولایت سورٹھ (سوراشٹر) یعنی کاٹھیواڑ میں گذر اوقات کرتا تھا دو سو سواروں کے ساتھ مظفر گجراتی پاس آیا۔ اس کو چار ہزار سواروں کے ساتھ پٹن روانہ کیا وہ قصبہ کری میں آیا اور اس نے اپنی سپاہ کو جوتانہ میں کہ پٹن سے ۲۰ کردہ (۴۰ میل) ہے بھیجا۔ لشکر شاہی بھی اس سے غافل نہ تھا۔ اُن سے یہاں نظام الدین آن کر لڑا۔ اور شکست دی۔ میر محب اللہ و میر شرف الدین و بیگ توقبائی کو اور سپاہیوں کی ایک جماعت کو یہاں چھوڑا۔ شیر خاں فولادی خود پٹن سے ۸ میل پر آیا اسکو اعتماد کے بیٹے نے پٹن سے آنکر شکست دی۔ احمد آباد پر مظفر کے قبضہ پانے سے جنوب میں بادشاہی آدمیوں کی آمد و رفت بالکل بند نہیں ہوئی تھی۔ زین الدین کنبوہ دار السلطنت کے سامنے سے قطب الدین حاکم بروج و بڑودہ کے پاس آگیا۔ اور اسکو ترغیب دی کہ احمد آباد پر جنوب کی طرف سے حملہ کرے۔ دونوں قطب الدین اور زین الدین کے لشکر ملکر بڑودہ تک آگے بڑھے۔ مظفر نے بہت سے لشکر سے اُن پر حملہ کیا۔ قطب الدین اس سے سپاہیانہ نہیں لڑا۔ جنگ میں شکست پائی اور بڑودہ میں متحصن ہوا۔ اکثر اس کے عمدہ نوکر اور آدمی مظفر سے جاملے۔ یہ فسادوں کا دریا تلاطم میں تھا کہ اسمیں سید دولت بھی مچھلی کی طرح تیرنے لگا۔ مراۃ احمدی میں لکھا ہے کہ وہ کلیان رائے حاکم کھنبایت کا ملازم تھا۔ اس نے کچھ اپنا تعلق مظفر سے نہیں پیدا کیا تھا خود سپاہ جمع کرکے کھنبایت کو لیلیا۔

یہاں کا عامل خواجہ امام الدین حسین کروری تھا۔ بڑودہ کو بھاگا اور شہر کا خزانہ چودہ لاکھ روپیہ اپنے ساتھ لے گیا اور دشمن کے لیے ۴۰ لاکھ دام چھوڑ گیا پٹن کے قلعہ نشینوں کو معلوم ہوا کہ شیر خاں فولادی میانہ میں جو اُن کے مقام سے ۲۰ میل پر ہے آگیا ہے اُن کو ایسا تذبذب ہوا کہ پٹن کو چھوڑ کر جالور میں جانے کا ارادہ ہوا۔ اگر ایسا انھوں نے کیا ہوتا تو مظفر کو گجرات کا حصہ عظیم ہاتھ لگ جاتا۔ نظام الدین نے اُن کو سمجھایا اور جنگ پر مصر ہوا۔ اعتماد خاں اور شہاب الدین احمد خاں پٹن میں آئے اور امرا نظام الدین ساتھ متفق ہوئے جب قصبہ میانہ میں وہ آئے۔ شیر خاں فولادی نے صف آرائی کی پانچہزار سوار مقابلہ میں لایا۔ پادشاہی لشکر دو ہزار سوار کا تھا۔ سخت لڑائی ہوئی شیر خاں نے ہزیمت پائی۔ احمد آباد چلا گیا۔ بہت آدمی اسکے قتل ہوئے۔ لشکر شاہی کو بہت غنیمت ہاتھ آئی۔ نظام الدین بجد ہوا کہ احمد اباد میں جانا چاہیے۔ مگر اس کے ہمراہی امرا راضی نہ ہوئے۔

بدایونی لکھتا ہے نظام الدین احمد ہی کی سعی سے شہاب الدین احمد خاں اور اعتماد خاں پٹن میں ٹھیرے ورنہ وہ اپنے تذبذب و تشتر دلی سے جالور میں قرار کرنے پر تیار ہو چکے تھے۔ شیر خاں فولادی کے شکست دینے کے بعد نظام الدین احمد کا بجد ہونا کہ انکا تعاقب کرکے احمد آباد چلنا چاہیے عین صلاح وقت تھا ہنوز قطب الدین کی شکست کی خبر نہیں آئی تھی۔ اس میں سب امرا متفق تھے کہ نظام الدین جانتا تھا کہ اس وقت مظفر کی سپاہ مندری اور نربدا کے درمیان قطب الدین سے لڑ رہی ہے۔ دارالخلافہ اسکی سپاہ سے خالی ہوگا اور فولادی کی سپاہ دو دفعہ شکست پا چکی ہے وہ اور بھی اہل شہر کی ہمت کو شکستہ کرے گی اور سوا اسکے احمد آباد کے لینے سے مظفر گجراتی کا اعتبار بالکل جاتا رہے گا۔

اگرچہ شہاب الدین و اعتماد دونوں سیدھے احمد آباد جانے پر راضی نہ ہوئے۔ مگر نظام الدین کے سمجھانے سے اُنھوں نے اتنا قدم بڑھایا کہ وہ کری میں آئے۔ یہاں وہ بارہ روز اس انتظار میں ٹھیرے کہ سپاہ جو لوٹ کا مال لیکر پٹن میں رکھنے

گئی تھی وہ واپس آجائے یہ سپاہ امیروں کے اشارہ سے گئی تھی کہ ان کی غنیمت کو دیکھکر پٹن کی سپاہ کا بھی دل للچائے۔ اس عرصہ میں خبر آئی کہ قلعہ بڑودہ کو مظفر گجراتی نے فتح کرلیا۔ بڑودہ کا فتح ہونا ایک واقعہ عظیم ہے جس میں وہ وارادات ہیں جو مظفر گجراتی کی صفت ذاتی اور اُس کی طرز حکومت کو تبلاتی ہیں جو اس نے گجرات کے لیے سوچی تھیں اہل گجرات مظفر ہی کو فراخ حوصلہ و عالی ہمت سمجھکر اسی کی طرف رغبت کرتے تھے۔ وہ بھی اکبر کی طرح شجاع تھا اور اپنے ہمراہ وفادار جاں نثار ملازم رکھتا تھا جب قطب الدین کو بڑودہ کے قریب شکست ہوئی تو وہ قلعہ بڑودہ میں متحصن ہوا۔ یہاں اس کا محاصرہ ہوا۔

مراۃ احمدی میں لکھا ہے کہ مظفر کی سپاہ بیس ہزار تھی۔ قطب الدین نے ۲۲ روز تک اس کا مقابلہ حتی المقدور کیا۔ اس کو اپنے آدمیوں پر اعتبار نہ تھا اور حقیقت میں سکے نوکر قابل اعتبار بھی نہ تھے۔ چنانچہ ان میں سے دو محمد میرک اور چرکس رومی نے مظفر کو یہ صلاح پوشیدہ تبلائی کہ وہ صلح کرنے کے بہانے سے ان کو اور زین الدین کنبوہ و سید جلال بخاری اور خواجہ یحیٰی اور نورنگ خاں وکیل کو بلائے اور جب وہ آجائیں تو ان کو اور خواجہ یحیٰی کو وہ قید کرلے اور زین الدین اور جلال کو مار ڈالے اور دوسرے روز قلعہ پر حملہ کرے تو قطب الدین کا کوئی سپاہی اس کا مقابلہ نہیں کریگا۔ مظفر نے ان کی تدبیر پر عمل کیا۔ قطب الدین نے ان پانچوں آدمیوں کو بھیجدیا جن کا اوپر نام لکھا ہے۔ مظفر نے زین الدین کو تو آتے ہی ہاتھی کے پاؤں تلے کچلوایا۔ سید احمد بھکری کی سفارش سے سید خلیل بچ گیا۔ پھر قلعہ اور قطب الدین کو پاس جاکر گھیر لیا۔ قطب الدین نے دیکھا کہ سب اُس کے امرار چلے گئے تو ایک مستحکم مقام میں وہ چلا گیا۔ دوسرے روز مظفر نے یہ قسم کہا کہ وہ قطب الدین کو کوئی گزند نہیں پہنچائیگا۔ یہ عہد وپیمان کرکے اُس کو بُلایا۔ قطب الدین مجبور ہوگیا تھا وہ

وشناسائی کار کے ساتھ شوق کو جد کے ساتھ ہم آغوش کرتے تھے تاکہ اس بلاد کی مصنوعات غریبہ کی وہ نقل اتاریں اور اس ملک کی صنائع عالیہ کی تحویل ہو جائے۔

میر حاجی ۵ رجب ۹۸۵ھ کو پادشاہ کی خدمت میں آیا۔ ایک گروہ کو ساتھ لایا جو نصاریٰ کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ نقارہ اور سرتکے فرنگی بجاتے تھے وہ پادشاہ کی آستان بوسی سے سربلند ہوئے حاجی نے فرنگ کا اسباب نہایت عمدہ پیش کیا۔ حرفہ گردں نے جو مشکل صنعتیں سیکھی تھیں وہ دکھائیں اور مورد تحسین ہوئے۔ فرنگی اپنے ملک کے عمدہ عمدہ باجے بجاتے تھے۔ خاصکر ارغنون (ارگن) بجا کے سننے والوں کو نہایت خوش کرتے تھے۔

تاریخ بدایونی میں لکھا ہے حاجی حبیب اللہ فرنگستان سے ارغنون لایا (یہ غلط لکھا ہے دہ گوہ سے لایا تھا) وہ ایک بڑا سا صندوق تھا قد آدم۔ ایک فرنگی اندر بیٹھکر تار بجاتا تھا دو باہر بیٹھتے تھے۔ پانچ طاؤس کے پر اس میں لگے ہوئے تھے ان کی جڑوں پر انگلیاں مارتے تھے۔ ان کی آوازوں سے لوگ محظوظ ہوتے تھے۔ فرنگی ہر دم کبھی سرخ کبھی زرد نکلتے تھے اور ایک حال سے دوسرے حال میں ہو جاتے تھے۔ اہل مجلس یہ رنگ دیکھکر دنگ ہوتے تھے۔

جب پادشاہ اُدے پور کے قریب آیا تھا تو صوبہ گجرات کے حقائق گذاروں نے پادشاہ کو اطلاع دی کہ حاجیوں کا قافلہ جو روانہ ہوا تھا۔ اس کو بنادر فرنگ کے حکام سے عوام الناس نے ڈرا دیا ہے۔ پادشاہ نے ان کو خرد افزا نصیحتیں کیں اور اعیان دولت نے دلدہی دی مگر اس کا اطمینان نہ ہوا تو قلیچ خاں پاس بعض بنادر فرنگ تھے اور وہ اس وقت اس لشکر میں تھا جو ایدر کو فتح کرنے گیا تھا پادشاہ نے اس کو گھوڑے کی ڈاک میں بلاکر ساحل دریا رشور پر بھیجا کہ وہ اس گروہ بیگانہ (فرنگی) کو خدمت پذیر بنا کے حاجیوں کے قافلہ کو سیلی اور الٰہی جہازوں میں روانہ

بادر فرنگی کی تنبیہ کے لیے بادشاہی لشکر کا مامور ہونا ۹۸۴ھ

کر دیا فرمانروائی کا آئین عظم کشورستانی اور ملک گیری ہے اس طرز پر شکوہ میں کثرت کی پریشانی وحدت کی آسائش میں آجاتی ہے۔ پراگندگی انتظام کی صورت پکڑتی ہے۔ فرنگیوں کا ایک گروہ حجاز کے جانے والوں کا سدراہ ہوتا تھا اُس کے دور کرنے کی خدمت امراء گجرات و مالوہ کو بسرداری قطب الدین خاں ۱۸ اربہمن ۹۸۴ھ کو سپرد ہوئی اور دکن کے مرزبانوں کے نام فرمان گیا کہ لشکراس طرف روانہ ہوا ہے اس کے ساتھ شائستہ سامان کے ساتھ شریک ہوکر اُس بندگی کا یقین دلائیں جسکی باتیں وہ بناتے ہیں اور وہ اپنی خدمت اخلاص کے موافق ہماری عنایت سے اختصاص پائیں اور رعایا دکن کو بھی اس لشکر سے آشوب نہ پہنچے۔

ہندومسلمانوں کی تاریخیں۔

چونکہ عہد اکبری سے ہندو مسلمانوں کا ایک نیا تعلق شروع ہوتا ہے اس لیے بعض مضامین ہندومسلمانوں کی بابت ہم لکھتے ہیں۔

ہم نے جو ہندو مسلمانوں کی باہم لڑائیوں اور اور معاملات کا بیان لکھا ہے وہ ان تاریخوں سے بیان کیا ہے جن کے مصنف مسلمان مورخ ہیں۔ ان تاریخوں میں گو ایک طرفہ بیان ہے مگر کہیں ان میں ایسا جھوٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنی شکست کو فتح لکھا ہو۔ مگر ہاں اپنی فتوحات کی صورت میں اپنی مردانگی اور فرزانگی کا بیان مبالغہ سے کیا ہو اور شکستوں کے ذکر میں عذرات ایسے کیے ہوں جن سے ان کی جوانمردی میں بٹا نہ لگے۔ انسان کو بالطبع اپنی اہانت و ہزیمت کے بیان سے نفرت ہے۔ سب قوموں کا حال یہی ہے اور یہی تھا اور یہی رہیگا کہ وہ اس طرح اپنی شکست و فتح کا بیان کرینگے جیسا کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تاریخی

واقعات عظیم الشان ہوتے ہیں۔ کھیل میں لڑکوں کا حال اپنی ہار جیت کے بیان میں یہی ہوتا ہے۔ جب کسی لڑکے کا کنکوا کٹ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اتفاقیہ پاؤں کے تلے ڈور آگئی تھی۔ مسلمانوں کی تواریخ کی غلط نمائیوں پر یورپ کے محقق پلے بیٹھے ہیں۔
گو ابتدا میں ہندوؤں کی زبان اور مذہب اور عادات و اوضاع و اطوار اور بہت سے حالات پر مسلمانوں کی کتابوں کے ذریعہ سے اُن کو علم حاصل ہوا ہے مگر اب یورپ میں بڑے بڑے سنسکرت سکالر جن کا علم یہاں کے پنڈتوں سے کچھ کم نہیں ہے موجود ہیں۔ رات دن تحقیقات میں لگے رہتے ہیں۔ اسباب تحقیق ان پاس بہت ہیں۔ اُنھوں نے ہندوؤں کی بڑی بڑی تاریخیں لکھی ہیں اور لکھ رہے ہیں علیٰ ہذا القیاس عربی فارسی زبانوں کے فاضلوں کی کمی نہیں ہے وہ ہر طرح کے مسلمانوں کی کتابوں کی چھان بین کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی نایاب کتابوں کو بھی اُنھوں نے اپنی سعی سے بہم پہنچایا ہے اورینٹل کونگریس کے سالانہ جلسہ میں وہ جو اپنے کارنامے دکھاتے ہیں خرق عادات سے کم نہیں ہوتے مگر افسوس یہ ہے کہ یورپ میں مذہب نے سب قوموں کی نسبت خاصکر مسلمانوں کی نسبت غلط معلومات کا دریا ایسا بہایا ہے کہ اس کی مد کا جزر نہیں آتا۔ اس سبب سے کہ یورپ میں مذہبی جوش اس قسم کا نہیں رہا جیسا کہ ایشیا میں ہے تاریخی تحقیقات میں مذہب کے احکام لگانے مہذب محقق معیوب سمجھتے ہیں مگر وہ غلط معلومات خاکستر تلے کی چنگاریاں ہیں جب اُن کو ہوا لگتی ہے تو وہ بھڑک کر آگ لگا دیتی ہیں۔ وہ مسلمانوں کی تاریخوں کو نکتہ چینی اور عیب بینی کی نظر سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک ایشیائی مورخ جو اپنے ملک اور قوم کے حالات پر علم رکھتا ہے وہ ان کی تحقیقات کو اس نظر سے دیکھتا ہے جس نظر سے اہل یورپ ایشیائی تاریخوں کو دیکھتے ہیں اس کا بیان مقدمہ میں تفصیل سے میں نے کیا ہے۔

ہندوؤں و مسلمانوں کے باہمی معاملات و مہمات کا بیان مسلمانوں کی تاریخوں میں بالاجمال صحیح ہے ان کی تفصیل میں غلطیاں دانستہ یا نادانستہ ہوئی ہوں جیسی کہ اس تہذیب کے زمانہ میں بھی ہوتی ہیں۔ مجھے اپنی تاریخ میں ایک طرفہ بیان بہ مجبوری لکھنا پڑتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندوؤں کی تصنیفات سے تاریخیں موجود نہیں ہیں کہ دونوں کا مقابلہ کرکے ثالث بالخیر بن کر تاریخ لکھی جائے اب ایک بڑا مسئلہ بحث کے لیے یہ پیش ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی تصنیف سے تاریخیں کیوں نہیں موجود ہیں؟ کیا انھوں نے تصنیف نہیں کیں یا تصنیف کیں وہ برباد ہوگئیں فرنگستان کے محققوں نے اس مسئلہ میں بڑی بڑی موشگافیاں کی ہیں۔ اول سر ولیم جونز نے یہ تحقیقات شروع کی۔ یہ فاضل جو بہت سے زبانوں میں استعداد کامل رکھتا تھا اور سنسکرت کا پنڈت تھا۔ اس کو توقع تھی کہ ہندوؤں کے یہاں کتب تواریخ اس قدر دستیاب ہونگی کہ وہ تواریخ عالم کے علم کو بڑھا دینگی مگر اس کو ابعد از تحقیقات مایوسی ہوئی۔ سنسکرت میں اس کو تاریخوں کا پتہ نہ لگا اور محققوں کی تحقیق کا نتیجہ بھی یہی ہوا۔ مگر ایک فرانسیسی مشرقی زبانوں کا فاضل انگریزوں پر جھنجھلا کر کہتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ان تاریخوں کو بہم پہنچاتے ہیں اگر وہ موجود نہ ہوتیں تو ابو الفضل نے کیونکر ہندوؤں کے قدیم زمانہ کا حال دریافت کرکے اپنے آئین اکبری میں لکھدیا۔ مسٹر ولسن نے تاریخ کشمیر راج ترنگنی کا ترجمہ کرکے اس امر کی شہادت دی کہ علم تاریخ سے ہندو بے بہرہ نہ تھے وہ بھی مسلسل تواریخ قومی اور ملکی رکھتے تھے مگر اس مستثنی صورت سے انگلستان و فرانس و جرمن نے محققین نے نہ مانا کہ ہندو علم تاریخ کی کتابیں رکھتے ہیں۔ انھوں نے سنسکرت کی کتابوں کے کتب خانوں کو چھان مارا مگر ان کو تاریخوں کی کتابوں کا ذخیرہ نہ ہاتھ لگا۔ انھوں نے یہ فیصلہ کردیا کہ ہندوؤں کے زمانہ قدیم کے حالات تاریخی کتب سے تحقیق ہونے ناممکن ہیں وہاں اور بہت سے اسباب ہیں جیسے سپیچر (بت تراشی) و ڈریما (ناٹک)۔ کتابے۔

عماریں. علم ادب. پوران. قوانین. قصص. شاعری. راجاؤں کے نسب نامے کبیشر و بھاٹوں کے کبت اور رسالے ایسے ہیں کہ جنسے ہندؤں کی تاریخ کا بڑا حصہ مرتب ہو سکتا ہے اور وہ اُنھوں نے کیا ہے مگر اس میں واقعات کی نسبت قیاسات بہت ہیں اور محققین میں آپسمیں رایوں کا اختلاف ہے۔

بعض فرنگستانی متعصب کوتاہ بین محقق ان تاریخوں کی کمیابی و نایابی کو افترا کر کے مسلمانوں کے سر اس طرح تھوپتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا توہم کو یقین نہیں ہوتا کہ ہندو کی قدیمی مہذب قوم جو بہت سے علموں کی موجد ہو علوم ریاضیہ سے ماہر. علم موسیقی و شاعری میں بے مثل. سنگ تراشی و معماری میں علماً و عملاً واقف۔ وہ علم تاریخ سے بے بہرہ ہو جو سب ملکوں و قوموں میں قدیم سے چلا آتا ہو اور سب سے زیادہ آسان ہو اور اس میں فقط واقعات و حادثات اور حالات شاہی کی نقل کرنی ہو۔ جہاں وہ بڑے بڑے پنڈت عالی دماغ و روشن ضمیر موجود ہوں جن کے علم و فضل کی شہادتیں موجود ہیں وہاں کسی وقائع نگار کا نہ ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکے پاس تاریخی کتابیں ضرور ہونگی مگر ان کو مسلمانوں نے اس طرح غارت کیا ہوگا جیسا کہ کتب خانہ اسکندریہ کو جلا کر خاک میں ملایا تھا۔ ان ناحق شناسوں کو یہ علم نہیں کہ حق پرست فرنگستانی محققین کی تحقیق کے مطابق اہل اسلام پر اسکندریہ کے کتب خانے کے جلانے کا الزام غلط ہے دوم اس زمانہ میں ہر قطعہ ہند میں گورنمنٹ نے جو سنسکرت کی کتابوں کی فہرستیں مرتب کرائی ہیں انہیں زیادہ تر وہی کتابیں ہیں جو مسلمانوں کے عہد سلطنت میں قلمی لکھی گئی ہیں۔ غرض یہ اہل اسلام پر محض افترا اور بہتان ہے کہ اُنھوں نے ہندؤں کی سنسکرت کتابوں کو غارت کیا ہو۔ خود فرنگستانی محقق کہ جنکی طبیعت حق پرست اور انصاف دوست ہے وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ ہندؤں کی کتب تواریخ کی کمیابی اس سبب سے ہوئی ہے یہ کہنا بھی غلط ہے کہ ہندؤں کی شائستگی سے بعید ہے کہ وہ کتب تواریخ کو تصنیف نہ کریں دوسرا گروہ محققین کا یہ کہتا ہے کہ ہندؤں کے

عالم فاضل اپنی ذہانت کو الٰہیات ۔ حکمت ۔ فلسفہ ۔ منطق ۔ ہیئات ۔ ریاضی ۔ تصوف میں صرف
کرتے تھے ۔ تاریخ کے واقعہ نویسی کو اپنے علم کے اعلیٰ درجہ کے آگے کمتر جانتے تھے خیالات
کی بلندی واقعہ نویسی کی پستی میں اُن کو نہیں جانے دیتی تھی ۔ جتنی ہندؤں کی علمی کتابیں
اور قوموں کی کتابوں سے مختلف طرح کی ہیں ۔ ایسی ہی انکی تواریخ کی طرز اور طرح ہی نرالی
ہی جنسے تاریخی حال اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا جن بزرگوں نے یہ کتابیں لکھیں ۔ وہ دین کے
کاموں کے آگے دنیا کے کاروبار کو ہیچ و پوچ جانتے تھے انکا زمانہ ایسا بھولا تھا کہ اس
میں عجیب و غریب قصص و افسانے مقبول خاص و عام ہوتے تھے سوا اسکے یہ بھی قاعدہ
ہی کہ جب جغرافیہ داں کسی سرزمین کا حال نہیں دریافت کرسکتا تو وہ اُسکی جگہ نقشہ میں چھوڑ
دیتا ہی اور یہ لکھ دیتا ہی کہ یہ سرزمین انسان کی آبادی کے قابل نہیں اسمیں حیوانات بستے
ہیں اور اگر انسان کہیں آباد ہیں تو وہ بھی بہائم سیرت ہیں ایسے ہی مورخ جس زمانہ کا حال
نہیں جانتے تو اُسمیں ملکشوں جنوں ۔ دیووں ۔ دیوتاؤں کی سلطنت بتاتے ہیں ۔ اور
تمام لوازم سلطنت کو ان کے بیان کرکے عجیب عجیب قصے بیان کرتے ہیں ۔ مسلمانوں
کی بہت سی تاریخوں میں ابتدار زمانہ کا حال جنون کی آبادی سے اور ابوالحسن کی
بادشاہی سے شروع ہوتا ہی یہی حال ہندؤں کی بہت سی کتابون کا ہی کہ ایسے قصے
کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں ۔ سوا اسکے اُنھوں نے کبیشروں اور بھاٹوں کو اپنا
مورخ بنایا ہی ۔ یہ سچ ہی کہ دنیا کی تاریخ کا بڑا حصہ شاعروں کی کتابوں میں موجود ہی
اور بہت سے تاریخی حالات اس سے معلوم ہوسکتے ہیں مگر شاعروں کو یہ اختیار ہے
کہ وہ ہر مضمون کو کم و بیش کرکے اپنے حسب مدعا بنالیں ۔ ان کے قلم پر بادشاہوں
کے علم کا بس نہیں چلتا ۔ شاعر اپنی طرف سے قصے بھی تاریخ میں شامل کرکے
اس کی صورت کو مسخ کر دیتے ہیں اور سچ میں جو جی میں آتا ہے ملا دیتے ہیں ۔
وحشیانہ مبالغہ کرتے ہیں مگر بعض قوموں اور زمانوں کے وہی مورخ ہیں ۔ اشعار

میں تاریخ اپنا چہرہ اس طرح دکھاتی ہی جیسے کہ کج بین آئینہ میں آدمی کی صورت دکھائی دیتی ہی
مگر ہندؤں کے ہاں اس شاعری میں یہ خرابی آنکر واقع ہوئی ہی کہ راجہ اور کبیشر میں
ایسا تعلق ہوتا ہی کہ جس کے سبب سے کبیشروں کی راستبازی میں خلل پڑتا ہی کبیشر صرف
زبانی تعریف کی عوض میں جس میں اس کے گروہ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا اپنا دامن دولت
سے بھر لیتا ہی۔ مدح فروشی وہ کرتا ہی اور جب کسی سے ناراض ہوجاتا ہی تو ہجو کرتا ہی اور
صاف صاف سناتا ہی۔ بھاٹوں کو فارسی زبان میں بادفروش کہتے ہیں۔
راجاؤں کا قول ہی کہ ہم دشمن کی تلوار سے ایسے نہیں ڈرتے جیسے کہ کبیشروں کے
گیتوں کے تیروں سے۔ کبیشر قوموں کی تفنن و تفریح طبع کے لیے فقط واقعات
جنگ اور خونریزیوں کو بیان کرتا ہی اور باقی اور سب طرح کے تاریخی حالات کو
فروگذاشت کرتا ہی مگر ہاں وہ مذہبی باتوں اور اوضاع و اطوار کو بھی ایسے طور سے
بیان کرتا ہی جنکی صحت میں کلام نہیں ہوسکتا۔ ہندؤں کے علم ادب میں صرف
ایک تاریخ کشمیر ہی جس کا نام راج ترنگنی ہی اور آخر زمانہ میں چند نامی کبیشر بڑا گذرا
ہی اُس نے پرتھی راج کے حالات ۶۹ کتابوں میں لاکھ دوہوں میں لکھے ہیں اور
راجستان کے ہر خاندان کا حال اس میں کم و بیش درج ہے جن سے اس کی
شجاعت و جوانمردی اور جنگی صفات کا حال اس عہد کا معلوم ہوتا ہی کہ جس میں
دریائے کرمان سے لشکروں کی گھٹائیں اُٹھکر ہمالیہ پہاڑ کے اندر سے ہوتی
ہوئی ہند پر برسی۔ اس بارش کا پانی جس راجپوت نے پیا ہی اس کا حال
انمیں ضرور ہی پرتھی راج کی لڑائیاں اور آشتیاں۔ اسکے مختلف باجگذاروں
اور معاونوں کا حال اور ان کے شجروں کی کیفیت مکانات کا حال چند کی
تصنیفات سے معلوم ہوسکتا ہے وہ تاریخ و جغرافیہ کی ایک یادداشت ہے
اور سوا اس کے مذہب اور اوضاع و اطوار کی وہ تاریخ ہے۔ بہت سی ایسی باتیں

اسکی تصنیفات میں موجود ہیں ۔ اس نے حالات بچشم خود دید لکھے ہیں اس کی تصنیفات سے اور بہت سے اپنی تحقیقات سے اور کبیشروں اور بھاٹوں کے کبتوں سے اور گیتوں و عمارتوں سے کرنیل ٹوڈ صاحب نے تاریخ راجستان بہت محنت سے نہایت دلچسپ لکھی ہے گو زمانہ حال میں اس پر نکتہ چینیاں اور اعتراضات ہوتے ہیں اور غلطیاں بتلائی جاتی ہیں ۔ صاحب مورخ کو راجپوتوں کے ساتھ ایسی موانست تھی کہ انھوں نے ان کی تاریخ ایسی طرفداری سے لکھی ہے کہ اگر کوئی رجپوت اس کو لکھتا تو اس سے زیادہ اپنی قوم کی حمایت نہ کرتا اس لیے میں اس راجستان کی تاریخ سے ہندو مسلمانوں کی بعض لڑائیوں کا بیان لکھوں گا ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی بڑے متعصب رجپوت نے لکھی ہے۔ اس لکھنے سے غرض یہ ہے کہ میری تاریخ پر یہ اعتراض نہ ہو کہ وہ یک طرفہ بیان ہے دونوں کا مقابلہ کرکے دیکھیں کہ دونوں کے بیان میں واقعات عظیمہ میں بہت کم فرق ہے ۔ میواڑ اور مارواڑ سے مسلمانوں کا تعلق زیادہ تر رہا ہے اس لیے ہم انہیں کی تاریخ زیادہ تر ٹوڈ راجستان سے لکھتے ہیں ۔

میواڑ کی تاریخ

تمہید

شرافت و قدامت نسب پر افتخار کرنا انسان کو بالطبع پسند ہے ہر زمانہ میں ہر ملک میں قومیں اس شرافت و قدامت کا دعوی کرتی چلی آئی ہیں ۔ اس افتخار میں قوموں نے اسی پر بس نہیں کی کہ وہ اعلی ترین انسانوں کی اولاد میں سے اپنے تئیں بتلاتے بلکہ بعض قوموں نے ایسی ملند پروازی کی کہ آسمانی اولاد بنیں ۔ زمین پر بیٹھے بیٹھے فلک اور اجرام فلکی سے ناتہ رشتہ انھوں نے جوڑا ۔ بعض نے اپنے تئیں نیم آسمانی بنایا ۔ بعض نے دیوتاؤں کی سنتان بنایا غرض اپنے تئیں عجب الخلقت

بنایا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح فخر کرنا اور انسان کی قدرتی فطرت کے موافق جنم لینے
سے انکار کرنا اپنی ہنسی اڑانا ہے۔ بھلا کہاں آسمان کے مہر و ماہ اور کہاں زمین پر
انسان عقل کب اجازت دیتی ہے کہ غیر جنسوں میں وصل ہو کر انسان کی ولادت ہو۔
آباو اجداد کے ایجاد کا شوق انہیں آدمیوں اور قوموں میں پیدا ہوتا ہے جن کے
خاندان مستند نہیں ہوتے یا وہ اپنے وطن سے غیر وطن میں چلے جاتے ہیں یا ان کے
خاندان کا سلسلہ گم ہو جاتا ہے۔

فرنگستانی مورخ کہتے ہیں کہ رجپوتوں کے تین مشہور بنس ہیں جنکی اصل حقیقت کبھی صحت
سے نہیں دریافت ہو سکتی۔ ان کی تاریخ ان قدیمی زمانوں میں الٹی جاتی ہے جن میں وہ
تاریکی کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس زمانہ
میں زمین پر وہ بہادر شجاع تھے جو دیوتاؤں سے لڑتے تھے۔ روایات یوں چلی آتی
ہیں کہ ایک بنس انکا سورج کی اولاد ہے اس لیے وہ سورج بنسی کہلاتے ہیں۔ اکشواکو
سورج کا پوتا تھا اسکی چوبیسویں پیڑھی میں رامچندر مہاراجہ اجودھیا پیدا ہوئے اُس سے
یہ بنس چلا۔ دوسرا بنس انکا چاند کی اولاد ہے جنکو چندر بنسی کہتے ہیں جو بدھ (عطارد) اور
کرشن سے پیدا ہوئے۔ تیسرا بنس انکا اگنی کا تھا وہ اگستا کی اولاد ہے۔ یعنی اُس آگ کی
جو آبو کے پہاڑ پر روشن ہوئی تھی۔ ان تین بنسوں نے چھتیس شاخیں رجپوتوں کی پیدا
ہوئیں۔ جو رجپوتوں کو اپنی شرافت پر فخر ہے وہ کسی اور قوم کو نہیں ہے۔ ان کی شجاعت
و بہادری ضرب المثل ہے اور آزادی ان کو بالطبع پسند ہے وہ مصائب و آفات کو
بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں۔ بروئے زمین پر کوئی قوم ان کی برابر
ایسی نہیں ہے کہ جس سے باوجود انقلابات وحوادثات زمانہ کے اپنی شائستگی
و تہذیب و اوضاع و اطوار آبائی کو بدستور قائم رکھا۔ جب ان پر سخت ظلم
ہوتا ہے تو وہ اپنی بڑی بہادری دکھاتے ہیں نیچے کی فہرست میں ابتدائی بنس اور

ان کے ساتھ بڑے بڑے راجاؤں کے کُل اور اُن کی وہ شاخیں راجاؤں کی جو سولہویں عیسوی میں مشہور ہوئیں لکھی ہیں۔

اول سورج بنسی | دوم چندر بنسی | سوم اگنی کُل

اگھیلوت ۲ زہور کچھواہہ ۱ — میواڑ — امیر — ۱ بیکانیر ب جونا پادر

یدو — اجھاریا — بھٹی ب — جیسلمیر — کچھ

اپرمار ۴ پری ہارہ چلوکی چوہان — ہاڈ — کوٹہ ب بوندی

پہلے سارے ہندوستان میں راجپوت ہی راج کرتے تھے۔ راجپوت کے معنی ایسے ہی تھے جیسے کہ مسلمانوں میں امیر کے اور ترکوں میں بیگ کے ہوتے ہیں مگر جب انکا راج مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تو راجپوت کے معنی میں بھی فرق آیا اور ایسا تنزل ہوا کہ اردلی پربت کے گرد کے باشندوں کو راجپوت کہنے لگے راجپوت راجاؤں میں میواڑ کا رانا سب سے بڑا اور شریف سمجھا جاتا تھا اور تمام راجپوتانہ اسکی بزرگی اور عظمت کو مانتا تھا اور اپنے سے بڑا جانتا تھا یہ شرف اسی رانا کے خاندان کو حاصل ہے کہ اس نے مسلمانوں سے رشتہ مندی کرکے اپنی نسل میں اُن کا خون اور راجپوت راجاؤں کی طرح نہیں ملایا۔ باوجودیکہ ان سے سخت مقابلہ اور خونریز معرکہ ہوتے رہے۔

میواڑ کی حدود جواب ہیں انھیں کے قریب اکبر کے زمانہ میں تھیں۔ اس کا رقبہ ۱۲۶۱۴ مربع میل ہے۔

میواڑ کی حدود و دارالسلطنت

۲۳ درجہ ۴۶ دقیقے اور ۲۵ درجے ۳۶ دقیقے شمالی عرض بلد اور ۷۳ درجے اور ۵۰ دقیقے اور ۷۵ درجے ۳۵ دقیقے مشرقی طول بلد کے درمیان وہ واقع ہے اور اس کی حدود یہ ہیں شمال میں ریاستہائے جے پور اور اجمیر جنوب میں پرتاب گڈھ اور ڈونگرپور مشرق میں کوٹہ اور بوندی مغرب میں مارواڑ تین پانچویں حصے اسکے ہموار ہیں۔

اور باقی پہاڑ یا زمین بہت ناہموار ہی کھیتی خوب ہوتی ہی۔ مویشی اچھی طرح پالے جاتے ہیں
بعض جگہ کانیں بھی کھودی جاتی ہیں۔ کئی ندیاں اور دریا بہتے ہیں۔ آبپاشی بہت احتیاط سے
ہوتی ہی اور اس کا محصول رانا کی آمد کا معتد بہ حصہ ہی سولھویں صدی میں تیں میواڑ اپنے
معراج پر پہنچا ہوا تھا۔ اسکی سپاہ تو الحد داں جنگی بہت تھی۔ بہت سے راجہ اُسکے
تابع تھے اور ملک کے مناسب مقاموں میں مستحکم قلعے بنے ہوئے تھے ان سب میں مشہور
قلعہ چتوڑ کا تھا وہی راجپوتوں کی آزادی کا مقدس ملجاو ماوی تھا۔

میواڑ میں گھلوت راجاؤں کی ابتدا بپا سے ہوئی ہی وہ سمت ۷۸۴ میں چتوڑ کی
راج گدی پر بیٹھا۔ جب بپا چتوڑ میں راج کرتا تھا تو بغداد میں ولید خلیفہ تھا۔ محمد بن قاسم
نے ہندوستان پر جو حملے کیے۔ ہندوؤں کی تاریخ میں ان حملوں کا بیان سوا اسکے
کچھ اور نہیں ہی کہ ملیچھ کبھی سندھ سے کبھی سمندر سے آئے سمت ۷۶۴ سے سمت ۸۷۴ تک
میں مسلمانوں نے جو چتوڑ پر حملہ کیے اُس کی حفاظت میں بہت سے راجاؤں نے مدد کی
اور مسلمانوں کے حملوں کو جو موری نیس پر ہوئے اس نے گھلوت کے نوجوانوں کی
مدد لیکر ہٹا دیے۔ مسلمان کجلی بند سے متھرا میں آئے اور سوراشٹر اور سندھ کی طرف سے
اُنھوں نے مراجعت کی۔ بپا نے ان کا تعاقب کیا اُس نے اپنے باپ دادا کے شہر
گجنی (کھنبایت) اسور (مسلمانوں) کے قبضہ میں دیکھا۔ سلیم وہاں حکمراں تھا اس کو
شکست دیکر اسکی بیٹی سے بپا نے بیاہ کیا۔ یہ ایک تعجب خیز امر ہی کہ ایک ہندو مسلمان
سے یوں بیاہ کرے۔ میواڑ کے راجہ کھمان کے عہد میں سمت ۸۱۲ و سمت ۸۸۳ کے درمیان
محمود خراسانی کے حملہ کا بیان لکھا ہی جس کی حمایت کے لیے بہت سے راجہ
آئے۔ کھمان کے رس میں اس کا بیان ہی کھمان ۲۴ بڑی بڑی لڑائیاں لڑا۔
جس سے اُس کا نام ہوا۔ اس کی پندرھویں پیڑھی میں سرسی اس کا جانشین ہوا۔
وہ سمت ۱۲۰۰ میں پیدا ہوا تھا اسکے زمانہ میں یہ بڑا انقلاب ہوا کہ مسلمانوں کے حملے

کھمان راسو

ایسے ہوئے کہ ہندوؤں کے سر پر سے راج کا تاج اُتر گیا اور مسلمانوں کے سر پر رکھا گیا۔
اب ہم کبیشر چند کے بیان کو اُنھیں کے محاورات میں بیان کرتے ہیں وہ اس زمانہ کا حال یہ لکھتا ہی کہ پٹن میں بھولا بھیم۔ چالوک آہنین تن تھے کوہ آبو پر جیت پرمرا۔ میدان جنگ میں قطبی تارا ہی کہ اپنی جگہ سے ہلنا نہیں جانتا سوا ڑمیں سمیر سنگھ ہی جو بڑے بڑے زبردست راجاؤں سے خراج لیتا ہی وہ دہلی کے دشمنوں کے روکنے کے لیئے لوہے کی دیوار ہی۔
سب کے بیچ میں اپنی قوت میں زبردست منڈور کا راجہ مغرور ناہر راؤ ہی جو مارو کی قوت بازو ہے اور وہ کسی سے خوف نہیں کرتا۔
دہلی میں سب سے بڑا راجہ آننگ پال ہی جس کے حکم سے یہ راجہ حاضر ہوئے۔ راجہ منڈور۔ راجہ ناگور۔ وسندھ۔ جلوت۔ اور حدود کے راجہ۔ پنیشور۔ لاہور کانگڑا اور کوہستانی راجہ وراجہ کاشی وپریاگ۔ اور گڈھ دیوگیری۔ سرد ملکوں کے راجہ یہ سب اس کی قوت سے ڈرتے تھے۔ جب زابلستان سے بھٹی نکالے گئے ہیں۔ وہ ان مقامات میں رہتے تھے۔ پنجاب میں سالباہن اور ٹنوٹ۔ دیراول میں جنکو آخر میں اُنھوں نے آباد کیا تھا اور قدیمی نوڈور وا ہیں جس کو انھوں نے ریگستان میں فتح کیا تھا اور اس زمانہ میں وہ اپنا دارالقرار جیسلمیر بنا رہے تھے۔ اسی کونے میں صدیوں تک وہ خلفاء کے نائبوں سے ارذ میں لڑتے رہے۔ اور کبھی کبھی اُنھوں نے اپنے قدیمی ملک کو شہر ٹاک تک جو دریا رسندھ پر ہی اُن سے واپس لے لیا۔ ان کا مقام ایسا تھا کہ وہ ہندوستان سے کم تعلق رکھتے تھے پرتھی راج کا ایک بڑا افسر اچلیس تھا وہ راجہ بھٹی کا بھائی تھا اس سبب سے ان کو تعلق اس راجہ کے عہد میں ہندوستان سے پیدا ہوا۔ پرتھی راج کی بہن کی شادی سمرسی کے راجہ چتوڑ سے ہوئی۔ اس لیئے جب پرتھی راج کی لڑائی شہاب الدین غوری سے ہوئی تو پرتھی راج نے اس کو ایلچی بھیج کے بلایا۔ گگر کی لڑائی میں وہ اور اس کا بیٹا مارے گئے۔ چند نے اسکی بہت سی

بٹنائی کی ہی سمرس کے کئی بیٹے تھے۔ کرن اُس کا جانشین سمت ۱۲۴۹ / ۱۱۹۲ میں ہوا۔ اسکی ماں کرم دیوی بڑی لائق اور ہوشیار تھی وہ قطب الدین سے امیر کے قریب لڑی تو راجہ اور گیارہ چھوٹے سردار اسکے ہمراہ تھے۔ قطب الدین کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہوا اس کے بعد سمت ۱۲۲۵ / ۱۲۰۱ میں راہپ چتوڑ کا راجہ ہوا وہ شمس الدین سے ناگور میں لڑا اور غالب رہا اس راجہ نے دو بڑی تبدیلیاں کین۔ اوّل اس نے قوم کا نام بدل کر سسودیا رکھا۔ دوم پہلے جو چتوڑ کے راجہ کو راول کہتے تھے اس لقب کو بدل کر اس نے رانا لقب رکھ دیا۔ نصف صدی میں میواڑ میں نو راجاؤں نے راج کیا۔ نویں پیڑھی میں راہپ کا بیٹا لکھسی چتوڑ کا راجہ ہوا۔

کرم دیوی

لکھسی اپنے باپ کی جگہ سمت ۱۳۳۱ / ۱۲۷۵ میں تخت نشین ہوا اس کے راج کا بڑا واقعہ چتوڑ کی تاریخ میں سلطان علاء الدین کا حملہ ہے۔ سلطان نے دو دفعہ اس پر حملہ کیا۔ وہ پہلی دفعہ میں ناکام رہا۔ دوسری دفعہ فتحیاب ہوا۔ لکھسی خردسال تھا اس کا چچا بھیمسی اس کا سرپرست تھا۔ ٹوڈ راجستان میں تو لکھا ہے کہ بھیمسی نے سی لون کے راجہ ہمبر کی بیٹی سے بیاہ کیا تھا۔ بیوی اس کی حسن و جمال میں بے مثال تھی اسی لیے اس کو پدمنی کہتے تھے۔ مگر ابو الفضل نے لکھا ہے کہ راول رتن سی مرزبان چتوڑ کے پاس ایک پدمنی تھی۔ سلطان علاء الدین کو اس سے عشق ہوا اس کے بیان کو ہندی کبیشر اور بھاٹ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ علاء الدین نے جو چتوڑ پر حملہ کیا اس میں اس کو خیال ملک اور دولت حاصل کرنے کا ایسا نہ تھا جیسا کہ اس پدمنی کے ہاتھ لگنے کا۔ جب حملہ میں عرصہ دراز ہوگیا تو اس نے رانا سے اس پدمنی کی درخواست کی جب اسکے تئیں ناکامی ہوئی تو اس نے اس خواہش پر بس کی کہ پدمنی کو مجھے دکھا دو اس کی درخواست کے جواب میں اس سے کہا کہ وہ فقط آئینہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے تو اُس نے یہی

سلطان علاء الدین کا حملہ چتوڑ پر

منظور کر لیا۔ اس آرزو میں وہ تھوڑے سے آدمیوں کو ساتھ لیکر راجپوتوں کی ایمانداری پر بھروسہ کر کے قلعہ کے اندر گیا اور آئینہ میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھکر واپس آیا۔ راجپوت بھی سلطان کی ایمانداری پر اعتبار کر کے قلعہ کے نیچے اس کے ہمرکاب آئے۔ راہ میں ہمراہیوں سے مہان یہ عذر خواہی کرتا رہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ناحق تکلیف دی۔ سلطان نے یہ جان جوکھوں کا کام رجپوتوں کی ایمانداری کے سبب سے کیا تھا مگر کمین گاہوں میں اُس نے اپنے آدمی بٹھا رکھے تھے۔ جنھوں نے بھیم سی کو گرفتار کر لیا اور اپنے لشکر میں اُس کو جلد سے آئے۔ اب اس کی رہائی کا مدار پدمنی کے حوالہ کر دینے پر ٹھیرا۔

جب چتوڑ میں اس ہولناک واقعہ کی شہرت ہوئی تو راجپوتوں کے اوسان خطا ہوئے اور آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ پدمنی کو حوالہ کریں یا بھیم سی کو چھٹائیں۔ پدمنی سے یہ حال کہا گیا تو اُس نے اپنے چچا گورا اور اُس کے بھتیجے بادل کو بلایا یہ دونوں سنگالی امیرزادے تھے اُن سے یہ سارا احوال کہا اُنھوں نے ایسی تدبیر سوچی کہ جس میں بھیمسی کو رہائی ہو جاوے اور پدمنی کی بھی جان اور عصمت بچ جاوے سلطان علاء الدین کو یہ کہلا بھجوایا کہ جس روز تو اپنے مورچوں سے پرے ہٹ جاوے گا تو اُسی روز تیرے پاس پدمنی روانہ ہوگی مگر وہ اُسی ٹھاٹھ کے ساتھ آئے گی جو اُس کی شان کو شایان ہے اس کی ساری لونڈیاں اور نوکرنی ساتھ ہونگیں جو دہلی جائیں گی۔ اور آخر رخصت کی ملاقات کے لیے اس کی کل سہیلیاں بھی ہمراہ ہونگیں۔ خیمہ گاہ پر سبے وہ آخر ملاقات کر کے اُلٹی چلی آئیں گی سلطان نے خوش ہو کر حکم دیدیا کہ پدمنی کی سواری کی پردہ داری میں ہر طرح کا اہتمام ہو اور کوئی اُسکے دیکھنے کا قصد نہ کرے۔ سات سو ڈولیاں سلطان کے خیمہ گاہ کو روانہ ہوئیں۔ ہر ڈولی کے اندر ایک سورما گبرو بیٹھا تھا۔ چھ چھ

مسلح سپاہی ڈولی بانوں کا بھیس بدلے ہوئے ڈولیوں کو کندھے پر لیے ہوئے تھے۔
سلطان کا خیمہ قناتوں سے گھرا ہوا تھا اُس میں یہ ڈولیاں داخل ہوئیں نصف گھنٹے کی
اجازت مانگی گئی کہ پدمنی اپنے شوہر سے آخر ملاقات کرے۔ بھیمسی کو ایک ڈولی میں ٹھا کر
چلتا کیا اور باقی ڈولیاں رکھی رہیں کہ وہ رانی کے ساتھ دہلی جائیں گی جب اس ملاقات میں
دیر لگی تو علاء الدین کے دل میں میاں بیوی کے ملاپ کا رشک پیدا ہوا۔ اسکی نیت
میں یہ نہ تھا کہ بھیمسی کو خلاص کرے جب وہ آیا تو یکایک ڈولیوں میں سے بجائے عورتوں
کے جانبانہ سپاہی نکلے مگر علاء الدین کے ساتھ بھی مسلح آدمی بہت تھے اس نے
اپنے سپاہیوں کو ان کے تعاقب کا حکم دیا۔ بھیمسی کے سپاہی پیچھے ہٹ ہٹ لڑتے
جاتے تھے یہاں تک کہ کوئی ان میں زندہ نہیں رہا راہ میں بھیمسی کے لیے ایک تیز رفتار
رہوار لگا رکھا تھا وہ اس پر سوار ہوا اور خیر و عافیت سے قلعہ کے اندر پہنچ گیا۔ علاء الدین
کی سپاہ سے قلعہ کے دروازہ پر گورہ اور بادل بہادروں کو ساتھ لے پدمنی کی عزت
اور بھیمسی کی جان بچانے کے لیے خوب لڑے اور کٹ کٹ مرے گورا تو مارا گیا اور
بادل زخمی ہو کر بھاگا اور اور بہادروں میں چند ہی زندہ رہے کچھ عرصہ تک علاء الدین
کی کامیابی میں التوا ہوا اور راجپوت بہادروں نے جانبازی کر کے اپنے مقابلہ کرنیکا
خوف ایسا دلایا کہ سلطان اپنی اس مردانہ مہم سے بہ مجبوری باز آیا۔ بادل کی عمر بارہ برس
کی تھی۔ اس عمر میں راجپوت اپنی اولاد کے ہونہار ہونے کا امتحان کیا کرتے ہیں وہ زخمی
ہو کر بھاگا تھا۔ اسکا چچا گورا مارا گیا تھا اسکی چچی بھتیجے پاس آئی اور کہنے لگی کہ پہلے اس سے
کہ میں اپنے خاوند پاس جاؤں تجھ سے یہ پوچھتی ہوں کہ میرے خاوند پر لڑائی میں کیا
گزری۔ اُس نے کہا کہ لڑائی کا کھیت تو وہ کاٹ رہا تھا میں اُس کے قدموں کے
نیچے خوشہ چینی کر رہا تھا اُس نے عزت کے خون آلود فرش پر ایک مقتول کا بچھونا
بچھایا اور ایک وحشی شاہزادہ کو مار کر اُسکا تکیہ لگایا۔ دشمنوں کے گھیرے میں وہ اسپر سو گیا۔

اے مادر میں کیونکر اس کے کاموں کی تعریف کرسکتا ہوں اُس نے کوئی دشمن نہیں چھوڑا جو اُس کو ڈرائے یا اُس کی تعریف کرے پدمنی یہ سنکر مسکرائی اور ہنستے ہنستے یہ کہکر رخصت ہوئی کہ میرا خاوند میرے دیر لگانے سے خفا ہوگا پھر وہ جلتی آگ میں کود پڑی اور ستی ہوگئی۔

سلطان علاء الدین نے اپنے لشکر کو پھر مرتب کیا اور تازہ سپاہ بہم پہنچا کر قوی کیا اور چتوڑ پر دوبارہ حملہ سمت ۱۳۴۶ بمطابق ۱۲۹۰ء میں کیا فرشتہ نے ۱۲ برس بعد اس حملہ کو لکھا ہی۔

پہلے حملہ میں جو بہادروں کا نقصان ہوا تھا ابھی اس کا عوض ایسا نہ ہوا تھا کہ وہ بحال ہوتے۔ سلطان نے قوی حملہ کیا۔ جنوب کے پہاڑ پر قبضہ کرکے وہ قلعہ کے بہت قریب آگیا اور وہاں اس نے مورچے جمائے۔ راجپوت ان مورچوں کے نشان ابتک بتاتے ہیں۔ اس سخت حملہ سے راجپوتوں پر بلائیں نازل ہوئیں ایک گیتشر نے ان کے گیت خوب بنائے ہیں اور ان میں خوب مضمون تراشے ہیں وہ کہتا ہے کہ رانا دن کو بہت محنت کرکے ہارا تھکا رات کو بستر پر حیران پریشان پڑا یہ سوچتا تھا کہ میں کیا تدبیر کروں کہ میرے بارہ بیٹوں میں سے کاش ایک بیٹا تو بچ جائے اس تنہائی کی حالت اس کو یہ ندا آئی کہ میں بھوکی ہوں اس نے آنکھ اُٹھا کر دیے کے دھندلے اُجالے میں جو دیکھا تو دوستوں کے درمیان چتوڑ کی محافظ دیبی ستّ ہانہ لباس پہنے ہوئے جاتی ہوئی نظر آئی۔ رانا نے اس سے کہا کہ تو میرے آٹھ ہزار رشتہ داروں کو کھا چکی ہے۔ اس پر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں راجاؤں کی بھینٹ لونگی۔ اگر چتوڑ کے راج کے بارہ وارث اپنا خون نہیں بہائینگے تو یہ راج انکے نسب سے نکل جائیگا یہ کہکر وہ غائب ہوگئی۔ رانا نے صبح کو امیروں کی کونسل جمع کرکے اس رات کے واقعہ کا بیان کیا سب نے کہا کہ رانا کو پریشان دماغی

اور پراگندہ دلی سے یہ سپنا دکھائی دیا ہے۔ رانا نے ان سب کو آدھی رات کو بلایا
جب یہ سب شب کو آئے تو انکے سامنے وہی دیبی آئی اور کہنے لگی کہ ہر روز ایک راج
کا وارث راج گدی پر بیٹھے اور کرنیا (آفتابی) جو پادشاہی امارات میں سے ہے
اور چھترا (چھتر شاہی) اور چمرا (چنور شاہی) کی رسمیں ادا کی جائیں اور تین روز وہ سب
پر حکمرانی کرے اور چوتھے روز دشمن سے لڑکر اپنی جان دے۔ میں ان وارثوں کے
خون کی بھوکی ہوں۔ اگر اس سرزمین پر ہزاروں وحشیوں کی خون پاشی ہو تو مجھے
اس سے کیا مطلب ؟ میری یہ شرائط جب پوری ہونگیں تو میں تمھارے ساتھ رہونگی۔
گو یہ بیان کیشروں کی گھڑت ہو یا رجپوتوں کے دل بڑھانے کے لیے یہ اختراع
ہوا ہو مگر راجپوت اسکو سچ جانتے ہیں اس گھڑت سے ان کا مطلب حاصل ہوا کہ راجہ لکسی
کے بیٹوں میں ہر ایک اپنے ملک کے لیئے جان دینے میں اپنی تقدیم پر اصرار و تکرار
کرتا تھا۔ ارسی نے کہا کہ میں عمر میں سب سے بڑا ہوں اس لیے میرا حق سب سے
زیادہ مقدم ہے۔ اول ارسی کے راج تلک لگا اور سر پر چھتر چھایا گیا۔ تین دن راج کرکے
چوتھے روز دشمن سے لڑکر سنسار سے سدھارا۔ اس کے بعد عمر میں اجی سی تھا۔ اس نے
رانا سے درخواست کی مگر وہ رانا کو سب بیٹوں میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ اس لیے
رانا نے یہ صلاح ٹھیرائی کہ اول اور اسکے دس بھائی باری باری سے راج گدی پر بیٹھیں۔
سب بیٹوں نے باپ کی بات کو مان لیا۔ اس طرح گیارہ بھائی تین تین دن راج کرکے
میدان جنگ میں دشمن سے لڑکر فنا ہوئے ایک بھائی باقی تھا جسکے قربان ہونے سے دشمن
کے ہاتھ سے شہر بچتا تو رانا نے اپنے صلاح کار امرا کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب میں خود
چتوڑ پر جان قربان کرتا ہوں مگر اپنے قربان ہونے سے پہلے ایک درعبرتناک قربانی اس نے
یہ کی کہ اپنے حفظ ناموس کے لیے لکڑیوں کا انبار زمین کے اندر ایک غار میں لگایا جہاں
سورج کی کرن کا بھی گذر نہ تھا۔ رانیاں اور امیرزادیاں وہاں جمع ہوئیں اور سب

اس چتا میں جلکر خاکستر ہوگئی۔ ان میں پدمنی بھی تھی جسکی خاک اس ڈھیر میں تھی۔ اسکی
جان گئی مگر عصمت بچی۔ اجی سی کچھ فوج کو ہمراہ لیکر کلیواڑہ میں صحیح سلامت جا پہنچا رانا
اپنے بیٹے کی اس سلامتی سے خوش ہوا کہ میرا نبس بالکل نیست و نابود ہونے سے سلامت
رہا۔ پھر رانا اپنے جان نثاروں کو ہمراہ لیکر سلطان علاء الدین سے لڑا اور جان سے
گیا۔ چتوڑ میں سلطان داخل ہوا وہ جانداروں سے خالی اور مُردوں سے پُر تھا چتا میں
اُسکی معشوقہ دلربا کی لاش میں سے دُھواں اُٹھ رہا تھا یہ غار اس زمانہ میں بڑا مقدس
و متبرک گنا جاتا ہے توہمات کے مطابق مشہور ہوگیا ہے کہ اس غار کا محافظ ایک بڑا اژدہا ہے
جسکے سبب سے کسی آدمی کی رسائی نہیں ہوتی کہ آنکھ کھول کر دیکھے کہ وہاں کیا ہے۔ اب سکندر
ثانی سلطان علاء الدین کا چتوڑ پر قبضہ ہوا اور بہت غنیمت ہاتھ لگی۔ رجپوتوں کی بہت سی قومیں
اُسکی مطیع ہوگئیں اُس نے جھالور کے راجہ مالدیو کو جو اُس کا مطیع تھا یہ قلعہ حوالہ کیا۔

اجی سی و ہمیر

راجہ اجی سی جو زندہ بچا تھا وہ کلیواڑہ میں رہتا تھا یہ شہر کوہستان اراولی کے وسط میں
ہے اور یہ پہاڑ میواڑ کی سرحد مغربی ہے اس کے بعد اجی سی کے بڑے بھائی کا بیٹا ہمیر
تخت نشین ہوا۔ اس نے مالدیو سے چتوڑ لے لیا۔ مالدیو چتوڑ چھنوا کے سلطان علاء الدین
کے جانشین سلطان محمود خلجی پاس چلا گیا وہ فوج لیکر اُس سے لڑنے گیا۔ سنگولی کے
میدان میں لڑائی ہوئی اور محمود خلجی کو شکست ہوئی۔ وہ ایسے پہاڑوں میں سے لشکر کو
لیکر گیا تھا کہ بہت سا لشکر اس کا بیکار ہوگیا تھا وہ خود قید ہوگیا۔ تین مہینے تک مقید رہا۔
اجمیر۔ رنتھنبور۔ ناگور۔ سوی سیوپور۔ اور پچاس لاکھ روپیہ اور سو ہاتھی دیکر رہا ہوا۔
ہندوستان میں ہمیر ہی ہندؤں کا راجہ تھا اور سب قدیمی خاندان مغلوب ہوگئے
تھے مسلمانوں کے قبضہ سے میواڑ نکل کر پھر رجپوتوں کے حکومت میں آگیا تھا مسلمانوں
کے حملے سے پہلے اگرچہ ہندوستان میں میواڑ اوج پر تھا مگر جب سے ہمیر نے
دار السلطنت چتوڑ کو دوبارہ حاصل کیا۔ اس وقت سے دو سال تک اسکی سلطنت

وحکومت کو استحکام رہا۔ اس عرصہ میں راجپوت مسلمانوں سے خوب لڑتے رہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان بادشاہوں کے خاندان خلجی و لودی و سوری جلدی جلدی بدلتے رہے اور آپسمیں لڑتے رہے جس سے میواڑ کو بہت فائدہ ہوا۔ اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بچا رہا وہ فقط اپنے ہی ملک کی حفاظت نہیں کرتا تھا بلکہ غیر قوموں پر حملہ کرنے کی قوت رکھتا تھا۔

میواڑ کے راجاؤں میں ہمیر بڑا فرزانہ اور بہادر راجہ ہوا ہے اسکے بعد سمت ۱۴۲۲ سنہ ۱۳۶۵ میں اس کا بیٹا کیتک سی رانا ہوا۔ اس کے بعد سمت ۱۴۳۹ سنہ ۱۳۸۲ میں لکھا رانا ہوا۔ ان راناؤں نے ان عمارات کو دوبارہ تعمیر کرادیا۔ جو علاء الدین نے مسمار کی تھیں۔ بعد اسکے موکل راجا ہوا۔ جب امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا ہے تو سمت ۱۴۵۴ سنہ ۱۳۹۸ میں میواڑ میں رانا موکل راج کرتا تھا۔ امیر نے تو اس ملک کے فتح کرنے کا ارادہ کیا نہیں اس کا کچھ ذکر تاریخ میواڑ میں نہیں آیا۔ مگر کسی اور دہلی کے بادشاہ نے خواہ فیروز شاہ ہو یا اُس کا پوتا ہو میواڑ میں گزر گیا اور رائے پور کے میدان میں کوہ اروَلی کے دروں میں رانا موکل سے لڑا رانا نے اس کو ہٹا دیا۔

اس رانا کا بیٹا کومبھو سمت ۱۴۷۵ سنہ ۱۴۱۹ میں اپنے باپ کی جگہ تخت نشین ہوا۔ اس وقت میواڑ کی سلطنت اپنے معراج پر تھی۔ دہلی کی سلطنت سے مالوہ اور گجرات جدا ہوگئے تھے اور انمیں جدا سلطنتیں قائم ہوگئیں تھیں۔ ان دونوں نے متفق ہوکر سمت ۱۴۹۶ سنہ ۱۴۴۰ میں بے شمار لشکر لیکر میواڑ پر حملہ کیا۔ کومبھو اُن سے لڑنے کے لیے ایک لاکھ سوار و پیادے اور چودہ سو فیل لے گیا اور سلطان محمود کو قید کر لیا پھر اُسکو رہا کر دیا۔ میواڑ کی حفاظت کے واسطے اسمیں چوراسی قلعے بنے ہوئے تھے استحکام میں چتوڑ کے بعد اسکا بنایا قلعہ کومبھو میر تھا۔ اسنے پچاس برس سلطنت کی سمت ۱۵۲۵ سنہ ۱۴۶۹ میں اسکو بیٹے نے مار ڈالا جس کا نام اودا تھا وہ یہ نہ سمجھا کہ جو شخص اسکی زندگی کا سبب ہوا اُسی کی زندگی کو اس نے تمام کیا۔ اس بیہودہ حرکت

سے اس کا لقب ہتھیار ہوا۔ قوم کے سارے رئیسوں کو اس سے نفرت ہوئی جب اس نے دیکھا کہ قوم کا کوئی رئیس اسکی طرف ملتفت نہیں ہوتا تو اس نے شہنشاہ دہلی سے وعدہ کیا کہ میں اپنی لڑکی اس شرائط پر بیاہ دونگا کہ وہ اسکو تخت سلطنت پر قائم رکھے مگر اسپر قہر الٰہی یہ نازل ہوا کہ جب وہ پادشاہی دیوانخانہ سے باہر نکلتا تھا تو اُسپر بجلی گری کہ وہیں بھسمنت ہوگیا۔ کیپٹن اس بیان کو لکھتے ہوئے جھینپتے ہیں اچھی طرح نہیں بیان کرتے۔

رانا رائے مل

سمبت ۱۵۳۰/۱۴۷۴ میں رائے مل اپنی بہادری سے کمبھو کا جانشین ہوا۔ اوداکے مرنے کے بعد جس کا ذکر ہوا اسکے بیٹوں سہس مل و سورج مل کی امداد کے لیے شاہ دہلی نے میواڑ پر حملہ کیا۔ بمقام سیادہ جس کو اب ناتھ دوار کہتے ہیں خیمہ زن ہوا۔ رائے مل اٹھاون ہزار سوار اور گیارہ ہزار پیادے میدان جنگ میں اوداکے بیٹوں سے لڑنے کے لیے لایا اور گھاٹ میں لڑائی ہوئی۔ اوداکے بیٹے بڑے جوانمرد تھے خوب لڑے اور خون کی ندیاں بہیں مگر بادشاہ دہلی کو ایسی شکست فاش ہوئی کہ پھر اُس نے میواڑ کی طرف رُخ نہیں کیا۔

رائے مل غیاث الدین فرمانروائے مالوہ سے لڑتا رہا اور اکثر اسکو شکست دی پھر خاندان لودھی فرمانروائے ہند ہوا۔ اُن میں اور شاہ میواڑ میں سرحد شمالی کی بابت فساد ہوتے رہے۔

رانا سنگا

رائے مل کے تین بیٹے تھے اور وہ سب راجستان کی تاریخ میں مشہور و معروف ہیں۔ ایک بیٹا سنگا تھا جو بابر بادشاہ کا معاصر تھا۔ دوسرا پرتھی راج۔ تیسرا جیمل۔ ان تینوں بھائیوں میں آپس میں ایسا فساد ہوا کہ سنگا اور پرتھی راج جلاوطن ہوئے اور جیمل قتل ہوا۔ چچا سورج مل اور بھائیوں کے فساد میں سنگا کے تلوار کے پانچ زخم آئے اور ایک آنکھ تیر کے لگنے سے بالکل جاتی رہی۔ وہ شیواجیتر بھوج کی طرف بھاگ گیا پرتھی راج اس کا جانی دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا تھا

وہ ناچار بکریاں چرانے لگا۔ دہقان نے اس کو اس بات پر کہ بکریاں چرانی اچھی طرح
نہیں آتی تھیں سخت سُست کہا اور نکال دیا۔ اس خستہ حالی میں چند وفادار رجپوتوں
نے اُسکو ایک گھوڑا دیا بعد بہت سے جھگڑوں اور لڑائیوں کے سمت ۱۵۶۵ سنہ ۱۵۰۹ میں
میواڑ میں وہ رانا ہوا۔ اس کا اصل نام سنگرام ہے مگر میواڑ میں سنگا مشہور ہے اور
مسلمانوں کی تاریخ میں اس کا نام سنگا لیا جاتا ہے اس کے راج میں میواڑ جس اوج پر
پہنچی پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی اس کو ہندو کہتے ہیں کہ اس کا راج میواڑ کے شکوہ کے
مینار کا کلس تھا وہ مسلمان بادشاہوں سے کچھ خوف نہیں کرتا تھا اُسکے ساتھ اسّی ہزار سوار
اور اعلیٰ درجہ کے سات راجہ نو راؤ اور ایک سو چار اور چھوٹے موٹے راجہ اور پانسو
جنگی ہاتھی میدان جنگ میں جاتے تھے۔ گجرات اور مالوہ کے بادشاہ متفق ہوکر بھی
میواڑ کا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ مارواڑ اور امیر کے راجہ اسکے فرمانبردار تھے۔ راؤ گوالیار
واجمیر وسیکری ورائے سین وکالپی وچندیری وبوندی وگگراؤں وآبو اسکے باجگذار
تھے یا اس کو اپنا سردار سمجھتے تھے جن رئیسوں نے اسکے ساتھ وفاداری اور سلوک کیا
تھا اور مصیبت کے وقت اسکی مدد کی تھی اُن کو وہ بھول نہیں گیا۔ کرم چند راجہ سری نگر
کو اجمیر بطور جاگیر عطا کی اور اسکے بیٹے جگ مل کو راؤ کا خطاب دیا اس نے چندیری کے
محاصرہ میں خدمات شائستہ کیں تھیں۔ مُلک میں جو آپس میں جھگڑے وفساد رہتے تھے وہ
سب اُس نے دبا مٹا دیے پہلے اس سے کہ وہ بابر سے لڑا۔ وہ اٹھارہ لڑائیوں میں شاہان
دہلی ومالوہ پر فتحیاب ہو چکا تھا انہیں سے دو لڑائیاں بکرولی وگھتولی میں سلطان ابراہیم شاہ
دہلی سے ہوئیں جنمیں اسکو فتح ہوئی۔ اسکے عہد میں میواڑ کی یہ حدود تھیں۔ میواڑ کی شمالی
سرحد پر پیلا کھال یعنی زرد جھیل جو بیانہ کے متصل ہے اور مشرق میں دریائے سندھ اور جنوبی
سرحد مالوہ اور مغرب میں کوہستان۔ غرض وہ راجستان کے بڑے حصہ میں بذات
خود حکمران تھا یا وہاں کے اور حکمران اُسکے زیر فرمان تھے راجپوت اسکے ایسے معتقد تھے

کہ اُسکی پوجا کرتے تھے وہ ایسے اعلیٰ درجہ پر پہنچ گیا تھا کہ اگر بابر اُسکی جان کا دشمن نہ پیدا ہوا ہوتا تو وہ ان چھ راجاؤں کے بعد ساتواں راجہ ہوتا جو ہندوستان میں چکردتی راج کر گئے ہیں۔ ہندؤں کے پران میں پہلے سے یہ پیشنگوئی لکھی ہوئی تھی کہ ترشکایوں اور اور جنبی قومیں سورج بنسیوں اور چندر بنسیوں کی دشمن ہونگیں۔ وہ پیشین گوئی راناسنگا اور بابر کی لڑائی سے پوری ہوئی۔ کیونکہ بابر ترشکا یعنی ترک تھا۔ بابر اور راناسنگا کی لڑائی کا حال میواڑ کی تاریخ میں وہی لکھا ہے جو بابر نے خود لکھا ہے ساری بڑی بڑی واقعات دونوں کی تاریخوں ملتے جلتے ہیں اسلیے ہم ان کو نہیں لکھتے وہ بابر نامہ میں بیان ہوئے۔

راناسنگا کا قد میانہ تھا جسم سشہ زور تھا۔ چہرہ وجیہ۔ آنکھیں بڑی بڑی۔ مرنے کے وقت اسکی جسم کا ایک ایک عضو گواہی دیتا تھا کہ وہ بڑا جنگی بہادر تھا اسکی ایک آنکھ بھائی کے ساتھ فساد میں گئی تھی۔ لودیوں کے ساتھ لڑنے میں ایک ہاتھ کٹ گیا تھا ایک لڑائی میں بندوق کی گولی لگنے سے لنگڑا ہو گیا تھا جسم پر اسّی زخم تلواروں و برچھیوں و آلات حرب کے تھے مالوہ کے بادشاہ مظفر کو اسی کی دارالسلطنت میں قید کرنے سے اور قلعہ رنتنھبور کا حملہ کرکے فتح کرنے سے وہ بہت مشہور ہو گیا تھا اس قلعہ کی حفاظت میں سپہ سالار علی نے بڑی کوشش کی تھی۔ اُس نے ایک محل کتاؤمیں بنایا تھا اسی کی سیدھ میں وہ میواڑ کی شمالی سرحد قائم کرنی چاہتا تھا۔

راناسنگا کے سات بیٹے تھے ان میں جو دو بڑے تھے وہ چھوٹی عمر میں مرگئے تھے تیسرا بیٹا رتن سمت ۱۵۸۶ء ۱۵۳۰ء میں باپ کا جانشین ہوا۔ پانچ برس سلطنت کرکے مرگیا۔ پھر اس کا بھائی بکرماجیت سمت ۱۵۹۱ء ۱۵۳۵ء میں جانشین ہوا۔ گجرات کے بادشاہ سلطان بہادر نے اس رانا کو شکست عظیم دی۔ اُس نے چتوڑ کا محاصرہ کیا۔ اوّل اوّل وہی قلعہ شکنی میں توپوں کو کام میں لایا۔ راجپوت اپنے تعصب کے سبب سے توپوں کو کام میں نہیں لاتے تھے۔ بلکہ توپوں کو کوستے اور بد دعا دیتے تھے کہ انھوں نے

راناسنگا

راناسنگا کے بیٹے

جوانمردوں کے تیروں اور برچھیوں کے اثر کو نکما کر دیا۔ سلطان بہادر نے چتوڑ کا ایسا تیلا
حال کیا کہ بوندی کا کبیشر یہاں کا حال یہ بیان کرتا ہی کہ ان کا راجہ مع پانچسو اپنے
رشتہ داروں کے اڑ گیا۔ راؤ درگا نے مع چند اور سرداروں ستو اور دودا اور اپنے
تابعین کے قلعہ کی شکستہ دیوار کی حفاظت کی اور دشمنوں کے حملوں کو ہٹایا اور اس
بہادری کو دیکھکر مہارانی جواہر رائے رہٹور مسلح ہو کر لڑنے آئی اور حملہ کر کے ماری گئی
محاصرین کے ہاتھ میدان رہا۔ اب راجپوتوں نے سبھا اس لیے بلائی کہ رانا سنگا
کے چھوٹے بیٹے اودیسنگھ کو جو اسکے مرنے کے بعد پیدا ہوا ہی کیونکر اس جوکھوں سے بچائیں
چتوڑ کی محافظ دیبی پہلے کہہ چکی تھی کہ جب تک چتوڑ نہیں بچے گا کہ بارہ راج کے وارث
جان نہ دینگے۔ وہ بارہ رانا بھینٹ میں چڑھے۔ اب یہ دیبی پھر راجہ کی بھیٹ چاہتی تھی
اسکے لیے یہ تدبیر کی گئی کہ باگھ جی راجہ دیولا بھینٹ میں دیے جائیں اس راجہ نے خود اس
بات کو قبول کر لیا تھا وہ راجہ بنایا گیا۔ خردسال رانا اودیسنگھ کو بوندی کے راجہ سورما
کے پاس پہنچایا۔ قلعہ کے آدمیوں نے زعفرانی لباس پہنا۔ اور جوہر (جیوہر) کی تیاری
کی گئی۔ چتا بنانے کی تھوڑی کسر باقی تھی کہ اُنھوں نے دیوار کی دراڑ کی حفاظت میں
جان دی۔ پھر قلعہ میں آنے کا یہ رستہ غیر محفوظ ہو گیا۔ چتا تیار ہو گئی اسمیں باروت
بچھائی گئی۔ کرناوتی جو رانا کی ماں اور جوانمرد ارجن ہرا کی بہن تھی وہ جلنی والی عورتوں کی
سربراہ تھی چتا پر لے گئی۔ وہاں تیرہ ہزار عورتیں جلکر خاکستر ہو گئیں۔ پھر قلعہ کا دروازہ
کھولکر راجہ دیولا اپنے بہادروں کو ساتھ لیکر خوب لڑا اور مارا گیا۔ قلعہ کے اندر کا حال
یہ تھا کہ ہزاروں کشتوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور سیکڑوں زخمی نزع کی حالت
میں تڑپ رہے تھے اور موت کے منتظر تھے جس کو وہ بے آبروئی اور قید سے اچھا
سمجھتے تھے۔ کبیشر کہتا ہی کہ چتوڑ میں پرلے (قیامت) آ گیا تھا۔ راجہ کے سردار اور
بڑے بڑے نوکر مارے گئے تھے اور اس طوفان میں ۳۲ ہزار راجپوت جان سے گئے

یہ چتوڑ کا دوسرا ساکا ہی۔

سلطان بہادر چتوڑ میں دو ہفتہ رہا تھا کہ اس نے ہمایوں کے آنے کی خبر سُنی جسکو وہ سُنکر بھاگ گیا۔ میواڑ کے گیبشر کہتے ہیں کہ ہمایوں بنگال سے اسیلیے زود نہ ہوا تھا کہ رانی کرناوتی نے اُس سے درخواست کی تھی۔ اس رانی نے ہمایوں کو راکھی بند بھائی بنایا تھا۔ اس راکھی بندی میں بھائی سے یہ شرط ہوتی ہی کہ بہن کی مصیبت کے وقت بھائی کام آئے۔ جب اس رانی نے اپنی مصیبتوں کا حال ہمایوں کو لکھا تو وہ اپنے بنگال کی فتوح کو چھوڑ کر اپنی ایفاء عہد کے سبب سے دوڑا آیا۔ اگرچہ اس کے آنے سے پہلے رانی جل چکی تھی۔ مگر پھر بھی اسکے آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہادر چتوڑ کا دانا نہ رہا۔ اگر گیبشروں کا بیان یہ سچا ہو تو ہمایوں کی عالی ہمتی اور ایفاء وعدہ کا خیال تعجب خیز ہی کہ ابھی باپ کے ساتھ رانا سنگا سے وہ لڑا تھا اسپر بھی اس نے یہ نیک سلوک اپنے دشمن کی اولاد کے ساتھ کیا کہ اُسکے بیٹے کو رانا بنایا۔

بکرماجیت کو اپنی دارالسلطنت اس طرح حاصل ہوگئی مگر اس مصیبت نے اُس کو کوئی فائدہ مند سبق نہ پڑھایا نہ اس تجربہ نے اُس میں کوئی دانائی پیدا کی پھر وہی اُس کی بیباکیاں اور گستاخیاں اپنے بھائی بندوں کے ساتھ تھیں۔ آخر کو راجپوتوں نے بکرماجیت کو ٹھکانے لگا کے پرتھی راج کے بیٹے بن بیر کو رانا بنایا اودے سنگھ اُس وقت چھ برس کا تھا۔ بنبیر نے اسکے مارنے کا ارادہ کیا مگر اُسکی دایہ نے اُسے بچا لیا۔

رانا اودے سنگھ سمت ۱۵۹۷ ۱۵۴۲ میں تخت نشین ہوا۔ اب بڑے گیبشر کا قول یہ ہی کہ اس سرزمین پر افسوس ہے جہاں کا راجہ خردسال یا عورت ہو۔ یہ حال میواڑ کا ہوا۔ اودے سنگھ میں جوانمردی و شجاعت باوجود رانا سنگا کے بیٹے ہونے کے پاس بھی نہیں آئی تھی اس لیے اس میں کوئی لیاقت ایسی نہ تھی کہ وہ میواڑ کی رانائی کے لائق ہوتا۔ ایسی رانا کی لڑائیاں اکبر شہنشاہ سے ہوئیں۔

میواڑ کے کھوٹے دن آئے تھے کہ اودے سنگھ رانا ہوا سو دیا کی حامی دیبی نے اقرار کیا تھا کہ جب تک بپا کی اولاد میری بھیٹ ہوتی رہیگی میں اپنے گھمنڈ کی پہاڑی کو نہیں چھوڑنے کی یعنی چتوڑ کو۔ جب الا یعنی علاء الدین نے اول حملہ کیا تھا تو بارہ تاجداروں نے زعفرانی لباس پہنکر میواڑ کی حفاظت میں جان دی تھی۔

دوسری دفعہ جب اجیب یعنی بایزید بہادر نے فتح حاصل کی تو دیولا مدد کو آیا اور اُس نے اپنی جان دی مگر اب تیسری دفعہ کے حملہ میں کسی نے رانا کی اولاد میں سے اس چتوڑ کے دیبی کو اپنی بھیٹ دیکر اس کے غصہ کو فرو نہ کیا اور اُسے اپنا طرفدار کر کے ذوبیکے کنگرون کو محفوظ نہ کرایا وہ دیبی وہاں سے چلی گئی اور اُس کے جاتے ہی قوم گہلوت کا جو طلسم بنا ہوا تھا وہ شکستہ ہو گیا اور وہ پوشیدہ رشتہ جس نے چتوڑ کو دودھ عکوت گہلوت سے باندھ رکھا تھا ٹوٹ گیا۔ اودے سنگھ کے ساتھ وہ پہاڑی دیبی اُڑ گئی جس نے اندھیری رات میں سیمرسی کی آنکھیں کھول کر کہا تھا کہ ہندوں کی شان و شکوہ اب جاتی ہی۔ کیپٹن کہتا ہے کہ اس کے جاتے ہی وہ دیواریں جو مدتوں سے راجپوتوں کا بیت المقدس سمجھی جاتی تھیں۔ اور اس کو انکی عظمت و جلال کا ہالہ گھیرے ہوئے تھا اس کو اب راجپوتوں کی آزادیاں اور مذہب ناپاک سمجھنے لگے۔

گو یہ قصص روایات زبانی ہیں مگر ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ راجپوتوں کو اپنی آزادی کیسی پسند تھی اور وہ اپنی باتوں میں کیسے متعصب تھے میواڑ کی زبانی روایات حکایات میں اکبر کے ایک حملہ کا ذکر یہ ہی کہ اُس نے چتوڑ پر فوج کشی کی اور ناکام واپس آیا۔ رانا کی رانی سپاہ کو لیکر اکبر کے لشکر میں حملہ کرتی ہوئی گھس گئی اور ایک دفعہ وہ شہنشاہ کے صدر مقام پر بے محابا جا پہنچی۔

نامور رانا نے مشتہر کیا کہ میری جان اس رانی نے بچائی اس سے راجپوت سمجھے کہ ہماری شجاعت پر داغ لگتا ہے کہ ایک عورت راجہ کی جان بچائے

وہ ایسے طیش میں آئے کہ سازش کر کے اس عورت کو اُنھوں نے مار ڈالا۔ اکبر نے راجپوتوں میں یہ خانگی فساد دیکھکر چتوڑ کا دوبارہ محاصرہ کیا اس وقت اکبر کی عمر پچیس برس کی تھی۔ اسکی تمنا دلی یہ تھی کہ چتوڑ کو فتح کر کے نامور ہوں۔ اسکے لشکرگاہ کے نشانات اب بھی موجود ہیں جنسے معلوم ہوتا ہی کہ گاؤں نیڈولی سے لیکر بسی کی شاہراہ پر دس میل تک اسکا لشکر پڑا تھا کہ ہیٹا کو اڑ کے مقام پر سنگ مرمر کا مخروطی مینار بنا ہوا ہی اس کو اکبر کا دیوا کہتے ہیں جب اکبر چتوڑ سے باہر خیمہ زن ہوا تو رانا ودیسنگہ نے کسی ضرورت کے سبب مجبوری چتوڑ کو چھوڑ دیا یہ ضرورت اور اسکی دلی خواہشیں متحد تھیں مگر اس نے اسکی حفاظت کے لیئے بڑے بڑے بہادر سردار مقرر کیے چونڈا کی اولاد میں سے بہت سے سپاہیوں کے گروہوں کو سیداس ساتھ لیکر سورج دروازہ پر کھڑا ہوا دشمن کا مقابلہ اسکے داخل ہونے کے وقت خوب کیا اور پہلے اسکے جان گئی پہاڑ پر جو جگہہ اسکی خون سے تر ہوئی تھی وہاں اسکا مقتل بنا ہوا یادگار روزگار ہی۔ جن میواڑ کے سرداروں نے یہاں جانفشانیاں کیں انکی تفصیل یہ ہی۔ مڈیریا کا راوت دودیا۔ بیدلا۔ کیتریو۔ اولاد پرتھوی راج دہلی۔ بجولی کا پرمار۔ بدری کا جھلا۔ اُنھوں نے اپنی بہادری دکھا کے اپنی سنیا کو بہادر بنایا چتوڑ کی حفاظت کے لیے جو غیر ملکوں سے مددگار آن کر خوب لڑے اُن کی تفصیل یہ ہی جھالور کے کارن سونی نیگ راؤ کا بیٹا دیولا ایشور داس راٹھور۔ کرم چند کچھواہہ۔ رودا۔ سدھنی۔ گوالیار کا راجہ جسکی قوم تواڑ تھی۔ میواڑ کی روایات کے تاریک صفحوں میں سب سے زیادہ روشن حرفوں میں بڈنور کے جیمل کا اور کھلواڑ کے پیا کا نام لکھا ہوا ہی۔ اکبر نے بھی ان کی تعریف کی ہی۔ انکی بہادری اور جوانمردی کا بیان راجپوتوں کے ورد زبان ہی۔ میواڑ میں جو رانا کے سولہ تابعین تھے انمیں سے یہ دو بھی تھے جیمل راٹھور میرتھیا کے خاندان کا تھا وہ مارواڑ کے سرداروں میں بہادر تھا۔ پیا جگوتیوں کا جو چونڈا کی ایک بڑی شاخ ہی سردار تھا۔ راجپوتوں کو جب تک اپنے باپ دادا کی مہمات یاد رہینگی

دو جیمل کا نام نہیں بھولیں گے۔ اس لڑائی میں عورتوں نے اپنی اوڑھنیوں پر ڈھال لگائی اور بہادروں کو ساتھ لیکر دشمن کے لشکر میں بے تحاشا گھس گئیں۔

جب سورج دروازہ پر سو بیرا قتل ہوا اور کیلوار کا بیٹا اُسکی جگہ مقرر ہوا تو اُس کی عمر سولہ برس کی تھی۔ باپ اس کا پہلی لڑائی میں مارا جاچکا تھا۔ اُسکی ماں زندہ تھی اُس نے بیٹے کو زعفرانی پوشاک پہنائی اور چتوڑ کے لیے جان دینے کی نصیحت کی اور اُس کے لیے بیوی کے ہاتھ میں ہتھیار دیکر اپنے ساتھ لیا اور یہ دونوں پہاڑ سے نیچے اُترے۔ یہ دُلہن لڑکر مرگئی راجپوتوں نے جب یہ دیکھا کہ پیاری لڑکیاں اور بیویاں ایسی بہادریاں کرتی ہیں تو وہ سبکے سب ایسی بہادری سے لڑے کہ جان کی پرواہ نہ کی اور دیر تک ملک کے بچانے میں جانفشانی کرتے رہے اور اُن کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہتھیار چھوڑکر دشمن سے پناہ مانگیں۔ جب جیمل کے گولی آنکر لگی تو اُسکو افسوس ہوا کہ اس درد کے صدمہ سے میری جان جائیگی۔ اب اُس نے دیکھا کہ چتوڑ کے بچنے کی امید کچھ نہیں اسکی شمالی طرف بالکل غیر محفوظ ہوگئی ہے تو اُس نے یہ ارادہ کیا کہ ایک بارگی ماریئے یا مرجایئے آٹھ ہزار راجپوتوں نے زعفرانی لباس پہنا اور آخری بیڑا اُٹھایا چتوڑ کے دروازے کھول دیئے۔ خونریزی شروع ہوئی۔ چند ہی راجپوت زندہ رہے ہونگے جنکے زعفرانی لباس پر دشمن کے حوالہ کرنیکا دھبہ لگا۔

شہنشاہ اکبر چتوڑ میں داخل ہوا۔ ۳۲ ہزار راجپوت مارے گئے۔ سترہ سو سردار کام میں آئے۔ سرداروں میں صرف ایک گوالیار کا راجہ قوم تو ار کا بچکر نکل گیا۔ نو رانیاں پانچ امیرزادیاں دس لڑکے خورد سال تمام سرداروں کے اہل وعیال چتا میں جلکر خاکستر ہوئے۔ راجپوتوں کو اُنکے دیوتا نے جو سورج تھا چھوڑ دیا تھا۔ چتوڑ کا آخری روز اتوار کا دن یعنی سورج کا دن تھا۔ یہ آخر شعاع اس نے اپنے جلال کی چتوڑ پر چمکائی چتوڑ لٹ گیا۔ رانا کے مکانات و محل و مندر سب غارت ہوئے۔ تمام امارات شاہی چھن گئے۔ نقارہ جنکی آوازیں کوسوں جاتی تھیں۔ شہنشاہ نے چھین لیے۔ وہ تلوار جو

شوالہ میں چتوڑ کی کے لیے بیا کی کمر میں باندھی گئی تھی وہ سب لی شوالہ کے دروازے اکھیڑ کر
اکبر آباد کے قلعہ میں لگانے کے لیے بھیجے گئے۔

اکبر نے ان راجپوتوں کی تعداد دریافت کرنے کے لیے جو اس لڑائی میں مارے گئے تھے
انکے گلوں کے زنار اتروا کے تلوائے تو وہ ساڑھے چوہتر من وزن میں ہوئے اس زمانہ سے
یہ عدد ۷۴½ بمنزلہ طلاق سمجھا جاتا ہے۔ مہاجنوں کی چٹھیوں کے اوپر ۷۴½ لکھے ہوتے ہوتے
ہیں جسکے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اسے کھولکر پڑھیگا وہ چتوڑ کے قتل کے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ
ایک دلچسپ ڈھکوسلا بھاٹوں اور کبیشروں کا گھڑا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسوں نے وزن میں نہایت
مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔

ہم نے پہلے لکھا ہے کہ چتوڑ کو اودے سنگھ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ راج پیلی کے جنگل میں
قوم گوہیل کے پاس پناہ گزین ہوا۔ یہاں سے وہ گرد وگھاٹی میں ارولی کے اندر گیا
یہ مقام اس جگہ کے متصل ہے جہاں چتوڑ کے فتح کرنے سے پہلے بیا گوشہ گزیں ہوا تھا
چتوڑ کے فتح ہونے سے چند سال پہلے اس نے اس پہاڑی کے دروازہ پر ایک تالاب
بنایا تھا۔ جو اب تک اودے ساگر کے نام سے مشہور ہے اور اس نے پہاڑوں کے درمیان
ایک بند بندھوایا جس نے ایک دوسرے پہاڑ کے چشموں کے دھاروں کے پانی کو
روک دیا۔ جہاں پہاڑوں کا جھنڈ تھا اسپر ایک محل بنوایا جس کا نام نوچوکی مشہور ہے۔ پھر
اسکے گرد بہت جلد عمارات عالی شان تیار ہوئیں اور ایک شہر کی صورت پیدا ہو گئی اور
اس کا نام اپنے نام پر رانا اودے سنگھ نے اودے پور رکھا جو اب میواڑ کا دار الحکومت ہے
اودے سنگھ چتوڑ کے فتح ہونے کے بعد چار سال جیتا رہا اور بیالیس برس کی عمر میں
مرا۔ پچیس ۲۵ بال بچے چھوڑے جنمیں سے پرتاپ سنگھ اس کا جانشین ہوا اس رانا کا حال
اکبر کے حالات میواڑ میں پڑھو تم نے اس کے حالات اور حکایات اور روایات بھی
لکھدی ہیں جو بہت دنوں تک مشہور ہیں۔ رانا پرتاپ سنگھ کو مسلمانوں کی تاریخوں میں اکثر رانا کیکا لکھا ہے۔

اودے پور

پرتاپ سنگھ رانا اودے پور

اور اسکی وجہ حال کے کوئی راج شیمل داس یہ بیان کرتا ہی کہ میواڑ میں کیکا اکثر بچوں کو کہتے ہیں اور کیکا کی جگہ کو کا بھی بولتے ہیں۔ میواڑ کی مہارانا کی عادت تھی وہ اپنے لڑکوں کو جب تک کہ وہ راجگدی پہ بیٹھیں کیکا کہا کرتے تھے۔ اسی سبب سے رانا پرتاب سنگہ کو کیکا جب تک لوگ کہتے رہے کہ اس کا باپ رانا اودے سنگہ زندہ رہا۔ اکبر غالباً اس سبب سے اس کو اکثر کیکا کہا کرتا تھا۔ مسلمان مورخوں نے اس کو جب بھی کہ وہ مہارانا ہو گیا کیکا ہی لکھا۔

مارواڑ

اس دیس کا نام مارواڑ مشہور ہی دراصل وہ مارستھل یا مارو ستھان مردوں کی بستی ہی اس کو مارو دیس بھی کہتے ہیں۔ مسلمان مورخ اس کو مردیس کہتے ہیں۔ کبھی اسکو مور دھر کہتے ہیں اور کبھی مارو ہی شعروں میں درج کرتے ہیں۔

وجہ تسمیہ مارواڑ

ہندوستان میں راجپوتوں کی بڑی سلطنتیں چار تھیں۔ اول دہلی جس میں پورا اور چوہان راج کرتے تھے دوم قنوج جس میں راٹھور سلطنت کرتے تھے (قنوج اصل میں کبھ کبج) یعنی استخواں پشت زن باکرہ) سوم میواڑ جس میں گھیلوت حکومت کرتے تھے (میواڑ اصل میں مدیہ وار یعنی وسط ملک) تھا۔ چہارم انہل وار جس میں چاور دسولانکی راج کرتے تھے۔

شہاب الدین غوری نے رائے پتھورا کا کام تمام کرکے جے چند راجہ قنوج کا قصد کیا۔ وہ بھاگ کر جاتا تھا کہ گنگا میں ڈوب کر مرگیا اُس کا بھتیجا سیہا کہ شمس آبا دمیں تھا وہ بھی مرگیا یہ واقعہ سمت ۱۲۴۹ ۱۱۹۲ء میں ہوا۔

قنوج کی تباہی کے ۱۸ برس بعد جے چند کے پوتے سیوجی اور سیت رام انہل وار (گجرات) میں راج کرنے لگے۔ سیوجی کے بعد اسکا ایک بیٹا اسو تھاما جانشیں ہوا۔ دوسرا بیٹا سونگ ایدر میں راجہ ہوا۔ تیسرا بیٹا اجمل اوکم منڈل میں راجہ ہوا اس سے قوم بدہیل

پیدا ہوئی۔

بیاکھ سمت ۱۴۸۴ء/۱۵۱۱ میں جودہ پیدا ہوا اسکے باپ کی جاگیر میواڑ میں تھی اس نے جیٹھ سمت ۱۵۱۵ء/۱۴۵۹ میں جودھپور کی بنیاد رکھی اور مندور سے اس شہر میں اپنی دار السلطنت کو منتقل کیا جو اب تک چلا جاتا ہے۔ جودہ اس شہر کے آباد کرنے کے بعد ۳۰ برس تک زندہ رہا اور اسکی زندگی میں اسکے بیٹوں اور پوتوں نے مارو دیس کو فتح کیا۔ سمت ۱۵۴۵ء میں اکسٹھ برس کی عمر میں مرگیا اسکے بعد سوجہ (سورج مل) تخت نشین ہوا۔ ۲۷ برس سلطنت کی۔ دہلی کے لودھی بادشاہوں میں آپس میں بڑا جھگڑا رہا اسلیے مارو کا خشک ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے بچا رہا مگر سمت ۱۵۷۲ء/۱۵۱۶ میں ایک پٹھانوں کا گروہ تیج کے میلے میں شہر پیپر سے راجپوتوں کی ایک سو چالیس کنواری لڑکیوں کو پکڑ کرلے گیا جب اسکی خبر سورج مل کو ہوئی تو اس نے ان پٹھانوں کا تعاقب کیا اور اپنی جان کھو کر ان کنواریوں کو نجات دلائی اس واقعہ کے گیت اب تک تیج کے میلہ میں گائے جاتے ہیں کہ پیپر کی ایک سو چالیس کنواریوں کی قیمت میں سورج مل نے اپنی جان دی۔

سمت ۱۵۷۲/۱۵۱۶ میں سورج مل کا پوتا گنگا اس کا جانشین ہوا۔ اسکا چچا ساگا راج کا مدعی ہوا اور اُس نے اپنی مدد کے لیے دولت خاں لودی کو بلایا۔ اس خان نے ناگور سے ابھی رٹھوروں کو نکالا تھا۔ غرض جودھہ کی اولاد میں تلوار چلی اور ان میں لودی خاں شریک ہوا۔ گنگا کے مددگار بہت سے رجپوتوں کے سردار کھڑے ہوئے اور اُنھوں نے لڑکر ساگا کو مار ڈالا اور دولت خاں کو بھگا دیا۔ پھر جب رانا سنگا کی لڑائی بابر بادشاہ سے ہوئی تو جودھہ کے بیٹے سب رانا کے ساتھ ملکر ترکوں سے لڑے اور اس لڑائی میں رٹھوروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ان کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے چار سال بعد گنگا مرا اور سمت ۱۵۸۸/۱۵۳۲ میں اس کا جانشین بالدیو ہوا۔ یہ راجہ مارواڑ کی تاریخ میں بڑا مشہور ہوا اسوقت مارواڑ کی بڑی اچھی حالت تھی بابر نے تو اس خشک ملک کی پرواہ

نہیں کی۔ گجرات کے بادشاہ نے بھی مالدیو سے کچھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا اس فرصت میں
راجپوتانے دوست و دشمن کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جو اصل راجپوت کیا کرتا ہے۔
مالدیو نے اپنے راج کے پہلے ہی سال میں ناگور اور اجمیر کو لے لیا ۱۵۹۶ء اس نے
جھالور اور سوانہ بھدراجوں بسنہد خالیوں سے لے لیئے اور دو سال کے
اندر بیکا کے بیٹوں کو بیکانیر سے نکال دیا۔ غرض اس نے بہت سے ملکوں کو فتح
کر لیا اور ان کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ اس نے جودھپور کے گرد مضبوط فصیل بنائی۔
اور بہت سی عمارات عالی شان قلعہ میں تعمیر کرائیں۔ میرٹھا کی فصیل اور قلعہ میں
جس کو وہ مال کوٹ کہتا تھا دو لاکھ چالیس ہزار روپیہ خرچ کیا اس نے اور بہت سے
قلعے تعمیر کرائے۔ کہتے ہیں کہ فقط سانبھر جھیل کی نمک کی آمدنی سے یہ ساری تعمیرات
اُس نے تعمیر کرائی تھیں۔ یہ وہی مالدیو ہے جسکی پناہ میں ہمایوں بادشاہ آنا چاہتا
تھا مگر اس نے انکار کیا تھا۔ شیر شاہ اسی ہزار سپاہ مالدیو سے لڑنے کے لیے
لایا اور مالدیو پچاس ہزار راجپوتوں کو ساتھ لیکر اُس سے لڑنے گیا۔ خوب لڑا۔
مگر آخر کو مغلوب ہوا۔ شیر شاہ نے بعد فتح کے کہا کہ خیر ہوئی ورنہ ایک مٹھی باجرہ کے
لئے ہندوستان کی سلطنت گئی تھی۔ شیر شاہ کے لڑنے کے بعد بھی مالدیو جیتا رہا
اور ہمایوں کو پھر بادشاہ ہوتے ہوئے اس نے دیکھا۔ اب آگے مارواڑ کے معاملات
شہنشاہ اکبر کی تاریخ میں ہم اس طرح بھی لکھدینگے جس طرح کہ ہندو اپنی زبانی روایات
اور حکایات میں بیان کرتے ہیں۔

صوبۂ اجمیر و راجپوتانہ و رانائے اودیپور کے معالات

ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ جب گجرات میں سنہ ۹۸۱ھ میں جو بادشاہ نے ایدر کی
طرف سپاہ لبسر کردگی راجہ بھگونت سنگھ بھیجی تھی وہ قلعہ بدھنگر کو فتح کر کے

ایدر کی طرف متوجہ ہوئی اور ایدر کا زمیندار نرائن داس راٹھور بادشاہ کے لشکر میں آیا۔ خدمات شائستہ بجالایا پیشکش لائق بادشاہ کے لیے تیار کی۔

جب رانا کی محل اقامت گوکندہ کے پاس راجہ بھگونت واپس آیا تو رانا راجہ پاس آیا اپنی تقصیروں کا عذر کیا اور راجہ کو اپنے گھر لے گیا اور مراسم مہربانی بجا لایا اور اپنے بیٹے کو ہمراہ کیا۔ یہ ظاہر کیا کہ میری طبیعت میں وحشت ہو گئی میں آپ کے ذریعہ بادشاہ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں اور خدمت کے لیے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اپنی وحشت کو دور کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونگا۔ راجہ ٹوڈرمل جب گجرات سے بادشاہ پاس آتا تھا تو رانا اُسکے پاس بھی آیا اور خوشامد کی۔

میواڑ کے رانا نے کبھی مسلمان بادشاہوں سے اپنے خاندان کی لڑکی نہیں بیاہی یہاں کا رانا اپنے تئیں دیوتاؤں اور سورج کی نسل سے جانتا تھا۔ علاوہ مسلمانوں کو کب خاطر میں لاتا تھا ان کے ساتھ اس طرح کی رشتہ مندی کو اپنے لیئے بے طریق سمجھتا تھا۔ رانا اودے سنگھ کی جان پر آن بنی مگر اس نے یہ رشتہ مندی پسند نہ کی۔ ہم ایک حکایت ٹوڈ رراجستہان سے نقل کرتے ہیں کہ جس سے معلوم ہوگا کہ رانا (کیکا) کو کس قدر نفرت اسی طرح کی رشتہ داری کرنے سے تھی راجہ مان سنگھ شولہ پور کو فتح کر کے ہندوستان کو آتا تھا۔ اس نے رانا پرتاب سنگھ (کیکا) کو جو کنبہل میر میں تھا لکھا کہ میں تیری ملاقات کو آتا ہوں۔ رانا اسکے استقبال کو اودے ساگر میں آیا۔ اس ساگر کے بندھ پر راجہ مان سنگھ کی ضیافت کا سامان تیار کیا گیا۔ پتلیں چنی گئیں۔ راجہ مان سنگھ بلایا گیا۔ رانا کے بیٹے کنور امر سنگھ کو اہتمام ضیافت سپرد ہوا مگر رانا خود نہ آیا۔ اسکے بیٹے امر نے باپ کے نہ آنے کے لیے درد سر کا عذر پیش کیا اور راجہ سے عرض کیا کہ آپ رسم ضیافت کو ادا

رانا اودے پور کا کبھی مسلمان بادشاہوں سے لڑکی نہ بیاہنا

لیجیے اور تناول طعام فرمایئے۔ راجہ نے ادب اور تمکنت سے کہا کہ رانا سے کہدو کہ میں آپ کے درد سر کے عذر کو خوب جانتا ہوں۔ مگر اس غلطی کا علاج کیا ہے۔ اگر رانا ہی میرے سامنے پتل رکھنے سے انکار کریگا تو پھر کون میرے آگے پتل رکھیگا؟
اب آگے تمھارے عذر کرنے عبث ہیں۔ اس پر رانا نے اپنا افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ میں اس راجپوت کے ساتھ نہیں کھا سکتا کہ جس نے اپنی بہن کو ترک سے بیاہا ہو جس نے غالباً اُسکے ساتھ کھانا کھایا ہوگا۔ راجہ مان سنگہ نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ چند چاولوں کے دانے ان دیوی (خوراک کی دیبی) کے نام کے لے لیے اور ان کو اپنی پگڑی میں رکھ لیا اور یہ کہکر اُٹھ گیا کہ تمھاری عزت کے باقی رکھنے کے لیے ہم نے اپنی عزت کو قربان کیا کہ اپنی بہن اور بیٹیوں کو ترکوں سے بیاہا۔ اگر تمھارا یہی دل چاہتا ہے کہ خوف میں رہوں تو رہو اب اس ملک میں تم کو حکومت کرنی نہیں نصیب ہوگی اور اپنے گھوڑے پر چڑھکر پرتاب سنگہ کی طرف جو آگیا تھا یوں مخاطب ہوا کہ اگر میں تمھارے گھمنڈ کو نہ ڈھا دوں تو میرا نام مان نہیں۔ اسکا جواب پرتاب نے یہ دیا کہ مجھے آپکے ملنے سے ہمیشہ خوشی ہوگی ایک گستاخ بے ادب راجپوت یہ بھی بول اُٹھا کہ اپنے پھوپا (اکبر) کے ساتھ لانے کو نہیں بھولیے گا جس زمین میں دعوت ہوئی تھی وہ ایسی ناپاک سمجھی گئی کہ کندہ کرائی گئی اور گنگا جل سے دھلوائی گئی جو سردار اس دعوت میں آئے یہ سمجھے کہ یہاں آنے سے پوشاک ناپاک ہوگئی ہے اسلیے نہا کر اسے بدلا۔
رانا اودے سنگہ تو ۹۰۵ھ (۱۵۱۸) میں مرگیا تھا اسکی جگہ رانا پرتاب سنگہ (کیکا) جانشین ہوا۔ گو وہ نامرد باپ کا بیٹا تھا مگر جوانمرد دادا رانا سنگا کا پوتا تھا۔ دادا کی بہت سی صفات اسکی ذات میں ورثہ میں آئیں تھیں۔ گو نہ اس پاس کوئی دار السلطنت تھا نہ مخازن۔ دولت پر قبضہ تھا خاندان پر ادبار آچکا تھا۔ اس کے امرا کا دل شکستہ تھا۔ مگر قومی و ملکی محبت خاکستر تلے کی آگ ہوتی ہے۔ جہاں اُس پر ہوا چلی آتش شعلہ زن ہوئی یہی حال رجپوتوں کا تھا کہ باوجود اس

زبون حالت کے راناکے ساتھ ہمدردی کرنے اور جان نثار کرنیکو اسلئے موجود تھے کہ مسلمانون کے کہین مطیع نہو جائین۔ رانا پرتاب سنگہ جانتا تھا کہ مین اکبر سے میدان مین نہین لڑسکتا۔ اسلئے اپنے باپ دادا کے طریقے کے موافق وہ اروَلی کے پہاڑون مین کُبل میر (کنبھل میر) مین چلا گیا تھا اور اُس پہاڑی ملک کو اکبر کے مقابلہ کے لئے تیار کرتا تھا۔ ابھی تک سورج بنسی ہونیکا گھمنڈ اُسکے دماغ سے نہین نکلا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ مین اس بنس کا راجہ ہون کہ جسکی چوکھٹ پر ہمیشہ پہلے سارے ہندوستان کے راجہ سر رکھا کرتے تھے مین کیون کسی کے آگے سر نیچا کرون میرے پاس مستحکم مقامات ہین ملک و ولایت بہت ہے۔ میرے ساتھ ایسے راجپوتون کا انبوہ ہے کہ اپنے ناموس کے لئے جان دینے کو بے حقیقت سمجھتے ہین۔


جب بادشاہ اجمیر مین آیا اور اُسکے نزدیک راناکی سرکشی و گردن فرازی و حیلہ بازی حد سے زیادہ گذری تو اُس نے راناکے مغلوب کرنے پر توجہ کی اور کنور مان سنگہ کو جو عقل و اخلاص و عقیدت و شجاعت مین بادشاہ کے یکتا امرا مین سے تھا اور اُسکو اپنی فرزندی کا خطاب بادشاہ نے عنایت کیا تھا اسکو اس خدمت پر نامزد کیا اور دوشنبہ ۲ محرم ۹۸۴ھ کو اجمیر سے رخصت کیا غازی بدخشی و خواجہ غیاث الدین علی آصف خان و سید احمد و سید ہاشم و جگن ناتھ و سید راجو و مہتر خان و مادھو سنگہ و مجاہد بیگ و کھنگار و راے مونکرن اور اور بہادرون کو اسکے ساتھ کیا۔ اس اخلاص مند سپاہ کو کنور مان سنگہ لیکر چلا اور بادشاہ نے اُسے سمجھایا کہ راناکو بدقسمتی کے خواب سے بیدار کرکے سعادت کی طرف رہنما کرے۔ مگر یہ سرمایۂ بیداری اسکی غنودگی کا سبب ہوئی۔ مانڈل گڈھ مین افواج کو چند روز اسلئے توقف کرنا پڑا کہ سب امرا اور لشکر جمع ہو جائین۔ راناکا ایسا سر پھرا تھا کہ وہ کنور مان سنگہ کو اپنا زیردست زمیندار سمجھتا تھا اسکا ارادہ تھا کہ اس قصبہ مین جاکر اس سے لڑون۔ مگر اسکے رفیقون نے سمجھایا کہ اس جسارت مین خسارت ہے کنور مان سنگہ اجمیر سے کوہستان اروَلی کے نیچے مغرب مین سفر کرکے

درۂ ہلدی گوٹ مین آیا۔

اس لڑائی مین ملا عبد القادر بدایونی شریک تھا اسلیے ہم اس لڑائی کا بیان اسکی تاریخ سے نقل کرتے ہین۔

اوائل ربیع الاول ۹۸۴ھ مین گوگندہ کی فتح ہوئی مجمل بیان اسکا یہ ہے کہ مان سنگھ و آصف خان متواتر کوچ کر کے اجمیر کی فوج کو مانڈل گڈہ کی راہ سے ہلدین جو گوگندہ سے سات کروہ (۱۴ میل) پر تھا لائے یہین رانا کیکا رہتا تھا (معلوم ہوتا ہے کہ سہو کاتب سے ہلدی یا ہلدیو کی جگہ ہلدو لکھا گیا جسکو طبقات مین گھاٹی ہلدیوا اور تو ڈ راجستان مین ہلدی گھاٹ لکھا ہے یہ نام اس سبب سے رکھا گیا تھا کہ یہان کی زمین زرد مثل ہلدی تھی۔ ابو الفضل نے جنگ کی جگہ کھیم پور لکھی ہے وہ ایک گانون گوگندہ کے شمال مین اور ادیپور کے شمال مغرب مین ہے) رانا اس سے لڑنے آیا مان سنگھ ہاتھی پر سوار ہوا اور اُسکے ساتھ بادشاہی بیگی مثل خواجہ محمد رفیع بدخشی و شہاب الدین گورہ و پاینده خان قزاق و علی مراد اوزبک و راجہ لون کرن حاکم سانبھر اور راجپوت قول اوسط یا قلب مین ہمراہ ہوئے۔ اور ہراول مین اور نامی جوان جمع ہوا اور انہین سے اُنہی سے کچھہ زیادہ چیدہ و برگزیدہ سید ہاشم بارہ کے پیش ہراول کے لیے نامزد ہوئے انکا نام جوزہ ہراول (یعنی فرع ہراول) رکھا گیا۔ اور سید احمد خان بارہ ایک جماعت کے ساتھہ برانغار اور قاضی خان مع سیکری کے شیخ زادون کے جو شیخ ابراہیم چشتی کے خویش تھے جرانغار مین و مہتر خان چنداول مین مقرر ہوئے۔ رانا کیکا ۳ ہزار سوار لیکر عقب درہ سے آیا اسکی دو فوجین تھین ایک فوج کا سردار حکیم سور افغان تھا وہ ہراول کے مقابلہ مین قبلہ رویہ یعنی مغرب کو وسے آئے۔ بسبب تنگی و ناہمواری اور ببولون کے درختون کی کثرت کے اور راہ کے مار پیچان ہونے کے جوزہ ہراول اور ہراول ایک راہ پر آنکر د و نو مخلوط ہو کر ایک ہو گئین اور جنگ مغلوبہ ہوئی۔ راجہ لون کرن کے ماتحت جو راجپوت تھے انمین سے اکثر بائین جانب سے بھیڑون کیطرح

بھاگے اور ہراول سے نکل کر برانغار کی پناہ مین آئے۔ اسوقت فقیر (عبدالقادر) نے کہ چند مخصوصون کے ساتھ ہراول مین تھا آصف خان سے کہا کہ اسوقت کیونکر آشنا و بیگانہ راجپوتون مین تمیز کیجائے۔ اُسنے شش کہکر جواب دیا کہ تیر لگائے جاؤ کسی طرف کوئی مرے ع زہر طرف کہ شود کشتہ سود اسلام ست۔ پس ہم تیراندازی اس انبوہ پر کرتے تھے جو مثل کوہ تھا اور ہمارے تیر اصلا خطا نہین کرتے تھے اور اسکے گواہ ہمارے راست تیر ہین ع القلب صادق شاهد بیتهن (دل سچا گواہ ہی جو شہادت دیتا ہے) ع گواہ عاشق صادق در آستین باشد۔ ہمکو یقین تھا کہ ہمارا ہاتھ کام کر رہا ہے اور ثواب غزا حاصل ہو رہا ہے سادات بارہ اور بعض صاحب ناموس جوانون نے اس لڑائی مین وہ کام کیا جو شاید رستم ہی سے ہوتا میدان جنگ مین طرفین کے آدمی مارے گئے۔ دوسری فوج جسکا سردار خود رانا تھا وہ گھاٹی مین سے آیا اور گھاٹی کے دروازہ پر غازی خان تھا اسکو ہٹا کر قلب مین پہونچا یا۔ سیکری کے شیخ زادے ایکدفعہ بھاگ گئے اور فرار کے وقت ایک تیر شیخ منصور داماد شیخ ابراہیم کے لگا وہ اس جماعت کا سردار تھا۔ اس زخم سے مدتون تک اس کو زحمت رہی۔ غازی خان باوجود ملائی کے بہادرانہ کھبڑا رہا۔ اُس کے دائین ہاتھ پر تلوار لگی جس سے اُسکا انگوٹھا کٹ گیا۔ اب مقاومت کی مجال اسمین نہین تھی تو الفرار مما لا یطاق من سنین المرسلین (جب طاقت نرہی تو فرار پیغمبرون کی سُنت ہے) بڑھ کر قول مین پہونچا اور وہ جماعت کہ اول وہلہ مین اس فوج سے رو گردان ہوئی وہ دریا سے پار جا کر بھی پھر نہ پھری۔ اس گیر و دار مین مہتر خان نے چندراول سے نکل کر نقارہ بجایا اور آوازہ لگایا کہ بادشاہ ایلغار کرکے آگیا اس ادا سے کچھ بھگوڑون کی تقویت ہوئی اور وہ بھاگنے سے ٹھہر گئے۔ راجہ رام ساہ گوالیاری نبیرہ راجہ مان سور رانا کے آگے آیا اس نے راجہ مان سنگھ کے راجپوتون کی جان پر وہ کارپردازی کی کہ جسکی شرح نہین ہوسکتی۔ یہی جماعت


گوگندہ کی لڑائی کا نقشہ جس سے سپاہیوں کے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا حال خوب معلوم ہو۔
حکیم سور افغان
جوزہ ہراول
سید ہاشم بارہ
ہراول
آصف خان وغیرہ عبدالقادر
قلب یا قول
راجہ مان سنگھ وغیرہ دلون کرن
علی مراد اوزبک وغیرہ
سید احمد خان بارہ
چنداول
مہتر خان
رانا پرتاب
راجہ رام شاہ گوالیار
جرانغار۔
غازی خان شیخ رادھا سیکری
آگے بڑھنے کی نشانی
پیچھے ہٹنے کی نشانی

ہراول کی چپ سے بھاگی اور آصف خان کے فرار ہونیکا سبب ہوئی وہ میمنہ مین سادات بارہ پاس لتجا
ہوگئی۔ اگر سادات پائے ثبات نہ قائم کرتے تو اس سبب سے کہ ہراول بھاگ چکی تھی لڑائی مین بڑی
رسوائی ہوتی۔ راناکے ہاتھی بادشاہی ہاتھیون کے مقابل مین آئے۔ انمین سے دو قوی مست ہاتھیون
کی لڑائی ہوئی اور حسین خان فوجدار کہ مان سنگہ کے پیچھے دوسرے ہاتھی پر سوار تھا گر پڑا مان سنگہ
خود بجائے مہاوت کے حسین خان کے فیل پر جا بیٹھا اور ایسی ثبات قدمی کی کہ اس سے زیادہ تصور
مین نہین آتی۔ ان دو ہاتھیون مین کہ جن مین ایک فیل خاصہ پادشاہی تھا وہ راناکے
فیل رام پرشاد نامی سے جو بڑا قوی ہیکل تھا لڑا اور جنگ عظیم ہوئی ایک دوسرے کو
دھکیلتا تھا۔ اتفاقاً راناکے ہاتھی کے فیلبان کے تیر لگا اور ہاتھیون کے حملہ کے
صدمہ سے وہ زمین پر گرا۔ پادشاہی ہاتھی کا فیلبان چستی و چالاکی کر کے اپنے ہاتھی پر سے
کودکے راناکے ہاتھی پر جا بیٹھا اور وہ کام کیا کہ کسی سے نہوتا۔ یہ حال دیکھکر راناکو
تاب نہ رہی جو جلو راناکا ہاتھی تھا وہ بھاگا اور افواج مین تذبذب ہوا اور راجہ
مان سنگہ کے یکون نے آگے آنکر وہ چپقلش کی کہ ایک کارنامہ تھا اور مان سنگہ کی
سرداری سے آج ملا شیری کے معنی اس مصرعہ کے سمجھہ مین آئے ع کہ ہندو میزند شمشیر اسلام ہو
جیمل چتوری کا بیٹا اور رامساہ گوالیاری مع اپنے بیٹے سالباہن کے جنہون نے بہت کچھہ
تردد و جانفشانی کی تھی جہنم مین گئے اور گوالیار کے راجاؤن کی نسل مین کوئی باقی نہین
رہا کہ قابل جانشینی ہو ناخس کم جہان پاک۔ رانا جو مادھو سنگہ کے مقابل تھا تیر کے
زخمون سے زخمی ہوا جیم سور جو سادات بارہ کے آگے سے بھاگا تھا رانا پاس التجا لے گیا
اسکی اور راناکی دونو کی فوج ایک ہوگئین۔ رانا تنہا انھین بلند پہاڑون مین چلا گیا
جہان چیتور کی فتح کے بعد گیا تھا اور وہان محض بے اختیار تھا۔ یہاں تابستان کی
چلہ کی گرم ہوا ایسی چل رہی تھی کہ آدمی کا بھیجا سر مین پگھلا جاتا تھا۔ صبح سے دوپہر تک
لڑائی ہوئی تھی اور معرکہ مین پانچسو آدمی مر چکے تھے جنمین سے ایکسو بیس مسلمان تھے اور باقی

ہندو اور زخمی تین سَو سے زیادہ نہ تھے ہَوا کا حال جلتے تنور کا سا تھا سپاہیون مین حرکت کی قوت نہ تھی اور غالب گمان یہ تھا کہ رانا مکر و فریب کرکے پہاڑ کے نیچے چھپا بیٹھا ہوگا اسواسطے تعاقب نہین کیا۔ پھر کر زخمیون کی تیمارداری کی گئی اور فتح کی تاریخ یہ ہوئی ع ویبدو من اللہ فتح قریب (خدا کی طرف سے فتح ظاہر ہوئی) دوسرے روز کوچ کیا اور میدان جنگ مین آنکر ہر شخص کے کام کا ملاحظہ کیا گیا اور درہ سے گذر کر گوگندہ مین آئے۔ رانا محل کی حفاظت اُسکے چند فدائی کرتے تھے وہ اور معابد سے چند آدمی اور جنکا مجموعہ بیس[2] آدمیون کا ہوتا تھا اُنہون نے رسم قدیم کے موافق جوہر کیا اور مستورات کو ہلاک کرکے گھرون اور تہخانون مین سے باہر آنکر حرکت مذبوحی کی اور تلوار کے زخم مالک دوزخ کو جان سپرد کی امرا کو یہ خیال تھا کہ رانا کہین شبخون نہ مارے۔ کوچہ بندی کی خندق اور دیوار ایسی اونچی کہ اسپر سے سوار نہ آسکے گوگندہ کے گرد بنائی اور اسمین آنکر فروکش ہوئے۔ امرا مردہ گھوڑون اور کشتہ آدمیون کی نام نویسی کرتے تھے کہ عرلیفہ شاہی مین لکھکر بھیجین۔ سید احمد خان بارہ نے کہا کہ ہم مین سے نہ کوئی لڑا ہے نہ کسی کا گھوڑا کشتہ ہوا ہی کہ جنکے نامون کو دیوان اعلیٰ مین لکھکر بھیجین۔ اسم نویسی سے کیا فائدہ ہی۔ اسوقت غلہ کی فکر کرنی چاہیے چونکہ یہ کوہستان کم زراعت تہا۔ بنجارے بھی نہین آئے تھے۔ عسرت سے سپاہ کا عجب حال تھا۔ مشورہ کیا گیا اور نوبت بہ نوبت امرا مین سے ایک کو سردار اعتبار کرکے سیکرون من غلہ لانے کے لیئے بھیجا جاتا تھا۔ سیکرہ کے معنے کوئی چھکڑہ کے لیتا ہے اور سکرم اسی سے مشتق بتاتا ہے۔ کوئی اسکو سنسکرت کا لفظ سمجھکر بہینگی کے معنے لیتا ہے۔ بنگالی زبان مین سکرا در شکت چھکڑے کو کہتے ہین) پہاڑون کی چوٹیون اور بلندیون پر مجمع شکستہ آدمیون کا ملتا تو اسیر کیا جاتا۔ مواشی کے گوشت پر گذر اوقات ہوتی تھی اور آم اس افراط سے پیدا ہوئے تھے کہ بیان نہین ہوسکتے اراذل عوام انکو بجاے طعام

کھاتے تھے۔ اکثر اُن کی رطوبت سے بیمار ہو گئے تھے اس دیار مین آم ایک اکبری سیر کی
برابر وزن مین ہوتا تھا مگر جرم مین چھوٹا ہوتا ہے اور شیرینی اور مزہ اس مین چندان
نہین ان دنون مین محمود خان، پادشاہ کے پاس سے ایلغار کر کے گوکندہ مین آیا اور
معرکہ کا حال تحقیق کر کے دوسرے روز چلا گیا۔ اور جو حال ہر کسی شخص کا سنا تھا وہ عرض
کیا سب خدمات پادشاہ کو مستحسن معلوم ہوئین مگر یہ امر پسند خاطر نہین ہوا کہ رانا کو زندہ
نکل جانے دیا۔ امرا نے یہ چاہا کہ رام پرشاد نامی ہاتھی کو مع فتحنامہ کے پادشاہ کے
پاس بھیجین کئی دفعہ پادشاہ نے اس ہاتھی کو رانا سے مانگا تھا مگر اسنے اپنی بدبختی سے
نہین بھیجا تھا۔ آصف خان نے فقیر (عبدالقادر) کا نام لیا اور کہا کہ وہ محض بسبب
محبت و قربت کے ساتھ آیا تھا اسکے ساتھ یہ دونو چیزین بھیجنی چاہئیین۔ مان سنگہ نے
کہا کہ ابھی کچھ کام باقی ہے اسکو چاہئے کہ معرکہ مین صفون کے آگے آخر سب جگہ امامت کرے
مین نے کہا کہ مین یہان کی امامت چھوڑتا ہون میرا کام یہ ہے کہ بندگان شاہی کی صف کے
آگے امامت کرون۔ مان سنگہ مسرور و مبتہج ہو کر فیل مذکور اور احتیاطاً سو سوارون کو میرے
ہمراہ کیا اور خود بھی سیر و شکار اور تھانون کے مقرر کرنیکی تقریب سے گوکندہ سے بیس کروہ تک
میری مشایعت کی اور سفارش نامہ لکھکر یہان سے مجھے پادشاہ کے پاس رخصت کیا مین
ماکھورا اور مانڈل گڈہ کی راہ قصبہ انبیر مین جہان مان سنگہ کا وطن تھا آیا۔ جہان جہان
مین جاتا تھا وہان لوگ مان سنگہ کی جنگ اور فتح کی کیفیت سنتے تھے تو انکو یقین
نہین آتا تھا۔ انبیر سے پانچ کروہ پر فیل دلدل مین پھنس گیا جتنا وہ آگے جاتا تھا اتنا
ہی زیادہ دھنستا تھا۔ یہ میری اول ہی خدمت تھی۔ میری حالت عجیب تھی۔ آخر اس
نواح کی رعایا نے آنکر کہا کہ پارسال بھی اسی زمین مین ایک فیل پادشاہی پھنس گیا
تھا تو اس دلدل مین بہت سا پانی ڈالا تھا تو دلدل ایسی پتلی ہو گئی کہ اُس مین سے
ہاتھی نکل آیا۔ غرض سقون کو بلا کر یہی کیا کہ بہت سا پانی ڈلوایا تو آہستگی کے ساتھ

فیل نے اس ورطہ سے خلاصی پائی اور مین اسیر مین آیا اس سے آدمیون کو بڑا افتخار حاصل ہوا
یہان چار روز رہکر قصبہ ٹونڈہ مین کہ مولد فقیر تھا اور بسا ورجسکی نسبت یہ مصرعہ ہے ؎
وا دل ارض مس جلدی ترابہا۔(یہ اول ہی زمین تھی جسنے میری جلد کو چھوا تھا) ہوتا ہوا۔
اوائل ماہ ربیع الاول مین بوسیلہ کوکہ وراجہ بھگوانداس بدرمان سنگہ کے دیوانخانہ فتحپور مین
پادشاہ کی کورنش بجا لایا اور امرار کی عرضداشت اور ہاتھی کو پادشاہ کی خدمت مین نذر کیا
پادشاہ نے پوچھا کہ اس ہاتھی کا نام کیا ہے۔عرض کیا کہ رام پرشاد۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ بطفیل پیر
حاصل ہوا ہے اسی لیئے اسکا نام پیر پرشاد رکھتا ہون۔
پھر پوچھا کہ سچ کہو کہ تو کس فوج مین تھا اور کیا کام تیرے ہاتھ سے بن آیا مین نے کہا کہ
پادشاہون کے حضور مین سچ بھی سو ترس و لرزہ کے ساتھ کہا جاتا ہے۔دروغ
کیونکر کوئی کہہ سکتا ہے۔پھر مین نے جو واقعی حال تھا بتفصیل بیان کیا پھر پوچھا کہ تو برہنہ
تھا یا مسلح۔مین نے کہا کہ جیبہ و بیجم میرے پاس تھے فرمایا کہ یہ کہان سے ہاتھ لگے تھے مین نے
کہا کہ سید عبد اللہ خان سے ہاتھ لگے تھے۔میری باتین پادشاہ کو بہت مستحسن معلوم ہوئین
ان دنون مین پادشاہ کے آگے اشرفیون کا گنج رکھا رہتا تھا اسمین سے ۹۶۔اشرفیان
مجھے انعام دین اور پوچھا کہ شیخ عبد النبی سے بھی ملاقات کی ہے مین نے کہا کہ مین ابھی گرد راہ
سے دربار مین آیا ہون انسے کیونکر ملتا۔دو شالہ نخودی اعلےٰ درجہ کا دیا اور فرمایا کہ اسکو
لیجا کر شیخ سے ملاقات کرو اور کہو کہ یہ دو شالہ کارخاصہ کا بنا ہوا ہے کہ شیخ کی
نیت سے فرمائش کر کے بنوایا ہے اسکو وہ اوڑھے۔مین یہ دو شالہ شیخ پاس لیگیا
اور پادشاہ کا پیغام سنا دیا۔شیخ خوش ہوا اور پوچھا کہ وداع کے وقت مین نے
کہا تھا کہ جب صفین ملین تو دعا ہماری پڑھ کر ہمکو یاد کرنا مین نے کہا کہ یہ دعا مین نے خود
پڑھی تھی اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنٰتِ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَ
اخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شیخ نے کہا کہ یہ دعا کافی تھی

سبحان اللہ یہ شیخ عبد النبی کیا تھے یا آخر ین انکا وہ حال ہوا کہ کسیکو خدا نہ دکھاے نہ سنوائے
اس سے سب کو عبرت پکڑنی چاہیے ؎

ہر کرا پدر در گیتی عاقبت خوش بر بخت — حال آن فرزند چون باشد کہ خصمش بود مادر

اصل تاریخی حال تو بدایونی نے لکھا ہی اب ٹو دراجستان کے بیانون کی طرف توجہ کرتے
ہین جو انہون نے نہایت جانفشانی سے کبتون اور گیتون اور کبیوں اور بھاٹون کی
روایتون سے جمع کیئے ہین اور انسے بعض تاریخی حالات معلوم ہوتے ہین مگر اس سے
پہلے ہم ایک بڑے نامور شاعر لارڈ بائرن کی نظم چایلڈ ھر ہلیڈ کا ترجمہ لفظی کرتے ہین اور اسکا
مطلب بیان کرتے ہین پھر بعض حکایات اس معرکہ کی نقل کرتے ہین ۔ نظم کا ترجمہ
کیا ہر ایک گیت ایسے شاندار فسانہ سے نہین بھرا پڑا ؟
افسوس ہی کہ کسی ہیرو (یعنے نامور شجاع) کی بڑی سے بڑی قسمت یہ ہے ۔
جب سخت پتھرون کے تودے اور تاریخ کے دفتر کچھ حال نہین بتاتے تو کسان اپنے گیت مین
مشتبہ تاریخون کی لے بڑھاتے ہین ۔ ای غرور ذرا آسمان سے نیچے آنکھین جھکا کر اپنی حالت کو
دیکھ کہ وہ لوگ جو بڑے طاقتور تھے اب گیت ہی گیت رہگئے ہین ۔ کیا کتاب ۔ مینار عمارت تجھکو برا
رکھینگے ؟ یا تو روایت کی بھولی زبان پر بھروسا رکھیگا جبکہ خوشامد تیری ساتھ سو گئی ہوگی اور
تاریخ تجھکو نقصان پہنچائیگی ۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہی کہ روایات (یہ ایک ایسے انگریزی لفظ
ترجمہ ہے جسکے معنے افسانون گیتون و قصون کے ہین جو زبان زد خلائق ہوتے ہین)
انمین بھولی بھولی باتین ایسی بھی ہوتی ہین جن مین صداقت نہین ہوتی یعنے
عوام مین جو ایک بڑے آدمی کی نسبت گیت و کہانیان مشہور ہوتی ہین وہ بھی
اس کی خوش قسمتی کی یادگار ہوتی ہین جو اس کو اپنی زندگی مین حاصل ہوئی تھین ۔
جب ان بڑے آدمیون کے نشان مٹ جاتے ہین ۔ ان کے قلعے و عمارات و شہر غارت
ہوجاتے ہین ۔ تاریخون مین ان کے ذکر کا پتہ نہین لگتا یا بُری طرح بیان ہوتا ہے

تو اسوقت ان قصے کہانیون اور گیتون سے جو عوام مین مشہور ہوتے ہین انکے کارنامے معلوم ہوتے ہین۔ شاعر بغیر فیصلہ کے سوال کرتا ہے کہ کیا بڑے آدمیون کی عظمت عمارتون اور کتابون سے اچھی طرح معلوم ہوتی ہے خاصکر ایسی حالت مین جبکہ انکے خیر خواہ مورخ انکے ساتھ مر گئے ہون اور تاریخ مین انکے کامون کو بُری صورت مین دکھایا ہو یا ان کی عظمت روایات کے ذریعہ سے معلوم ہو سکتی ہے جو اپنی شاعرانہ اور بھولی زبان سے انکو گاتے یا سناتے ہین وہ انکی عظمت کی زیادہ یادگار ہوتی ہین۔ یا تاریخ جو مخالفانہ لکھی ہے؟ غرض رانا پرتاب کا یہی حال ہے جو بڑا آدمی تھا مگر مورخ مخالف ملے۔ اس کے کامون کو ذلیل کرکے بیان کیا عوام مین جو باتین اسکی بہت مشہور ہین وہ شاعرانہ صورت رکھتی ہین موثر ہین۔ اب ٹوڈ نے روایات سے اس معرکہ کے بیان مین یہ لکھا ہے کہ رانا پرتاب بائیس ہزار راجپوتون کو ہلدی گھاٹ کے میدان جنگ مین لایا تھا۔ ان مین سے صرف آٹھ ہزار جان سلامت لیگئے پرتاب تن تنہا اپنے گھوڑے جیتک پر سوار ہو کر بھاگا۔ اسی گھوڑے نے اس کی جان بچادی اور اپنے اوپر سوار کرکے لے گیا دو مغل اس کے پیچھے پڑے جنکو اس روک نے تھوڑے دنون کیلیے روک دیا کہ پہاڑ سے بہتی ہوئی ندی حائل ہوئی جنکو رانا کا گھوڑا پار پھلانگ گیا مگر یہ گھوڑا بھی اپنے آقا کی طرح زخمی۔ چقماقی پہاڑ سے جو گھوڑے کے نعلون سے شرارے نکلتے تھے انکی روشنی سے تعاقب کرنے والون کو معلوم ہوا کہ ہم رانا کے بہت ہی پاس آگئے ہین کہ ایک انمین سے بڑے زور سے اپنی زبان مین پکارا کہ ہو نیلی گھوڑا را سوار۔ تو پرتاب نے پیچھے مڑکر دیکھا تو ایک سوار نظر آیا۔ یہ سوار اسکا بھائی سکرا تھا۔ یہ بھائی پرتاب سے ذاتی جانی دشمنی رکھتا تھا۔ اس دشمنی نے اسکو ملک میواڑ کا دغا باز دشمن بنایا تھا وہ اکبر کے لشکر کی صفون مین تھا کہ اُسنے دیکھا کہ ایک نیلا گھوڑا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ کوئی نہین ہے یہ دیکھتے ہی بھائی کے ساتھ جو کینہ سینہ مین جمع تھا وہ جاتا رہا اور برادرانہ محبت کا جوش اُٹھا

اور اسکے ساتھ ان باتون کی یاد نے جو عاجز کرنے والی تھین دل کو گھیر لیا وہ تعاقب کرنے والون کے ساتھ اسلئے ہوا کہ انمین سے جو اسکے نیزہ کے نیچے آجائے انکو ہلاک کرے یہ پہلی ہی دفعہ تھی کہ یہ دونو بھائی اپنی ساری عمرون مین آپس مین دوستانہ و برادرانہ ملے گھوڑا چیتک گر گیا۔ ہرنام اس کے بھائی نے دوسرا گھوڑا اسکو دیا اور وہ چیتک سے زین کھول کر اسپر رکھنے لگا تو اُسکا چیتک وفادار گھوڑا مر گیا۔ اس گھوڑے کی ایک یادگار رہی ہوئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیتک یہان مرا تھا اور دارالسلطنت کے آدھے مکانون مین اس سارے واقعہ کا نقشہ دیوارون پر کھنچا ہوا ہے۔
رانا اسطرح خلاصی پاکر جلدی سے پہاڑون کی راہون پر گیا جہان اسکو راستہ ہو گئی تھی اسکے سات زخم بھی لگے تھے جنسے خون جاری تھا۔ گو رانا حالت فرار مین ان مصائب مین گرفتار تھا مگر وہ اپنے شاہانہ ارادون سے باز نہ آتا اور آئندہ لڑنے کے منصوبے باندھتا تھا۔
سکرا پھر مغلون کے لشکر مین گیا۔ اکبر کو یہ حال معلوم ہو گیا تھا اسنے سکرا کو بہت انعام و اکرام اس کام پر دیا۔ ہو نیلا گھوڑا را اسوار۔ رانا کے رشتہ دارون مین ضرب المثل کی طرح مشہور ہو گیا۔
غرض تاریخ بدایونی اور ٹوڈ کے بیانات کو ختم کرکے مین اب اکبر نامہ کے ورق الٹتا ہون اور دیکھتا اور پوچھتا ہون کہ بدایونی اور ابوالفضل کی طرز ادا جدا جدا ہی مگر مطلب ایک ہی۔ ابوالفضل نے ہاتھیون کی لڑائی کا بیان تفصیل سے اسطرح لکھا ہے کہ جیسے جوان مردون نے ایک بوالعجبی کا ہنگامہ دکھا رکھا تھا۔ نامور ہاتھیون نے بھی اپنے کارنامے دکھائے تھے غنیم کے ہاتھی لونا نے معرکہ صف شکنی آراستہ کیا۔ جمال خان فوجدار بادشاہی فیل گجمکتہ کو اسکے روبرو لایا۔ اسکے تصادم سے بادشاہی ہاتھی زخمی ہو کر بھاگا مگر رانا کے ہاتھی کے فیلبان کے ایسی بندوق لگی کہ وہ کارزار سے چلا گیا۔ اس عرصہ مین پرتاب خود فیل رام پرشاد کو کہ سر آمد فیلان تھا جنگ کا ساز لگا کے

لایا اور اُسنے بہت بہادرون کو مارا۔ کمال خان بادشاہی ہاتھی گجراج کو لاکر نبرد آرا ہوا۔ پنجو فیلبان مدارا کو فیل رام پرشاد کے روبرو لایا قریب تھا کہ یہ بادشاہی ہاتھی بھی بھاگے کہ رام پرشاد کے فیلبان کے ایک تیر ایسا لگا کہ وہ مرگیا۔ رام پرشاد بادشاہ کے آدمیون کے ہاتھ آیا۔ رام داس پسر جیمل کو جگن ناتھ نے ضرب لگا کے عدم مین پہنچایا۔ راجہ رام ساہ مع تین بیٹون سالباھن و بھان سنگہ و پرتاب سنگہ کے دادِ مردانگی دیکر نیست ہوئے۔ کنور مان سنگہ گوگنڈہ مین مقیم رہا۔ مگر رانا کی جستجو مین تگاپو نہیں کی اور کھانے پینے کو مشکل سے وہان ملتا تھا اس لئے اُن سنگلاخون سے نکل کر صحرا مین آیا اسپر حیلہ اندوزون نے بادشاہ سے یہ کہا کہ رانا کے استیصال مین تساہل ہوا قریب تھا کہ بادشاہ مان سنگہ پر عتاب کرے لیکن بادشاہ کو حیلہ سازون کا حال معلوم ہوگیا اس لئے وہ خفا نہوا۔ جب امرار اور کنور مان سنگہ بادشاہ کی ملازمت مین حاضر ہوئے بخشش و بخشائش انکے حال پر ہوئی۔

گوگندہ کی طرف شکار کھیلنے کو بادشاہ نے انتظام ملکی کے لئے مناسب جانا کہ اس ناحیہ کے تمام سرکش ایک ہی دفعہ سرنگون ہون اور اس مرزبوم کے ساکنین سعادت گزین ہون۔ عبادات ایزدی مین گزیدہ ترین عبادت بادشاہ کے لئے یہ ہے کہ وہ خیر اندیشون پر نوازش اور بدکارون کو پامال ایسے شائستہ طور پر کرے کہ خدمت فروشون کی منت نہ اُٹھانی پڑے اور فتنہ اندوزون کے تزویر کی مداخلت نہونے پائے۔ طراز صورت لطرز معنے سرانجام پائے۔ یہ کیا خوش کام ہے کہ غازۂ عبادت بھی چہرے پر رکھتا ہے اور تربیت کی چہرہ افروزی بھی کرتا ہے اگرچہ یہ امر ابتدا ارنظر مین نیکون کے حق مین خیر اندیشی معلوم ہوتی ہے لیکن وہ بدکارون کے حق مین بھی نیک خواہی ہے اول دیدمین شورش مند سرکشون کا تنبیہ کرنا نظر آتا ہے مگر حقیقت مین وہ اخلاص گزین

بادشاہ کا کوہستان گوگندہ مین شکار

عقیدت منشون کا سرمایہ سعادت ہے۔ عقل کے نزدیک جمیع اشغال سلطنت
مین پادشاہون کے ذمے یہ ہے کہ وہ بالذات بکام کو اپنے ذمے جانین۔ جو کام
ملازمون سے اچھی طرح نہ ہو سکے اُس کے سرانجام دینے مین اپنے نفس مے مصروف
ہون اس لئے پادشاہ نے ان ایام مین یہ ارادہ کیا کہ گوکندہ مین شکار کھیلنے
جائے کہ رانا نے کوہستان جنوبی مین سر اُٹھایا ہے اور رائے فراین داس نے
ایدر مین علم استکبار بلند کیا ہے۔ ۳۱۔ اسفندمہر کو اجمیر سے گوکندہ کی طرف
کوچ کیا جس کے سبب سے بہت سے سرکش آنکر مطیع ہو گئے۔ رانا کوہستان مین چھپ گیا
قطب الدین خان و راجہ بھگونت داس و کنور مان سنگہ کو پہاڑون کے درمیان
بھیجا کہ اس گریدہ نشین کو گرفتار کرین۔ قلیج خان و خواجہ غیاث الدین علی
و آصف خان اور امرا کو ایدر بھیجا کہ اس سرزمین کو ناسپاس سرکشون کے خاشاک سے
پاک صاف کرین۔

جو لشکر ایدر کو روانہ کیا تھا وہ منزل بمنزل ۷ آبان ۹۸۴ھ کو ایدر کے حوالی مین
آیا۔ اس سرزمین کے نخوت آرا کوہستان کی تنگناؤن مین گھس گئے۔ تھوڑے راجپوت
اپنے معابد و منازل مین لڑنے مرنے کو تیار ہوئے۔ پادشاہی لشکرین نے ہیرہ بھان
و عمر خان افغان و حسن بہادر اس گروہ کے پائمال کرنے کو گئے۔ راجپوتون نے تلواریں
سونت کر اور برچھے لگا کر عرصۂ جانفشانی مین تیزدستی کی بہت سے پادشاہی آدمی انکے آگے سے
بھاگے۔ عمر خان و حسن بہادر مارے گئے مگر وہ سب راجپوت ہلاک ہوئے شہر مین بہت
سی غنائم پادشاہی لشکر کو ہاتھ آئین۔ ایدر کی حراست امرار باتدبیر کو سپرد
ہوئی۔

پادشاہ نے جو سپاہ رانا کے گرفتار کرنے کے لئے بھیجی تھی اسکو رانا کا
پتا نہ ملا۔ وہ جلدی سے بغیر حکم شاہی کے پادشاہ کے پاس واپس چلی آئی۔

امرا... ۹۸۴
... بھگونت داس ...

حکام سلطنت کی پاسبانی اول فرمانروایون کے ذمہ واجب ہے۔ دوم خدمت پذیرون پر اسکی نقش پذیری لوح دل پر ضروری ہے۔ اس واسطے بادشاہ قطب الدین خان اور راجہ بھگونت داس پر خفا ہوا اور انکو کورنش کی اجازت نہین دی مگر جب انہون نے اپنی ندامت اور پشیمانی ظاہر کی تو انکو دربار مین آنیکی اجازت دی۔ قلیج خان نے ایدر کو فتح کیا تھا مگر بادشاہ نے اسکو گجرات کے جانیکے لئے بلا لیا تو رانے ایدر نے اور زیادہ سرکشی پر کمر باندھی وہ پہلے کوہستان مین بھاگ گیا تھا۔ اب اسنے آسار اول کو اپنے ساتھ متفق کیا اور ننگنار کوہستان سے باہر نکلا اور عرصہ مبارزت کو آرائش دی۔ ۱۴ اسفندارمذ کو اولیار دولت لشکر کی پاسبانی شیرخان کو سپرد کرکے میدان جنگ کی طرف چلے فوج قول مین خواجہ غیاث الدین علی آصف خان فوج برانغار مین تیمور بخش فوج جرانغار مین میر ابواللیث۔ فوج ہراول مین مرزا مقیم نقشبندی و نور قلیج خان و دھیرہ برمان و میر غیاث الدین افسر تھے۔ غنیم کے صف سے دو گروہ تھے۔ طرفین سے جوان مردون نے اپنے جوہر دکھائے۔ راجپوت برچھیون سے خوب لڑے نور قلیج خان کے بازو مین زخم لگا مگر اسنے جنگ سے ہاتھ نہین اُٹھایا۔ مظفر راجپوتون کے ہجوم سے زمین پر گر کر پھر گھوڑے پر چڑھکر لڑا۔ دھیرہ برمان نے بھی مردانگی دکھائی۔ اس ہنگامہ مین ہراول شاہی ہار گئی۔ جوان مردون نے جانفشانی کرکے اسکو سنبھالا۔ مرزا مقیم و قطب خان کی جانین گئین۔ جسوقت ہراول کو ہزیمت ہوئی تو فوجین بہم کمک کو آئین اور کارزار مین مصروف ہوئین مخالف بھی بڑی شجاعت سے لڑا۔ اپنی توانائی کے موافق لڑکر شکست پائی بادشاہی لشکر فتحیاب ہوا

بادشاہ کی گزیدہ پرستش یہ ہے کہ شائستہ نصیحتون اور تدابیر کی قوتون سے گردن کشون کو فرمان پذیر کرین۔ اور اگر نصیحت و فضیحت سودمند نہو تو پھر انکو نیست و نابود کرین تاکہ وحدت انتظامی مین اختلال نہو۔ اور شورش کثرت سے جہان غبار آلود نہو۔ اس نظر سے آبان ۹۸۵ھ مین راجہ بھگونت داس اور کنور مان سنگھ اور سردارون کو رانا کے استیصال کے لئے بھیجا۔ شہباز خان میر بخشی کو اس لشکر کا مہتم مقرر کیا۔ شہباز خان نے

ایدر والے سے لڑائی ۹۸۵ھ

رانا کے استیصال کیلئے بھیجا ۹۸۵ھ

جاکر ایک عرضداشت بھیجی جسمین یہ درخواست کی کہ انتظام کے لیئے کارشناس بھیجے جائین
بادشاہ نے شیخ ابراہیم فتحپوری کو کچھ سپاہ کے ساتھ بھیجدیا کہ وہ لدلا دلالی مین اقامت
کرکے اس سرزمین کے سرکشون کو فرمان پذیر کرے اور شہباز خان کی یاوری کرکے رانا کی
بیخ کنی مین تگاپو کرے۔

رانا نے اپنے باپ دادا کی طرح قلعہ کوہلمیر (کونبل میر) کو اپنی پناہ گاہ بنایا۔ یہ قلعہ ایسے
بلند پہاڑ پر ہے کہ کسی نے پہلے زمانہ مین اُسے کمتر فتح کیا ہے۔ شہباز خان میربخشی جب اس
نواح مین آیا تو اُسنے راجہ بھگونت سنگہ اور کنور مان سنگہ کو یہ سمجھکر بادشاہ کے پاس
بھیجدیا کہ وہ رانا سے زمینداری مین ایک مناسبت رکھتے ہین مباداا اس سبب سے رانا کی
سزامین التوا واقع ہو اور خود شریف خان و غازی خان و مرزا خان کو ساتھ لیکر قلعہ کی
فتح کا ارادہ کیا اپنی رائے صواب اندیش سے بڑے بڑے سنگستان طے کرکے لشکو کو نے گیا
اور بڑی کٹھن گھاٹیون سے آسانی سے کل گیا قلعہ کی فتح کے لئے ہمت چُست کی چابک دستی
اور تیز پائی سے اُسنے کیلواڑہ پر قبضہ کرلیا اور پہاڑون پر لشکر کو چڑھا کر چیرہ دستی کی قلعہ کا
محاصرہ کیا جس سے رانا کے ہوش اُڑے اور ایک اور بلا اُسکے سر پر چڑھ آئی کہ قلعہ کے اندر
ایک توپ کے پھٹنے سے اسکا بہت اسباب اور سامان جلکر خاکستر ہوگیا وہ ایسا بیدل ہوا کہ خرید
پہاڑون مین بھاگ گیا قلعہ فتح ہوگیا۔ نامور راجپوتون نے اپنی پرستشگاہون کے گرد لڑ لڑکر انکو اپنی
جانین سستی بیچین۔ رانا کا پتہ یہ معلوم ہوا کہ وہ بانسوالہ مین ہے تو شہباز خان۔ غازی خان بدخشی کو قلعہ
حوالہ کرکے وہان گیا۔ اس رواروی مین دوپہر کو قلعہ گوگندہ پر اقتدار حاصل کیا اور
آدھی رات کو قلعہ ادے پور پر تصرف کیا۔ لشکر کو غنیمت سے مالا مال کیا اور صوبہ اجمیر
مین رانا کا پتلا حال کردیا۔

شہباز خان کو صوبہ اجمیر کے گریوہ نشین گردن کشون کے تابع کرنے کے لئے
اور شورش نہاد بدکارون کو سزا دینے کے لئے بھیجا تھا سو اُس نے اپنی مردانگی کا

قلعہ کومبلمیر کی فتح ۹۸۴ھ

[illegible]

پیشوا اخرد کو بناکے یہ کام بہت اچھی طرح کیئے۔ بہت سے سرکشون کا نقدجان غارت کیا بعض کو پرستار اور خدمتگار بناکے چھوڑ دیا۔ رانا کو ایسا تنگ کیا کہ وہ اپنا بنگاہ چھوڑ کر پہاڑون مین پوشیدہ ہوا۔

بادشاہ کو معلوم ہوا کہ صوبہ اجمیر مین رانا نے سر اُٹھایا ہے تو ۲۴ دے ۹۸۶ھ کو غازی خان و محمد حسین اور امرا کو بسرکردگی شہباز خان کے روانہ کیا کہ رانا اور تمام سرکشون کو تنبیہ کاری سے باز رکھ کر نیک بندہ بنائے یا ان کی جان نکالے بہت سا خزانہ اسکے ساتھ کیا۔ شہباز خان نے رانا پرتاب کو ایسا تنگ کیا کہ وہ ہر صبح کو شام والیسین جانتا تھا خوف سے مارا مارا پڑا پھرتا تھا۔ تیجمال سیسودیہ کے مکان مین وہ تھا کہ شہباز خان نے اسپر تاخت کی اور بہت سے بداندیشون کو مارا اور انکا مال اسباب لوٹ لیا اور اس نواح کو بدگوہرون سے پاک کرکے سپہ نشین بنایا۔ مشرقی دیار مین فساد ہونے کے سبب سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس وہان بھیجنے کے لئے بُلا لیا۔

بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ رانا کوہستان سے نکلا ہے اور شورش کر رہا ہے۔ زیردستون پر درازدستی کرتا ہے۔ ایک لشکر بسرکردگی جگن ناتھ روانہ کیا۔ مرزا جعفر بیگ کو بخشی مقرر کیا۔ ۲۴ آذر ۹۹۳ھ ۲۹ کو وہ رخصت کیا۔ تھوڑے دنون مین وہ اس دیار مین آیا رانا نے کنارہ کیا۔ پرجا کو سکھ ملا۔ جگن ناتھ چند روز بعد منڈل گڈہ مین سید راجو کو چھوڑ کر رانا کے بنگاہ پر گیا۔ رانا مین لڑنے کی طاقت نہ تھی وہ ایک اور گریوہ کی راہ سے نکلا۔ اور اُس نے منڈل گڈہ کے ملک مین شورش مچائی اور کئی جگہ لوٹ مار کی سید راجو لڑنے کے قصد سے رانا کی طرف گیا وہ چیتوڑ کی جانب پھرا جس منزل پر کہ رانا اسباب باندھتا تھا وہان سید اُترا۔ مگر اسنے دستبرد کچھ نہین کی۔ زیردستون کو رہائی ہوئی اور جگن ناتھ رانا کی بنگاہ پر تاخت کرکے اس سپاہ سے مل گیا۔ جگن ناتھ و جعفر آخر روز مین رانا کی بنگاہ پر آئے۔ قریب تھا کہ اُسے گرفتار کر لیتے کہ رانا کے ایک آدمی نے اُسے آگاہ کردیا

رانامع اپنے زن و فرزاد کے پہاڑوں کی تنگناؤں میں چلا گیا۔ خان زمان اس کا غارت
کیا دو راندیشی کے سبب سے اُس راہ سے آنے میں بہبود نہیں دیکھی جلد سے گئے تھے دوسری
طرف کچھ جا کر ڈونگرپور کی طرف پھرے۔ یہاں کا راجہ دوروئی کر رہا تھا۔ اُسے دفعۃً جا کر
پکڑ لیا۔ اور بہت روپیہ اور چارپائے لیئے۔ رانا چاہتا تھا کہ کوہستان سے نکلکر اس
ملک میں فساد کرے کہ اس سپاہ نے اُسے روک دیا انھیں دنوں میں وہ دوا
پی مر گیا۔

کلہ سیسودیہ رانا کے خاندان میں سے تھا اور اس کا ساتھ دیتا تھا۔ وہ بادشاہ کی
ملازمت میں آیا۔ اس پر بادشاہ نے نوازش کی۔ مگر پھر وہ بھاگ گیا۔ بادشاہ نے
صلاح الدین درامچند کو حکم دیا کہ اس کو جلد جا کر پکڑ لیں اور نصیحت کر کے یہاں لے آئیں اور
اگر وہ نہ مانے تو اُس کو مار ڈالیں۔ یہ ایک سواسی کوس طے کر کے قصبہ فتحپور میں آئے
وہ خاطر جمعی سے کھانا کھا رہا تھا کہ اُنھوں نے پیغام نصیحت گذارش کیا۔ اس افسوں مہربانی
کو اس نے افسانہ بیدلی جانا تو آدمیوں کو ساتھ لیکر لڑا اور وہ خود اور دو آدمیوں کے
ساتھ مارا گیا۔ باقی آدمیوں نے پناہ مانگ کے جان بچائی۔

کلہ سیسودیہ کا مارا جانا ۹۹۵ھ

قلعہ سوانہ و چندر سین پسر راجہ مالدیو کے معاملات و مہمات

جب سنہ ۹۷۵ھ میں اجمیر میں بادشاہ آیا تھا تو چندر سین پسر مالدیو کو کہ ہندوستان کے
اعاظم زمینداروں میں سے ہے اس کی ملازمت سے مشرف ہوا تھا۔ مگر جب وہ سنہ ۹۷۱ھ
میں اجمیر میں آیا تو اُس نے سُنا کہ چندر سین پسر راجہ مالدیو بادشاہ کی اطاعت سے
سرتابی کر کے خود سر ہو گیا اور قلعہ سوانہ کو کہ صوبہ اجمیر کے سب قلعوں میں زیادہ مستحکم
و استوار تھا لڑنے کے لیے تیار کیا ہے۔ بادشاہ نے اس سانحہ کو سنکر اس دیار
کی رعایا پر رحم کیا کہ شاہ قلی خاں محرم و رای رائے سنگھ و شمال خان و کیشوداس

چندر سین پسر راجہ مالدیو کی سرکشی اور اس پر لشکر کشی ۹۷۱ھ

پسر جمل میرتھ دال وجگت رائے پسر دھرمچند کو چندرسین کی تنبیہ کے لیے مقرر کیا اور یہ حکم دیا کہ اگر وہ نصیحت سے راہ پر آجائے تو ہمارے پاس لے آؤ یہ امرا رشاہی شہر سوخب میں آئے ۔ مالدیو کا پوتا کلہ یہاں سے بھاگ کر تنگنا ر کوہستان میں قلعہ سرباری کے اندر چلا گیا ۔ امرا رشاہی نے اس کا تعاقب کرکے اس شہر کو جلا دیا تو وہ کوہ کورنبہ میں چلا آیا بادشاہ کی سپاہ نے اس کا تعاقب کیا اور دشت دگریوہ پر کچھ خیال نہیں کیا ۔ جب کلہ نے اپنے گرفتار ہونے کی صورت معائنہ کی تو عاجزی کرکے براست کیشو ں کے وسیلہ سے لشکر شاہی سے ملا اور جہیس داس ویرتھی راج راٹھور اور اپنے بھائی کیشوداس کو خدمت گزینی کے لیئے لشکر کے ہمراہ کیا اور اپنی شکستگیوں کی درستی کے لیے رخصت لی ۔ جب اس طرح چندرسین کی جمعیت میں فتور آیا تو شہر سوانہ کی طرف امرا رشاہی متوجہ ہوئے ۔ یہاں چندرسین کے ہوا خواہوں میں سے راول سکھ راج ریاست کرتا تھا ان دنوں میں رائے رائسنگہ کے ملازم بسر کردگی گوپال داس اس کے ملک پر تاخت و تاراج کرنے کے لیئے دوڑے ۔ راول کی معاونت کے لیئے چندرسین نے سوجا دیبی کو بھیجا اس عرصہ میں کہ وہ مواضع و قریات تاراج کرکے معاودت کرے ۔ راول پاس جمعیت اکھٹی ہوگئی اور عرصہ نبرد آراستہ ہوا ۔ سوجا دیبی داہن و مال بہ نذر راول اس مصاف میں مارے گئے اور بادشاہی لشکر فتحمند ہوا ۔ لڑائی کو سنکر رائے رائسنگہ جنگ گاہ میں آیا مگر اس کے آنے سے پہلے ہی فتح ہوگئی تھی راول کو یہ ایسی شکست ہوئی کہ وہ راہ پر آگیا اور اپنے بیٹے کو لشکر شاہی کے ساتھ کیا اب یہاں سے فوج شاہی سوانہ کی تسخیر پر متوجہ ہوئی ۔ چندرسین نے قلعہ میں اپنا ٹھہرنا مصلحت نہ جانا قلعہ کو پتائے راٹھور اور پتائے بقال کو حوالہ کیا امرا رشاہی نے اس کا محاصرہ کیا ۔

جب بادشاہ ۹۸۲ھ میں اجمیر میں آیا تو سوانہ سے جریدہ رائے رائسنگہ بادشاہ

کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حدود جودھپور میں چندرسین خودسری کررہا ہے لشکر سوانہ کی تسخیر کے لیئے مقرر ہوا ہی وہ دشمن کے دفع کرنے کے لیئے کافی نہیں ہی۔ کام روائی کے لیئے اور لشکر عنایت ہو۔ پادشاہ نے اسکی درخواست منظور کی۔ طیب خاں و سید بیگ توقبائی و سبحان علی ترک و خرم و عظمت خاں و سیو داس کو چندرسین کے سرپر بھیجا وہ رامپور کے حدود سے سخت گریووں میں چلا گیا۔ فوج شاہی نے بھی کوہستان کی طرف رُخ کیا مخالفوں میں چند آدمیوں کا کام نکلا اور اکثر ان میں شدائد سے پائمال ہوئے۔ چندرسین سے مقابلہ لشکر شاہی سے نہ ہوسکا وہ بھاگ گیا۔ امرا شاہی اپنی ناسمجھی اور کوتاہ بینی سے اسکے اس بھاگنے ہی کو یہ سمجھے کہ سارا کام پورا تمام ہوگیا۔ بے طلب شاہی وہ پادشاہ پاس چلے آئے پادشاہ نے اس نافرمانی کے قصور پر ان کو پایۂ اعتبار سے ساقط کیا ۹۸۸ھ ۲۵ میں صوبۂ اجمیر کی بعض محال میں پھر چندرسین نے سرکشی و خودسری اختیار کرکے فساد مچایا۔ پادشاہ نے پاینده محمد خان مغل و سید ہاشم و سید قاسم اور تمام ان حدود کے اقطاع داروں کے نام فرمان جاری کیا کہ چندرسین کو سزا دیں سب حسب الحکم اس کار پر متوجہ ہوئے وہ لشکر شاہی سے لڑا اور شکست پاکر بھاگ گیا۔

قلعہ سوانہ کی فتح ۹۸۹ھ ۲۶ جلال خان کا واقعہ

جب شاہ قلی محرم و رائے رائسنگہ کا لشکر شائستہ خدمت نہ کرسکا اور سپاہیوں کے گھوڑے نکمّے ہوئے اور جانوروں کے چارہ نہ ملنے سے تمام سپاہیوں کو اضطرار ہوا تو اُس نے سید احمد و سید قاسم و سید ہاشم و جلال خاں و شمال خاں کو اس خدمت پر تعین کیا کہ حصار کی فتح میں کوشش کریں اور جو لشکر پہلے گیا ہی اُس کو ہمارے پاس بھیجدیں۔ امرا اپنے اپنے تیول میں یورش کا سامان درست کرنے گئے۔

اس درمیان میں جلال خاں کا واقعہ پیش آیا۔ جلال خاں میرٹھ میں آیا رائی رائسنگہ کے بھائیوں سلطان سنگہ و رام سنگہ اور شاہ قلی کے داماد علی قلی خاں نے

پیغام بھجا کہ ہم حکم شاہی سے چندر سین کے استیصال کے درپے ہیں۔ مگر وہ کوہستانی کے استظہار اور مسالک کی دشوارہی اور جاں نثار تھوروں کے ہجوم کے سبب سے استقلال کا دم بھر رہا ہے۔ یہ وقت آپ کی مدد کا ہی جلد آؤ۔ اس درخواست سے جلال خاں ان حدود میں بہت جلد چلا آیا ہے۔ چندر سین کنوجہ میں پناہ لیکر اس لشکر سے لڑا۔ بہت کشت و خون ہوا۔ وہ پھر پہاڑوں ہیں چلا گیا امراء شاہی قلعہ رام گڈھ میں آئے۔

ان دنوں میں ایک مکار نے اپنے تئیں دیبی داس بنایا لوگ اسکے گرد جمع ہوئے بہت آدمیوں کو تو یہ یقین تھا کہ مرزا شرف الدین حسین کی لڑائی میں حدود میرتھا میں دیبی داس مارا گیا۔ مگر اس مدعی مکار نے یہ کہا کہ میں اس لڑائی میں زخمی ہوا تھا۔ مجھے ایک جوگی اپنے گھر لے گیا اور وہاں علاج کرکے اچھا کردیا جوگی کی اگیا سے پھر سنسار کا دھندا کرتا ہوں اب کوئی اسے مانتا تھا۔ کوئی نہ مانتا تھا وہ جلال خاں کی صحبت میں شریک اس خیال سے ہوا کہ نیکو خدمتی کی دستاویز سے بادشاہ کی ملازمت میں اسکے توسل سے پہنچے مگر یہاں ایک اور ہی گل کھلا۔ چندر سین کی جستجو میں تدبیریں ہو رہی تھیں کہ دیبی داس نے بتلایا کہ چندر سین اپنے بھتیجے رام رائے کے بیٹے کلا کے گھر میں ہے۔ شاہی لشکر وہاں پہنچا۔

اس سبب سے کلا نے شمال خاں سے ملکر دیبی داس کے مارنے کا ارادہ کیا۔ شمال خاں نے دیبی داس کو گھر میں مہمان بلا کر اسکے گرفتار کرنے کا ارادہ کیا مگر وہ اپنی مردانگی سے ہاتھ نہ آیا اور سلامت نکل گیا اب وہ اعیان لشکر شاہی سے مایوس ہو کر کلا کا مصاحب بنا اور اپنے انتقام لینے کے لیے وہ شمال خاں کے خیمہ کے شبہ میں جلال خاں کے خیمہ میں گھس گیا۔ جلال خاں جنگ کے سامان بغیر لڑنے کھڑا ہو گیا اور قتل ہوا پھر شمال خاں کے خیمہ پر دیبی داس گیا تو وہاں اس کی امداد کو جمل کا لشکر آ گیا تھا وہاں اسکی دال نہ گلی۔ پھر اس ناحیہ کے تمرد منشوں نے سر اٹھایا علی الخصوص کلا نے۔ قلعہ دنکور (دیوکور) میں بہت سرکش جمع ہوئے سادات بارہ اور تمام اعیان

لشکران قلعہ نشین سرکشوں کے دفع کے درپے ہوئے اور سوانہ کا کام تاخیر میں پڑا اسلیے
شہباز خاں کو بادشاہ نے تعین کیا کہ اس لشکر کو برسرکار کرکے وہ چلا آئے جب وہ اس
ناحیہ کے قریب آیا تو ایسی آگہی ہوئی کہ لشکر شاہی قلعہ پر جھول رہا ہے اور پیاپے لڑکر کام
کو اور سخت کرتا جاتا ہے۔ شہباز خاں اپنی ہمت اور دل کارپرداز سے بے توقف اس قلعہ کی
تسخیر کی طرف متوجہ ہوا۔ لڑائی میں تلواریں چمکیں اور قلعہ مفتوح ہو گیا۔ بہت سے سرکش
مارے گئے اور گرفتار ہوئے۔ شہباز خاں یہاں سعیدوں کے تھانے بٹھا کر سوانہ کی تسخیر
کو چلا اس سے سات کوس کے فاصلہ پر ایک سنگین قلعہ دوبارہ (دوتارہ) تھا۔ اس
میں راٹھور راجپوت جمع تھے۔ جب شہباز خاں یہاں آیا تو اس نے راٹھوروں کو
فرمان پذیری کی ہدایت کی مگر سودمند نہ ہوئی۔ ناگزیر قلعہ کو فتح کرنا پڑا۔ ساباط بنائے
تھوڑے دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا اور بہت راجپوت مارے گئے اور یہ فیروزمندی
سوانہ کی فتح کا مقدمہ بنی۔ اس سے سوانہ میں بھی اہل قلعہ کو خوف پیدا ہوا۔ اب
لشکر قلعہ سوانہ کی فتح پر جھکا۔ جو لشکر یہاں پہلے تھا اسکو رخصت کیا اور ساباط بنائے
اور اس عقدہ دشوار نما کی گرہ کشائی میں ظاہر کو باطن کے ساتھ یک رنگ کیا تدبیر
کو شجاعت کے ساتھ جمع کیا۔ تھوڑے دنوں میں اہل قلعہ نے دہائی مچائی اور پناہ مانگی
شہباز خاں اس قلعہ کو اپنے آدمیوں کو حوالہ کرکے بادشاہ پاس چلا گیا۔

رائے سرجن حاکم رنتھنبور کا بیٹا دودا بے رخصت اپنے وطن بوندی کو چلا گیا اور
وہاں ظلم وستم برپا کیا۔ بادشاہ نے صفدر خاں و بہادر خاں و محمد حسین شیخ
دکاندر رائے و چاندون سلطان و جیل کو اس خدمت پر نامزد کیا کہ وہ عام رعایا
کی حفاظت کریں اور دودا کو پکڑ کر لے آئیں مگر اس فوج نے اپنی کارشناسی
سے مدارا کی خواستگاری اس لیے بادشاہ نے ۱۰ محرم ۹۸۵ھ کو نواحی
رامپورہ سے زین خاں کوکلتاش کو اس خدمت پر رخصت کیا۔ اور رائے

سرجن کو جو اس سے رشتہ پدری اور بھوج کو جو اس سے پیوند برادری رکھتا تھا اور رامچند و کرمسی کو اسکے ہمراہ کیا۔ اور یہ حکم دیا کہ امرا جو پہلے وہاں گئے ہیں وہ اس لشکر سے ملکر یکتا دلی سے کام کریں دونوں نے اس کام کے سرانجام میں شائستہ تگاپو کر کے تھوڑے دنوں میں قلعہ پر تصرف کیا۔ دودا پہاڑوں میں بھاگ گیا۔ جب ان حدود میں امن ہو گیا تو اس ناحیہ کی حراست بھوج کو سپرد کر کے زین خاں رائے سرجن کو ساتھ لیکر بادشاہ کی خدمت میں آنے کے لیئے روانہ ہوا۔ ایک ہی منزل چلا تھا کہ اس سرزمین کی شورش سنکر اس کو سوائے معاودت کے کوئی اور چارہ نہ تھا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اس کوہستان میں رہتے رہتے اکثر سپاہی تنگ ہو گئے تھے۔ جب کوکہ روانہ ہوا تو سپاہ کے بدذات آدمیوں نے پہلے غل مچایا کہ دودا آ گیا ہے اور پھر لوٹنا شروع کیا۔ اردو بازار اور آبادشہر کا بڑا حصہ لٹ گیا۔ امرا ترسنا کی اور ناشناسائی سے باہر نکلنے پر آمادہ ہوئے زین خاں نے یہاں اقامت کی اور رائے سرجن کو کسی مصلحت کے سبب سے بادشاہ پاس رخصت کیا اور خود اس نواح کے انتظام میں مصروف ہوا اس نے اپنے اخلاص سے لشکر کی ظاہری بے سامانی اور بیدلی عامہ کو مٹا دیا۔ دفعتہً غبار فتنہ بیٹھ گیا۔ دلوں کو چین ہوا۔ تہ کار گوشوں میں چھپ گئے متمردوں نے مناسب سزا پائی۔

ـ دودا نے بادشاہ کی سپاہ کے اسباب معیشت کی کمیابی دیکھی تو وہ بہت سے آدمیوں کو جمع کر کے کوہ اونٹ گردن پر چڑھ گیا۔ یہ پہاڑ بہت بلند اور دشوار گذار ہے۔ اس پر اس لیے وہ گیا تھا کہ فرصت پاکر لشکر کو گزند پہنچائے۔ زین خاں کوکہ نے لشکر کے تین حصے کر کے پیشدستی کی اور بعض کار طلب بہادروں کو پہاڑ پر جانے کے لیے آمادہ کیا اور خود بھوج کی ساتھ متفق الرائے ہو کر ان بہادر گرپوہ نوردوں کا معین ہوا۔ پیشقدم تنگناؤں سے نکلکر بلندی کے قریب پہنچے۔ مخالف نے بہت سے اپنے

بہادروں کو آگے روانہ کیا۔ اُدھر پادشاہی لشکر نے بندوق اندازی شروع کی اور اُن کے تین بڑے نامی سرداروں کو اُڑا دیا جس سے سب گنواروں کے قدم اُکھڑ گئے گو کہ آگے بڑھکر ایک بڑی لڑائی لڑا۔ ایک سو بیس نامور مخالف کے مردانہ لڑکر مرے اور دودا بھاگ گیا۔ جب اس طرح یہ ناحیہ غبار شورش سے صاف ہوا تو اس کا انتظام رائے بھوج کے سپرد کیا اور خود پادشاہ پاس چلا آیا۔

دودا کا پادشاہ پاس آنا اور بھاگ جانا سنہ ۹۸۶

دودا رانا پاس گیا وہ شوربختی سے فتنہ اندازی کرتا پھرا۔ شہباز خاں جب رانا کو پکڑنے گیا ہے تو دودا اسے عہد و پیمان کرکے اپنے ساتھ پادشاہ کی خدمت میں لایا۔ قصبہ تھارہ میں پنجم تیر ۲۳ سنہ ۹۸۶ھ میں وہ پادشاہ کی ملازمت سے مشرف ہوا۔ پادشاہ نے اُسے دیکھکر فرمایا کہ اسکی پیشانی سے ادبار جاوید کے آثار نمودار ہیں۔ بدنہادوں کے مزاج کو مہربانی کی نوشدارو سودمند نہیں ہوتی۔ مگر پیماں کا پاس ضرور ہے اسلیے اس پر بخشائش کی جاتی ہے۔ پادشاہ تو اپنے دار الخلافہ کو آیا۔ دودا کو پنجاب چھوڑا۔ جہاں سے وہ کچھ دنوں بعد بھاگ گیا۔

سروہی اور جالور کی طرف لشکر کا جانا اور کامیاب ہونا سنہ ۹۸۶

جب پادشاہ نے سُنا کہ تاج خاں جالوری نے فرمانبرداری چھوڑ دی اور دیورہ رائے سروہی نے احکام بندگی کی پاسبانی کو ترک کیا تو ترسوں خاں و رائے رائسنگھ و سید ہاشم بارہہ کو یہ خدمت سپرد کی کہ اول انکو موعظت کی باتوں سے اطاعت کی راہ پر لائیں اگر طرز دانا پسند سے کام نکل آئے تو لڑنا نہیں چاہیے اور اگر وہ اس طرح نہ مانیں تو یہ سمجھیں کہ خدا کی مرضی ہے کہ میدان جنگ میں انکی جانیں جائیں۔ پادشاہ کا لشکر تھوڑے دنوں میں جالور میں آیا تو تاج خاں ندامت کو دستاویز بناکر فتراک دولت سے وابستہ ہوا۔ وہ شرمندہ ہوکر اولیاء دولت سے ملا۔ اور پادشاہ کی خدمت میں آیا۔ یہ کام تو آسانی سے پورا ہوا۔ پھر لشکر شاہی سروہی روانہ ہوا۔ رائے سروہی سلطان دیورہ اپنے وطن کو گیا۔ اسکے پاس ایک حصار دشوار کشا تھا۔ وہ پہاڑوں کی بلندیوں کو اپنی پناہ

سمجھا۔ رائے رائسنگہ و سید ہاشم نے اسکی تسخیر کا ارادہ کیا۔ اس میں شتابی کی بجائے
آہستگی اختیار کی۔ رائے رائسنگہ نے اپنا بنہ و بار اپنے وطن سے منگایا اثنائے
راہ میں اس قافلہ پر سلطان دیورہ نے حملہ کیا قافلہ سالار رائے مل تھا وہ مخالف سے
خوب لڑا۔ بہت آدمی مارے گئے۔ سلطان دیورہ شکست پاکر قلعہ ابوگڈھ میں
آگیا۔ اس کا ملک ممالک محروسہ کا ضمیمہ بنا۔ بادشاہی لشکر اس قلعہ کی فتح کی
طرف متوجہ ہوا۔ کہتے ہیں اس کا اصل نام اربداچل تھا۔ اربد (یہ) کا نام ہے اور اچل پہاڑ
کو کہتے ہیں۔ زبانوں کے تداول اور تحریفات سے اس کا نام ابوگڈھ ہوگیا ہے وہ
سروہی کے قریب صوبۂ اجمیر کے اقصا میں گجرات رویہ ہے اس کی چڑھائی سات
کوس ہے۔ اس بلندی پر پہلے زمانہ میں رانا نے قلعہ بنایا تھا جس کی راہ برآمد دشوار
چشمے گوارا۔ کنوئیں میٹھے۔ زمین آباد۔ اس قدر کہ اہل قلعہ کو کافی طرح طرح کے گل پھول
ہوا نشاط افزا۔ اہل ثروت نے تیمن و تبرک کے لیئے اس نواح میں معابد و منازل
خیر تعمیر کیے۔ بادشاہی لشکر اس کی فتح کو آیا۔ اور تھوڑی کوشش میں اس
قلعہ کو فتح کر لیا۔ سلطان ایسا سراسیمہ ہوا کہ لشکر شاہی کا نیاز مند بنا۔
قلعہ کی کنجیاں اس کو حوالہ کیں۔ رائے رائے سنگہ اس کو ساتھ لیکر بادشاہ
کی خدمت میں آیا۔

معاملات راجہ بُدھ گڈھ

آئین ملک داری اور رسم جہانبانی یہی ہے کہ خود کاموں کی ہوش افزائے نکوہش و
مالش سے کی جائے۔ اور آگاہ دل بیدار مغزوں کا اعتبار بڑھایا جائے تاکہ
فرماں گرائے اور گردن کش اپنے اپنے کردار کا پاداشس پائیں۔ بُدھ گڑ
(بُدھ گڑھ) کا راجہ اپنے ملک کی افزائش اور اپنے پاس بہادروں کے ہجوم پر

راجہ بدھ گڑھ کا مقابلہ سنہ ۹۸۴

اور اپنے قلب مقامات کے استحکام پر مغرور تھا۔ خوشامد گواہیں کے دوست تھے اس نے
بادشاہ کی فرماں پذیری کو ترک کیا۔ بادشاہ نے صادق خاں و راجہ اسکرن
اور موٹھ راجہ کو اس خدمت پر مامور کیا کہ وہ جاکر اول راجہ کو نصیحت کرکے سعادت
کی راہ پر لائیں اور اگر وہ نہ مانے تو سزا دیں۔ جب صادق خاں لشکر لیکر حدود
نرور میں آیا تو اس نے راجہ کو نصیحتیں کیں۔ مگر وہ سودمند نہ ہوئیں۔ ناگزیر جنگل کاٹنے
کا سامان کرکے قصبہ اوندچہ (ارچھہ دریا بیتوا کے کنارہ پر بندیلکھنڈ میں ہے وہ دار الملک
بندیلیوں کا ہے) کی طرف چلے۔ یہ راجہ کا تکیہ گاہ تھا جب لشکر قلعہ کرھرہ کی نواح میں آیا۔
(کرھرہ نرور سے جنوب میں ۸ میل پر ہے) تو پر مانند بنوار جو راجہ کا ہمسر تھا وہ قلعہ میں
بیٹھا۔ بادشاہی سپاہ نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا اور فتح کا ارادہ کیا۔ ہر روز اہل قلعہ کچھ
لڑتے اور ہزیمت پاتے۔ تھوڑے دنوں میں ہار گئے۔ امان طلب کی۔ لشکر شاہی نے
پناہ دی اس ملک کی اول مشکل آسانی سے حل ہوئی۔ لشکر آگے بڑھا۔ یہاں چاروں
طرف درخت زار تھے ان میں لشکر کا چلنا دشوار تھا اس لیے ایک روز لشکر درخت
کاٹتا دوسرے روز چلتا۔ اسی طرح منزل بمنزل چلکر اوندچہ (ارچھہ) کے شمال میں ست دھارا
کے کنارہ پر (بیتوا کو ارچھہ میں ست دھارا یعنی سات دھاریں کہتے ہیں) وارد ہوا۔
اس کے کناروں پر راجہ بھاری فوج لیکر لڑنے کے لیے آیا۔ روز بروز ہر طرف کے
دلاور عرصہ نبرد کو آرائش دیتے۔ مردانہ جنگیں کرتے۔ پنجم دے ماہ الہی کو یہ قرار پایا
کہ دریا سے پار جاکر جنگ صف ہو لیکن راہ ناشائستہ تھی اور مقام نامساعد تھا لشکر شاہی
میں دریا کے اترنے کے اندر انتظام نہ رہا۔ صادق خاں ایک سپاہ کے حصہ کے ساتھ
جدا ہوگیا اور قاسم علی خاں و الغ خاں و شیخ فیروز دریا سے اترنا چاہتے تھے کہ
دشمن کی آتشباری نے ہراول کو اترنے نہ دیا اور اس پر بری آن بنی۔ اسکے
دل لرزنے لگے کہ کمال خاں و محمود خاں نوجدار نے ہاتھیوں کو پانی میں ڈال کر

لشکر کی ہمت بلند ہوئی اور جرأت بڑھائی۔ اول صادق خاں اترا اور عجیب جنگ ہوئی۔ پادشاہی لشکر کی دستبرد یوں سے مخالف کا لشکر پراگندہ ہوا اور اسکے بہت آدمی مارے گئے۔ لشکر نے اُس کا خان ومان لوٹ لیا۔ درختوں کی انبوہی اور جگہ کی بیگانگی نے راجہ کا حال نہ بتلانے دیا۔ بعض کو یہ گمان تھا کہ وہ کسی کمین گاہ میں فرصت کا منتظر ہے بعض کا یہ خیال تھا کہ وہ جلد لشکر سے لڑنے آتا ہے۔ اس رائے کے موافق صادق خاں اپنے معسکر میں گیا اور دفعہ دفعہ کرکے آدمیوں کو آگے بھیجا۔ راجہ نے عقب سے آنکر شورش مچائی اور شاہی فوج کو مار کر بھگایا۔ پھر الغ خاں نے تھوڑے آدمیوں سے لڑنا شروع کیا اس کی امداد کو صادق خاں اور ابو المعالی فوجوں کو لیکر آگئے سخت لڑائی ہوئی۔ راجہ کا بڑا بیٹا ہورل دیو گج نال کے صدمہ سے مارا گیا۔ راجہ کے بیٹے اور بھائی بھی زخمی ہوکر میدان جنگ سے الگ ہوئے۔ دو سو راجپوت مارے گئے۔ پادشاہی لشکر میں بھی آدمی زخمی ہوئے مگر سب اچھے ہوگئے۔

راجہ ہزیمت پاکر شرمندہ پہاڑوں میں پڑا پھرتا تھا۔ صادق خاں اس نواح میں مقیم تھا۔ اُس نے راجہ کو اپنی سپاہ سے ایسا تنگ کیا کہ اُس نے مجبور ہوکر اپنی خدمات سابقہ کو دستاویز بناکر لابہ گری اور عذر آرائی کی۔ امراء نے جواب دیا کہ اگر تو لڑا نہ ہوتا تو ہم تیری درخواست کو منظور کر لیتے مگر اب پادشاہ سے تیری سرگزشت عرضداشت میں لکھکر بھیجتے ہیں۔ راجہ نے بھی سوم چند اپنے بھتیجے کو پیشکش دیکر پادشاہ پاس بھیجا۔ وہ نبھرہ کے حوالی میں پادشاہ پاس آیا پادشاہ کی عادت میں عذر پذیری تھی اس کا قصور معاف کردیا۔ وہ ۱۲ آبان کو صادق خاں کے ساتھ پادشاہ کی خدمت میں باریاب ہوا پادشاہ نے اس پر سب طرح کی نوازشیں کیں۔

جب پادشاہ کا لشکر دکن کو جاتا تھا تو راجہ مدھکر اس کے ساتھ نہ ہوا۔ اور بجائے عذر کرنے کے سرتابی کی۔ شہاب الدین احمد خاں مع اور تیول داروں کے

راجہ مدھکر کا بادشاہ پاس آنا سنہ ۹۸۷ ۲۴

راجہ مدھکر کا پیشکش بھیجنا سنہ ۹۹۰ ۲۴

اُس کی مالش کے درپے ہوا۔ جب قصبہ اوندچہ (ارچھ) سے جہاں اس کا بنگاہ تھا لشکر چار کوس پر پہنچا تو اُس نے لابہ گری کی۔ راجہ اسکرن اور جگمن کی سفارش کو فرمان پذیری کی دستاویز بنا کر رستگاری پائی۔ سپہ آرا کی خدمت میں حاضر ہوا پھر کوتاہ اندیشی تباہ خیالی سے بھاگ گیا۔ جب نصیحت کی داستان سود مند نہ ہوئی تو لشکر شاہی نے اس کا گھر بار لوٹا۔ اور کم آذوقی کے سبب سے وہاں نہ رہ سکا۔ تو قلعہ کجوہ کی تسخیر کے لیے چلا۔ اس قلعہ کو راجہ کے بیٹوں اندرجیت دست رائے نے اور اُس کے پوتے ہردیو نے استوار کیا اور تنگناؤں میں لڑنا شروع کیا۔ اور اس کا خمیازہ بھگتا۔ ایک دن اس کا برادر راگھوداس لڑا۔ قرزا بیگ قاقشال نے اُس پر فتح پائی اور وہ مارا گیا۔ ایک مہینے تک قلعہ کا محاصرہ رہا۔ ہر بار کارزار میں غنیم شرمسار ہوتا۔ جب پیکار کی قوت نہ رہی تو بھاگ گیا اور ہر ایک اپنے تیول میں چلا گیا۔

شاہزادہ سلطان مراد مالوہ کو جاتا تھا اُس کی خدمت میں ہر جگہ کے زمیندار اور سردار آتے جاتے تھے۔ آگرہ میں یہ خبر آئی تھی کہ راجہ بدھ کر کا ارادہ شاہزادہ کی خدمت میں آنے کا نہیں ہے اس لیئے اُس کو اندرز نامہ لکھا گیا۔ اُس نے نروَر کے نزدیک اپنے پوتے کو شاہزادہ کی خدمت میں بھیجا اور اپنے آنے کا عذر کیا۔ دوبارہ نصیحت کی گئی اور امید و بیم کی داستاں سُنائی گئی تو وہ ملازمت کے لیے روانہ ہوا۔ چار کوس لشکر شاہی سے مقیم ہوا۔ درخواست کی کہ اسمٰعیل قلی خاں و جگن ناتھ مجھے اپنی پناہ میں لیجائیں یہ درخواست منظور ہوئی۔ اسمٰعیل قلی جلد آیا اور جگن ناتھ کو کچھ دیر ہوئی وہ خوف کے مارے بھاگ کر جلد پہاڑوں تنگنا میں داخل ہوا شاہزادہ نے اُن پر خفا ہو کر ان کو حکم دیا کہ اس کو جا کر ابھی پکڑ لائیں یا اس کی خود مالش کریں اُنھوں نے انکار کیا۔ شاہزادہ خود لڑنے گیا۔ راجہ نے لابہ گری کی اور اپنے

راجہ مدھوکر کی بنگاہ لینا سنہ ۱۰۰۰

بیٹے رام شاہ ورنجیت کو ملازمت میں بھیجا۔ اسکی نگاہ کی تاخت میں التوا ہوا۔ قلعہ کرہرہ
کے نزدیک ہمیر سین کے بیٹے نے پناہ مانگی اس نے منظور کیا۔ مگر کارنشناسوں کی
ہرزہ سرائی سے پیمان شکنی کرکے قلعہ کی فتح کے درپے ہوا۔ ہمیر سین کا بیٹا بھاگ
گیا۔ شاہزادہ نے قلعہ کو زبردستی چھین لیا۔ چار سو رجپوت مارے گئے۔ رام شاہ
اس سست پیمانی کو دیکھکر آدھی رات کو بھاگ گیا۔ جگننا تھ اس کا دیدبان تھا اس کو
شرمساری کے مارے کچھ جواب نہ آیا۔ شاہزادہ نے اپنا بلند قصد کیا اور
راجہ کا گھر بار سب لوٹ لیا۔ یہیں ڈیرے ڈال دیئے۔ بادشاہ خفا ہوا بغیر
اجازت کیوں زمیندار سے لڑا اور یہ پایہ شناسی اور قدردانی کو کیسی گزند
پہنچائی۔ شاہزادہ کے ہمراہیوں کی نکوہش کی اور حکم دیا کہ فوراً شاہزادہ کو مالوہ
لیجائیں۔ اگرچہ راجہ نافرمانی کریگا تو اس کے لیے جدا لشکر بھیجا جائیگا۔

مہمات و معاملات کشمیر

(تمہید)

کشمیر کا مسلسل حال تو تاریخ کشمیر میں لکھا گیا ہے۔ یہاں صرف وہ حال لکھتے ہیں جو شہنشاہ اکبر
کی سلطنت سے متعلق ہے۔ کشمیر کی سلطنت کبھی ہندوؤں کے ہاتھ میں کبھی تاتاریوں کے قبضہ میں
رہی مگر ۷۔۸ھ میں وہاں ایک مسلمان بادشاہ ہو گیا جس کا نام محمد مرزا مخاطب بشاہ شمس الدین
تھا یعنی آٹھویں صدی میں اس میں مسلمان بادشاہ ہونے شروع ہوئے۔ ہند کے سلاطین
مغلیہ نے بھی ہمیشہ کشمیر کی تسخیر کی طرف اپنی توجہ رکھی ۹۳۲ھ ۱۵۲۵ء میں بابر نے اپنی سپاہ کی مدد سے
نازک شاہ بن ابراہیم شاہ کو بادشاہ بنایا تھا۔ ہمایوں بھی اپنے باپ کا پیرو اس باب
میں رہا۔ ۹۴۷ھ ۱۵۴۰ء ہمایوں جلا وطن ہونے کے لیے لاہور میں آیا تو بعض امرا کشمیر نے
اس کو بلایا مگر وہ خود نہیں گیا۔ حیدر مرزا دوغلات کو وہاں بھیجا جس کا حال میں نے

شگرف نامہ ہمایوں میں لکھا ہی کہ اُس نے شہر کا خوب انتظام کیا۔ گیارہ برس تک سلطنت کی ہمایوں کے نام کا خطبہ و سکہ جاری کیا۔ اپنے مخالف حیدر مرزا و دو غلات نے زعفران اور شالیں شاہ دہلی سلیم شاہ پاس بھیجے جس نے اس کے مبادلہ میں یہاں کی نہایت عمدہ ململیں اور کپڑے بھیجے۔ مرزا ایک مہم میں مارا گیا تو ۹۵۹ھ نازک شاہ سہ بارہ کشمیر کا پادشاہ ہوا۔ یہاں پادشاہوں کا تغیر و تبدل بہت جلد ہوتا رہا کہ ۹۶۸ھ میں غازی شاہ مقرر ہوا۔

آئین معدلت گستری اور قانون کشورکشائی میں یہ لازم ہی کہ جب کسی مملکت کا والی اور کسی ناحیہ کا حاکم اپنی عیش و عشرت میں مشغول ہو اور اپنے نفس و ہوا کی کارروائی میں اپنا وقت صرف کرتا ہو۔ اور رعیت پروری اور مظلوموں کی غمخواری اور ظالموں کی بیخ کنی نہ کرتا ہو تو پادشاہ کو ایسے متسلط و متغلب کے استیصال میں کوشش کرکے اس مرز بوم کے باشندوں کو خرد پرور دانش مندوں کے حوالہ کرنا واجب ہی ۹۶۸ھ میں شور انگیز آشوب پیشہ کشمیریوں کے اور غازی خاں حاکم کشمیر کی بیداد کی خبریں پادشاہ کے کان میں آئیں تو اُس نے حکم دیا کہ مرزا قرا بہادر خویش ما برادر مرزا حیدر جو ان حدود کے حال سے خوب واقف تھا آراستہ لشکر لیکر کشمیر کی تسخیر کے لیئے جائے اور ایک جماعت کثیر کو اس کی کمک کے لیے نامزد کیا۔ ان ایام میں کشمیر کا فرماں روا غازی خاں پسر کاجی چک تھا کہ باپ کے بعد کشمیر کی ریاست اس کو ملی تھی تحقیق یہ ہی کہ وہ حسن چک برادر کاجی چک کا بیٹا تھا جب حسن چک کا پیمانہ عمر لبریز ہوا تو کاجی چک ہوا و ہوس و حرص کی افراط سے یا دنیا کے انتظام کے سبب سے اس کی حاملہ بیوی نے اپنا عقد کرلیا۔ انعقاد کے دو تین مہینے بعد غازی خاں متولد ہوا۔

قرا بہادر کارداں کارطلب نہ تھا۔ بہت دیر لگا کر اس خدمت پر متوجہ ہوا۔ گرمی کی شدت میں راجوری میں پہنچا۔ نصرت خاں۔ فتح چک برادرزادہ دولت چک۔ لوہر دانگری نجی رینا اور عیدی رینا و یوسف چک پسر رہکی چک و خواجہ حاجی آنکر اس سے ملے۔

تسخیر کشمیر کے لیے مرزا قرا بہادر برادر مرزا حیدر گورگان کو بھیجنا ۹۶۸ھ

جب انھوں نے اس لشکر کا حال منتظم نہ دیکھا تو نصرت خاں و فتح چک لو مرد انکی کشمیر کی طرف چلے گئے جس سے قرا بہادر کا لشکر پریشان ہوگیا موضع لالی گھو گھر میں بھنبھر کے قریب کمک کے انتظار میں تین مہینے توقف ہوا اور اس لشکر کے سردار کہنہ عملہ تھے وہ زیادہ دیر میں پہنچے۔ کشمیر کے اندر آنا اس قسم کا نہیں ہے کہ اس آہستگی وگراں پائی سے میسر ہو اس کے مسالک اس قبیل کے ہیں کہ اگر وہاں کے والی کو چند روز پہلے کسی بیگانہ کی خبر ہو جائے تو وہ اسکی راہوں کو ایسا تنگ کر سکتا ہے کہ اگر لشکر میں ہزار رستم بھی ہوں تو ان کا تباہ دشوار کیا بلکہ ناممکن ہو۔ غازی خاں نے لشکر کی آمد سنی اور اس پر چند مہینے گزر گئے تو اس نے راہوں کو ایسا مستحکم کیا کہ اس سے زیادہ تصور میں نہیں آسکتا۔ مرزا قرا بہادر نے راجوری کے نزدیک چند روز مقابلہ محاربہ کیا اور شکست پاکر وہ پھر آیا۔ شکست صرف کشمیریوں کے استحکام و استیلا سے نہیں ہوئی بلکہ تپ و لرزہ کا موسم آگیا اور برسات کا آغاز ہوا اور عمدہ اسباب کی کمک نہ پہنچی ان سببوں سے بھی شکست ہوئی۔ اس روز ایک عجیب جنگ ہوئی تھی ایک طرف سے بندوقیں چلتی تھیں اور دوسری طرف تیر اندازی ہوتی تھی اگرچہ پادشاہی آدمی کم تھے مگر داد مردانگی دیتے تھے۔ کوچک بہادر رستم دلی کرتا تھا۔ مگر آخر کو پادشاہی لشکر کو شکست ہوئی۔ پانچسو مغل قتل ہوئے۔ ہاتھی سب چھین گئے۔ راجوری کے نزدیک قلعہ دائرہ میں قرا بہادر چلا آیا۔ کوچک بہادر کے تیر لگا اس کو پکڑ کر غازی خاں پاس لے گئے وہاں اسکا علاج ہوا مگر سودمند نہ ہوا۔ بے علاج نیستی کی راہ لی۔ قرا بہادر نوشہرہ میں چلا آیا۔

کشمیر میں حسین شاہ پادشاہ تھا۔ اسکی سلطنت کا یہ واقعہ ہے کہ قاضی حبیب حنفی مذہب تھا۔ جمعہ کے دن جامع مسجد سے نکلکر وہ کوہ ماران کے نیچے قبروں کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ یوسف ایک شیعہ مذہب نے قاضی کے تلوار لگا کے سر مجروح کیا۔ دوسرا وار تلوار کا قاضی نے ہاتھ کو سپر بنا کے روکا جس سے اسکی انگلیاں کٹ گئیں اس کا سبب

قاضی حبیب کا مارا جانا اور ایک فرقہ ۹۶۷ھ

سوا اس کے کچھ اور نہ تھا کہ اختلاف مذہب کے سبب سے یوسف کو جوش نہبت اُٹھا تو یوسف قاضی کو زخمی کر کے چلا گیا۔ جب حسین چک نے باوجودیکہ خود شیعہ مذہب تھا یہ خبر سنی تو اُس نے یوسف کو پکڑ کر قید کیا۔ فقہا مثل ملا یوسف و ملا فیروز اور ان کے امثال کو جمع کر کے فرمایا کہ موافق شرع کے عمل کرنا چاہیے کہتے ہیں کہ فقہائے کہا کہ سیاست کے موافق اس کا مارنا روا ہے۔ قاضی نے کہا کہ میں زندہ ہوں اس کا مارنا جائز نہیں مگر آخر کار مجرم کو سنگسار کیا۔ اتفاق سے اُنھیں دنوں میں ایک جماعت مثل مرزا مقیم و میر یعقوب کی ایلچی گری کے لیے جلال الدین محمد اکبر بادشاہ کی طرف سے کشمیر میں آئی ہوئی تھی۔ وہ یوسف کے ہم مذہب ہم اعتقاد تھی جب حسین چک نے اس سفارت کی خاطر داری کی۔ مرزا مقیم نے جو یوسف کا ہم مذہب تھا کہا کہ جن مفتیوں کے کہنے سے یوسف مارا گیا ہے اُن کو میرے روبرو دلاؤ۔ حسین چک نے ان مفتیوں کو مرزا کے حوالہ کیا اُس نے مفتیوں سے کہا کہ تم نے فتوے میں غلطی کی مفتیوں نے کہا کہ ہم نے اُس کے مارنے کا فتویٰ علی الاطلاق نہیں دیا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسے شخص کا سیاست کے لیے مارنا روا ہے۔ مرزا مقیم نے مجلس میں مفتیوں کو ذلیل کر کے فتح خاں چک کے سپرد کیا اس نے مرزا کے حکم سے ان مفتیوں کو قتل کر ڈالا اور انکی لاشوں کے پاؤں میں رسّی باندھکر شہر کے کوچہ و بازار میں پھرایا۔ حسین چک نے اپنی بیٹی اور تحف و ہدایا اپنے ایلچیوں کے ہاتھ شہنشاہ اکبر کے پاس بھیجے ۹۷۰ھ میں جب شہنشاہ کو اسکی خبر ہوئی تو اُس نے مرزا مقیم کو جس نے ناحق مفتیوں کا خون کیا تھا قتل کیا اور حسین چک کی لڑائی کو رد کر کے واپس بھیجدیا۔ اس خبر کے سُننے سے حسین چک کو اسہال دموی عارض ہوا اور چند مہینے میں کسی کام کا نہ رہا اپنا کام اپنے بھائی علی شاہ کو سپرد کیا۔

یوسف خاں کا باپ علی خاں چک مرزبان کشمیر تھا اس پاس ۹۸۰ھ میں شہنشاہ نے ملا عشقی اور قاضی صدر الدین کو برسم رسالت بھیجا تھا اس نے ان کے ساتھ اپنے بھتیجے شاہزادہ سلیم سے بیاہ کرنے کے لیے اور تحائف پادشاہ پاس بھیجے اور خطبہ اور سکہ بادشاہ کے نام کا جاری کیا یہ اول دفعہ تھی کہ اکبر کا سکہ کشمیر میں جما۔ مگر چند برس بعد

یوسف خاں کشمیری کا بادشاہ پاس آنا ۹۸۶ھ

چوگان بازی میں کوہنہ زین کے لگنے سے علیخاں مرگیا۔اس دیار کے بزرگوں نے صلاح مشورہ کرکے یوسف خاں کو کشمیر کا مرزبان بنایا۔اس کا چچا ابدال بھی سلطنت کا مدعی ہوا۔یوسف خاں نے تیزدستی کرکے چچا کے گھر کو گھیر لیا بندوق سے اس کو داغ دیا۔مگر یوسف بھی کچھ دنوں چین سے نہ بیٹھنے پایا۔سید مبارک اور امرا نے یہ ارادہ کیا کہ اسکے چچیرے بھائی یوسف بن حسین خاں کو جو خانخانان کا خطاب رکھتا تھا فرمانروا بنائیں مگر اس نے دور اندیشی کے سبب انکار کیا تو تمام فتنہ انگیزوں نے سید مبارک کو پیشوا بنا کر شورشیں برپا کی اور عیدگاہ کے درمیان آویزش شروع کی۔یوسف خاں لشکر لیکر لڑنے کھڑا ہوا۔محمد خاں جو ہراول کا سردار تھا لڑکر مارا گیا۔یوسف خاں میدان جنگ میں نہ گیا۔گریوہ پیرپنجال سے حوالی ٹھٹھ میں آیا۔بدذاتوں نے اسے خطوط لکھکر واپس بلالیا۔سرزمین فراخ میں سید مبارک اس سے لڑنے آیا جنھوں نے یوسف خاں کو بلایا تھا۔اُنھوں نے کچھ کام نہ کیا۔اس لیے یوسف قرمز کی راہ سے راجہ مان سنگھ اور مرزا یوسف خاں کی پناہ میں آنکر بادشاہ پاس چلا آیا۔۲۱ رجب ۹۸۷ھ کو کورنش بجالایا۔

یوسف خاں کا کشمیر میں مرزبان ہونا ۹۸۷ھ

بادشاہ پاس جب یوسف خاں آیا تو فتنہ اندوزوں نے اپنی جادوزبانی سے سید مبارک کے تارک پر تاج حکومت رکھا۔مگر دو مہینے بعد اس کو ایک کونے میں بٹھادیا۔لوھر چک عمزاد یوسف خاں کو بزرگ بنایا۔بادشاہ نے یوسف خاں کو رخصت کیا۔اور امراء پنجاب کے نام حکم بھیجا کہ وہ ایک شائستہ سپاہ اسکے ہمراہ کریں۔جب کشمیریوں نے یہ سُنا تو خواب غفلت سے بیدار ہوئے اور چارہ سازی کرنے لگے اور بادشاہی لشکر کا خوف ان پر ایسا چھایا کہ لابہ گرائی کی دل آویز باتیں کرنے لگے۔یوسف خاں کو لکھا کہ تنہا چلے آؤ اور لشکر کشی کے گزند سے ہم کو بچاؤ وہ بھی اس سے پہلے کہ لشکر سرانجام پائے اور اپنے اس راز کو بتلائے بہت جلد ان پاس آیا۔بہرم کلہ میں بعض حضرات کشمیر میں اس سے ملنے آئے۔مرزبانون کو جب اس کی خبر ہوئی شمسی چک اور حیدر چک اور حضرات کو چارہ گری کے لیے

نامزد کیا۔ وہ جنگ کا ساز و سامان لیکر روبرو آئے۔ یوسف خاں میں اُن سے آویزش کی
طاقت نہ تھی اس لیے وہ راہ چھوڑکر سوپیور میں چلا آیا لوھر چک کچھ سپاہ لیکر اُس کی
برابر آیا۔ اُس کا منتخب لشکر تو دوسری طرف گیا ہوا تھا۔ یوسف خاں کو یہ قابو خوب ملا۔
اس نے ۲۸ر آبان ۹۸۸؁ کو آب بہت سے گزر کر بغیر آویزش کے غنیم کے لشکر کو پراگندہ
کردیا۔ اور لوھر چک کو اپنے پنجہ میں گرفتار کر لیا۔ اس طرح کشمیر کی حکومت پر سربلند ہوگیا۔
یوسف اس سربلندی کو بادشاہ کی پرورش جانتا تھا اس لیے اُس نے اپنے بڑے بیٹے
یعقوب کو مع اس دیار کے نفائس کے بھیجا۔ وہ ۲۹ر بہمن ۹۹۳؁ کو بادشاہ کی کورنش بجالایا

یوسف خاں کی سرکشی اور بادشاہ کا لشکر کشی کرنا ۹۹۴؁

بادشاہ کو یوسف خاں مرزبان کشمیر ہمیشہ اپنی پیشکش بھیجکر یاد دلاتا رہتا تھا اور اپنی
حاضری کے لیے دوری کا عذر کرتا رہتا تھا۔ جب بادشاہ پنجاب میں آیا تو اُس نے اسکو
بلایا۔ یعقوب کو باپ کی طلبی سے اندیشہ پیدا ہوا وہ لشکر شاہی سے بھاگ گیا اور اپنی نگاہ
کو چلا گیا۔ بادشاہ نے حکیم علی اور بہار الدین کنبوہ کو یوسف خان پاس بھیجا کہ وہ اس بھگوڑے
کو لعنت و ملامت کریں اور یوسف سے کہیں کہ وہ خود بادشاہ کی خدمت میں آئے یا اس
بیٹے کو پھر بھیجے۔ ان آدمیوں نے حسن ابدال میں آنکر بادشاہ سے عرض کیا کہ والی کشمیر کے
گرد خوشامد گویوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ ان کے کہنے سے اور اپنے مقام کی استواری کے سبب سے
نہ وہ خود آتا ہے نہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے دو روئی سے لابہ گری کی باتیں بناتا ہے۔ یہ سنکر غضب شاہی
جوش میں آیا اس نے ۹ر دے ۹۹۴؁ کو حکم دیا کہ مرزا شاہرخ و بہادر۔ راجہ بھگونت داس و
شاہ قلی محرم و مادھو سنگھ و مبارک خاں و جلال خاں اور بہت سے احدی بسرکردگی مرزا علی اکبر
شاہی و شیخ یعقوب کشمیری و حیدر چک خاں والی کشمیر کو بیدار کریں:

یوسف خاں کا درگاہ والا میں آنا ۹۹۴؁

کشمیر کی فتح کو جو سپاہ چلی تو اسکے سرداروں نے ارادہ کیا کہ بھیرہ کی راہ سے
جائیں۔ اسی راہ سے بھاری لشکر آسانی سے جلد پہنچ سکتا تھا۔ اس طرف کے زمیندار
بھی ان سے یگانگی کی باتیں بناتے تھے۔ انکے خیال میں یہ تھا کہ جب موسم سرما ختم ہو۔ راہوں سے

برف پگھل کر جدا ہو تو گریوہ نور دہی کریں۔ مگر بادشاہ نے اس سبب سے کہ بدگوہروں سے
یادداشت ہیں درنگ نہیں چاہیے فرمان صادر کیا کہ اسی ریزش برف میں جس کے اندر غنیم
بے پروائی کی نیند سوتا ہے پگلی کی راہ سے جس میں برف کم پڑتا ہے کشمیر میں جائیں ناچار لشکر
کو آگے سفر کرنا پڑا۔ یوسف خاں نے لڑنے کا ارادہ کیا۔ بہت سے اپنے کارآگہوں کو روانہ
کیا کہ نین سکھ دریا کے قریب حصار بنائیں اور ہر تنگی راہ میں ایک استوار جا بنا کر آمادۂ پیکار
ہوں مگر اس کی رائیں اور ارادے ایسے جلد جلد بدلتے تھے کہ یہ آدمی اسکے بار صمولہ سے چھ کوس پر
گئے تھے کہ اس نے ان کو الٹا بلا لیا۔ لیکن کم بین رائے زنوں اور کوتاہ نگاہ دوستوں نے
اس کو خواب غفلت میں سُلایا۔ اور گریوں کی دشوارگزاری نے اور برف باراں کی بارش
نے اور لشکر کی گرم سیری نے اس کو اور زیادہ غنودہ کیا۔ اور خویشتن دوستی اور مال پرستی
نے بے پروا کیا۔ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے ہاتھ سے کام جاتا رہا۔ اور بادشاہی لشکر
پگلی کے قریب آیا۔ شورش کو بلند کیا اور طرح طرح کی رائیں ظہور میں آئیں جو شخص دوربینی کو
ہاتھ سے دیتا ہے اور کامیابی میں اندیشہ ناکامی نہیں رکھتا تو وہ دشمن کامی کی تیرہ روزی
میں اپنے تئیں ڈالتا ہے اور اپنی خواہش کے پاؤں میں ناکامی کا پتھر لگاتا ہے۔ غرض پریشانی
کے ساتھ جنگ سے باز آنے کا ارادہ کیا۔ مگر یہ رائے بھی قائم نہ تھی اسکی رائے گرگٹ کے سے
رنگ بدلتی رہی۔ جب بادشاہ کی سپاہ نشیب و فراز کو طے کر کے بولیاس کے پاس
اُتری تو یوسف خاں بیداری کے ساتھ اپنی چارہ گری کرنے لگا۔ سوائے زینہاری ہونے
کے اور کورنش بجالانے کے ملک داری کے لیے کوئی اور دستاویز نہ دیکھی۔ کتل گوارست
سے لشکرگاہ کے دیکھنے کا بہانہ بنا کے اور کچھ آدمیوں کو ساتھ لیکر جدا ہوا اور اپنے
ایک کاردان کو امراء شاہی پاس بھیجکر اپنا رازِ دل آشکارا کیا۔ امراء کی جان
بھی جاڑے کی شدت سے اور آذوق کی گرانی سے اور برف باران کی شدت سے
ضیق میں آرہی تھی۔ اُنھوں نے اس کی درخواست کو منظور کر لیا۔ اور فرستادہ کو واپس

بھیجا۔ وہ خود مع چند ہمراہیوں کے ۲۴ اسفندریار الٰہی ۹۹۴ھ کو امرائے شاہی سے آن ملا۔ امرا نے اس کی بزرگ داشت کی اور اپنی انجمن آراستہ کی اور مراجعت کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو فرمان صادر ہوا کہ یوسف خاں کا آنا پسند خاطر ہوا۔ خسروانی نوازش سے سربلند ہوگا لیکن امرا کی بازگشت شائستگی سے خالی ہے سپاہ کشمیر جائے۔ اگر یوسف خاں راہ راستی پر چلے اور حیلہ اندوزی سے اس کا دل خالی ہو تو یہ ملک لیکر اس کو دیا جائے۔ اب خواہی نخواہی امرا کو آگے جانا پڑا۔ کشمیر کے سرداروں نے حسین خاں چک کو گوارست کے قریب سب میں بڑا مقرر کیا اور گریوہ کو استوار کیا۔ اس زمانہ میں یعقوب خاں پسر یوسف خاں اس ہنگامہ میں آن کر شریک ہوا اس کے طرفدار بہ نسبت حسین خاں کے زیادہ ہوگئے۔ گریوہ کے قریب لشکر شاہی سے لڑائی ہوئی۔ مادھوسنگھ اور امین الدین نے اس گریوہ کو کچھ فتح کیا۔ حسین بیگ احدی اور چند راجپوت مارے گئے۔ دوسری طرف کے چالیس نامور آدمی نیست ہوئے اور اس گروہ کی فراہمی میں پراگندگی ہوئی اس اثنا میں شیخ یعقوب کشمیری کی سخن سرائی سے کرنا کے زمینداروں نے آنکر امرائے شاہی سے ملاقات کی اور یہ قرار پایا کہ ان کی بنگاہ میں سے گذر کر سپاہ کشمیر کے اندر داخل ہو کشمیریوں نے لابہ گری کی اور صلح کی درخواست کی اور گزارش کی کہ اس دیار کے فرمانروا نے درگاہ والا کی طرف رخ کیا ہے مناسب یہ ہے کہ لڑائی نہ ہو منابر و دراہم پر نام شہنشاہی چہرہ افروز ہو اور سرائے ضرب و زعفران و ابریشم و شکاری جانور سرکار والا کے حوالہ ہوں اور ان میں سے ہر ایک کارخانہ کا داروغہ شاہی مقرر ہو اور لشکر بازگشت کرے۔ لشکر شاہی تنگ ہو رہا تھا اس لیے اُس نے یوسف خاں مرزبان کشمیری کی سعی سے ان شرائط کو منظور کر لیا۔ زعفران زار اور ابریشم کی داروغگی قلندر بیگ کو سپرد ہوئی۔ دارالضرب خواجہ میر کی کو اور جانوروں کی داروغگی ملا

مظہری کو۔ اگرچہ شہریار کو یہ صلح پسند نہ تھی۔ مگر سپاہ و کشمیریوں کی خاطر سے اس قرار داد کو قبول کیا۔

کشمیری آشتی پر قائم نہ رہے یعقوب نے دشوار گزار گریوں کو اپنی پناہ گاہ سمجھکر صلح کو سلام کیا تو پھر شہریار نے بھی کشمیر کی تسخیر دل میں ٹھان لی سپاہ کے بھیجنے کا ذکر درمیان آیا بہت سے سرانِ دولت کشمیر کو دشوار کشا سمجھکر اس سے پہلوتہی کرتے تھے ابوالفضل نے اسکی تسخیر کی بہت سی تدابیر بتائیں مگر وہ کسی کی خاطر میں نہ آئیں۔ بادشاہ کے حکم سے اختر شناسوں کی انجمن جمع ہوئی اس نے طالع سال اور حال کواکب میں خوب غور کی تو یہ نکلا کہ اگر تھوڑی سی بھی تگا دیجائیگی تو جلدی سے فتح ہو جائیگی یہ سُنکر بادشاہ نے فتح کشمیر کا ارادہ مصمم کر لیا اس زمانہ میں حیدر چک ورستم یعقوب۔ کشمیری نے یہ گزارش کی کہ کشمیر کے بزرگ ہماری یہ دید سے نہ پھرینگے اگر تھوڑی دا بومی پنجابی سپاہ ساتھ جائیگی تو ملک بغیر لڑے ہاتھ آجائیگا اس لیے بادشاہ نے مبارک خاں وجلال خاں گکھر اور اور زمینداروں کو کشمیر جانے کی اجازت دی یہ دونوں کشمیری بنیر کے نزدیک اس ملک کی انتظار میں بیٹھے۔ بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دونوں جو سوار بومی سپاہ کے اور سپاہ کو نہیں چاہتے اس میں کچھ انکی بدنیتی پائی جاتی ہے اسواسطے اس نے قاسم خاں کو کہ کارشناسی اور نیزدلی میں یکتا تھا اس خدمت پر سربلند کیا۔ ۱۸ ارتیر کو سنہ ۹۹۴ھ کو اسکی سرکردگی میں بہت سے سردار اور منصبدار اور احدی اور نوکر روانہ کیے۔ شریف سرمدی کو اس سپاہ کی بخشی گری پر سربلند کیا اور جو آدمی روانہ ہو چکے تھے انکے پاس بھی حکم بھیجدیا کہ وہ اس لشکر سے ملکر سپہ آرا کے تابع رہیں۔

کشمیر کی راہ کے گریوں سے جو شخص تھوڑا سا بھی شناسا ہوتا ہے تو اس کے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی بیگانہ ان پر کبھی غالب آسکتا ہے ان کے چاروں طرف بلند کوہستان پاسبانی کرتے ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر ایسے مقامات ہیں کہ

اگر چند بڑھیاں پتھر لڑکا تے بیٹھ جائیں تو اچھے سے اچھے مردوں کو گزرنے نہ دیں۔ اسی لیے
پہلے زمانہ میں ردا اُسکی تسخیر پر دل نہاد نہیں ہوئے۔ ان دنوں میں پادشاہ پنجاب میں تھا۔
یعقوب نے سرتابی کی اور لشکر شاہی کی سراسیگی لشکر آشتی کو برہم کیا۔ خوشامدگویوں کے
کہنے سے اپنا لقب شاہ اسمٰعیل رکھا اور عوام کے دلوں میں شورش پیدا کی اور پھر اسمیں
مذہب و کیش کا معاملہ پیش کیا اور اس میں تند خوئی اور مردم آزاری اختیار کی اس ملک میں
اگرچہ برہمن اور شاکمونی کا آئین جاری تھا لیکن مدت سے یہاں شیعہ سنی کا ہنگامہ گرم
تھا ان میں سے کبھی کوئی کبھی کوئی غالب ہو جاتا اور خود فروشی کی دُکان کھول بیٹھتا معاملہ
شناسوں کی نیک سگالی سے پردہ ڈھکا ہوا تھا۔ مگر اس زمانہ میں نقاب آزرم اُٹھ گئی
اور سُنیوں کو شیعہ آزار دینے لگے۔ بوڑھے قاضی موسیٰ کو مار ڈالا۔ گھر بار اس کا لوٹ
لیا فتنہ خوابیدہ بیدار ہوا۔ شمس چک کو سری اور کین توزی کا خیال ہوا۔ محمد بہت نے
کہ اس ملک کی نیرنگ ساز و با وقتی قابو پاکر بدسگالی کے عوضہ کو فراخ کیا اس نے
نوجوان یعقوب کو یہ صلاح دی کہ شمس چک علی شیر ماکری و سید حسین کو پوشیدہ ہلاک
کرے مگر انھوں نے بھی وہی چال چلی جو اس نے بتلائی تھی۔ محمد بہت بھاگا مگر گرفتار ہوا
اور جب یہ مکار مقید ہوا تو شمس چک سرداری کے لیے ہنگامہ آرا ہوا۔ یعقوب بھی لڑنے
کو کھڑا ہوا کہ اتنے میں لشکر شاہی کا آوازہ سُنا گیا جس سے سب چھوٹے بڑوں کے ہوش
اُڑے۔ کارشناسوں کی سخن آرائی سے اُنھوں نے آپس میں صلح کر لی۔ شمس چک تو
کام کاج دیدیا مگر تھوڑے دنوں میں یعقوب اپنے عہد و پیماں کو بھول گیا۔ اور اسیر لشکر
کُشتی کی اور چیرہ دستی کر کے غنیم کو اپنے پنجہ میں پکڑ لیا پادشاہی سپاہ جبتک
دریا پنجاب پر پہنچے ان میں سے بعض سردار ایسے بیہودہ تھے کہ وہ انجام کار کو بہت
دشوار جانتے تھے مگر جب اس دریا سے پار گئے تو یعقوب اور کشمیر کے سرداروں کی
آپس کی لڑائیوں کے سبب سے کشمیر کے سرداروں کے التجا نامے خاص کر علی شیر

ماکری کے متواتر شاہی سرداروں پاس آنے لگے۔ پس کشمیر کے سرداروں کی آپس کی ناتفاقی سے کارگاہ کو آیندہ کو پیشانی حال سے پڑھ لیتے ہیں اور سرآغاز سے انجام کار کو پہچانتے ہیں۔ اپنی فیروزی کی داستان پڑھنے لگے اور صف آرائی پر مستعد ہوئے ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھتا۔ قول میں سپہ آرا۔ ہراتغار میں مسند عالی وفتح خاں ومبارک خاں اور جرانغار میں جلال خاں اور ہراول میں مرزا علی اکبر شاہی وگوبردھان ودیشیخ دولت و شریف سرمدی اور ایک گروہ احدیوں کا۔ ۱۲ رشہر پور کو گریوہ بھنبر سے گزرے۔ یہاں کے زمیندار سلیم نے کنارہ کیا۔ قاسم خاں نے کارشناسی سے بہلول اسکے برادرزادہ کو یہاں کا زمیندار بنایا اور بیخوف سفر کیا۔ کچھ مدت بعد سلیم بھی لشکر شاہی سے آن ملا۔ راجوری میں بزرگ کتل کے رئیساں بہرام نایک واسمعیل نایک وشنکی چاروز بھی لشکر شاہی سے ملنے آئے اور ایک ملک کی فتح کی مبارکباد دینے لگے کہ یعقوب خاں ایک کونہ میں چھپا ہوا بیٹھا ہی۔ اور اس دیار کے سب سرداد لشکر شاہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ یہاں سے دو راہیں جاتی ہیں۔ ایک کپرتل سے وہ سب راہوں سے زیادہ کشادہ ہی اور دوسری پیر پنجال سے اور ہم دونوں راہوں کے پاسبان ہیں۔ اگر جلد قدم اٹھائیگا تو زبردستوں کو اپنی داوگری آرام پہنچائیگا۔ اس نوید سے لشکر شاہی میں بڑے جشن ہوئے۔ کپرتل کی راہ سے جانا قرار پایا۔ آنیوالوں نے یہ گزارش کی کہ لشکر زیادہ ہی اور راہ دشوارگزار ہی اس سبب سے دیر میں پہنچا ہوگا۔ گریوہ پر بزرگان کشمیر انتظار کر رہے ہیں مناسب یہ ہی کہ کچھ تھوڑے سے کارشناس نیک نیت آگے چلیں کہ ان کو خسروانی نوازش کا امیدوار کریں۔ پھر شہر میں تیزدستی سے آنکہ فتح کا نقارہ بجائیں۔ اس گزارش کو امرا شاہی نے قبول کر لیا۔ شیخ یعقوب جی تواجی باشی وشیر وسلیم تھوڑے بندوقچیوں کے ساتھ آگے بھیجے گئے اور شنکی چاروز ہمراہ ہوا۔ لشکر پیچھے سے روانہ ہوا جب وہ کتل کپرتل پر آئے تو یہاں کا عالم ہی کچھ اور دیکھا۔ اس گریوہ کے سر پر تین دیواریں چار چار گز چوڑی اور دس گز بلند

کھڑی تھیں اور تیس۳۰ گز تک جو ہیں ایک دوسرے کے اندر پھنسی ہوئی تھیں پہلے لوگوں نے یہاں طلسم بنا یا تھا کہ جب لشکر بیگانہ یہاں آئے تو برف اور مینھ اور اولے برسنے لگے۔ اس سبب سے یہاں بڑی شورش برپا ہوئی اس ریزش میں نشیب و فراز کو طے کرکے گریوہ کرم بال میں آترے۔ مینھ اور زیادہ برسنے لگا۔ جاڑے کی شدت سے بہت سے جانور بے جان ہو گئے اس اثنا میں کئی تفنگ انداز جو جی کے ہمراہ گئے تھے زخمی ہو کر لشکر میں آئے جس سے کشمیریوں کی فریب کاری پر آگہی ہوئی۔ اس راہ میں تین بڑے گریوے ہیں کہ انکی دشوار گزاری کو ایک زمانہ بیان کیا کرتا ہے۔ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ گریوہ بستی دتر (ہستی دتر) پر جو ہندوستان کی طرف سے تیسرا گریوہ اور کشمیر کی جانب سے اول گریوہ ہے کشمیری منتظر چشم براہ بیٹھے ہیں۔ جو آدمی آگے گئے تھے اُنھوں نے اس گروہ کو نہ پایا۔ مگر ظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایک جماعت یہاں آنکر چلی گئی ہے۔ شیخ فیضی نے چاردر سے پوچھا کہ اس آنے کے اور پھر چلے جانے کے کیا معنی ہیں تو اس نے جواب دیا کہ وہ اس اندیشہ سے پھر گئے ہونگے کہ یعقوب آنکر سرگریوہ کو نہ لے لے۔ اس درمیان میں محمد اللہ پسر لادر خاں و بہادر خاں اور ایک جماعت کشمیریوں کی آنکر ملی اور لڑنے لگی۔ شیخ یعقوب کے دو زخم لگے اور وہ گرا مگر بچ گیا۔ اور جی کو بارہ زخم لگے اور وہ مر گیا۔ دفعۃً برف و باراں کا زور شور ہوا جس نے آدمیوں کو پراگندہ کر دیا۔ اب ایک نادر سرگزشت یہ ہے کہ شمس چک کو یعقوب گرفتار کرکے مغرور ہو گیا۔ راہوں کے بند کرنے میں کوشش کرنے لگا۔ اپنا بھائی اور اپنا پسر ابدال چک اور سرداروں کو آگے جانے کے لیے رخصت کیا اور خود پیکار کا سامان تیار کرنے کے لیے شہر میں آیا پیش آمدوں نے تنگنائوں کا بندوبست کیا۔ اس زمانہ میں ان کشمیریوں میں دورنگی ہوئی ان کے ہنگامہ کی رونق جاتی رہی حیدر چک جو اس ملک کی مرزبانی کا مدعی تھا وہ لشکر شاہی میں تھا۔ اس کا بیٹا حسین باپ کے آنے کی خبر سنکر پرم کلہ میں اس کا انتظار کھینچ رہا تھا۔ بہت سے کشمیریوں کے بزرگوں نے حسین کے

ساتھ آئین دوستی آراستہ کی اور اس میں یہ قرار پایا کہ اگر حیدر چک ہم سے پیمان شکنی نہ کرے تو ہم سب اس کے ساتھ گرویدہ ہو جائیں وہ لشکر شاہی سے آکر ہم سے ملجائے اور ہم لشکر بیگانہ کو پیش کش دیکر اور لابہ گری کرکے واپس لیجائیں گے پھر کشمیر میں امن امان ہو جائیگا۔ فتح علی نے جس کا خطاب کو رنگ خاں تھا اس بات کو منظور نہیں کیا تو اُس کو بے آبرو کیا وہ دونوں اپنی باتیں بنا کر بھاگ گئے۔ گریوہ بان نائکوں کو انکے منانے کے لیے بھیجا۔ سب کا قصد یہ تھا کہ پادشاہ کے لشکر میں سے چند آدمیوں کو لیجا کر منبر پر پادشاہ کا خطبہ پڑھوا دیں اور امرا کو مال و دولت ایسی دیں کہ وہ الٹے جانے پر راضی ہو جائیں خلاصہ یہ ہو کہ یعقوب لڑنے کے قصد سے ہیرہ پور میں آیا کہ اس کو معلوم ہوا کہ کشمیری اس سے پھر گئے ہیں وہ بڑا سراسیمہ ہوا اور اس کا چچا حسین خاں بھی جا کر ان کشمیریوں سے مل گیا۔ یعقوب نے اپنے کارپردازوں کی انجمن جمع کی جس میں یہ رائے قرار پائی کہ شمس چک اور محمد بہت کو قید سے نکالکر انکی بہ دید سے کارزار کی جائے۔ جب یہ دونوں آدمی قید سے نکلے تو انھوں نے یہ صلاح دی کہ کھتوارہ میں تھوڑے دنوں جا کر پناہ لینی چاہیے اس زمانہ میں یہ معلوم ہو جائیگا کہ دوست کون ہی اور دشمن کون۔ پھر کارسازی کی جائے۔ جب کھتوارہ کو سب چلے گئے تو راہ میں سے وہ خود دونوں بہت سے آدمیوں کو ساتھ لیکر جدا ہو گئے۔ اس زمانہ میں کہ گریوہ میں کشمیری حیدر چک کی راہ دیکھ رہے تھے اُس نے اُن کو لکھا کہ میری پاسبانی سخت ہو رہی ہو میرا نکلنا اور امرا کا واپس جانا دونوں امر دشوار ہیں پھر کشمیریوں نے یہ خیال چھوڑا اور ہیرا پور میں ہنگامہ آراستہ کیا حسین چک کو اپنا بزرگ تر بنایا اس درمیان میں شمس چک بھی آن ملا۔ مرزبانوں سے پھر کر کشمیری اُس سے گرویدہ ہوئے اور لڑنے کے لیئے ایک گروہ کو گریوہ بھیجا جس نے شیخ یعقوب جی کو گزند پہنچایا۔ جس کا اوپر ذکر ہوا۔ امرا شاہی پر کرم بال کے قریب ان کشمیریوں کی حقیقت حال کھل گئی پھر جو کشمیری آیا اُسے قید کیا اور حیدر چک کی زیادہ پاسبانی ہونے لگی۔

انجمن رازگوئی آراستہ ہوئی۔ اس میں بعض نے کہا کہ گریوہ ہستی وتر سے گذر کر ملک جانفی میں جانا چاہیے بعض برف و باراں سے ایسے عاجز تھے کہ اُنھوں نے بازگشت کی صلاح دی بعض نے کہا کہ یہیں توقف ہو۔ مگر قاسم خاں کی رائے آگے جانے کی تھی وہی عمل میں آئی اسی زمانہ میں شمس چک نے کاردانوں کو بھیجکر لابہ گری سے یہ درخواست کی کہ مرزا شاہرخ سے جو صلح ہوئی تھی وہی پھر کی جاوے۔ امرار شاہی نے اسکو جواب دیا کہ ایکدفعہ تمھارے فریب میں ہم نہ آئینگے۔ تمھارے حیلہ کے افسانے نہ سُنینگے۔ حکم شاہی یہ ہے کہ جو دسروں سے کشمیر لے لیا جاوے جس کا نصیبہ یاور ہو وہ ہمارے لشکر میں چلا آئے۔ کشمیری آمادۂ نبرد ہوئے۔ قاسم خاں بھی ۱۹ رمہر کو متوجہ پیکار رہا۔ غنیم بھی فوج آراستہ کر کے سامنے آیا قول میں وہ خود تھا۔ دست راست پر ظفر خاں و دست چپ پر شمسی دولی حسین چک طلیعہ تھا محمد بہت چنداول۔ جب ہراول شاہی گریوہ میں آیا تو غنیم نے سرکوبوں سے بندوقیں اور پتھر ایسے ایسے مارے کہ وہ بھاگ کر جرانغار سے جاملا۔ قاسم خاں اس بھاگنے سے اُنپر خفا ہوا اور خود اس طرف گیا اور اپنے سے پہلے اور امرا رکو بھیجا۔ محمد کو چک کہ بڑا بہادر کشمیریوں میں تھا۔ برانغار سے دوڑا اور لاکھا نامی بہادر اس سے خوب لڑا۔ اس ہنگامہ میں ظفرخاں بندوق سے مارا گیا اس سے غنیم کی فوج یکبارگی پریشان ہوگئی اور ہر ایک سردار ایک گوشہ میں جا چھپا۔ بادشاہ کے لشکر میں فتح کا نقارہ بلند آوازہ ہوا۔ ۲۴ رمہر کو منبروں پہ بادشاہ کا خطبہ پڑھا گیا۔ سری نگر سے چار کروہ لشکر کا قیام ہوا۔ حیدر چک شہر میں گیا۔ لشکر میں شورشس ہوئی مگر جلد دب گئی۔ ۲۵ رکو قاسم خاں اور اور امرار سری نگر کی تربت سرائے میں آئے اور بڑی خوشیاں منائیں اسی روز راہ کے درمیان حیدر چک بہت آدمیوں سے ملا۔ مگر قاسم خاں نے اُسے کچھ تصرف نہیں کرنے دیا اور اس کے دل سے تباہ نیتی کا نقش مٹا دیا۔ تعجب ہی کہ ابوالفضل۔ افسانہ کہتا ہی کہ شیودت برہمن جو تبال سادھنا جانتا تھا ۹ برس پہلے لکھ گیا تھا کہ مسلمانوں کی یہاں سلطنت ہوگی۔

اکبر شہنشاہ یہاں کا بادشاہ ہوگا جب بادشاہ کو اس فتح کا مژدہ پہنچا تو اُس کو ہندوستان
کے اختر شناسوں کی راست گوئی کا یقین ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس صدی میں اکبر بھی
ایک بھولا بھالا لڑکا تھا کہ آسمان کی کتابیں ستاروں کے حرفوں میں اپنی قسمت کا سبق
پڑھتا تھا۔

اب کشمیری کھتوارہ کی تنگناؤں سے یعقوب کو لائے۔ اور اُسکے گرد جمع ہوئے چندر کوٹ
میں جو شہر سے سات کوس پر شورش برپا کی۔ مبارک خاں و شیخ دولت اس سے لڑنے گئے
وہ دن کو لڑ نہیں سکتا اس لیے شب خون کا ارادہ کیا اور آدھی رات کو سری نگر پہنچا اور کچھ
قراولوں کو جو سوتے تھے مار ڈالا۔ بڑے دروازہ پر آن کر اس نے شورش مچائی۔ قاسم خاں
نے دلاوری سے مقابلہ کیا حیدر چک سے اُسکی خاطر کو اطمینان نہ تھا اسلیے اُس کو مار ڈالا۔
کشمیری کشتی پر سوار ہو کر شہر کی دریچہ کی طرف جو اس جانب تھا آئے۔ طوفان کابلی اور
قاضی زادہ اُس سے لڑنے کھڑے ہوئے۔ غرض ہر گوشہ میں ایک ہنگامہ جنگ برپا ہوا
بادشاہی لشکر کی طرف سے جو دھونسہ بجاتا ہوا آیا تو غنیم گھبرا گیا۔ اور سامنے نہ ٹھہرا۔
کشمیریوں نے شہر میں آگ لگا دی اس سے وہ اور زیادہ تباہ اور خاک سیاہ ہوئے۔
آخر شب کو تتر بتر ہو کر بھاگے۔ اس بھاگنے میں سیکڑوں جان سے گئے۔ صبح کو یعقوب
کا تعاقب ہوا۔ مگر لشکر اس زمین سے بیگانہ تھا اور راہیں نہیں جانتا تھا اسلیے وہ دلیسو کو بھاگ گیا

یعقوب اس شبخون میں ناکام ہو کر کھتوارہ کے تنگناؤں میں گوشہ نشین ہوا۔ سیاہ کشمیر استوار
پیمان کر کے اس کو وہاں سے باہر لائی اور سری نگر سے پچیس کوس پر نواحی ہمرناک میں فتنہ برپا
کیا۔ قاسم نے چاہا کہ اُنکی سرکوبی کے لیے امرا کو بھیجے اور خود شہر میں پاسبانی کے لیے
رہے۔ امرا نے ناہنجار خواہش گری کی۔ لشکر کے گرم سیر اس دیار سرد سیر سے
بہ تنگ آ رہے تھے۔ گریووں میں چلنے سے اور لڑنے سے عاجز ہو گئے تھے۔ ناگزیر
سپہ آرا خود اس میں مصروف ہوا اور فتح خاں کو شہر میں چھوڑا۔ جب وہ یعقوب کے

نزدیک آیا تو یہاں یہ مشہور تھا کہ وہ شبخون مارنے کے قصد سے شہر کی طرف گیا ہے۔ قاسم سراسیمہ ہوکر پھرا اور فوج کو مرزا علی کی سرکردگی میں آگے روانہ کیا۔ شہر کے پانچ کوس پر معلوم ہوا کہ یعقوب کوہ ام کے قریب شہر سے چار کوس پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ لشکر شاہی دوسرے روز اس کوہسار پر گیا۔ قراولوں نے کچھ لڑ کر فتح پائی۔ دن کو غنیم لڑ نہیں سکتا اس لیے شبخون کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سرزمین میں نرسلوں کے مکانوں میں آگ لگ گئی جس کے سبب سے غنیم کے آدمی یا دشاہی لشکر کے خوب نشانہ بنے۔ آپس کی دو روئی اور ناسازگاری سے اور لشکر کی حسن آرائی اور استمالت سے وہ پراگندہ ہو گئے۔ یوسف کشمیری کہ جس کا خطاب خانخانان تھا اور محمد بہت بہت سے آدمیوں کے ساتھ کوہچہ میں پناہ لے گئے۔ اور امرا پادشاہی سے ملنے کی درخواست کی ۲۹ آذر کو پادشاہی لشکر اس کوہچہ پر آیا۔ یعقوب کچھ آدمیوں کے ساتھ کھوارہ رو یہ بھاگا اور آبادجگھوں کو غارت کیا۔ لشکر شاہی اس کوہچہ پر گیا۔ جہاں نام بردہ تھے دوسرے روز مرزا علی و مرزا خنجری کی معرفت وہ سپہ آرا پاس آئے سپہ آرا نے طرح طرح سے انکی دلدہی کی اور خنجری کے ہمراہ پادشاہ پاس بھیجدیا تو اب یہ شورش موقوف ہوئی۔ ۲۲ اسفندارمذ کو یہ امرا کشمیر پادشاہ کے دربار میں گئے۔ اور خسروانی نوازش سے سرافراز ہوئے۔

قاسم خاں نے سخت تگاپو کرکے بڑی فراخ حوصلگی کے ساتھ ملک کشمیر کو تسخیر کیا اور بہت تکلیف و محنت اٹھائی۔ بہت سے گنج گراں سر تابوں کی مالش کی اور بہت سے سرداروں کو پادشاہ پاس بھجوا دیا۔ اور بہت سے ان کو اپنے ساتھ ملا لیے ولایت۔ دار و گیر سے آباد کیا اور دشمن کو ایک گوشہ نامی میں بٹھایا۔ مگر اس سے یہ لغزش ہوئی کہ کشمیروں کی گرفت و گیر زیادہ کی۔ اس بوم کے سپاہیوں نے جو یعقوب سے چھینا تھا اسکی بازخواست انسی کی۔ زمستان میں تو آمد و شد کی راہیں بند تھیں، سپاہیوں نے تلخ کامی کے ساتھ بسر کی جب ہوا میں اعتدال ہوا تو پھر بدگوہروں کے زنبور خانہ میں شورش پیدا ہوئی۔ بہت سے

مرزا یوسف خاں کا کشمیر کا صوبہ دار ہو کر جانا

آدمی چلے گئے اور یعقوب کو لائے اور حوالی بنیر میں شہر سے تئیس کوس پر ہنگامہ شورش گرم کیا۔ ہر چند سپاہیں بھیجیں مگر وہ ان کو اپنے آگے سے نہ ٹلا سکیں۔ قاسم خاں اس طرف گیا جب وہ انکے نزدیک آیا تو وہ پوشیدہ راہوں سے شہر کی طرف جلد چلے آئے امرا، چند جوق ہو کر مقابلہ میں آئے مگر یعقوب بہارک میں شہر سے تین کوس پر ایک کوچہ کی پناہ میں کمین میں بیٹھا۔ افواج شاہی بہم پہنچیں۔ اگرچہ دار الملک اس تیزروی سپاہ سے لوٹ سے بچ گیا مگر ناہمواری جا اور دشواری راہ نے کچھ کام سپاہ کو نہ کرنے دیا۔ سپاہ اس کام کو چھوڑ کر شہر میں چلی آئی جس سے غنیم کی قوت بڑھی کچھ دنوں کے بعد قاسم خاں پھر لڑنے آیا تو راولوں میں تو ہر روز لڑائی ہوتی تھی مگر پانچ دفعہ جنگ عظیم ہوئی۔ چھٹی دفعہ میں سید عبداللہ زخمی ہوا۔ غنیم کو شکست ہوئی دیگر لشکر شاہی پہاڑ پر آیا۔ اس وقت بارش شروع ہوئی۔ کاردانوں کی رائے یہ تھی کہ غنیم کے گرد دائرہ بنائے۔ مگر اس پر عمل نہ ہوا نشیب کی طرف چلے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے تیر اور پتھر پھینکے۔ راہ کی ناہمواری و تنگی سے بادشاہی سپاہ بید لی اور کار نشناسی سے آپسمیں رنجیدہ ہونے لگی۔ اس آشوب گاہ میں میرزادہ علیخاں کی جان گئی اور سری رنگ عمزادہ رائے رائے سنگھ چالیس آدمیوں کے ساتھ لڑنے کھڑا ہوا وہ مارا گیا تین سو آدمیوں کی زندگی ختم ہوئی۔ دوسرے روز قاسم خاں لڑنے گیا۔ کشمیریوں کو پراگندہ کر دیا۔ یعقوب نے کامراج کو بھگا دیا۔ پھر یعقوب اور شمس چک نے باہم یکجہتی کا عہد کیا اور سر اٹھایا۔ مگر کشمیر میں یکتا دلی نام کو بھی نہیں ہوتی اندرکول کے قریب ان میں خود لڑائی شروع ہوئی پھر تھوڑے عرصہ میں ان میں صلح ہوگئی اور یہ قرار پایا کہ ایک جگہ رہنے سے نوکروں کے نزاع سے آقا ناخوش ہوتا ہے اس لیئے مناسب ہے کہ وہ دو جگہ ہو جائیں۔ یعقوب تو کوہ سلیمان کے قریب جا کر ہنگامہ آرا ہوا اور شمس چک اندرکول میں رہا۔ اب بعض کی رائے یہ تھی کہ بادشاہی لشکر کے بھی دو حصے ہوں مگر دوربینوں نے اوسے پسند نہیں

کیا کہ دو جگہ ہونے سے مبادا ایسی گزند نہ پہنچے کہ پھر جس کا چارہ نہ ہو سکے۔ یعقوب کے دفع کرنے میں سب مصروف ہوئے۔ اور اس کی طرف گئے باہر روز لڑائی ہوتی۔

پانچویں روز قاسم خاں ایک جنگ عظیم لڑا۔ فتح علی غنیم کے سرگروہ کو اس نے مارا۔ جس سے دشمن کا ہنگامہ پراگندہ ہو گیا۔ شمس چک پاس یعقوب چلا گیا پھر تھوڑے دنوں کے بعد شہر کے نزدیک آیا اور فتنہ برپا کیا۔ شہر سے ایک کوس پر ایک زمین بلند تھی۔ آدھ کوس لمبی اور ایک چوتھائی کوس چوڑی اور کئی تالاب اس کے گرد تھے اسکی خلاب دشوار گزار ان دونوں نے اُس میں پناہ لی اور گاہ و بیگاہ وہاں سے باہر نکلکر لوٹتے مارتے تھے پادشاہی لشکر اس سے ہر روز لڑتا۔ قاسم خاں بھی لڑتے لڑتے تنگ آ گیا۔ اس نے پادشاہ پاس عرضداشت لکھی کہ وہ اس کو بلا لے۔ شہریار نے اس کی درخواست کو قبول کر کے مرزا یوسف خاں کو سپہ آرا مقرر کر کے اس دیار کو روانہ کیا۔ جگن ناتھ اور حسین بیگ اور امیروں کو ساتھ کیا اور حکم دیا کہ جب کشمیر کے سرکشوں کی مالش ہو جائے تو قاسم خاں وہاں سے ہمارے پاس چلا آئے قاسم خاں پاس آ گیا۔

پادشاہ کار آگہی نیرنگی ابداع پر نظر کرتا ہے کہن سال دنیا کو آفرینش کی تازہ آرائش جانتا ہے اس کا دل ایک جگہ نہیں لگتا ہے۔ ہر سرزمین نئے ایک نیا فیض اٹھاتا ہے۔ بتر رف نگہی کو کام میں لاتا ہے۔ شناسائی کو کارکردے سے ملاتا ہے۔ جہاں تقدیر کی شگرف کاری کو زیادہ دیکھتا ہے اسی طرف دل زیادہ لگاتا ہے۔ اس سبب سے وہ کشمیر کو یاد کیا کرتا تھا اس کی آب و ہوا کو پیش نظر رکھتا تھا جب یہ ملک اس کی قلمرو میں آیا تو اسکی گلگشت کا ارادہ کیا۔ ہر چند بزم والا کے سخن سراؤں نے عرض کیا کہ پادشاہ کا اتنا بڑا ملک چھوڑ کر بغیر کسی ملکی وجہ کے ایک گوشہ میں جانا خرد پسند نہیں کرتی۔ مگر پادشاہ نے نہ مانا اور کہا کہ جنت آشیانی یہ آرزو اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ میرا وہاں جانا انکی تمنا کو پورا کریگا۔ اس نے ۱۶ رفروردی کو رادی سے

پادشاہ کا کشمیر جانا ۹۹۴ھ

عبور کیا اور تین ہزار سنگ تراش و خارا شگاف و دو ہزار بیلدار کار گزار بسر کردگی قاسم خاں روانہ کیے کہ راہ کے نشیب و فراز کو ہموار کریں۔ کوچ بکوچ پادشاہ سیالکوٹ کے مضافات میں آیا۔ یہاں اس نے سُنا کہ اللہ بردی ہشتقدار۔ پتہ۔ ہنود راج گماشتہ صادق خاں نے ایک ستم برپا کر رکھا ہے اور زیردستوں کو بے عزت کرتا ہے۔ یہاں اس نے اس کے ظلم کی خوب تحقیقات کرائی۔ جب جرم ثابت ہوا تو اسکی جان لی جس سے اوروں کی جان کو آسائش ہوئی۔ ۹ خرداد کو گریوہ بھمبر کی سیر کی کشمیری اس کو کاچیوار کہتے ہیں۔ یہاں پادشاہ کو یہ خیال آیا کہ جریدہ چلیے۔ شاہزادہ سلطان مراد کو لشکر کا منتظم مقرر کیا اور شیخ فرید بخشی بیگی کو گریوہ پر تعین کیا کہ سوائے پادشاہی آدمیوں کے کسی کو نہ آنے دے۔ خود سوار ہوکر گرم رفتار ہوا۔ کبھی سوار چلتا۔ کبھی پیادہ۔ دوپہر کو درختوں کے سایہ میں آرام کرتا۔ پادشاہ کے ساتھ مرزا خانخانان وزین خاں کوکہ عضدالدولہ حکیم ابوالفتح و جگن ناتھ میر شریف املی و قاضی حسین و نورین قلیچ و رامداس و ابوالفضل اور چند یکے جوان تھے پادشاہ گریووں کو طے کرتا ہوا راجوری سے گزر کر قاسم خاں کے خیموں میں اترا۔ یہ راہوں کو پاک صاف کرتا ہوا جاتا تھا۔ یہاں سے کئی رستے جاتے تھے۔ ہر رستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ کار آگاہ ان کو دیکھنے گئے۔ انجمن رازگوئی جمع ہوئی تو تحقیق ہوا کہ سب راہوں میں بہتر راہ گریوہ ہستی ونر کی ہے مگر وہ برف و باراں کے سبب سے دشوار گزار ہے اس لیے پیر پنجال کی راہ اختیار کی گئی۔ شاہزادہ بزرگ کو حکم ہوا کہ لشکر میں جاکر سلطان خسرو اور چند اہل حرم کو لے آئے۔ مرزا کیقباد پسر مرزا حکیم بیمار ہو گیا اس کو اسی منزل میں چھوڑ دیا۔ شیخ فیضی کو اس کا تیماردار مقرر کیا۔ یہاں سے چلکر بھبھر میں پادشاہ آیا۔ یہ ایک موضع گریوہ رتن پنجال کی تلیٹی میں واقع ہے یہاں سے کشمیری زبان بولنے کا آغاز ہوتا ہے پادشاہ نے فرمایا کہ ملک آپس میں کوہ و دریا و لہجوں و زبان سے جدا ہوتے ہیں کشمیر کی سرحد نخستین بھمبر ہے۔ پرستش کو اس سرحد پر اگرچہ پادشاہ تنہا جاتا تھا۔ مگر

اس پاس ہر منزل میں ہزاروں آدمی جوق جوق نیازمندی کے لئے چلے آتے تھے۔ یہاں
گریوہ بانی نائکوں کے سرگروہ بہرام نایک نے کورنش کی محمد بہت اور کشمیر کے سردار
باریاب ہوئے۔ پھر پادشاہ بیرم کلہ میں آیا۔ یہاں بکاولوں سے کچھ لغزش ہوئی۔
اُن کی نگہبانی ابوالفضل کو سپرد ہوئی۔ اثنا رراہ میں مرزا یوسف خاں کشمیر سے آنکر
کورنش بجالایا۔ اس دیار کے بہت سردار باریاب ہوئے۔ پھر پادشاہ پوشانہ
میں آیا۔ یہاں عجیب درخت و چنار و پھول دیکھے بہت سے ندیوں پر پُل باندھے تھے ان
سے عبور رہوا۔ کشمیری پل کو کدل کہتے ہیں۔ آگے منزل میں دو کروہ پر برف تھی پادشاہ
کے ہمراہی ڈرے۔ مگر پادشاہ نے اُن کی دلدہی کی۔ یہاں کی رسم ہے کہ برف پر لوگ
علف شالی کی رسیوں کی پاپوش پہنکر چلتے ہیں۔ بہت سے آدمی اس طرح گئے۔ پادشاہ
اس برف پر گذرا۔ یہاں کی کس کس بات کا ذکر کیا جاوے۔ جاڑے کی سختی کا برف کی شدت
کا یا ہندی شہزادوں کی سراسیمگی کا۔ گریوہ کی بلندی کا یا راہ کی تنگیوں کا۔ یا منزل کے
نشیب و فراز کا۔ یا چشموں و درختوں و پھولوں کا۔ ہر ایک عجیب و غریب ہے جب پادشاہ
چلا تو مینھ اور اولے برسنے شروع ہوئے۔ مگر کسی کو گزند نہ پہنچا۔ ایک گھنٹہ بڑی شدت سے
مینھ برسا۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے بعض آدمی برف میں اکڑ کر رہ گئے۔

یہاں خاص و عام میں زبان زد ہے کہ پہلے حکیموں نے ان دو راہوں میں ایسا طلسم بنایا
ہے کہ جب کبھی بھاری لشکر کا گذر ہو اور گھوڑے کو ذبح کریں یا نقارہ کو بجائیں تو تھوڑی
دیر میں کالی گھٹائیں اُٹھتی ہیں اور برف و باراں کی ریزش ہوتی ہے۔ ہر بار کہ اس راہ
سے لشکر گذرتا یہی ہوتا تھا۔ چونکہ پادشاہ نے اپنا اغروق طلب کیا تھا۔ راہ کی دشواریاں
اس کو معلوم ہوئیں۔ حکم ہوا کہ جو امیر پادشاہ کے ساتھ ہیں وہ خدمتگزار کار دانوں
کو منزل بمنزل بٹھادیں کہ بھنبر سے ہیرہ پور تک ہر منزل میں خیمہ و ہیمہ و علف و اسباب
خوردنی کو آمادہ رکھیں کہ اہل حرم کو تکلیف نہ ہو۔ پادشاہ ہیرہ پور میں آیا۔ یہاں

مرزا یوسف خاں نے خیمہ و خرگاہ آراستہ کر رکھا تھا بھنبر سے جو گروہ آگے آتا تھا وہ پہلے سختیوں کو بھول جاتا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھنبر سے ہیرپور تک ایک گریوہ ہے کہ تنگی و دشواری و نشیب و فراز میں اور ناہمواری میں بے مثل ہے درخت نہار کی نیرنگی و پھولوں کی شگفتگی اور ہوا کی شگرفی اور آبشاروں کی نغمہ سرائی ہر وقت متحیر کرتی تھی اور راہ کی آزردگی کو دل سے کھوتی تھی۔ لیکن آج کوہستان سے دشت میں گذر ہوا عجب نمائش نظر آئی ایک دوسرا عالم دکھائی دیا۔ ایک نئی بہشت نے اس دشت میں اپنے منہ سے نقاب اُٹھایا جو سبب بینی کی عادت رکھتے ہیں وہ تو یکبارگی راہ کی محنت کو بھول گئے اور ترف نگاہ خدا پرستوں کو اور ہی خرمی ہوئی۔ گروہا گروہ آدمی ریاضت کیش خدا پژوہ اور عمامہ دار دانش گرا اور ہنرمند نادر کار اور خنیاگران جادو نفس دار الملک کشمیر سے آنکر باریاب ہوئے اور خسروانی نوازش سے سرافراز۔ آج خانخانان اہل حرم کے لینے کے لیے گیا۔ مرزا کیقباد اور فیضی بھی آگئے پادشاہ دیو میں آیا۔ وہاں شاہزادہ بزرگ تنہا آیا اور عرض کیا کہ راہ کی دشواری سے اہل حرم نہیں آسکتے۔ اس نافرمانی پر پادشاہ ناراض ہوا اور شاہزادہ کو کورنش کی اجازت نہیں دی اور اس سے ایسا غصہ میں آیا کہ اہل حرم کے لانے کو خود چلا مگر اخلاصمندوں کی فہمائش سے واپس آیا۔ خانخانان کو اہل حرم کے لانے کا اہتمام سپرد ہوا۔ پادشاہ خانپور میں آیا وہاں ایک درخت پھل تل دیکھا جسکا تنہ تنومند تھا شاخیں بہت پتے بہ کثرت تھے۔ اگر اُسکی پتلی شاخ کو بھی ہلاتے تو سارا درخت ہل جاتا۔ اگرچہ چھوئی موئی کے درخت بہت ہوتے ہیں مگر اس قسم کا کہیں نہیں ہوتا۔

پادشاہ کا دارالملک کشمیر میں آنا ۹۹۴

۲۵ رخرداد کو شہر سری نگر میں پادشاہ آیا۔ یوسف خاں مرزبان کے کاخ میں اُترا اور حکم دیا کہ کوئی لشکری رعیت کے گھر میں نہ اُترے۔ دار الملک لاہور سے سری نگر تک ۷۹ کروہ ۷ بانس کا فاصلہ ہے اگرچہ کروہوں کے اعتبار سے یہ فاصلہ دور و دراز نہیں ہے مگر نشیب فراز ناہموار ہونے کے سبب سے بہت دور

اور دشوار نما ہے۔ بادشاہ جن راہوں میں کہ پیادوں کا گزر نہیں ہوتا گران لشکر اور ہاتھیوں کے
ساتھ آیا۔ سری نگر ایک بڑا شہر لمبا آباد ہے۔ رود بار بیلت (جہلم) اُسکے درمیان بہتا ہے۔
اس میں چوبیں کاخ پنج منزلہ بنے ہوئے ہیں۔ اور ان کوٹھوں پر زنگارنگ کے لالہ وگل
بوتے ہیں وہ بہار میں گلستان معلوم ہوتے ہیں۔ یہاں اور ہندوستان میں برسات
ایک ہی وقت میں ہوتی ہے۔ توران اور ایران کی طرح یہاں بھی برف بہت پڑتی ہے۔
کمی بارش سے یہاں کے کشت وکار میں نقصان نہیں ہوتا۔ ۲۸ کو شہاب الدین پور کی
سیر کو بادشاہ آیا۔ وہ دریا بہت پر عجب دلکشا جگہ ہے۔ چنار یہاں آسمان پر کھینچے ہیں
سبزہ زار پر نظر کا پاؤں لغزش کھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر وہاں استخواں پا اور آلائش
پھینک دو تو صبح کو اس کا نشان نہیں ملتا۔ روحانی گروہ اُس کو رُفت و روب کر دیتا ہے
مگر بادشاہ نے جب اس کا تجربہ کیا تو ثابت ہو گیا شاگردوں نے مبالغہ کیا ہے اور احمقوں نے
اُسے یقین کر لیا ہے۔ ۳۱ کو شاہزادہ بزرگ کو حکم ہوا کہ اغروق کو ہمراہ لائے۔ شاہزادہ کو اپنی
پہلی خطا پر شرمندگی تھی وہ بار بار اسکی درخواست کرتا تھا بادشاہ نے اُسے منظور کر لیا بادشاہ
نے یہاں مرغابی کا شکار کیا۔ بوشانہ میں وہ اغروق شاہی سے جا ملا۔

اردوئے بیگمات کے اغروق کا آنا

شاہزادہ سلطان مراد و خانخانان و قاسم خاں نے راہ کو درست کیا بہت کہاروں
نے کوشش کی۔ غرض یہ سب ملکہ بادشاہ کے اہل حرم کو لے آئے جس سے بادشاہ
کو نہایت مسرت اور نوکروں کو عزت حاصل ہوئی۔

بادشاہ کی فراست کے لطیفے

(۱) بادشاہ نے سُنا تھا کہ یوسف مرزبان کشمیر نے ایک محل کے اوپر سے اپنی بیوی
کو نیچے پھینکدیا تھا۔ جب بادشاہ اُس کے محلوں کو دیکھنے گیا تو اُس بنے وہ محل بتا دیا۔ جس پر
سے اُس نے اپنی بیوی کو پھینکا تھا (۲) جگن ناتھ مکان کے نہ ملنے سے شاکی تھا اور چاہتا
تھا کہ قرابیگ کے مکان میں رہوں۔ کوٹھے کے اوپر سے وہ بادشاہ کی کورنش بجالایا تو
بادشاہ نے فرمایا کہ تو مجھ سے بہت دور اُترا ہے قرابیگ کے مکان میں آن رہو (۳) سحر کو کسی

گانے والے کی آواز پادشاہ کے کان میں آئی تو اُس نے نقیب خاں سے کہا کہ کوئی شخص گانے والے کی عمر اس کی آواز سے بتا سکتا ہے۔ بہت سوچ کے اس نے جواب دیا کہ گانیوالے کی عمر چالیس پچاس برس کے درمیان ہوگی تو پادشاہ نے فرمایا کہ نہیں بیس تیس سال کے درمیان ہوگی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اسکی عمر پچیس سال کی تھی۔ (۴) اس زمانہ میں مریم مکانی نے پادشاہ پاس آنے کی خواہش کی تو پادشاہ نے فرمایا کہ جواب میں اس شعر کو جو ابھی کہا گیا ہے عنوان بنائیں ~~

حاجی سوئے کعبہ دواز برائے حج　　　　یارب بود کہ کعبہ بیاید بسوئے ما

۲۳ رکو ہاشم بیگ پسر قاسم خاں پکلی کی راہ درست کرنے کے لیئے بھیجا ارادہ یہ تھا کہ اس طرف سے مراجعت ہو اسلیے بہت سے خارا شگاف سنگتراش اور سخت بازو بیلدار ہمراہ کردیئے۔ زین خاں کو حکم ہوا کہ اٹاجائے اور لشکر عظیم اور آدمیوں کو رہتاس پہنچائے۔ اور خود راہ پکلی سے واپس آئے دریا رفو روی جھکر رہ پیمائی ہے جس سے طرح طرح کی نشاط ہوتی ہے اسیلیے کامراج کی سیر کا کشتی میں ارادہ کیا۔ اس ملک میں تیس ہزار سے زیادہ کشتیاں تھیں مگر پادشاہ کے سفر کے لائق ایک بھی نہ تھی۔ پادشاہ کے کارآگاہ خدمتگاروں نے تھوڑے دنوں میں یہ کاہار دریائی تیار کیئے اور دریا پر گلزار لگا دیا۔ ہزار کشتیوں سے زیادہ پادشاہ کے مقربین کے لیے تیار ہوگئیں اور دریا کے اوپر ایک شہر آباد ہو گیا۔ ۲۴ رتیر کو پادشاہ مع اغروق کے کشتیوں میں سوار ہوا دریا کے دونوں طرف نظر فریب گلزار اور نشاط افزا سبزی چشم افروز ہوتی تھیں کئی روز سفر کرکے پادشاہ جلکہ نندی مرگ میں آیا۔ یہاں تین ہزار بگیہ زمین نہایت ہموار و خرم و شاداب ایسی دیکھی کہ دنیا میں اُس کی مثل کمتر ہوگی۔ یہاں پادشاہ سیر و شکار کرتا رہا ۲۹ رتیر کو پادشاہ کو گرانی ہوئی اور ایک دن سخت درد رہا۔ دوسرے دن اچھا ہوگیا پادشاہ بھی ایسا قوی مزاج تھا کہ کئی دفعہ سخت بیمار ہوا اور جلد اچھا ہوگیا اگر کوئی اور ایسے مرضوں میں مبتلا ہوتا تو مشکل تھا کہ وہ

جلد اچھا ہوتا۔

اس گلشن ہمیشہ بہار کے تماشے نے پادشاہ کو نیائش دادار میں گرم تر کیا۔ سیر کے بعد بازگشت کا ارادہ کیا۔ غرہ امرداد کو لنگر اٹھا اور بگلی کی راہ پر چلا خلکہ نندی مرگ میں آیا اس روز رینا باریاب ہوا۔ یعقوب کشمیری جس کا اوپر ذکر ہوا پادشاہ کی شکوہ دیکھکر خواب سے بیدار ہوا اور اس نے یہ چاہا کہ پادشاہ سے عہد و پیمان کرکے اس کی آستان بوسی کرے پادشاہ نے جو آدمی اُس کی طرف سے آئے واپس کیے اور اس کے غدروں کو سُنکر گناہ معاف کیے یعقوب نے اس سبب سے کہ بڑے جرم کیے تھے اپنے بھائی کو بھیجا کہ بخشائش کا مژدہ وہ سُناکر اس کے خوف کو دل سے دور کرے یہ اس کا بھائی اپنے کام میں کامیاب ہوکر واپس گیا۔

پادشاہ کی مجلس مشورہ میں یہ امر قرار پایا کہ کابل کو سفر کیا جائے۔

نہم امرداد کو پادشاہ سری نگر میں آیا۔ یہاں قریش سلطان کاشغری پادشاہ پاس آیا ۱۳ امرداد کو ست پور کے نزدیک مقام ہوا۔ راہ میں باغ صفا کی سیر کی یہ باغ مرزا حیدر کا لگایا ہوا تھا۔ پھر کشتی سے اُتر کر خشکی میں پٹن میں پادشاہ آیا فیضی اور میر شریف املی کو بہت کچھ روپیہ دیکر شہر میں بھیجا کہ حاجتمندوں اور گوشہ نشینوں میں تقسیم کریں۔ خود سری و سرتابی کے سبب سے یعقوب تنگنا رکھنواڑ میں سراسیمہ تھا۔ پادشاہ کے آنے سے اُس کو یہ خوف تھا کہ مبادا یہاں کے زمیندار اس کو گرفتار کرکے پادشاہ کے حوالہ کردیں۔ جب اس کے بھائی نے جاکر بخشائش کا مژدہ سُنایا تو اسکی آسیمہ سری کم ہوئی اور لابہ گری بڑھی اور اپنی رستگاری سوا پادشاہ پاس آنے کی نظر نہ پڑی لیکن اپنے کو تنگوں سے بہت ڈرتا تھا۔ مرزا یوسف خاں کی معرفت ایک عرضداشت بھیجی جس میں لکھا کہ جوانی کی مستی اور بدگوہروں کی دمسازی سے جو کچھ مجھپر گزرا سو گزرا اب حضور اپنی پاپوش بھیجیں کہ میں اُس کو سر پر رکھکر

پادشاہ پاس یعقوب کے بھائی کا آنا ۹۹۴

پادشاہ کا کابل کی طرف جانا اور یعقوب کشمیری کا پادشاہ پاس آنا ۹۹۴

بار برداری کشمیر ۹۹۴

پابوس ہوں - ۱۸ ارامرداد کو وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔اس ملک میں خشکی میں باربرداری کا کام آدمی کرتے ہیں اور بڑا بھاری بوجھ اُٹھاتے ہیں اور پہاڑوں پر اس طرح چلتے ہیں جیسے کہ ہموار زمین پر۔بہت سا اسباب یہ گروہ اُٹھا کر چلا تو عجب تماشا نظر آیا۔ بادشاہ بارہ مولہ میں آیا یہ دروازہ کشمیر ہی۔ اس کے ایک طرف اونچا پہاڑ ہی دوسری طرف دریا بہت جوش کرتا ہوا ہندوستان کو آتا ہی اور اُس کے درمیان ایک تنگ راہ ہی یہاں کشمیر کے فرماں روایوں کے آدمی بھی رہتے ہیں اور کسی آدمی کو بغیر نوشتہ کے پاسبان نہیں جانے دیتے۔ زین خاں کو کہ پکلی سے آیا اور رود بار سندھ کو روانہ ہوا کہ وہاں پل بنائے ۔۲۳ رکو آب بہت سے بادشاہ گزرا پھر بادشاہ منزل بمنزل چلکر بولیاس میں آیا یہاں ولایت کشمیر ختم ہوئی۔ملک متنگ آغاز ہوا۔ ۴ ارشہر یور کو دریا ر سندھ کے کنارہ پر اٹک بنارس کے نزدیک بادشاہ آیا اور دھم بھر کو کابل میں آیا۔

حسین خاں و محمد خاں و ابوذر خاں و غازی خاں ولوھر چک حسین فتنہ اندوزی کے خیال سے بادشاہ کے پاس سے بھاگ گئے۔جمون کی راہ سے پہاڑوں میں آن کر علی رنیا کی پناہ میں آئے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پیر ہلائیں۔کاربردازان کشمیر نے پکڑ کر اُن کو مار ڈالا۔

یعقوب و رینا دونوں بھائی بھاگنے کی گھات میں لگے رہتے تھے ۔بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ جو لوگ پناہ میں آئے ہیں اُن کو سزا دے اسلیے اس نے انکو حسن بیگ گرد کے حوالہ کیا کہ وہ راجہ مان سنگھ پاس ان کو پہنچا دے کہ اپنے بنگاہ سے وہ دور ہو جائیں اور آرام سے رہیں حسن بیگ نے ہمراہیوں کے تین توپ بنائے ایک کو زہ وزاد کے ساتھ کیا۔ ایک گروہ کو اپنے ساتھ لیا تیسرے گروہ کو یعقوب کا پاسباں بنایا اس نے اپنے تئیں بیمار سنگاسن پر جاتا۔حیلہ سازوں نے غل مچایا کہ رہزنوں نے پرتال پر ہاتھ ڈالا حسن بیگ نے ہمراہیوں کو اس طرف بھیجا تو رینا نے جو اس کام میں شریک تھا دفعۃً مشعلچی

کو تلوار مار کر شکار کیا حسن بیگ کو زخمی کیا حسن بیگ نے لپٹ کر رینا کو زیر کیا اور مار ڈالا۔
اس عرصہ میں یعقوب کے کوکہ محمد نے ایک خنجر حسن بیگ کے مارا اُس نے اسے بھی پکڑ کر
زمین پر پٹکا اور یعقوب و رفتنہ پردازوں کو گرفتار کر لیا۔

پادشاہ کا دوسری دفعہ کشمیر کو جانا سنہ ۱۰۰۰

مدت سے پادشاہ کا دل کشمیر کی سیر کی طرف لگ رہا۔ مگر بعض آدمی دشواری راہ
کے سبب سے اسکے مانع ہوتے تھے۔ بعض پادشاہ کی خوشی کے لیے پہاڑوں کی سختی کو آسان
کہتے تھے مگر اسکے ساتھ عرض کرتے تھے کہ اس کوہسار میں پادشاہ کا جانا قلمرو کی ہر طرف سے
ایک سال کی راہ پر دور کر دیگا۔ بعض پادشاہ کی نہفتہ دانی کے معتقد کہتے تھے کہ پادشاہ
کا ارادہ جو یہ ہوا ہے اس میں ضرور فرخی ہے غرض باوجود ان آدمیوں کی بازداشت
اور باد و باران کے طوفان کی ۱۲ رامرداد سنہ ۱۰۰۰ھ کو پادشاہ چل کھڑا ہوا اہل حرم کو
بھی ساتھ لیا۔ راہ میں ایک عورت اپنے بیٹے کو پادشاہ پاس لائی۔ اور عرض کیا کہ ہر سال
اس کا سر بڑھتا ہے اور گردن دبلی ہوتی ہے کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی حضور اس کا علاج
بتلائیں۔ پادشاہ نے کہا اسکے سر پر ایک چمڑے کی تنگ ٹوپی پہنا دے بڑھیا نے یہی کیا
جس سے اس کا بیٹا اچھا ہو گیا۔ ۲۸ رکو پادشاہ چھتہ میں آیا تو کشمیر کی شورش کا حال
اظہر من الشمس ہو گیا۔

شورش کشمیر سنہ ۱۰۰۰

راز دار مرزا یوسف خاں نے کشمیر کی جمع کی فزونی کو عرض کیا تو قاضی نور اللہ
و قاضی علی تحقیق کے لیئے بھیجے گئے اب مرزا کے گماشتوں نے دیکھا کہ رشوت کا دروازہ
ان پر بند ہوا تو وہ مایوس ہو کر تباہ سگالی کرنے لگے۔ قاضی نور اللہ نے مرزا کے نوکروں
کی یہ سازگاری اور تباہ سیجی پادشاہ سے عرض کی۔ اس اطلاع پر بعض بد نہاد طلب
ہوئے حسین بیگ شیخ عمری پادشاہی آدمیوں کی یاوری کے لیے بھیجا گیا۔ اب مرزا
یوسف کے اکثر گماشتے اور ملازم ہمداستان ہو کر فتنہ سازی پر آمادہ ہوئے اور اُنھوں نے
کمال الدین حسین کو جو احدیوں میں سے تھا اپنا سردار بنانا چاہا جب اس نے انکار کیا تو

مرزا یوسف کے عمزادہ یادگار کو دستاویز آشوب بنایا۔ اور وہ فتنہ اٹھاتے اور
اپنا نقصان کرتے اس گروہ کے اندر کسی کے ہاں حسین بیگ کے ایک نوکر کی شادی
ہوئی تھی اس نے انکی رہنمونی سے انکار کیا تو اس گروہ نے اس کا گھر جا گھیرا اور حسین بیگ
شیخ عمری پر بھی تیروں کا مینھ برسایا۔ اسکے آدمی موجود نہ تھے اس نے دروازہ کھول کر ہمت
کی۔ قاضی علی اور شیخ بابا نے درمیان میں پڑ کر شورش کو دبا دیا پھر یہ گروہ گریوہ ماران
پر گیا اور وہاں ایک ہنگامہ برپا کیا۔ حسین بیگ نے آدمیوں کو ان سے لڑنے کے لیے جمع
کیا اور کچھ لڑا اور صلح چاہی۔ مخالفوں کے چند آدمیوں کو پیماں کرکے مار ڈالا۔ قریب تھا کہ
ان تبہ سگالش کردار میں آئے ناگریز حسین بیگ و قاضی علی شہر سے نکلکر قلعہ ناگرنگر میں
آگئے اور بے پروائی کے سبب خواب غفلت میں سو گئے۔ ۱۲ رامرداد کو وہ گزروں کو
بند کرکے ناسپاسی میں بیٹھے۔ تعجب یہ ہے کہ بادشاہ اسی روز لاہور چلا تھا کہ چند سرکشوں نے
فالیز کی سیر کا بہانہ کرکے یکجہتی کا پیمان کیا تھا حسین بیگ قاضی علی کی ہمت نے یاوری
نہیں کی کہ تیز دستی کرکے اس سورش کو مٹاتے۔

جب بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو وہ تیز تر روانہ ہوا۔ غرہ شہریور کو دریا چناب کے
کنارہ پر پہنچا۔ باوجود بارش کی طوفان کے اس نے یہاں سپہ کو آراستہ کیا گذر چوگانی
سے کشتی میں سوار ہوا۔ بہر کو معلوم ہوا کہ مرزا کی تمام سپاہ کشمیروں سے مل گئی ہے۔
جب یادگار شہر سے نکلا اور قاضی علی اور حسین بیگ اس سے کچھ نہ بولے تو وہ کام رلج
کو چلا گیا اور وہاں بدگوہروں کے ہنگامہ نے رونق پائی اس وقت وہ بے پروائی کے
خواب سے بیدار ہو کر اس کے پیچھے دوڑے کچھ کام نہ کیا اور اپنا منہ لیکر واپس چلے آئے اگرچہ
مرزا کے فرزند اس سے نہیں ملے اور اولیاء دولت نے بھی انکی یاوری نہیں کی۔ مگر جب
یادگار شہر پر آیا باغ الہی کے نزدیک تھوڑی سی لڑائی سے غلبہ پایا تو قاضی و حسن بیگ
ناگریز دریا سے گذر کر شہر میں آئے پل کو دونوں گروہوں نے ویران کیا۔ باغیوں نے

تو اس خیال سے کہ ان کے آدمی ان سے نہ جُدا ہو جائیں۔ پادشاہی آدمیوں نے اسلیے کہ باغی شہر کے اندر نہ گھس آئیں قاضی علی نے یہ کہا کہ فتح علیخاں ججگلی پاس پناہ لینی چاہیے اور وہاں کمک کا انتظار کرنا چاہیے حسین بیگ نے کہا کہ مرزا حسین خاں کے آدمی سب ناسپاس ہو رہے ہیں وہاں پہنچنا بہت دشوار ہے۔ ناگریز ہندوستان کی طرف چلیں۔ ہیرہ پور کے نزدیک ایک شخص نے ناشناسائی سے نقارہ بجایا۔ اس سے راہ بانوں نے مطلع ہو کر پلوں کو توڑ دیا۔ ناکام دریا میں چلنا پڑا کچھ ڈوبے کچھ گرفتار ہوئے۔ حسین بیگ قاضی علی اور چند بدخشی دریا سے نکلکر چلے۔ پیر پنجال کی راہ بند تھی۔ گریوہ ہستی و تر کی راہ لی۔ سخت تگاپو کرکے اور تیراندازی کا کارنامہ دکھاکے رہائی پائی۔ راہ کے نشیب و فراز سے قاضی بالکل تھک کر بیٹھ گیا۔ گرفتار ہو کر مارا گیا۔ حسین بیگ کو زمیندار لوٹ کر مارنا چاہتے تھے کہ اجوری کے رئیس بھنبر نے پہنچکر اسے بچا لیا۔

جب پادشاہ کو یہ اطلاع ہوئی تو وہ تیز تر چلا۔ زین خاں کو کلتاش کو حکم ہوا کہ راہ سوا سے سپاہ کو اس طرف لائے۔ اور صادق برنج کی راہ سے آئے۔ شمالی کوہسار کے زمیندار جمو سے چلیں۔ پنجاب کے اقطاع دار اور عمل گزار پُردل زمینداروں کو دلاسا دیکر روانہ کریں۔ پنجم شہر پور کو شیخ فرید بخشی بگی کو پادشاہ نے روانہ کیا۔ غرض اس برف ریزی میں ہر طرف سے پادشاہ نے سپاہ روانہ کی کہ سرکشوں کی سزا میں دیر نہو۔ ابوالفضل نے دیوان لسان الغیب میں جو فال دیکھی تو یہ دو بیتیں نکلیں۔

ابیات

آں خوش خبر کجاست کزیں فتح مژدہ داد ۔۔۔ تا جاں فشانمش چو زر و سیم در قدم

از بازگشت شاہ دریں طرفہ منزل است ۔۔۔ آہنگ خصم او بہ سراپردۂ عدم

اس دن پادشاہ نے دوربینی کے سبب سے مرزا یوسف کو ابوالفضل کے حوالہ کیا۔ جب اس کا نوازہ کشمیر سے آیا تو اُسے رہا کیا۔

جب یادگار گل پاس زر پرست مگس خو جمع ہوئے اور اولیار دولت کا حال یہ ہوا تو یوسف مرزا کے بیٹوں نے اُسے لابہ گری کی۔ اس نے گرم خوئی اور تازہ روئی کے ساتھ انکو ہندوستان بھیجدیا اور دریا سے گذر کر مرزا کی منزل گاہ میں آیا خزینہ و زرینہ و فیل و اسپ توپ و رمال اس نے لیا۔ منبر پر اپنا خطبہ پڑھوایا سکہ پر اپنا نام جموایا۔ ان دنوں میں اسکو تپ لرزہ آیا۔ پھر کن اسکی پھر کھودتا تھا کہ ایک فولاد کا ریزہ اُڑکر اسکی آنکھ میں لگا۔ جس سے لوگوں نے جانا کہ اس کا اقبال زود زوال ہے۔ سماجت سے اس نے فرومایوں کو بڑے بڑے خطاب دیئے۔ ہزاری و بازاری کے نام بزرگوں کے سے رکھ دیئے۔ وہ جانتا تھا کہ سب راہیں بند پڑی ہیں۔ بادشاہ کو اس حال کی اطلاع جلد نہیں ہوگی اگر ہوگی تو یقین نہیں آئیگا۔ اگر یقین ہوگا بھی تو اس ریزش ابر میں سپاہ بہت دیر میں جمع ہوگی جاڑا آجائیگا اس سردسیر ملک میں سپاہ کا آنا دشوار ہوگا۔ جب ایک سال گذر جائیگا تو میرے پاس وہ سامان جمع ہوجائیگا کہ مدتوں سے کبھی وہ کسی مرزبان کشمیری پاس جمع نہ ہوا ہوگا یہ باتیں سوچ کر یار غاروں کے ساتھ بزم بادہ گساری آراستہ کرتا اور بیہودہ باتیں بکتا۔ مرزا کے اندوختوں کو اُڑاتا اور اسکے ناموس پر دست دراز کرتا اور ردوستی اور رشتہ مندی کا بہانا بناتا جب اس نے سُنا کہ مرزا قید میں پڑا ہے تو ناچار اس نے زہ وزاد مرزا روانہ کیا۔ تتہ کے نزدیک بدنہادوں نے اسکے لوٹنے کا ارادہ کیا مگر بادشاہ نے بھی اسکے لانے کے لیئے بابری مرزاؤں میں سے حاجی میرک کو کچھ سپاہ کے ساتھ بھیجا تھا وہ اس پاس پہنچ گئے تو وہ بچ گیا یکبارگی بادشاہ کے آنے کا آوازہ سب جگہ بلند ہوگیا تو یادگار بیدار ہوا۔ اور اُس نے ایک عرضداشت بادشاہ کو بھیجی کہ حسین بیگ شیخ عمری کا ارادہ یہ تھا کہ مرزا شاہرخ کے بیٹے کو بدخشاں سے اس دیار میں لائے اور دست آویز شورش اسکو بنائے۔ میں اُس سے آویزش کے لیے تیار ہوا اس نے سخن سازی کرکے مجھے بدنام کیا اس کا جواب ابوالفضل نے بادشاہ کے ارشاد کے موافق لکھا۔

جب یہ دستان فروشی کارگر نہ ہوئی تو اُس نے درویش علی کو بہت سپاہ کے ساتھ گریوہ کو روانہ کیا۔ اور اسکی استواری میں کوشش کی۔ پادشاہی سپاہ ہر طرف سے پہنچ گئی تھی شیخ فرید بخشی بیگی اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گریوہ کے نیچے پہنچ گیا اور ۲۶ رشہریور کو ہراول درہ میں گئی اور برانغار و جرانغار آمادۂ پیکار ہوئے۔ درویش علی نے گریوہ پر دو دیواریں بنائیں اور لڑنے کا قصد کیا جابجا آدمی لڑنے کو بٹھادیئے۔ پادشاہی ہراول نے غنیم کو شکست دی اور جرانغار سے بھی لڑائی ہوئی اس نے دشمن کے بہت آدمی مارے چار آدمی پادشاہ کی سپاہ میں مرے۔ برانغار نے غنیم کا ایک سرکوب بے جنگ لے لیا آگے راہ نہ تھی۔ اسلیے ہراول اُلٹا چلا آیا۔ ہراول اور جرانغار نے تیز دستی کرکے گریوہ کیر تل لے لیا۔ کچھ مویشی لے لیئے۔ ایک شخص نے وہاں گھوڑے کو نادانستہ ذبح کیا اسلیے ادب بہت ہے۔ صبح کو گریوہ اگرم بال سے گذر کر دائرہ کیا۔ تدبیر یہ تھی کہ گریوہ ہتی وتر میں کہ پانچ گروہ پر ہی جائیں نیش ردوں نے اُسے خالی سمجھکر تیز دستی کی۔ غنیم کمر کوہ میں آمادۂ جنگ تھا مگر صبح وہ پراگندہ ہوگیا۔ دوم مہر کو شکر شاہی گریوہ کو طے کرکے بہیرہ پور میں آیا۔ وہاں ایک تن بے سر نظر آیا جو یادگار کا تھا جسکی سرگزشت یہ ہے کہ یادگار کو معلوم ہوا کہ گریوہ کو پادشاہی سپاہ نے لے لیا تو اُس نے عادل خاں کو ایک گروہ کے ساتھ سری نگر روانہ کیا اور خود بہیرہ پور میں آیا دوسرے روز آدمیوں کو کچھ روپیہ دیکر آگے روانہ کیا۔ شہباز خاں نیازی و ابراہیم خاں کا کرو ابراہیم میانہ سارو بیگ شاملو و حسین بیگ وصلو و یار بیگ ازبک و ملک محمد اور مرزا کے چند اور نوکروں نے آپس میں عہد کیا اور کمین گاہ میں بیٹھ گئے۔ جب آدھی رات ہوئی تو اللہ اکبر کا نعرہ مار کر غارت کرنا شروع کیا یادگار سراپردہ سے نکلکر صحرا میں گیا۔ صرف ایک نوکر یوسف نامی اسکے ساتھ تھا۔ کچھ راہ چلکر ایک بوتہ کے پناہ میں بیٹھا اور ہمراہی کو گھوڑا لانے کو بھیجا۔ بعض پادشاہی آدمیوں نے لوٹ پر خیال نہ کیا تھا اس کی تلاش کے درپے تھے کہ دفعتہً سارو بیگ کی نگاہ یوسف پر پڑی اس کو شکنجہ میں کھینچا۔

یادگار گل کا سر آنا سنہ ۱۰۰۰

ناچار اس نے سرگزشت کو بیان کیا اسکی رہنمونی سے یادگار گرفتار ہوا۔ اور صلح کی باتیں کرنے لگا کہ شہباز خاں نے آن کر اس کے دوش کو سر کے بوجھ سے ہلکا کیا۔ ۲۶ر مہر کو بھمبر کے نزدیک متھرا داس اس کا سر بادشاہ پاس لایا۔ اکیاون روز یادگار کا ہنگامۂ فساد برپا رہا جس کا خاتمہ اس طرح ہوا اس سال میں بادشاہ کو چاروں طرف فتوح ہوئیں۔ مرزبان ٹھٹہ مطیع ہوا۔ سیوستان حوالہ کیا۔

سنہ ۱۰۰۰ھ فتوحات متوالی۔ بادشاہ کا سفر کشمیر

اڑیسہ فتح ہوا۔ مشرقی دیار کے سرتابوں نے اطاعت اختیار کی جوناگڈھ و سومنات فتح ہوئے۔ مظفر گرفتار ہوا۔ یادگار کل بے سر ہوا۔ کشمیر کی شورش مٹی۔ اسیر جبرہ دستی ہوئی۔

۱۴ر کو بادشاہ سیر کے لیے آگے بڑھا۔ اغردق کو شاہزادۂ دانیال کے ساتھ رہتاس روانہ کیا۔ اور فرمایا کہ اول دفعہ بہار کے جلوے دیکھے تھے۔ اب خزاں کے عشوے دیکھے جائینگے۔ پہلے جمال کی پردہ کشائی تھی اب جلال کی نمایش ہوگی۔ بھمبر سے بادشاہ منزل بمنزل اسی سڑک پر چلا۔ کہ جس کا حال برف سے ایسا شکستہ ہو رہا تھا کہ بادشاہ کا گھوڑا پھسلکر گر پڑا۔ ۲۳ر کو سری نگر دارالملک کشمیر میں آیا۔ راہ میں ایک چنار کا تنہ کھوکھلا ایسا دیکھا کہ اس میں بادشاہ کے حکم سے ۳۴ آدمی بیٹھے۔ اگر اور زیادہ پاس پاس آدمی بیٹھتے تو کئی اور آدمی سما جاتے۔ باوجودیکہ یادگار ناسپاس کا بالکل ستیاناس ہوگیا تھا۔ مگر یہ مشہور ہو رہا تھا کہ بادشاہ نے سب چھوٹے بڑوں کی جانوں کے شکار کرنے کا حکم دیدیا تھا اس لیے سب آدمی پراگندہ ہوگئے کوئی دہ آباد نہ تھا ہر چند پیش رو آدمیوں کو دلاسا دیتے تھے مگر ان کو یقین نہیں آتا تھا مگر جب ان کو بادشاہ کی محبت کا یقین ہوا تو وہ دشت آوارگی سے شہر میں آئے۔ بادشاہ کی بخشش و بخشایش سے خوش ہوئے۔ کارشناس ہر طرف دوڑے اور ناسپاسوں کو پکڑ کر لائے۔ جو شورش کے خمیر مایہ تھے ان کو سزا ملی۔ عادل بیگی قلندری کا لباس پہن کر دکن کو بھاگ گیا جنھوں نے سرکشی سے کنارہ کیا وہ بلند پایہ ہوئے۔ بادشاہ نے بے موسم پہلے بھی

مرغابی کا شکار کیا تھا مگر موسم کے سبب سے ایکی دفعہ اس شکار سے بڑا لطف اُٹھایا۔ دوم آبان کو
بادشاہ کے تلادان کا جشن ہوا ابوالفضل نے چودہ ہزار آدمیوں کو خواستہ دیا۔ اسلیے آباد ملک
میں چور اور گدا کم تھے اس زمانہ میں لوگ خیانت کرتے تھے اور بہت ناخوش و بے صبر رہتے تھے۔

نہم آبان کو بادشاہ زعفران زار کی سیر کے لیے کشتی میں سوار ہوا یہ ایسا گلزار تھا کہ جسکی
شادابی و نشاط بخشی اور خوشبوئی دنیا میں سب سے بڑھکر تھی۔ زعفران نیلوفر کی مانند ہوتا
ہے لیکن دل افروزی اسکی بیان نہیں ہوسکتی ۱۲ مہر کو دیوالی کا جشن ہوا بادشاہ کے حکم سے
دریا کے کناروں پر اور کشتیوں میں اور کوٹھوں پر چراغ روشن کیے گئے۔ عجب تماشا تھا۔

اسی روز شمس الدین چک کی بیٹی بادشاہ کے حرم سرا میں داخل ہوئے۔ اس سرزمین
کے بزرگ زمینداروں کے تابع کرنے کے لیے مبارک خاں حسین چک کی بیٹی کا نکاح شاہزادہ
سلطان سلیم سے ہوا اور اسی طرح کی اور کئی شادیاں ہوئیں۔ مرزا کیقباد پسر مرزا حکیم شراب
پینے کے سبب سے قید ہوا ایک سپاہی بادشاہ کے روبرو پیش ہوئی کہ وہ پانی سے اور ہاتھ کے
مٹانے سے محو نہ ہوئی تھی اور خط کو جواب نہ کرتی تھی بادشاہ نے اس کو کارآگہوں کو دکھایا۔

یہاں کی آب و ہوا ایسی خوش اور بادشاہ کے مزاج کو سازگار تھی کہ اس نے یہ
ارادہ کیا کہ موسم سرما یہیں بسر کیجیے لیکن گرانی اشیا ایسی تھی کہ سب چھوٹے بڑوں
کا ناک میں دم آیا تھا اور اس ملک کے جاڑے کی برداشت بھی لشکر کو جو گرم سر ملک کا
رہنے والا تھا دشوار تھی اسلیے بادشاہ نے بازگشت کا ارادہ کیا بادشاہ کا ارادہ تھا
کہ مرزا یوسف خاں کو کشمیر حوالہ کرے مگر اس نے جمع میں چوں و چرا کی اتفاق سے
قاضی علی کی فراہم کی ہوئی جمع کی کتاب ہاتھ لگی جس سے مرزا کی قلعی کھل گئی وہ شرمندہ
ہوا۔ بادشاہ نے کشمیر کو خالصہ بنا کے خواجہ شمس الدین کو سپرد کیا تین ہزار سوار ہمراہ
کیے۔ ۲۰ آبان سنہ ۱۰۰۰ھ کو کشتی میں سوار ہو کر ہندوستان کو روانہ ہوا۔ ۲۳ کو کول
ایسر پر گذر ہوا وہ ایک بڑا آبگیر ہے گرد اس کا ۲۰ گروہ ہے۔ دریائے بہت (جہلم) اسکے

زعفران زار کی سیر و دیوالی

بادشاہ کی بازگشت ہندوستان کو سنہ ۱۰۰۰ھ

اندر ہو کر ہندوستان میں آتا ہی سلطان زین العابدین نے اسکے درمیان بہت تکلف سے
ایک سنگین صفہ بنایا جس کا طول ۱۹۱ گز اور عرض ۸۲ گز لمبا۔ اسپر محل بنائے جو اب تک
یادگار ہیں اور پھر اور رمز بانوں نے نشیمن وہاں بنائے۔ نظام الدین اپنی طبقات اکبری
میں لکھتا ہی کہ بادشاہ نے راہ میں زین لنکا کی سیر کی۔ یہ ایک حوض ہی کہ اس کے غرب
جنوب شمال میں پہاڑ ہی اور اسکا دورہ ۳۰ کروہ (۶۰ میل) ہی دریا جہلم اس حوض کے اندر
سے ہوتا ہوا گذرتا ہی اس کا پانی نہایت صاف ہی۔ حوض کے درمیان سلطان
زین العابدین نے پتھر ڈلوا کر ایک جریب کے قریب چبوترہ پانی سے بلند کیا اور
اس پر عمارت عالی بنائیں۔ اس کی نظیر ملک میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کی سیر
کر کے بادشاہ بارہ مولہ میں آیا اور وہاں سے پکھلی میں۔ یہاں بہت برف اور مینھ
برسا وہاں سے بادشاہ ایلغار کر کے رہتاس میں آیا نظام الدین خواجہ فتح اللہ کو
حکم ہوا کہ اہل محل کو آہستہ آہستہ پیچھے لائیں۔ غرائب واقعات میں سے یہ ہی کہ
جب بادشاہ نے کشمیر سے معاودت کی تو فرمایا کہ چالیس سال سے برف برسنا
میں نے نہیں دیکھا اور اکثر میرے ہمراہی وہ ہیں جنھوں نے ہند میں نشو و نما پایا ہی انھوں نے
بھی اسے نہیں دیکھا۔ اگر نواح پکھلی میں ایک دفعہ برف کی بارش ہو تو الطاف
الٰہی سے بعید نہیں ہی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پکھلی میں بادشاہ ایک مہینے بہ سبب برف
بارش کے مقیم رہا۔ پھر رہتاس میں تیرہ روز رہا۔ اور ۱۳ ربیع الاول ۹۹۵ اردی
کو بادشاہ لاہور میں داخل ہوا۔

کشمیر کی سیر کو بادشاہ کا تیسری دفعہ جانا ۱۰۰۵ سنہ ۴۲

بادشاہ کا ارادہ تھا کہ جب آگرہ سے کشمیر جائے سب چھوٹے بڑے گریووں کی سختی
بیان کرتے۔ بعضے کہتے کہ سپاہ دکنیوں سے لڑ رہی بادشاہ کشمیر کیونکر جا سکتا ہی کہ

ناگاہ دکن کی فتح کی خبر آئی ۱۲ر فروردین کو بادشاہ نے کوچ کیا ۲ر اردی بہشت کو
بادشاہ ایمن آباد میں آیا۔ کہسار کشمیر کی ہوا اور دشوار گذاری وہ دیرکشائی آزمندوں
سے شورش مچواتی ہے۔ سبک اسر فرمایوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک غوری زاد جنیل اس ملک
میں بدخشیوں سے ملا اور مکاری سے اپنی تئیں عمر شیخ پسر مرزا سلیمان بنایا۔
مرزا سلیمان کی ناکامی کے زمانہ میں حصار میں لونڈی کے پیٹ سے ایک بیٹا پیدا ہوا
تھا اس کا یہ نام رکھا گیا تھا جب مرزا حصار سے نکلا تو اس کو اوزبک خاں عمزادہ
عبداللہ خاں پاس بھیجدیا۔ وہاں وہ مرگیا بعض کہتے ہیں اس کو لوگوں نے مارڈالا
بعض کہتے ہیں کہ وہ چیچک سے مرگیا۔ بعض کہتے ہیں وہ زندہ رہا۔ اس حیلہ پرداز نے
شورش مچائی اور پوشیدہ ہزار بدخشی اور بہت سے کشمیری اپنی ہمراہ کرلیے
ابھی اس کا پردہ فاش نہیں ہوا تھا کہ بادشاہ کی آمد کا آوازہ بلند ہوا تو اسی کے چند
رازداروں نے اس کو پکڑ کر محمد قلی بیگ ترکمان کو حوالہ کیا۔ اس منزل میں بادشاہ
پاس اُس کو لائے۔ وہ اپنی سزا کو پہنچا اگر بادشاہ یہ سفر نہ کرتا تو وہ بڑی شورش مچاتا
۱۷ر کو شکار کرتا ہوا قصبہ گجرات میں جس کو اس نے آباد کیا تھا اور ۲۳ر کو قصبہ بھمبر
میں آیا۔ یہاں اپنی سپاہ کے دس حصے کیے ایک حصہ اپنے لیے دوسرا حصہ اہل حرم
کے لیے تیسرا حصہ شاہزادہ سلیم کے لیے اور سات حصے ہر روز کے لیے کشک دار رکھے۔ غرہ خرداد
کو گریوہ سے نکلا۔ ۶ر کو راجوری میں جشن کیا ۱۱ر کو پیر پنجال سے برف کو کاٹ کر
اور ملک باہر آیا۔ ۱۴ر کو ہیرہ پور میں آیا۔ یہاں جال نگری کی سیر کو گیا یہ شہر پہلے مرزبان
نشین تھا اسکی ویرانی پہلی آبادی کو بتلاتی ہے۔ ۱۵ر کو نیچہزارہ میں آیا مرزا یوسف خاں
نے پشتہ پر شہر بند بنایا تھا۔ بادشاہ نے اس کا نام اکبرپور رکھا اس کا آباد کرنا
محمد قلی بیگ کے سپرد ہوا۔ مجھی بھون کی سیر کرکے خان پل کے نزدیک کشتی میں
آیا۔ پھر گھوڑے پر سوار ہو کر شکار کھیلا۔ منزل بمنزل چلکر ۲۸ر کو شہر ناگر نگر میں آیا۔

سری نگر کے پاس ایک بلند پہاڑ ہی۔ اسکے نزدیک ایک بڑا آبگیر ہی۔ بادشاہ نے اس سرزمین میں شہر کا آباد کرنا پسند کیا تھا۔ مرزا یوسف خاں نے اُسے آباد کیا۔ کئی نشیمن اور گلی فصیل بنائی سپاہ نے بھی اس میں اپنے لائق گھر بنائے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ قلعہ سنگین بنایا جائے ایک ایک حصّہ اس کا امیر کو سپرد ہوا۔

بادشاہ کو یہاں معلوم ہوا کہ اقطاع واروں کے ہاتھ سے سخت ظلم ہوتا ہی اس ملک سے غلہ لیا جاتا تھا اسکی بجائے وہ زر و سیم طلب کرتے ہیں۔ کار شناسی سے کل جمع طلب کرتے ہیں جس سے بڑی خرابیاں پھیل رہی ہیں۔ بادشاہ نے گروہا گروہ آدمیوں پر جمع معاف کر دی اور گزیدہ آئین مقرر کیے جس سے ظالموں کو سزا ہوئی کشت ورزوں کو جن کا نقصان ہوا تھا فائدہ ہوا۔ بادشاہ نے مہربانی کر کے ان کی دستگیری کی۔ سارے ملک کے چودہ حصّے کیے ہر ایک میں دو محرر ہندی و ایرانی مقرر کیے کہ دونوں کے خام کاغذ پڑھکر کاشتہ و افتادہ و برگرفتہ زمین سے آگاہی ہو اور آدھی جنس محصول میں لیکر باقی کاشتکاروں کو دی جاے۔ اس انتظام کا حال آگے پڑھو گے۔

بارش کی کمی نے اور کسانوں کی پراگندگی کے سبب سے اجناس گراں بہا ہوئیں اگرچہ بادشاہ کی سپاہ کے آنے نے اس بلا کی سختی کو بڑھایا لیکن شہنشاہی نوازش نے اس کو گھٹایا۔ شہر میں بادشاہی حکم سے بارہ جگہ سب چھوٹے بڑوں کی خوراک تیار ہوتی۔ ہر یکشنبہ کو عیدگاہ میں صلاے عام ہوتی اور وہاں چند آدمی بادشاہ کے پاس سے جا کر خواہشگروں کو خواستہ و خورش دیتے۔ اسی ہزار بھوکوں محتاجوں کا کام نکلتا۔ قلعہ جو بن رہا تھا اس میں بھی بہت سے غریب آدمی لگ کر پیٹ پال لیتے۔ مزدوری کر کے جانکاہی سے بچتے۔

دوم تیر کو بادشاہ کوچ پر کوچ ناگر نگر کے قریب آیا اس پر مرزا یوسف خاں نے دلنشین

بادشاہ کا سفر -

کاغ بنائے تھے ایک محل میں تین سوزینہ تھے - پھر شہاب الدین پورا اور زین لنکا کی سیر کی
انھیں دنوں میں بادشاہ کی فرمائش سے ایک جہاز ایسا جیسا کہ سمندر میں چلتا ہے بنایا گیا
اس میں بیٹھکر بادشاہ نے دریا بہت (جہلم) کی سیر کی -

روشنی بیت

اس ملک کی قدیم رسم ہے ۱۳ ربھادوں شکل پکش کو سب چھوٹے بڑے روشنی اور پوجا
کرتے ہیں - کہتے ہیں کہ دریا بہت جو شہر کے اندر بہتا ہے اس شب کو پیدا ہوا تھا - اسکی
سپاس گذاری میں یہ خوشی ہوتی ہے اس سبب سے بادشاہ نے فرمان بھیجا کہ کول کے
کنارہ پر اور پہاڑ پر - کشتیوں پر چراغوں کی روشنی ہو - اس روشنی سے عجب نورستان
نمایاں ہوا - اس روز فرمائش سے ایک لکنا کاغ بادشاہ کے لیے تیار ہوا - اُسکو
کشمیری زبان میں لری کہتے ہیں - بادشاہ نے اس میں جشن کیا پھر بادشاہ مختلف مقامات
کی سیر کرکے تاگ نگر میں آیا - یہاں خزاں میں سیب شفتالو و انگور و چنار کی فصل تیار
دیکھی - یہاں کی خزاں کی رنگ آمیزی بہار پر بہت جگہ طعن کرتی - بیت

ذوق فنا نیافتۂ ورنہ در نظر ... رنگیں تر از بہار جلوۂ خزاں

بادشاہ تین مہینے ۲۹ دن اس مصر نوآباد میں رہا -

برسات کا موسم تھا اس ملک میں بھی بارش ہوتی تھی اس میں خوب سیر ہوتی تھی ارادہ
تھا کہ زمستان اسی عشرت گاہ میں بسر ہو - لیکن مہر کے شروع میں سخت جاڑا پڑنے لگا
اور گرم سیر ملک کے رہنے والوں پر سخت مشکل پڑی - بادشاہ نے اس سبب سے مہربانی
کرکے اپنے ارادہ کو موقوف کیا - گلزار زعفران کی سیر کرکے ہندوستان کو پیرپنچال
کی راہ سے مراجعت کا ارادہ کیا - امرا کو زر دیکر پہلے روانہ کیا کہ منازل کو آراستہ
کریں - ۲۵ رکو بادشاہ نے کشتی میں سوار ہوکر ہندوستان کا ارادہ کیا - زعفران زار
میں پہنچکر سات روز تک قیام کیا - پھر منزل بمنزل سیر و شکار کرتا ہوا سوم آذر ۱۰۴۲؁
کو لاہور میں بادشاہ آیا ایک ماہ دس روز راستہ میں لگے - ۲۷ رکو کوچ ہوئے -

راجہ بانسو اپنے قلعہ کی استواری کے سبب سے پادشاہ کا ناسپاس ہوا اور بہت سے زمینداروں کو اپنے ساتھ کرلیا۔ جب لشکر شاہی یہاں آیا تو کچھ زمیندار اُس سے جدا ہوکر پادشاہی لشکر سے آن ملے اور وہ خود قلعہ دشوار گذار میں چلا گیا پادشاہ کی سپاہ نے قلعہ کو گھیرا۔ مگر غرض پرستاری نے کار نیزہ دہی سے باز رکھا جب مرزا رستم کو پادشاہ نے بلا لیا تو اور پادشاہ کے ملازموں نے یکتا دلی کر کے خدمت گری میں کمر ہمت چست کی۔ دو مہینے تک لڑتے رہے ایک طرف سے آصف خاں نے اور دوسری طرف سے تاش بیگ خاں نے۔ تیسری طرف سے ہاشم بیگ نے اور چوتھی طرف سے محمد خاں نے کار طلب پُردل ناموس دوست خدمت گذار آدمیوں کو لیکر قلعہ کو گھیرا تو بانسو قلعہ سے نکلکر اور استوار جا میں چلا گیا۔ پادشاہی سپاہ نے قلعہ لے لیا۔ اس کا گھربار لوٹ کر جلا دیا۔ کئی برس بعد پادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ بانسو زمیندار مئو نے حدود پٹھان کو غارت کیا اور وہاں کے کسانوں کو سخت آزردہ کیا۔ اور بعض کو زبردستی پکڑ کر اپنے پاس لے گیا۔ تاج خاں چاہتا ہے کہ اُس کے دفع کرنے کے پئے متوجہ ہو۔ جموں کے زمیندار نے بھی پرگنہ مظفر وال و بہلول پور پر دست درازی کی یہ دونوں جگہ حسین بیگ شیخ عمری کے تیول میں تھیں وہ رہتاس سے ان کی سزا دہی کے لیے آیا قلیچ خاں صوبہ دار پنجاب کو حکم ہوا کہ ان بدگوہروں کے آشوب کو دور کرے۔ سزا دل بھیجے گئے کہ حسین بیگ شیخ عمری و تاج خاں و احمد بیگ اور سب اس صوبہ کے ملازم حسن قلیچ خاں کے ہمراہ ہوں خواجہ سلیمان بخشیگری کی خدمت پر اس فوج پر مقرر ہوا۔ پادشاہ کے حکم سے حسین بیگ شیخ عمری نے قلعہ جموں کا محاصرہ کیا۔ زمیندار رنگر کوٹ و زمیندار مئو اور سارے مرزبان اور پہاڑی وگنہ لکھن پور کے وجسرو تہ و ہانگوٹ کے زمیندار اس زمیندار کی کمک کو جمع ہوئے اور اُنھوں نے بہت کوشش کی مگر ناکام واپس گئے۔ رات کو بھاگ گئے

رام گڈھ و جسرو تہ و جمو ۔ مانکوٹ ۔ لوکو بست پادشاہی لشکر نے فتح کر لیے ۔

جب پادشاہ دکن کو گیا تو بعض سرکشوں نے ابیا چک پسر حسین خاں کو سردار بنایا اور فتنہ اُٹھایا ۔ علی قلی پور محمد قلی و کلب علی و شاہ بیگ نکدری بھاگ نگر کے قریب ان سے لڑے اور فتحمند ہوئے ۔ ایسے ہی کمراج میں ایک گروہ نے فتنہ برپا کیا تھا جمیل بیگ نے تیلہ گانوں میں انکی مالش کی وہاں امن و امان ہو گیا ۔

کشمیر کے فرمان دہوں کی نسل میں سے بعض گروہ چک کا تھا ۔ باپ دادا کے ملک کے لیے کبھی کبھی انکے دل میں اُمنگ آتی تھی ۔ اکثر حوالی کشمیر میں وہ فتنہ اُٹھاتے ۔ کشتوار ان سرکشوں کی پناہ گاہ تھا یہاں مرزبان کی مالش کے لیے محمد قلی مع آزمودہ کار آدمیوں کے پہلے روانہ ہوا ۔ حاکم کشتوار نے وکلا کو بھیجکر اطاعت کا اظہار کیا اور عہد و پیمان کر کے علی قلی پاس چلا آیا ۔ شکاری جانور باج میں دیئے اور عہد کیا کہ مفسدان چک کو کبھی اپنی ولایت میں نہیں گھسنے دونگا اور ہر وقت پادشاہ کا دولتخواہ رہونگا ۔ محمد قلی کو کشتوار کی مہم سے اطمینان ہوا ۔ اور وہ چکون کی سزا کے لیے کوہ مرد میں جہاں وہ جمع تھے گیا ۔ باوجودیکہ آفتاب برج میزان میں تھا ۔ اور گریوہ برف سے ڈھکے پڑے تھے اور رستے مسدود تھے ۔ کمال ہمت و جرأت کر کے بہت سے لڑنے والوں کو پیادہ پا لے گیا ۔ ابیا چک و حسین چک سے لڑا اور فتح حاصل کی ۔ یہ دونوں زمیندار ہزار دشواری سے جان سلامت لے گئے ۔ رات کو زیدا زمیندار نے ان بھگوڑوں کو ساتھ لیکر پادشاہی لشکر پر شبخون مارا پادشاہی سپاہ خوب لڑی ۔ جب صبح ہوئی تو وہ بھاگ گئے ۔ محمد قلی نے لشکر کے گرد خندق کھودی اور بڑی ہوشیاری اور آگاہی کے ساتھ بیٹھا ۔ ان سرکشوں نے امید و بیم کی داستان پڑھی کچھ ان میں سے عہد و پیمان کر کے محمد قلی پاس آگئے ۔ ابیا چک و حسین چک زیدا و جباری اور اور زمیندار لڑنے کے لیے صف آرا ہوئے ۔ محمد قلی تہور کر کے ان سے لڑنے گیا سخت جنگ ہوئی اور سرکشوں کو شکست ہوئی ۔ پادشاہی سپاہیوں نے انکی بنگاہ پر پہنچکر سارا

سنہ ۱۰۱۲ سنہ ۴۹ مرزبان کشمیر کی سرکوبی و مرزبانان سنہ ۱۰۰۹ سنہ ۴۶ کا خاتمہ

گھر بار انکا جلا دیا۔ دوسرے روز پاینده بیگ برادرزاده محمد قلی نے ان کو تنگ کیا۔
زیدا بوی بیچاره پاینده پاس آیا۔ بندگی کا اظہار کیا اپنے بیٹے کو مع چند شکاری جانوروں کے
محمد قلی پاس بھیجا اور یہ عہد کیا کہ پھر فتنہ اندوزی نہیں کرونگا اور مفسدوں کا یار نہ ہونگا۔
اسی طرح اور زمینداروں نے اطاعت کی اور اپنے بیٹوں کو برغمال میں دیا۔ محمد قلی اس طرح
فتحمند ہو کر شہر کو چلا آیا۔ باسو کی داستان پہلے لکھ چکے ہیں۔ وہ ان دنوں میں شاہزادہ
سلیم پاس آیا اور پا بوسی کی درخواست کی شاہزادہ کی سفارش سے بادشاہ کی ملازمت
سے مشرف ہوا۔ یہیں ٹھہر گیا۔ جب بادشاہ زادہ کا رنگ بگڑا تو بادشاہ نے مادھوسنگھ برادرزادہ
راجہ مانسنگھ کو حکم دیا کہ باسو کو پکڑے مگر باسو ایسا ہوشیار تھا کہ وہ یہاں کا رنگ دیکھکر بات
کو سمجھ گیا اور پہلے اس سے کہ مادہوسنگھ اس کو گرفتار کرے بھاگ گیا۔

معاملات تبت

جب سلطنت شاہی پر کشمیر کا اضافہ ہوا تو تبت خرد کے حاکم علی رائے نے بادشاہ
سے درخواست کی کہ میری لڑکی شاہزادہ سلیم سے بیاہی جائے۔ بادشاہ نے منظور
کرلیا۔ یہ بیاہ ہوگیا۔

جب بادشاہ کشمیر میں تھا تو اس کا ارادہ تھا کہ تبت کی فتح کے لیے لشکر روانہ
کرے مگر سپاہ کے لیے چالیس روز کا آذوق بہم پہنچنا خشک سالی کے سبب سے
دشوار تھا اس لیے بادشاہ کا ارادہ ہوا کہ تبت کے فرمانروا کو نصیحت کی جائے۔ امید علی
ہولک طالب اصفہانی و محمد قلی کشمیری کو خرد تبت کے مرزبان علی زاد (علی رائے) پاس
اور ایوب بیگ سلیم کاشغری و عبدالکریم کشمیری و کوکلتاش کو حاکم بزرگ تبت پاس روانہ
کیا۔ اس بزرگ تبت کی سپہ رائے و وزیر راجو رائے نے بدمستی سے ناسپاسی کی۔ یہاں کے
مرزبان نے لشکر جمع کرکے اس کے اقطاع کے لیے وہ سرتاب آوارہ ہوا ان دنوں میں علی زاد

حاشیہ: ... ۱۰۰۷ھ ... ۱۰۰۸ھ

بزرگ تبت کی حاکم کی دشمنی پر آمادہ ہوا اور اُس کے وزیر کی بدگوہری سے چیرہ دستی حاصل
کی اور اس کو پکڑ کر اسکی نشگاہ پر چڑھ گیا اور بہت خزانہ جمع کیا بہت مقامات پر قبضہ کیا
جب بادشاہ کے لشکر کا آوازہ سُنا تو پہلے مرزبانوں کی نسل میں سے ایک شخص کو
یہاں حاکم مقرر کر کے خود چلا گیا۔

محمد علی زاد کی شورش کا بیجا ہونا سنہ ۱۰۱۲ / ۲۸

جب تبت بزرگ پر علی زاد کو فتح ہوئی اور بہت دولت ہاتھ لگی تو اس کا دماغ آشفتہ
ہوا۔ حوالی کشمیر میں فساد مچایا۔ بادشاہ نے قلیج خاں صوبہ دار لاہور کو حکم دیا کہ ایک جماعت
شائستہ محمد علی حاکم کشمیر کی کمک کے لیے بھیجے کہ اس پشہ بدمست کو کہ خود سری کے
گنبد میں طن طن کے رہا ہی مسل ڈالے قلیج خاں نے تین ہزار سوار و پانچسو برق انداز
بسر کردگی سیف اللہ خاں محمد قلی بیگ کی یاوری کے لیے مقرر کیے۔ سیف اللہ اس کا
بیٹا تھا علی زاد بغیر لڑے بھاگ گیا۔ بادشاہی لشکر جہاں تک گھوڑے جاسکتے تھے جا کر الٹا چلا آیا

زمین کشمیر و زعفران کا محصول سنہ ۱۰۰۲ / ۳۷

ہندوستان میں زمین کی تقسیم بیگھوں وبسوں میں ہوتی ہی اسی طرح کشمیر میں زمین کی تقسیم
پتہ میں ہوتی ہی کہ ایک بیگہ وبسوہ الٰہی گز کا پتہ ہوتا ہی۔ اور کشمیر میں ڈھائی پتہ کسرے زائد
کو بیگہ کہتے ہیں۔ ہر دہ کی پیداوار کا حساب خروار شالی میں ہوتا ہی اور خروار شالی ۳ من
۷ سیر بادشاہی کی ہوتی ہی۔ تلائی کا وزن ترک ہی اور ترک ۸ سیر کا ہوتا ہی۔ فصل ربیع میں
ایک پتہ کی پیداوار میں سے جس میں گیہوں۔ جو۔ سرسوں ہوں دو ترک بادشاہ کو
محصول میں دیئے جاتے ہیں فصل خریف میں ایک خروشالی مونگ۔ موٹھ۔ ماش دو ترک
اور گال وارزن میں سے چار ترک محصول شاہی میں دیئے جاتے ہیں۔ بادشاہ نے اس
خیال سے کہ جو ملک نیا فتح ہوا اس میں جمع مالگزاری بڑھانے سے کسان پریشان ہوتے
ہیں اور یہاں کسان سپاہی ہیں اس لیے پہلے جمع میں بیس لاکھ خروار شالی پر
دو لاکھ کے اضافہ پر بس کی مگر سنہ ۱۰۳۱ میں یہ جمع ۳۱ لاکھ خروار شالی ہو گئی۔
بادشاہی عملداری سے پہلے زعفران میں تین پھول سے زیادہ نہ کھلتے تھے۔ اور محصول

شاہی بیس ہزار سے زیادہ اور سات ہزار ترک سے کمتر نہ ہوتا۔ صرف ایک دفعہ مرزا حیدر
کی مرزبانی میں ۴۸ ہزار ترک پر نوبت آئی تھی۔ لیکن جس سال میں وہ خالصہ شاہی
ہوا نوے ہزار ترک محصول شاہی وصول ہوا اگرچہ کچھ زمین کاشت زیادہ ہوئی تھی مگر
محصول کی افزائش کا سبب یہ تھا کہ ہر درخت میں آٹھ پھول کھلتے تھے بادشاہ نے
پچپن رسمیں محصول کی معاف کردیں جنسے رعایا کو بہت تکلیف ہوتی تھی ان کے معاف
ہونے کا یقین کسانوں کو مدتوں تک نہ آیا جب بادشاہی احکام جاری ہوئے تو انکو
یقین ہوا۔ ان میں سے ایک زعفران کی داستان ہے۔ بازرگان و دہقاں محصول
شاہی ادا کرنے کے لیے زعفران کے صاف کرنے کے لیے حصے کرتے۔ گیارہ
ترک میں ایک کو مزدشمار کرتے لیکن بوجہ خشک زعفران اور ترہ لیا جاتا جس سے
بڑا نقصان ہوتا خاصکر موسم بارش میں ایک پرانی رسم یہ تھی کہ بہت دور سے رعیت
للرکیال کاٹ کرلاتی اور اگر نہ کاٹتی تو اسکی عوض میں روپیہ دیتی ایسے ہی بڑھئی
و جولاہے اور پیشہ وروں سے محصول لیا جاتا تھا یہ سب بادشاہ نے موقوف کیے۔

بھکر اور ملک سندھ کے معاملات

محب علی خاں کی بیوی ناہید بیگم تھی وہ اپنی ماں حاجی بیگم سے ملنے ٹھٹہ گئی تھی۔ یہاں
ان دنوں میں محمد باقی منتظم تھا اس نے حاجی بیگم سے ایسا نا ملائم سلوک کیا کہ وہ آزردہ
خاطر ہوئی اور خان بابا و مسکین ترخاں کے ساتھ متفق ہوکر محمد باقی کے گرفتاری کے
درپے ہوئی۔ اس امر سے مطلع ہوکر محمد باقی نے خان بابا کو مار ڈالا اور حاجی بیگم کو جبتک
وہ مری قید رکھا۔ ناہید بیگم اپنی دلاوری اور تدبیر سے یہاں سے نکلکر بکر (بھکر) کو چلی
گئی۔ یہاں سلطان محمود فرمانروائی کرتا تھا۔ اُس نے اس بیگم کے ساتھ دوستانہ
باتیں بناکر یہ کہا کہ اگر محب علیخاں اور اس کا بیٹا مجاہد یہاں تھوڑے آدمیوں کو ساتھ

لیکن ان حدود میں آجائیں تو میں انکے ہمراہ ہوکر اولیا ر دولت کو ٹھٹھہ پر قبضہ کرا دوں۔ سلطان محمود نے فقط دفع الوقتی کے لیے یہ مداوات کی باتیں بنائی تھیں بیگم اُن کو سچ سمجھکر بادشاہ پاس گئی اور بہت گڑ گڑائی۔ بادشاہ نے محب علیخاں اور مجاہد خاں کو جانے کی اجازت دی۔

ناہید بیگم قاسم خاں کوکہ کی بیٹی تھی اس نے باپ نے حضرت فردوس مکانی کے ساتھ یہ بڑا سلوک کیا تھا کہ جب وہ عبید اللہ خان کے محاربہ میں غنیم کے پنجہ میں گرفتار ہوا تو قاسم خاں نے کہا کہ بادشاہ میں ہوں اور یہ میرا نوکر ہے۔ یوں فردوس مکانی کی جان بچ گئی اور وہ خود مارا گیا۔ اس لیے حضرت فردوس مکانی نے اسکے اہل و عیال کی پرورش پدرانہ شفقت سے کی اور محب علیخاں سے اسکا عقد نکاح کیا۔

جب محب علیخاں بھکر کے قریب آیا تو سلطان محمود نے کہا کہ میں نے تو ایک بات یوں ہی ناہید بیگم سے بنا دی تھی۔ میں اس کام میں شریک نہیں ہونگا اور اگر آپ ایسے ہی ٹھٹھہ جانے پر بجد ہیں تو جیسلمیر کی راہ سے جائیں اس پر محب علیخاں اس سے لڑائی کو مستعد ہوا۔ حدود ماتیلہ (ماتھیلہ) پر دونوں لشکر ملے۔ محب علیخاں مجاہد خاں پاس دو سو آدمی تھے۔ سلطان محمود نے دو ہزار آدمی انسے لڑنے کو بھیجے۔ مگر اس کمتر لشکر نے بزرگ تر لشکر کو شکست دیکر بھگایا۔ سلطان محمود قلعہ بھکر میں متحصن ہوا۔ محب علیخاں نے اب قلعہ کی تسخیر کا ارادہ کیا تو مخالفوں کی جمعیت میں تفرقہ پڑا۔ انمیں سے مبارک خاں خاصہ خیل جس پر سلطان محمود کے سارے کاموں کا مدار تھا وہ پندرہ سو آدمیوں کو لیکر محب علیخاں سے ملگیا جس کا سبب یہ تھا کہ اس کے بیٹے اونغلی بیگ کو سلطان محمود کی کسی حرم کے ساتھ بدذاتوں نے متہم کیا تھا اس لیے محمود اس خاندان کے استیصال کے درپے ہوا۔ مبارک خاں نے جان کے خوف سے اپنے آقا کے اخلاص کو چھوڑ کر یہ مفارقت کی محب علیخاں نے مال و منال کی طمع سے لسے

مار ڈالا اور اس کے آدمیوں کو کہ نجاست کی مکھیاں تھیں تسلی دیکر بھکر کے محاصرہ میں شامل کر لیا۔ سلطان محمود نے لوازم قلعہ داری کا اہتمام کیا مگر اس حصار میں قحط پڑا معلوم نہیں فرط احتیاط سے یا مزید خست و دنارت سے باوجودیکہ غلہ بہت تھا مگر بیس تیس سالہ اناج جو ایک زمانہ دراز سے قلعہ میں جمع ہوا تھا آدمیوں کو کھلایا جس سے ان کے جسم میں درد اور ورم پیدا ہوا اور وبا پھیلی۔ سرس کے درخت کے پوست کو جوش کر کے پینے سے آدمیوں کو آرام ہو جاتا تھا۔ جب سلطان محمود کو زمانہ نے یوں تنگ معاش کیا تو اس نے پادشاہ کو عرضداشت بھیجی کہ میں ہمیشہ پادشاہ کا مطیع فرمانبردار رہا ہوں جو کچھ ہوا سو میری بدنصیبی سے ہوا اب قلعہ بکر کو شاہزادہ سلیم کے پیشکش کرتا ہوں لیکن مجھ میں اور محب علیخاں میں بیر ہے اس کو قلعہ حوالہ کرنے میں سوا رخواری کے کچھ اور نظر نہیں آتا اس کے آزار سے ایمن نہیں ہوں امیدوار رہوں کہ حضور بندگان درگاہ میں سے کسی اور کو بھیجدیں کہ میں یہ قلعہ اور ولایت اس کو حوالہ کر کے خدمت میں حاضر ہوں پادشاہ نے اس درخواست پر میر گیسو کو بھیجا مگر وہ بھکر میں پہنچنے نہیں پایا تھا کہ سلطان محمود پاس حضرت عزرائیل آ گئے۔ اہل قلعہ اسکے آنے کے منتظر تھے۔ مجاہد خاں نے گنجابہ (گنجابہ) کا محاصرہ کر رہا تھا۔ سامعہ بیگم والدہ مجاہد خاں زوجہ محب علیخاں میر گیسو کے آنے سے ناراض ہوئی چند غراب بھکر اس سے لڑنے کا سامان تیار کیا اور اس کو بہت تنگ کیا۔

خواجہ مقیم ہروی پدر خواجہ نظام الدین حسن بخشی نے جو اس نواح کی امینی کے لیے روانہ ہوا تھا محب علیخاں کو سمجھا کر اس پرخاش بیجا اور جنگ ناہنجارت باز رکھا۔ جب میر گیسو قلعہ میں آیا تو اہل قلعہ نے کنجیاں اس کو حوالہ کیں اب محب علیخاں اور مجاہد خاں کو یہ مشکل آئی کہ خام طمعی کے سبب سے اس ملک کے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا اور حکم شاہی بغیر یہاں رہ نہیں سکتا تھا آخر کو یہ ٹھہرا کہ مجاہد خاں ٹھٹہ جائے اور محب علیخاں مع زہ وزاد قصبہ لوھری (روڑی) میں سکونت کرے جب اس قرار داد پر عمل ہوا

تو میر گیسو نے کشتیوں میں ایک جمع کثیر کو بٹھا کر محب علیخاں پر چڑھائی کی۔ اس میں تاب مقاومت نہ تھی وہ ماتھیلہ کی طرف بھاگا۔ آینوالوں نے شہر پر دراز دستی کی۔ سامعہ بیگم نے اپنی حویلی کو مستحکم کیا اور محاربہ و مدافعہ کی تیاری کی۔ ایک رات دن تک اپنی چار دیواری کی محافظت تہور اور کاردانی سے کی۔ جب وہ تنگ ہو رہی تھی تو مجاہد خاں ایلغار کرکے آیا اور دشمنوں کو شکست دی اور دریا کے اس طرف متصرف ہوا پھر بھکر میں ترسون خاں مقرر ہو کر آیا اس کے بھائی اس طرف آئے۔ میر گیسو چاہتا تھا کہ قلعہ کو مستحکم کرے مگر اس خیال فاسد سے باز رہا اس سرزمین کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی بیگانہ مستقل ہو کر غرور افزا ہوتا ہے تو ارباب طاعت کو متمرد بناتا ہے ورنہ یہاں کے آدمی کہاں اور خود فروشی کہاں۔ اب بھکر پر بادشاہی قبضہ ہوا۔ ٹھٹہ میں مرزا جانی فرمانروائی کرتا تھا جس کا آگے بیان ہوتا ہے۔

بادشاہ نے ایک سپاہ بسرکردگی خانخاناں قندھار کی فتح کے لیے روانہ کی تھی اور اس کو حکم دیا تھا کہ مرزبان ٹھٹہ کو جو بادشاہ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا ایک کار آگاہ بھیجکر نصیحت کی داستان سنائے۔ اگر وہ خود ملے یا لشکر ہمراہ کرے تو بہتر ہے ورنہ بازگشت کے وقت اس کو سزا دے بادشاہ کا جشن ۹۹۹ھ میں تھا کہ ٹھٹہ کے ایلچی بادشاہ کے دربار میں آئے عرضداشت اور پیشکش گزرانی۔ یہ گزارش کی کہ حماقت سے جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اگر نوید بخشائش مرزبان کو پہنچے تو پہلے لغزشوں کا چارۂ پذیر ہو شہریار نے ایلچیوں کو امیدوار کیا اور دلدہی کا منشور لکھ دیا۔ خانخاناں کے اقطاع میں ملتان اور بھکر تھی تو اس نے غزنین اور بنگش کی راہ چھوڑ کر اپنی جاگیر کی سربراہی کے لیے یہ در از راہ اختیار کی اس اثنا میں زر پرستوں نے خانخاناں کو سمجھایا کہ ٹھٹہ میں جتنا مال ہاتھ لگے گا اتنا قندھار میں نہیں ہاتھ آئے گا سپہ آرا نے ٹھٹہ کے فتح کی اجازت حاصل کی۔ ملتان کے قریب بلوچ عہد و پیمان کرکے ملے۔ بھکر کے قریب سپاہ کی صف بندی ہوئی۔ انھیں دنوں میں مرزا جانی بیگ فرمانروائے سندھ کے ایلچی

عساکر اکبری کا ٹھٹہ پر حملہ ۹۹۹ھ

خانخانان کے پاس آئے اور یہ گذارش کی کہ قندھار کی فتح کو لشکر شاہی جاتا ہے مجھے مناسب تھا کہ اس لشکر کے ساتھ جاتا۔ لیکن فتنہ اندوز شرارت سے باز نہیں آتے اس واسطے خود نہیں چل سکتا۔ مگر خدمت گزاری کے لیے اپنا لشکر بھیجتا ہوں۔
خانخانان نے ان آینوالوں کو ایک کونہ میں بٹھایا۔ خود تیز تر چلا اُسی کے ساتھ یہ اطلاع آئی کہ قلعہ سیوان میں آگ لگی آندھ دیتہ جلا۔ بادشاہ کی سپاہ یہ سُنکر دشت و دریا میں ڈگیں بھرنے لگی۔ دریا نوردوں نے قلعہ سیوان کے نیچے جاکر لکھی کو تسخیر کر لیا۔ یہ مقام سندھ کا دروازہ ایسا ہی جیسے کہ ملک بنگالہ میں گڈھی اور کشمیر میں بارہ موله قلعہ نشینوں کی توپ و بندوق سے کچھ آسیب نہ پہنچا اور یہ ملک کا دروازہ ہاتھ آگیا۔
پھر خانخانان قلعہ کے نزدیک پہنچکر اس کی فتح کے لیے چارہ گری کرنے لگا۔ بعض اس ملک کو سیوستان کہتے ہیں۔ اس میں یہ حصار حاکم نشین دریا رسندھ کے کنارہ پر ایک پشتہ پر بنا ہوا ہے خاکریز اس کا چالیس گز۔ دیوار سات گز۔ اس کے قریب ایک کولاب ہے۔ آٹھ کوس لمبا۔ چھ کوس چوڑا۔ دریا کی تین شاخیں اُس سے ملتی ہیں وہ حصاریوں کی پناہ گاہ ہے۔ اور آدمی کچھ جزیرہ میں کچھ کشتیوں میں آباد ہیں۔ ترا بیگ کچھ غراب لیکر اس طرف یکایک پہنچا اور بہت غنیمت جمع کی۔ زمینداروں نے پناہ مانگی۔ مرزا جانی بیگ اس حال سے مطلع ہو کر لڑائی کے لیے نکلا اور نصیر پور کی راہ پر جس کے ایک طرف دریا اور دوسری جانب ندیاں تھیں ایک حصار بنایا اور اس کو جنگی کشتیوں اور توپخانہ سے استوار کیا۔ اب بادشاہی لشکر آگے بڑھنے میں دو دلہ ہوا۔ ان دنوں راول بھیم بزرگ جیسلمیر اور راے سنگھ کے بیٹے دلپت نے گزارش کی کہ ارادہ تھا کہ بھکر سے آئے مگر اب گمراہی کے سبب امرکوٹ کے رستہ سے آتے ہیں اس خوف سے کہ مبادا غنیم اس فوج پر چیرہ دستی کرے۔ قلعہ اور راہ کے کام کو چھوڑ کر خشکی اور دریا سے روانہ ہوئے اور معابر پر مقصود آقا اور بعض اور آدمیوں کو چھوڑا تاکہ قلعہ نشینوں کو وسوسہ لگا رہے اور راہ میں

کچھ امن ہو۔ ۸ ار آبان کو غنیم سے چھ کوس پر پہنچے۔ اور دوراندیشی کے سبب سے ایک دیوار
بنائی۔ ۲۱ ر کو خسرو چرکس کشتیوں کو آمادہ کر کے لڑنے آیا۔ باوجودیکہ وہ کشتیوں کو اوپر
کی طرف سے جاتے تھے۔ مگر پانی کی تیزی سے وہ نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ رات ہو گئی
تھی اس لیے صبح کو لڑائی ہوئی۔ مشہور تھا کہ خشکی کی راہ مرزا جانی بیگ آتا ہے فریدوں برلاس
و سید بہاءالدین سکندر بیگ قراییک بہادر خاں اس اندھیری رات میں دریا سے پار گئے
صبح کے وقت توپ اندازی گرم ہوئی اور عجب لڑائی ہوئی پانی کی کمی کے سبب سے غنیم نزدیک
نہیں آسکتا تھا۔ اس کنارہ سے آکر آب گزشتوں کو تیر سے لے لیا۔ جنگی غرابوں میں سپاہ
بیٹھکر پانی کے نشیب کی طرف ایسی گرم رفتار ہوئی کہ تیروں سے لڑائی ہونے لگی اور
تھوڑی دیر میں برچھے اور جمدھر پر نوبت آئی۔ غنیم لڑائی چھوڑکر بھاگا۔ ناموروں میں بردا
مارا گیا۔ مرزا قلی زخمی ہوا۔ چار غراب آدمیوں اور مال سے بھرے ہوئے ہاتھ آئے۔ ایک
میں دختشور۔ ھرموز۔ (پرتگیز) تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ حاکم ھرموز کسی کو ٹھٹہ میں مقرر کرتا تاکہ سوداگروں
میں امن امان رکھے۔ مرزا جانی نے اس شہرت کے لیے کہ اس قدر گروہ اسکی کمک کو آئے ہیں
ھرموز کو ساتھ لیا۔ اور اپنے چند نوکروں کو ھرموز (پرتگیزوں) کا لباس پہنایا (قواعد اور
وردی کی حیثیت سے ہندوستان میں بھی سپاہی پہلے پہل یورپ والوں کے نمونہ بنے
تھے) مخالفوں کے دو سو آدمی مارے گئے ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے۔ شاہی لشکر میں
بہت کم آدمی مارے گئے۔ تیر دستوں نے ایک غراب کو ساتھ لیجا کر خسرو کو زخمی کیا اور
قریب تھا کہ اس کو گرفتار کرے ناگہانی توپ پھٹ گئی اور کشتی بھی تباہ ہو گئی۔ کچھ آدمی
مر گئے۔ کارشناس دوربینوں کی یہ رائے تھی کہ خشکی و دریا کی سے مرزا جانی کی بنگاہ پر ہاتھ
چلائیے۔ مگر بہت آدمیوں نے اُس کو پسند نہیں کیا اور آسان کام کو مشکل کر دیا۔

ہم نے اوپر لکھا ہے کہ دلپت و راول بھیم منتخب فوج کے ساتھ ٹھٹہ کی عزیمت سے
روانہ ہوئے تھے وہ امرکوٹ پر پہنچے۔ پادشاہ کی جنم بھوم بغیر لڑے ہاتھ آگئی۔ اور

وہاں کا رانا خدمت گزاری کے لیے ہمراہ ہوا بعض زمینداروں نے کنوؤں میں زہر ڈال دیا تھا اس ریگزار میں پانی کی کمیابی نے سپاہ کو پیاسا مار رکھا تھا کہ ناگہانی مینھ برسا سبب بادشاہی لشکر کو دریا کی لڑائی میں غلبہ رہا۔ اور آگے جانے میں اُس نے تساہل کیا تو غنیم جو اسیمہ سر ہو رہا تھا اُس نے اپنے پاؤں استوار کیے بہت سی گفتگو کے بعد مرزا جانی بیگ نے جو قلعہ بنایا تھا اُس کا محاصرہ کیا ہنگامہ کارزار گرم ہوا۔ اور جواں مرد اپنی مردانگی دکھانے لگے۔ ایک دن سکندر بیگ کہ بادشاہ کا نامور افسر تھا ران میں تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ مخالف اپنی جا کی استواری اور سپاہ کی کثرت اور آذوق کی فراوانی۔ اور رعیت کی یاوری کے سبب بے غم تھا۔ اُسکی آنکھیں بارش پر لگ رہی تھیں کہ سب جگہ پانی پانی ہو جائے۔ اور بیگانہ لشکر بغیر لڑے اُٹھ جائے۔ بادشاہ کے لشکر میں گرانی ہوئی اور کمزور آدمیوں کو سراسیمگی ہوئی خانخانان نے عرضداشت کمک کے لیے بھیجی۔ بادشاہ نے ۱۲ آذر کو رائے رائسنگہ کو روانہ کیا اور آذوق و توپ دا، واور اسباب جنگ بھی بھیجا۔

ملک کی بیگانگی اور راہ بستگی کے سبب سے لشکر میں آذوقہ گراں قیمت ہوا۔ اور لشکر پریشان ہوا تو خانخانان نے حصار کے محاصرہ کو چھوڑ کے مختلف مقامات میں لشکر کو بھیجدیا کہ وہاں جا کر وہ اپنا گزارہ کرے جو سپاہ ٹھٹھہ روانہ کی تھی وہ نہ پہنچ سکی مخالفوں نے شہر کو جلا دیا۔ مرزا جانی بیگ قلعہ سے نکلکر ان کی طرف یہ سوچکر چلا کہ کشتیوں میں بیٹھکر اُس پر قبضہ کرے۔ خانخانان کو جب یہ معلوم ہوا تو اُس نے خواجہ بخشی کو اُس طرف بھیجا۔ اور بعد ازاں خود بھی روانہ ہوا۔ اُسوقت کہ کشتی نشین سراسیمہ تھے۔ سپاہ فرستادہ پہنچی اور چارہ گری کی۔ بہت آدمیوں کی رائے یہ تھی کہ لکھی کو استوار کرکے کمک کا انتظار کریں۔ مگر جوانمردوں نے لڑائی کی ٹھیرائی۔ اور عمدہ طور پر صف آرائی کی۔ اور لکھی سے گزر کر غنیم سے چھ کوس پر ڈیرہ ڈالا۔ ۲۱ کو پیکار کے قصد سے چار کوس آگے بڑھے۔ کئی دن سے ہوا تیز چل رہی تھی۔ اس کا رُخ دشمن کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر میں لڑائی ہوئی۔ اوّل مخالف کی ہراول نسبر کردگی خسرو اپنے برابر کی فوج شاہی پر غالب ہوئی اور

[illegible] سنہ ۱۰۰۰ھ

مرزا جانی بیگ کی شکست پانا سنہ ۱۰۰۰ھ

اس کے برانغار کو بھی پراگندہ کردیا۔ شمشیر عرب ہراول میں شائستگی کے ساتھ لڑا اور زخمی ہوا اور
دھار دبھی نیزہ سے پیشانی پر زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا اور پھر مر گیا۔ غنیم کے برانغار نے ملک محمدؐ کی
کارفرمائی سے اپنے مقابل کو بھگایا۔ ایک گروہ نے ناصر خاں کو ڈیرہ تک بھگایا اور لوٹ لیا۔
سید بہاء الدین ایک گروہ کو لیکر جدا ہوا۔ اور غنیم کے ہراول پر جو غالب ہو رہا جا بھڑا۔ ندی درمیان
میں تھی۔ ہوا کے جھکڑ چلتے تھے اور خاک اُڑتی تھی ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ اس آشوب گاہ میں
لشکر شاہی کے قول کا گزر غنیم کے برانغار پر ہوا۔ سخت لڑائی ہوئی۔ لیکن ہوا کی تیرگی کے سبب
جواہر داس فوج سے جدا ہو گئے بہادر خاں و دولت خاں ورکئی اور لڑائی میں مستقل
کھڑے تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے اتفاقاً محمد خاں نیازی۔ سید بہاء الدین۔ میر معصوم بھکری
خواجہ مقیم آپس میں مل گئے اور ایک بڑا ہنگامہ برپا ہوا۔ غنیم بھی پراگندہ ہو کر ایک دوسرے
کی خبر نہیں رکھتے تھے۔ مرزا جانی چار سو آدمیوں کے ساتھ جنگ گاہ میں سراسیمہ کھڑا تھا
پادشاہی سپاہ نے اس طرف قدم بڑھایا۔ مرزا اس خوف سے کہ اب قول پہنچتا ہی اور زیادہ
سراسیمہ ہوا۔ اس درمیان میں ایک ہاتھی نے شورش میں آکر اپنے لشکر کو پراگندہ کیا۔ کچھ
لڑائی ہوئی۔ غنیم بھاگ گیا اسکے تین سو آدمی اور پادشاہی لشکر میں سو آدمی مارے گئے۔
مرزا کئی دفعہ پھر پھر کر لڑا۔ لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ باوجودیکہ غنیم کا لشکر پانچہزار سے
زیادہ تھا اور لشکر شاہی میں بارہ سو آدمی تھے مگر یہ لشکر غنیم کے لشکر پر غالب رہا۔ یہ فتح عجیب
تھی کہ سپہ آرا دور تھا نہ کوئی بزرگ دلیر موجود۔ ابتدائے جنگ میں برہمزدگی۔ دلیت بے دلی
کے سبب سے اپنی عمدہ سپاہ کے ساتھ نہ ملا۔ اس فتح میں یہ خبر آئی کہ پادشاہی لشکر لٹ رہا ہی
لشکر تیز دست وہاں پہنچا اُس نے غارت گردوں کو پکڑ کر لٹکا دیا۔ باقی بھاگ گئے۔ لشکر
ایمن ہو گیا۔ خانخانان مژدہ فتح سنکر اس قلعہ میں کہ مرزا جانی بیگ نے بنایا تھا پہنچا اور اُسکو ویران کردیا۔

جب پادشاہی سپاہ کو غلبہ ہوا تو مرزا جانی بیگ نے ارادہ کیا کہ پھر اپنے قلعہ میں
چلا جائے مگر اس نے راہ میں سُنا کہ پادشاہی سپاہ کا غلبہ اس پر ہو گیا ہی تو اسکو

بڑا فکر ہوا اور اس نے ایک انجمن کو جمع کیا کہ وہ کسی استوار جا کو تجویز کرے اس نے بہت
سوچ بچار کرکے بالاکنڈی چار کوس پر دیبور کے نزدیک سیہوان سے چالیس کوس پر
ایک لپذیر جا قرار دی اور اس سرزمین میں ساحل سندھ پر ایک قلعہ کی بنیاد ڈالی اور
اسکے گرد چوڑی گہری خندق بنائی ۲۶ فروردین کو خانخانان نے جا کر اس کا محاصرہ کیا
تیر و بندوق سے سوال جواب ہوئے جانفشانی اور جانستانی کا ہنگامہ گرم ہوا۔ غنیم کو
اپنے لشکر کی افزونی اور جنگی کشتیوں اور بارش کی نزدیکی کا بڑا گھمنڈ تھا۔ انہیں دنوں
قلعہ بہرن کوٹ کہ اس ملک کا منتخب قلعہ تھا فتح ہوا اور خوب لڑائی ہوئی۔ عرب کبر
کا ایک گروہ اس حصار میں تھا وہ قاسم علی قلعہ دار سے عاجز ہوا اور اُس کا سر کاٹ کر
لشکر شاہی میں لایا۔ اور اپنی دولت خواہی اُس نے دلنشین کرائی اولیاء دولت
اس سے خوش ہوئے۔ قلعہ کی کشائش میں اور زیادہ کوشش کرنے لگے۔ روم کے
آئین کے موافق ریگ تودے بلند کرکے مورچال آگے لے گئے خندق کو بھرنا شروع
کیا۔ اہل قلعہ بھی رخنوں کو بنا کر خالی کرتے تھے۔ دونوں طرف سے سخت کوشش ہوتی
تھی۔ چند دفعہ اہل قلعہ باہر آنکر لڑے مگر ناکام پھرے۔ زمین کی بیگانگی اور رعیت کی
سرتابی سے لشکر شاہی میں آذوقہ کم پہنچتا تھا جس سے عجیب گرانی ہوئی اور سخت بیماری
پھیلی۔ پادشاہ نے پیش بینی سے بہت سا آذوقہ اور خزینہ اللہ بخش و قزاق بہادر
کے ہاتھ روانہ کیا وہ عین تنگ دستی میں پہنچا اور اس نے دلوں کو تازہ کیا۔ تھوڑے
عرصہ میں قلعہ کو بہت تنگ کیا۔ مورچال سے قریب ہوئے۔ کہ ایک دوسرے کے ہاتھ
سے سنان چھین لیتے اہل قلعہ نہایت عاجز ہوئے بہت لابہ گری کرکے آشتی کے
خواہاں ہوئے۔ پادشاہی لشکر نے بھی کم آذوقی کے سبب سے صلح کو قبول کر لیا اور یہ
پیمان ٹھہرا سیوستان کو مع سیہوان اور بیس جنگی غراب مرزا جانی بیگ حوالہ کرے
اور خانخانان کے بیٹے ایرج کو اپنی دامادی میں قبول کرے جب برسات ختم ہوجائے

توخود بادشاہ کی خدمت میں آئے۔ یہ قرار پایا کہ اول محاصرہ اُٹھایا جائے۔ پھر مراسم خویشی استوار ہوں جب وہ سیہوان دیدے تو موسم بارش میں لشکر شاہی یہیں مقیم رہے۔ ۱۶ خرداد کو مورچال اُٹھائے گئے اور رسوم شادی ادا ہوئیں اور قلعہ کے حوالہ کرنے کے لیے اور لینے کے لیے طرفین سے آدمی گئے۔

جب آشتی ہوگئی اور مورچال اُٹھ گئے تو مرزا جانی بیگ پہلے اس سے کہ قلعہ سیہوان کو حوالہ کرے بے اجازت ٹھٹھہ کو روانہ ہوا۔ لشکر شاہی نے جانا کہ اس نے فریب کاری کی۔ ایلک آگاہ کو بھیجکر اس سے پوچھا کہ یہ کیا کیا۔ اس نے عرض کیا کہ مردوں کی کثرت سے قلعہ کی ہوا بگڑ گئی ہے اس میں جیتوں کو جینا مشکل ہے سپاہ اور رعیت نے اپنی بنگاہ میں جانے کی درخواست کی میں نے اسے منظور کرکے روانہ کیا۔ سارا لشکر عاجز ہوکر بغیر کچھ کہے چلا گیا اور میرے پاس کوئی نہیں رہا۔ ناگزیر اس طرف نصیر پور میں چلا آیا۔ جانتا ہیں نے عہد شکنی نہیں کی جو کہا ہے وہی کرونگا۔ رستم قلعہ دار سیہوان نے آنکہ پیمان ازسر نو کرکے قلعہ سیہوان علی عرب درمقصود آقا کو حوالہ کیا اور قلمرو شاہی میں کل سیوستان کا اضافہ ہوگیا۔

سپاہ نے بعد از صلح قصبہ سن میں سیہوان سے بیس کوس پر اپنا بنگاہ بنایا جب برسات ختم ہوئی تو مرزا جانی بیگ کا انتظار وہ کر رہی تھی کہ اُس کو ہمراہ لیکر بادشاہ پاس لیجائیں کو ناگاہ مرزا کا پیغام آیا کہ کچھ پریشانی پیش آئی ہے اور راہ دراز ہے بعد خریف کے محصول وصول کرنے کے وہ درگاہ والا میں روانہ ہوگا اور یہ بھی پیمان ہوا تھا کہ اس روئے سیہوان حوالہ کیا جائیگا اس میں سے ہنوز برن کوٹ اور ہالاکنڈی کی نہیں سپرد ہوئے ہیں۔ اولیاء دولت نے فرستادہ کو نگاہ رکھا اور خود تیز دستی کرکے شاہ بیگ خاں۔ غازی خاں۔ جانش بہادر خواجہ خضری اب سندھ سے گزر کر خشکی کی راہ ٹھٹھہ کی طرف چلے۔ بختیار بیگ۔ قرابیگ۔ اور اور افسر جنگی غرابوں میں دریا نورد ہوئے۔ شیر خاں اور بعض اور افسر دریا کے کنارہ پر مقیم ہوئے یہ قرار پایا

مرزا جانی بیگ کا دفعتاً نادان کا بادشاہ کی خدمت میں آنا سنہ ۱۰۰۱ ۳۶

کہ یہ تینوں فوجیں ایک دوسرے کو اطلاع دیتی ہوئی سفر کریں اور تیز دستی کرکے نصیر پور پر جو
کہ ملک کے وسط میں ہے قبضہ کریں سب کا مطلب یہ تھا کہ پادشاہ پاس مرزا جانی بیگ
چلے۔ خانخانان نے اس پاس اپنا ایلچی بھیجا اور بہت سی نصیحتیں اس کو کیں اور بعد ازاں خود بھی
چلا۔ فوجوں نے نصیر پور پر غلبہ پایا۔ ٹھٹہ سے مرزا نے نکل کر دو تین کوس منزل اس قصد سے
کی کہ عقبات (گھاٹیاں) کو جو ُبار تک سنوار کرے جب خانخانان نصیر پور میں آیا تو تینوں
فوجیں موافق سابق کے روانہ ہوئیں۔ جا بجا ستوں نے مرزا کے ازدو کو تاخت و تاراج
کرنا شروع کیا۔ چند ارغونی بھی انکے ساتھ ملگئے۔ مرزا نے لابہ گری کی۔ کار دیدوں کو بھیجکر
پیمان شکنی کا سبب خانخانان سے پوچھا۔ اس کا جواب یہ ملا کہ ہم عہد کو نہیں توڑتے اور
کوئی اور بات ہمارے دل میں نہیں آئی۔ لیکن ایسا سُنا گیا کہ فرنگی سپاہ ھرموز (پرتگیز)
اس سرزمین میں یازش کر رہی ہے اس لیے بندر لاہری کی یورش در پیش ہے۔ لوٹ میں جو
مال ہاتھ لگا تھا اُس کو عذر کرکے واپس بھیجدیا۔ خانخانان نے یک جہتی کے پیام میں گرمجوشی
کی۔ پہلے سال کی دہم آبان کو دہ آپس میں سوار ہو کر ملے۔ دوربینی کے سبب سے خانخانان ٹھٹہ
کے شہر کی طرف روانہ ہوا بظاہر اس جگہ کی سیر کا قصد تھا لیکن اصل تدبیر یہ تھی کہ پایان
آب پر قبضہ کرے تاکہ ارغونیوں کے دل میں کچھ اور ارادہ نہ پیدا ہو۔ جب کچھ تھوڑی
دور گیا اور خاطر جمع ہوئی تو اس نے گزارش کی کہ پیوند دوستی کے موافق سزاوار یہ ہے
کہ نوارہ حوالہ کیا جائے جسکے سبب سے دور اور نزدیک کو کوئی بات کہنے کے لیے نہ رہے اور سب
خاموش رہیں۔ مرزا نے ناگزیر سارا ملک پادشاہی لشکر کو حوالہ کیا اور درگاہ والا میں جانے کا
سامان تیار کیا۔ خانخانان ٹھٹہ کی سیر کر بندر لاھری میں آیا۔ شاہ بیگ و افسروں کو یہاں
سے رخصت کیا کہ مرزا جانی بیگ کے ہمراہ آگے جائیں۔ ٹھٹہ میں ایک گروہ چھوڑ کر خانخانان
خود خشکی کی راہ سے پھرا اور باغ فتح کے قریب مل گیا اور بہت سے افسروں کو اس
ملک میں متعین کرکے مرزا کے ساتھ ۲۹ بہمن کو روانہ ہوا۔ ہر چند اس نے چاہا کہ اہل و عیال

کو ٹھٹہ میں چھوڑ جائے مگر خانخانان نے اس درخواست کو نہ مانا۔ اسلیے اُس نے اپنا زہ زادو
اور نوکروں کو خشکی اور دریا کی راہ سے روانہ کیا اور خانخانان کے ساتھ پادشاہ کی خدمت
سے مشرف ہوا۔ اور اسکو پادشاہ نے منصب سہ ہزاری اور صوبہ ملتان عنایت کیا او
ٹھٹہ مرزا شاہرخ کو عطا ہوا۔ اس سے مرزا شکستہ خاطر ہوا۔ ان دنوں پادشاہ نے سُنا
کہ الوس ارغون دس ہزار مرد وزن کشتی میں اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ ہاتھ تلے سے ملک
نکل جانے سے کشتی بان اور خدمت گزار ہاتھ نہیں آتے ہیں اسلیے وہ خود ہاتھوں اور دانتوں سے
کشتیوں کو کھینچتے ہیں۔ اس سبب سے پادشاہ کو اُن پر رحم آیا۔ اور مرزا جانی کو ملک ٹھٹہ پھر دیدیا۔

مرزا جانی پسر پاینده محمد بن مرزا باقی بن مرزا عیسیٰ بن عبدالعلی بن عبدالخالق تھا وہ
شکل بیگ ترخاں کی نسل سے تھا۔ شکل بیگ کے باپ ایکو تمر نے تقتمش خاں کی لڑائی میں
اپنی جان لڑا کر وفات پائی تھی اسلیے صاحبقراں نے خرد سالی سے اسکی پرورش کی تھی۔ اور
ترخانی کا درجہ عطا کیا تھا اسکا نسب چوتھی پشت میں ارغون خاں بن اباغ خاں بن ہلاکو خاں
بن تولو خاں بن چنگیز خاں تک پہنچتا تھا۔ منصف پادشاہوں کا پہلے یہ دستور رہا کہ وہ
اپنے چند سعادت سرشت بندوں کو کن مکن کا اختیار دیتے اور ترخاں کا خطاب دیتے۔
صاحبقران کے ترخاں کو کسی جگہہ جانے سے سپاہی نہیں روک سکتے۔ نو گناہوں تک نہ
اُس نے اور نہ اسکی اولاد سے باز پرس کرتے۔ قاآن بزرگ چنگیز خاں نے تسلیق وبابا کو
اس جلدو میں کہ اُنھوں نے غنیم کے ہاتھ مطلع کیا تھا ترخاں کا پایہ عطا کیا تھا اور مہربانی
سے فرمائش کے بوجھ سے ہلکا کیا تھا اور لوٹ میں سے شہنشاہی حصہ عطا کیا تھا بعض ترخاں
ان سات چیزوں سے سربلند ہوتے ہیں طبل و تمن و توغ و نقارہ و قشون توغ و چتر
توغ و قور۔ یہ آخر تین چیزیں اس نے اپنے دو برگزیدہ آدمیوں کو دی تھیں۔ باقی اور
حالات تاریخ ملک سندھ میں پڑھو جو اس جلد کے اول میں لکھی گئی ہے۔

مرزا جانی بیگ مرزبان ٹھٹہ علم ظاہری رکھتا تھا۔ علم موسیقی میں اور فارسی

مرزا جانی بیگ کے خاندان کا بیان خطاب ترخاں کا بیان

سنہ ۱۰۰۸ ہجری

زبان میں شعر کہنے کی اچھی استعداد رکھتا تھا۔ جب سے بادشاہ کی اطاعت اُس نے اختیار کی۔ اسکے گفتار اور کردار سے بادشاہی اخلاص معلوم ہوتا تھا اور اُسکی نشست و برخاست سے شناسائی و آہستگی ظاہر ہوتی تھی۔ لیکن چھوٹی عمر سے وہ شراب پیتا تھا۔ مگر شرابیوں کی ناہنجار حرکتیں نہ کرتا تھا۔ کارکرد اور گفتگو عقل کے موافق کرتا تھا گرمیں شراب بہت پیتا تھا۔ شراب کے نہ پینے کی نصیحت نہ سنتا تھا۔

رباعی

چہ خوری چیزے کہ از خوردن آں چیز ترا | نے چو سروی بماید بمثل سرو چو نے
گر کنی بخشش گویند کہ مے کرد نہ او | ور نہ کنی عربدہ گویند کہ او کرد نہ مے

غرض شراب کی افزونی سے رعشہ و سرسام ہوا۔ ۱۲ ربیع الاول ۹۰۱ھ میں دنیا سے رخصت ہوا۔ بادشاہ نے غائبانہ اسکے بیٹے مرزا غازی کو ریاست باپ کی دیدی۔

پنہ ایک یا د ملک ہے اسکا مرزبان جدا ہے۔ باندھو کا قلعہ اس کا نشیمن گاہ ہے مشرق ۶۰ کروہ تک اسکی عملداری ہے اسکے پیچھے اور زمینداروں کی زمین ہے جو اسکے کچھ مطیع ہیں۔ اسکی ولایت کچھ رہتاس ہے۔ جنوب میں بارہ کروہ تک سکی عملداری ہے اسکے پیچھے اور زمینداروں کی زمین ہے جو اسکے کچھ تابع ہیں۔ ملک گڈھ سے اس میں گذر ہوتا ہے۔ شمال میں گنگا جمنا ۶۰ کروہ پر الہ آباد کے متصل۔ جنوب میں سولہ کروہ تک عملداری اسکے پیچھے ولایت گڈھ ہے۔ جنوب و مشرق کے درمیان رنتھنبور ۵۴ کروہ پر۔ مشرق و شمال کے درمیان ستر کروہ عملداری ہے اسکے پیچھے صوبہ الہ آباد ہے شمال و غرب میں۔ ۵ کروہ پر قلعہ کالنجر سے علاقہ ملتا ہے غرب جنوب میں ۲۵ کروہ پر ولایت گڈھ ہے یہ قلعہ بڑا دشوار کشا ہے۔ کوہچہ اسکے گرد ہے اسکا نشیب ۸ کروہ ہے اور بلندی ڈیڑھ کروہ سے کچھ زیادہ۔ تین طرف پہاڑ یک لخت ہے۔ شمال رو چار دیوار سنگین ہے۔ پہلا دروازہ گنیش پور ہے یہاں ایک بڑا آبگیر ہے۔ دوسرا دروازہ ہندلی پور ہے۔ سوم کرن پور چہارم ھیرہ پور۔ یہاں راجہ کا نشستگاہ ہے اس قلعہ کی چار دیواریں ہیں اسکے

اسکے گرد باغ ہیں۔حوض نظرفریب ہے۔اسمیں ایک بڑا تبخانہ ہے۔اسکے گرد راجہ کے رشتہ داروں کے مکانات ہیں۔کسی فرماندہ نے اُسپر تسلط نہیں پایا۔سلطان علاءالدین یہ آرزو اپنے ساتھ لیگیا بہت خزانہ اِسنے صرف کیا اور جانیں کھوائیں مگر کچھ کام نہ ہوا۔یہ قلعہ تھوڑی توجہ سے فتح ہو گیا اہلِ قلعہ نے خردسال راجہ کو پادشاہ پاس اس خیال سے بھیجا کہ زرفشانی سے قلعہ بچ جائیگا مگر پادشاہ نے ان رشوت کی باتوں کو سُنا نہیں۔اسنے حکم دیدیا کہ بندگی کا آئین یہ ہے کہ ایک بار قلعہ کو حوالہ کریں تو پھر گنجایش ہو۔اہلِ قلعہ نے اسے قبول نہیں کیا۔راے پرداس نے سعی کی۔داد و دہش کو کلید فتح بنایا بہت بڑی لڑائیاں لڑ اس ملک پر غالب ہوا۔قلعہ کا محاصرہ کیا۔آٹھ مہینے بیس روز کے بعد ۲۸ تیر کو اہل قلعہ نے کم آذوقی کے سبب سے بنا فانگی قلعہ کو لیلیا بہت غنیمت جمع کی۔

قندھار کے معاملات

قندھار کے معاملات جو حضرت ہمایوں اور شاہ طہماسپ فرمانروای ایران کے درمیان ہوئے اسکا ذکر ہم پہلے کرچکے ہیں اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ اکبر نے قندھار باپ کے عہد و پیمان کے موافق شاہ ایران کو دیدیا تھا اور پھر کبھی اسکی فتح کا ارادہ نہیں کیا مگر ان دنوں میں ایرانیوں کے اقبال کا ستارا پہلی سی چمک دمک نہیں دکھاتا تھا۔ سلطان حسین مرزا کے بیٹے قندھار کے حکمران تھے وہ مرزبان ایران کی فرمان پذیری سے باہر ہوئے۔اور شہنشاہ اکبر کی اطاعت میں گفتار کے موافق کردار عمل میں نہ آئے اسلئے ان دنوں میں پادشاہ کے دل میں آیا کہ ایک گزیدہ سپاہ ایران کے کارکنوں کی یاوری کے لئے بھیجے۔اگر یہ مرزا سیدھی طرح سے سمجھانے سے درگاہ والا میں آجائیں تو ان کو اور ملک اقطاع میں دیدیا جائے گا اور اُن کا آباد ملک کسی دادگر طرزدان کی پاسبانی میں سپرد کیا جائیگا اس سے شاہ ایران کی ایسی معقول مدد ہو جائے گی کہ اوزبکون کو قندھار کی فتح کا خیال نہ رہیگا اور اس

قندھار کی فتح کے لئے لشکر کا بھیجنا سنہ ۹۹۹ھ

بیادری کی حسب دلخواہ صورت ہوگی - اس نے ایک سپاہ جرار اور افسران تجربہ کار قندھار کی فتح کے لئے روانہ کئے - خانخانان کو اسکا سپہ سالار بنایا - اور خواجہ محمد مقیم کو سپاہ کا بخشی مقرر کیا اور یہ حکم دیا کہ یہ لشکر بلوچستان کیطرف سے جائے اگر بلوچ فرمان پذیر ہوں تو انکو اپنے ساتھ سپہ آرا لیجائے ورنہ انکو مناسب سزا دے اور دادگروں کو ملک سپرد کرے - مگر پھر بادشاہ نے خانخانان کو حکم دیدیا کہ وہ ملک سندھ کو فتح کرے اور اسکی جگہ سلطان دانیال کو مقرر کرکے قندھار کی طرف روانہ کیا اور یہ سمجھا دیا کہ اگر مرزا اطاعت قبول کریں تو ان کو خسروانی نوازش کا امیدوار کرے ورنہ اس ملک کو لیکر کسی کارشناس دادگر کو دیدے ۲۲ تیر سنہ ۱۰۰۱ھ کو مرزا دانیال دریا، راوی سے پار اُترا - چوتھے روز بادشاہ بھی جو کشمیر کو جاتا تھا اُسے ملا - ۲۷ کو مشرق سے مغرب کی طرف تین سو شہاب ثاقب ٹوٹے جسکو نجومیوں نے سفر کے لئے منحوس بتایا اسلئے شاہ اور شاہزادہ واپس چلے آئے -

اس وقت سے کہ بادشاہ کے حکم کے موافق شاہ محمد خاں قلاتی فرمان فرمائے ایران شاہ طہماسپ کے گماشتوں کو قندھار سپرد کرکے ہندوستان میں آیا تھا تو بادشاہ ایران نے اپنے برادر زادہ سلطان حسین مرزا پور بہرام مرزا کو قندھار دیا تھا - وہ ہمیشہ نیایش نامے اور تحفے تحائف بادشاہ پاس بھیجا کرتا تھا اور اپنے تئیں بندگان شاہی میں سے گنتا تھا - اس سبب سے باوجودیکہ شاہ طہماسپ مرگیا تھا شہنشاہ اکبر کو قندھار کے لینے کا خیال کچھ نہ تھا مگر سنہ ۱۲ جلوس میں سلطان حسین شراب خوری کے سبب سے مرگیا اسکے چار بیٹے مظفر حسین مرزا - رستم مرزا - ابوسعید مرزا - سنجر مرزا تھے مردمی اور زمانہ شناسی کے سبب سے یہ آباد ملک انکو دیدیا - شاہ اسمٰعیل نے جو شاہ طہماسپ کا جانشین ہوا اپنے بھائی بندوں کی خونریزی پر کمر باندھی چند آدمی ان مرزاؤں کے مارنے کے لئے بھی مقرر کئے - ان فرستادوں کی آزمندی اور خواہشگری کے سبب سے ان کی زندگی بچ گئی شاہ ایران کو جب یہ علم ہوا تو اسنے شاہ قلی سلطان ذوالقدر کو قندھار میں

مرزا مظفر حسین کا بادشاہ کے پاس آنا ۱۰۰۲ھ

حاکم مقرر کیا۔ اسنے بداغ بیگ کو انکے مارنے اور ملک لینے کے لیئے بھیجا۔ صبح کو انکا ارادہ
انکے مارنے کا تھا کہ خودشاہ اسمعیل کے مرنے کی شہرت ہوئی: یہ بیگناہ بچ گئے۔ سلطان
محمد خدابندہ ایران کا پادشاہ ہوا۔ مرزاؤں کا ملک انکو دیدیا۔ مرزا مظفر حسین سب سے بڑا بھائی
قندھار میں تھا۔ رستم مرزا دو باقی بھائیوں کے ساتھ زمین داور میں تھا۔ خودکامی اور جوانی
کی مستی اور بدہم زبانی سے آپسمیں لڑ مرے مظفر حسین مرزا شکست پاکر قلعہ کے اندر چلا گیا۔
چالیس روز تک رستم مرزا قلعہ پر جھولا کیا پھر دونوں بھائیوں میں صلح ہوگئی۔ آپسمیں ملاقات
ہوئی۔ جب فرمانروائے توران عبداللہ خاں نے ہرات کا محاصرہ کیا۔ یگان سلطان
افشار نے کہ فراہ میں ایالت رکھتا تھا۔ رستم مرزا کو اپنے پاس بلالیا۔ تورانی سپاہ سے
لڑا اور فراہ پر قابض رہا۔ مرزا نے دوست شناسی وغنودہ رائے سے یگان سلطان کو
مار ڈالا سلیمان خلیفہ خراسان سے آنکر مرزا سے ملا کہ مایہ سورش بنائے۔ مگر اس نے سعادت
اختری سے نہ منظور کیا۔ لیکن اسکی یاوری سے سیستان پر جو ملک نیمروز کے نام سے زبان زد
خلایق ہے غالب ہوا۔ مظفر حسین مرزا نے قابو پاکر داور زمین پر تاخت کی۔ رستم مرزا اسطرف آیا
دونوں میں بڑی لڑائی ہوئی۔ مظفر حسین مرزا میں مقابلہ کی تاب نہ رہی۔ قندھار کو الٹا چلا گیا ہمیشہ
ان دونوں کی درمیان زر پرست مگس جو آدمی ایک کے پاس سے دوسرے کے پاس جاتے اور خلقت کے آرام میں خلل
ڈالتے۔ جب غلبہ نے انکی برائی دشمنی کو بھڑکایا تو بدنصیبی سے مرزاؤں نے ایران کے پاس سے اپنے پرانے پیوند کو
قطع کیا اور شہنشاہ اکبر سے بھی شائستگی کے ساتھ تعلق نہ پیدا کیا یہانتک بڑے بھائی نے
زمین داور کو لے لیا۔ مرزا رستم ہری (ہرات) میں آیا۔ تلات لے لیا اس عرصہ میں پادشاہ
کی سپاہ کے آنے کا غل مچا۔ مرزا رستم نے شریف خاں اتکہ حاکم غزنیں کے
سامنے دوستی کی داستان پڑھی اور اس دستاویز سے پادشاہ کی خدمت میں نیازنامہ
بھیجا اور آستان بوسی کا قصد کیا۔ بادشاہ نے دلہی کا فرمان میرک جلائر اور مہتر
ابراہیم کے ہاتھ بھیجا۔ سر راہ کے اقطاع داروں کے نام حکم بھیجا کہ مرزا کی

بزرگداشت میں اہتمام کریں - غرض نہایت آؤ بھگوت کے ساتھ وہ ۱۲ مہر کو جو دسہرہ کا جشن
تھا بادشاہ کی خدمت میں آیا بادشاہ نے اسکو منصب پنج ہزاری عنایت کیا - ملتان اور بہت سے
پرگنے اور بلوچستان جو قندھار سے کہیں زیادہ تھے عنایت کئے - نقارہ اور علم عنایت ہوا -

جب زمانہ میں مشہور ہو گیا کہ بادشاہی لشکر قندھار کی فتح کے ارادہ سے آتا ہے
رستم مرزا تیزدستی کر کے بادشاہ کا آستان بوس ہوا تو مظفر حسین مرزا نے اپنی ماں اور
بڑے بیٹے بہرام مرزا کو بھیجکر بادشاہ سے پناہ مانگی یہ دونوں باریاب ہوئے اور انکی آرزو
قبول ہوئی قرا بیگ کو جو اس خاندان سے قدیمی پیوند رکھتا تھا اور مرزا بیگ کو بھیجا کہ
مرزا کو نوید بخشایش پہنچا کر درگاہ میں لائیں اور اُس ملک دیدبانی شاہ بیگ
کے حوالہ کریں -

مظفر حسین مرزا کی معذرت ۱۰۰۳ - اور شاہ بیگ کا قبضہ قندھار پر اور داور اور ملک گرم سیر کی فتح ۱۰۰۳

جب قرا بیگ اور مرزا بیگ قندھار کے قریب آئے تو مرزا مظفر حسین نے انکا استقبال
کیا اور منشور والا سے خوش ہوا اور درگاہ والا کا قصد کیا - شاہ بیگ کو قلعہ کشادہ پیشانی
سے حوالہ کیا اور سکہ بادشاہی جاری کیا - خطبہ میں نام پڑھوایا شاہ بیگ خاں نے
مرزا کی طرح طرح کی یاوری کی اور زہ و زاد اور دو ہزار قزلباش ہمراہ کر کے روانہ کیا
بے آویزش کے یہ آباد ملک بادشاہ کے ہاتھ میں آیا اور ایک بزرگ نژاد پریشانی
سے بچا اوزبک بھی اس ملک کی فتح سے کچھ عنان کش ہوئے - کسان کسی قدر آسودہ
ہوئے - الوس ہزارہ اور افغان اور سرکش زمینداروں کی مالش مناسب ہوئی -

داور اور گرم سیر دو آباد مقام قندھار سے تعلق رکھتے ہیں - جب سپاہ شاہی
کے آنے کی شہرت ہوئی تو اس سرزمین کے بڑے بڑے آدمیوں نے جمع ہو کر سیہ دستی
کرنی شروع کی - اوزبک ناکام چلے گئے - ان دنوں میں سلطان محمد اوغلان و تنگر
بردی و مراد خاں اور بعض اور کین توزی پر آمادہ ہوئے اور حصار کا محاصرہ کیا -
جب شاہ بیگ خاں آیا تو زمیندار دادخواہ آئے - بادشاہ کے حکم بغیر وہ

انکی یاوری میں متردد تھا کہ اس گروہ میں سے بعض نے قندھار کے قریب لوٹ مچائی قلعہ بُہرے کو مرزا عوض نے بزور لے لیا۔ شاہ بیگ نے اُسکو سمجھایا۔ مگر جب وہ نہ سمجھے تو وہ لڑنے کھڑا ہوا۔ مرزا نے تیری کو استوار کیا اور لڑا اور تھوڑے عرصہ میں گرفتار ہو گیا اور قلعہ فتح ہوا شاہ بیگ نے ہلمند سے گذر کر زمین داور پر تاخت کی۔ غنیم جلد قلعہ وترنور میں داخل ہوا اور تعاقب کے سبب سے وہ ہرات کیطرف بھاگا لشکر شاہی وہاں سے پھر کر زمین داور میں آیا۔ گرم سیر بھی بے آویزش کے ہاتھ آگیا۔ نورانی سپاہ کی آنکھیں کھلیں۔ قل بابا سپہ آرای خراسان کو اسکے پاس اندیشہ ہوا۔ وہ دوربینی کرکے پادشاہ کی سپاہ کے ساتھ دوستانہ پیش آیا۔

مظفر حسین قندھار سے چلکر ۵ رشہر یور ۴۳ الٰہی کو پادشاہ کی ملازمت سے مشرف ہوا۔ سو اسپ عربی اور اسباب نذر میں دیا۔ ان میں ایک مہرہ عجیب تھا کہ وہ سانپ کاٹے آدمی کا زہر چوس کر اچھا کر دیتا تھا۔ پادشاہ نے پنج ہزاری منصب اور قندھار سے بڑی اقطاع سنبل اُسکو عنایت کی اور بہت نقد وجنس دیا اسکے چار بیٹے بہرام مرزا۔ حیدر مرزا۔ الغاس مرزا۔ طہماسپ مرزا تھے انکا اور انکے ہمراہیوں کا دلی مقصد بر آیا۔

قندھار کے قریب ایک استوار قلعہ سیوی ہے پہلے زمانہ میں وہ مرزبان بھکر پاس تھا۔ بہت دنوں سے بنی افغان اسپر غالب تھے سید بہاء الدین بخاری تیول دار اچھ اور بخت یار بیگ اقطاع دار سیوستان اور میر ابو القاسم ملکی جاگیر دار بھکر اور میر معصوم اور سپاہ ملتان پاس فرمان شاہی گیا کہ اول وہاں جا کر اندرز گوئی سے قلعہ کو فتح کریں اور اگر وہ نہ سُنیں تو سزا سے مالش کریں۔

۲۴ ر دے کو لشکر اس ارادہ سے یہاں آیا کنجابہ کے زمینداروں اور اسطرف کے اور سرداروں نے جیسے کہ داؤد خاں و دریا خاں تھے اطاعت کی سوم اسفندارمذ کو قلعہ کے نزدیک پہنچے پانچہزار آدمی لڑنے کو آئے۔ کچھ لڑکر حصاری ہوئے

قلعہ سیوی کی فتح

جب محاصرہ حصار ہوا تو انہوں نے قلعہ کی کنجیاں حوالہ کیں اس فتح سے قندھار اور کیچ اور مکران
قلمرو میں آگئے۔ اس جنگل میں پانی کی کمیابی سے لشکر شاہی سراسیمہ تھا کہ ایک خشک ندی میں
پانی آگیا جس سے وہ پُرآب ہوگئی۔ الوس کا کرمد تو نسے زیردستوں کو ستاتے اور قندھار کی
راہ پر لوٹ مار مچاتے۔ آغاز دے میں شاہ بیگ خاں انکی سزا کے لئے چلا اُس نے انکے بڑے
بڑے سنگر توڑے سرکشوں کے سر کاٹے ایک گروہ کو فرمان پذیر کیا۔

بلوچستان کی تنبیہ ۱۰۰۰ھ

بلوچستان کی تنبیہ کی بھی ہدایت لشکر کو ہوئی تھی بلوچوں کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی بادشاہ کی نیکو خدمتی
سے بازرہ کرنا فرمانی اسلئے کرتے تھے کہ وہ بادشاہ کو اپنے سے دور جانتے تھے اور اپنے
مقامات کو نہایت مستحکم سمجھتے تھے۔ بادشاہ تباہ کاروں کے تباہ کرنے کو نیک سگالوں کے ساتھ نوازشیں
کرنا سمجھتا تھا۔ اسلئے اُسنے پہلے بھی ۹۸۶ھ ۲۴ پنجاب کے بعض امرا کے پاس فرمان بھیجا تھا کہ بلوچیوں
کے مقامات میں جائیں اور انکو سزاوار سزا دیں جب بلوچیوں نے بادشاہی لشکر کی تیاری
کا آوازہ سنا تو اں میں جو مغرور بیٹھے تھے وہ بندگی اختیار کرنے کو تیار ہوئے اور بینائی
اور دور اندیشی کے سبب سے اپنے عاقل کارداں بادشاہ پاس بھیجکر زینہار کے خواستگار ہوئے
شہریار انکی اس نیازمندی کو خدمت سمجھا اور فرمان بھیجدیا کہ لشکر واپس چلا آئے۔ بادشاہ کی نیت میں تو
یہ تھا کہ اہلِ جہاں فرمان پذیر ہوں کہ کثرت میں ظل وحدت نظر آئے۔ خلائق عامہ کی آسودگی اور آرامش کا
انتظام ہو۔ اسکا حال اور زبردست چیرہ دستوں کا سا نہ تھا۔ کہ کسی کی لغزش کو مالش کا
بہانہ بنا کے خون ریزی اور مال اندوزی سے فراغت ہی نہ پائے۔

الوس ہزارہ کو سزا دینا ۱۰۰۰ھ

الوس کا اپنی بدگوہری اور اپنے مقامات کی استواری کے سبب سے زیردستوں
کو ستا رہے تھے اور قندھار کے راستہ میں قزاقی کرتے تھے۔ شروع ماہ دی میں
شاہ بیگ ان کو سزا دینے آیا۔ اُس سے خوب لڑائیاں ہوئیں اور شاہ بیگ نے
اُن کے بڑے بڑے سنگر توڑے۔ بہت سے ان میں سے مارے گئے کچھ آوارہ
کچھ فرمان پذیر ہوئے۔

معاملات ومہمات دکن

سنہ ۹۸۱ھ میں راجہ کملی نے اپنا ایلچی بھیجا۔ راجہ اقصائے ہندوستان میں ولایت ملیبار کے قریب زمیندار تھا۔ اس نواح میں کوئی زمیندار اسکی برابر مملکت و دولت میں نہ تھا وہ جوگیوں کا معتقد تھا۔ سال بھر میں ایک دفعہ جوگی بن کر جوگیوں کا احترام کرتا تھا۔ وہ شہنشاہ اکبر کی صفات باطنی کا معتقد تھا وہ چاہتا تھا کہ پادشاہ کی خدمت میں اس دیار کے نفائس بھیجکر اپنی عقیدت ظاہر کرے۔ مگر بادشاہ بہت دور تھا۔ راہ میں پہاڑ اور بہت سے سد راہ۔ بے امن وعافیت راہ۔ کسی کو یہ حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ ایسی پرخطر دور و دراز کی راہ کو طے کرکے پیشکش کو پادشاہ تک پہنچاے۔ اور راہ میں لوٹ مار سے بچ جاے مگر ان دنوں میں اُسکے وزیرزادہ نے یہ ہمت کی کہ بغیر مال واسباب کے پادشاہ کیخدمت میں تنہا آیا۔ راجہ نے کہا کہ بہترین متاع عالم میں اخلاص حقیقی ہی مگر اسکے ساتھ حقوق ظاہری کا ادا کرنا بھی ضرور ہی۔ اگر میرا سب مال ومتاع پادشاہ کی نذر میں تو لیجاے تو اسکی نظر میں کچھ نہیں جچیگا اسلیے میں ایک کارد دیتا ہوں اگرچہ وہ کچھ مالیت نہیں رکھتی مگر اُس میں یہ خاصیت ہے کہ جس سوجن پر مل جائے وہ اُتر جائے۔ وزیرزادہ پادشاہ کی ملازمت سے مشرف ہوا۔ کارد ہدیہ میں دی۔ پادشاہ کہا کرتا تھا کہ دو سو آدمیونکا ورم اسکے ملنے سے اچھا ہو گیا ہے۔ کارد بہت احتیاط سے رکھی جاتی تھی۔

ہم نے پہلے لکھا ہے کہ اول یورش گجرات میں میر محسن رضوی مشہدی کو نظام الملک حاکم احمد نگر پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ محمد حسین مرزا اور اور سرکشوں کو جو دکن میں جمع ہو گئے تھے پکڑ کر حوالہ کرے۔ اسنے یہ تو نہیں کیا مگر اپنے ملک میں انکو رہنے نہیں دیا پیشکش لائق اپنے معتمدوں کے ہاتھ بھیجکر دولت خواہی کا اظہار دیا۔ میر مذکور نے دکھنیوں کی ناشکیبائی کو یوں بیان کیا کہ پادشاہی لشکر کی فتوحات سے انکی عجب حالت ہو رہی ہے کہ اپنے شہروں سے مال واسباب کو پہاڑوں کے اندر بھیجکر نگہبانی کرتے ہیں۔ مگر

راجہ کملی کا ایلچی آنا سنہ ۹۸۱ (۱۸)

میر محسن رضوی مشہدی کا بعزم رسالت دکن

سنہ ۱۷ کا ۹۸۱ھ

شہنشاہ تو اہم کو مہم پر تقدیم دیتا تھا اس نے دیار شرقی کی فتح کو مقدم جانا۔ اور دکن کی فتح کو اور وقت پر موقوف رکھا۔

باقی خان کو نظام الملک دکنی کے پاس اسکی رہنمائی کے لئے بھیجا تھا نظام الملک نے اپنے معتمدوں میں سے وفا خاں کو بھیجا۔ اُس نے احکام پادشاہی کو مانا۔ وہ ۱۵ خرداد ماہ الٰہی ۹۸۵ھ کو کورنش بجالایا اور نفیس ہاتھی اور اس دیار کے نفائس پیشکش میں دئے۔

اگرچہ عادل خاں حاکم بیجاپور پادشاہ کا مطیع نہیں تھا مگر اور حکام دکن کی طرح ہمیشہ اپنے آدمی کاردان اور پیشکش بھیجتا رہتا تھا کہ جس سے اپنا ذکر پادشاہ کی مجلس میں یاد دلاتا رہتا تھا ان دنوں میں ایک طرزدان اور شیوا بیان ایلچی پیشکش لیکر آیا تھا پادشاہ نے اسکو جانے کی اجازت دی اور حکیم علی کو اسکے ساتھ بیجاپور بھیجا کہ عادل خاں کو نصیحت کردے کہ وہ اطاعت شاہی شائستہ طور پر کرے ورنہ لشکر شاہی زبردستی اسکو مطیع کریگا۔ عادل شاہ حکیم علی کو رخصت کرنے کو تھا کہ اُسکا ساغر زندگی لبریز ہوا۔ اگرچہ مرزبانان دکن لوازم بندگی اور فرمان پذیری کو شائستہ طور پر نہیں بجالاتے تھے مگر اپنی عرائض اور پیشکش بھیجتے رہتے تھے جس سے ایک تعلق پادشاہ سے معلوم ہوتا تھا۔ قطب الملک والی گلکنڈہ نے ایک عرضداشت مع اس دیار کے تحائف کے بھیجی پادشاہ نے اسکو قبول کیا۔

مرتضیٰ نظام شاہ والی احمد نگر کا چھوٹا بھائی برہان الملک تھا۔ جب حسین نظام شاہ والی احمد نگر کی زندگی ختم ہوئی تو اُسکا بڑا بیٹا مرتضیٰ نظام شاہ باپ کا جانشین مگر حقیقت میں اسکی ماں حکمران ہوئی۔ یہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو باپ کی طرح چاہتا تھا اور سب سے زیادہ بزرگ رکھتا تھا مگر زمانہ کی گردش ایسی آئی کہ سورش طلب فتنہ انگیز و نکمّے سبب سے اُسنے ماں اور بھائی دونو کو مقید کردیا اور ہر ایک کو ایک قلعہ میں بھیجدیا۔ وہ فقیر ہوگیا یا دیوانہ کہ آدمیوں کے ملنے سے بھاگتا تھا اور سلطنت کا سارا کام

وکیل بیجاپور ۹۸۶ھ

وکیل گلکنڈہ ۹۸۸ھ

برہان الملک کا پادشاہ کے پاس آنا ۹۹۱ھ

جمالی الدین حسین کو سپرد کیا وہ مرغبازی سے نظام کا ہمزبان ہوا تھا پھر اسکو آصف خاں کا خطاب ملا تھا۔ جوانی کی مستی میں آنکروہ خود سر ہو گیا۔ مرتضیٰ نظام اپنا خلوت نشین ہوا کہ خلق کو اُسکے مرجانیکا یقین ہوا۔ وہ بیدر گیا ہوا تھا۔ اس سبب سے ایک شورش برپا ہوئی۔ انہیں دنوں میں برہان الملک قلعہ دار کی یاوری سے قلعہ سے باہر نکلا اور شورش برپا کی۔ پانچ چھ ہزار آس پاس کے اوباش جمع ہو گئے مگر اسکی عقل زندان میں اور بخت خواب میں تھا۔ ناگاہ اسکی خبر مرتضیٰ نظام الملک کو ہوئی تو وہ احمد نگر میں آیا خلق نے جانا کہ وہ زندہ ہے پھر برہان الملک کا ہنگامہ افسردہ ہو گیا اُسنے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ مدت سے میں خلوت نشین ہو گیا ہوں اور آدمیوں کے ملنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا بھائی طلبگار حکومت ہے اب سب مجھکو چھوڑ کر اُسسے جا ملو۔ ہمراہیوں نے یہ گذارش کی کہ سزاوار یہ ہے کہ ان فرومایوں کو شکست دیکر حضور یہ خیال کریں تو گنجایش ہے ورنہ لوگوں کو حقیقت کار پر اطلاع نہیں ہوگی۔ اور حضور کی زبونی اور ناتنومندی پر گمان ہوگا۔ اس گذارش سے وہ خوش ہوا اور اپنے دل سے جنگ پر مستعد ہوا۔ باوجودیکہ اُس پاس سپاہ کم تھی مگر ہمراہیوں کی خیر سگالی و وراستی سے لڑائی کی نوبت نہ آئی اور برہان الملک کے پاس سے گروہ گروہ آدمی الگ ہو کر اُس پاس آگئے اور برہان الملک حدود بیجاپور میں زمینداروں کے پاس پناہ مانگنے گیا اور وہاں سے عادل خاں حاکم بیجاپور پاس گیا۔ یہاں بھی اسکا افسون اور حیلہ سازی کارگر نہ ہوئی تو جوگی بن کر احمد نگر میں آیا اور چھپ کر آدمیوں کو اپنے پاس جمع کیا اور اُن سے عہد و پیمان باندھا۔ مگر بھانڈا پھوٹ گیا تو وہ مرزبان بگلانہ کے پاس گیا وہاں سے ناکام ہو کر ہندر بار میں قطب الدین بنسے ملا اور اُس کے ذریعہ سے ۱۱ مرداد ۹۹۱ سنہ ۲۸ کو بادشاہ کا آستان بوس ہوا۔ بادشاہ ہمیشہ مُصیبت کے ماروں پر مہربانی کیا کرتا تھا اسکو اپنی عاطفت سے سربلند کیا دو سال کے اندر ایک اور برہان الملک پر جلال الدین انجو نے سفارش کر کے پیش کیا۔

اور وہ بادشاہ کے الطاف سے بلند پایہ ہوا۔ ایک دن دونوں کو روبرو بلاکر تحقیقات کیگئی تو معلوم ہوا کہ وہ حکیم الملک کا بیٹا ہے۔ نظام الملک کی ماں نے اُسے پرورش کرکے بیٹا بنایا تھا وہ خوف میں آنکر بے محابا بھاگا۔ اسکو بادشاہی آدمیوں نے گرفتار کرکے زندان میں بھیجدیا۔

بادشاہ کی نیت میں یہ تھا کہ دکن کے مرزبانوں کی پیرایش اور زیردستوں کی آرایش کرے اسلئے اسنے خان اعظم کو گڈھ اور رالیسین اور اسکے حواشی اقطاع میں دیکر دکن کو روانہ کیا اور یہ نصیحت کی کہ جو رئیس رعیت پر ظلم کرتے ہیں اُنکی سیاست عمدہ روش سے کیجائے اور رعیت کی تسلی و غمخواری سعادت منش خیرسگالوں کے حوالہ کیجائے اور اپنی پیشگاہ سے عبدالمطلب خاں و راجہ اسکرن و شیرویہ خاں و میر جمال الدین حسین انجو و برہان الملک دکنی و ... عبدالرحمن و نوبہ بیگ و حاجی عبداللہ کاشغری و سلیمان قلی ترک و علی مراد و شیر محمد و علی قلی اور بعض جوانمردوں کو رخصت کیا اور ہر ایک کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے تیول میں جاکر یورش دکن کا سرانجام کرنا پیشِ نہاد خاطر رکھیں۔ شہاب الدین احمد خاں و شریف خاں و تولک خاں و رائے درگا و سانجی خاں و حکیم عین الملک و بازبہادر و شیخ عبداللہ و مدھکر و جگمن و کشن داس اور امراء مالوہ کو حکم ہوا کہ لشکر دکن کے ہمراہ جائیں اور صوبۂ اجمیر میں آصف خاں کو حکم ہوا کہ وہ اس ناحیہ سے کچھ سرداروں کو بھیجے۔

خواجگی فتح اللہ کو بخشی اور مختار بیگ کو دیوان لشکر مقرر کیا۔ راجہ علی خاں مرزبان خاندیس کے پاس میر فتح اللہ شیرازی کو عضد الدولہ کا خطاب دیکر روانہ کیا کہ وہ اسکو رہنمونی کرے اور بعض اور کارشناس صلح پسند ہمراہ کئے کہ اگر مناسب ہو تو وہ اور حکّام دکن کی نصیحت گری کے لئے بھیجے جائیں۔

خان اعظم مرزا کو کہ اپنے لشکر کو ہنڈیہ میں لے گیا اور یورش کا سامان کرنے لگا۔ ایک گروہ کو بھیجکر سانولی گڈھ (سالوی) کو ناہر راؤ سے چھین لیا وہ اماں مانگ کر ملگیا۔ بادشاہ نے اسکو مالوہ میں عمدہ تیول دیدی اور زمیندار بھی آن ملے۔ خوب ہنگامہ گرم ہوگیا۔ جب

بادشاہ کا دکن میں فوجیں بھیجنا سنہ ۹۹۳

لشکر کا حسب دلخواہ فتح نہ کرنا اور میر مرتضیٰ و خداوند خاں کا ... سنہ ۹۹۴

سب امرا کہ نامزد ہوئے تھے فراہم ہو گئے تو اُن میں دو روئی اور دہ زبانی شروع ہوئی سپہ سالار اُن پر بدگمان ہو کر سراسیمہ ہوا۔ کام کا ڈھنگ بگڑ گیا۔ شہاب الدین احمد خاں رنجیدہ ہو کر بلا اجازت اپنی جاگیر کو چلا گیا۔ سپہ آرا نے اُس سے لڑنے پر آستینیں چڑھائیں۔ نیک آدمیوں کی کوشش سے آویزش نہ ہوئی مگر آمیزش بھی نہ ہوئی۔ احمقوں کی باتوں سے تولک خاں پر جو امرا بابری میں سے تھا تہمت رکھی گئی اور قید خانہ میں بھیجا گیا۔ امیر فتح اللہ شیرازی بہت تکلیف اُٹھا کر خاندیس سے ناکام آیا اور رغمزدہ ہو کر گجرات میں خانخانان پاس چلا گیا۔ غرض بیجا توقعوں اور پراگندہ غرضوں سے سپاہ چندی اور جنگجوئی میں کم ہوئی۔ غنیم جو اسکی ہیبت سے لرزرہا تھا اسپر شیر دلیر ہوا۔ راجہ علیخاں حاکم خاندیس و فرہاد خاں و جمشید خاں و اژدر خاں و میر تقی اور اُمرا برار و احمد نگر لشکر فراہم کر کے لڑنے کے قصد سے آئے تو اُمرا شاہی جاگے اور رازگوئی کی مجلس جمع کی۔ مگر جس مجلس میں دوست کو دشمن سے اور مدارا کو مداہنہ سے نہ جدا کر سکیں اُس سے کسیطرح کوئی کام سرانجام نہیں پا سکتا ہے اور کوئی ارادہ پورا نہیں ہو سکتا ہے آپس کی نااتفاقی سے لڑنے کی قوت نہ تھی اور سب کی ہمت کارزار سے قاصر تھی۔ غنیم کی برابر سے کنارہ کش ہو کر برار کی طرف چلے یہ مُلک دکن میں مالوہ سے ملا ہوا ہے۔ پرتال کو ایک گوشہ میں بھیجکر جلد جلد چلنے لگے اس راہ میں زمیندار ہیتا راؤ کو جو رہنما تھا دو روئی کے وہم سے مار ڈالا بنے علی سے نواحی کھرلہ میں سپاہ کے ایک گروہ کو ایلغار کر کے بھیجا مگر کچھ کام نہ نکلا اور بہت گزند جانوروں کو پہنچا بہت تگا دو کر کے برار کو خالی پایا اور اسکو لوٹا روز نوروز وزیر اس سرزمین کے دارالملک ایلچ پور کو غارت کیا۔ ایک جماعت کا یہ ارادہ تھا کہ احمد نگر تک باگ نہ موڑی جاے۔ دوسری جماعت کہتی تھی کہ اس آباد ملک کی حفاظت کرنی چاہیئے اور بتدریج آگے بڑھنا چاہیئے۔ دونوں باتوں میں سے ایک بات نہ ہوئی لشکر بہت سی غنیمت لے کر گجرات کی طرف چلا۔ اس میں یہ سوچا گیا کہ اگر غنیم آجائے اور کام میں دشواری پیدا ہو تو گجرات کی سپاہ یاوری کرے۔ اور اندوختے

ہاتھ سے نہ جائیں مخالف اس مراجعت سے حیرت میں ہوا اور چارہ کار کے درپے ہوا۔ توپخانہ اور لشکر کو چھوڑ کر وہ پیچھے سے آیا اور ہنڈیہ کو لوٹ لیا اور اسمیں آگ لگا دی۔ لشکر شاہی میں سخت گزیوں میں سفر کرنے کی طاقت نہ تھی بہت سے انمیں سے نہیں پہنچ سکتے تھے بازگشت میں لشکر شاہی کو فتح کی صورت دکھائی دی۔ قراول دور دور پھرتے تھے قصبہ چاندپور کے نزدیک زمینداروں سے لشکر کی کچھ لڑائی ہوئی۔ بہت مال ہاتھ لگا۔ مگر حاجی عبداللہ سلطان کاشغری ہلاک ہوا خاندیس کے نزدیک محمد قلی اوزبک غنیم سے جدا ہو کر شاہی لشکر سے آن ملا۔ مخالف کی کمی اور کمزوری بیان کر کے اُسنے کہا کہ باگ پھیر کر دشمن سے لڑائی کیجائے تو فتح ہو مجھے پابند رکھ کر ہمراہ لیچلو اگر میرا کہنا سچ نہ ہو تو گردن اڑا دو مجلس مشورہ ہوئی تجربہ کاروںکی کوشش سے بیکار قرار پائی۔ ایک دن آمادگی میں گزرا۔ سپہ آرا کے ڈرپوک پنے سے صبح کو کوچ کا نقارہ بجا اور بغیر ایک دوسرے کے آگاہ کرنیکے گرم رفتار ہوئے۔ رات کو پرتال اور چوپائے چلتے۔ دن کو امرا کوچ کرتے اس طرح چلنے سے غنیم کا دل بڑھتا تھا اور اُنکے پیچھے دلیرانہ چلا آتا تھا۔ دو دفعہ ہراول اور چندا ول میں کچھ لڑائی ہوئی مخالف کو شکست ہوئی۔ اگرچہ کارزار میں کچھ قابو نہ چلا اور دکن جو ہاتھ آیا تھا وہ بھی گیا مگر غنیمت بہت ہاتھ لگی ۲۲ فروردین ۹۹۴ھ کو لشکر نے ندربار میں آن کر آرام کیا۔ اس سے پہلے چند دکنیوں نے دنگہ فساد کیا تھا قلیچ خاں کے گماشتوں نے رعیت کی تیمارداری سے پہلوتہی کی تھی مگر لشکر آجانے نے شورش کی جڑ کاٹ دی۔ خاندیس کی انتہا سے مخالف نکلا۔ خان اعظم جریدہ گجرات خانخانان کے پاس اس خیال سے چلا گیا کہ اس ملک کی سپاہ سے یاوری مانگے۔ خانخانان نے اس کی تعظیم کی اور تھوڑے عرصہ میں عمدہ لشکر اسکی ہمراہی کے لئے تیار کر دیا مگر بدگوہروں کی یاوہ گوئی سے اب کچھ اور قصد ہوا۔ میر ابوتراب کو دکنیوں کے پاس آشتی کے لئے بھیجا اور ہر ایک اپنی جاگیر کو چلا گیا۔ غنیم کو اس سرگذشت سے

خوشی ہوئی اور اُس نے پیشکش بھیجی - مرزا کوکہ نے حوالی منڈو میں حمیر جیت پوری کو سزا دی وہ مالوہ کے زمینداروں میں سے تھا - جسوقت کہ لشکر برار کو گیا تو ملک کو خالی دیکھکر منڈو کے بعض مقامات کو لوٹ لیا اور جلا دیا -

برہان الملک کا فتح دکن کے لئے بادشاہ کا بھیجنا ۹۹۶ھ

بادشاہ نے ۹ خرداد ۹۹۶ھ ۳۴ کو برہان الملک کو لشکر تیراہ سے بُلا کر دکن کی فتح کو روانہ کیا اسکا بڑا بھائی مرتضیٰ نظام الملک جبتک احمد نگر میں فرمان روا رہا رعیت و لشکر کچھ شکوہ جبین سے رہتی تھی گوہ سودائی اور خلوت گزین تھا مگر انصاف اسکے عہد میں ہوتا تھا اسلیئے بادشاہ نے برہان الملک کو جو اسکی پناہ میں آیا لشکر دیکر نہیں بھیجا تھا - مگر جب مرتضیٰ مرگیا اور دکن میں شورش برپا ہوئی تو بادشاہ نے برہان الملک کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا - اسکی سرگزشت یہ ہے کہ شاہ قلی گرجی کو فرمان روائے ایران شاہ طہماسپ نے تحفے دیکر بھیجا تھا - اسنے دکن میں بڑا اعتبار پیدا کیا اور صلابت خاں کے خطاب سے سربلند ہوا - بارہ سال میں مرتضیٰ سودائی کے عہد میں وہ مہمات ملکی و مالی میں با اختیار رہا - مگر اس سبب سے کہ مرزبان میں عقل نہ تھی اور کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا تھا اپنے پاگل پنے سے حکم دیدیا کہ صلابت خاں کو فلاں قلعہ میں بند کردو اس شائستہ خدمت نے خود اپنے تئیں پابزنجیر کر کے اس قلعہ میں پہنچا دیا - ہرچند سرداروں نے سمجھایا کہ اس احمق کے کہنے سے زندان میں نہیں جانا چاہیئے - مگر سود مند نہ ہوا - اُسنے کہا کہ اپنے خداوند کے فرمانے سے باہر نہیں جانا چاہیئے - اسکے بعد ایک ناپارسا عورت نے اُسکے سودائی مزاج میں دخل پایا اور اسکا بھائی اسمٰعیل ملکی شغلوں میں مصروف ہوا اور اُسکی یاوری سے مرزا خان سبزواری نے اعتبار پایا - اس فرومایہ نے مرتضیٰ کے بیٹے میران حسین کو جو قلعہ دولت آباد میں قید تھا لاکر فرمان روا بنایا اور سودائی کو مار ڈالا - تھوڑے عرصہ میں نفاق پیدا ہوا اور آپس میں کیں توزی شروع ہوئی یہاں تک کہ مرزا خان نے قابو پاکر میران حسین کو زندانی بنایا اور برہان الملک کے بیٹے اسمٰعیل کو نظام الملک بنایا

جمال خاں دکنی نے بہت سے آدمیوں کو جمع کر کے قلعہ احمدنگر کا محاصرہ کیا۔ مرزا خاں نے اُس نادانی کا سر کاٹ کر قلعہ کے باہر پھینک دیا وہ سمجھا یہ تھا کہ میران حسین کے سر کو دیکھکر اسکے ہوا خواہ پست و شست ہو جائینگے مگر وہ اور گرم اور چست ہو گئے۔ اُنہوں نے قلعہ کو توڑا مخالف پوشیدہ بھاگ گئے مگر سب گرفتار ہو کر مارے گئے۔ بس اسمٰعیل کو ناگزیر نظام الملک ماننا پڑا اُس نے کیس توزی سے تورانیوں اور ایرانیوں کو مارا اور تین ہزار بیگناہوں کا خون اپنی گردن پر لیا۔ اب بادشاہ کہ کشمیر کی سیر کو گیا تھا اور برہان الملک کو اُسنے کابل اور سندھ کے ودیان افغانوں سے لڑنے بھیجا تھا۔ اسنے بُلا یا اُسکو نصیحتیں کر کے دکن کو روانہ کیا۔ سپہ آرا سے مالوہ خان اعظم کو اور راجہ علی خاں مرزبان خاندیس کو اور امرا کو حکم ہوا کہ عمدہ لشکر کا سامان کر کے اسکے ساتھ کریں اور ایسی ہمت کریں کہ اس ملک پر جلد غلبہ ہو جائے۔

جب فرمان شاہی خان اعظم مرزا کوکہ کو پہنچا تو اُس نے چاہا کہ ایک منتخب لشکر اسکے ہمراہ کرے مگر برہان الملک نے کہا کہ سپاہ کا بہت ہونا آسان کام کو دشوار کر دے گا اور دکنی جلد گرویدہ نہیں ہونگے بلکہ متوحش ہونگے ان کو صلح سے مطیع کرنا چاہتا ہوں اسلئے خان اعظم نے چغتائی خاں و چندہ خاں کو اور دو ہزار سوار اور تین سو بندوقچیوں کو اسکے ہمراہ کیا۔ برہان الملک کالی بھیت کی راہ سے برار میں آیا۔ ایلچپور کو داہنی طرف چھوڑکر دانا پور کو دوڑا۔ جہانگیر خاں تھانہ دار اور بعض اور زمیندار لابہ گری سے پیش آئے مگر اسکے تنگ حوصلہ ہمراہیوں نے انہیں قبول نہیں کیا انسے لڑنے کھڑے ہوئے چغتائی خاں کو بندوق سے مارا اور چندہ خاں زخمی ہو کر اسیر ہوا۔ برہان الملک ناکام مالوہ میں آیا۔ اپنی تباہ سگالی کا عوض پایا۔

اول دفعہ برہان الملک دکن سے ناکام پھر کر اپنی اقطاع میں مالوہ کے اندر بسر کرنے لگا۔ ان دنوں میں خان اعظم تو گجرات گیا اور شہاب خاں کا انتقال

ہوا تو راجہ علیخاں مرزبان خاندیس پاس برہان الملک گیا۔ پادشاہ کے حکم کے سبب سے راجہ علیخاں برہان الملک کی یاوری میں سرگرم ہوا۔ عادل خاں مرزبان بیجاپور سے یہ امر قرار پایا کہ جب وہ احمد نگر کی طرف جائے تو اسطرف وہ لشکر لائے۔ جمال خاں نے آرایہ احمد نگر نے ان دونوں سپاہیوں کے فراہم ہونے کے خوف سے یہ چالاکی کی کہ پہلے اس سے کہ برہان الملک نزدیک ہوا اسمعیل کو لے کر بیجاپوریوں سے لڑنے لگیا اور تھوڑی لڑائی میں غالب ہوگیا۔ جب برار میں برہان الملک آیا تو امجد الملک و عظمۃ الملک و سیف الملک و شجاعت خاں و جہانگیر و حیدر خاں و عزیز الملک اور اور سردار اس سے آنکر ملگئے۔ اب بے جنگ کئے اس ملک برار سے اس کی خاطر جمع ہوگئی۔ جس روز جمال کو اسکی اطلاع ہوئی وہ سبک رو ہوا۔ اور رشتۂ تدبیر کو چھوڑ۔ شائستہ آمادگی بغیر گریوہ مرداپور کے نزدیک عرصۂ نبرد آراستہ ہوا اور بینی کے سبب سے برہان الملک کو راجہ علی خاں امراء برار سے دور رکھتا تھا اور خود کارزار میں آتا تھا اور ہنگامۂ جنگ گرم کرتا تھا اس زد و خورد میں جمال خاں کے بندوق لگی اور جان گئی لشکر دکن پراگندہ ہوا اور برہان الملک کو فتح ہوئی۔ تھوڑے عرصہ میں اسمعیل گرفتار ہوا اور قیدخانہ میں ڈالا گیا۔ مرزبان خاندیس تھوڑے آدمی ساتھ لے کر خود چلا آیا اور برہان الملک تھوڑے عرصہ میں احمد نگر پر دوڑ کر گیا اور سارے ملک پر غالب آیا۔

احمد نگر پر جب برہان الملک کا تسلط ہوا تو اُسے چاہیئے تھا کہ وہ پادشاہ کی سپاس گذاری ایسی کرتا کہ اس سرزمین کے اور مرزبانوں کا سرمایہ فرمان پذیری ہوتا مگر اسکو کامروائی کا نشہ ایسا چڑھا کہ وہ پادشاہ کی طرح طرح کی نوازشوں کو بھول گیا اور رعایا کو آزار دینے لگا اور اوروں کے نقصان میں اپنا فائدہ جاننے لگا۔ پادشاہ نے اپنی بخشایش منشی سے یہ سوچا کہ برہان الملک کو راجہ علی خاں نے مسند حکومت پر بٹھایا ہے اسلئے اول اسکے پاس اور کوئی

کار آگاہ بھیجا جاوے اور اسکے مشورہ سے برہان الملک کو نصیحت کیجاے اور مرزبانوں کو بھی فہمایش کیجاے اگر وہ سن لیں تو انکی بدی کے مکافات سے درگذر کیجاے اور وہ نہ مانیں تو پھر لشکر سے اسکی خبر لیجاے

پادشاہ کا شاہان دکن کے پاس ایلچیوں کا بھیجنا سنہ ۹۹۹

اس سال کے شوال مہینے میں پادشاہ نے اپنے مخصوص ملازموں کو دکن کے حاکموں کی رسالت کے لئے منتخب کیا ۔ ملک الشعرا شیخ فیضی کو راجہ علیخاں حاکم اسیر و برہانپور پاس اور خواجہ امین الدین کو برہان الملک پاس کہ احمدنگر میں اولیاء دولت کی مدد سے حکومت کرتا تھا اور میر محمد امین کو عادل خاں حاکم بیجاپور پاس اور مرزا منیر کو قطب الملک حاکم گولکنڈہ پاس روانہ کیا ۔ اور شیخ فیضی کو یہ بھی حکم تھا کہ وہ راجہ علی خاں کے پاس سے ہوکر برہان الملک پاس بھی جائے ۔ ابو الفضل کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رسالت سے مطلب یہ تھا کہ اور ریاستوں کی بھی مرضی معلوم ہو کہ برہان الملک سے لڑنے کے باب میں کیا ہے ۔ ظاہرا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حاکمان دکن سے درخواست کی گئی کہ وہ اکبر کی شہنشاہی کو قبول کر کے اطاعت کریں ۔ تاریخ فرشتہ میں تو یہ لکھا ہے کہ شاہان دکن نے اکبر کی شہنشاہی کو نہیں تسلیم کیا ۔

نظام الدین نے لکھا ہے کہ برہان الملک نے لائق پیشکش نہ بھیجی اور روش اخلاص میں مناسب دولتخواہی نہ ظاہر کی اسلئے پادشاہ نے اس سے لڑنے کا ارادہ کیا ۔

فیضی کی ایک کتاب واقعات فیضی ہے اُسمیں وہ عرضداشتیں جمع ہیں جو اسنے شہنشاہ کو تحریر کی ہیں انمیں یہ ایک عرضداشت دلچسپ ہے اسکا ترجمہ لکھتے ہیں ۔

دور و دراز سفر طے کر کے اور بہت سی منزلیں چل کر برہانپور سے ۵۰ کوس پر پہنچا اور دوسرے روز یہاں میں نے اپنے خیموں کو ایسا درست کیا جیسا کہ ملازمان شاہی کو سزاوار ہے ۔ میرے خرگاہ میں خیمہ کے اندر خیمہ تھا ۔ اندر کے خیمہ میں تخت شاہی بچھا تھا ۔ اور اُسپر مسند تکیہ زرین لگا یا ہوا تھا ۔ اور اُسکے اوپر زردوزی مخملی شامیانہ تنا ہوا تھا اور تخت کے اوپر پادشاہی شمشیر اور خلعت اور فرمان رکھا تھا اسکے گرد

آدمی دست بستہ کھڑے تھے اور گھوڑے جو دینے کے لئے بادشاہ نے بھیجے تھے وہ بھی اپنے مقام پر کھڑے تھے راجہ علی خاں مع اپنے ملازمین اور وکیل اور حاکم دکن ادب کے ساتھ جس سے اطاعت اور خیر خواہی معلوم ہوتی تھی آئے وہ خیمہ سے کچھ فاصلہ پر اترے۔ اور باہر کے خیمہ میں مودبانہ داخل ہوئے۔ اندر کے خیمہ میں جانے کی اجازت دیگئی جب وہ اس خیمے میں داخل ہوے اور کچھ فاصلہ پر تخت شاہی کو دیکھا تو کورنش بجا لائے اور ننگے پاؤں چلے۔ جب وہ تخت کے قریب پہنچے تو تین دفعہ نہایت ادب سے تسلیم بجا لائے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہوگئے تو میں نے فرمان شاہی کو دونو ہاتھوں میں اُٹھایا اور راجہ علی خاں کو پاس بلایا اور یہ کہا کہ شہنشاہ ظل اللہ نے تمہارے پاس وہ حکم نہایت اپنے فضل و کرم سے بھیجے ہیں پھر میں نے کہا کہ شہنشاہ نے تمہارے لئے خلعت بھیجا ہے اسنے سر جھکا کر سلام کیا اور خلعت پر بوسہ دیا اور پھر سلام کیا اور جب بادشاہ کا نام آتا تو وہ سلام کرتا۔ پھر راجہ علی خاں نے کہا کہ مجھے مدتوں سے تمنا تھی کہ حضور کے روبرو بیٹھوں اور اُسنے بیٹھنا چاہا۔ میں نے اُسکو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی وہ مودبانہ بیٹھ گیا۔ جب مناسب موقع آیا تو میں دوربینی کے ساتھ اُس سے مخاطب ہوا اور اسکو بتلایا کہ وہ کیونکر اپنی مرادوں میں کامیاب ہو سکتا ہے میری تقریر کا بڑا حصہ حضور کی مدح و ثنا تھی۔ اُس نے مجھے جواب دیا کہ میں بادشاہ کا بندۂ خیر خواہ ہوں اور مجھ پر یہ نہایت عاطفت شاہانہ ہوئی ہے۔ میں نے پھر بیان کیا کہ بادشاہ کی عنایت زیادہ تر آپکے حال پر ہے اور وہ آپکو دلی خیر خواہ دوست سمجھتا ہے اور نہایت معتمد و وفادار ملازم جانتا ہے اسکا بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسنے ایک جلیل القدر امیر اپنا بھیجا ہے اسپر اُس نے خوش ہوہو کئی دفعہ سلام کیا۔ اس عرصہ میں میں نے دو دفعہ ایسا اشارہ کیا کہ دربار ختم ہو مگر اُسنے کہا کہ ابھی میرا دل اس دربار سے نہیں بھرا۔ میں شام تک یہیں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ وہ پانچ گھڑی (ڈیڑھ گھنٹہ) بیٹھا۔ آخر کو عطر پان آیا۔ میں نے اُس سے درخواست کی کہ مجھے وہ اپنے ہاتھ سے عطر پان دے۔ میں نے اسکو کئی گلوریاں اپنی ہاتھ سے دیں جنکو اُس نے کئی دفعہ سلام کر کے لیا پھر میں نے کہا کہ بادشاہ کی حیات جاوید اور

دَوام کے لئے دعا کی جائے۔ اُس نے یہ دعا نہایت صدق دل سے مانگی اور دربار برخواست ہوا۔ پھر وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور فرش کے کنارہ پر تخت کے سامنے آیا۔ وہاں پادشاہی گھوڑے کھڑے تھے۔ انکے پاگوں پر بوسہ دیا۔ اور انکو اپنے کندھے پر رکھا اور انکو سلام کیا وہ نہایت خوش اور رضامند ہوا۔ جب وہ آیا تھا تو اُسنے کہا کہ اگر حکم ہو تو تین ہزار سجدے پادشاہ کو کروں۔ میں اپنی جان اُسپر سے قربان کرتا ہوں۔ مینے کہا تھا کہ آپ کی محبت کا یہی اقتضا رہونا چاہیئے۔ مگر پادشاہ خود اُس قسم کی تعظیم کو اپنے دربار کے ملازموں کو منع کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس قسم کی تعظیم صرف خدا ہی کی ذات کے لئے مخصوص ہے۔ راجہ علی خاں کے ساتھ عہد و پیمان کی ترقی ہوئی۔

مشرقی ملکوں میں سفارت کے کام ہفتوں میں ختم ہوتے ہیں۔ فیضی ۲۴ شہریور ۹۹۹ھ کو گیا ۲۸ اردی بہشت ۱۰۰۰ھ کو آیا۔ اتنے عرصہ میں سفارت کا کام ہوا۔

شہنشاہ اکبر اپنے ہمسایہ کے مرزبانوں کی حالت کو ہمیشہ نیک نیتی کیساتھ بہت غور سے سوچتا تھا اگر وہ انکو دیکھتا کہ رعیت کی غمخواری کرتے ہیں تو انکو کبھی گزند نہ پہنچاتا اور اگر انکو ایسا نہ پاتا تو اول نصیحت سے سمجھاتا اور بیم و امید کی داستان سُناتا جب اس پر بھی نہیں مانتے تو پھر انکے گناہ کی سزا دیتا اور انکی لابہ گری کو ہرگز نہیں سُنتا۔ جب دکن کے سرداروں نے ناہنجاری اختیار کی تو ہمنے اوپر بیان کیا ہے کہ اُسنے پند گذاری کے لئے اپنے کارآگاہ بھیجے اور سلطان مُراد کو ملک مالوہ اقطاع میں اس خیال سے دیا کہ اگر مرزبانان دکن پر نصیحت اثر نہ کرے تو وہ ان کو سزا دینے کے لئے آمادہ ہو۔ ۴ مہر ۹۹۹ھ شہزادہ مالوہ کی طرف روانہ ہوا۔ مگر جب گجرات سے مرزا کوکہ حج کو چلا گیا تھا تو ۴ اردی بہشت کو شاہزادہ سلطان مراد کو مالوہ سے گجرات میں بدل دیا اور مالوہ میں مرزا شاہرخ کو بھیجدیا۔ اس شہزادہ کا اتالیق پہلے اسمٰعیل قلیخاں مقرر ہوا تھا مگر یہ کام اچھی طرح نہیں کیا۔ اسلئے ۱۳ تیر ۱۰۰۰ھ کو صادق خاں کو شہزادہ پاس اتالیق کے لئے بھیجا کہ وہ اس طرف کے تمام مہمات کو انصرام دے۔

۹۹۹ھ سلطان مراد کا مالوہ بھیجا جانا ارادہ سے دکن کی فتح کے

برہان الملک اور اسکے جانشینوں کی سرگذشت ۱۰۰۳ ھ

• ۲۸ اردی بہشت سنہ ۳۸ الہٰی کو دکن سے ملک الشعراء شیخ فیضی ایک سال آٹھ مہینے چودہ روز کے بعد بادشاہ کی آستان بوسی سے مشرف ہوا اور عرض کیا۔ برہان الملک نے بادشاہ کی نصائح کو نہیں مانا اور وہ اپنی خودکامی سے بدمست ہو رہا ہی۔ کچھ ایسی ویسی پیشکش بھی اُس نے بھیجی۔ راجہ علیخاں نے حضور کے قانون کو کچھ مان لیا ہی اور اپنی بیٹی کو سلطان سلیم سے بیاہنے کو بھیجا ہے۔ برہان الملک نے عادل شاہ حاکم بیجاپور کے غلام دلاور خاں حبشی کو پناہ دیکر (ایک جھگڑا مول لیا) جسکے سبب سے دونوں میں خوب لڑائی ہوئی اور برہان الملک کو شکست ہوئی۔ اُس نے بندر الگ وڑ کو عیسائیوں سے لینا چاہا۔ فرہاد خاں و اسد خاں رومی کو بہت آدمیوں کے ساتھ وہاں بھیجا۔ بے شرمی سے فرہاد خاں کی ہم خواجہ کو دامن آلود کیا وہ شرم کے مارے عیسائیوں سے ملگیا۔ بہت سے دکنی مارے گئے۔ اسد خاں دستگیر ہوا۔ برہان الملک نے باہ افزائی اور طبیعت پروری کے لئے دوائیں کھائیں اور ناتجربہ کاروں کے کہنے سے اپنے تئیں بیمار بنایا۔ یہانتک کہ زندگی سے ناامید ہوا اور اپنے بڑے بیٹے ابراہیم کو زندان سے نکالکر ولی عہد کیا۔ اخلاص خاں جو اسمٰعیل کی سلطنت چاہتا تھا دلگیر ہوا۔ اور اسنے مرتضیٰ خاں کے لشکر میں مشہور کردیا کہ برہان شاہ فوت ہوا۔ اس سبب سے چاروں طرف غدر مچ گیا مگر بادشاہ پالکی میں پڑکر احمد نگر سے ۳ کوس پر باہر آیا اور اس غدر کو مٹایا اور ابراہیم کو چتر اور آفتاب گیر اور اثاثہ سلطنت سپرد کیا اور اخلاص خاں سے لڑکر فتح پائی۔ مگر قلعہ میں دوسرے روز اسپر ضعف طاری ہوا کہ ۱۸ شعبان سنہ ۱۰۰۳ کو طائر روح نے اسکے پرواز کی اور ابراہیم نظام شاہ باپ کے تخت و تاج کا مالک ہوا۔ کم ہمتی کے سبب سے اُسنے بھائی کی آنکھوں کو بے فروغ کیا۔ مگر وہ عادل سے لڑکر مارا گیا۔ چار مہینے دو روز سلطنت کر گیا۔ منجھو اتابک برہان شاہ نے احمد نگر میں آنکر ایک بارہ برس کے لڑکے احمد کو خاندان نظام شاہ میں سے گمان کرکے دولت آباد سے بولایا اور اسکے سر پر تاج رکھا اور شہزادہ بہادر ولد ابراہیم نظام شاہ شیر خوارہ کو جنیر میں قلعہ چوندین میں قید کیا اور خزانہ قلعہ پر

تصرف کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ احمد شاہ خاندان نظام شاہ سے نہیں ہے تو اُسکو معزول کرکے قید کیا وہ اپنی عمر طبعی پر پہنچکر مرگیا اسکے بیٹے احمد شاہ کو میاں منجھو نے بادشاہ بنایا۔ اسکے مخالفوں نے احمد نگر کے بازار میں سے ایک طفل مجہول النسب کو پکڑ کر بادشاہ بنایا اور دس بارہ ہزار سوار جمع کرکے میاں منجھو کو قلعہ میں محصور کیا اُنھوں نے سلطان مراد کو جو گجرات میں شہنشاہ اکبر کا بیٹا سپہ سالار تھا عرصہ امداد کے لئے بھیجا مگر پھر آخر کو وہ اس امداد طلبی سے پشیمان ہوا ان واقعات کا مفصل بیان تاریخ دکن میں کیا گیا یہاں ان واقعات کا ذکر اتنا کردیا کہ جتنا کہ اکبر کی تاریخ سمجھنے کے لئے کافی تھا۔

جب برہان الملک بادشاہ کی اندرز گوئی کو افسانہ سرائی سمجھا تو ۲ تیر سنہ ۱۰۰۲ھ شاہزادہ دانیال کو برہان الملک کی سزا دینے کا کام سپرد ہوا خانخانان و رای رائسنگھ اور بہت سے امرا کو اور خزانہ و توپخانہ و فیلخانہ کو اُنکے ہمراہ کیا۔ شاہرخ مرزا اور شہاب خاں و اقطاع داران مالوہ کو حکم دیا کہ وہ برسر راہ شاہزادہ کی ہمراہ سپاہ کو کریں راجہ مانسنگھ کو بھی حکم ہوا کہ بنگالہ سے فارغ ہوکر دکن کو جائے۔

جب بادشاہ کو ۸ رد سے سنہ ۱۰۰۳ کو معلوم ہوا کہ ہنوز شاہزادہ دانیال سہنہ (سرہند) میں ہے اور سپاہ کار طلبی میں قدم نہیں اُٹھاتی ہے تو بادشاہ کو یہ بات اسکی ناپسند آئی۔ خانخانان کو گھوڑے کی ڈاک میں بُلایا۔ اُس نے آنکر بادشاہ سے عرض کیا کہ سپاہ کا دکن میں داخل ہونے کا ارادہ بعد برسات کے ختم ہونے کے ہے تاکہ پانی اور گھاس بہت ملے۔ غلہ ارزاں ہوگا۔ اس سبب سے جانے میں دیر ہورہی ہے۔ مجلس راز میں یہ تجویز ہوئی کہ شاہزادہ انیال پھر آئے اور بعد برسات کے بادشاہ خود تشریف لیجائے۔ شاہزادہ دانیال پنجاب کا حاکم بنے۔ اور یہ خدمت شاہزادہ مراد کو بادشاہ نے حوالہ کی اس سبب سے تردد تھا کہ دانیال کو ناگوار نہ ہو اُس نے قلیج خاں کو بھیجا کہ وہ شاہزادہ کو واپس لے آئے۔ شاہزادہ پٹیالہ کے نزدیک بادشاہ کی خدمت میں آیا اُس دن شہزادہ مراد کی عرضداشت آئی کہ میں ۶ آذر کو احمد آباد میں پہنچا میں نے سُنا ہے کہ شہزادہ دانیال اس خدمت پر نامزد ہوا اس لئے

راجہ علیخاں کا پادشاہ کے لشکر سے ملنا ۱۰۰۴ھ

مجھے یہ اندیشہ پیدا ہوا ہی کہ مجھ سے کوئی حرکت ناشائستہ سرزد ہوئی ہی کہ یہ امر ظہور میں آیا ہی کسی سخن
سازنے ناسزا بات بنائی ہی مگر پادشاہ نے اُسکا یہ اندیشہ پہلے ہی دور کر دیا تھا جس سے کچھ
اس کی سراسیمگی دور ہوئی۔ جب لشکر شاہی کی دکن کے فتح کرنیکے لیے جنبش ہوئی تو از زیادہ
اُسکو از سر نو نصیحت ہوئی اسکے فرستادوں کو پادشاہ نے طلب کیا اور سوگند کے ساتھ عہد و
پیمان ہوئے جس سے خوف دل سے مٹا۔ جب شاہزادہ سلطان مراد گجرات سے دکن کیطرف روانہ
ہوا اور شاہرخ مرزا و خانخانان و شہباز خاں اور اور اُمرا مالوہ کو روانہ ہوئے۔ تو راجہ علیخاں
نے پیش بینی سے خدمت گذاری اختیار کی۔ ۲۷ آبان کو برہانپور سے تیس کوس پر شاہرخ
مرزا اور اُمرا شاہی سے ملا اُن سے بڑے تپاک سے پیش آئے اسکے آباد ملک پر نذر بار کا ملک اور اضافہ کیا

پادشاہی سپاہ کا دکن آنا اور قلعہ احمد نگر کا محاصرہ کرنا ۱۰۰۴ھ

جب پادشاہ کا حکم دکن کی فتح کرنیکا ہوا تو شاہزادہ مراد یورش کے لئے آمادہ ہوا۔
خانخانان کو فوج نہ جمع ہونے کے سبب سے دیر لگی۔ پہلے اس سے کہ دونوں کے
لشکر ملیں انمیں دوروئی شروع ہوئی شاہزادہ یہ چاہتا تھا کہ سپاہ کے تمام سردار اُس سے
آنکر ملیں۔ اور خانخانان یہ چاہتا تھا کہ میں مالوہ کی راہ سے دکن کے فتح کرنے کو جاؤں
جب دونو کی تدابیر میں یکرنگی ہوئی تو ۲۰ آبان سنہ ۴۰ کو شاہزادہ نے احمد آباد سے چلکر بروج
میں سپاہ کے انتظار میں توقف کیا۔ ۲۲ خرداد کو روانہ ہوا۔ خانخانان سپاہ کے فراہم
ہونیکے بعد بھیلسہ میں جو اسکے اقطاع میں تھی۔ ٹھہرا۔ ۱۳ امرداد کو اجین کی طرف روانہ ہوا۔
شاہزادہ اس کی اس حرکت سے آشفتہ ہوا اور درشتی سے خشم آلود پیام بھیجا۔ خانخانان
نے عرضداشت میں لکھا کہ مرزبان خاندیس اتحاد رکھتا ہی اُسکی طرف سے خاطر جمع رکھکے
اور گجرات میں کچھ دنوں شکار سے دل بہلائے۔ شاہزادہ اس جواب سے بھی کچھ خفا ہوا۔
غرض پرستوں نے باتیں لگا کر اسکو اور بھڑکایا۔ وہ گجرات کے لشکر کو لے کر احمد نگر
کی طرف چلا۔ خانخانان نے شاہرخ مرزا کو لشکر و توپخانہ و فیلخانہ دیا۔ اور راجہ علیخاں
کو ساتھ لے کر بہت تیز چلکر احمد نگر سے تیس کوس پر قلعہ چاندپور پر ۱۹ آذر کو شاہزادہ کے

لشکر سے ملا۔ شاہزادہ نے کم آزمونی اور تیز آموزی سے کورنش کی اجازت نہ دی اور بہت دور چلا گیا۔ بہت گفتگو کے بعد شاہزادہ کے پاس رسائی ہوئی اور بار ملا۔ جب لشکر پیچھے آیا شاہزادہ نے نوازش نہیں کی۔ خانخانان اور اسکے ساتھ بہت سے لوگ آزردہ خاطر ہوئے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیا۔ صادق خاں کو شہباز خاں سے پرانا کینہ چلا آتا تھا۔ وہ خوف کے مارے بہت کم دربار میں جاتا تھا۔ ۷ ربیع کو شہر سے آدھ کوس پر لشکر اترا۔ بہت سی رعیت اور سپاہ دلاسا نامے لے گئی۔ اُس روز شہر میں خانخانان و شہباز خاں گئے اور انکی ناپروائی سے سپاہیوں نے شہر کو کچھ لوٹا۔ سخت کوشش کرکے انکو لوٹ سے باز رکھا۔ لیکن اہل شہر پیمان شکنی کو دیکھنے سے آزردہ دل ہوئے۔ ۸ ربیع کو سپاہ نے قلعہ کو محصور کرلیا۔ چاند بی بی ہمشیرہ برہان الملک نے قلعہ داری کی۔ احمد کو سردار بنایا تو اخلاص خاں موتی بکو دستاویز بنا کر احمد نگر میں لایا اور شکست پاکر پٹن کیطرف بھاگا جب دفعتاً لشکر شاہی اُن پہنچا تو کچھ خزانہ اور فیلخانہ کو منجو ساتھ لیکر بیجاپور کی طرف گیا۔ قریب تھا کہ وہ دستگیر ہو لیکن سرداروں کی کم ہمتی سے دونو کام نہ ہوئے۔ چاند بی بی کو اپنے گرفتار ہونیکا اندیشہ تھا اسلئے اُسنے آپ لڑنے کا ارادہ کیا۔ ۹ ربیع کو شاہ علی اور ابھنگ خاں یا نہنگ خاں نے بہت سی سپاہ لیکر خانخانان کے مورچال پر شب خون مارا۔ بڑی لڑائی ہوئی۔ جوانمردوں نے اپنے جوہر دکھائے بہت سے دشمنوں کو مارا پھر وہ قلعہ میں چلا گیا۔ اگر تعاقب ہوتا تو وہ گرفتار ہوتا یا اسکے ساتھ لشکر شاہی قلعہ کے اندر گھس جاتا۔ بادشاہی سپاہ کی دوروئی اور راہ بستگی اور کم آذوقی کے سبب سختی سے گذرتی تھی دانشمندوں نے ہر چند سمجھایا کہ تین بڑی لشکر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اور تین بڑے بڑے کام ہیں۔ ایک قلعہ کی فتح کا۔ دوسرا ملک کی تسخیر کا۔ اور تیسرا راہ کی پاسبانی کا۔ ایک ایک کام ہر ایک لشکر اپنے ذمے لے لے۔ مگر اُنہوں نے نہ مانا۔ ۱۳ ربیع کو لشکر کے ایک گروہ اور چوپایوں کو غنیم نے گزند پہنچائی اور سید راجو کی اور اسکے کئی بھائیوں کی جان گئی۔ ۱۶ ربیع کو گجرات کا ایک کارواں احمد نگر کے قریب آگیا تھا۔ سعادت خاں نے اُسے لوٹ لیا۔ سید عالم اور کئی ایک بڑے آدمی مارے گئے۔ شیخ معروف

اور چند اور آدمی سلامت نکل گئے انکی سزا دینے کے لئے صادق خاں راجہ علیخاں کو ساتھ لیکر گیا۔ مگر کچھ کام نہ کر سکا وہ اور راجہ دونوں اپنا سا منہ لے کر چلے آئے پایہ شناسی کے سرشتہ کو ہاتھ سے نہ دینا چاہیئے۔ شیر کی شکار کے لئے شغال نہ بھیجنا چاہیئے۔ ۹ ار شیر خواجہ شیخ و دولت کامران بیگ و دولت خاں کو پٹن کی طرف بھیجا۔ انکی اخلاص خاں سے خوب لڑائی ہوئی اور اسکو شکست دی اور بہت لوٹ ہاتھ آئی سرگروہ ایسا نہ تھا کہ اُسکی دور باش ستم کو روکتی اسنے پٹن کے باشندوں کو امان نامے دیکر ایسا لوٹا کہ کچھ مال پاس نہ چھوڑا۔ اس بدعہدی کو دیکھکر سب چھوٹے بڑے بھاگ گئے ۱۱ ار اسفند یارمذ کو قلعہ کی دیوار تھوڑی سی توڑی۔ شاہزادہ کے مورچال نے سخت کاوش کرکے قلعہ کی بُنیاد خالی کی۔ باروت بھر کر لگادی۔ تیئں گز دیوار گر پڑی۔ تیز دست اندر جانیکے لئے آمادہ تھے۔ مگر نور خاں۔ صادق خاں کی نقب بھی تیار تھی۔ اُسکے اُڑنے کا انتظار تھا۔ چتور کے واقعہ سے پہلے ڈرے ہوئے تھے۔ اس انتظار میں اتنا التوا کیا کہ اہل قلعہ نے بھی اپنی شکستہ دیوار کو از سر نو بنا لیا۔ دوسرے روز کچھ بہادر اس دیوار پر گئے مگر کچھ نقصان اُٹھایا۔ اتنے میں رات ہوگئی۔ قلعہ کی بیرونی سپاہ کی دوروئی سے اہل قلعہ واقف تھے کچھ تھوڑے سے سراسیمہ ہوئے اور صلح کی درخواست کی کہ برہان الملک کا پوتا بہادر زندان سے نکالا جاے۔ اور اس خردسال کو نظام الملکی کا خطاب دیا جائے وہ پادشاہ کے ملازموں سے ایک سمجھا جاے اور آباد ملک احمد آباد کا اُس کے اقطاع میں دیا جائے اور اسکی سپاس گذارنی میں ولایت برار لشکر شاہی کے حوالہ کی جائے جواہر اور عمدہ ہاتھی پادشاہ کی پیشکش میں بھیجی جائیں۔ ایک گروہ نے کارشناسی کے سبب اور بعض نے فتنہ دوستی کے سبب ان شرائط کو قبول کرلیا۔ اگرچہ بعض کارآگاہوں نے اہل قلعہ کی کم آذوقی و سراسیمگی و دستان سرائی گذارش کی مگر کچھ سودمند نہ ہوئی ۱۲ ار اسفند یارمذ کو رشوت کے لینے سے اور افسانوں کے سُننے سے صلح ہوگئی۔ لڑائی موقوف ہوئی اب اس صلح کی پیمان روائی کا انتظار تھا۔ پہلے اس سے کہ گفتار کردار میں آئے۔ ۱۰ ار فروردین ۱۰۰۴ھ کو لشکر بیجاپور کی، اور سرداران سپاہ شاہی کی شکست کی جھوٹی

خبروں سے احمد نگر کے گردسے سپاہ چلی اور کچھ ادھر جا کر پھر آئی دشمنوں نے پیچھے آنکر منزل بمنزل پرتال کو لوٹنا شروع کیا۔ دوروئی کے سبب اس شورش کا چارہ اچھی طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ ۱۴ اردی بہشت کو برار کے قصبہ بھکر میں لشکر آیا۔ اس ملک کی نگہداشت کے لئے انجمن ہوئی۔ بہت سے آدمی کہتے تھے کہ اس ملک کی نگہبانی ہماری طاقت سے باہر ہے مگر صادق خاں نے سرحد کی پاسبانی اپنے ذمے لی۔ میر مرتضیٰ ملک کی آبادی کا ضامن ہوا۔ غرض مختلف امیروں نے ملک کے انتظام کے لئے مختلف کام اپنے ذمے لے لئے۔

جب بادشاہ کو سپاہ دکن کی بیراہ روی معلوم ہوئی تو ایک فرمان عتاب افزا اور اندرز پیرا متھراداس قوربیگی کے ہاتھ شاہزادہ مراد پاس بھیجا۔ مگر جب نامہ بر ملکاپور پر آیا تو راہزنوں نے اُسے مار ڈالا۔ سلطان مراد کو جب برار کی نگہبانی سے کچھ فرصت ملی تو اُس نے وسط ملک کی سیر کی۔ بالاپور سے پچیس کوس پر اسنے اپنا بنگاہ بنایا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جسکا نام شاہ پور مشہور ہوا۔

جب صادق نے مہکر میں اپنا بنگاہ بنایا اور برار کی پراگندگی بھی کچھ کم ہوئی تو اژدر خاں۔ عین خان۔ حبیب خاں اور دکنیوں نے فساد برپا کیا۔ ایک منتخب سپاہ بسر کردگی۔ مرزا علی بیگ اکبرشاہی چارہ گری کے لئے بھیجی گئی۔ ۱۲ ار تیر ۱۰۰۱ الٰہی انکا عین خاں کے لشکر پر ناگہانی گذر ہوا اور اسکو سزا دی وہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر سراسیمہ چلا گیا۔ بادشاہی لشکر کو بہت غنیمت ہاتھ آئی اور ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا اور پوشیدہ راہوں سے جا کر اُن سے لڑے اور شکست دی مشہور ہاتھی ہاتھ آئے جب بادشاہ نے سپاہ دکن ناہنجاری سُنی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شہزادہ کی بغیر اجازت کے شہباز خاں بھی بیتول کو چلا گیا اور ایک لاکھ مہر جو لشکر کے سامان کے لئے بھیجی گئیں تھیں وہ قلعہ گوالیار میں راہوں کی ناایمنی کے سبب سے رکھی ہوئی ہیں اسلئے ۱۱ مرداد ۱۰۰۱ الٰہی کو رامچندر کو برار بھیجا کہ اس خزانہ کو حفاظت کے ساتھ لیجائے اور مالوہ کی فوج کو بھی

پھر دکن کو واپس کرے اور ہر ایک کو ہماری طرف سے نصیحت کرے۔

جب مرزا علی بیگ اکبر شاہی کو چیرہ دستی ہوئی تو دکنیوں نے کین توزی پر از سرِ نو آپس میں عہد و پیمان کئے۔ خداوند خاں۔ حمید خاں۔ عبدالفتاح۔ اژدر خاں۔ جمال خاں۔ دستور خاں دس ہزار سوار اور اسّی ہاتھیوں کو لے کر لڑنے کے ارادہ سے چلے۔ پادشاہی سپاہ تین ہزار کے قریب تھی۔ سپہ آرا کی دل آویز گفتار سے اُس نے پیکار پر دل لگایا مہکر سے چالیس کوس پر لڑنے آئے۔ پاتھری سے آٹھ کوس پر بان گنگ کے کنارہ سپاہ نے آرام کیا۔ اور ایک استوار جا پر اپنا بنگاہ بنایا کہ جس کے آگے دریا بان گنگ تھا اور پیچھے بھی ایک ندی تھی ۷ آبان ۱۰۰۵ھ فوجیں آراستہ ہو کر لڑیں۔ اوّل خداوند خاں پانچ ہزار سوار اور چالیس ہاتھی لیکر ہراول شاہی سے لڑا جس کا سردار مرزا علی بیگ اکبر شاہی تھا اُس نے مخالف کو شکست دیدی سید لاد حسن زخمی ہو کر گرا۔ برانغار شاہی مخالف کی کثرت کے سبب سے بغیر لڑائی کے بھاگ گیا صادق خاں کے آگے رودبار تھا بہت سے مخالف آن کر لڑے۔ اُس نے مستقل ہو کر ایسے توپ و تیر مارے کہ اس کو فتح ہوئی۔ بہت مخالف مارے گئے اور لوٹ کا بہت اسباب ہاتھ لگا اور چالیس منتخب فیل ہاتھ آئے۔ بادشاہی سپاہ میں چند سپاہی مارے گئے۔

صادق خاں کا فتح پانا ۱۰۰۵ھ

شاہزادہ سلطان مراد نے جنگ کا ارادہ کیا مگر امرا پایہ شناسی کے سبب سے اُس پر راغب نہ ہوئے۔ انجمن رازگوئی مرتب کر کے چارہ گری کے درپے ہوئے مرزا شاہرخ کو سرکردگی کے لئے منتخب کیا۔ خانخاناں کو سپہ آرا بنایا۔ خزانہ و فیل خانہ و توپ خانہ کا انتظام شائستگی کے ساتھ کیا اور پھر صف آرائی کی شاہ پور سے غنیم کی طرف چلے۔ غنیم کی سپاہ میں نظام الملکی سپاہ وسط میں اور عادل شاہیوں کا لشکر داہنی طرف اور قطب الملکیوں کی سپاہ بائیں طرف تھی۔ ۲۸ بہمن ۱۰۰۵ھ کو ایک پہر دن چڑھے دریائے بانگنگ سے گذر کر لڑائی شروع ہوئی۔ مخالف استوار جا پر تھا اور یہاں آتش بازی کا سامان اُس نے رکھا تھا غنیم کی افزونی اور آتش بازی کی کثرت کے سبب پادشاہی سپاہ دل ہارے دیتی تھی۔ جگنناتھ و

بادشاہی سپاہ کا فتح اور دکنیوں کا شکست پانا ۱۰۰۵ھ

راے درگا و راج سنگہ اور راجپوتوں کے سردار جدا جدا میدان جنگ میں کھڑے تھے
عادل خانیوں نے مرزبان خاندیس پر حملہ کرکے اس کو مار ڈالا اور ۳۵ نامور اور پانسو سپاہی
اس کے ساتھ مارے گئے۔ مرزا شاہرخ و خانخانان و مرزا علی بیگ و سید قاسم لڑ کر غائب
ہوئے۔ مخالف مرزبان خاندیس کے مرنے کو یہ سمجھے کہ مرزا شاہرخ و خانخانان مارے
گئے۔ اندھیری رات میں دونوں لشکر جدا ہو گئے اور ہر ایک کو اپنی فیروزی کا گمان ہوا۔ رات
بھر گھوڑوں پر سوار رہے۔ بہت سے ڈرپوک بھاگ بھی گئے۔ پادشاہی لشکر کو یہ گمان تھا
کہ راجہ علی خاں دشمن سے جا ملا یا کنارہ ہوگیا۔ اس سبب سے اس کا بنگاہ تاراج کیا۔ ہراول میں
سے دوارکا داس اور برانغار میں سید جلال مارے گئے رامچندر نے راجہ علی خاں کی سپاہ
میں بیس زخم کھائے۔ چند روز بعد مرگیا۔ باوجودیکہ پادشاہی لشکر سات ہزار اور مخالف کی
سپاہ پچیس ہزار تھی۔ پادشاہی فوج رات بھر کی پیاسی تھی دریا کی طرف چلی۔ غنیم پہلے سے
دودلہ ہو رہا تھا اس جنبش سے وہ لڑنے پر تیار ہوا مگر تھوڑا سا لڑ کر بھاگ گیا اور بہت آدمی
اس کے مارے گئے۔ عادل خانیوں میں آنکس خاں۔ میاں زین الدین۔ ہیبت خاں شریف جالب
بھیلم خاں۔ سرمست خاں رومی نظام الملکیوں میں شمشیر الملک و عزیز الملک و دلپت راے و
یٰسین خاں و اژدر خاں اور قطب الملکیوں میں اخلاص خاں و طاہر خاں مارے گئے پادشاہی
سپاہ لڑتے لڑتے تھک گئی تھی اس لئے اُس نے تعاقب نہیں کیا۔ غنیم کے پاس ۶۰ ہزار
سوار پادشاہی لشکر میں د[illegible] ہزار سوار تھے اس پر بھی بادشاہی لشکر فتحمند ہوا۔ اس کو چالیس
ہاتھی اور توپ خانہ ہاتھ لگا۔ راجہ علی خاں کی لاش ملی۔ جو اس پر بدگمان تھے وہ شرمندہ
ہوئے اس لڑائی کی سرگزشت کا حال ایسا ہی ہے کہ ہاتھی اور اندھوں کی نقل مشہور ہے
کہ ہر یک نئی طرز سے بیان کرتا ہے ہر گروہ آشوب اور جنگ میں مصروف تھا دریافت کرنیکی
فرصت کس کو تھی کہ وہ سپاہ کے حال سے آگاہ ہوتا اس لئے بہتر ہے کہ اس قدر بیان پر
بس کی جائے۔

قلعہ کاویل کی فتح ۱۰۰۷ سنہ ۴۴

برار میں قلعہ کاویل سے بہتر کوئی قلعہ نہیں ہے۔ اس میں پانی خوش گوار بہت اور مرزبان کا نشیمن گاہ۔ جب سے یہ ملک قلمرو شاہی میں آیا تھا۔ افسران سپاہ کی کج رائی سے وہ فتح نہ ہوا تھا اب میر مرتضیٰ نے اہل قلعہ کو سمجھا کر اور ان کا آذوقہ بند کر کے فتح کیا۔ نہم آبان ۱۰۰۷ سنہ ۴۴ کو وجیہ الدین اور بسواس رائے نے قلعہ کی کنجیاں حوالہ کیں۔ ارکو پاتھری کے نزدیک ۳۵ جنگلی ہتنیاں نمودار ہوئیں اور سب گرفتار ہوئیں تعجب یہ ہے کہ ان کی چراگاہ ڈیڑھ سو کوس پر تھی۔

بادشاہ کا احمدنگر کی فتح کے لئے چلنا ۱۰۰۷ سنہ ۴۴

بادشاہ کا ارادہ یہ ہوا کہ توران کو لشکر شاہزادہ سلیم کی سرکردگی میں روانہ کرے کہ اس ملک موروثی کو اپنے قلمرو میں لائے۔ مگر شاہزادہ نے بعض ہند پرستوں کی دستان سرائی سے اس کو منظور نہیں کیا تو بادشاہ نے یہ سوچا اور شاہزادے جب اس کی خدمت میں آئیں ان میں سے جس کو زیادہ اس کام کی خواہش مجھے معلوم ہو اس کو یہ یورش سپرد کردوں۔ ان دنوں میں بیہودہ آدمیوں نے شاہزادہ سلطان مراد کی نسبت کہا کہ اس کا ارادہ بادشاہ کی آستان بوسی کا نہیں ہے اور بہت سی ناسزا باتیں اس کی نسبت کہہ دیں۔ بادشاہ نے یہ ارادہ کیا کہ دار الخلافہ ہو کر دکن کو خود جائے جو کچھ شاہزادہ کی نسبت کہا ہے اگر وہ سچ ہو تو اس کا اول علاج کرے اور پھر دکن کو فتح کرے۔ مدتوں سے دکن میں سپاہ گئی ہوئی ہے اور غرض پرستی کے سبب سے اس کام کو انجام دینے میں درنگ کرتی ہے پھر اس کے بعد اگر زمانہ موافق ہو تو توران کو جائے۔ چودہ سال سے پنجاب میں بادشاہ تھا۔ گروہا گروہ آدمیوں کو اس سے دلبستگی تھی وہ اس یورش دکن پر دل نہاد نہیں ہوتے تھے۔ کبھی تاریکیوں کی شورش کبھی شمالی کہسار کے سرتابوں کی آشوب کو بیان کر کے بادشاہ کو اس ارادہ سے باز رکھتے مگر بادشاہ نے کسی کا کہا نہ سنا ۲۶ آبان ۱۰۰۷ سنہ ۴۴ کو لاہور سے روانہ ہوا۔

برار کے قلعوں کی فتح ۱۰۰۷ سنہ ۴۴

انہیں دنوں میں قلعہ سبل گڈھ برار میں فتح ہوا مسعود خاں حبشی کے پاس وہ تھا سلطان مراد نے سندرداس کو بھیجا اس نے اس قلعہ کا محاصرہ کیا ۱۹ آذر ۱۰۰۷ سنہ ۴۴ کو دشمن نے پناہ مانگ کر کنجیاں حوالہ کیں اسی حبشی کے پاس قلعہ پرنالہ بھی تھا۔

کارآگہوں کا افسوں اُس پر نہ چلا راے گوپال نے ڈونگر خاں گونڈ کو یار بنایا اُس نے اس حبشی کے کچھ عیال کو گرفتار کیا۔ ناچار اس نے اطاعت قبول کی شاہزادہ مراد قلعہ کاویل کی سیر کو آیا اور اس قلعہ کے بھی پاس آیا تو اس حبشی نے اپنے تئیں اس کو حوالہ کیا ایسے قلعہ بلند و استوار و فراخ جن میں عمارات کثیر ہوں کمتر ہوتے ہیں۔ شاہزادہ اس قلعہ کی سیر کر کے شاہ پور میں آیا۔ اسی روز قلعہ مان پور ہاتھ آیا۔ مرزا خاں نے اُس کا محاصرہ کیا تھا مگر اس نے اچھی طرح کوشش نہیں کی تو شہزادہ نے اس کو اپنے پاس بُلا کر نذر خاں کو یہ محاصرہ حوالہ کیا۔ رنگو نانو۔ ہیبت او علی خاں گزر راے کئی بار باہر آکر لڑے۔ مگر کمی آذوقہ سے ناچار ہو کر انہوں نے امان مانگی۔ غرہ اسفندیار مذکور قلعہ لہ دولت آباد دکن کا مرزا علی بیگ اکبر شاہی نے اہل قلعہ کا آب و دانہ بند کر کے ایک مہینے کے محاصرہ میں فتح کر لیا۔

ابوالفضل کا دکن جانا ۱۰۰۶ھ

بادشاہ جب دار الخلافہ آگرہ میں آگیا تو اُس نے ابوالفضل کو ۲۵ اردی بہشت ۱۰۰۶ھ کو حکم دیا کہ دکن جائے۔ کہ اگر امراء دکن اس ملک کی حفاظت اپنے ذمے لیں تو وہ شاہزادہ مراد کو ہمراہ لے کر چلا آئے اور اگر یہ نہ ہو تو وہ شاہزادہ کو روانہ کر دے اور او سرداروں کے ساتھ یک جہتی پیدا کرے اور مرزا شاہ رخ کی بہ دید گویا در بنائے اسی سبب سے اس شاہزادہ کو علم و نقارہ دیکر مالوہ بھیجا تھا کہ اپنی اقطاع میں سپاہ کا سامان کرے اور جس وقت دکن میں بلائیں تو چلا جائے۔

[illegible] ابوالفضل ۱۰۰۶ھ

برار کے منتخب قلعوں میں کھیرلہ بھی ایک قلعہ تھا۔ شیخ ابراہیم کو اس کی فتح کے لئے شاہزادہ مراد نے معین کیا اس نے جا کر اس کا محاصرہ کیا لڑائیاں ہوئیں قلعہ میں آذوقہ کی کمی ہوئی۔ سید حسین و بسواس راے نے ۱۳ اسفندیار مذ ۱۰۰۶ھ کو قلعہ کی کنجیاں حوالہ کر دیں۔ اس کی عوض میں انہوں نے منصب و جاگیر پائے۔ دو مہینے اس سے پہلے شاہزادہ سلطان مراد نے بہرجیو اور کچھ سپاہ خاندیس کو ناسک کی طرف بھیجا تھا عظمت خاں کو امین لشکر بنایا تھا اُس نے سرداروں کو یک دل کیا اور خوب لڑائیاں لڑا اور شاہی لشکر کو غالب کیا

ابوالفضل برہان پور کے نزدیک آیا تو بہادر خاں مرزبان خاندیس آمیر سے چار کوس اسکے استقبال کو آیا اور فرمان وخلعت سعادت مند خاں کی طرح لیا۔ ابوالفضل نے اس سے بہت باتیں تلخ نا شیریں اثر یورش دکن کی رہنمونی کے لئے کیں اس نے تن آسانی کی بہت سنی عذر سرائی کی اور اپنے بیٹے کبیر خاں کو دو ہزار سوار کے ساتھ روانہ کیا اُس نے چاہا کہ ابوالفضل کو اپنے گھر لیجائے اور مہمان بنائے اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ اگر تم ہمراہ چلتے تو یہ درخواست منظور ہوتی مگر پھر اُس نے اسباب و مال تحفہ بھیجا تو اُس کا جواب اُس نے یہ دیا کہ میں نے خدا سے عہد کیا ہی کہ جبتک چار چیزیں جمع نہیں ہونگی میں کسی سے کچھ نہ لونگا۔ اول دوستی۔ دوم دہش کو بزرگ نہ گنے۔ سوم دادہ کا خود آرزومند نہ ہو۔ چہارم اپنی احتیاج۔ اول تین باتیں تو ظاہر ہیں پچھلے کی بنسبت یہ گزارش ہی کہ بادشاہی نوازش نے ہی دل پر سے خواہش کا نقش مٹا دیا ہی سونے چاندی کے ڈھیر کے ڈھیر مجھے دیدیے ہیں۔

شاہزادہ مراد کا مرنا ۱۰۰۷ھ

سلطان مراد احمد نگر سے ناکام پھرا تھا اس کا بہت غم اُس کو تھا۔ اس کی ہوشمندی کے گوہر میں چمک نہیں رہی تھی۔ دلوں کو ہاتھ میں لانا کچھ بھول گیا تھا مداہنہ اور مدارا میں تمیز نہیں کرسکتا تھا اس کا بیٹا مرگیا تھا اس لئے اور بھی اس کی عقل تیرہ ہوگئی تھی۔ شراب کے پینے کی کثرت سے صرع ہوگئی تھی۔ دل لگا کر علاج نہیں کرتا تھا اس درد جانکاہ کو چھپاتا اور بہت کم کھاتا ۱۴ آبان سال سابق کو کاویل میں گیا اور وہاں سے پلنچ پور میں آیا۔ تپ چڑھی پیٹ میں درد ہوا۔ بادشاہ کے دارالخلافہ میں آنے کی اور اپنے بلانے کی خبر سنکر اور غمگین ہوا۔ وہ اپنے شراب پینے کی شرمندگی کے سبب سے بادشاہ کے روبرو جانا نہیں چاہتا تھا۔ امرا اس امر کو اور روش سے بادشاہ سے کہتے تھے ۲۲ اردی بہشت کو عالم بیہوشی میں دنیا سے رخصت ہوا باپ کو جب اس کی بیماری کی خبر ہوئی حکیم مصری کو اُس نے بھیجا تھا حکیم راہ ہی میں تھا کہ مریض سفر کرگیا۔

بادشاہ دکن کا انتظام

جب شاہزادہ سخت بیمار تھا تو مرزا یوسف خاں اور کارپردازوں نے ابوالفضل کو لکھا تھا کہ جلد آؤ یہاں شاہزادہ سخت بیمار ہی ۱۹ اردی بہشت کو جلد چل کر دہ شاہزادہ پاس پہنچا تو شاہزادہ

کا حال وہ دیکھا کہ جس کا چارہ کچھ نہ تھا۔ جب شاہزادہ مرگیا تو شورش مچی بعضے بدسگالی سے بعض اپنے بنہ و بار کی پاسبانی کے لئے اور بعض اپنی اولاد کی نگہبانی کے لئے جدا ہوگئے۔ مگر ابوالفضل نے سپاہ کا سرانجام کرلیا۔ شہزادہ کی نعش کو شاہ پور میں امانت رکھا۔ کچھ تو رانیوں نے لشکر سے باہر جاکر فتنہ افزائی پر سر اٹھایا۔ ہرچند اُن کو سمجھایا پر نہ سمجھے اس عرصہ میں پس ماندہ سپاہ تین ہزار آگئی ابوالفضل کی گفتار کو فروغ ہوگیا۔ کج گرا آرزم سیراب اس کی باتوں کو دل سے سننے لگے لیکن سب چھوٹے بڑوں کی یہ خواہش تھی کہ اُلٹے چلئے بہت سے غصہ ہوکر جدا ہوکر چلے گئے مگر ابوالفضل نے ،، ہرکو دکن کی فتح کے لئے کوچ کیا۔ اس پیش روی سے دلوں کو تقویت ہوئی اور اس نے سرحد کے پاسداروں اور ملک کے نگہبانوں کو اندرزنامے لکھے۔ نیک دلوں کی دستیاری کی شاہزادہ کا خزانہ اور اسباب جو بادشاہ پاس بھیجنے کے لائق نہ تھا اور جو کچھ اس کے پاس تھا اور جو کچھ قرض لے سکتا تھا سب اُس نے سپاہ میں خرچ کیا تو تھوڑے عرصہ میں جو سپاہی چلے گئے تھے وہ اُلٹے چلے آئے پھر ہنگامہ گرم ہوا۔ شاہزادہ کی تمام قلمرو کی عمدہ طور سے پاسبانی ہوگئی مگر ناسک میں اس سبب سے کہ دور اور ناایمن تھا وہاں آگہی دیر میں ہوئی شاہزادہ کے مرنے کی کارپردازان ملک کے نااُمید ہونے سے یہاں کے پاسبانوں کو پراگندہ کیا۔ اگرچہ یہ ملک فرشتادوں کی کوتاہی سے بالکل تسخیر نہ ہوا۔ مگر بہت سا حصہ قلمرو شاہی میں آگیا۔

چونکہ پاسبانی ملک میں درنگ نہیں ہونی چاہیئے اس لئے بادشاہ نے شاہزادہ سلطان دانیال کو ۲ ربیع ۱۰۰۹ھ بہت سی نصیحتیں کرکے روانہ کیا اور ابوالفضل کو فرمان بھیجا کہ ہم نے شاہزادہ کو دکن روانہ کیا ہے اس کی ملکی و مالی مہمات کی سربراہی وہ کرے۔ اور بادشاہ نے ہر طرف دکن میں کار آگاہ آدمی مقرر کیئے۔ عبدالرحمن کو دولت آباد بھیجا اُنہیں دنوں میں دولت آباد کے قلعہ نشینوں نے ابوالفضل کو یہ لکھا تھا کہ اگر ہم کو اپنی درست پیمانی سے ایمنی عطا ہو اور کوئی جگہ بنگاہ کے لئے دی جائے تو ہم قلعہ کی کنجیاں حوالہ کرکے پرستاری کو حاضر ہیں لیکن تھوڑے حبشی و دکنی یہاں قریب رہتے ہیں ان کی مالش کے واسطے ایک فوج [illegible] بھیجی جائے ان

شاہزادہ دانیال کا دوبارہ دکن [illegible] ۱۰۰۹ھ و ابوالفضل

سبب سے ابوالفضل نے اپنے بیٹے کو پندرہ سو سواروں اور اسی قدر اور سپاہ کے ساتھ روانہ کیا
۲۶ امرداد کو مرزا شاہرخ لشکر دکن سے ملا - جب مرزا مراد کے مرنے سے شورش مچی تو
ابوالفضل نے اُس کو بلایا تھا مگر وہ نہ آیا - بادشاہ نے فرمان عتاب آمیز بھیجے تو بھی اُس نے عذر
ہی کئے - پھر بادشاہ نے حسین کو سزاول بنا کے بھیجا تو وہ کام و ناکام روانہ ہوا اور لشکر سے
آن کر ملا -

شہر بیر سے ایک وسیع ملک متعلق تھا جس میں گیارہ سو دہ آباد تھے ہر ایک دہ شہر کے
متعلق تھا - مراد کے مرنے سے ایک مہینہ پہلے شیر خواجہ نے اس کو تسخیر کیا تھا جب یہ شاہزادہ
مر گیا تو اکثر ارکان دولت کی رائے یہ تھی کہ اس ملک کو چھوڑ دیجئے مگر خواجہ نے اُس کو اس لئے
نہ چھوڑا کہ مفتوح ملک کو چھوڑنا غنیم کو دلیر کرنا ہی - مخالف پندرہ ہزار سے زیادہ تھے ان کا ارادہ
تھا کہ جس وقت بارش کے ہونے سے دریا لبریز ہوں تو شیر خواجہ کا جھگڑا تمام کریں - برسات کے
شروع میں وہ جمع ہونے شروع ہوئے وہ یہ سوچتے تھے کہ لشکر شاہی تین ہزار سے زیادہ
نہیں ہی - جب دریا اپنی طغیانی پر آئے گا کمک کو پہنچنے نہ دے گا اُس وقت ہم کو لڑنا چاہئے
جب ابوالفضل کو اس کی اطلاع ہوئی تو اُس نے اُمرا کو جن کا ملنا خواجہ سے آسان تھا نامے
لکھے اور یاوری کرنے میں سخت کوشش کی - کچھ اُمرا نے ناشناسائی سے اور ایک گروہ نے
تباہ سگالی سے تاخیر کی - یہاں تک کہ برسات کی شدت ہوئی اور دریا خوب چڑھ گیا - پندرہ ہزار
حبشی و دکنی اور ساٹھ ہاتھی اور سامان پیکار لے کر مخالف بیر کے پاس آیا - شیر خواجہ نے جو
جواں مردی اور کارپژوہی میں یکتا تھا فوجوں کو آراستہ کیا خود کارشناسی اور آتش خوئی سے
الگ ہو کر ندیوں کے پار آگے دوڑا - ہر چند کار آگھوں نے غنیم کی افزونی اور احتیاط کی سودمندی
اور نشیب و فراز کا آگے ہونا گزارش کیا - مگر اُس نے کچھ نہ سنا - اس ناہنجار راہ کے جانے
سے لشکر میں کچھ پراگندگی ہوئی غنیم فوج کو آراستہ کرکے ہراول میں راجپوت نے وہ شایستہ
طور پر لڑے اور مردانگی کرکے غالب ہوئے قول و برانغار و جرانغار نے پیچھا خدمت نہ بجا لائے

سنہ ۱۰۰۷ [illegible]

ایک گروہ بر گنجی نے نذر دیا۔ جگروپ پور جگنناتھ۔ گوپال داس راٹھور۔ سلطان بھائی محمد امین چوبے نے بہت شائستگی کے ساتھ جاں نثاری کی فوجوں میں پراگندگی ہوئی۔ غنیم نے شہر کی طرف رُخ کیا۔ شیر خواجہ دریا سے گزر کر کے آیا خوب لڑ کر دشمن کو اپنے روبرو سے ہٹایا۔ وفادار خاں و ایک جماعت کار آگہوں کی برانغار سے آن کر ملیں۔ یعقوب بیگ کوچک اور علی بیگ نے اپنا جوہر دلاوری روشن کیا مگر جب خواجہ پھرا تو اُس نے جنگ گاہ کو مُردوں سے بھرا پایا اور غنیم کی چیرہ دستی سے آگاہ ہوا۔ نہایت غمزدہ ہو کر شہر کی طرف تیز رو ہوا۔ شہر کے نزدیک سخت لڑائی ہوئی۔ زخمی ہو کر شہر کے اندر گیا اُس کے جاتے ہی بہادر الملک ایک گروہ کے ساتھ پہنچا اور بہادرانہ لڑ کر شہر کے ایک حصے میں مقیم ہوا۔ جس سے شکست فتح یافتوں کی تقویت ہوئی۔ باوجودیکہ خواجہ اُس سے کچھ خفا تھا۔ گروہ دس بارہ کوس سے بے تابانہ یہاں آیا۔ اگرچہ اُس نے سُنا کہ خواجہ مر گیا مگر وہ اُلٹا نہیں گیا۔ اُس کے ساتھی سعید عرب نے بڑی مردانگی کی۔ دشمن نے تکان کے سبب سے آج اور کل دست درازی نہ کی اور اپنی شکست و ریخیت کے درست کرنے پر مصروف رہا۔ اگر وہ اپنی اُسی گرمی کے ساتھ دست درازی کرتا تو لشکر شاہی کی جان پر آن بنتی اور اس کو بڑی مشکل پڑتی۔ اہل شہر نے کوچہ بندی کی ہر طرف ہنگامہ آویزش گرم ہوا۔ جب ابوالفضل کو یہ حال معلوم ہوا تو انجمن رازگوئی مرتب کی اور سب چھوٹے بڑوں سے چارہ جوئی کی۔ تبہ سگالی و نکوہیدہ رائی سے وہ بڑا متعجب ہوا۔ ۴ر شہریور کو بارش کی شدت میں جریدہ اس طرف چلا۔ مرزا شاہرخ و خواجہ ابوالحسن کو لشکر و توپ خانہ و فیل خانہ سپرد کیا کہ وہ پیچھے جالنا پور میں لائیں۔ شیخ عبدالرحمن کو اپنے پاس دولت آباد سے بُلایا۔ تدبیر یہ تھی کہ گنگہ کے کنارے پر دوڑ کر وہ جائے اور سپاہ کو جمع کرے۔ اگر کوئی جواں مرد دریا سے پار جا کر لڑنے پر دل لگائے تو اُس کو وہ بھیجے اور خود کنارے پر رہے۔ جس سے آگے کام کی صورت ہو اور پیچھے سے خاطر جمع ہو۔ اور نہیں تو خود چارہ گری کرے۔ کسی کو اس یورش کا یقین نہیں تھا۔ اس کے خاص آدمیوں میں سے بھی بہت کم آدمی باہر نکلے ناگزیر

پانچ کوس پر دائرہ کیا اور خود چند آدمیون کے ساتھ آہوبرہ کی طرف اس ارادہ سے کوچ کیا
کہ مرزا یوسف خان کو اس کام مین سرگرم کرے تیس کوس چلکر سر شام اُس سے ملا اور پانچ
روز اُسکے گھر مین رہا۔ اگرچہ اول روز نا امیدی مین کٹا مگر مرزا علی بیگ اور دولت آباد کا
لشکر اور جوان مرد آگئے۔ قرض لیکر تمام سپاہ کا سرانجام کیا۔ ایک جماعت کو بان گنگا کے
کنارے پر بھیجکر گذر پر تصرف کیا۔ مرزا علی بیگ نے لشکر کے جمع کرنے اور لڑنے کا کام اپنے ذمے
لیا۔ ابو الفضل پاس جو جاتا اُسکو دلاسا دیکے پیچھے سے روانہ کرتا جاتا جب لشکر سے اُسکو
اطمینان ہوا تو خود آپ گیا اسکو اندیشہ یہ تھا کہ سب مین آپس مین یکتائی نہین ہے مبادا
لڑائی شائستہ طور پر نہو۔ یہی بہتر اسکو معلوم ہوا کہ اس جنگ گاہ مین خود جائے۔ بان گنگا کی
کنارے پر ام ار لعد ایک دوسرے کے جمع ہوتے جاتے تھے دریا کی طغیانی کے سبب سے
پار نہین جا سکتے تھے جب عبد الرحمن دریا کے کنارہ پر پہنچا تو ایزدی تائید سے دریا یکبارگی
پایاب ہو گیا اور اس دشوار گذار دریا سے سوار پار ہو گئے۔ ۸ ارکو یہ لشکر پار گیا۔ قراول کی
تھوڑی لڑائی سے دریا کے کنارہ سے دشمن بھاگ گیا مخالف کے دل پر لشکر کے عبور کرنے نے بڑا خوف
پیدا کیا ۱۹ ارکو قلعہ کا محاصرہ چھوڑکر احمد آباد کیطرف سنے رُخ کیا قلعہ نشین ۱۹ روز تک گھرے ہوئے
غم مین بیٹھے رہے۔ باوجود تبہ حالی اور کمک کی نا امیدی کے ہر روز جنگ کی آدمی گھوڑے کا گوشت
کھاتے تھے۔ اور گھوڑے چھپروں کا پھوس کھاتے تھے۔ تدبیر یہ تھی کہ سپاہ نظام الملکی سیر ہم
ہی اور لشکر بہت سا جمع ہے آج ہی احمد نگر کو چلنا چاہیے مگر ہمراہیون نے اس قصد مین یاوری نہین
کی تعجب یہ ہی کہ اُنھون نے بیر کے چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ بیر کی سپاہ نے سختی بہت کھینچی تھی
ابو الفضل کا ارادہ تھا کہ شیخ عبد الرحمن کو وہان مقرر کرے مگر شیر خواجہ نے کہا کہ اس کام کا
آغاز مین نے کیا ہی۔ بہتر ہے کہ مین ہی اسکو انجام کو پہونچاؤن۔ شاہ گڈہ مین کچھ مدد کے
لئے آدمی چھوڑ دیئے جائین اگرچہ بیر مین سنگین قلعہ ہے۔ لیکن گلین شہر بند بھی چاہیے
غرض اسکو یہان کے انتظام کیلئے چھوڑا۔ ابو الفضل نے خدمت گزینون کو منصب افزائی

وخلعت و دلاسا و مال دینے سے سرگرم کیا اور خود بان گنگ کے ساحل پر ایناً بنگاہ بنایا غرض
شورش فرو ہوئی اور بہت سرتابون نے لابہ گری کی جس سے ہنگامہ شاہی کو رونق ہوئی
قلعہ شاہ گڈہ مین ایک نیم کا درخت عجیب دیکھا کہ اسکے تنہ مین دو شاخین تھین ایک شیرین
اور دوسری تلخ۔ اول کو تنومندی اور چارۂ برص مین کارگر جانتے تھے۔ بادشاہ کو اسکی
اطلاع ہوئی اور اُسکے حکم سے دونو شاخون مین سے کچھ کچھ نیم بھیجا گیا۔ اُنھین دنون مین
برار کا قلعہ قلتوم فتح ہوگیا۔ ابوالفضل نے سندرداس کو اسکی فتح کیلئے بھیجا تھا اُسنے
لڑکرا ور زینون پر سپاہ کو چڑھا کر قلعہ لیلیا۔ قلعہ دار قتلو خان اسکا مطیع ہوا پرنالہ کا قلعہ بھی
برار مین فتح کرلیا۔ سپاہ مین سے بہت آدمیون کی اقطاع نہ تھین۔ بعض کی جاگیر میں شائستہ
انتظام نہ تھا وہ روپیہ کے خواہشمند تھے۔ اسلئے پادشاہ نے حکم دیدیا تھا کہ خزانہ گجرات سے روپیہ
برابر پہنچتا رہے۔ پادشاہ نے تین لاکھ روپے کی ہنڈویان بھیجین۔ پادشاہ نے اپنے حضور کے
امرار کو نقد روپیہ دیدیا تھا۔ اب ہر ایک کو حکم بھیجا گیا کہ ہنڈوی کے ذریعہ سے روپیہ کو دیدین
تھوڑے عرصہ مین سارا روپیہ پہنچگیا۔ اور سپاہ کو اس سے بڑی تقویت ہوگئی۔

خزانہ کا گجرات سے آنا

پادشاہ نے دکن کی فتح کے لئے شاہزادہ دانیال کو مقرر کیا تھا اسکو راہ مین دیر
لگی۔ پادشاہ نے شکار کے ارادہ سے مالوہ کا قصد کیا تا کہ شہزادہ حکم کے موافق آگے
چلے ششم مہر شہ ۱۰۰۸ھ کو وہ دارالخلافہ آگرہ سے چلا اور یورش دکن کا ارادہ کیا اُسی دن
شاہزادہ کو آسیر جانیکا حکم بھیجا شاہزادہ بادہ پیمائی اور بدہم نشینی سے سود اور زیان کو
نہین جانتا تھا اس سبب سے پادشاہ نے اسکا دربار بند کیا تھا۔ مگر مریم مکان کی سفارش سے
اسکو پھر دولت کورنش نصیب ہوئی۔ خدمت گذاری اور ہنجار روی کا پیمان تازہ کیا
اسکو امرار رانا کی مالش کے لئے مقرر کیا۔

پادشاہ کا مالوہ مین دکن کے ارادہ سے آنا سنہ ۱۰۰۸ھ

چاند بی بی قلعہ احمد نگر مین تھی اور استوار جگہ کو اپنی پناہ سمجھتی تھی اور کچھ سپاہ بھی
اسکے تابع تھی۔ اسنے برہان الملک کے پوتے بہادر کو مرزبان بنا رکھا تھا قلعہ سے باہر

ابھنگ خان زنگی نے شورش مچا رکھی تھی گو وہ اس خورد سال بہادر کو مرزبان مانتا تھا مگر اس بارسازن کی گھات مین لگا رہتا تھا۔ یہ دانشمند بانو بادشاہ کی سپاہ سے بھی خوشامد کی باتین کرتی تھی اور دکنیون سے بھی دوستی کی داستان گاتی تھی ابوالفضل سے بھی جب اسنے یہی روش برتی تو اسنے جواب دیا کہ اگر پیش بینی اور روشن اختری سے اپنی تئین والا درگاہ مین پہنچاؤ تو اس سے بہتر کوئی اور بات آپکے حق مین نہو گی جو پیمان کرو اسکا پاس ضرور رکھو ورنہ سخن بے فروغ کردار کرنا سزاوار نہین ہے۔ پیغامون کی آمد و رفت بے سود ہے جب اسکو قلعہ کے باہر کے آدمیونکی بدگوہری ظاہر ہوئی تو ہواخواہونکو بھیجکر پیوند دوستی استوار کیا اور عہدنامہ خود لکھکر بھیجا۔ اور اسمین قسمین لکھین کہ ابھنگ کی مالش کے بعد وہ قلعہ کی کنجیان حوالہ کریگی بشرطیکہ اسکو بیرین تیول دیجئے اور اجازت ہو کہ وہان جاکر آسائش کرے اور جسوقت چاہے بادشاہ پاس جائے۔ اور بہادر کو بادشاہ کیخدمت مین بھیجے۔ لیکن اسمین کچھہ اسکے ارادونکے بدلنے سے اور کچھہ ہمراہیونکی دل بیزاری سے التوا ہوا جب شاہ گڈہ مین سپاہ کو توقف بہت ہوا۔ اور کچھہ سپاہ جدا ہوگئی۔ شاہزادہ کی آمد کا آوازہ بھی فرو ہوا تو ابھنگ خان نے سر اُٹھایا شمشیر الملک پور میان خان کو جو پہلے برار کی حکومت رکھتا تھا زندان سے نکالکر اسنے اپنا اعتبار بڑھایا۔ لشکر ہمراہ کیا کہ دولت آباد سے اس سرزمین مین آئے چونکہ یہان لشکر شاہی کا زہ وزادہے تو اس سے لشکر شاہی مین پراگندگی پیدا نہو گی جس سے دستبرد ہاتھ آئیگی۔ ابوالفضل کو اس تدبیر کی مدت سے آگہی تھی۔ مرزا یوسف خان کو بہت سے آدمیون کے ساتھ اس کی چارہ گری کے لئے مقرر کیا تھا۔ مرزا نے اُسے آسان جانکر بے پروائی کی اور ولایت برار مین آگیا جس سے ایک عجیب شورش برپا ہوئی۔ اس ملک کے بہت سے پاسدار بھاگ گئے کوئی گروہ اپنے بنہ و بار کی غمخواری کے لئے چلا گیا۔ ابوالفضل نے کارآگاہون کی یاوری سے احمد نگر کا قصد کیا تھا اسنے باہر کے بدذاتون کی مالش اور چاند بی بی کی گفتار کی عیارگیری کا خیال کیا۔ ۱۲ کو روانہ ہوا اور ہر طرف کے دلاورون کو بلایا جب وہ چند منزل چلا

توسب طرف سے مخالف احمدنگر مین جمع ہوئے۔ مرزا یوسف خان اس شورش سے بیدار ہوا
تیزروی کے ساتھ پیچھے آیا۔ مرزا خان و مرزا لشکری و عادل خان و سندر داس کو اپنے سے
پہلے روانہ کیا۔ شمشیر خان نے ایلچپور کا قصد کیا جو آدمی پہلے بھیجے تھے وہ پہنچے تو اُس سے
شمشیر خان سراسیمہ ہوکر جلد جلد بھاگا۔ یہ لوگ زمینداروں کی رہنمونی سے پیچھے ہٹے۔ ۷ آذر کو اسکی
منزل گاہ مین اُنھون نے ہر طرف سے تیرون کی بوچھار ماری۔ کچھ لڑائی ہوئی۔ ناگاہ شمشیر خان کے
ایک تیر لگا کہ اسکی جان گئی اسلئے اُسکا ہنگامہ پراگندہ ہوگیا۔ ابوالفضل نے اب احمدنگر کے
جانیکا ارادہ ترک کیا۔ ۵ دے کو مونگی پٹن مین آیا۔ بان گنگا سے اُترنا چاہتا تھا کہ شاہزادہ
سلطان دانیال کے احکام پیہم آنے شروع ہوئے کہ احمدنگر کو ہم فتح کرینگے تو اسکا ارادہ نکر
اور اب ہم راہ مین توقف نہین کرینگے۔ جب شاہزادہ برہان پور مین آیا تو بہادر مرزبان خاندیس
اُس سے ملنے نہ آیا۔ شاہزادہ کا ارادہ اسکی مالش کا ہوا۔ مرزا یوسف خان کو کہ پٹن کا ارادہ رکھتا تھا
اپنے پاس بُلا لیا۔ ابوالفضل سے بہت آدمی رخصت لیکر شاہزادہ پاس چلے گئے۔ غنیم نے
اس بیجا درنگ اور پراگندگی سپاہ سے دلیر ہوکر کئی دفعہ شاہی لشکر پر شبخون مارا اور ناکام
چلا گیا۔ چراگاہ پر دست درازی کرنے لگا۔ دشمن سے جوانمردلیسے لڑے کہ ابھنگ خان نے
لابہ گری شروع کی۔

پادشاہ ۲۹ بہمن کو سنہ ۱ کو اجین کے قریب آیا۔ اسکا ارادہ تھا کہ مالوہ مین
چند روز عشرت شکار مین بسر کرے۔ کہ سپاہ چستی و چالاکی سے احمدنگر کی فتح مین دل
لگائے۔ مگر اسکو معلوم ہوا کہ بہادر خان مرزبان خاندیس کو اپنے قلعہ کی استواری پر
اور سامان کی افزونی پر نظر تھی کہ وہ شاہزادہ سے نہ ملا۔ اسلئے گشائش و مالش کا خیال
شاہزادہ کو ہوا۔ پادشاہ نے شاہزادہ کو حکم دیا کہ وہ احمدنگر کی فتح کو جاوے۔ بہادر کا نہ ملنا
اسکی سرتابی کے سبب سے نہین ہے۔ اسکا ارادہ ہے کہ اول ہماری کورنش کو آئیگا۔ ورنہ
مغز کار کو سوچکر چارہ گری اُس وقت کیجائیگی کہ ہم برہان پور مین پہنچین گے۔ بہادر خان نے

پادشاہ کی سیر جانب دکن سنہ ۱۰۰۸

پیشکش بھیجی اور اپنے بیٹے کبیر خان کو بادشاہ کی خدمت گذاری کیلیئے ہمراہ کیا۔ خواجہ مودود کو بادشاہ نے اسکی نصیحت گری کے لئے بھیجا۔ اسنے چار نادر ہاتھی بھیجے اور اپنے نہ ملنے کے عذر مین جھوٹی باتین بنائین۔ بادشاہ نے میر صدر جہان کو اندرز گوئی کے لئے روانہ کیا۔ پھر پیشرو خان کو مگر وہ سمجھانے سے کچھہ نہ سمجھا۔ اسکے باپ دادا ہمیشہ مدت سے بادشاہ کی فرمان پذیری اور خدمتگذاری کرتے تھے۔ اسلیئے بادشاہ نے اسکا ملک اسکو دیدیا تھا۔ اب بہادر خان نہ لشکر دکن کے ساتھ گیا نہ شاہزادہ سے ملا۔ نہ بادشاہ سے ملنے آیا۔ اسلیئے بادشاہ نے ۱۵ اسفندارمذ کو سالباہن پسر منڈہی و شیخ فرید بخشی بیگی و ہاشم بیگ اور بہت سے سردارون کو آسیر کے فتح کرنے کیلیئے بھیجا۔ بادشاہ ۲۳ کو نربدا کے کنارے پر آیا ۲۶ کو دریا سے اُتر کر بیجا گڈہ مین آیا یہان نوروزی جشن ہوا۔

ابوالفضل کا بادشاہ کی خدمت مین جانا ۱۰۰۸ھ

جب شاہزادہ برہانپور سے گذرا فرمان والا ابوالفضل پاس آیا کہ سپاہ مرزا شاہرخ کو سپرد کرکے ہمارے پاس آؤ۔ اس سے ابوالفضل بڑا خوش ہوا۔ مرزا کے پاس گیا اور انجمن مرتب ہوئی اور فرمان پڑھا گیا۔ برہانپور مین آدمی چلے گئے تھے۔ اسلیئے پراگندگی ہو رہی تھی مرزا اور سردارون نے ابوالفضل کے جانے کو پسند نہین کیا اور عرض کیا کہ اس آشوبگاہ کی آرامش کا یارا ہمکو نہین ہے۔ ابوالفضل تیز مرزہ ہو کر اپنے بنگاہ کو گیا اور انتظار مین بیٹھا۔ کچھہ دن گذرے کہ شاہزادہ بہت نزدیک آگیا۔ مرزا شاہرخ و میر مرتضیٰ اور خواجہ ابوالحسن اور کار آگہون نے لشکر کی حفاظت کو اپنی ذمہ لیا خزانہ و توپخانہ اور اسباب انکو ابوالفضل نے سپرد کیا اور بادشاہ کے حکم کے موافق فیلخانہ ہمراہ لیا۔ ۱۲ اسفندارمذ کو روانہ ہوا۔ ۱۷ کو آہوبرہ مین شاہزادہ سے ملا۔ تین روز یہان رہا کہ ایک اور فرمان شاہی آیا کہ وہ برہانپور مین آئے۔ اگر بہادر اندرز پذیر ہو تو اُسکو بخشائش کی نوید سنا کر ہمراہ ہمارے پاس لائے اور نہین تو فیلخانہ اور لشکر کو وہان چھوڑ کر چلا آئے تاکہ آگے چلنے اور گجرات کی طرف جانیکے باب مین مشورہ کیا جائے۔ جب ابوالفضل برہانپور مین آیا تو بہادر ساتھ چلنے کو راضی ہوا مگر گھر جا کر اسکی نیت بدلگئی۔

نالائق جواب لکھا اور ساتھ نہ چلا۔ ابو الفضل نے لشکر و فیل خانہ یہین چھوڑا اور بہت جلد پادشاہ کی خدمت مین پہنچگیا۔ پادشاہ نے خسروانی نوازش کرکے یہ بیت پڑھی ؎

فرخندہ شبے باید و خوش مہتابے ۞ تا با تو حکایت کنم از ہر بابے ۞ چونکہ سپاہ احمدنگر کی کشائش کو گئی ہوئی تھی اور پادشاہ نزدیک آ گیا تھا اسلئے آگے چلنے کی ٹھہری اور ۲۱ اسفندارند کو پادشاہ برہانپور مین آ گیا۔ آگرہ سے اس شہر تک ۲۲۶ کروہ کا فاصلہ ہے ۱۹۵ دنون مین ۶۹ کوچون مین پادشاہ نے طے کیا۔ ۲۲ خان اعظم آصف خان و شیخ فرید و ابو الفضل کو آسیر کے محاصرہ کرنیکے لئے بھیجا جو لشکر پہلے بسرکردگی شیخ فرید بخشی آسیر کی فتح کو گیا تھا اُسنے اپنے آدمیون کی کمی اور دشمنون کی افزونی کے سبب سے دوربینی کے ساتھ یہ کام کیا تھا کہ وہ قلعہ کے تین کوس پڑا تھا۔ بعض ناتوان بینون نے اور رنگ سے اس امر کو پادشاہ سے گذارش کیا پادشاہ کو گران خاطر ہوا۔ ابو الفضل نے پادشاہ سے حقیقت حال کو بیان کرکے اس گرانی کو دور کیا۔ اس تاریخ خاندیس کی نگہبانی ابو الفضل کو سپرد ہوئی ۲۳ کو اُسنے دو جگہ آدمی بٹھائے۔ ایک طرف اپنے بھائی شیخ ابو البرکات کو دوسری طرف شیخ عبد الرحمن اپنے بیٹے کو۔ تھوڑے عرصہ مین اُنھون نے گردن کشون کو مالش دی اور سرکشون کو مطیع کیا۔ خاندیس کی سپاہ نے بندگی قبول کی۔ کسانون کو ایسا دلاسا دیا گیا کہ وہ اپنی کشت و کار مین مشغول ہوئے۔ ۷ اردی بہشت کو مظفر حسین کو النگ پر بھیجا۔ یہان فولاد خان حبشی و روپ رائے۔ و ملک بشیر اور بعض اور سردار خاندیس کی بندگی کی داستان گذارش کرتے تھے رائے درگا۔ رائے منوہر۔ خواجگی فتح اللہ۔ میرزا اہد و میر گدائی و میر عبد الحی کو بسرکردگی میرزا اہد کو اسطرف پادشاہ نے بھیجا۔ اگر یہ لوگ اندرز سرائی کو قبول کرین تو انکو ہمارے پاس روانہ کرین اور خود قلعہ کی فتح مین مصروف ہون ورنہ انکی مالش کرین۔ بٹن مین ابو الفضل کے سمجھانے سے فولاد خان نے فرمان پذیری کا استوار پیمان کیا۔ مسعود بیگ سو پادشاہی فیل لئے گجرات جاتا تھا کہ وہ فولاد خان سے ملا۔ روپ رائے فولاد کو اپنے سے کمزور سمجھکر

لڑا اور زخمی ہو کر بھاگا اور کچھہ دنون بعد مر گیا۔ ہاتھی اور سارا اسباب اسکا فولاد خان کے ہاتھ آیا۔ فولاد خان کی نیک پرستاری ثابت ہوئی وہ ۱۲ کو بادشاہ کی خدمت پٹن آیا اور منصب ہزاری پایا۔ اُنھین دنونمین بہادر خان نے بھی معذرت کی اور پناہ مانگی۔ اپنی مادر کلان اور بیٹے کو ساٹھ ہاتھیون کے ساتھ بھیجا۔ اور عرض کیا کہ اپنی لغزش کے سبب سے میرے دل پر بالکل خوف چھا رہا ہی اس سبب سے مین حاضری سے معذور رہون کچھہ دنون مجھہ سے خدمت غائبانہ لیجائے تاکہ سیرا سر اسر دور ہو جائے نیکو پرستاری کی دستاویز سے درگاہ والا مین آون اپنی بیٹی کو بھیجتا ہون اس کو سلطان خسرو کے مشکوی مین حضور سپرد فرمائین۔ اسباب اور مال پیشکش مین بھیجتا ہون وہ سوچا یہ تھا کہ ان دنونمین قحط پڑ رہا ہی میرے اس عذر کو حضور قبول فرما کر کوچ فرمائینگے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ کوئی عذر تیرا قبول نہین ہوگا جبتک وہ نہ آئیگا۔ ہمارے پیمان پر بھروسہ کر کے چلا آ اور خدمتگذاری جلدی سے کر۔ ابوالفضل نے سندرداس کو بھیجکر قلعہ سنبل ودل وجامو فتح کر لئے ان قلعونمین ابراہیم نے سر اُٹھایا تھا وہ لڑا اور دستگیر ہوا۔ اور اپنی سزا کو پہنچا۔ متھرا داس بھی مردانہ لڑ کر جان سپار ہوا۔ ۲۵ کو ابوالفضل کو منصب چار ہزاری ملا اور صفدر خان نبیرہ راجہ علی خان اور شیرزادہ ابوالفضل کو منصب ہزاری ملا تا کہ خاندیس کی سپاہ اس سے گرویدہ ہو۔ کوہ سانپن بہت بلند اور دشوار گذار تھا۔ قلعہ نشین آسپر چڑہتے اور گزند پہونچاتے۔ قرابیگ مرزا یوسف و مرزا تولک اور بعض اور امرا دشمن سے لڑے اور پایہ بپایہ غنیم کو دفع کرتے گئے یہان تک کہ وہ قلعہ کے اندر چلے گئے اور اہل قلعہ کو قرابیگ نے کچھہ تنگ حال کیا۔

سعادت خان حاکم ناسک فرمان پذیر ہوا۔ مگر اس کا غلام راجو تھا اسنے اس کے نوکرون کو بہکا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ اور ہاتھی اور سارے اسباب پر قبضہ کر کے اس ملک کا مالک بن بیٹھا۔ شاہزادہ دانیال کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو اُس نے پانچ ہزار سپاہ بسر کردگی دولت خان بھیجی اُس سے خوب لڑائی ہوئی اور لشکر شاہی کو فتح نصیب ہوئی احمدنگر کے قلعہ کو سپاہ شاہی محاصرہ کئے ہوئے تھے کہ سعادت خان و فرہاد خان

وشجاعت خان۔ شنرزہ خان۔ عبدالستار خان اور بہت سے دکنی اور زنگی عہد وپیمان لیکر شاہزادہ کے پاس آئے۔ مگر دشمنان دوست نما کو یہ سودا ہوا کہ انکی کارشکنی کیجیئے۔ اور پختہ کارون کے طور پر شاہزادہ کو ان کی طرف سے بھڑکا دیئے۔ انکی رہنمونی سے انمین سے بہت کو گرفتار کرلیا۔ فرہاد خان اور کئی ایک اور مرزا خان کی ہمراہی مین بے خوف وخطر خدمتگذار تھے وہ بھاگ گئے پیمان شکنی کی شہرت نے تازہ شورش برپا کی جو ئیں شہزادہ سے ملنے آئے تھے وہ اُلٹے چلے گئے۔

لشکر شاہی احمد نگر کی فتح مین مصروف تھا بیجاپور کا لشکر اپنی سرحد کی پاسداری کے واسطے سرحد پر آیا تھا اور بڑی نگرانی کرتا تھا۔ غرض پوست فتنہ دوستون نے اس لشکر کے آنے کی گرم بازاری کو اور رروش پر ادا کیا۔ قریب تھا کہ قلعہ کے گرد سے سپاہ اُٹھ جائے مگر کچھ ایسا سبب ہو گیا کہ اسنے محاصرہ نہ چھوڑا۔ لیکن ناسکے سے سپاہ بسطور بلائی گئی اور وہ ملک لیا ہوا ہاتھ سے بُری طرح نکل گیا چودھوین کو بادشاہ برہانپور پہنچ گیا

لشکر شاہی قلعہ احمد نگر کی فتح کو بھیجا گیا تھا اسکا یہ ارادہ تھا کہ بارش کے بعد اس کام پر دل لگائے مگر بادشاہ نے بہم کوشش کی اور خود برہان پور مین آگیا تھا اسلیئے لشکر نے اسپر توجہ کی۔ مرزا رستم ایک لاکھ مہر لیکر مرزا دانیال پاس آگیا تھا۔ چاند بی بی اپنے پیمان پر جو ابوالفضل سے کیا تھا قائم تھی ابھنگ خان (نہنگ خان) بہت سے زنگی اور دکنی لیکر گریوہ کے سرے پر کارزار کا آہنگ رکھتا تھا۔ یہ شاہی اقبال تھا کہ لشکر دکن مین نفاق و دوروئی پیدا ہوئی۔ ۲۶ فروردین گوہر کس وناکس کی دبا نپر یہ تھا کہ بعض سردار بادشاہی سپاہ سے سازش رکھتے ہین اسلیئے ابھنگ خان ہمت ہارے دیتا تھا اور بے لڑے پراگندہ ہوا جاتا تھا۔ ۲ اردی بہشت لشکر شاہی نے احمد نگر کے نزدیک خیمے ڈالے اور مورچالین امیرون کے لئے مقرر ہوئے۔ چاند بی بی اپنے عہد وپیمان کو تازہ کررہی تھی کہ جبشہ خان خواجہ سرا کو اسکی اطلاع ہوئی اُسنے بعض اہل قلعہ کے ساتھ

قلعۂ احمد نگر کی فتح ۱۰۰۹ھ

متفق ہوکر چاند بی بی کو مار ڈالا۔ اعتبار خان و میر صفی و مرزا تقی و حاجی محمد نے توپ اندازی شروع کی۔ سپاہ شاہی کے دیر لگانے نے آسان کام کو مشکل کردیا چند بار غنیم قلعہ سے باہر نکل کر لڑا۔ ناکام پھر گیا شاہزادہ کی سخت کوشش سے اسکے نوکر خاک ریزی (خندق کو مٹی سے پر کرنے پر) پر دل نہاد ہوئے۔ خندق کو بالکل بھرکر دیوار کی برابر کردیا خندق کی چوڑائی ۳۰ گز سے ۴۰ گز تھی۔ گہرائی ۷ گز۔ دیوار نیلے پتھر کی ۲۷ گز بلند تھی۔ اگرچہ بہت آدمی خدمت کی بجا آوری مین کوشش کرتے تھے مگر شاہزادہ کے اور مرزا یوسف خان کے مورچلون مین زیادہ اہتمام ہوتا تھا انہون نے چند سرنگین لگائین تھین۔ مگر اہل قلعہ نے انکا پتا لگا لیا اور انکو خالی کردیا۔ تعجب یہ کہ اہل قلعہ نے اندر سے نقب کھودی تھی اور اسمین آگ لگائی تھی مگر وہ خاک ریزمین افسردہ ہوگئی اس سے کچھ گزند لشکر شاہی کو نہین پہنچا۔ بلکہ قلعہ کے ایک برج کو اُسنے ہلا کر شست پیوند کردیا۔ اسپر لشکر شاہی کو اطلاع ہوئی اور اسکو خالی کیا اور اُسمین ایکسو اَسی من بارود بری اور اُسنے ایک برج کو جسکا نام لیلے تھا۔ اور تیس ۳۰ گز دیوار کو ہوا مین اُڑا دیا۔ اُسکے پتھرون سے دشمن کچلے گئے۔ مگر لشکر شاہی مین ایک کنکل بھی آنکر نہین پڑی۔ پھر اس راہ سے قلعہ مین تیزدست گھس گئے اور بہت سے مرزا یوسف خان کے مورچال مین سے قلعہ کے اندر چلے گئے۔ غنیم کے پندرہ سو آدمی مارے اور کچھ آدمیون کو ان کے دوستون کی سفارش سے رہائی دی۔ برہان نظام الملک کا پوتا ابراہیم کا بیٹا بہادر ہاتھ آیا۔ گرانمایہ جواہر و مرصع آلات و عجیب کتب خانہ اور بہت سامال و اسباب اور پچیس ہاتھی غنیمت مین ہاتھ لگے۔ توپین اور بارود حد سے زیادہ۔ باوجودیکہ برسات کا موسم تھا مگر ان دنون مین بارش نہوئی۔ خاک ریز آسانی سے ہوگیا دوسرے روز سے موسلادھار مینہہ برسنا شروع ہوا۔ بادشاہ کو اس فتح کی برہان پور مین دو روز بعد اطلاع ہوئی۔ بادشاہ جنیر مین ۲۳ ۲ آبان کو آیا۔ یہ آباد شہر نظام الملک کے باپ دادا کا تھا۔ اسکے قلعہ کا نام سنیر تھا جب احمدنگر فتح ہوگیا تو مرزا خان کو اس قلعہ کیطرف

بھیجا وہ بے جنگ ہاتھ آیا۔ بہادرخان نے بزہ مہر کو سادات خان کو جو اسکا میر شمشیر تھا بادشاہ کے پاس دس ہاتھیون کے ساتھ بھیجا وہ بادشاہ کے پاس آیا۔ وہی پہلا پیغام اُسکا گذارش کیا مگر بادشاہ نے اُسے نہین قبول کیا۔ ایلچی کو واپس جانیکی اجازت دی مگر اسنے عرض کیا کہ مین بہت مشکل سے اس تنگنا سے نکلا ہون مجھے مدت سے حضور کی قدمبوسی کی آرزو تھی۔ اسلئے بادشاہ نے اُسے ہزاری کا منصب دیا اور شیخ پیر محمد حسین کے ہاتھ جو اُسکے ہمراہ تھا۔ بہادرخان پاس جواب بھیجدیا۔

آسیر منتخب قلعون مین سے تھا استواری اور بلندی مین بے نظیر تھا۔ اسکی کمر گاہ مین ایک مور قلعہ مالی گڈہ تھا۔ جو آسیر مین جانا چاہے تو اول اس کو اس قلعہ مین گذرنا پڑتا ہے اسکے شمال مشرق مین چونہ مالی ہے جسکی کچھ دیوار بننے سے رہگئی ہے۔ مشرق سے نیرت تک پہاڑیان ہین۔ جنوب مین سربلند پہاڑ گوڈھیہ ہے۔ نیرت مین ایک پہاڑ ساپن ہے۔ دشمنونے ان سب جگھون کو توپ اور آدمیون سے اُستوار کر رکھا تھا۔ ساپن کی فتح ہونیکا حال پہلے بیان ہوا ہے۔ کوتاہ اندیش اسکی فتح کو پسند نہین کرتے تھے۔ بنگاہ کی دوری سے سب چھوٹے بڑون کا دل آزردہ ہوتا تھا۔ اہل قلعہ کی زرفشانی نے بھی بعض کو متزلزل کر رکھا تھا اہل قلعہ مین سے ایک نے قرابیگ سے ملکر پوشیدہ راہ بتائی کہ اس سے بآسانی جاسکتے ہو مگر کارپردہی منظور نہ تھی۔ اسلئے اسکی اطلاع پر کان نہ لگایا جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو خبر دینے ولے کو سودائی بتا دیا۔ بہت آدمیون کے مرنے کی خبر سنا کر بادشاہ کو باز رکھا۔ ۱۷۔ آذر ۱۰۰۹ھ؁ کو ابوالفضل کو اس مہم کا اہتمام سپرد ہوا جب وہ یہان آیا تو قرابیگ سے اس راہ کو پوچھا اہل مورچال کو اطلاع دی کہ اس ہفتہ مین قلعہ کشائی کے لئے دوڑونگا جب نقارہ کرنا کی آواز سنو تو ہر ایک زینہ پر سوار ہو کر قلعہ مین آؤ اور نقارہ کو بہت زور سے بجاؤ۔ اُنہون نے خواہ نخواہ قبول کیا۔ مگر اسکو دیوانہ افسانہ جانا۔

۱۸۔ کی اندھیری رات مین مینہہ برسنے کے اندر خاص آدمیون کو گروہ گروہ کرکے ساپن پہاڑ کے اوپر چڑھایا۔ اول آدھی رات کو قرابیگ کو ایک گروہ کے ساتھ روانہ کیا

اُسنے پایہ بپایہ اپنے مورچال کے آدمیون کو بھیجا۔ آخر شب مین پہلے گروہ کے چند آدمی اس پوشیدہ راہ مین چلے۔ دروازہ مالی کو توڑا۔ بہت سے جوان مرد قلعہ کے اندر آئے۔ نقارہ اور کرنا قلعہ کے اندر بجا۔ آدمیون کے آنے مین دیر لگی اسلئے قلعہ نشین کچھہ لڑے۔ ابو الفضل خود آیا رہبر نے راہ بتانے مین کچھہ غلطی کی۔ لڑائی گرم ہو رہی تھی مینہہ برس رہا تھا صبح کے وقت وہ طناب پر چڑہ کر قلعہ مین گیا تھوڑی دیر غنیم سراسیمہ ہو کر آسیر مین بھاگ گیا جب دن ہوا تو اور مورچالون مین بھی ہر طرف سے لڑنے کو دوڑے گڈھیہ اور چونہ پر پہنچے

بادشاہ پاس بہادر خان کا آنا ۱۰۰۹ھ

اس امر کا خیال بھی نہ تھا کہ مرزبان خاندیس بادشاہ کیلئے دروازہ نہ کھولیگا۔ اس لئے سامان قلعہ کشائی ہمراہ نہ تھا۔ ہزار کوشش سے چند توپین برنالہ و کاویل و احمد آباد سے آئین جب مالی گڈہ فتح ہوا تو بہادر خان کی آنکھین کھلین۔ ایک وزیر اپنا ابو الفضل پاس بھیجا۔ بادشاہ کی خدمت مین آنیکی اور پناہ مانگنے کی درخواست کی اسکا جواب اسنے کچھہ دیا جب وہ بہت رو یا دھویا تو اُسکے فرستادہ کو بادشاہ پاس بھیجدیا۔ ۲۳ آذر کو بادشاہ نے رام داس کو اُس پاس بھیجا دہ چوتھے روز مقرب خان کو جو بہادر خان کی ناک کا بال تھا ساتھ لایا۔ اُسنے پیام عرض کیا جسکا خلاصہ یہ تھا کہ قلعہ اور ملک اسکو پھر دیا جائے اور قیدی رہائی پائین تو سر کے بل حضور کے پاس آتا ہون۔ ایک پُرانی رسم یہان چلی آتی ہی کہ وارثون مین سے ایک مسند نشین ہوتا ہے اور سب بھائی اور خویش اسکے نہانخانون مین زن و زاد کے ساتھ بسر کرتے ہین۔ بادشاہ نے اسے قبول کرلیا جان و ناموس کی امان دی۔ بہادر خان بادشاہ کی خدمت مین ناصیہ فرسا ہوا۔ اس کے دو چھوٹے بیٹے افضل خان اور خداوند خان اور اور امرا اسکے باریاب ہوئے۔

قلعہ اسیر کا فتح ہونا ۱۰۰۹ھ

• قلعہ مین آذوقہ بہت تھا۔ توپون کی کثرت تھی۔ سپاہ کی فراوانی اور آلات پاسبانی کا سامان ایسا تھا کہ کسی اور قلعہ مین نہ تھا۔ یہان بادشاہی لشکر مین قلعہ گیری کا سامان نہ تھا۔ اس قلعہ کے محاصرہ مین آدمیون کے اجتماع سے وبا شروع ہوئی۔ بہت آدمی روز مرتے مگر اہل قلعہ رعیت کے مرنے پر کچھہ خیال نہیں کرتے اور سنتے

چیلے ہر وقت نکالتے رہتے۔ مالیگڑھ کی فتح ہونیسے اُنکی آمد و شد کی راہ بند ہوگئی تو وہ کچھ چونکے۔ بادشاہ کے نوکرون کی رہنمونی سے آخر داستان یہ قرار پائی کہ بہادر درگاہ والامین جبین سائی کرے بادشاہ اسکو قلعہ اور ملک پھر دیدیگا اور نہین تو بہادر یہ گذارش کرے کہ اہل قلعہ میرے کہنے سے باہر ہین۔ یہ تدبیر عمل مین آئی۔ اور بہادر نے جو سکھایا تھا وہ عرض کیا۔ تو بادشاہ نے ابو الفضل کو اجازت دی کہ وہ اُس حصار کو فتح کرے وہ اسپر متوجہ ہوا۔ گو ڈھیہ سے مورچال آگے بڑھائے اور بڑی بڑی توپین لانے کی اجازت حاصل کی مگر کارآگاہون کو مخفی بھیجکر اہل قلعہ کو دل آویز باتون سے اپنی طرف کیا۔ انہون نے یہ کہا کہ بہادر خان کے خط فلان و بہمان کے نام لادو کہ ہمیں قلعہ کے سپرد کرنے مین بیوفائی و بدنامی ہمارا مُنہ کالا نہو۔ مال و جان و ناموس کی نگہبانی کا فرمان بادشاہ کا حاصل کرو بہادر خان نے اول لکھنے مین بحث کی مگر آخر کو نوشتے لکھدیئے اور مُہر لگادی۔ ان نوشتون کو بادشاہی فرمان کے ساتھ اہل قلعہ پاس ابو الفضل نے بھیجدیا۔ چار روز مین ۴۳ ہزار آدمی مع زن و زاد اوپر سے نیچے آئے اور شائستہ طور پر عافیت کی جگہ پہنچگئے۔ بہمن کو شیخ عبد الرحمن پسر ابو الفضل کو اہل قلعہ نے کنجیان سپرد کردین بہادر کے فرزند و بھائی و چچا تعداد مین ۵۲ جنمین بعض پیر و جوان بعض خورد سال تھے نیچے آئے۔ وہ بادشاہ کیخدمت مین بھیجے گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو گرانمایہ خلعت دیئے ہر ایک کو اپنے ملازمون کے ہان مہمان جدا جدا بنایا ارادہ یہ تھا کہ ایک سے ہر ایک کا امتحان لیکر منصب دیا جائے۔ انکے خزانہ و جواہر اور سارے مال و اسباب کی حفاظت کیگئی ابو الفضل نے بہادر خان کے حوالہ دارون کے ساتھ بادشاہی دانشمند اہلکارونکو کرکے قلعہ حوالہ کیا۔ اور کارآگاہان دولت کو ہر جگہہ مقرر کیا اور خود بادشاہ کی خدمت مین آیا۔ ان کوہ نشین احمقون نے ایک لاکھ جاندار سے زیادہ قلعہ کے اوپر لیجا کر جمع کیئے تھے۔ جاندارون کی انبوہی سے ہوا دگرگون ہوئی اور وبا پھیلی پچیس ہزار آدمی بیمار ہوکر مرے۔ لشکر شاہی مین کمی بارش کے سبب غلہ بہت ہونچتا رہا اور

سپاہ آسائش سے رہی اور سورچل آگے بڑھتے گئے۔ توپون نے اپنے گولے برسائے۔ مگر لشکر شاہی مین سے
سوائے ارلغ بیگ بدخشی و سید ابو اسحق صفوی کے کوئی بڑا آدمی نہین مرا۔

ان دنون مین بادشاہ نے بیجاپور و گلکنڈہ و بیدر مین ایلچی بھیجے۔ عادل خان مرزبان بیجاپور نے
اول ایک لعل گران بہا بھیجکر پیشگری کی۔ ایسے ہی قطب الملک گلکنڈہ نے اور ملک برید بیدر نے
نیازمندی ظاہر کی۔ ان سب کی خواہش یہ تھی کہ کچھ دنون کے لئے بارگاہ خلافت سے دل ہی
کے ساتھ نامزد ہون۔ شاہزادہ مراد کے مرنے پر اور بیر کی لڑائی پر اور احمد نگر کے محاصرہ پر نظام الملکیون
نے انسے یاوری چاہی مگر انہون نے بادشاہ کی دولت خواہی کا سررشتہ چھوڑ کر انکی باتون پر کان
نہ لگایا۔ اولیار دولت بھی بادشاہ کی بازگشت کے لئے سب ڈھونڈ رہے تھے اسلئے وکیلون کی
آرزوئین پوری ہوئین۔ ۱۲ ار کو بادشاہ نے عادل خان پاس شمریف سرمدی قطب الملک
پاس مسعود بیگ کو ملک برید پاس مومن بیگ کو بھیجا اور زبانی اور تحریری بہت سی نصیحتین
انکو کین۔

احمد نگر فتح ہو گیا مگر کارسازون کی ناپروائی سے فتنہ بڑھنے لگا اناج مہنگے ہونے نے
لشکر شاہی کی قوت کو ضعیف کیا۔ دکن کے خودکام فراہم ہو کر شورش برپا کرنے لگے
مرتضیٰ نظام الملک کے چچا شاہ علی کے بیٹے علی کو انہون نے اپنا نظام الملک بنایا
بادشاہ کو سارا حال بیان کا نہین معلوم ہوا۔ مگر علی پسر شاہ علی کی بدگوہری اور راجوکی
فتنہ افزائی بہت مشہور ہو گئی۔ اس سبب سے خانخانان کو احمد نگر بھجوایا اور ابوالفضل کو
ناسک روانہ کیا۔

جب ابوالفضل نے ملک ناسک کی فتح کا سامان اچھی طرح آمادہ کیا اور سرتابونکی
مالش کے عمدہ روش پر آمادہ ہوا تو حیلہ پردازون حسد پیشون نے بادشاہ سے ۵
اسفندارمذ کو حکم بھجوایا کہ پسر شاہ علی کے پاس بہت آدمی جمع ہو گئے ہین وہان جاؤ اور
خانخانان کے ساتھ اتفاق کرکے کام کو شائستگی سے انجام دو۔ ابوالفضل قصبہ انو سے اسطرف روانہ ہوا

جسوقت سے احمد نگر فتح ہوا شاہزادہ دانیال کو باپ پاس جانیکی لو لگی۔ بادشاہ نے بھی اُس
پاس فرمان بھیجدیا کہ مرزا شاہرخ کو احمد نگر سپرد کر کے میرے پاس چلے آؤ۔ دہم اسفندیار مذکور وہ
بادشاہ کی خدمت مین آیا۔ بادشاہ نے اسپر نوازش کر کے خاندیس کی حکومت عنایت کی اور اس
ملک کا نام اسکے نام پر داندیس رکھا۔ شاہزادہ دانیال نے دولت خان لودی کو نوکر رکھکر
اور دو ہزاری منصب دیکر احمد نگر مین مرزا شاہرخ کی کمک کو بھیجا تھا وہ قولنج سے مر گیا۔ ۲۰ کو
خواجگی فتح اللہ ناسک کی طرف اسلئے بھیجا گیا کہ یہان کا حاکم سعادت خان پیمان شکنی کر کے
باغی ہو گیا تھا مگر اب وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے کوئی نیکر دیا بادشاہ پاس لیجائے۔ بادشاہ نے ۲۲ کو
بہادر خان کو گوالیار بھیجا کہ وہان زندان کو دلبستان بنا کے کچھ آگہی حاصل کرے۔ مہربانی سے
زہ وزاد اسکا ہمراہ کیا۔ ولی بیگ و سیام بیگ و ابو ناصر اور کچھ سپاہ کو ساتھ کر دیا۔

عادل خان بیجا پور کا فرمانروا آرزو رکھتا تھا کہ اسکی بیٹی کا نکاح شاہزادہ دانیال سے
ٹھہر جائے۔ اسلئے ۲۹ کو میر جمال الدین انجو خواستگاری کے ساتھ وہان بھیجا گیا۔

برید کے امراء پیشین مین سے علی بسر ولی خان تھا وہ بیجا پور کے نزدیک اس فکر مین تھا کہ
کسی طرح بڑا آدمی ہو جاؤن۔ کچھ آدمیون نے اُسے بلا کر تھوڑے دنون بیدر مین بھی چھپا رکھا تھا
اس زمانہ مین کہ مومن بادشاہ کی طرف اندرز گوئی کے لئے گیا تو علی اسکے قبول کے خیال سے قلعہ سے
نکل کر شہر مین آیا مگر زر پرست ناسپاسون نے اسکو ایذر لیجا کر ایک شور برپا کر دیا۔ علی مجبوری
زہ وزاد کو لیکر ناروان سے گلکنڈہ کو چلا۔ بدنہادون نے پیچھے آنکر اسکی مان اور رشتہ دارون کو
دستگیر کیا اور انکو مار ڈالا۔ غرض بادشاہ سے سرتابی کی سزا اُسکو یہ ملگئی۔

علی بسر شاہ علی کو سزا دینا بڑا کام تھا اسلئے ابوالفضل کو ناسک سے بلایا تھا وہ برن
گاؤن کے قریب پہلے سال مین خانخانان سے ملا۔ ناگاہ یہ خبر آئی کہ دنکور زمیندار عادل خان
بیجاپوری کی مالش سے احمد نگر کے قریب آیا ہو اگرچہ وہ فرمان پذیری کی داستان کہتا ہے مگر
اسکی دست یازی کا خوف ہے وہ ملک احمد نگر کا بڑا زمیندار ہے۔ پانچہزار سوار اور بارہ ہزار

مرزا دانیال کا باپ کی خدمت میں پاس آنا ۱۰۰۹ھ

علی بسر ولی خان کا فساد اٹھانا ۱۰۰۹ھ

بسر شاہ علی کے علاج کیلئے ابوالفضل کا روانہ ہونا ۱۰۰۹ھ

پیادے اُس پاس ہین۔ سال گذشتہ مین جالنا پور مین خانخانان اسکی دلاسا کے لئے اس طرف
گیا تھا۔ اور ابو الفضل کو علی پیسر شاہ علی کی چارہ گری سپرد کی۔ ساحل گنگ (گوداوری) پر آیا بہت سے
امیر جو پہلے اس کام کیلئے گئے تھے وہ موجود تھے۔ قلعہ کالنہ فتح ہوگیا۔ احمد نگر کے منتخب قلعونمین سے
تھا اور سعادت خان پاس تھا وہ مدت سے بندگی کی آرزو رکھتا تھا جب خواجگی فتح اللہ جسکا
اوپر ذکر ہوا اُس قلعہ کے نزدیک آیا تو اُسنے شائستگی کے ساتھ یہ قلعہ اُسکو سپرد کردیا۔ ۲۳ اُردی بہشت کو
شاہزادہ دانیال پاس بادشاہ نے دو لاکھ مُہر بھیجین جن سے ملک کشائی کی قوت بڑھ گئی۔

بادشاہ کی بازگشت دارالخلافہ آگرہ کی طرف ۱۰۰۹ھ

پہلے اس سے کہ قلعہ احمد نگر فتح ہو بعض اولیاء دولت کو بنگاہ و دوستی کے سبب سے اور ایک
گروہ گرانی اشیاء کی وجہ سے بعض دکان آرائی کی وجہ سے سخت کوشش کرتے تھے کہ شہریار بغیر
آسیر فتح کئے اُلٹا چلا جائے۔ بادشاہ سے جب کوئی بازگشت کے لئے کہتا تو اسکو جواب ایسا دیتا کہ
اُسکی زبان بند ہو جاتی۔ جب قلعہ آسیر فتح ہوگیا تو اولیاء دولت نے اور زیادہ مراجعت کیلئے
باتین بنانی شروع کین۔ بادشاہ کا ارادہ یہ تھا کہ ملک احمد نگر بالکل ناسپاسی کے خس و خاشاک سے
پاک ہو۔ اسکے بعد بیجاپور و گلکنڈہ و بیدر پر غلبہ ہو کہ وہان کے فرمانروا فرمان پذیری کا استوار
عہد کرین۔ ان دنون مین مرزبانون کے نیائش نامے بادشاہ پاس آئے تو کوچ کرنیوالون کے
ہاتھ ایک دستاویز آئی۔ بادشاہ کا ارادہ نہ تھا کہ جبتک ایلچی نہ آئین وہ جائے لیکن سب
چھوٹے بڑون کی سخت کوشش سے ۱۱ اُردی بہشت کو اُسنے کوچ کیا۔ ۱۲ کی رات کو بہت سے
آدمی بن پوچھے ابو الفضل سے جدا ہوگئے۔ بہت دنون سے انکا ارادہ ہندوستان جانے
کا بادشاہ کے ساتھ تھا غرض بادشاہ کے جانے کی خبر گرم ہوئی تو عجب روا روی پیدا
ہوئی۔ دکن کے ناسپاسون نے شورش مچائی۔ ہر روز لڑائی ہونی شروع ہوئی۔ اس بے راہہ
روی مین جعفر پسر مرزا یوسف دکنیون کے ہاتھ مین گرفتار ہوگیا جس سے انکا غدر بڑھ گیا۔
شاہزادہ نے جو اپنے اہل حرم کو احمد نگر سے بلایا تو اور آشوب بڑھا۔ مرزا یوسف خان
کی سپاہ کو لیکر مرزا رستم بیراہہ ہوا۔ بادشاہ اسپر خفا ہوا۔ کچھ دنون کورنش سے باز رکھا

راے درگا اور راے بھوجبھی جنکو ابوالفضل سے ملنے کا حکم ہوا تھا اپنے گھر چلے گئے اگرچہ وہ کار پژوہ نہ تھے مگر انکے ملنے سے ابوالفضل کو تقویت ہوئی۔ ۵ ارکو مرزا شاہرخ پادشاہ پاس چلا گیا۔ دانیال نے اسکو احمد نگر مین مقرر کیا تھا۔ ۲۶ رکو پادشاہ نے ابوالفضل پاس بیس ہاتھی اور اسیقدر ہتنال (توپ جسکو ہاتھی کھینچین) اور دس گھوڑے اور کچھ روپے بھیجے جس سے فیروزی کا سرمایہ بڑھا۔ ۲۸ رکو سلطان دانیال کو پادشاہ نے برہانپور بھیجا۔ پادشاہ کا ارادہ تھا کہ اسکو ہاتھی کے تسکار مین اپنے ساتھ لیجائے مگر دکن مین شورش ہونے سے اسکو اُلٹا بھیجدیا۔ مرزا شاہرخ۔ مرزا یوسف خان۔ شہاب الدین قندھاری کے برخوردار یوسف مسعود خان حبشی اور تین ہزار ایماق بدخشی جو توران سے ابھی نئے آئے تھے اور بہت سے اور سپاہیون کو اُسکے ہمراہ کیا جس سے رواروی کچھ کم ہوئی۔

صوبہ احمد نگر کے عمدہ قلعو مین قلعہ ترینگ تھا۔ آب گنگ (گوداوری) کا سرچشمہ اسمین جوش کرتا تھا۔ وہ ایک بزرگ پرستشکدہ تھا وہ سعادت خان پاس تھا۔ ہمنے پہلے لکھا ہے کہ وہ پادشاہ کا تابع ہوگیا تھا۔ اسنے قلعہ کالنہ سپرد کیا تھا۔ یہ قلعہ بھی پادشاہی آدمیون کو یہان لاکر اسنے سپرد کیا۔ مگر سپاہ کے سردارون نے دل گرفتگی کے سببسے قلعہ کی پاسبانی کا سامان نہ کیا اور اُلٹے چلے گئے۔ راجو بہت سی سپاہ کے ساتھ پیچھے آیا۔ لڑتا ہوا آگے چلا۔ جہان وہ لڑا پادشاہی سپاہ کو فتح ہوئی۔ راجہ بھرجی و ہاشم بیگ فولاد خان و ملک شیر و سادات بارہ و عظمت خان نے کارہائے نمایان کئے ہر ایک اپنے اقطاع کو گیا۔ راجو نے پھر کر قلعہ پر غلبہ پایا۔

بہادر خان گیلانی تلنگانہ مین حاکم تھا اُس پاس جنگ کا سامان کم تھا عنبر جیو نے بہت سے دکنی و زنگی جمع کرکے اسپر حملہ کیا۔ وہ کچھ لڑا اُسنے شکست پائی اور کسی طرف چلا گیا غرض پرستی کے سببسے پادشاہ کو اس کی اطلاع نہین ہوئی اس حبشی نے خودسرون کو جمع کرکے ہنگامہ ناسپاسی برپا کیا۔ سپاہ تلنگانہ کا سردار علی مردان خان تھا۔ وہ پاتھری کے نزدیک شیر خواجہ کی یاوری کو آیا تھا کہ اسنے سُنا بہادر خان گیلانی کو

تلنگانہ کے معاملات اور شیخ عبدالرحمن کا فتح پانا سنہ ۱۰۰۹

شکست ہوئی وہ پھر اُلٹا چلا گیا۔خیرہ سری سے آمادگی بغیر لڑنے لگا بہت سے اسکے ساتھی بھاگ گئے مگر وہ ثابت قدم رہکر لڑتا رہا۔یہانتک کہ گرفتار ہو گیا۔ابو الفضل علی پسر شاہ علی کی مالش کے درپے تھا۔علی مردان خان کا یہ خیال ہوا تلنگانہ ہاتھ سے گیا اور شورش بلند ہوئی ابو الفضل نے چاہا کہ مرزا رستم کو کچھ سپاہ کے ساتھ اس طرف بھیجے مگر اسنے کج نشتون کی رہنمونی سے انکار کیا ناچار اسکو اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اس خدمت پر بھیجنا پڑا۔بارہ سو سوار اسکے ساتھ گئے۔بہادر الملک رستم عرب شیر عرب کو اسکے لشکر مین لپیٹا۔پاتھری مین شیر خواجہ کو دلاویز نامے لکھے کہ لڑائی مین سرگرم ہو عبد الرحمن جاکر شیر خواجہ سے ملا اُسنے بزم یکجہتی آراستہ کی اور کار آگہی اور مردانگی کو ہمدوش کیا۔اپسر شاہ علی نے فرہاد خان اور حبشیون اور دکنیون کو روانہ کیا اور ہنگامہ سپاہ گرم کیا بادشاہی سپاہ نے اسطرح صف بندی کی۔قول مین شیخ عبد الرحمن۔میر ہزار۔میر محمد امین جودی۔میر عبد الملک۔بجلی خان۔یوسف چہار۔سید علی بعض منصبدار ہراول مین۔شیر خواجہ باز بہادر وغیرہ برانغار مین حمید خان وغیرہ جرانغار مین بہادر الملک بہادر خان گیلانی وغیرہ نے نانڈیر کے قریب دریائے گنگ (گوداوری) سے عبور کیا۔رود باز نانجرا کے قریب مخالف کی سپاہ آئی جسکے قلب مین عنبر جیو دست راست مین فرہاد خان لگی اور دست چپ مین منصور خان حبشی بجلی روز یکشنبہ ۱۷ خرداد کو دو پہر سے لڑائی شروع ہوئی غنیم سے پہلے لشکر پادشاہ کی فوجین آراستہ ہوئین بہت دیر کے بعد سپاہ غنیم اس ملک کے دستور کے موافق شورش مچاتی ہوئی پہونچی جنگ مین بہت سے بادشاہی آدمیونکے پاؤن جمے۔کچھ تال سکا لٹ گیا۔پھر بادشاہی بہادرون نے جنگ مین ثابت قدمی کی کئی دفعہ ہر طرف کا لشکر آگے پیچھے ہٹا۔سپاہ کے انتظام مین پراگندگی ہوئی۔اسوقت قول نہایت عمدہ طرح سے آیا کہ غنیم بے تاب ہو کر بھاگا بہت اسکے سپاہی زخمی ہو کر باہر چلے گئے۔ہاتھی اور بہت غنیمت بادشاہی لشکر کو ہاتھ لگی۔بادشاہی لشکر مین کوئی بڑا آدمی نہین مارا گیا۔رستم خان۔زاہد بیگ بداغ بیگ۔میر عبد الملک و میر نجاج و سید علی کچھ زخمی ہوئے اور اچھے ہو گئے لیکن گھوڑ سے بہت سے مارے گئے۔دن تھوڑا باقی تھا اسلئے تھوڑی دور تعاقب کرکے بادشاہی لشکر چلا آیا

سپاس گذاری کے لئے انجمن ہوئی۔ اس لڑائی مین شیر خواجہ و بہادر الملک و حمید خان نے سخت کوشش کی۔ غنیم کا لشکر پانچہزار اور بادشاہی لشکر تین ہزار تھا۔ مگر اسنے یہ دشوار کام آسان کیا۔ اب سپاہ پاتھری سے تلنگانہ مین آئی۔ کچھہ نظام الملک کی سپاہ اس سے لڑنے آئی۔ رائے چند سو سوار لیکر اس سے لڑنے گیا اور فتحمند ہوا۔ مرزا خان جنیر سے نکلا۔ گرانی اجناس کے سبب سے شاہی لشکر مین فتور آیا۔ ہندو زمیندار نے سرورحبشی و محمد خان زنگی اور سرکشون کو لیکر ہنگامہ برپا کیا۔ مرزا خان کم یاوری اور گران ارجی وتہیدستی کے سبب لڑتا ہوا احمد نگر کیطرف آیا۔ ۱۱ خرداد کو اس شہر مین پہنچکر آرام کیا۔

جب بادشاہ برہانپور مین تھا تو علی نے اپنے کار آگہون کو بھیجکر اپنی بندگی بادشاہ سے عرض کی وہ لوگ بادشاہ کا کوچ یہان سے چاہتے تھے انہون نے اس کی گذارش کو گران ارز بنایا۔ اسکے دلاسے کا فرمان حاصل کیا اور رہر بنس کے ہاتھ بھجوایا جب بادشاہ کے کوچ کا آوازہ گرم ہوا۔ تو فرستادہ نہ فرمان کو بآئین دلخواہ لیجاتا تھا نہ جواب دیتا تھا جب ابوالفضل گوداوری کے کنارہ پر آیا اور آگے جانے کا ارادہ کیا تو اُسنے عذر کرنیکا قصد کیا اور فرستادہ کو اپنے پاس بُلایا۔ دونو مین بہت نادرست گفتار درمیان مین آئی۔ ناگاہ شورش تلنگانہ برپا ہوئی۔ علی مردان بہادر و مرزا یوسف کا بیٹا گرفتار ہوئے فرمان فرمانے کو کوچ کا اور بادشاہی لشکر مین سے بہت آدمیونکے چلے جانیکا آوازہ بلند ہوا۔ تو علی نے پھر سرتابی کی لشکر کے قریب کچھہ اوباش بھیجکر شورش مچائی ہر دفعہ لڑائی مین بادشاہی لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ ناگاہ تلنگانہ کی شکست کی خبر سب جا پھیل گئی تو علی نے زاری و پوزش گری کی متواتر لابہ گری کی اسکو جواب ایسے ملے کہ اُس سے اور بھی وہ لوٹ صبر ہوا۔ شرمندگی اپنی ظاہر کی۔ فرستادہ کو نہایت بزرگ داشت کے ساتھ مرزا یوسف خان کے بیٹے کو ہمراہ کرکے روانہ کیا۔ ۲۰ کو وہ لشکر مین آئے۔ ابوالحسن اور اسکے معتمدون نے یوسف خان کے بیٹے کو حوالہ کیا اور یہ قرار پایا کہ جب وہ علی مردان خان کو لائین اور پیمان نامہ بندگی سخت سوگندون کے ساتھ حوالہ کرین تو سرکار اڑلیسہ دھارور و کچھہ ملک بیر

[illegible] سنہ ۱۰۰۹

اسکو دیئے جائین تا کہ وہ روز افزون پرستاری کرے اور خدمتگذاری سے باز نہ رہے۔

چونکہ دولت خان کو بے وقت بُلا لیا تھا۔ راجو نے دبست درازی شروع کی ناسک اور بعض مقامات پر قبضہ کر لیا جب خواجگی فتح اللہ اس طرف گیا اور کچھہ کام نہ کیا تو بہت سے ہمراہی اُس کے راجو سے جا ملے اس سبب سے وہ اور زیادہ سرکش ہو گیا۔ اُس زمانہ مین کہ ملک کے کارساز بے پروائی کی نیند مین سوتے تھے اور ابوالفضل بیمار تھا راجو دولت آباد سے آیا۔ جالنا پور تک ملک لے لیا۔ ابوالفضل کو اور کام کے لئے مقرر ہوا تھا اور ناتوان تھا مگر اُس نے راجو کی مالش کو مقدم جانا۔ گوداوری کے کنارہ سے بارش کی شدت مین وہ چلا۔ میر مرتضےٰ و وفادار خان وغیرہ کو یہان اس خوف سے چھوڑا کہ علی اپنے عہد سے برگشتہ ہو جائے اور اس طرف شورش برپا ہو جائے وہ تیز چل کر آہوبرہ مین آیا راجو کو اس کا یقین نہ آیا جب اسکو یقین ہوا تو وہ اُلٹا چلا گیا۔

راجو کی شورش سنہ ۱۰۰۹ھ

۱۶ کو ابوالفضل دولت آباد مین آیا جب اُس کو معلوم ہوا کہ راجو یہین کہین قریب ہے تو اُسنے آہوبرہ مین بنہ وبار کو چھوڑا اور اُسکی مالش کے لئے روانہ ہوا۔ راجو کہسار مین جا کر حوض تنلو پر سراسیمہ جا بیٹھا جب لشکر شاہی گریوہ سے نیچے اُترا تو راجو دولت آباد سے گذر کر ناسک کی طرف گیا۔ ۲۲ کو ابوالفضل حوض قتلو پر پہنچا ارادہ تھا کہ اُسکے پیچھے جا کر مالش کرے کہ ہمراہیون کے اختلاف آرائے وہ اس ارادہ سے باز رہا۔

ہمنے پہلے لکھا ہے کہ دن کو بیجاپور کے لشکر سے ہزیمت پا کے احمد نگر کی پناہ مین آیا تھا مگر وہ بھاگ گیا۔ اپنی زمین کو خالی پایا۔ وہان جا کر شورش کا خمیر مایہ ہوا۔ پہلے ہی آدمی اس کی جان گزائی کے لئے تیار ہوئے تو اُسنے سخت کوشش کر کے اپنے تئین احمد نگر مین پہونچایا۔ لابہ گری اور زنہار خواہی شروع کی۔ خانخانان نے اسے منظور کر کے دست آویز گوفتاری بنایا۔ دنکو نے دوربینی چھوڑ کر باجی

دنکو زمیندار کے بیٹون کا گرفتار ہونا سنہ ۱۰۰۹ھ

اپنے بڑے بیٹے کو مع اپنے بھائی دھار راؤ کے آگے بھیجا کہ وہ جاکر حال دیکھین گفتار کی عیاری کھلی
اسی سال و مہینہ مین جب اس شہر کے قلعہ مین خانخانان آیا تو اسکے سپہ سالار کو قید کیا اور بہت سے
آدمیون کو اس زمیندار کی گرفتاری کے لئے بھیجا خود اسکے پیچھے آیا اگرچہ کچھ آدمیون کے سست
ارادہ سے اور ایک گروہ کی خامکاری سے دن کو گرفتار نہین ہوا۔ لیکن ۲۹ ہاتھی اور مال
بہت سا ہاتھ لگا اور وہ علی پسر شاہ علی پاس چلا گیا اسنے اسکو قید کرلیا۔

پادشاہ ۲۳ امرداد کو فتحپور مین آیا اور مریم مکانی کے دیدار سے خوش ہوا۔ ۳۱ کو پادشاہ
دارالخلافہ آگرہ مین آیا۔ اس سفر مین ۲۲۸ کروہ ۴۸ کوچون مین اسنے طے کئے۔ اور ساٹھ مقام
کیئے راہ مین ہر جگہ مخلص بندے سعادت پذیر ہوئے۔

ابوالفضل جوض قتلو پر کچھ ٹھہرا۔ تو دولت آباد کے قلعہ نشینون کو خوف ہوا
توپ اندازی کو اپنی رستگاری کا دستمایہ بنایا۔ ایک بڑی توپ انہون نے چھوڑی جس سے
دو آدمی مرے راجو کا ارادہ تھا کہ ناسک کو جائے۔ مگر بعض منافق اسے اُلٹا لے آئے۔
دوسری راہ سے وہ دولت آباد سے گذرا اور سپاہ اور بعض جا کو لوٹا صبح کو ابوالفضل
پہاڑ سے اُتر کر لڑنے کو آیا۔ گریوہ نوردی کے سبب سے تیزروی نہوئی۔ بہت آدمیون نے
کہا کہ راجو اُلٹا چلا گیا ہے اس لئے جنواڑہ کے نزدیک ابوالفضل خیمہ زن ہوا۔ دن ڈھلے
آدمی پہاڑ سے اُترے۔ راجو نمودار ہوا۔ بغیر صف بندی کے اُس سے لڑائی ہوئی۔
رائے گوپال نے جوانمردی دکھائی۔ باوجودیکہ اسکا لشکر پانچ ہزار اور لشکر شاہی تین ہزار
تھا وہ بھی بے آئین مگر پادشاہی لشکر کو فتح ہوئی۔ رات ہوگئی تھی اسلئے تعاقب نہوا۔
۸ کو وہ پھر لڑنے آیا۔ ہراول کے پیشدست عادل خان و اعتبار خان و رائے گوپال
اُس سے لڑے وہ اپنے آئین کے موافق بھاگتا جاتا۔ برانغار سے مرزا ازا ھــد مرزا
نامی میر گدائی آنکر لڑے۔ راجو کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ اس سے گرا۔
مگر اسکے ہواخواہون نے اُسے پھر گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اس نے اُفتان و خیزان کے ساتھ

گرفتاری ... سنہ ۱۰۱۰

ابوالفضل اور راجو کی لڑائی ... سنہ ۱۰۱۰

رہائی پائی۔ گجکنہ اور بعض اور جوانمرد بھی اپنے ہاتھیون کو کام مین لائے تین گروہ لڑتے ہوئے دولت آباد کے قریب پہونچے۔ اہل قلعہ راجو کے یاور ہوئے۔ قریب تھا کہ پادشاہی لشکر کو شکست ہو کہ ابوالفضل نے جاکر لڑائی کو سنبھال لیا اور غنیم کو پراگندہ کردیا جب دن ختم ہوا اور لشکر پھر آیا اور کچھہ نیچے اُتر آیا تو پھر مخالفون نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ گو سپاہ بے آئین ہوگئی تھی مگر پھربھی اُن نے بعض دشمنون کو مارا بعض کو اسیر کیا اور فتحمند ہوئے۔ کچھہ دنون راجو مقابلہ مین نہ آسکا۔ قلعہ دولت آباد کی پناہ مین تھا۔ ۵ ار کو پھر بہت لشکر سے لڑنے آیا اور شکست پا کر بھاگا۔

ہمنے اوپر لکھا ہے کہ شیخ عبدالرحمن نے جب تلنگانہ پر فتح پائی تو حمید خان۔ باز بہادر بہادر الملک کو اسکی نگہبانی کے لئے مقرر کیا تھا۔ مگر ملک کے کارساز بے پروائی کی نیند مین سوئے اور ابوالفضل اس سرزمین سے کچھہ زیادہ دور تھا۔ عنبر جیو نے بہت سے آدمیون کو جمع کرکے فتنہ اُٹھایا۔ پادشاہی سپاہ باوجود کمی کمک کے مردانگی کے غرور مین آنکر اُس سے لڑنے کھڑی ہوگئی۔ اسی سال دھمینہ مین مانجرا کے کنارے پر لڑائی ہوئی اور اسکو شکست ہوگئی۔ بہادر الملک مرپٹ کر گوداوری کے کنارے پر پناہ کی جگہ آگیا۔ اور حمید خان و باز بہادر اسیر ہوگئے۔ یون آباد ملک تلنگانہ ہاتھہ سے گیا اور مخالفون نے امن و امان کے مقام مین شورش پیدا کی۔

دوبارہ راجو سپاہ کے جوق جوق بنا کے لشکر شاہی کے قریب لایا۔ اور ہر گروہ ایک کوہچہ کی پناہ مین پہلے اس سے بیٹھ گیا کہ پادشاہی سپاہ صف آرا ہو۔ اسکے بعض گروہون نے پھر کر دولت آباد کی طرف کوچ کیا اور مشہور یہ ہوگیا کہ راجو جاتا ہے۔ ابوالفضل اسکی طرف روانہ ہوا اور سپاہیون کی مالش کیلئے فوج مقرر کی راجو کی بہت سی فوجون کو لڑائی مین شکست ہوئی اور پادشاہی سپاہ فتح پاکر دن ڈھلے واپس آئی۔ راہ کے درمیان معلوم ہوا کہ راجو رہزنی کر رہا ہے۔ غازی خان کا بیٹا محسن اس سے لڑا اور قید ہوگیا۔ اب راجو دامنہ کوہ سے دولت آباد کو چلا۔ ابوالفضل اسطرف گیا۔ مرزا علی بیگ اکبرشاہی

شورش تلنگانہ سنہ ۴۶ جلوس ۱۰۱۰ھ

راجو کی شکست سنہ ۴۶ جلوس ۱۰۱۰ھ

قاسم خواجہ. میرزا ہد. تاش بیگ. رائے گوپال نے پیشدستی کی اور لڑتے ہوئے. شہر دولت آباد
کے اندر گھس گئے قریب تھا کہ وہ راجو کو گرفتار کر لیتے. مگر وہ خندق کے اندر چلا گیا. اسکا
بنہ و بار سب لٹ گیا پانسو گھوڑون کے قریب لشکر شاہی کو ہاتھ لگے. تو یون سے لشکر
شاہی کا نقصان کچھہ نہین ہوا جب ابو الفضل یہان آیا تو ایک بڑی توپ کہ جس مین
دس من کا گولہ چھوٹتا تھا وہ چھوڑتے سے پھٹ گئی اور قلعہ کی دیوار کچھہ گر پڑی اہل قلعہ
نے پناہ مانگی. دن کچھہ باقی نہ تھا. دوربینی کے سبب سے لشکر الٹا لشکرگاہ مین آگیا. راجو قلعہ کی
پناہ مین بیٹھا. بہت آدمی اُس سے جدا ہو گئے. یاورون کی کمی سے خوفناک تھا. اگر
ملک کے کارساز کچھہ مدد کرتے تو یہ فتنہ بالکل مٹ جاتا جب عنبر جیو نے تلنگانہ لے لیا تو
آگے بڑھنے کا ارادہ کیا. علی پسر شاہ علی نے فرہاد خان اور بہت سے آدمیون کو شیر خواجہ
کے سر پر چڑھایا. خانخانان احمد نگر سے نکلا اور اپنی جاگیر مین گوداوری کے کنارہ پر بیٹھا اور
ابو الفضل کو اُسنے نامے لکھے جنمین ملک کے کام مین نہ مصروف ہونیکے اور احمد نگر مین پڑے
رہنے کے اور کمک کے نہ پہنچنے کے عذرات لکھے ابو الفضل اسکی طرف روانہ ہوا. اس نے
عنبر جیو کی گرفتاری کیلئے مرزا علی بیگ اکبر شاہی و سادات بارہ اور حسن خان میانہ کے
بیٹے اور جانش بہادر کے بھائی مقرر کئے. راجو کی گرفتاری مین درنگ ہوئی خواجگی فتح اللہ
ناسک سے ناکام واپس آیا تو شہزادہ نے پھر اسکو وہین بھیجا. سپاہ کے جمع کرنے مین اسکو دیر لگی جب
وہ بابل مین آیا تو راجو اس سے لڑنے کھڑا ہوا. لشکر شاہی اس سے نہ لڑسکا مگر اسنے
اپنے تئین قلعہ سونگر مین پہونچایا. راجو نے اسکا کچھہ محاصرہ کیا پھر اسکو چھوڑ کر غارتگری
کی پاتھری مین سعادت خان کا بنہ و بار لوٹ لیا. اور بہت مال جمع کیا. اور
قلعہ کو آنکر پھر محاصرہ کر لیا جب اسنے یہ خبرین سنین کہ عظمت خان بھرجی کی فوج
کو ساتھ لیکر آتا ہے. عنایت اللہ برہان پور سے چل کر نزدیک آگیا ہے اور
ابو الفضل نے بازگشت کی ہے تو وہ قلعہ کا محاصرہ چھوڑ کر دولت آباد کی طرف

چلا کمالنہ کو لے لیا جسکو خواجگی فتح اللہ نے یعقوب بیگ شغالی و سعید بیگ بدخشی کو سپرد کیا تھا
اُنہون نے دو ہزار ہون رشوت مین لیکر ایسا مضبوط قلعہ اُسکو سپرد کر دیا۔

پاتھری مین شیر خواجہ و مرزا یوسف و مرزا کوچک علی و یعقوب بیگ و
محمد بیگ و برہان الملک و ابو الحسن اور بہت سے خدمتگذار جمع ہوئے تھے۔ فرہاد خان
زنگی شیر خواجہ کو گھیرے ہوئے تھا اُسنے شبخون مارا سخت لڑائی ہوئی اور وہ
بھاگ گیا۔ ابو الفضل خانخانان سے پرنور مین ملا تھا۔ یہان سے اسکا ارادہ تھا
کہ فرہاد کی مالش کے لئے چلا جائے مگر ہمراہیون نے اسکا ساتھ نہ دیا۔ بادشاہی
سپاہ بہت دیر کرکے گوداوری سے پار ہوئی اور فرہاد خان سے لڑی۔ وہ بریلی
سے گذر کر انبہ جوکا مین چلا گیا۔ یہ قلعہ نہایت مضبوط تھا۔ بادشاہی لشکر مشکل سے
آگے بڑھا۔ دست راست مین مرزا زاہد و میر گدائی دست چپ مین۔

بہادر الملک لجکنہ پیش مین شیر خواجہ تھے۔ اُنہون نے غنیم کے پنشید ستیون کو کہ چار ہزار کے
قریب تھے پراگندہ کر دیا۔ اگرچہ رات کے قریب ہونیکے سبب سے مخالف کا تعاقب نہین
کیا مگر قلعہ لے لیا اور اس آباد شہر کو لوٹا اور بہت غنیمت لشکر شاہی کو ہاتھ آئی
اس رات کو خبر آئی کہ علی نے قلعہ دھارور کو پناہ سمجھ کر بہت سا لشکر جمع کیا
تھا وہ بیتابانہ کوہستان ادسہ مین گیا۔ قصد ہوا کہ صبح کو اسکو گرفتار کرلین
مگر امرا کی دورنگی کے سبب سے یہ کام عمل مین نہ آیا۔ علی بھی لابہ گزار ہوا اور معذرت نامے
متواتر بھیجے انہین دنون مین حمید خان اور اسکا بیٹا یوسف تلنگانہ کی آفت سے بڑی
مشکل سے نکلا تھا۔ اُسنے کارآگہی سے کچھ آدمی جمع کئے اور سرتابون سے بہت لڑائیان
لڑا۔ ڈیڑھ سو سپاہ کے ساتھ وہ لشکر سے آن ملا۔ علی نے اُسکو اپنے ساتھ یک رنگ کرنا
چاہا تھا لیکن وہ اس سے نہ ملا۔ اسکا باپ نظربند تھا مگر ایک رات کو وہ بھاگ کر ایک زمیندار
کی رہنمونی سے لشکر مین آگیا۔ ہر طرف شورش مچ رہی تھی کہ شاہزادہ مرزا رستم اور

فرہاد خان کا شبخون مارنا اور ناکام پھرنا ۔ ۴۶ جلوس ۱۰۱۰

قلعہ انبہ جوگا کی فتح ۴۶ جلوس ۱۰۱۰

علی سے مصالحت ۴۶ جلوس ۱۰۱۰

یاوری بازگشتن صلح کے ساتھ

مرزا یوسف کو یاوری کیلئے بھیجا۔ مرزا یوسف جب جالنا پور مین آیا تو درد دُنبل سے مرگیا۔ بعض علی کے دیوانسانون کے بعض فتنہ دوستی کے سبب سے ایک گروہ کو تہ بینی کی وجہ سے کچھ ساد لوحی کے سبب سے شاد خواب ہوئے جب ساحل بابحر اپرخیمہ لگا تو علی نے داستان سرائی زاری کے ساتھ کی مرزا یوسف کے مرنے نے اور راجو کی شورش نے اور فاروقی پسر نے انکی خواہشون کی تائید کی قاسم کا باپ نیکو خدمتی مین مارا گیا تھا اسکی تیول کو ضبط کرلیا وہ راجو سے اپنی ناکامی کے سبب جاملا۔ اُسنے کچھ سپاہ اُسکے ساتھ کرکے دا ندیس بھیجی اور خود پیچھے روانہ ہوا۔ ناگزیر صلح قرار پائی اور اسمین یہ شرطین ٹھہرین کہ باز بہادر و علی مردان بہادر و ہزارہ بیگ کو روانہ کرے اور فرمان پذیری سے سرتابی نکرے تو کچھ ملک اسکو دیا جائیگا۔ لشکرگاہ سے پانچ کردہ اعتبار الملک اور برادر نیک راوان قیدیون کو لائے۔ میر مرتضے اسطرف سے گیا اور پیمان نامہ لیا اور امان کا فرمان دیا۔ صبح کو لشکر نے بازگشت کی جب رامپوری کے قریب پہونچے تو تلنگانہ کا تسخیر کرنا اور اسکی پاسبانی میر مرتضے کے سپرد ہوئی۔ بہادر الملک رستم عرب و شمشیر عرب و سعید عرب و برہان الملک اسکے ہمراہ ہوئے اور انکی جاگیرین ہین مقرر ہوئین۔ میر رخصت ہوا اور یہ قرار پایا کہ پاتھری و تلنگانہ کی یاوری کیلئے پُرنور مین خانخانان ٹھہرے۔ ابوالفضل راجو کی مالش کیلئے جائے مرزا رستم و راجہ سورج سنگھ و مقیم خان مع برادران کے و راجہ بکرماجیت مقرر ہوئے مرزا علی بیگ و سادات بارہ اور جانش بہادر کے بھائی اور عادل خان مع برادران جو جالنا پور مین تھے ہمراہی کیلئے نامزد ہوئے کچھ خزانہ اور بارگی بھی مرحمت ہوا ابوالفضل یون رخصت ہوا دم بھمن کو برہانپور مین آیا اور شاہزادہ سے ملا جب راجو کی مالش کے لئے وہ جالنا پور مین آیا تو ہمراہی بہانہ بنا کے اُس سے جدا ہو گئے ابوالفضل نے یہ ارادہ کیا کہ شاہزادہ سے اجازت لیکر بادشاہ پاس چلا جائے کہ اس آشوب سے نجات پائے مگر شاہزادہ نے اُسکو اجازت نہ دی اور راجو کی مالش کی درخواست کی تو ابوالفضل نے لکھا کہ مین حضور کے حکم سے باہر نہین لیکن حضور ملک کے کامون مین متوجہ نہین ہوتے اور بڑے بڑے کام

چند تنگ چشم حریصون کے سپرد کر رکھے ہین تو اس ناپروائی کے آشوب مین اور ناتوان بینی مین
کیسے کوئی کار عظیم چل سکتا ہے اس کہنے سے شاہزادہ کو آگاہی ہوئی اور وہ اپنے کام مین کچھہ
معروف ہوا۔ ابوالفضل کو خلعت اور اسپ دیکر رخصت کیا۔

بادشاہ کے پاس شہزادہ دانیال نے عرضداشت بھیجی کہ راے رایان خدمات دکن کے لئے
مقرر ہو ملک گڈہ کے زمیندارون کی مالش کے لئے لشکر مقرر ہو۔ بادشاہ نے یہ درخواست
اس کی منظور کی اور راے رایان کو روانہ کیا۔ بادشاہ کو شاہزادہ کی ایک اور عرضداشت سے
معلوم ہوا کہ علی حوالی احمد نگر مین اسباب فساد کی ترتیب مین فکر کر رہا ہے۔ شورش و فتنہ انگیزی کا
خیال رکھتا ہے دو تین روز پہلے ولایت برار کی طرف عنبر جیو گیا تھا۔ وہان کے حاکم ملک
اسکے دفع کرنیکے لئے ابراہیم کو مقرر کیا تھا وہ عنبر سے سخت جنگ کر کے مارا گیا۔ اسکے چودہ[14] ہاتھی اور
اسکا تمام اسباب برتری عنبر کے ہاتھ آیا وہ اسکی خودسری و نخوت کا ضمیمہ بنا وہان سے وہ نبوبلاکر
گیا اور قطب الملک کے آدمیون سے لڑا اور فتحمند ہوا۔ ۲۹ ہاتھی اُسکے ہاتھ لگے۔ اسکے بعد تلنگانہ مین وہ
آیا۔ میر مرتضیٰ اُس سے لڑنے کی قوت نہین رکھتا تھا اسلئے قلعہ نشین ہوا۔ اسکے بعض محال پر عنبر
متصرف ہوا اور ایک جماعت کو برار کے پرگنون پر اسنے بھیجا۔ ملک بریدنے لابہ گری و چاپلوسی مین
بیچارہ کا بھکر روپے اُسکے پاس بھجوائے اور صلح چاہی۔ اب اسکا ارادہ ہے کہ عنبر سے ملے اور دونو متفق
ہو کر فتنہ و فساد اُٹھائین اس سبب سے یہ مقرر ہوا کہ ابوالفضل بہت سی فوج لیکر جالنا پور اور اسکے
نواح مین متوجہ ہو اور احمد نگر کی خدمت اور راجو اور مفسدون کی مالش اسکے سپرد ہو اور ولایت برار
اور پاتھری و تلنگانہ کا انتظام اور سرِ علی کا استیصال خانخانان کے حوالہ ہو۔

ابوالفضل کو پچاس ہزار روپیہ انعام بادشاہ نے دیا۔ خداوند خان حبشی نے سرکار پاتھری
پاتم مین فساد مچایا۔ خانخانان نے راجہ سورج سنگھ و غزنین خان کی سرکردگی مین لشکر بھیجکر
اسکی مالش خوب کرائی اور غنیم کو شکست ہوئی اور ان حدود مین امن امان ہوگیا۔

جب خانخانان کو معلوم ہوا کہ تلنگانہ مین عنبر گیا اور وہان میر مرتضیٰ قصبہ

شاہزادہ دانیال کی عرضداشت سنہ ۱۰۱۰ھ

سنہ ۱۰۱۰ھ ... عنبر

نانديرمين اُس سے مقابلہ نکر سکا۔ اور وہ اور شير خواجہ دونو قصبہ بيری مين آگئے اور مخالف نے اس نواح مين دست درازی شروع کی اور اس سبب سے شير خواجہ اور مير مرتضیٰ کو اضطراب ہوا تو اُسنے اپنی بيٹے ايرج خان کو فوج عظيم کے ساتھ اس فتنہ کے دور کرنيکے ليے بھيجا۔ مير مرتضیٰ و شير خواجہ سے ايرج ملا اور اسنے دشمن سے لڑنيکا قصد کيا۔ عنبر اُس سے مطلع ہوکر دمتور کيجانب گيا وہانسے قندھار کو روانہ ہوا۔ اس اثنا رمين فرہاد حبشی دو تين ہزار آدميون کو ساتھ ليکر عنبر سے ملا۔ بادشاہی لشکر بھی بغير توقف کے غنيم کے پاس پہنچا اور اسطرح وہ مرتب ہوا۔ قول مين ايرج مع لشکر پدر اور بعض منصب دار۔ ہراول مين راجہ سورج سنگھ و بہادر الملک و شيخ دلی و پربت سين کھتريہ و مکند رائے۔ گردھر داس پسر رائے سال درباری رگھوداس پسر کھنکار و شيخ مودود و زاہد پسر شجاعت خان و قاسم حسين خان و شيخ ابوالفتح پسر شيخ معروف و شيخ مصطفیٰ و فتح خان لودی و اختيار خان و شير خان برانغار مين و مير مرتضیٰ و جماعت کار طلب جرانغار مين علی مردان بہادر۔ عنبر نے بھی پيکار کے ارادہ سے فوج کو آراستہ کيا۔ اول غنيم کے ہراول نے آراستہ ہاتھيون کو لاکر لشکر بادشاہی کے ہراول پر زد کيا اور زد و خورد کی آگ بھڑکائی۔ توپ و تفنگ کے دھنوئے نے روشن دن کو رات کا لباس پہنا دیا بادشاہی بہادرون نے بندوقون و تيرون کی مار سے دشمن کو بيجان کيا۔ پھر بادشاہی قول نے دودستی تيغ چلائی۔ دشمن کے خون سے اپنے تئين سرخرو کيا۔ دشمن بھاگ گيا۔ اگر ہراول و قول کی برابر جرانغار و برانغار بہادری کرتا تو عنبر و فرہاد دونو گرفتار ہو جاتے۔ بادشاہ کی سپاہ کے ہاتھ ۲۰ زنجير فيل اور مخالفون کے غرور و پندار کا سارا اسباب ہاتھ آيا۔ بادشاہ کو جب اس فتح کی خبر ہوئی اُسنے اپنے افسرون کا اضافہ منصب و عطار اسپ و خلعت مرحمت کيا۔ شہزادہ نے دس ہاتھی بادشاہ پاس بھيجے اور دس ہاتھی اپنے پاس رکھے کہ خود جاکر بادشاہ کی نذر دے۔ شاہزادہ دانيال نے سُناکہ حوالی بابل گڈھ مين فاروقيونمين سے ايکنے سرکشی کی ہے تو تروہی بيگ خان و خواجہ ابوالحسن کو فوج کے ساتھ اس کی مالش کے لئے بھيجا۔ مخالف وہان سے دولت آباد کو بھاگا۔ خواجہ ناظر و خواجہ سرانے قلعہ کا دروازہ بند کرکے بادشاہی

سپاہ سے لڑنا شروع کیا جب انکے بھاگنے کی راہ مسدود ہوئی اور قلعہ کا محاصرہ بادشاہی لشکر نے خوب کرلیا اور اہل قلعہ کو تنگ کیا تو وہ پناہ مانگ کر بادشاہی نوکروں سے آنکر ملگئے۔

ابو الفضل کا مارا جانا ۱۰۱۱ھ

جب بادشاہ نے دکن کا حال سنا تو اُسنے ابو الفضل کو فرمان بھیجا کہ جریدہ ہمارے پاس چلا آئے اور اپنا لشکر شیخ عبد الرحمن کو سپرد کرے اور نظم مہمات اُسکے ذمہ کرے۔ ابو الفضل کو عقیدت درست اور اخلاص راسخ بادشاہ کے ساتھ تھا اس سبب سے مراتب قرب ومنزلت ومدارج دولت وشوکت مین وہ بپایہ بپایہ عروج کرتا گیا۔ اُسکا یہ حال دیکھکر ناتوان بینون کو اُسپر حسد پیدا ہوا۔ کین توزی اور عذر اندوزی کے وقت کی تلاش ہوئی انکی حسد روز بروز بڑھتی گئی اُنہون نے شاہزادہ سلیم کو اسکی طرف سے بھڑکایا۔ بادشاہ کو اس شاہزادہ کے اطوار نا ملائم پسندیدہ نہ تھے وہ ہمیشہ بادشاہ کی مرضی کے خلاف کام کرتا تھا روز بروز بادشاہ اس سے بیزار ہوتا جاتا تھا شیخ کے بد اندیش شاہزادہ کو سمجھاتے تھے کہ بادشاہ کی یہ ساری ناخوشنودی وناراضی شیخ کی شکایت کرنیکے سبب سے ہے سلیم کا مزاج شراب کے پینے سے بگڑ گیا تھا اور اسکا مزاج نہایت تند اور غضبناک ہوگیا تھا اس سبب سے اسکی عقل وہوش اُڑ گئے تھے کہ وہ شیخ کے بد اندیشون کی باتون کو سچ جانتا تھا۔ اسکے قتل کے درپے ہوا۔ اس وقت کہ بے طلب شاہزادہ بادشاہ کے پاس آنا چاہتا تھا اور بادشاہ اسکو آنے نہین دیتا تھا اسکو شیخ کے طلب کی خبر ملی کہ وہ ایلغار کرکے آئیگا۔ اسکو یہ وہم ہوا کہ اگر ابو الفضل اس پاس زندہ پہنچگیا تو معلوم نہین مجھپر کیا آفت اُٹھائیگا اور بادشاہ کا دل مجھ سے بالکل پھر جائیگا اور پھر مجھے عمر بھر باپ کے قدمون کی زیارت نصیب نہوگی۔ نرسنگہ دیو بندیلہ مدتون سے رہزنی کرتا تھا اور اُس کا وطن دکن کے سرراہ تھا اور مدت سے بادشاہزادہ کی رکاب مین رہتا تھا اُس نے اسکو حکم دیا کہ شیخ بادشاہ کی خدمت مین جریدہ آتا ہے اسکو راہ ہی مین آخر منزل پر پہونچا دو ہم تمپر بہت عنایتین کرینگے۔ یہ نوجوان جلد اپنے وطن مین آیا اور بندیلون کی

ایک جماعت کو ساتھ لیا اور شیخ کی گھات مین بیٹھا جب حسب الحکم شیخ دکن سے چلا اور اُجین مین
آنکر اُسنے سنا کہ نرسنگہ دیو اسطرح گھات مین اسکی بیٹھا ہے تو اُسنے اسکی کچھہ پروانہ کی ہوا خواہون
نے سمجھایا کہ گھاٹی چاند کی راہ سے آپ چلیئے مگر اسنے پسند نہ کیا۔ موت آگئی تھی سر رشتہ تدبیر
ہاتھ مین نرہا تھا یا اُسکو مرنے کی تمنا تھی دل اُسکا دنیا سے بھر گیا تھا۔ زمانہ کی نیرنگیان اور روزگار
کے اوضاع کو دیکھکر دنیا سے دل اسکا سیر ہوگیا تھا۔ غرۂ ربیع الاول ۱۰۱۱ھ کو سرائے بیر اور
انتری کے درمیان نرسنگہ دیو کمینگاہ سے نکل کر نمودار ہوا۔ یہ عاقل آزردہ خاطر کشادہ پیشانی
دل پر توکل وہمت فراخ سے آمادۂ پیکار ہوا۔ گدائی خان افغان نے جو اسکا پرانا ملازم اور
پروردۂ احسان تھا آگے آیا اور باگ کو پکڑ لیا اور اخلاص ومحبت سے کہنے لگا کہ دشمن پاس جمعیت
بہت ہے اور ہم کم ہین اسپر غالب نہین ہوسکتے۔ یہ مناسب ہے کہ مین کچھہ دیر کے لئے دشمن کے روبرو
ہوتا ہون۔ تم چلو دشمن کو ہمسے فارغ ہونے مین ایک عرصہ لگے گا۔ انتری مین کہ اس جگہ سے
تین کوس ہے اور وہان رائے رانا ور راج سنگہ دو تین ہزار سوارون کے ساتھ
اُترے ہوئے ہین آپ فراغت سے پہنچ جائینگے۔ اس غیرتمند شجاع نے جواب اسکو دیا کہ
جان کو عزت کے ساتھ دینا اور غیرتمندی ودلیری سے مرنا اس زندگی سے زیادہ خوشتر
ہے کہ بددلی بےجگری کے ساتھ ہو۔ جوانمردون کے مذہب مین کوئی امر اس سے بدتر نہین
ہے کہ حیات پر جسکی جبلت مین ختم ہونا ہے اعتماد کرے اور خصم سے پہلو تہی کرے اور دل کو
جہان ناپائدار پر لگائے اور ہمیشہ اپنے اوپر نفرین کرائے۔ بلاشک وشبہ سب آدمیون کو
روز واپسین پیش آتا ہے اگر وہ میرے لئے یہی دن ہے تو کیا چارہ اور تدبیر ہے۔
مجھے بادشاہ نے طالب علمی سے امارت دوزارت کے عالی درجہ پر سرداری اور
سپہ سالاری کے رتبہ پر پہنچایا۔ اگر آج مین اسکی شناخت کے خلاف کام کرتا ہون توخلق مین
کس نام سے نامزد ہونگا اور چشمون مین کیسے روسفید ہونگا یہ کہکر غنیم کی طرف متوجہ ہوا
گدائی خان نے پھر الحاح سے عرض کیا کہ سپاہیون کو ایسے واقعات بہت پیش آتے ہین کہ

جنین دشمن سے لڑنا مناسب نہین ہونا ایک طرف ہوجانا اور باگ کو موڑلینا یا دوبارہ انتقام
لینا ارکان شجاعت مین خلل نہین ڈالتا۔ ابھی فرصت باقی ہے اس تہلکہ سے آپ اپنی جان
بچائیے مگر وہ سفر واپسین کا آمادہ تھا اسنے اس دلسوزی کی باتون پر کان نہ لگایا اُسنے کہا کہ مین
اس چور کے آنے سے نہین بھاگونگا۔ یہ باتین ہوہی رہی تھین کہ نرسنگہ دیو آگیا۔ اُس سے وہ
بہادرانہ لڑا اسینہ مین نیزہ کا زخم لگا جس سے وہ زندگانی کے گھوڑے سے گرکر خاک مین ہلاک ہوا
اور شیخ گدائی خان اور ہمراہیون نے بھی جانفشانی کی افسوس ہے کہ یہ معدن دانائی اور بحر شناسائی
شمع علم و دانش افسردہ ہوا ؎

دریغا آسمان معرفت با خاک یکسان شد ستون علم از جا رفت و کاخ فضل ویران شد

پادشاہ کبوتر بازی کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ اسکو شیخ فرید بخشی بیگ نے اس واقعہ کی خبر دی تو وہ
چیخین مار مار کر رویا۔ دو دن تک روتا رہا اور نہ کھانا کھایا اور نہ سویا جب اسکو ہوش آیا تو اُسنے
رائے رایان کو حکم دیا کہ نرسنگہ دیو کو مستاصل کرے جبتک اسکا سر تن سے جدا نکرے یا ؤن کو حرکت سے
باز رکھے۔ راجہ راج سنگہ و رامچند بندیلہ اور اس نواح کے سارے زمیندار اسکی یاوری کیلیئے
مقرر ہوئے۔ ضیاء الملک اس لشکر کا بخشی مقرر ہوا۔

پادشاہ نے سُنا کہ نرسنگہ دیو جنگلون اور دُشوار درون کی پناہ مین آنکر قزاقانہ زیست
بسر کرتا ہے۔ رائے رایان نے کئی دفعہ اسکی مالش کی۔ ان دنون یہ خبر لگی کہ وہ قلعہ بھانڈیر
مین آیا اور جب منقلا کے بہادرون نے اس قلعہ کو گھیرا تو وہ حصار ایرج مین چھپ گیا
بادشاہی لشکر نے اسکو گھیر لیا ہے۔ رائے رایان فتحمندون سے ملا نرسنگہ قلعہ سے نکل کر
دریا کے کنارہ پر شورش مچانے لگا۔ تفنگ کی جنگ گرم ہوئی رائے رایان دریا سے اُترا
کنارہ بلند تھا مشکل سے آدمی اس سے برآمد ہوئے اور زد و خورد ہوئی۔ نرسنگہ بھاگ کر
قلعہ ایرج مین چلا گیا۔ رائے رایان اُسکے محاصرہ مین مصروف ہوا جب کام ختم ہونیکو تھا
تو نرسنگہ قلعہ کی ایک طرف دیوار توڑ کر راجہ راج سنگہ کے مورچہ کی طرف سے نکل گیا

غالباً راجہ نے اسکی گرفتاری مین تغافل کیا۔ پادشاہی جوانمردون نے تعاقب کرکے اسکے چالیس آدمی مار ڈالے مگر جنگل اور نشیب و فراز راہ مین بہت تھے اسلیئے پادشاہ کے سپاہی تعاقب سے باز رہے اور وہ اپنی جان سلامت لیگیا۔ شہنشاہ اکبر نے عمر بھر کبھی ایسے سخت حکم نہین جاری کئے جیسے کہ نرسنگہ کے باب مین۔ مگر جسکو خدا رکھے اُسے کون چکھے وہ زندہ رہا اور جہانگیر کی سلطنت مین صاحب منصب ہوا۔

پادشاہ نے خانخانان و راجہ مانسنگہ و قلیج خان کو بُلایا کہ یہان آنکر توران کے معاملہ مین مشورہ دین۔ خانخانان تو ہزار مکر و فریب کا خمیر مایہ تھا اُسنے پادشاہ کو مہم دکن کو بہت دشوار دکھایا اور دکن مین خود رہا اور پادشاہ سے دور رہا۔ راجہ مانسنگہ بنگالہ سے اور قلیج خان لاہور سے پادشاہ پاس چلے آئے۔

ہمنے پہلے لکھا ہے کہ بیجاپور کے مرزبان عادل خان کی یہ آرزو تھی کہ شاہزادہ دانیال کا نکاح اُسکی بیٹی سے ہو اس آرزو کے پورا کرنے کیلیئے ۲۹ اسفندار مذ ۴۵ جلوس کو میر جمال الدین حسین بیجاپور بھیجا گیا اور ساز خواستگاری اسکے ساتھ گیا۔ عادل خان نے تین سال اور کئی مہینے کے بعد اسکو رخصت کیا اور بیٹی کو ساتھ کیا۔ یہ دُلہن بیجاپور سے احمد نگر مین آئی اور دولھا برہانپور سے یہان آیا۔ نہم تیر کو عقد نکاح بندھا۔ شاہزادہ پادشاہ کی آستان بوسی کے ارادے سے برہانپور روانہ ہوا۔ لیکن بادہ پیمائی کی کثرت نے باپ سے نہ ملنے دیا جب پادشاہ کو یہ حال معلوم ہوا کہ شراب پینے سے شہزادہ بہت دُبلا اور ناتوان و بدحال ہوگیا ہے۔ تو اُسنے ایک عورت کو جسکی گود مین شاہزادہ پلا تھا اور بڑا ہوا تھا اور وہ تُند و تیج گفتار کرنے سے بھی نہین ڈرتی تھی شاہزادہ پاس بھیجا اور اسکو حکم دیا کہ جسطرح ہوسکے شاہزادہ کو ہمراہ لائے شیخ ابوالخیر کی عرضداشت سے معلوم ہوا کہ شاہزادہ نے آستان بوسی کے قصد سے پہنچنا نہ پایا ہمکنار تھا وہ ملک عدم کا پہنچانہ ہوا۔

شاہزادہ دانیال کی شادی عادل خان بیجاپوری کی بیٹی سے اور شاہزادہ کا مرنا ۱۰۱۳ھ ۴۹ جلوس

دکن کی مہم مین تین واقعات نفس الامری ہوئے ہین اول کل ہندوستان کے مختلف حصون سے مختلف سپہسالارون کا بھیجنا کہ وہ آزادانہ دکن کی فتح مین ایکدل ہوکر کوشش کرین

مگر انمین باہم دورنگی و نفاق ایسا ہوا کہ ابو الفضل کو دکن بھیجنا پڑا اور پھر خود آگرہ سے دکن مین آنا پڑا۔

شاہزادہ سلیم کی سازش سے ابو الفضل کا مارا جانا۔ خلاصہ یہ ہے کہ گو ملک دکن کی آزادی جاتی رہی مگر وہ ایسا مغلوب بھی نہین ہوا کہ اکبر کی سلطنت اسمین بے کھٹکے قائم ہو جاتی۔

شمال مشرقی افغانون کے ساتھ لڑائیان

تمہید

پہلے اس سے کہ ہم شمالی مشرقی افغانون کے ساتھ لڑائیون کا بیان لکھین دو ایک تمہیدین لکھتے ہین جنسے کہ ان لڑائیون کا بیان اچھی طرح سمجھ مین آئے۔

شہنشاہ اکبر نے جو توران کے باب مین پولیسی اختیار کی تھی اُس نے افغانون کے ساتھ لڑنیکا وقت مقرر کر دیا گو وہ ابتدائی سبب اس لڑائی کا نہوئی۔ عبد اللہ خان والی توران کی قوت روز افزون کے سبب سے جب اکبر کی توجہ شمال مغرب کیطرف ہوئی تو افغانستان مین ایک مذہبی طوفان اُٹھ رہا تھا اور قومی تحریک ہو رہی تھی وہ ایسی قوی تھی کہ اکبر کو اُسکا روکنا ناگزیر اسلئے تھا کہ توران کوئی خوفناک حملہ نکرے پچیس ۲۵ برس پہلے سے افغانستان مین ایک نیا مذہب روشنائی پھیل رہا تھا۔ اس فرقہ کا بانی بایزید انصاری تھا وہ افغانستان مین نہین پیدا ہوا تھا بلکہ پنجاب کے اندر جالندھر مین بابر نے جب افغانستان کی سلطنت لی ہے اُس سے ایک سال پہلے وہ پیدا ہوا تھا۔ بایزید کا خیال یہ تھا کہ افغانون کی سلطنت پھر بحال ہو۔ اور افغانستان مین مغلون کی حکومت پائمال ہو۔ اس کی مان کا نام بانین تھا اسکا باپ اور اسکے خاوند کا دادا دونو سگے بھائی تھے اور دونو جالندھر مین رہتے تھے مگر اسکا خاوند عبد اللہ کانی گورام مین رہتا تھا۔ یہ مقام کوہستان افغانستان مین دو دریاؤن گومل اور قورم کے درمیان ہے یہ دو نو دریا دریائے سندھ مین ملتے ہین جب مغلون کا

تسلط بڑھنے لگا تو بایزید کی مان اپنے خاوند پاس کانی گورام کو چلی گئی اور بایزید نے اول وہین پرورش پائی۔ بیوی کے ساتھ عبداللہ کو کچھ التفات نہ تھا اور آخر کو اُسنے طلاق دیدی۔ بایزید کو باپ کی بے پروائی اور سوتیلی مان اور سوتیلے بھائی یعقوب کی دشمنی سے بہت گزند پہنچی اسکا باپ عالم تھا اور سچا سُنی تھا جب اس نے بایزید سے بے اعتنائی کی تو اُسنے اپنا اور طریقہ اختیار کیا وہ آزادانہ خیالات کرنے لگا۔ اول سوال اُسنے یہ کیا کہ یہان مین بھی ہے آسمان بھی ہے۔ خدا کہان ہے؟ اسکو علم کا شوق تھا وہ اپنے ایک گوشہ نشین رشتہ دار شیخ اسمٰعیل کا شاگرد ہو گیا اسکی زہد و عبادت کو وہ بہت پسند کرتا تھا مگر اسکے باپ کو یہ پسند نہ آیا کہ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہو کر ایسے ذلیل رشتہ دار کا مرید و شاگرد ہو اسلیئے اُسنے شیخ بہاؤالدین زکریا کی اولاد کے پاس تعلیم کے لئے اُسے بھیجدیا۔ بایزید گھوڑون کا تاجر بن گیا وہ ایک دفعہ سمرقند سے ہندوستان مین آیا شہر کالنجر مین جو الہ آباد کے مغرب مین بندیل کھنڈ مین ہے وہ گیا اور اُسنے ملا سلیمان سے بیعت کی یہ ملّا اسماعیلیہ مذہب رکھتا تھا۔ اسلیئے ملحد مشہور تھا۔ اس نوجوان بایزید کو ملانے مذہب اسماعیلیہ کے اصول تعلیم کئے وہ پھر کالنجر سے اپنے وطن کانی گورام مین گیا اور پہاڑ کے غار مین خلوت نشین ہوا۔ عبادت و ریاضت و زہد و تقوی مین مصروف ہوا اور اُسنے مدارج شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت و قربت و وصلت و توحید و سلوک کو طے کیا۔ لڑکپن مین ہی وہ حج کو گیا تھا وہ سنت جماعت تھا اس عمر مین وہ ایسا نیک تھا کہ اپنے ہی اناج کے کھیتون کی نگہبانی نہین کرتا تھا بلکہ اور غیر آدمیون کی زراعت کی پاسبانی کرتا تھا جب نوجوان ہوا تو ہزارون کو ہدایت کرنے لگا اور اہل سنت کے مذہب کی غلطیان بتانے لگا۔ کانی گرام مین جب تک وہ رہا اُس کا مطلب اعظم فقط مذہبی ہدایات تھین۔ بایزید کا مذہبی خیال خدا کے باب مین ہمہ اوست (وحدة الوجود) کا ہندون کا سا تھا وہ اقوام وزیری کو نہایت ناپسند ہوا باپ اُس کا عبداللہ اس مذہبی خیال سے ایسا غصہ مین آیا کہ وہ بایزید کے غار مین

آیا کہ وہ بایزید کے غار میں گھس گیا اور اُس کو تلوار سے زخمی کیا اور اُس سے توبہ کرائی اور عہد کیا کہ پھر وہ سنت جماعت کے مذہب پر معاودت کرے گا۔ مگر جیسا باپ متعصب تھا بیٹا اپنے مذہب کے تعصب میں باپ کا باوا تھا وہ ننگرہار کو چلا گیا۔ بابر نے اس ضلع کی بہت تعریف لکھی ہے کہ وہ نہایت سیراب و شاداب ہے۔ وہ سفید کوہ کی ڈھلان پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ بہت سے چشمے اس کے دریا، سرخاب میں اور سرخاب جو جلال آباد کے قریب دریا ئے کابل سے ملتا ہے اس کے اندر جلال آباد کے گرد وہ سارے پہاڑ اور وادی داخل ہیں جو سرخاب اور جبتی کوٹ کے درمیان دائیں طرف دریائے کابل کے ہیں۔

بایزید کے خیالات کی بلند پروازی کے سبب سے مہمند کے سردار سلطان احمد نے اس کا خیر مقدم کیا۔ یہاں افغانوں میں اُس نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے مذہب کا وعظ سنایا اور اُن کو مرید کیا۔ مگر جب اس پر عرصہ گذرا تو تاجیک کے سنّی ملّا نے اُس کا ایسا ناک میں دم کیا کہ وہ آگے مشرق میں پشاور کے میدانوں میں چلا گیا۔ اُس میدان کے دریا کے داہنے کنارہ پر شمال مشرق میں عزی خیل افغان اور شمال میں خلیل اقوام رہتی تھیں اور دریا کے بائیں کنارہ پر ہشت نگر میں محمد زئی رہتے تھے۔ یہاں کے چاول مشہور ہیں افغانوں نے اس زمین کا نام جو پچھلے زمانہ میں فتح کی تھی۔ پشتوں خار کہا تھا۔ بایزید کو بڑی کامیابی ہوئی اور اُس کے پکے چیلے بہت ہو گئے وہ خود اور اُس کے بیٹے کلید پر میں عمر زیوں کے درمیان مقیم ہوئے۔ یہ ایک خیل ہشت نگری ہے گو تاجیک نے اُس سے نفرت کی مگر افغانوں نے اُس سے رغبت کی۔ غرض اب وہ دونوں دین و دنیا کا رہنما بن گیا۔ مذہبی و ملکی معاملات کا پیر و مرشد ہو گیا اب پیر جی کو بھی الہام ہونے لگا اور خدا اُن کو نظر آنے لگا اُس نے کہا کہ مجھے حکم ابھی ہوا ہے کہ میں کہوں کہ میں نے خدا کو دیکھا ہے میں خدا کے ساتھ ہوں۔ میں خدا کو جانتا ہوں اور میں خدا کے ساتھ ہوں غرض اُس کو یقین تھا کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں اُسنے اپنا نام روشنائی رکھا اور مریدوں نے اُس کو پیر روشنائی کہا۔ وہ قرآن کے اسرار بیان

کرنے لگا اس نے ایک کتاب خیر البیان تصنیف کی جس میں اپنے مذہب کے سب مسائل قرآن وحدیث کے موافق بیان کئے مگر اُن کو اہل سنت بالکل قرآن وحدیث کے مخالف جانتے ہیں اور اُن کو زندقہ اور الحاد کہتے ہیں نمازمیں قبلہ کی جانب کو اڑا کر دل کعبہ بنایا۔ وضو کو سلام کیا۔ رمضان کے روزوں کو مقرر کیا کہ فصل بہار کے شروع میں دس روزہ رکھہ لیا کریں۔ اُس نے کہا کہ اٹھارہ ہزار قسم کے جاندار ہیں ان سب کو اپنا جسم سمجھنا چاہیئے اور کسی کو آزار نہیں دینا چاہیئے۔ وفات کے دن کو پیدایش کا دن بناتا۔ اُس نے یہ کہا جو آدمی اپنے تئیں اور خدا کو نہیں پہچانتا وہ آدمی نہیں ہے اگر وہ موذی ہے تو اُس کو گرگ۔ شیر۔ افعی۔ اژدہا سمجھنا چاہیئے حدیث قتل الموذی قبل الایذا پر عمل کرنا چاہیئے۔ اگر وہ کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا ہے اور نمازی ہے تو اُس کو لومڑی یا بھیڑ یا سمجھنا چاہیئے جس کا حلال کرنا شرعًا جائز ہے اس لئے حکم دیدیا کہ جو اُس کے سنت دشمن ہیں اُن کو درندوں کی طرح مارنا چاہیئے۔ اُس نے بے ایمانوں کے مال لوٹنے اور غارت کرنیکی اجازت دی۔ بے ایمانوں میں مسلمان اور ہندو دونوں شریک تھے وہ ترکی یثنوں کا بہ نسبت ہندوؤں کی زیادہ دشمن تھا۔ بے ایمان اپنے تئیں نہیں جانتے ہیں اور اپنی بقا کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لئے وہ مردہ ہیں اور مردوں کے مال کے زندہ وارث ہوتے ہیں۔ اُس نے گداگری کو خلاف شرع حرام بتایا۔ اہل سنت فقیروں کے ساتھہ بہت سلوک کرتے تھے اُن کے خلاف جو فقرا بھیک سی روٹی کماتے تھے اُن کو کہا کہ وہ حرام کا کھاتے ہیں اور اُس کی بجائے کافروں کے اور خیبر کے مسافروں اور تاجیکوں کے مال چرانے کی ہدایت کی۔ اس فقیری کے حرام کرنے سے اُس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے مریدوں کا ایک گروہ بنائے کہ وہ لٹیرا پن کیا کریں اُس نے اور اُس کے بیٹوں نے ایک بیت المال بنایا جس میں غنیمت کا ایک خمس داخل ہوتا تھا۔ بایزید اس حال میں کہ ایک غار میں وہ بیٹھا تھا اور سر پر باپ کی تلوار کھچی ہوئی تھی پشتو خیل کا ہادی بن گیا اور اس وحشیانہ .. زمین میں اُس نے مذہب کا بیج ڈال کر اپنا نشو ونما کر لیا اُس نے بار بار کہا کہ مجھے الہام ہوا ہی کہ جو لوگ خدا کو نہیں جانتے اُن کو قتل کر دوں۔ اُس نے چھوٹے چھوٹے حملے کلیدار سے جس کے سبب سے

کابل کے فرماں روا مرزا محمد حکیم کو توجہ اُس کے حال پر ہوئی اور بنہار کے سینوں کے کان کھڑے ہوئے۔ بنہار دبنیر یا بنیر ہشت نگر کے شمال میں دریا سندھ سے ملی ہوئی ایک مرتفع زمین ہے اور اُس میں یوسف زئی رہتے ہیں۔ یہاں کے عالموں نے یوسف زئی کے بہت آدمیوں کو روشنائی مذہب کے اختیار کرنے سے روکا۔ اگرچہ یوسف زئی بایزید کے اوّل اوّل بڑے طرفدار ہوئے۔ مگر بعد اُس کے مرنے کے وہ پشتون کی سازش کے سخت دشمن ہوگئے۔

کابل کی گورنمنٹ کے حکم سے محمود زئی کے ملک میں حکیم محسن خاں غازی آیا اور بایزید کو پکڑ کر لے گیا۔ کابل کی گلیوں میں اس بے عزتی کے ساتھ لے گئے اُس کا علما سے مباحثہ کرایا اُس نے یہاں یہ فطرت کی کہ بیان کیا میں نے کوئی بدعت کی بات مذہب میں نہیں پیدا کی تمام فرائض صوم صلوٰۃ حج زکوٰۃ کا پابند ہوں۔ غرض اپنی فصاحت بیانی اور طلاقت لسانی سے اپنے تئیں بالکل ہر الزام سے بری کیا جس سے گورنمنٹ کو کوئی خوف اُس کی جانب سے نہ رہا۔ اب اُسنے اپنے کاموں کے لئے ایک نیا تماشا گاہ دشوار گذار کوہستان تیراہ میں کھولا۔ یہ کوہستان کوہ سفید کی مشرقی شاخیں ہیں جو کوہاٹ تک جنوبی مغربی میدان پشاور تک جاتی ہیں اور تیرہ دریا بہاتی ہیں۔ غزنہ خیل جو میدان میں روشنائی مذہب رکھتے تھے وہ تیراہ کے قریب تھی تیراہ میں بنگش خیل افغان رہتے تھے۔ جن میں سے طوطائی خیل وتیک روشنائی مذہب میں سخت متعصب تھے۔ ان بلند کوہستانی وادی میں بہ نسبت کشادہ ملک ہشت نگر کے بایزید کے لئے زیادہ عافیت تھی۔ یہاں وہ آن کر اہل سنت کا اور مغلوں کی سلطنت کا سخت دشمن ہوگیا اُسنے کوہستانی آزاد قوموں کو اپنے مسائل سمجھا کر جہاد پر افروختہ کیا اور پکارا کہ اے میرے دوستو آؤ میں تم کو ہدایت کروں گا میں شمشیر پر ہاتھ دہروں گا اور نبی کا مذہب غارت کروں گا۔ اگر تم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر توکل کرو۔ میں ہی تمہارا خدا اور پیغمبر ہوں۔ مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے مجھ کو مہدی خیال کرو۔ میں کسی معنی کرکے ناقص نہیں ہوں میں کافی و کامل ہادی ہوں تم اس پر بالکل یقین کرو۔ اُس نے چغتائیوں کے ظلم سے افغانوں کو ڈرایا اور اپنے پیرووں کو ہندوستان اور

اُس کے پادشاہ کی مال و دولت کا لالچ دلایا اُس نے پہلے ہی سے ہندوستان کے اضلاع
اپنے مریدوں کو تقسیم کر دیئے اور جہاد کے لیئے سب طرح سے تیاری کی اُس نے سواروں کی
زبردست سپاہ جمع کرنے کے لیئے گھوڑوں کو طلب کیا اور اُن کے مالکوں سے وعدہ کیا کہ ہندوستان
کی دولت سے دوچند قیمت اُن کو دیجائیگی اُس نے سب مریدوں سے بے ریا اطاعت چاہی اور
مکار پر لعنت کی مگر تیراہ کے افغانوں نے بایزید کے حکموں کا خیال کچھ نہیں کیا - اُنھوں نے
مغلوں کے ساتھہ رشتہ اتحاد کو نہیں توڑا - یہ پہاڑی افغان بہادر اور عالی ہمت تھے - اُن پر بایزید یہ
داؤں کھیلا اور اِس طرح اپنے پیچ میں اُن کو لایا کہ اوّل اُس نے افغانوں کی افعال کی نسبت اپنی
نارضامندی ظاہر کی اور کہا کہ اگر تم مجھ کو اپنا خیر خواہ دوست بنانا چاہتے ہو تو تم الگ الگ ایک
ایک اپنے ہاتھہ باندھ کر میرے پاس آؤ کہ میں خود تم کو اِس دست بستگی سے نجات دوں - بایزید
نے ایسی شعبدہ بازیاں کیں کہ افغان اُس کے دام میں آگئے اور اِس کے کہنے کو مان گئے وہ
اُس کے سامنے الگ الگ دست بستہ حاضر ہوئے جن میں سے تین سو کو بایزید نے فوراً مار ڈالا
اور اِس ضلع کو ایسا ویران کر دیا کہ پھر اُس کے اصل باشندوں کو وہاں آباد ہونا نہ نصیب ہوا بلکہ
اور کوہستانی قومیں اُس پر مسلط ہوگئیں -

کابل کی گورنمنٹ بایزید کی تیاریوں سے غافل نہ تھی اور اپنی حفاظت میں وہ ساعی تھی
پیر روشنائی بہت سی سپاہ ساتھہ لے کر شمال کی طرف تنگ بار کے میدان میں نیچے اُترا - وہ اُلٹا
پہاڑوں میں آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ محسن خاں غازی اُس کے پیچھے تورا گاکے قریب آگیا - پیر نے
حتی الوسع مریدوں کو سمجھایا کہ دشمن کے سامنے کھڑے رہیں اور کہا کہ محسن خاں پر جس وقت میری
آنکھہ پڑے گی تو وہ اپنے گھوڑے سے گر پڑے گا - مرید اُس کے میدان جنگ میں جمے - مگر جب
خنجر مصری کی شپاشپ اُن کے اوپر ہونے لگی اور مغلوں کے سواروں کے ٹاپوں تلے آنے
لگے تیزپائی سے وہ بالکل پراگندہ اور پریشان ہوگئے بایزید خود گرتا پڑتا بھاگ کر ہشت نگر میں
آیا تیزپائی سے اِس سفر کی تکان پر بخار کا اور اضافہ ہوا - اور اِس نے اُس کی زندگی کو پورا کیا -

وہ ہشت نگر بھٹک پور میں دفن ہوا۔ مگر اس پیر روشنائی کے مرنے سے روشنائی مذہب کی روشنی بالکل بجھی نہیں۔ وہ شاہجہاں کے زمانہ تک کچھ نہ کچھ اپنی چمک دکھاتی رہی بایزید کے بیٹوں نے باپ کے مذہب کو اور پھیلایا۔ اُس کی وفات کے بعد اس کے بڑے بیٹے عمر نے تلوار کو ہاتھ میں لیا۔ اور اپنے مریدوں اور پیرووں کو یوں مخاطب ہوا کہ اے میرے دوستو آؤ۔ تمہارا پیر مرا نہیں ہے۔ بلکہ وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے شیخ عمر کو دے گیا ہے اور اس کو اور اپنے مریدوں کو دنیا کی سلطنت عطا کر گیا ہے۔ اس نے نہایت محنت و مشقت سے پشتوؤں میں از سر نو جوش پیدا کیا اور ایک سال ایک دن بعد اس کے باپ کی سفید ہڈیاں ایک تربت میں رکھ کر ہر لڑائی میں آگے رکھی جانے لگیں۔

عمر نے ہر چند کوشش کی مگر وہ یوسف زیوں کے ہاتھ میں بری طرح پھنس گیا پہلے وہ روشنائیوں کے بڑے طرفدار دوست تھے اب وہی اُن کے جانی دشمن ہو گئے یہ زبردست خیل صحرانوردی پہاڑوں کے کشادہ زمینوں میں رہتے تھے جو دریائے کابل کے شمال میں ہیں اور سندھ سے مغرب کی طرف پھیلتے ہیں اور اُن میں ضلاع بہنار (بنیر بنیر) پنج کورہ۔ باجور۔ دودیر۔ پچ ہزارہ دریا ارکنیتہ تک ہیں جو جلال آباد کے نیچے تک بہتا ہے۔ مشرقی یوسف زیوں نے عمر پر بارامین دریائے سندھ کے کنارہ پر حملہ کیا اس کو شکست دی اور اس کو اور اس کے بھائی خیرالدین کو مار ڈالا۔ اُنہوں نے عمر کی لاش کو جلا کر خاکستر بنایا۔ اُسکو اور بایزید کی ہڈیوں کو دریائے سندھ میں پھینکدیا بایزید کے بیٹوں میں نورالدین کو گوجروں نے مار ڈالا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جلال الدین زندہ یوسف زیوں کی قید میں آیا۔ بیٹوں میں صرف یہ ایک ہی بیٹا بچا۔ [illegible] جب شہنشاہ اکبر کابل سے لاہور میں آیا تو اس وقت اس نے یہ لڑکا جلال الدین چودہ برس کا یوسف زئی سے درخواست کر کے لے لیا بادشاہ کو اس وقت ضرور تھا کہ روشنائیوں میں سے کسی کو یوسف زئی کا دشمن بنائے۔ اس لئے کہ جتنی ان چور قزاق قوموں کے درمیان نا اتفاقی ہوگی اتنا ہی خیبر کی راہ میں امن امان رہیگا اس لئے اُس نے جلال الدین روشنائی

کی بڑی خاطرداری کی۔ مگر یہ شوخ بیباک لڑکا پادشاہ کے دم میں نہ آیا اور موقع پاکر بھاگ کر تیراہ میں جا پہنچا۔ جو سب سے زیادہ روشنائیوں کے لیئے مامن تھا اُس نے تیراہ میں بیٹھے بیٹھے بنگش۔ آفریدی اور رکزئی قوموں سے اخلاص پیدا کیا۔ یہ قومیں خیبر کی راہ میں مغلوں کی سخت دشمن تھیں۔ یہ لڑکا ایسی خوف کی مشعل بنا کہ اُسکے شعلے اکبر تک پہنچنے لگے جس کی مخالفت کے سبب سے اُس کا نام جلالہ تاریک ہوا اور اُسکے فرقہ کا نام تاریکیان رکھا گیا۔ اس جلالہ نے ایسے اپنے طرفدار پیدا کر لیئے کہ پشتوؤں کا پادشاہ اس کا خطاب ہوا اور اُس نے ہندوستان پر جہاد کیا ۹۸۶ھ میں اس نے مہمند اور غوریہ خیل کی مدد کی۔ یہ قومیں دس ہزار خانوار پشاور کے قریب رکھتی تھیں اس وقت سعید حمیدی بخاری جاگیردار پشاور نے موسیٰ کو یہاں مقرر کیا تھا۔ اس کے ظلموں سے یہ قومیں جان سے عاجز ہو رہی تھیں۔ سعید احمد پر بگرام میں اُنہوں نے حملہ کیا اور اسکو شکست دیکر اسکو اور اُس کے چالیس آدمیوں کو مار ڈالا۔ محمد حکیم مرزا کی موت کے سبب سے دریائے کابل کے دونوں طرف مغلوں کے مقابلے سخت ہونے لگے جنکا کوئی فیصلہ قطعی نہوا۔

۹۹۳ھ میں شہنشاہ اکبر کی جو لڑائیاں ان اقوام افغان سے ہوئیں وہ پشاور کے میدان اور کوہستانی زمین سواد۔ باجوڑ۔ مہمند و تیراہ کے ملک میں ہوئیں اس کے چند میل جو دریائے سندھ سے ملے ہوئے ہیں مستثنیٰ کیئے جائیں تو اس ملک کی شکل گھوڑے کے نعل کے مشابہ پیدا ہوتی ہے میدان میں سپاہ کو بہت آرام اور میووں کے کھیت ملتے ہیں اس کے اضلاع زیرین جو داؤدزئی اور دوآبہ مشہور ہیں نہایت سیرحاصل و شاداب و سرسبز ہیں زراعت و چراگاہ بہ کثرت ہیں طرح طرح کی پیداواریاں یہاں ہوتی ہیں قطع نظر اس ملک کے سیرحاصل ہونے کے اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ مغربی ایشیا اور ہندوستان کی شاہراہ ہے۔

افغانوں کے ساتھ لڑائی سنہ ۹۹۳

جب پادشاہ کو معلوم ہوا کہ توران کا ایلچی اور نظر بے ایک قافلہ بزرگ کے ساتھ ہندوستان کو آتے ہیں اور روشنائی افغانوں نے درہ خیبر کی راہ کو روک رکھا ہے وہ اس قافلہ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا تو اُس نے شیخ فرید بخشی بیگی کو بھیجا کہ جا کر اُن کو ساتھ لے آئے۔

روشنائی افغانوں سے لڑائی سنہ ۹۹۴

جب وہ جمرود میں پہنچا تو اس کی ہمراہ مان سنگہ نے مادہو سنگہ اور چند اور آدمیوں کو کیا - یہ
گروہ خیبر سے گذر کر دکہ کے قریب اس کاروان سے مل گیا - مان سنگہ خود بھی بہت سا لشکر لیکر
علی مسجد میں آگیا - روشنائیوں نے یہ سمجھہ کر کہ کم آدمی ہیں اندہیری رات میں قلعہ علی مسجد کا محاصرہ
کیا اور چند آدمی قلعہ کے اوپر چڑھ آئے مگر بادشاہی لشکر بہادری کرکے اُن پر غالب آیا - مخالف
قلعہ کو چھوڑ کر اور بلندیوں پر چڑھ گئے - مگر گھات میں بیٹھے تھے کہ لشکر شاہی نے ان کو دوسروں کو
پامال کیا اور اُن کا نقش ہستی مٹا دیا - دوسرے روز قافلہ توران سندہ کی اس طرف خیبر آباد
میں آیا - فرمان روائے توران نے کبوتر اور جیب کبوتر باز بادشاہ پاس بھیجے تھے اس سے وہ
خوش ہوا - ایلچی کے پہنچنے سے پہلے اِس سے وہ ملا -

ان قوموں اوزان کے ملک کا حال جو الفنسٹن صاحب نے اپنی تاریخ میں اور ابوالفضل نے
اکبر نامہ میں لکھا ہے نقل کرتے ہیں - دونوں کا مقابلہ کرکے بیانوں کی مخالفت و مطابقت کو
دیکھکر مغربی و مشرقی بیانوں کے فرق کو سمجھہ لو -

الفنسٹن صاحب کا بیان - جس اشتعال سے کشمیر کی لڑائی ہوئی اس سے ان قوموں
سے بھی لڑائی ہوئی - مگر اس میں اکبر کے ساتھہ یہ قومیں سینہ زوری کے ساتھہ بڑے بڑے مقابلہ
سے پیش آئیں اور اُسکو کامیابی ہوئی - یہ لڑائیاں شمالی مشرقی افغانوں سے ہوئیں جو ان ملکوں میں
رہتے تھے کہ پشاور کے میدان کے گرد پہاڑی ملکوں میں بستے ہیں یہ میدان بڑا وسیع اور نہایت زر
خیز ہے اس میں زمین ہندوستان کی سی زرخیز اور بارآور ہے اور اسپر بلاد مغرب کی معتدل
آب و ہوا کے بہت سی اثر متزاد ہیں اسکے شمال میں سلسلہ کوہستان ہندوکش کا بڑا سلسلہ ہے مغرب
میں اسکے کوہ سلیمان کا بلند سلسلہ اور جنوب میں کوہستان خیبر جو کوہ سلیمان سے دریا سندھ تک پھیلتا ہے -

افغانوں کا جو خاص ملک ہے اس کا دسواں حصہ یہ ملک بھی ہے - زمانہ حال میں یہاں کے باشندوں کو
بیر درانی کہتے ہیں وہ اپنی چال ڈھال اور وضع و طرز میں ایسی خصوصیتیں رکھتے ہیں کہ اور افغانوں میں
ممیز معلوم ہوتے ہیں اس ملک کے شمالی حصہ میں بہ نسبت اور شمالی مشرقی قوموں کے یوسف زئی

ان قوموں کا اوزان سے ملک کا حال جو الفنسٹن صاحب نے لکھا ہے

زیادہ رہتے ہیں اور اپنی باقی قوموں کا نمونہ ہیں اُن کے ملک میں پشاور کا شمالی میدانی حصہ ہی اور ہندوکش کے برفستانی بلندیوں تک پھیلتا ہے اور اُسکے اندر تیس تیس چالیس چالیس میل لمبے اور اسکے موافق چوڑے وادی ہیں جن میں سے ہر ایک کی دونوں طرف اور شعبے وادیوں کے جاتے ہیں۔ یہ وادی آب و ہوا اور حسن و لطافت اور اور خوبیوں میں کشمیر کے نظیر ہیں اور وہ تنگ ناؤں پر ختم ہوتی ہیں جن کے گرد اونچے اونچے کرارے ہوتے ہیں یا وہ جنگلوں اور درختستانوں میں غائب ہوجاتے ہیں۔ ایسا ملک اپنے حملہ آوروں کے لیئے بہت سے الجھیڑے اور عوائق اور موانع پیش کرتا ہی مگر وہاں کے باشندوں کے واسطے کچھ مشکل نہیں وہ بے تکلف ایک وادی سے دوسرے وادی میں آمد و رفت رکھتے ہیں اور جہاں کہیں راہ نہیں ہوتی وہ اپنے لئے راہ بنا لیتے ہیں۔ اصل باشندے یہاں کے ہندو معلوم ہوتے ہیں جو غالباً بار وپای ساکے ڈیا آل واولادمیں سے ہونگے یہ نسبتاً زمانہ حال کا واقعہ ہی کہ بعض خاص افغانوں کی قوموں نے اس ملک کو فتح کیا ہو اور شرارت آمیز معاش اسکو بنایا ہو اور پھر ان افغانوں کو بھی اب سے سو برس کا عرصہ گذرا ہوگا کہ یوسف زیٔوں نے جو قندھار کے قریب رہتے تھے اپنے وطن سے جلاوطن ہو کر اُن کو نکالا ہو اور اُن کے ملک پر قبضہ کیا ہو۔ پہاڑی قوموں میں آزادی کا ہونا بالطبع ہوتا ہی اس لیئے یہ قوم آزاد تھی اور سوا اسکے وہ ایسی دشوار گذار ملک پر قبضہ رکھتے تھے اور انکے تابعین بہت سے تھے اسلئے اسکو اپنی دولت کا بھی غرور تھا اور آزادی کی مستی پر دولت کا نشہ اور چڑھا ہوا تھا۔ سوا اس کے وہ خود عظمت اس سبب سے بھی رکھتی تھی کہ اُن کی حکومت میں جمہوری انتظام تھا۔ ہر خیل جدا جدا اپنا سرخیل موروثی رکھتا تھا۔ امن کی زمانہ میں اسکو کوئی اختیار سوا اس کے نہ تھا کہ وہ اپنے خیل کے آدمیوں سے مشورہ لے اور اُن کی خواہشیں اور آرزوئیں دریافت کرے اور اُن پر اور سرخیلوں کو اطلاع دے ہر گاؤں کے باشندے اپنے اندرونی قضیوں کو خود چکاتے تھے۔ مقدمات کا فیصلہ پنچایت میں ہو جاتا تھا۔ گاؤں میں چوپالیں ہوتی تھیں انمیں کسی نہ کسی مطلب کے لیئے ہمیشہ مجلسیں ہوا کرتی تھیں چوپالوں ہی میں آپس میں بیٹھ کر گاؤں والے جی بہلایا کرتے تھے اور

اور مسافروں اور اپنے مہمانوں کو اُتارا کرتے تھے۔ زمین آپس میں برابر بٹی ہوئی تھی اور اسلئے کہ بُری بھلی زمینیں ہر ایک کے حصہ میں باری باری سے آتی رہیں بمقتضائے عدل نئی تقسیمیں ہوتی تھیں۔ ہندی رعیت کی مدارات اچھی طرح کیجاتی تھی مگر معاملات و انتظامات ملکی میں اسکو مداخلت نہ تھی۔ یوسف زئی ان ہندیوں سے رنگ روپ میں ایسی فوقیت نہیں رکھتے تھے جیسی کہ اوضاع و اطوار و چال ڈھال میں۔ جنوب میں اور قومیں جو میدانوں کے اندر نیچے پہاڑوں میں رہتی تھیں وہ مدت سے وہاں آباد تھیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ بہت آمد و رفت میل جول رکھتی تھیں مگر بعض انہیں سے کوہستانی مسلمان ہیں۔ بعض قومیں اپنے ملک میں زیادہ نشیب فراز رکھتی تھیں اور یوسف زئی قوم سے شائستگی اور تہذیب میں بھی کم درجہ رکھتی تھیں شہنشاہ بابر نے شمال مشرقی قوموں کے مطیع بنانے میں سخت کوشش کی۔ جنمیں سے بعض قوموں کے تابع بنانے میں کامیاب ہوا۔ مگر وہ یوسف زئی قوم کے مغلوب کرنے میں بالکل ناکام رہا۔ نہ وہ صلح و آمیزش کی تدبیروں سے اُسکو اپنے بس میں لاسکا اور نہ اُسکے ملک کے اُس حصہ پر جس تک اسکی رسائی ہوئی سخت غارت گر حملہ آوری سے فتحیاب ہوا۔

اب ابو الفضل کی کہانی سُنیئے ۔ وہ لکھتا ہے کہ الوس یوسف زئی پیشتر قندہار و قراباغ میں رہتی تھیں۔ وہاں سے کابل میں آنکر چیرہ دست ہوئی مرزا الغ بیگ کابلی نے دستان سرائی سے اُسکو مار دھاڑا۔ پس ماندے لمغانات میں آسائش سے رہنے لگے پھر استغر میں آگئے۔ سو برس کا عرصہ گذرتا ہے کہ سواد (سوات) و بجور میں رہزنی و ستا بی سے بسر کرتے ہیں۔ اس سرزمین میں ایک گروہ رہتا تھا جسکا خطاب سلطانی تھا اور وہ اپنے تئیں سلطان سکندر کی دختری اولاد بتاتے تھے۔ یوسف زئی کچھ دنوں انکے ملازم ہوئے تھے پھر حیلہ اندوزی کرکے ناسپاسی کرنے لگے اور انکے عمدہ عمدہ مقامات اپنے قبضے میں کرلئے۔ ابتک ان قدیمی باشندوں میں سے کنگنا دمیں تھوڑے ناکامی کیساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور وطن کی محبت کے سبب سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یوسف زئی کا بنگاہ کوہستان سواد اور بجور میں ہے اور اکثر وہ دشت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس دشت کے دو طرف

ابو الفضل کا بیان

دریا سندھ ہے۔ اور باقی اور دو جانبوں میں دریا کابل و کوہستان شمالی ہی۔ وہ تیس کوس لمبا اور پندرہ بیس کوس چوڑا ہی دلکشا سبزہ زار اور نگاہ فریب سینیں ہیں جنکے دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے جب پادشاہ نے کابل میں یورش کی تھی تو یوسف زیوں میں سے جو کالا اترتھا وہ لابہ گری کرکے جبہ فرسا ہوا تھا اور پہلے اپنی بدکرداری سے شرمسار ہوکر پیمان پرستاری استوار کیا تھا ان میں سے کالو پر پادشاہ نے عنایت کرکے سب سے زیادہ سرفراز کیا مگر تھوڑے دنوں بعد یہ قدیمی پھر اپنے آئین سابق پر مائل ہوئیں۔ راہ زنی اور خلق آزاری پر کمر باندھی اور دارالخلافہ سے کالو بھاگ گیا۔ خواجہ شمس الدین نے نواحی اٹک سے دستگیر کرکے پادشاہ پاس بھیجا۔ پادشاہ نے بجائے پاداش کے اسپر نوازش فرمائی۔ پھر وہ بھاگ گیا اور اپنی پہلی پناہ میں پناہ لی۔ اور زمینداروں کی سرکشی کا بھی سبب ہوا۔ پادشاہ نے بہت سے افسروں اور سپاہ کا زین خان کوکلتاش کو سپہ آرا بناکر اور غریب خانہ ہمانی کو بخشی بناکر روانہ کیا کہ بیگر اگر وہ گوشمالی کریں ور نہ بیہودہ دل جوانمردانہ قبول کریں انکو سزا دیں۔ ۲۵ دی ۹۹۴ کو قرابیگ وضیاء الملک و سپاہ کو بمرد گی شیخ فرید بخشی کو روانہ کیا وہ ایک عمدہ تاخت کرکے اٹھا چلا آیا اور پادشاہ کو عرض کیا کہ دشت کا کام بہت سخت ہی مناسب ہی کہ ایک فوج اور نامزد ہو تاکہ شائستہ طور پر قوم یوسف زئی کی بیخ کنی کی جائے۔ اسلئے سہ ہمین کو سعید خان اور ملک الشعرا فیضی اور دستر خوانچہ شیخ ابوالبرکات اور ابوالفضل کو اور ابوالفضل کو تین سو سواروں کو بانکی جایزت دی۔ اور میر شریف آملی کو زابلستان میں منصب بانی کی صدارت عنایت کیا اور قاسم بیگ تبریزی کو میر عدل لشکر مقرر کیا۔ بانی کی اسکو ہدایتیں کیں کہ ہمیشہ ستائش ایزدی اور رضامندی الہی کی تلاش میں رہے اور شناسائی کو نیاز مندی کے ساتھ ملائے آزمندی اور شتابزدگی کہ جو دشمنوں کی لغزش گاہ ہی برکران ہی۔ اسلئے کہ بہت سے نیک ذات دنیا کی رنگینی اور ستمگاری دنیا کی شکوہ کو دیکھکر حق گذاری سے باز رہتے ہیں گواہ وہ سوگند ہیں اور بی کہ حضرت کرد بلکہ دونگی جی ہنرہ کو دیکھے اور طرح طرح کی پرسشیں کرے۔ اگر کوئی بڑی لڑائی خود نہ کرسکتا تو ہم کو مطلع کرے تن آسانی کو نہ دیا جائے کبھی کبھی اس میں مشغول ہو۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی کہ اگر اسی

سواد کو بیربر کا جانا ۹۹۴ھ

لشکر پر کام چھوڑ دیا جائیگا تو اس ناحیہ کے توموں کی افزونی اور کوہستان اور تنگناؤں کی دشوار
گذاری سے کام دیر میں انجام پائیگا اسلئے پادشاہ نے ایک تازہ لشکر بیربر کی سرکردگی میں روانہ
کیا۔ ابوالفضل بھی نبرد کا شوق رکھتا تھا اس نے پادشاہ سے عرض کیا کہ اگرچہ حضور کی خدمت
میں رہنا خوش نصیبی کی اکسیر ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پرستاری غائبانہ جسے یگانگی کہا ہے
کا امتحان بجا لاؤں اور میری ایک نئی لیاقت حضور پر ظاہر ہو۔ اگر نبردگاہ میں مجھ سے
کوئی عمدہ کام ہوگا تو میری ناموری ہوگی اور شایستہ بندگی بجا لاؤنگا جس سے ناتواں بین
مرزہ درایوں کا منہ بند ہو جائیگا پھر وہ میرے نسبت کچھ نہیں کہہ سکیں گے۔ پادشاہ نے فرمایا کہ
تیرے اور بیربر کے نام قرعہ ڈالا جاتا ہے کہ بغیر کسی خواہش کے سرنوشت ایزدی ظاہر ہو۔ قرعہ
بیربر کے نام نکلا۔ پادشاہ نے ۱۲ بہمن کو بیربر سردار فوج و بزم کو روانہ کیا۔ اسنے تھوڑے عرصہ
میں دشت میں جسنے سرکشی کی اسکی خوب مالش کی جسنے نیایشگری کی اسکے مال و ناموس کی پاسبانی
کر کے دوسری جگہ آباد کیا۔ بنیر کی فتح کے ارادہ سے دہ گریوہ کی طرف چلا جب کہ بڑی تنگناؤں
کو لشکر طے کر کے منزل دوک میں آیا تو افغانوں نے لڑنا شروع کیا۔ بڑی لڑائی ہوئی بہت مخالف
اسیر و قتل ہوئے ناوقت ہو گیا تھا اور آگے کا حال معلوم نہ تھا۔ اسلئے لشکر خیمہ گاہ کو واپس آیا اور معلوم
ہوا کہ اسطرف جانیسے مقصد حاصل نہیں ہوگا تو دشت میں لشکر واپس آیا تا کہ دوسری
راہ سے جائے۔

ابو الفتح کا جانا ۹۹۴ھ

کوکلتاش کی پادشاہ پاس عرضداشت آئی کہ خدا کی عنایت سے سخت گریوہ سے گذر ہو گیا ہے
بجورا اور سواد کا بڑا حصہ قبضہ میں آگیا ہے مگر لشکر تگادو کی کثرت سے تھک گیا ہے اور گریوہ
کراکر میں جو سواد و بنیر کے درمیان ہے افغان جمع ہوئے ہیں اگر اور لشکر جوانمردوں کا بھیجا جائے
تو شائستہ طور پر سارا ملک قبضہ میں آجائیگا اور سرکشوں کو سزا ملجائے گی۔ پادشاہ نے
۱۹ بہمن کو بسرکردگی حکیم ابو الفتح کے شمشیر بازوں کو بھیجا۔ تھوڑے عرصہ میں دونو لشکر مل گئے
زین خاں نے اول بجور کی فتح کا ارادہ کیا وہاں تیس ہزار افغانہ دار اس یوسف زئی

زین خاں کوکہ [illegible] سنہ ۹۹۴ھ

رہتے تھے اور انکے پاس دشوار گشا گریوہ تھے۔ پادشاہی سپاہ چابکدستی کرکے دانش کول کی راہ سے آئی۔ کجگرا یونکو رستہ پر آنے کی فرصت نہ دی جالش بہادر نے گیران شہر پر تاخت کی اور بہت سے سرکشوں کی مالش کی جب وہ نہایت تنگ ہوئے تو غازی خاں و مرزا علی و طاؤس خاں و نظیر اور سرداروں نے پناہ مانگی اور وہ ملنے آئے۔ دفعتاً شورش دور ہوئی۔ یہاں سے ولایت سواد کا قصد ہوا۔ یہاں کے کوہستان میں چالیس ہزار خانہ دار یوسف زئی رہتے تھے۔ جب لشکر دریا کے کنارہ پر پہنچا۔ اس زمین کے بہادروں نے جنگ میں قدم جمایا۔ ہراول نے دریا سے گذرنے میں باگ کھینچی۔ التمش کے دلاوروں نے تیز دستی کی۔ اسکی دیکھا دیکھی اور بھی اس راہ پر آئے بڑی لڑائی ہوئی۔ غنیم ناکام بھاگ گیا۔

کوکلتاش نے چکدرہ میں کہ وسط ولایت میں ہے قلعہ کی بنیاد رکھی اور سرکشونکی مالش کا قصد کیا تیئیس دفعہ فتح پائی۔ سات لشکروں کو شکست دیا۔ ولایت بنیر کا سارا ملک سوائے گریوہ کاکر کے قبضہ میں آگیا۔ لیکن کارزار کی فزونی اور کوہ نوردی سے لشکر تھک گیا۔ کوکلتاش نے کمک مانگی۔ پادشاہ نے راجہ بیربر اور حکیم ابوالفتح کو نامزد کیا۔ جب یہ سب آپس میں ملے تو دورنگی کا غبار اُٹھا پہلے ہی سے کوکلتاش اور راجہ میں تنگ چشمی کی باتیں ہوئیں۔ اسی طرح راجہ اور حکیم میں آپس میں صفائی نہ تھی۔ یہ امرا باوجود فہم عالی اور اعتبار سترگ آپس میں حسد کرنے لگے وہ پادشاہی عاطفت میں انبار نہیں چاہتے تھے اسوقت سے کہ دشت کی فوجوں کو کوکلتاش کی کمک کا حکم ہوا تھا تو راجہ چین بجبیں ہوکر کہتا تھا کہ میرا نصیبہ برگشتہ ہو گیا ہے کہ حکیم کی ہمراہی میں اور کوکہ کی یاوری میں دشت و کوہ ناپنے پڑے دیکھیے انجام کار کیا ہوتا ہے۔ راہ نوردی میں ہر روز آپسمیں ناسزا باتیں ہوتی تھیں جب گریوہ بلکندرہ میں پہنچے تو کوکلتاش استقبال کو آیا۔ اسنے خود بیٹھکر گریوہ سے لشکر و بیرتال کو اُتروایا۔ حکیم ابوالفتح قلعہ چکدرہ میں گیا۔ راجہ اس جدائی سے آشفتہ ہوا اور تباہ اندیشے کرنے لگا۔ جب کو اس قلعہ میں سب جمع ہوئے کوکلتاش نے جشن آراستہ کیا راجہ نے اپنی پہلی خشمگینی کو ظاہر کیا کہ اس جشن میں شریک نہیں ہوا۔ اور اُس نے یہ گذارش کی کہ مناسب یہ ہے کہ سب کارآگاہ قورشاہی (سلاح شاہی) کے

گرد جمع ہوں - رازگوئی اور بزم یکجہتی وہاں آرایش پائے - کوکلتاش اسپر غصہ ہوا - راجہ اور حکیم میں درشتی سے دشنام پر نوبت پہنچی کوکلتاش نے تحمل کے ساتھ شورش بیگانگی کو بٹھایا اور گذارش کی کہ مہم کوہستان کا ختم کرنا قریب ہے اور کراکر او رپنیر کے سرتاب بھی لا بہ گری کر رہے ہیں لیکن مدت سے انکی گفتار کردار میں نہیں آئی - یہ کمک اسلئے طلب کی تھی کہ ایک گروہ کو اس قلعہ میں چھوڑ کر میں حیلہ گذار فتنہ اندوزوں کی مالش کو جاؤں اب چاہیئے کہ لشکر تازہ روز اس خدمت کو اپنے ذمے لے اور میں پہلے سپاہ کے وسط ولایت کی پاسبانی کروں یا کہ وہ چکدرہ میں رہنا پسند کریں - میں کوہ نشینوں کی سزا کے لئے جاؤں - راجہ و حکیم دونوں نے اس صلاح کو نہ مانا اور یہ جواب دیا کہ پادشاہ کا فرمان ملک پر تاخت کرنیکا ہی ملک کی نگاہداشت کا نہیں ہی - ہم سب یکجا ہو کر مخالفوں کو مالش دیکر اسی راہ سے کہ بادشاہ کا حکم ہی بادشاہ پاس جاتے ہیں - کوکلتاش نے جواب دیا کہ جو ولایت اسقدر آویزش سے ہاتھ آئی ہو اسکو بغیر سرانجام دینے کے کیونکر چھوڑ سکتے ہیں اور اس راہ پر نشیب فراز میں دوڑتے پھرنا پسندیدہ نہیں ہی جو میں نے دوروشیں بتائی ہیں اسپر چلنا پسند نہیں تو یہی بہتر ہے کہ جس راہ سے تم آئے ہو اسی راہ چلے جاؤ کہ وہ طرف سپہ نشین ہے اسمیں غنیم کو دستبرد کی قوت نہیں ہے مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور اپنی پہلی تدبیر پر جمے رہی - کوکلتاش نے یہ ناہنجار بدارات ان کی دیکھی تو اسنے آئین سرداری کو ایک طرف رکھا کہ مبادا یہ شیوا زبان مقربین ناشائستہ باتیں بنا کر بادشاہ کو مجھ سے نہ خفا کردیں - کوکلتاش کو تو یہ اندیشہ ہوا اور راجہ اور حکیم کو یہ فکر درپیش تھا کہ اگر ہم تنہا ہو جائینگے تو معلوم نہیں کام بنے یا نہ بنے اور شرمندگی اٹھانی پڑی - فوج کی آرایش ناہنجار طور پر ہوئی اور آرایش فوج میں گفتگو ہوئی - راجہ و حکیم نے اپنے اسی اندیشہ سے برانغار و جرانغار کی سرکردگی سے انکار کیا - برانغار کا سربراہ حسن خاں پٹنی مقرر ہوا - اور جرانغار کا قاضی علی - ہراول کی پیشقدمی حسن بیگ کو سپرد ہو - بعد بہت سی گفتگو کے حکیم نے التمش میں رہنا قبول کیا اور ۱۲ اسفندارمذ کو چکدرہ سے کراکر طرف سپاہ چلی اور پانچ کوس چلکر موضع کاندک میں اتری دوسرے روز

راہ پر تنگ تھی بار انفار کو چنداول میں چھوڑا اور درہ سے آدھ کوس پر منزل کی اور یہ تدبیر ٹھہری کہ
آج ہراول کچھ تاخت کر کے پھر آئے۔ صبح کو جب اس کتل پر مخالف آئے تو لڑائی شروع ہوئی
تھوڑے عرصہ میں تنگناؤں کو طے کر کے بہت غنیمت جمع کی اور ہزاروں آدمی بندی میں آئے
القمش میں زیادہ تر کابلی تھے وہ لوٹ کی داستان سنکر دوڑے پھر اسکے پیچھے اور فوجیں آئیں
کوکلتاش کہ مقیم تھا ناچار وہ بھی روانہ ہوا۔ اسطرح روا روی بے روشی ہوئی۔ افغانوں نے
پیچھے خوب لوٹ مچائی حسن خاں بٹنی زخمی ہو کر کنارہ کش ہوا چلنے والوں پر کام بہت تنگ
ہو گیا۔ کوکلتاش کارزار میں آیا اسدن اور تمام شب اور پھر دوسرے روز زیادہ دیر تک ہنگامہ
زد و خورد گرم رہا۔ مخالفوں کے چار سرگروہوں کو کوکہ نے خود اپنی بندوق سے مارا افغان کچھ
پریشان ہوئے آخر دن کو کچھ فتح کی صورت معلوم ہوئی مگر بار شتر اور گاؤ سب لٹ گئے اور جو
اسباب باقی اور خچر پر تھا وہ سلامت منزل پر پہنچا۔ دوسرے روز چند کوس چلکر خانپور میں آئے
کوکہ نے چند آدمی کی افسری خود کی۔ تمام راہ جنگ کرتا ہوا منزل پر پہنچا راجہ کے دائرہ
پر پہنچکر مجلس مشورہ منعقد کی اور پہلی گفتگو کو فصاحت سے ادا کیا اور شعنا بے زندگی کی
نفرین اور اپنی بے دید کو خوب بیان کیا۔ پوچھا کہ اب صلاح کیا ہے؟ اور آیندہ کیا
کرنا چاہیئے۔ راہ تھوڑی باقی تھی اسلئے نشیب و فراز اسکا نظر نہیں آتا تھا۔ سب نے یہ صلاح
دی کہ مناسب یہ ہے کہ گریوہ سے گذر کر چند روز قیام کریں اور مخالف کا از سر نو علاج
کریں۔ کوکلتاش نے گذارش کی کہ آگے تنگنار ایسی دشوار گذار ہیں کہ اس راہ پر چلنا اپنے
تئیں بے آبرو کرنا ہے مناسب یہی ہے کہ اسی منزل میں کہ کچھ فراخ ہے اور کوئی سرکوب
نہیں ہے اور پانی گھاس اور آذوق بہت ہے۔ ایک دیوار بند بنا کے قیام کریں اور
مخالفوں کو کہ سارے پہاڑ کو گھیرے ہوئے ہیں سزا دیں یا اس سبب سے کہ ان کا زہ
و زاد اور بہت سا مال ہمارے ہاتھ میں ہے۔ استمالت نامے بھیجکر مخالفوں سے
فرمان پذیری کا پیمان لے لیں اور انکے میدان کو چھوڑ دیں اور انہیں سے چند کو بطور

پر عمال (اول) کے رکھیں۔ اگر یہ بات آپکو دلنشین نہو تو توقف کریں کہ پادشاہ کو اطلاع
ہو اور ایک فوج اسطرف آنکر گریوہ کے سرے کو نگاہ رکھے مگر راجہ اور حکیم اپنے منصوبے پر
بجے رہے اور اپنے نقصان میں فائدہ سمجھتے رہے ششم اسفندارمذ کو گریوہ بلندری کی
طرف روانہ ہوئے۔ کوکہ نے کار آگہی سے چنداول کا اہتمام اپنے ذمے لیا۔ پہلے روز سے
بھی زیادہ سخت لڑائی ہوئی لشکر کچھ تھوڑی دور چلا تھا کہ دن ناوقت ہو گیا۔ اس نے
درہ کے سرے کو بزرگ گریوہ کی ابتدا جانا وہ اُترا کوکہ کے آنے سے معلوم ہوا کہ ابھی ایک
اور تنگی سے گذرنا باقی ہے جب اس کوہ کے سر پر پہنچنا ہوگا۔ سرکوب اسکے نزدیک تھے
اسلئے اُسنے آگے جانے کی کوشش کی اور یہ قرار پایا کہ گریوہ کے سر پر ہراول بھیجکر بلندیوں پر
قبضہ کرے اور لشکر نیچے اُترے اور صبح ہوتے ہی اس دشوار پہاڑ پر گذر کریں۔ چونکہ پیچھے سے
افغان چلے آتے تھے کوکلتاش پیچھے مڑا اوروں نے اس کوچ ناہنگام اور ہراول کے آگے
دوڑانے کو گریوہ کا طے کرنا سمجھکر جلدی کی اور چلنے کا آئین بگڑ گیا۔ ہر چند سمجھانے اور پھر نیچے لے
جانے کی کوشش ہوئی مگر سود مند نہ ہوئی۔ افغانوں نے ہر طرف سے تیر و پتھر ایسے پھینکے کہ وہ غالب ہو گئے۔
ناشناسائی اور راستہ کی تنگی کے سبب سے پہاڑی کی بلندی پر سے پستی کیطرف لشکر اُترا۔ اس زوارودی
میں گھوڑے اور آدمی اور ہاتھی سب گذند ہو گئے اور بہت انمیں سے مارے گئے اور بڑی بڑی سزا پائے
کچھ راہ کو پہچانکر چلے۔ آخر دن کو اس گریوہ دشوار سے گذر کر نیچے آئے۔ کوکلتاش کا ارادہ
ہوا کہ اس لڑائی میں اپنی جان دیدیجئے مگر جانثار بہادر اسکے آگے آیا اور کام ونا کام
الٹا گیا کچھ چلکر وہ بیراہ ہوا گو پیدل چلا۔ بصد دشواری منزل پر پہنچا۔ لوگوں نے
یہ خبر اڑائی کہ افغان پیچھے سے چلے آتے ہیں اسلئے نہایت بیتابی کے ساتھ کوچ بے
ہنگام ہوا آدمی تاریکی کے سبب سے راہوں سے بھٹک کر دروں میں چلے گئے۔ افغان
مال کے حصے کرکے بانٹنے میں مصروف تھے۔ دوسرے روز بہت سے آدمی جو رستہ
بھول گئے تھے جان سے گئے کچھ ان میں قید ہوئے۔ پانسو آدمی مارے گئے

ہونگے ۔ پادشاہ کے روشناس بہات تلف ہوئے ۔ انمیں راجہ بیربر حسن خاں بٹنی گدا بیگ راجہ
دہرم کندہ شنکو و مختار بلا سیری ۔ عرب شیخ ۔ ملا غیوری و جان محمد بخشی ۔ شیخ جنید ۔ شیخ جہند فرملی
بہاور امان اللہ سعید تھے ۔ اس گزندنا گہانی اور اخلاص مندونکے مرنیسے خصوصًا اپنے اہم زبان معنی
آفریں راجہ بیربر کے مرنے سے طرح طرح کے رنج پادشاہ کو ہوئے ایک رات دن کھانا نہیں کھایا ۔

یوسف زئی سے پادشاہ کی لڑائیاں اور معاملات ۵۴۴

جب پادشاہ نے اپنے اخلاص نہادوں کے مرنے کا اور شکست پانے کا حال سُنا تو
خود پادشاہ کا ارادہ اس کوہستان میں جانیکا ہوا لیکن اخلاص گزینوں کے کہنے سے
اس یورش سے باز رہا شاہزادہ مراد کو اس خدمت پر بھیجا اور راجہ ٹوڈرمل کو اسکے ساتھ کیا
مرزا الغ بیگ کابلی کے زمانہ سے الوس یوسف زئی کہ ایک لاکھ سے زیادہ تھے کوہستان
دشوارگذار کی آڑ میں ہمیشہ راہ زنی کرتے اور مسافروں کو طرح طرح کی گزند پہنچاتے ۔ کابل کے
مرزبانوں میں یہ قدرت نہ تھی کہ ان کی مالش کرتے ۔ ہندوستان کے فرمان روایوں کو اپنے
کاموں کی کثرت نے اور تنگ حوصلوں کی ہمزبانی نے اسطرف متوجہ نہ ہونے دیا ۔ ان دنوں
پادشاہ کا ارادہ ہوا کہ یہ قوم مردم آزاری اور تباہ کاری سے باز آئے اور فرمان پذیری اور
خدمت گذاری اختیار کرے ۔ بدخوئی جو طینت میں مدتوں سے جگہ پکڑ جاتی ہے ۔ اور باپ
دادا سے چلی آتی ہے ۔ اسکا دور ہونا بہت دشوار ہوتا ہے ۔ پادشاہ اپنی مہربان
دلی سے جانوں کو ضائع نہیں کرتا ۔ اور بڑے بڑے مجرموں کو بھی پردہ نیستی میں نہیں بٹھاتا
جب افواج تاخت کے لئے نامزد ہوتی تو کوشش کیجاتی کہ آدمیوں کے مارنے میں تیزدستی
نہ کی جائے ۔ ہر دفعہ اس قوم میں سے جو لوگ پکڑے آتے پادشاہ انکو خلعت اور زر دیکر چھوڑ دیتا
لیکن جب پادشاہ کے ان اخلاص مندوں کا انہوں نے خون کیا تو پادشاہ نے انکے مٹانے
میں کوشش کی ۔ ان کوہستانوں کا اُنسے خالی کرانا محال تھا ۔ مگر تھوڑے عرصہ میں ان میں
سے ایک گروہ کا نقد زندگی تاراج ہوا بہت سے انمیں اسیر ہو کر ایران اور توران میں بھیجے گئے
اور ملک سواد و بجور و تیراہ ان بدکاروں سے پاک ہوا ۔ یہاں کی آب و ہوا کی خوبی اور میوونکی ارزانی

ایسی ہے کہ کمتر کہیں ایسی ہوتی ہے۔ اس مجمل بیان کے آگے تفصیل آتی ہی۔ شاہزادہ مراد اور راجہ
توڈرمل کو یہ خدمت سپرد ہوئی تھی مگر راجہ نے عرضداشت پادشاہ پاس بھیجی کہ سزاوار یہ ہے کہ
ولایتوں کی فتح کرنیکے لئے اور بڑے بڑے فرمان دہوں سے لڑنیکے واسطے شاہزادوں کو بھیجنا چاہیئے
یہ خدمت ایسی ہی کہ جسکو حضور کے بندگان میں سے ایک انجام دیسکتا ہی اس عرضداشت کو سُنکر
پادشاہ نے شاہزادہ مُراد کو واپس بلالیا۔ کنور مان سنگہ کہ جمرود کے قریب روشنائیوں کی گوشمالی
کررہا تھا اس خدمت پر معین کیا کہ راجہ کی بہ دید کو اپنا دستیار کرے۔ مانسنگہ بنیر کے قریب آیا۔
دریا کے کنارہ پر مقیم ہوا اور قلعہ کی بُنیاد ڈالی اور اُسکے آباد کرنیکے لئے ٹھہرا۔ بنیر کے چپکے
کھنڈرات کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی قدیم زمانہ میں بڑا شہر تھا۔ سواد سے ملا ہوا کوہ لنگر تھا وہاں راجہ
توڈرمل نے اپنا بنگاہ بنایا۔ اسطرح افغانوں کی گذرگاہوں کو بند کرکے انکو تنگ کیا دونو طرف سے
کارشناس کوہستان کے اندر جاتے اور افغانوں کو لوٹتے مارتے۔ ناچار انہوں نے زاری کی جس سے
شورش فرو ہوئی اور زمانہ کو تازہ روئی ہوئی۔ راجہ توڈرمل کوہستان سے واپس چلا آیا۔ اور
افغانوں کی مالش کے واسطے صرف راجہ مان سنگہ وہاں رہا۔ پادشاہ نے کنور مان سنگہ
کو یوسف زئی کی سزا دینے کے لئے بھیجا اور راجہ بھگونت داس کو کہ پنجاب کا سپہ آرا تھا
ریگستان کا پاسبان مقرر کیا۔ مگر راجہ نے نامناسب خواہشیں کیں۔ پادشاہ اُسے دیوانہ
سمجھا اور اسکا بھیجنا موقوف رکھا اور کارسازوں کو حکم ہوا کہ شاہزادہ سلطان دانیال کے
لئے تیاری زابلستان لیجانے کی کریں مگر راجہ نے معذرت کی۔ پادشاہ نے پھر اُسی کو
زابلستان جانے کی اجازت دیدی۔ وہ دریاء سندھ سے گذرا تھا اور خیرآباد میں پہنچا تھا اور
سپاہ کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ دفعتاً اسکی عقل تیرہ ہوئی اور سخت بیمار ہوا۔ اُسکو شہر اٹک بنارس
میں لائے۔ سامان ایک طبیب اُسکی نبض دیکھتا تھا کہ راجہ نے اسکا جمدھر لیکر اپنے مارا۔ پادشاہ
نے حکیم حسن کو علاج کے لئے بھیجا مدتوں میں وہ اچھا ہوا اسکی جگہ اسمٰعیل قلی کو مقرر کیا۔ مگر اُس
نے معاملہ ناشناسی سے حرکات ناشائستہ کیں جس سے وہ نظر سے گرا مگر پھر اسنے خوشامد

کنور مان سنگہ کا زابلستان بھیجنا ۹۹۴ھ

کرکے قصور معاف کرایا۔ بادشاہ نے اسکو یوسف زئی کی مالش کے لئے مقرر کیا۔ مادھو سنگھ و سعید گکھر اور ابو القاسم نمکین اور راجہ بھگونت سنگھ کے آدمیوں کو اُسکی یاوری کے لئے مقرر کیا اور کنور مان سنگھ کو اور سپاہ کے ساتھ کابل بھیجا۔

جب بادشاہ دریا سندھ کے کنارہ مقیم تھا اور زابلستان جانے کا ارادہ تھا اور کتل خیبر کو جسمیں گھوڑے اور اونٹ کا گذر مشکل تھا ایسا صاف کیا کہ گاڑی چھکڑا اسپر چلنے لگا اور دریا سندھ پر پل باندھا تو توران میں ایک عجیب تہلکہ پڑا۔ بادشاہ کے ایلغار کا خوف ایسا پیدا ہوا کہ بلخ کے دروازے اکثر بند رہتے تھے۔ فرمانروای توران عبداللہ خاں نے کارآگہی اور اندازہ شناسی سے نیایش گری اور نیازمندی اختیار کی میر قریش کو بھیجا کہ یہ بزرگ سیدوں میں سے تھا اور نہایت عمدہ گھوڑے اور تنومند شتر اور سبک رو استر اور شکاری جانور اور عمدہ پوستین اور اپنے ملک کے اور نفائس بھیجے۔ مگر اسوقت راجہ بیربل کے سوگ میں بادشاہ رنجیدہ ہو رہا تھا اس سبب سے ایلچی کی باریابی میں تاخیر ہوئی جس سے ایلچی کو پراگندگی ہوئی تو بادشاہ نے ایک جشن کرکے اسکو باریاب کیا۔

بادشاہ اٹک بنارس میں عشرت پیرا تھا کچھ شکار کھیلتا کچھ آہنگر خانہ میں بندوق سازی کا تماشا دیکھتا۔ دولت خانہ میں تفنگ اندازی کرتا۔ رات دن مہمات ملکی و مالی میں مصروف رہتا مگر اس سوچ بچار میں رہتا کہ ساحل سندھ پر جنگ ٹھہرے کہ یوسف زئی کی مالش قرار واقعی ہو اور پھر زابلستان کی سیر ہو مگر تورانیوں کی سراسیمگی اور توران کی ایلچی کی زاری اور آذوق کی گرانی سے واپس جانا قرار پایا اور ہندوستان کو وہ چلا۔ پنجاب میں آنکر لاہور میں ٹھیرنے کا ارادہ بادشاہ نے اسلئے کیا کہ زابلستان میں امن امان ہو جاے۔ سواد و بجور سرکشوں سے پاک ہو۔ تیراہ و بنگش سے روشنائیوں کا تیس ناس ہو۔ آباد ملک ٹھٹہ قبضہ میں آئے۔ اگر مرزبان توران دوستی میں ثابت قدم نہ رہے تو لشکر وہاں بھیجا جاے اور اسکے بعد وہ خود جاے وہ ۱۲ ½ کروہ اٹک بنارس سے ۲۰ کوچوں میں آیا۔

آلوس یوسف زئی کی دشواریاں سنہ ۹۹۴ھ ۔ ایلچی توران کا واپس بھیجنا سنہ ۹۹۴ھ ۔ زین خاں کوکلتاش کا روشنائی افغانوں کی مالش کے لئے جانا اور انکا سزا پانا سنہ ۹۹۴ھ

• اِدہر یوسف زئی کی تاخت و تاراج میں اور انکی باندھنے اور مارنے میں لگا دو کی اُدھر آسمان نے انکے ساتھ کینہ توزی کی ۔ اناج کو گراں کیا ۔ ہوا کو ناسازگار بنایا عجیب بیماریونکو پھیلایا ۔ توانائی اور حیلہ سازی نابود ہوئی ۔ یوسف زئی کے سردار سلطان قریشی ۔ بوستان کالو ۔ سلطان بایزید ۔ کریم داد ابراہیم خاں ۔ خان جہاں مصری ۔ ظفر خاں ۔ یہ سب اسمٰعیل قلیخاں پاس آئے اور عاجزی کی ۔ یہ قرار پایا کہ جب وہ کوہستان سے مع اغزوق کے نکل آئیں تو گناہونکی معافی کی درخواست پادشاہ سے کیجائیگی ۔ پادشاہ کے سندھ سے واپس آنے نے فرمانروا ے توران کی سراسیمگی کو دور کردیا تھا ۔ لیکن پادشاہ نے سنا کہ ایلچی کے بہت دنوں تک یہاں رہنے سے وہاں تردد ہے تو اسلئے ۱۲ شہریور کو ایلچی کو واپس بھیجدیا اور کچھ نفائس تحفتہً بھیجے ۔ حکیم ہمام کو پیغام گذاری کیلئے مقرر کیا کہ وہ نامہ کو فرمانروا ے توران کو پہنچا دے اور سب چھوٹے بڑونکے آگے اُسے پڑھکر مطلع کردے ۔ میر حیدر جہان مفتی کو بھی سکندر خاں کی سانحہ ناگریز کے پرسہ کیواسطے بھیجا اگرچہ اسکو مرے ہوئے تین سال گذرچکے تھے ۔ مگر چونکہ پادشاہ کو توران کے لینے کا خیال تھا اسلئے یہ تقریب نہیں کیگئی ۔ مگر اب عبد اللہ خاں نے لابہ گری کی اور یکتا دلی کا آئین اختیار کیا تو میر کو تعزیت کیلئے بھیجا ۔

دس ہزار خانہ ارمہند و غوریہ خیل پشاور میں رہتے تھے اور پادشاہ کی نیکو خدمتی کو اپنی رستگاری کا سرمایہ سمجھتے تھے ۔ پشاور کا اقطاع دار سید حامد بخاری تھا ۔ وہ کابل کی سپاہ کے ساتھ یہاں آیا اور اُسکی سپاہ ہندوستان کو اپنی جاگیروں پر گئی وہ تھوڑے آدمیوں کے ساتھ حصار بکرام میں غافل پڑا تھا ۔ موسیٰ کو اپنا کام دے رکھا تھا ۔ اُس نے اپنی آزمندی سے ان گروہوں کو تنگ کیا اور انکے مال و ناموس پر ہاتھ کھولا ۔ اس سے الوس مذکور نے جلالہ کو اپنا سردار بنایا ۔ بکرام کے نزدیک فساد مچایا ۔ سید حامد نے ایک آدمی کو بھیجکر اسکا حال دریافت کرایا ۔ اسنے اپنی بیدانشی یا بداندیشی سے انکا حال پراگندہ بتایا اور کہدیا کہ تھوڑے سے آدمی ہیں ۔ غرض سید ڈیڑھ سو آدمیوں کو ساتھ لے کر لڑا اُس کا گھوڑا ندی میں گرا جسکے سبب سے وہ ڈوب کر ہلاک ہوا ۔ اور اسکے چالیس ہمراہی مارے گئے

افغانوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا۔ سید کمال اُسکے چھوٹے بیٹے نے قلعہ داری خوب کی۔ بادشاہ کو اسکی خبر ہوئی تو اُسنے زین خاں کو کلتاش کو اس خدمت پر مقرر کرکے روانہ کیا اور حکم دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو راجہ مانسنگہ کسی سردار کو لشکر کے ساتھ کمک کے لئے اور بھیجدے۔ غرۂ مہر کو کابل میں مرزا سلیمان اس ارادہ سے آیا کہ بادشاہ کی خدمت میں جائے۔ اسلئے کنور مان سنگہ اسکی ہمراہ ہوا اور خواجہ شمس الدین خافی کو کابل کا منتظم مقرر کیا۔ جلال آباد کے نزدیک بولان میں اسکو شدید تپ ہوئی اور سخت بیمار ہوگیا۔ اور سید حامد کے مارے جانے سے روشنائی بہت مغرور ہوگئے وہ کنور مانسنگہ کے اس بے ہنگام قیام سے کچھ اور سخت اور زیادہ بدمست ہوگئے اور قلعہ بکرام کو چھوڑکر اور ارادہ نہیں ہوئے۔ الوس مہمند وغوریہ خیل نے پشاور سے تیراہ تک خیبر کی دونوں راہوں کو سنگ چین کرکے استوار کیا۔ یوسف زئی اور قوموں نے انکے ہنگامہ کو رونق دی۔ تیراہ ایک کوہستان ہے جسکا طول ۲۴ کوس ہے اور عرض ۱۲ کوس ہے مشرق میں پشاور ہے اور مغرب میں میدان اور شمال کی جانب باڑہ اور جنوب میں قندھار۔ اسمیں تنگنائیں پرنشیب وفراز دشوار گذار ہیں۔ بادشاہ نے جو سپاہ بھیجی تھی وہ دیر میں پہنچی اور کنور مان سنگہ اس زمانہ میں بیمار رہا اور ڈیڑھ مہینے میں رنجور ہوا تو افغانوں نے کنور سے پیکار کا ارادہ کیا۔ ان دنوں میں کنور تندرست ہوگیا تھا اور افغانوں کی مالش پر وہ مستعد ہوا اور تین ہزار سوار اور بڑے بڑے نامور افسر لے کر اس ارادہ سے چلا کہ ناروں کی راہ سے تیراہ میں آئے اور وہاں سے الوس آفریدی کو کہ خیر مایہ شورش ہے تاخت وتاراج کرے اس راہ سے گریوہ شادی سے یکبارگی علی مسجد میں آئے تاکہ لشکروں سے ملجائے اور راہ کھلجائے جگت سنگ پسر مان سنگہ دربار میں زین الدین علی کہ کابل جانے کا ارادہ رکھتے تھے سید حامد کا قضیہ سنکر ایلغار کرکے بکرام میں آئے مگر راہ بند تھی اسلئے آگے نہ ٹھہرے نہ بڑھے مگر مادھو سنگہ بھی راجہ بھگونت داس کے لشکر کو لیکر اٹک کے قریب آگیا تھا۔ سیوم دے ۹۹۵ھ کو بولان سے مان سنگہ جریدہ روانہ ہوا اور کتل چارچوبہ میں پہنچا۔ یہاں گریوہ کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا اسکے نشیب وفراز کو مشکل سے

طے کرکے بازارک کی حدود میں کچھ آرام کیا۔ دوسرے روز سپاہ نے بسرکردگی محمد قلی بیگ کے اوس آفریدی پر تاخت کی اور انکا بہت مال چھینا۔ بعض کی رائے یہ ہوئی کہ اسباب کو منزل گاہ پر پہنچا کر پھر لڑنے آئیں مگر اسکو اوروں نے نہ مانا اور آگے بڑھے اور درہ چورہ سے کوہ نوردی کی۔ اور غوریہ خیل کے بنگاہ پر گذر ہوا۔ اُنہوں نے لابہ گری کرکے رستگاری پائی۔ جب تنگناؤں میں لشکر آیا تو جلالہ پیچھے سے نمودار ہوا۔ ہر طرف سے افغانوں کا جوش وخروش اُٹھا۔ تختہ بیگ چنداول لیکر اس سے لڑا مگر عاجز ہوا تو اپنے لشکر سے ملا۔ اور کنور مان سنگھ نے پھر کر ایک اور تازہ نیرو سپاہ کارزار میں بھیجی۔ لڑائی خوب ہوئی۔ مخالف کی شوخی کم ہوئی مان سنگھ نے اپنے بیٹے جگت سنگھ کو چنداولی کا اہتمام دیکر خود علی مسجد کی راہ لی۔ تھوڑے عرصہ میں پھر افغان ہر طرف سے آنکر جمع ہوگئے اور کام زیادہ دشوار ہوگیا۔ میدان نہ تھا کہ لڑائی میں جوانمردی دکھائی جاتی نہ کوئی پناہ ایسی تھی کہ سنگ افگنی اور تیر اندازی کی جاتی۔ طرفین کے سپاہی دست وگریبان ہوتے تھے اور عجیب لڑائیاں ہوتی تھیں۔ ناگاہ ایک کشادہ میدان ظاہر ہوا۔ مان سنگھ نے اپنے ہمراہیوں کے خلاف رائے وہاں قیام کیا اور تختہ بیگ اور کچھ کابلی میدان کارزار میں لڑنے آئے اور اُس سے محمد قلی وکورم کوکہ اور تیز دست ہراول کے آنکر ملے اور پھر کارنامہ پہلوانی ظاہر ہوا۔ سخت دشواری میں بادشاہی لشکر کو فتح ہوئی۔ اب بعض کی رائے یہ ہوئی کہ یہیں نصرت گاہ میں ڈیرے لگیں۔ بہت کی رائے یہ ہوئی کہ علی مسجد کو جو دو کروہ ہے چلیے یہاں پانی کی کمی تھی اس لئے علی مسجد کو لشکر چلا اور محمد قلی بیگ نے چنداولی کا اہتمام اپنے ذمہ لیا اور شادی کی راہ سے شام کے قریب لشکر اپنی منزل میں آیا۔ یہاں سے قریب پہر رات گئے جلالہ گھات میں تاک لگا کے بیٹھا اور افغانوں نے جابجا ہنگامہ برپا کیا۔ بہت آدمیوں کی یہ تجویز تھی کہ صبح کو قلعہ سے باہر جاکر دست برد کرینگے۔ لیکن تکان اور ماندگی کے سبب سے یہ صورت نہ ہوئی۔ دوپہر کو بھگونت داس کا لشکر مادھو سنگھ لے کر نمودار ہوا تو یکبارگی روشنائی پراگندہ ہوئی۔ بعض کی رائے یہ تھی

کہ مان سنگھ یہیں ٹھہرے اور راو اُمرا آگے جا کر مرزا سلیمان کے کارواں کو خیبر کی راہ سے لائیں۔ مرزا سلیمان
کی خاطر سے اسکے آدمیوں کا سب بنہ و بار خیبر کی راہ سے بولان گیا اور مرزا الہر یہ کی راہ سے
بکرام میں آیا۔ اس عرصہ میں زین خاں کوکہ لشکر سمیت پہنچگیا پہلے روشنائیوں کے خار بن اکھیڑنے
میں بڑی کوشش کی پادشاہ پاس مرزا سلیمان کے آنیکا حال ہم معاملات بدخشاں میں بیان کرینگے۔

الوس غوریہ خیل اپنے پہلے کاموں سے پشیمان ہوکر مرزبان کابل کی پناہ میں آئی
اور پادشاہ نے ان کو فرمان بخشایش لکھ دیا اول اُن کو جلال آباد میں جگہ دی
اور پھر پشاور میں۔

مان سنگھ تو ایک شکست دیکر جمرود میں گریوہ خیبر کے قریب آرام کرتا تھا۔ پادشاہ نے
اُسپر لعنت ملامت کی اور ایک اور لشکر مطلب خاں کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ جب وہ
دریا سندھ پر سنبلہ کے نزدیک آیا تو زنگی خاں اور راو سردار الوس نیازی کے اور
دریا سندھ کے پار عیسیٰ خیل کی سرزمین میں آئے۔ یہاں کے سردار فیروز خاں و
جمال خاں و علیخاں آنکر پادشاہی لشکر سے ملے۔ اکثر کی رای یہ تھی کہ داور نغز کی راہ سے
بنگش میں اوپر جا کر روشنائیوں کے ملک تاخت و تاج کریں۔ لیکن کمال خاں روشنائی
پادشاہ کے لشکر سے آن ملا اور اسنے بتلایا کہ سب سے زیادہ عمدہ آب درہ کی راہ ہی
مگر دوار سمندر کے درمیان ایک تنگنا ہے کہ دریا بنگش اس میں بہتا ہی۔ بارہ کردہ میں
چند جگہ پانی چھوڑ کر وہ سمندر میں جاتا ہے۔ جمال خاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی راہ سے چلکر
لشکر سے ملا تھا روشنائیوں کی کھتیاں لشکر کے جانوروں کے چرنے کے کام میں آئیں
یہ خبر ہوئی کہ جلالہ لوچک میں کہ قلب کی جگہ قلعہ نشین ہو وہاں سے وہ نیچے اُتر کر تین
کوس آیا ہے اور دور سمندر میں شبخون مارنے کا قصد کرتا ہے۔ اُمرا شاہی نے
رات کو بہت پاسبانی کی دوسرے روز اُس نے دوار سمندر میں قیام کیا۔ مخالف نے
جانا کہ رات کو کچھ کام نہ بن پڑیگا اور جمرود کے لشکر کے آنیکی خبر ہو رہی ہے

الوس غوریہ

مطلب خاں کی سرکردگی میں لشکر کا روانہ ہونا اور جلالہ کا شکست پانا ۹۹۵ھ

اسلئے اُسنے یہ ارادہ کیا کہ جسوقت کہ نیچے اُترے اُسپر دست برد کرے اسوقت اسمیں انتظام نہوگا
۱۴ امرداد کو دوپہر کو کہ ہوا نہایت سخت گرم تھی جلالہ ہزار سوار اور پندرہ ہزار پیادے لیکر ناگہانی
آیا۔ اور وہ شورہ پشت پادشاہی چنداول سے لڑکر آگے بڑھا۔ اگرچہ پادشاہی فوج قاعدہ کے
موافق صفِ آرا نہو سکی اور سپہ آرا کو بھی سواری کی توفیق نہیں ہوئی مگر لشکر شاہی کو فتح
نصیب ہوئی اور میدان جنگ میں غنیم کے پانچسو پچاس آدمی مارے گئے اور ہزار آدمی بھاگنے میں
قتل ہوئے اور مخالفوں نے کوہستان میں پناہ لی۔ پادشاہ کیطرف سو آدمی زخمی ہوئے لشکر اسکی
بنگاہ پر گیا اور اُسکو لوٹا اسکے خان ومان کو جلا دیا۔ تمام الوس آفریدی اور اورک زئی جنکی پناہ میں
جلالہ تھا اور عمال دیگر مطیع ہوئے اور لشکر پھر کر بنگش میں آیا۔ یہاں گرانی غلہ کے سبب سے رہنا دشوار تھا
مطلب خاں سودائی ہو گیا تھا اسکو پادشاہ پاس بھیجدیا۔ قوم الوس یوسف زئی اپنی استواری
جا اور پادشاہی لشکر کی لغزش کے سبب سے سرکشی زیادہ ہوگئی۔ ہر چند اسکو سزا دیجاتی تھی
مگر وہ اپنی راہ زنی اور بدکاری سے باز نہیں آتی تھی۔ جلالہ روشنائی جب تنگ ہوا
تو وہ تنگنائے تیراہ سے یوسف زئی کی بنگاہ میں چلا گیا اور اُنہوں نے اُسکو اپنے ہاں جگہ دی
پادشاہ نے زین خاں کو اسکی پہلی شرمندگی مٹانے کے واسطے سواد و بجور کو روانہ کیا اور
جمرود بنگش کے لشکر کو فرمان بھیجا کہ وہ جلالہ کو گرفتار کریں اور اسکو باہر کہیں نہ جانے دیں
اسمٰعیل قلی خاں دہند سے اُٹھکر قبیلہ ایازی سے ملا کہ استقر کی پاسبانی کرے۔ اور صادق
خاں پادشاہ سے رخصت ہو کر دست سواد میں آیا تا کہ جلالہ کسی طرف سے باہر نہ جائے
اور گرفتار ہو جائے۔ جگناتھ کو جو کشمیر سے پھرا آتا تھا۔ حکم ہوا کہ کوکہ سے جا کر ملے کوکہ
دل سے اس خدمت میں متوجہ ہوا۔ حیدر علی اپنے خویش اور تختہ بیگ و بجنیار بیگ
اور اُمرا کو لیکر کامہ و کسکہ کی راہ سے بج کی طرف چلا۔ روشنائی افغانوں اور یوسف
زئی نے ملکر گروہ ناولی کو استوار کیا اور آمادہ پیکار ہوئے اور پادشاہی لشکر نے
بجو و استقر و تیراہ کے تیراہہ پر قلعہ کی بنیاد رکھی۔ اس میں لمغانات سے غلہ منگا کر

انبار لگائے جس سے لشکر کی خاطر جمعی ہوئی اور ایک نامعلوم راہ سے لشکر بجور میں آیا کچھ لڑائی ہوئی بہت سے افغان مارےگئے کچھ پناہ مانگ کر مطیع ہوئے۔ جلالہ گرفتار ہونے کو تھا مگر وہ ایک درہ سے جسکا پاسبان اسمعیل علیخاں تھا نکل کر تیراہ میں چلا گیا وہ دشت کا تھانہ دار تھا یہاں صادق خاں کے پہنچنے سے تباہ حال ہوا تھا اور بیوقوفی سے گذرگاہ کو خالی چھوڑ کے بادشاہ پاس چلا گیا۔ پہلے لکھا ہے کہ صادق خاں ان روشنائیوں کو تیراہ سے نکالنے کی خدمت پر مامور ہوا تھا تنگناؤں میں گھسنے کے اندر بہ دیدہ نہ دیکھی لیکن اور تدبیر سوچی کہ موضع بارہ میں قلعہ بناکر شاہ بیگ کو سپرد کیا اور احمد بیگ اور محمد قلی کو میدان کا نگہبان بنایا اسی طرح جابجا کارآگاہوں کو مقرر کیا۔ لشکر شاہی نے تاخت وتاراج کرکے آذوق کی گرانی کا علاج کیا۔ صادق خاں نے زبان سے دلاسا اور ہاتھ سے روپیہ دینا شروع کیا۔ الوس آفریدی اور اورک زئی کو کہ روشنائی افغانوں کی بنگاہ تھے مطیع کیا۔ ربیع کی کشت وکار پادشاہی لشکر کے ہاتھ میں آئی خریف کو بونے نہ دیا۔ ملا ابراہیم کو جسکو جلالہ اپنا باپ سمجھتا تھا گرفتار کرلیا۔ جلالہ کو اپنے ہمراہیوں پر اعتبار نہ رہا۔ ہر روز ایک قبیلہ میں جاتا تھا اور ناکام واپس آتا تھا وہ راہ کان کرم سے توزان کی طرف دوڑا۔ ۲۴ مہر کو افغانوں نے اسکا زن و زاد لیکر حوالہ کیا۔ آفریدی اور اورک زئی نے اول دیکر راہ خیبر کی ایمنی کو اپنے ذمہ لیا۔ بادشاہی لشکر پھر آیا۔

جب زین خاں کوکہ بجور میں آیا تو اسنے چند قلعے بنائے۔ افغان تنگناؤں میں گھس گئے رات کو باہر آتے۔ غلہ کاٹتے اور لیجاتے۔ کوکہ نے اپنی دانشمندی سے مقرر کیا کہ ہر درہ میں ابتدائے شب میں سپاہ کا ایک گروہ جائے دامنہ کوہ میں گھات لگائے بیٹھا رہے اور آدھی رات کو اسکی جگہ دوسرا گروہ جائے۔ جب افغان غلہ کاٹنے آتے تو پادشاہی سپاہ آگے پیچھے پہنچکر انکو خوب سزا دیتے۔ آٹھ مہینے تک اس طرح لڑائی رہی آخر کو انہوں نے عاجز ہوکر اطاعت اختیار کی۔ کوکلتاش نے سواد کی فتح کا ارادہ کیا جگنناتھ

روشنائیوں کا تیراہ سے نکلنا

سواد کا مہم ہونا

واصف خاں کو کہ دشت میں تھا اپنے پاس بلالیا اور سواد کیطرف روانہ ہوا۔ اول ملک کے سرے پر دریائے
پچکورہ کے کنارہ پر قلعہ بنایا۔ یوسف زئی نے راہوں کو سنگ چین کیا اور کارزار کے لیئے آمادہ
ہوئے۔ پادشاہی لشکر کو ایک پوشیدہ راہ ملگئی۔ دہم ذی الحجہ سنہ ۹۹۶ کو غنیم عید قربان کی جشن
میں مصروف تھا کہ پادشاہ کی سپاہ سواد کے عرصۂ دلکشا میں آئی افغان سراسیمہ ہوکر بیغولوں میں
گھسے۔ کچھ انمیں سے مردانگی سے لڑکر مرگئے۔ بہت سا اسباب لشکر شاہی کو ہاتھ آیا۔ اب
افغانوں کے دو حصے ہوگئے۔ ایک گروہ بت خری کے کوہ میں چلاگیا اور دوسرا کھسار مہرہ میں چلاگیا
کوکا انکی تلاش میں ہوا۔ چکدرہ و ملکنڈ اور اور جاؤں میں قلعے بنائے۔ سرولی کے نزدیک دشت
بہار سے متصل ایک حصار بنایا اور کار آگاہ خدمت دوست جا بجا مقرر کئے کہ راہوں میں امینی
ہو اور دشت و کوہ میں پیوند ہو۔ ہر طرف سے تاجر آئے اور ارزانی ہوئی۔ ان دنوں میں
کوہ مہرہ سے محمد عمری و ملک اصغر شیر خانہ کی راہ سے دشت میں آئے اور قلعہ سرولی کا محاصرہ
کیا۔ یہاں سے بہت سی سپاہ جلال آباد کی طرف سے گئی تھی کہ قافلہ کا بدرقہ
ہو احمید خاں چند آدمیوں کو لیکر لڑا اور مارا گیا۔ حمید خاں کے بیٹوں کی ہمت نے
یاوری ہنیں کی مگر غنیم قلعہ کو فتح نہ کرسکا اور اپنے اندوختوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا جب
سواد میں کچھ دم نہ رہا تو آصف خاں پادشاہ کی درگاہ کیطرف جریدہ ملکند سے چلا۔ چند
نوکر اسکے پیچھے آتے تھے ناگہاں انہوں نے نقارہ بجایا۔ افغان سراسیمہ ہوئے اور بھاگ گئے
اور بہت اسباب اپنا پھینک دیا۔ ابو القاسم تمکین و شیر خاں کو سرولی کی پاسبانی
کے لیئے چھوڑا کو وہ اچھی خدمت بجالائے۔

کالو خاں پر باوجودیکہ پادشاہ نے بہت نوازش کی تھی مگر وہ بھاگ کر شورش منشوں سے جاملا اور دمغار کے
افغانوں نے اسکو اپنا سردار بنایا اور کوہ مہرہ کو وہ روانہ ہوئے۔ کوکلتاش کو اسکی اطلاع ہوئی
اسنے رات کو سفر کیا۔ ہراول نے نقارہ بجایا بیخبروں نے آگاہی پاکر پراگندگی میں تکاپوکی۔ اگرچہ کالو خاں
بھاگ گیا مگر افغانوں کے ستر آدمی منتخب مارے گئے۔ اسی اثنار میں محمد عمر اور ملک اصغر سرولی پر جا چڑھے

کالو خاں کا سر زیاں ۹۹۶ھ

میر ابو القاسم اور شیر خاں اُنسے لڑے - اور چار سو افغانوں کو انہوں نے مارا قلعہ کہ سرگروہ پر بنایا
اس سے یوسف زئی بڑے سراسیمہ تھے اور اسکی فتح کی گھات میں لگے رہتے تھے انیں سے بہت سے
ایک جگہ جمع ہوئے اور اس قلعہ کو آنکر گھیرا - صبح سے شام تک جنگگاہ میں تلواریں چمکیں مین کے
شکستہ اور کوہ پایوں کی بلندی کے سبب سے پیکار میں درازی ہوئی انجام کار لشکر شاہی کو فتح ہوئی
اور بہت سے افغانوں کا خرمن ہستی آتشِ تیغ سے خاکستر ہوا اور تھوڑے عرصہ میں وہ قلعہ تمام بن کر
تیار ہو گیا اور گردن کشوں کی اطاعت کا سبب ہوا -

پادشاہ اٹک بنارس کابل میں کہ پاؤ کم ۴۹ کوس و ۴۱ بانس ہے ۱۳ روز میں ۱۰ کوچ
کرکے پہنچا - چہارم آذر کو کابل سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا - ۱۰ اردی دکہ میں لشکر
گاہ تھا کہ شکار کے لئے ایک گفتار کے پیچھے وہ گیا اس نے پادشاہ کو زخمی کیا مگر زخم جلد
بھر گیا - پادشاہ اپنے دار الخلافہ میں آیا -

یوسف زئی کی مالش میں سپاہ شاہی پیہم کوشش کرتی تھی مگر بوم استواری سے غالب نہیں ہوئی
تھی شہباز خاں کی عرضداشت سواد سے آئی کہ غزہ بہمن کو لڑائی ہوئی اور لشکر پادشاہی کو فتح ہوئی اور بنیر
کی سرزمین ہاتھ آئی - علی محمد الف کی نیکو خدمتی میں جان گئی - بہت سے افغان مارے گئے -

زین خاں شمالی کوہستان سے نیپال کے قریب سے پادشاہ کی خدمت میں آیا اس نے
دریا ستلج کے کنارہ پر کاہلور تک تگاپو کی سارے زمینداروں کو مطیع کیا اور پیشکشیں ان سے
آمادہ کرائیں جنکے نام یہ ہیں - نگرکوٹ کا راجہ بدھی سنگھ - کوہ جمو کا راجہ پرسرام - مؤ کا راجہ
باسو - جسوال کا راجہ انرودہ - کاہلور کا راجہ تیلہ - گوالیار کا راجہ جگدیش چندہ پال
کا راجہ سیپال - سیبہ کا راجہ رای سنسار - مان کوٹ کا رائے پرتاب - جسروتہ کا رای بھونہ
لکھن پور کا راجہ بیبھ دھر - شیر کوٹ بھرتہ کا راجہ رائے دولت - قلعو بھیلا کا راجہ رائے کرشن
ہسکنٹ کا زمیندار رائے نرائن - ملا دیہ کا رائے کرشن - بھمری وال کا رائے ادویہ - ان
سب راجاؤں کے ہاں دس ہزار سوار اور ایک لاکھ پیادے تھے - ان زمینداروں کو

پادشاہ کا دارالسلطنت میں جانا ۹۹۴ھ

زین خاں کوکلتاش کا درگاہ والا میں آنا ۹۹۵ھ

لیکو زین خاں، روی کو پادشاہ کی خدمت میں آیا سب پر پادشاہ نے عنایت کی۔ ۱۷ ہاتھی اور ۱۱۵ گھوڑے اور ۲۰۵ شکاری جانور باز و شاہین اور سوا انکے تحائف و نفائس اس سرزمین کے لایا۔

قاسم خاں کا روشنائی افغانوں کی سرکوبی کے لئے ... ۱۰۰۱ھ

ہم نے پہلے لکھا ہے کہ جلالہ توران چلا گیا ان دنوں میں معلوم ہوا کہ وہ ناکام وہاں سے آیا اور تیراہ کی تنگنا میں شورش مچائی۔ الوس آفریدی و اورک زئی نے فرمان پذیری میں عہد شکنی کی اور اسکو اپنا سردار بنایا۔ پادشاہ نے فرمان بھیجا کہ قاسم خاں زابلی سپاہ کو فراہم کرکے ان افغانوں کی مالش کرے سندھ و پشاور کے انقطاع داروں کو حکم ہوا کہ وہ یکجا ہو کر تیراہ سے ملیں۔ تھوڑے عرصہ میں اس کہسار کو اس سپاہ نے گھیر لیا۔ افغان دستان سرائی اور لابہ گری کر کے بیٹھ گئے۔ جلالہ یہاں سے ناکام پھرا۔ قاسم خاں کابل میں چلا آیا۔ پادشاہ کو قاسم خاں کی یہ جلدی پسند نہ آئی۔ اسکو حکم ہوا کہ پھر جاکر وہ افغانوں کی پژوہش میں کوشش کرے۔

زین خاں کی فتوحات ۱۰۰۱ھ

پادشاہ نے زین خاں کوکلتاش کو سواد و بجور کی مہم کا اہتمام سپرد کیا۔ کشمیر میں جو آشوب اٹھا تو افغانوں نے پھر اٹھایا انکی سرکوبی کے لئے سپاہ نہ تھی اسلئے الوس گلیانی و محمد زئی کہ ہمیشہ پادشاہ کی دولت خواہی کا دم بھرتے تھے۔ روشنائی افغانوں اور یوسف زئی کی ہمداستان ہوئیں اور بگرام کے نزدیک محمد قلی نریمان کے خان کے پیچھے پڑیں۔ تاکہ اس تمام ملک پر انکو غلبہ ہوجائے۔ ناگاہ کوکلتاش انکے سر پر آیا تو انہیں سے ہر ایک گروہ ایک مغولہ میں داخل ہوا۔ یوسف زئی اور کچھ روشنائی افغان بسرگردگی وحدت علی کہسار بجور میں چلے گئے جلالہ نے اپنا زہ وزاد اسکے ہمراہ کیا۔ اور خود تیراہ میں آیا۔ قصد یہ تھا کہ وحدت علی کافرون کی ولایت کو کہ کاشغر سے پیوستہ ہے لیکر پناہ آمادہ کرے جب لشکر شاہی تنگ کرے تو خود وہاں چلا جائے۔ ۷ امرداد ۱۰۰۱ھ کو گریوہ مکند سے سواد میں کوکہ آیا۔ اور اس آباد جاد شوارکشا کو آسانی سے لے لیا۔ میدان کی راہ سے بجور میں گیا۔ افغانوں نے اپنے میں لڑنے کی طاقت نہ دیکھی تو وہ ناچار ہو کر کافروں کی ولایت میں آ سئے

اور تھوڑے دنوں میں کہسار ہراول اُس گروہ سے چھین لیا۔ اس ولایت کے مشرق میں سواد اور مغرب میں کنرار نورگل شمال میں کاشغر بدخشاں وجنوب میں بجور۔ قلعہ چکاری کو استوار کیا کوکہ انکے درپے ہوا منزل بمنزل قلعے بناتا ہوا گروہ کو طے کرتا ہوا چلا۔ جب افغان اُسپر شبخون مارتے تو نقصان اُٹھاتے۔ کوکہ نے قلعہ چنکاری کا محاصرہ کیا غزہ آبان کو جنگ عظیم سے اُسے فتح کرلیا۔

زین خاں قلعہ چنکاری کو فتح کرکے قلعہ فتح آباد میں کہ بجور میں اس نے بنایا تھا آیا مبارک خاں وجلال خاں اور کچھ سپاہ کو سواد کے دیدبانی کے لئے بھیجا۔ انہیں دنوں میں زین خاں کو آنروے سندھ سے ہندوکوہ تک کی نگہبانی سپرد ہوئی۔ وہ روشنائی افغانوں کی بیخ کنی کے درپے ہوا۔ تیراہ کی طرف متوجہ ہوا۔ قاسم خاں جلال آباد کے قریب جریدہ آیا۔ بزم یکجہتی میں یہ قرار پایا کہ وہ راہ بازارک سے کہسار میں جاوے اور لشکر بنگش اُسطرف سے کولہ ایحم گذر سے اس سگالش کے لئے کابل کو ہ الکیائی کے قریب آصف خاں بنگش سے آیا اور ہمراہ ہوا۔ بکرام میں خواجہ شمس الدین اور اور اُمرا جو بادشاہ کی اجازت نے آئے تھے ملے۔ کوکہ نے اس گذر میں اپنا بنگاہ بنایا۔ قاسم خاں کابل کی سپاہ لیکر راہ بازارک سے تیراہ میں آیا۔ آفریدی کے سرداروں میں سے ماران تھا وہ لڑائی میں مارا گیا۔ باوجودیکہ اور سپاہ ہنوز نہیں آئی تھی کہ الوس آفریدی اور اورک زئی نے لابہ گری اختیار کی اور فرمان پذیری قبول کرکے چنداول آئے۔ جلالہ تیراہ کو چھوڑکر کافروں کی ولایت کیطرف چلا جن دنوں میں کوکہ نے قلعہ چنکاری فتح کیا تھا۔ وحدت علی جلالہ کے خویش نے یوسف زئی کی مدد سے قلعہ کنشان اور کچھ حصہ کافروں کی ولایت کا فتح کرلیا تھا۔ کوکہ قاسم خاں کو جلال آباد میں اور محمد قلی اور حمزہ بیگ اتالیق کو بکرام میں چھوڑا اور خود آصف خاں اور شمس الدین وسعید خاں گکھر وتختہ بیگ کو لیکر جلالہ کی طرف گیا۔ پہلے اس سے کہ جلالہ آب کابل سے گذرے لشکر شاہی نے اس کا رستہ بند کردیا۔ ناکام وہ کہسار تیراہ کی

جشن [illegible] ۱۰۰۱

طرف پھرا۔ بعض کی رائے تھی کہ اسکی تلاش میں کوشش کیجائے۔ کوکلتاش نے کہا کہ تیراہ کے زمینداروں
نے فرمان پذیری اختیار کی ہے۔ یہاں اسکو جگہ نہیں ملیگی۔ اب وحدت علی کو پامال کرنا چاہیئے پہلے
اس سے کہ وہ اس کھسار دشوار گذار کو استوار کرے۔ بآسانی اُس سے الفراغ حاصل کرنا چاہیئے یہ بات
سب کو دلپسند ہوئی۔ پرتال کو چھوڑ کر کافر بوم میں شاہزادی راہ سے آئے اور موضع کندی
کنبار میں دریای بجور کا پل باندھکر اترے۔ یہ دریا بہت گز چوڑا اور بہت گہرا اور تند تھا خواجہ شمس الدین
کو اس پل کی پاسبانی اور راہ کی ایمنی سپرد کر کے سترہ منزلیں نشیب و فراز میں طے کر کے کنل ......
بزرگ پر غنیم سے آٹھ کوس پر پہنچے۔ اُس نے قلعہ کنشان کو استوار کیا۔ آدھے رستہ میں ایسی تنگی و ناہمواری
تھی کہ سوار دشواری سے گذرتا اور آدھی راہ تیغہ تھی اور وہاں جگہ دشمنوں نے سنگ چین بنائے تھے اور
وہاں سے لڑتے تھے۔ خداداد کوکہ چند آدمیوں کو ساتھ لیکر منزل گاہ کی تلاش میں اگا تختہ بیگ
سعید خاں۔ حیدر علی عرب ہراول بنا کے آگے بھیجے کہ کسی عمدہ جگہ کو لیکر بیٹھیں ور لڑائی نہ لڑیں
افغانوں نے اُنکے سر پر ہجوم کیا ناچار لڑنا پڑا انہوں نے غنیم کو چار بار بہت ہٹا دیا۔ کوکہ اپنے چند ہمراہیوں
کے ساتھ اُنسے جا ملا جنسے ہراول کو تقویت ہوئی۔ وہ بہت جگہ بدل چکے تھے۔ تختہ بیگ وحیدر علی عرب و
سعید خاں لڑ رہے تھے۔ کوکلتاش کے پہنچنے سے ازسر نو جانفشانی و جانستانی کرتے لگے
جوان مرد پیچھے آگے تھے اور لڑتے تھے۔ آصف خاں ایک تنگ جگہ میں تین پہر تک برچھے و
جمدھر کی لڑائی لڑا۔ وحدت علی تیغہ سے نہ نکل سکا۔ سب آدمیوں کے ساتھ بڑے نشیب میں
گیا۔ دشمن شکست کھا کر پراگندہ ہوا اور قلعہ کنشان اور بہت آباد جگہیں بادشاہی لشکر
کے ہاتھ آئیں۔ سر گرپوہ بزرگ میں پہنچکر نیچے اُترنے لگے۔ یہ کھسار مرزبان کاشغر کا داروغہ نشین
تھا۔ سارے سال برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ تیز دستوں نے وہاں جاکر بہت سے
مرد و زن گرفتار کئے۔ بہت سے کافروں کے سردار ملک سپاس گذار ہوئے۔ اور افغانوں
کی ناکامی میں انہوں نے کوشش کی۔ کچھ افغان چغان سرا کی طرف بدخشاں رو بہ چلے گئے
کہ دریای بجور سے گذر کر کافروں کی زمین میں جاکر پناہ لیں۔ پادشاہی لشکر نے

تیزدستی کرکے اُسطرف کاپُل توڑ دیا۔ ناگزیر یوسف زئی کے سرداروں حاتم۔ بابا علی۔ ہیدال شیخ
حسین نے قاسم خاں سے اُور بعض اور امیروں سے پناہ مانگی انسے ملے اور وحدت علی کو بھی
ناچار آنا پڑا۔ غنیم کے چار سو آدمی مارے گئے اور سات ہزار قید ہوئے۔ بادشاہ کی طرف سے تیس
آدمی مارے گئے اور ڈیڑھ سو زخمی ہوئے۔ کاشغر و بدخشاں تک ملک لے لیا۔ جب قاسم خاں نے
وفات پائی تو پھر روشنائی افغانوں نے سرتابی کی اُور خیبر کی راہ کو ناامین کیا۔ قلیچ خاں کو
زابلستان کے انتظام کے لئے اور اُن افغانوں کی مالش کے لئے روانہ کیا۔ مبارک خاں جلال
خاں۔ شیر خاں۔ نظر خاں میر عبدالرزاق کو پیچھے روانہ کیا۔ قلیچ خاں نے کابل کا انتظام کیا
تیراہ کی راہ لی۔ بازارک کے دشوار گذار پہاڑوںمیں سے اس سرزمین کے نزدیک آیا۔ آفریدی کے
سواروں نے اس سے ملکر ہوا خواہی کے پیمانوں کو تازہ کیا اور اُنہوں نے کہا کہ ساری کھیتی پامال ہو گئی ہے
اسلئے سپاہ کو پھر جانا چاہیئے۔ قلیچ خاں نے اس جھوٹی بات کو یقین کرلیا اور بگرام میں چلا آیا۔ ایلم گذر سے
اس ملک میں جانا چاہا۔ مگر گریوں کی سختی کے سبب سے نہ جاسکا یہاں سے کوہت کو روانہ ہوا کہ اسطرف
سے کارکشائی کرے مگر راہ کی دشواری نے اُسے جانے نہیں دیا پھر اُسنے بنگش جانیکا ارادہ کیا
فربا میں آیا۔ کچھ لڑائی ہوئی بعد فتح کے اُسنے قلعہ یہاں بنایا۔ روشنائی افغانوں نے راہ کو
شاخ بند کیا اور لڑنے پر تیار ہوئے۔ مگر زمینداروں نے لشکر شاہی کو ایک پوشیدہ
راہ بتائی سپہ آرانے یہاں کچھ سپاہ چھوڑ کر وہ راہ لی۔

ساری رات اور دن کو دوپہر تک سوار اور پیادے سخت گذار پہاڑوں پر گذر کر اُس سرزمین
پر پُہنچے جلالہ نے مطلع ہوکر اس راہ کے بند کرنے میں تگاپو کی مگر وہ وہاں نہ پہنچ سکا۔ ناکام
بے جنگ سخت تنگناؤں میں چلا گیا اور شاخ بند کو ویران کرکے لشکر و بہتال اسی راہ سے آیا
اور راہ کی ناامینی اور آذوق کی کمی سے لشکر شاہی تنگ روزی ہوا۔ تختہ بیگ اور میر عبدالرزاق
معموری آذوق کو بگرم سے لانے کے لئے روانہ ہوئے۔ سویم خرداد کو آہن پوش کہ تیراہ کے
وسط میں سخت جاہی لشکر گاہ ہوا۔ جن آدمیوں کو آذوق کے لیئے بھیجا تھا اُن کو آنے میں

روانگی لشکر کی تیراہ میں سنہ ۱۰۰۰

دیر لگی تو لشکر کابل میں چلا آیا۔ بادشاہ کو اسطرح سوسو پھرنا اور کابل میں آنا پسند نہ آیا۔

غزنیں میں لوس لوحانی خرید وفروخت کے لئے آتے تھے۔ ہزارہ انکی گھات میں بیٹھے اور انپر تاخت کی وہ مستقل ہوکر سات روز تک لڑے انہوں نے جلالہ سے مدد مانگی وہ تاجرونکے طور پر غزنیں میں آیا۔ شریف خاں اور رعیت اُس سے کچھ لڑی اُسنے انسے نقارہ لیا اور وہ غزنیں کا مالک ہوگیا۔ خرید کے بہانہ سے بہت سا اسباب جمع کیا اُسنے چاہا کہ اس مال کو بنگاہ میں لیجائے۔ شادمان ہزارہ اُس سے لڑا اور شکست دی وہ زخمی ہوکر کوہ رباط میں گیا۔ مراد بیگ نے پہنچکر اُسکا کام تمام کیا۔ یہ کام کیا آسانی سے انجام پایا ہے کہ لشکر شاہی مدتوں سکے پیچھے پڑا پھرا۔ زین خاں کوکہ اس سے کئی سال تک لڑتا رہا۔ مگر جلالہ کا جلال ادنیٰ آدمیونکے ہاتھ سے خاک میں ملگیا۔

جلالہ روشنائی کا مرنا ۱۰۰۲ھ

الفنسٹن صاحب کہتے ہیں کہ ابوالفضل کو ضرور ان مہمات کا اصل حال ذرا ذرا معلوم ہوگا۔ مگر اس اندیشۂ عظیم میں کہ لشکر اکبری کی شکست کی ذلت کو جہانتک ہوسکے کم اور نرم کرے اور کوئی بات ایسی نہ لکھوں کہ راجہ بیربر پر کوئی الزام عائد ہو اسنے ان مہمات کا حال پراگندہ اور متناقص لکھا ہی اور مینے مجبور ہوکر اسکے نقصونکو منتخب التاریخ سے صحیح کرکے دراز کیا ہی۔ جو نقص مینے ابوالفضل کے بیان میں پاے انکو میں بیان کرتا ہوں کہ گو اسنے پادشاہی سپاہ کی شکست اور بربادی کے بیان کو فصاحت سے لکھا ہی مگر وہ لکھتا ہی کہ بادشاہی سپاہ کے آدمی پانچسو مارگئے۔ خافی خاں نے بھی ایسی ہی غلطی کی کہ لکھا ہی کہ چالیس پچاس ہزار آدمی مارگیئے اور ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ یہ شکست سوات کے پہاڑوں میں ہوئی اور جن دروں میں واقع ہوئی انکا نام کردیا کراکرہ اور بلندری لکھا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ان لڑائیوں کا بیان جو ابوالفضل نے لکھا ہے وہ اسکی خوشامد گوئی اور مختلف بیانی کا عجیب و غریب نمونہ ہے۔ بیربر کی شکست کے بعد ایکسال کے اندر وہ لکھتا ہی کہ کوہستان سرکشونکے خس و خاشاک سے پاک و صاف ہوگیا۔ بہت سے ان میں مارگیئے اور بہت سے ان میں ایران و توران (ایران و تاتارستان) میں پناہ گزیں ہوئی اور اسطرح سے باجور اور سواد

الفنسٹن صاحب کا بیان ان مہمات کی نسبت

ان شریر گمراہوں سے خالی ہوا۔ یہ ملک اپنے میووں کی کثرت اور آب ہوا اور زرخیزی میں دنیا میں کمتر اپنی نظیر رکھتے ہیں۔ مگر باوصف اسکے کہ اس بیان سے لڑائی کا تمام ہونا۔ صاف صاف معلوم ہوتا ہے اور اسکے بعد مختلف واقعات اس لڑائی کے اُسنے اپنی تاریخ میں پندرہ سال کے اندر بیان کئے ہیں جسکے بعد اسکی تاریخ کا خاتمہ ہوگیا وہ پنجاب میں اکبر کے چودہ برس تک پھرنیکے وجوہ میں بیان کرتا ہے کہ وہ ایک زمانہ میں تاریک (روشنائی افغان) کے مغلوب کرنے میں اور دوسرے زمانہ میں شمالی پہاڑوں کے باشندوں کے دبانے میں معروف رہا۔

الفنسٹن صاحب نے یہ نتیجہ فقط اکبرنامہ کے شامر کے انگریزی ترجمہ کو پڑھکر نکالا۔ اکبرنامہ میں اصل عبارت یہ لکھی ہے۔ ان کوہستان از بنیان تھی شدن بدانش زمانیان ہمدوش محال بود۔ در کمتر زمانے گزیں رفت ورو بے یافت جمعے انبوہ رانقد زندگی بتاراج رفت۔

و بسیارے را در توران و ایران فروختند و ملک سواد و بجور و بشیر کہ از روے آب و ہوا و میوہ و ارزانی مانند آں کمتر نشان دہند ازیں بدکاران پاک شد۔ اس عبارت سے اور اسکے اول جو اور عبارت ہے اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا جو الفنسٹن صاحب نے نکالا ہے۔ بادشاہ کے ارادہ کو بیان کرتا ہے کہ اسکے سبب یہ نتیجہ تھوڑے عرصہ میں ظہور میں آیا اور اُسکا آگے بیان بقیہ تاریخ ٹکڑے ٹکڑے کرکے بیان کرتا ہے۔ اسکے بیان میں نہ تناقض ہے نہ خوشامد سے زین خاں کی شکست میں کل پانسو آدمیوں کا مارا جانا لکھا ہے اور طبقات اکبری میں آٹھ ہزار لکھا ہے۔ لڑائیوں میں میدان جنگ کے مردوں کی لاشوں کو گن کر کون ان کی صحیح تعداد لکھتا ہے۔ تاریخوں میں اس تعداد میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں بھی مہذب قوموں کی جنگ و پیکار میں یہ تعداد صحیح نہیں لکھی جاتی

معاملات بدخشاں و توران و خراسان

جب مرزا محمد حکیم کابل میں ۱۲ شعبان سنہ ۹۹۳ھ مطابق ۲ جولائی سنہ ۱۵۸۵ء کو اس جہان سے رخصت ہوا تو توران کے ساتھ اسکی مفسدانہ سازشوں کی دھمکیوں کا غل شور رہا۔ حکیم نے

عبد اللہ خاں والی توران کا حال

اُزبکوں کی پناہ میں جانیکا ارادہ کیا تھا تو اکبر کو یہ خوف پیدا ہوا تھا کہ اگر مرزا عبد اللہ خاں والئی توران سے جا ملا تو معاملات میں بہت دشواریاں پیش آئینگی اُزبکوں کو خاندان تیموریہ کے ساتھ موروثی دشمنی تھی۔ انکا پادشاہ عبد اللہ خاں جو اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ گیا تھا کہ وہ شہنشاہ اکبر کا ہم پلہ معلوم ہوتا تھا اسکا حال یہ ہے کہ قاآن بزرگ چنگیز خاں کی سولہویں پیڑی میں وہ پیدا ہوا تھا جسکا سلسلہ یہ ہے کہ عبد اللہ خاں بن سکندر خاں بن جانی بیگ بن محمد سلطان بن ابوالخیر خاں بن شیخ دولت اغلان بن ابراہیم بن پولاد بن سورانچہ سلطان بن محمود خواجہ خاں بن قاآن بابی بن رابل باک بن نیکا تیمور بن باداقل بن جوجی بوقا بن شیبان بن جوجی بن چنگیز خاں قاآن سے جوجی پہلے مرگیا تھا۔ اسکی نسل سے کوئی بڑا فرمان روا نہ ہوا۔ لیکن بعض اسکے خاندان میں سے دشت قبچاق میں سرفراز ہوئے انمیں سے ابوالخیر کچھ بلند پایہ اس وجہ سے ہوا کہ سلطان ابوسعید مرزا نے اسکی یاوری سے مرزا عبد اللہ سے سمرقند چھین لیا تھا جب وہ مرگیا تو الوس اوزبک میں بڑی پراگندگی ہوئی۔ سلطان احمد مرزا ابن سلطان ابوسعید مرزا کی پناہ میں شیبک خاں بن بداق خاں آیا تو کچھ زمانہ کی سختی اسپر کم ہوئی۔

جب سلطان ابوسعید مرزا کا زمانہ ختم ہوا تو توران میں سلطنت کے مدعی دانبار پیدا ہوئے سلطان حسین مرزا کے بعد شیبک خاں خراسان میں گیا اور اسکے فرزندوں سے لڑکر ملک لے لیا اور مرو کے قریب شاہ اسمٰعیل صفوی سے لڑکر بہت آدمیوں سمیت مارا گیا۔ ماوراءالنہر کی مرزبانی کوچک بخی بن ابوالخیر خاں (جو کوچم خاں مشہور ہے) کو ہاتھ آئی۔ جب وہ مہمان خانہ عدم کو تشریف لے گیا تو اسکا بیٹا ابوسعید خاں جانشین ہوا۔ اسکے بعد عبد اللہ خاں بن محمد خاں بن بداق خاں بن ابوالخیر فرمان روا ہوا۔ توران کچھ آباد ہوا۔ اسکے دو بیٹے عبد العزیز خاں و محمد رحیم خاں تھے لیکن عبید خاں بن کوچم خاں کو مرزبانی ملی۔ اسکے بعد عبد اللطیف خاں اسکا بھائی مسند آرا ہوا۔ جب اسکا کام انجام کو پہنچا تو براق خاں بن سونجک خاں بن ابوالخیر خاں فرمان روا ہوا۔ ترکستان و ماوراءالنہر و کچھ خراسان پر غالب ہوا۔

جب گردشِ آسمانی اُسکے سر پر بھی ختم ہوئی تو ملوک طوائف ہو گئی اسکے بیٹے دروش خاں و بابان ترکستان
میں حکومت کرتے تھے ۔ عبداللہ خاں کا پوتا برہان بخارا میں ۔ سلطان سعید خاں بن ابو سعید خاں
بن کوچم خاں سمرقند میں پیر محمد خاں بن جانی بیگ خاں بلخ میں حکمران تھا ۔ عبداللہ خاں اسکی
فرمان پذیری میں اوقات بسر کرتا تھا ۔ وہ اپنی آگہی و مردانگی سے سب اپنے بھائی بندوں پر غالب
ہوا ۔ اُسنے پیر محمد خاں سے کہا کہ اس الوس میں میرے باپ سے کوئی بڑا بوڑھا نہیں ہے ۔ بزرگوں کے
آئین کے موافق خطبہ و سکہ اسکے نام پر جاری ہو اسنے ناگزیر قبول کرلیا ۔ یوں کچھ دنوں سکندر خاں
برائے نام پادشاہ رہا مگر فرمانروائی اُسکا بیٹا عبداللہ خاں کرتا رہا ۔ بعد سکندر کے عبداللہ خاں
کے نام سکہ و خطبہ جاری کیا ۔ سنہ ۹۱۶ھ میں جو مروین لڑائی ہوئی تھی تو قوم اوزبک کی فرمانروائی
متفرق ہو گئی تھی ۔ کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ وہ ساری قوم کا سردار ہوتا ۔ یہ کام سلطنت اکبری میں
سکندر خاں کے بیٹے اور ابو الخیر کے پوتے عبداللہ خاں ہی کے لئے امانت رکھا تھا کہ ازبکوں کے
سب سرداروں کا سردار اور فرمانرواؤں کا فرمانروا ہوگا ۔ عبداللہ خاں سنہ ۹۴۰ھ میں پیدا ہوا اور
اسکے ورثہ میں نہایت چھوٹی سی ریاست قرمینیہ آئی ۔ اول اُسنے اپنی بہادری سے اس ریاست کو بڑھایا
چوبیس برس کی عمر میں اور سنہ ۹۶۹ھ میں اُسنے اپنے باپ سکندر خاں کو بلا کر ساری قوم اوزبک
کا خاقان بنا کے اشتہار دیدیا ۔ سکندر خاں گو خاقان تھا مگر سلطنت کا مدار عبداللہ خاں
ہی پر تھا وہی مختار تھا اور سب قوم کا کاربرآر ۔ اسنے اپنے باپ کی زندگی میں سمرقند ۔ تاشقند
ترکستان ۔ فرغانہ ۔ اندجان ۔ فتح کر لئے ۔ سکندر کی وفات کے بعد عبداللہ خاں کل قوم وزبک
کا خاقان ہو گیا ۔ اوزبکوں کی جو متفرق ریاستیں تھیں سب اسکے ہاتھ میں آنکر ایک ہو گئیں اب
عبداللہ خاں نے خراسان کا حصہ عظیم اور خوارزم مع بدخشاں کے فتح کرلیا ۔ ان فتوحات
میں اسکا بیٹا ابو المومن بھی شریک تھا ۔ گو وہ ظالم تھا مگر بہادر بڑا تھا ۔ شہنشاہ اکبر اور عبداللہ خاں
کے اصول سلطنت گو متضاد تھے مگر یہ اولوالعزمی اور بلند نظری دونوں میں متحد تھی کہ پاس کی
ملکوں کو فتح کیجیے ۔ اور اپنی ایک سلطنت عظیم الشان بنائیے اور جنگی قوت میں سب سے فوقیت لیجائیے

هر ایک کی قلمرو میں مختلف مذہب کے آدمی رہتے تھے - توران میں سب مسلمان رہتے تھے مگر انکے فرقے جدا جدا تھے
ہندوستان میں مسلمانونکے مذہب کے بالکل مخالف ہندو آباد تھے - اکبر نے تو ایک دین الہی بنایا کہ سب اُسکو اختیار
کرکے ایک ہو جائیں اور اختلاف مذہب باقی نہ رہے - عبداللہ خاں نے اپنی قوت سے شیعوں کو ایسا دبادیا
کہ اختلاف مذہب کی قوت انہیں نہ رہی اکبر کے اختیار سے باہر تھا کہ وہ اس طرح سب کو ہم مذہب بناتا
اسلئے اپنی مردمی اور انسانیت سے یہ ارادہ ہی ترک کردیا - اکبر خوب جانتا تھا کہ بنگال میں اور ساری
اسکی سلطنت میں بڑے بڑے سردار اور امرا اکبار رہتے ہیں جو اپنے مذہب سنت جماعت کے بڑے پابند
وحامی ہیں اگر عبداللہ خاں کوہستان بدخشاں سے خیبر کے درہ میں ہوکر پنجاب پر حملہ آور ہو تو یہ
سب اُمرا اُسکے ساتھ بڑی خوشی سے ہوجائینگے اسلئے شہنشاہ اکبر اپنا بڑا فرض یہ سمجھتا تھا کہ کابلستان
میں تورانیونکی راہ کو روکے اسلئے وہ بدخشاں کے معاملات میں بہت دخل دیتا تھا -

بعض حوادث بدخشاں

خرم بیگم سلطان کولابی کی بیٹی اور گروہ قبچاق میں سے تھی - سلطان محمود مرزا نے اُسے تربیت کیا اور
مرزا سلیمان سے اُسکا عقد نکاح ہوگیا - ملک کے سرانجام میں اور سپاہ کے انتظام میں اسکی کارروائی ظہور
میں آئی اور اُسکا استیلا اسدرجہ پر پہنچا کہ مرزا سلیمان جن سیاستوں کو خود نہیں کرسکتا تھا وہ اُسکو حوالہ کرتا
ایک اور بیگم خانم تھی جسکا نام محترم خانم تھا وہ سلطان شاہ محمد کاشغری کی بیٹی تھی - مرزا کامران نے اُسکا
نکاح ہوا تھا وہ بیوہ ہوکر جب کابل سے کاشغر جاتی تھی کہ راہ میں بدخشاں میں آئی - مرزا سلیمان سے
نکاح کی خواستگار ہوئی اسلئے خرم بیگم کے دل میں اُس سے کینہ پیدا ہوا اُسنے اُستادی کرکے
اپنے بیٹے مرزا ابراہیم سے اسکا نکاح کرایا جس سے مرزا شاہرخ پیدا ہوا - ہمیشہ ان دونوں میں
آپسمیں کٹا چھنی رہتی تھی جسکے بعض نتائج آگے بیان ہوتے ہیں -

بدخشاں کا سلسلہ انتظام کے ٹوٹنے کے وقائع یہ ہیں کہ خرم بیگم پر ایک گروہ نے یہ
افترا باندھا کہ وہ اپنے دوستدار سپاہی حیدر بیگ سے گرفتار رہے - مرزا
ابراہیم نے جوانی کی مستی میں محض بدگویوں کی بیہودہ باتوں میں آکر اس بے گناہ

بیہودہ باتوں میں آنکر اس بیگناہ کو مارڈالا جسکی ندامت اُسکو عمر بھر رہی اسوجہ سے بیگم بدخشیوں کی دشمن ہوگئی اور بے تدبیری اور قدر نشناسی سے اسنے مارا کو جو کارگاہ تعلق کی اساس ہی بالکل چھوڑ دیا سیاست میں زمان و مکان و محل و مقدار پر نظر رکھنا ترک کیا۔ اعیان مملکت کے برباد کرنے میں کوشش کرنے لگے۔ جب بلخ کی لڑائی میں مرزا ابراہیم مارا گیا تو اُس نے کل بدخشیوں کے ساتھ عداوت پر کمر باندھی۔ دشمنی خصوص عموم ہوگئی۔ خانم پر زبان طعن دراز کرتی اور اُسکے قدم کو شوم کہتی۔ بارہا اُسکو طعنے دیتی طنز کرتی کہ تو دستہ چلتی تھی تیرے ساتھ نیکی کرکے میں نے تربیت کیا معلوم نہ تھا کہ تو ایسی بس کی خاصیت رکھتی ہے۔ اسکو خیال تھا کہ اسطرح کے طعن و طنز سے عاجز ہو کر اپنے میکے میں کاشغر چلی جائیگی اور میں شاہرخ کو اپنی آغوش عاطفت میں پرورش کرونگی۔ خانم کو مرزا شاہرخ کی جُدائی کا خیال ایسا تھا کہ وہ ان جانکاہ طعنوں پر ذرا خیال نہ کرتی اور انتقام کی گھات میں لگی رہتی۔ اس نفاق پر یہ اور اضافہ ہوا کہ مرزا ابراہیم کی مراسم تعزیت ادا کرنیکے لئے چوچک خانم کو بیچ عبدالرشید خان کاشغر مع اپنے دو بیٹوں صوفی سلطان و ابو سعید کے ساتھ آئی۔ پُرسہ دینے کے بعد اُسنے خرم بیگم کا لباس ماتمی اُتروایا۔ مگر مجلس تمام ہونیکے بعد اُس نے پھر اپنا لباس ماتم پہن لیا جس سے چوچک بیگم آزردہ ہوئی اور اُسکو بُرا بھلا کہا قرابت قریبہ کے سبب سے خانم کی معاونت پر وہ دل نہاد ہوئی۔ خرم بیگم کو سمجھایا کہ جہانتک ہو سکے بہو کی خاطر داری کیا کرو اور تورہ (آئین) سے باہر کام مت کیا کرو۔

اب ایک اور گل کھلا کہ مرزا شاہرخ کے اتالیق میر نظمی اور اعیان بدخشاں کی جمع کثیر اور شیخ والی نے جسنے حرص اندوزی اور حیلہ سازی سے لباس درویشی کو بھیک کا بہانہ بنا رکھا تھا۔ صوفی سلطان پسر چوچک خانم کو بزرگ بنایا اور درویش مذکور کی خانقاہ میں یہ سب ہم قسم ہوئے کہ خرم بیگ کو مار ڈالیے اور مرزا سلیمان کو ایک گوشہ میں بٹھا دیجئے اس اثنا میں اس ہنگامہ شورش کے مجرموں میں سے ایک نے مرزا کو حقیقت حال پر اطلاع دی۔ مرزا کاشغریوں کی شورش مٹانیکے لئے پیکار کا سامان کرنے لگا۔ خانم کو اس سانحہ سے نہایت خجالت و ندامت

بدخشاں کی اور پریشانیاں ۹۸۵ھ

ہوئی ۔ اصل حال جب مرزا سلیمان کو معلوم ہوا تو کاشغریوں سے رنجش مٹ گئی اور خرم بیگم نے چوچک بیگم کے بیٹے سے اپنی بڑی بیٹی بیاہ دی اور رستاق جہیز میں دیا ۔ مرزا نے فتنہ اندوزوں کی تادیب کی اور درویش کو مع اُسکے گروہ کے تشہیر کرکے اپنے ملک سے نکالدیا ۔

بدخشاں میں یہ ایک اور پریشانی ہوئی کہ خرم بیگم نے ندیم قیوزی کو کولاب کی حکومت دی جس سے اُسمیں ایک شورش برپا ہوئی کولاب کے لشکر کو یہ ناگوار ہوا ۔ اُنہوں نے ندیم کو مار ڈالا ۔ خرم بیگم مرزا شاہرخ کو لیکر کولاب پر دوڑی مگر ناکام جلد اُلٹی چلی آئی اور مرزا شاہرخ کو چھوڑ آئی ۔ زمانہ کی گردش سے بیگم نہایت سراسیمہ تھی کہ مرزا شاہرخ آن کر اسکا غمزدہ ہوا ۔ بیگم نے کہا کہ میرے شوہر نے تیرے باپ کو غنیم میں چھوڑ کر جلدی کی تھی ۔ میں نے نادانی سے تجھے دشمنوں میں چھوڑ کر جلدی کی میرا قصور خدا معاف کرے ۔ تھوڑے دنوں میں کولاب کا فساد مرزا نے مٹا دیا مگر ایک اور بدخشاں میں پراگندگی پیدا ہوئی کہ کابل سے مرزا سلیمان کے نوکر خستہ حال ہوکر واپس آئے جسکا ذکر مرزا محمد حکیم کے حال میں ہم کرچکے ہیں ۔ مرزا سلیمان کابل میں آیا ۔ یہاں کچھ کام نہ بنا تو ناکام الٹا گیا کچھ اپنے اعیان دولت میں ایسا تغیر و تبدل کیا اُنہوں نے مرزا سے برگشتہ ہوکر مرزا شاہرخ کو جو سات برس کا تھا اور خانم کو اپنا سردار بنایا اور اس گروہ نے یہ ارادہ کیا کہ مرزا ابراہیم پاس جو ولایت تھی وہ مرزا شاہرخ کو ملجائے کہ اُن کے لئے ایک اور دوکان کھلجائے اور وہ بدذاتوں کی لاذبن جائے ۔ چالیس روز تک یہ فساد برپا رہا کہ داداکی پاس مرزا شاہرخ آگیا ۔ شاہ طیب کہ خرم بیگم سے قرابت قریبہ رکھتا تھا اُسکا اتالیق مقرر ہوا ۔

مرزا شاہرخ کو فتنہ اندوزوں کا دستاویز شورش بنانا ۹۸۳ھ

مرزا سلیمان نے کچھ ایسی حرکات کیں کہ خیرہ چشم فتنہ اندوزوں نے مرزا شاہرخ کو پھر دستاویز شورش بنایا ۔ اسکا مجمل بیان یہ ہے کہ ممالک توران کا فرمانروا عبداللہ خاں تسخیر حصار میں مشغول ہوا حصاریوں نے مرزا سلیمان سے استمداد اور استعانت چاہی ۔ مرزا بدخشاں کے لشکر کو لیکر اسطرف گیا یہاں یہ گل کھلا کہ مفسدوں نے مرزا شاہرخ اور خانم کو اپنی طرف کرکے ملا طیب کے ایک ہراول مرزا شاہرخ کے ہاتھ سے لگوایا ۔ اور پھر چھوٹوں سے

اُسکا کام تمام کیا۔ جب مرزا سلیمان کو اس شورش کی خبر ہوئی تو وہ اسطرف آیا کہ فساد کو مٹائے
خانم مرزا شاہرخ کو جو پندرہ برس کا تھا ساتھ لیکر ہندوکوہ کو چلی۔ خانم کو شہنشاہ اکبر کی خدمت
میں ہمیشہ سے عقیدت تھی۔ اسکا ارادہ ہوا کہ عاطفت شہنشاہی سے استظہار طلب کرے
مگر جب وہ ہندوکوہ کے حوالی میں آئے تو ایماق جوق جوق اس پاس آئے۔ اور محمد قلی جو باغیونکا
سرغنہ تھا اسے ملا۔ مرزا شاہرخ نے مراجعت کی اور تھوڑی سعی سے اندراب کو تصرف میں لایا
اور وہاں سے کمہرد کو روانہ ہوا۔ یہاں خانم کو چھوڑکر خود غوری میں گیا۔ سلطان مرزا کے خویش
سلطان ابراہیم نے غوری کو مستحکم کیا۔ ہرچند اسکے بیٹے کو اُسکے روبرو لاکر کہا کہ اگر قلعہ نہ سپرد کریگا تو تیرا
یہ جگر گوشہ ہلاک کیا جائیگا۔ مگر اسنے یہ جواب دیا کہ جو کوئی آبروی حقیقت و وفا کو آپ گرائے اسکا
مرنا ہی بہتر ہے۔ اُسنے اس قلعہ کی حراست میں سعی کی اور مرزا سلیمان بھی ان حدود کیطرف آتا
تھا کہ خرم بیگم کا انتقال ہوا اُسنے کشم میں جاکر مراسم تعزیت کو ادا کیا اور پھر غوری کیطرف متوجہ ہوا غوری
میں شاہرخ مرزا سے کسی کام کا سرانجام نہ ہوا اندراب میں آیا۔ مرزا سلیمان نے ہندوکوہ کی طرف
کوچ کیا کہ پوتے کے مال و اسباب پر تصرف کرکے اسکی جمعیت کو پراگندہ کرے دادا اور پوتے میں لڑائی
ہوئی۔ پوتے کو شکست ہوئی۔ اسکی جمعیت پراگندہ ہوئی پھر دادا اور پوتو نمیں صلح ہوئی۔ دادا نے مہربانی
کرکے پوتے کو اسکے باپ مرزا ابراہیم کی ولایت دیدی۔ چند روز اسیر گذرے تھے کہ بدذاتوں نے
شاہرخ کو سمجھایا کہ کولاب سپاہ خیز ہے اور مضبوط جگہ ہی۔ مرزا سلیمان چاہتا ہی کہ اسکو مستحکم کری اگر وہ
اس سے پہلے لیجائے تو مناسب معلوم ہوتا ہی۔ مرزا شاہرخ ان باتونکو سنکر طالقان کو روانہ ہوا۔ یہاں اس
پاس مرزا سلیمان کو چھوڑکر بہت آدمی چلے آئے اور اس سادہ لوح کو بہکانے لگے۔ مگر مرزا
ان کی باتوں میں نہ آیا اسنے دادا سے ملازمت کی استدعا کی۔ دادا نے جواب دیا کہ پہلے خانم
کو بھیجو کہ میری تسکین خاطر کرے اور پھر آنکر میری آنکھوں کو روشن کرو۔ مرزا نے یہی
کیا۔ کچھ دنوں طالقان میں یہ سب رہے اور آپس میں عہد و پیمان ہوئے کہ شاہرخ مرزا دادا کی
رضاجوئی سے کبھی باہر نہ ہوگا۔ بعد ازاں مرزا سلیمان نے اپنے حج کا ارادہ ظاہر کیا

مرزا شاہرخ نے اسکو اعزاز و احترام و مال و منال کیساتھ رخصت کیا۔ اول مرزا سلیمان کابل میں اسلئے
آیا کہ اگر مرزا حکیم یاوری کرے تو مراجعت کرکے مرزا شاہرخ سے انتقام لے اور اگر کابل میں شورش
برپا کرسکے تو اسکو بدخشاں لینے کا ذریعہ بنائے۔ نہیں تو شہنشاہ اکبر کی خدمت میں جائے۔ جب
مرزا حکیم کو مرزا سلیمان کے یہ ارادے معلوم ہوئے تو اُسنے مرزا سلیمان کو ہندوستان میں اسنے قدم
رکھا تھا حد سے زیادہ اسکی تعظیم و تکریم کی شہنشاہ نے ارادہ کیا تھا کہ اسکو بنگالہ کی حکومت عنایت کرے
کہ باقی ایام زندگانی اس کی شادمانی سے بسر ہوں مگر بنگستان موطن کی موانست اور مرزا
شاہرخ کی کینہ کشی کی باد تند نے اسکی فکرت و تدبیر کے چراغ کو گل کردیا تھا۔ پوتے سے جو
گرہ دل میں پڑی تھی وہ نہ کھلتی تھی وہ اس بنگالہ کے عطیہ سے خوش نہ ہوا اسوقت شہنشاہ
مہمات شرقیہ میں مصروف تھا اسلئے اسکی آرزو کی برآمد میں التوا ہوا۔ اسنے بادشاہ سے حجاز
جانے کی اجازت مانگی۔ بادشاہ نے اسے منظور کرکے قلیج خاں کی ہمراہ کیا کہ دشوار مقاموں
سے اُسے باہر کرکے بنادر گجرات میں پہنچاوے۔ چند سالہ زادراہ اسکے ساتھ کیا شائستہ
جہاز اُسکے واسطے مقرر کیا اور قلیج خاں نے اُسے بندر سورت میں پہنچادیا وہ حجاز کو روانہ ہوا۔
مرزا شاہرخ کی والدہ خانم ہمیشہ سے شہنشاہ اکبر سے عقیدت رکھتی تھی۔ اسکو خوف
ہوا کہ معلوم نہیں کہ شہنشاہ سے مرزا سلیمان میری طرف سے کیا لگاوے اور اپنی
سرگذشت کو کس طرح بیان کرے کہ جس سے شاہرخ مرزا کی آسایش زندگی و عزت میں خلل
پڑے اور میں کسی عذاب میں پھنسوں اسلئے پادشاہ کی خدمت بڑے بڑے نفیس تحفے اور اپنے
بیٹے کی عرائض اوائل امرداد الہی میں عبدالرحمن بیگ اور مرزا عاشق کے ہاتھ بھجوائیں خانم کے
دلمیں ہمیشہ سے یہ آرزو تھی کہ شاہرخ کی شادی شہنشاہ اکبر کی بیٹی سے ہوجائے۔ پادشاہ نے
اسکے عذرات کو قبول فرماکر نہایت نوازش فرمائی۔

ہمنے پہلے لکھا ہے کہ مرزا سلیمان حج کو گیا تھا۔ حقیقت شناس کاروان جانتے تھے کہ حج کا
بہانہ تھا اسکا یہ خیال تھا کہ اپنے تئیں کوہستان میں پہنچائے اور جمعیت کسی سے یا دستانسرائی

اسپر قبضہ کیجیے اور مرزا شاہرخ کی کینہ توزی میں عشرت اندوزی فرمایئے۔ یہی ہوا کہ طواف گاہ عرب سے عراق عجم میں آیا کہ فرمان فرمائے ایران سے اپنی خواہش میں کامروا ہو۔ اس زمانہ میں شاہ اسمعیل طہماسپ ایران کی مرزبانی میں جوش خروش کر رہا تھا اسنے مرزا کے عالی خاندان کا خیال کر کے بہت خاطر کی اور کچھ سپاہ ملک کے لئے نامزد کر کے جانے کی اجازت دی مگر مرزا کو ہرے میں شاہ اسمعیل کے پیمانۂ عمر کے لبریز ہونیکی خبر پہنچی جس سے اسکو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ قندھار میں آیا۔ مظفر حسین مرزا سے خویشی پیدا کی۔ یہاں بھی کچھ کام نہ چلا تو کابل میں آیا۔ مرزا حکیم نے اسکے ساتھ نہایت التفات اس سے کیا کہ اس کہن سال آزموں کار کی رہنمونی سے بنگش کی طرف سے جا کر ہندوستان میں فتنہ و آشوب اٹھائے۔ مرزا نے شکوہ شاہنشاہی بچشم عبرت سے دیکھی تھی اس نے مرزا حکیم کو اس تباہ اندیشی سے باز رکھا۔ اور بدخشاں کی شورش پیش نہاد خاطر کی ۲۴ ہم آبان الہی ۲۴ ۹۸۸ھ کو ابر کی شورش میں اور برف کی ریزش میں بدخشاں روانہ ہوا جہاں شاہرخ مرزا فرمان روا تھا وہ شہنشاہ دولت سے رشتہ مندی رکھتا تھا۔ جب اس سرگذشت کی خبر شہنشاہ کو ہوئی تو شاہرخ کی یاوری اسنے اپنے ذمہ لازمی جانی۔ سعید خاں راجہ بھگونت داس ومان سنگھ و مرزا یوسف خاں اور اور امرای پنجاب و ملتان کے نام فرمان جاری کئے کہ اس ملک میں جا کر شاہرخ کی دستگیری کریں۔ امرا فرمان کی کاربند ہو کر سامان سفر کی تیاری میں لگے کہ انکے پاس خبر آئی کہ دادا و پوتے میں صلح ہو گئی اور مرزبان کابل واپس آ گیا اسکا مجمل بیان یہ ہے کہ مرزاؤں میں تالقان کی حدود میں پیکار ہوئی۔ شاہرخ مرزا اگرچہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہا مگر بدگوہروں کی دوروئی سے اور خیر سگال یکجہتوں کی کوتہ اندیشی سے اور خود اپنی کم بینی اور نا آزموں کاری سے کوئی کام وہ نہ کر سکا۔ یار لوگوں نے یہ بات گھڑی کہ میر عماد جو اس ملک کے کار پردازوں کا سرآمد تھا وہ مرزا سلیمان سے ملگیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ زور گرم گرمی میں مرزا شاہرخ کو گرفتار کر کے اسکے حوالہ کرے اور جو اور صواب اندیش دولت خواہ تھے انکے اوپر بھی بہتان باندھے گئے اور بدخشیوں کا ایک گروہ مرزبان قدیم سمجھا کر ملگیا جس سے اور بدگمانی کا بازار گرم ہوا۔ ابھی کوئی اچھی لڑائی نہ ہوئی تھی کہ مرزا شاہرخ

قندوز کو بھاگ گیا۔ مرزا کی اس دیرانی سے زابلستان کا لشکر جو خوف و ہراس میں اندوہناک ہو رہا تھا انشاط اندوز ہوا اور مرزا کے تعاقب میں گیا۔ مرزا نے قندوز میں جا کر قلعہ کو مسخر کیا اور کولاب میں چلا گیا اور محمد قلی شغانی کو زندان میں سے نکال کر وکیل بنایا۔ مرزاؤن نے بیس روز تالقان کے حواشی میں توقف کیا جب ان کو شاہرخ مرزا کا حال تحقیق معلوم ہوا تو وہ قلعہ ظفر سے رستاق میں آئے محمد قلی کی حرف سرائی اور افسانہ طرازی سے مصالحت کی گفتگو درمیان آئی۔ ف مزیدون سے اُس نے ملک آشتی کا پیوند لگایا۔ دوراندیشی و حزم اندوزی سے مرزا شاہرخ سے مرزا سلیمان نے ملاقات نہین کی اور آرام طلب خیر سگالون کے معرفت تالقان سے ہندوکوہ تک جو مرزا ابراہیم کی اقطاع مین ملک تھا وہ مرزا سلیمان کے لیے مقرر ہوا۔ وہ اسکے آنے سے خرسند ہوکر کولاب مین آیا مرزا حکیم کابل کو گیا بدذات فتنہ سازون نے پھر مرزا سلیمان اور مرزا شاہرخ کے درمیان بگاڑ کرا دیا۔ یہ مرزا اپنی خوشامد پسندی و دوہمی پنے سے دوست و دشمن کو نہین پہچان سکتے تھے ملک داری نہ کرتے تھے آپس مین لڑتے تھے سپاہی ناخوش۔ رعیت مظلوم۔ ولایت خراب قلاع بے سامان جو شخص آسودگی کے زمانہ مین بینوائی کا خیال نہین رکھتا ہے جلد اس کو ناکامی ہوتی ہے۔ جو کوئی دلون کے پیوند کو خدا کی بڑی نعمت نہین گنتا وہ تھوڑے دنون مین زبان زدہ ہوتا ہے۔ باوجود ان عادتون کے وہ شہنشاہ اکبر سے اینٹھے رہتے تھے۔ نخوت فروشی و خود بینی مین زندگی بسر کرتے تھے۔ فرمان روائے توران عبداللہ خان اوزبک موقع پاکر بدخشان مین آیا اور اس ملک دشوار کشا کو بے جنگ کے لے لیا۔ مرزاؤن کی جان پر بری بنی۔ مرزا حکیم بھی خود رائی کے خواب سے بیدار ہوا طرزدان کار آگاہون کو بادشاہ پاس ہزار خوشامد کے ساتھ بھیجا۔ پادشاہ نے فرستادون پر عنایت فرما کر رخصت کیا اور مرزا حکیم کو یہ جواب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدخشان کے مرزا اپنی ناسپاسی کی سزا پاتے ہین۔ تجھکو چاہیے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اخلاص کی فروغ سے ایسا روشن کرے کہ سب دور اور نزدیک اس کو دیکھ لین اور جو لوگ اس سے اندیشہ مند ہون اگر شناسائی سے پہلے اس دیار کا قصد کرے تو اول دانشورون کو بھیجکر اندرزگوئی کرے اگر یہ سودمند نہو تو پھر ہم لشکر و صف شکن کا تعین

اور بڑا خزانہ اور بزرگ توپخانہ لے کر دگی کسی اپنے فرزند کے نامزد کرنے کے ابھی فرستادے باہر نہ نکلے تھے کہ مرزا کی ایک عرضداشت آئی جس مین لکھا تھا کہ بدخشان کے مرزا پژمردہ دل اور شرمندہ رو ہو کر حضور کی پناہ مین آئے ہین حلیم کیا ہے وہ اپنی بڑی آسیمہ سری ظاہر کرتے ہین حکم ہوا کہ ہماری درگاہ مین پشیمانی کو بڑی قیمت پر خریدتے ہین مرزاؤن کو نوید شادمانی پہنچا کر نوازش شاہنشاہی کا امیدوار کر کے روانہ کرو اور خود ہمپر بھروسہ کر کے کچھ اندیشہ وہ نہ کرین۔

جس انجمن مین خوشامد گوئی کی قدر ہوگی وہان راست گذاری بے قدر ہوگی جس صاحب بزم کے کان مین راستی کی داستان نہین آئے گی وہ کتابہ پیشانی کو نہین پڑھ سکے گا۔ اسکے سچے دولتخواہ بے اعتبار ہون گے اور افسانہ کو ہرزہ درایون کے پوبارہ ہون گے۔ دلون کی دوستی کو وہ ہیچ سمجھیگا اور آدمیون کے رجوع کو اپنی خویشتن بینی کا سرمایہ بنائے گا۔ جو شخص کہ ناکامی کے دن مدارا اور مردمی کو سوچتا ہے وہ یہ نہین جانتا ہے کہ اس دن خوشخوئی نہین کام آئی اور زرپاشی سود نہین دیتی ناگزیر حوادث سے اسکی نزہتگاہ پر ہوتی ہے اور ہزارون ناخوشیان سراسیمہ کرتی ہین جو بیدار بخت خردمند ہوتے ہین وہ ایمنی کے ایام مین کہ جن مین چندان آدمیون کی احتیاج نہین ہوتی عجز و انکسار سے زندگی بسر کرتے ہین۔ کوتہ اندیش رعنا بے غمی کے زمانہ مین بے پروائی کے خوابستان مین سوتے ہین ان کو کام کے وقت خون جگر پینا پڑتا ہے۔ سوائے غم کے اس کے پاس کچھ اور نہین ہوتا۔ جب کوئی توانگر خاطر آزرم دوست فراخ حوصلہ صلاح اندیش درمیان مین نہین ہوتا تو دوستی دشمنی پر مائل ہوتی ہے۔ اور عاقبت سراسیگی ہوجاتی ہے مال و دولت کٹجاتا ہے خان و مان تاراج ہوتا ہے۔ غرض ناموس بدذاتون کے ہاتھ مین پڑتی ہے۔ ہزارون شورشین برپا ہوتی ہین۔ اس کی مثال بدخشان کے مرزاؤن کی ہے اس مین سے کچھ حال لکھا جاتا ہے

جب مرزا حکیم بدخشان سے کابل مین آیا تو مرزا شاہ رخ کا ارادہ ہوا کہ مرزا سلیمان کی ملازمت مین جائے اور اس سے یکجہت ہوجائے۔ مگر مرزا سلیمان پر وہم ایسا غالب ہو رہا تھا اور یہان کے آدمیون کی بے وفائی کا حال ایسا دیکھ چکا تھا کہ وہ اس بات کو قبول نہین کرتا تھا۔ بہ بہت

سلیمان مرزا و شاہرخ مرزا کا ملازمت ہونا ۹۹۳ھ

گفت گو کے یہ قرار پایا کہ حصار کا مرزبان اوزبک سلطان کہ نیا دوست بنا تھا ایک جماعت کو یاوری کے لیئے بھیجے اور دریاء اموئیہ کے درمیان اس گذر پر جہان دریا نو حصون مین تقسیم ہوتا ہی ان دادا پوتون کی ملاقات ہو۔ یہ مقرر ہوا کہ چار نہرون سے مرزا سلیمان عبور کرے اور پانچ نہرون سے مرزا شاہرخ۔ مرزا سلیمان جب دریا کے کنارہ پر آیا تو صرف ایک حصہ طے کیا اور خوف کے مارے آگے نہ بڑھا۔ مگر مرزا شاہرخ نے آٹھ حصے طے کیئے اور دادا سے ملا اور اجازت لیکر چلا آیا۔ کولاب مین مرزا سلیمان گیا اور بدذاتون کے ہجوم سے کہ بدی کو نیک اور نیکی کو بد کھلاتے ہین۔ مرزا سلیمان نے اپنی خواہش کو بہت دراز کیا جس سے ایک شورش برپا ہوئی اس نے پیغام بھیجا کہ مہر علی و چوچک و میر عماد کو حوالہ کرے اور اگر یہ منظور نہو تو ان کو آوارہ کردے مرزا نے پچھلی بات مان لی مگر اس کو نہایت غم ہوا۔ میر عماد تو ایک گوشہ مین بیٹھ گیا باقی دونون کابل کو گئے۔ انھین دنون مین محمد قلی شغالی کہ اس ملک کی شمشیر و خرد تھا مرزا شاہرخ کے پاس سے مرزا سلیمان کے پاس چلا گیا اور فساد کو اور بڑھایا۔ تھوڑے دنون بعد زابلستان سے مہر علی مرزا شاہرخ کے پاس آیا۔ مرزا سلیمان نے پوتے پاس پیغام بھیجا کہ مہر علی کو میرے پاس بھیجدے اس نے حاجی تمن کے ساتھ بھیجدیا۔ مرزا نے حاجی کو ملازم کرلیا اور مہر علی کو زندانی بنایا اور شیخ بابا ولی کو کہ قفچی کی آڑ مین شکار کھیلتے تھے بھیجکر گذارش کی کہ اب وقت آشتی اور قسمت ملک کا ہے محمد قلی اور حاجی تمن و مہر علی میری پاس ہین۔ مناسب یہ ہے کہ باتفاق اور کچھ ولایت میرے حصہ مین زیادہ کی جاے۔ شاہرخ مرزا نے یہ جواب دیا کہ مردمی اور مہربانی کا آئین یہ ہے کہ یکتائی کی نزہت گاہ فتنہ جویون کے گفتگو سے غبار آلود نہ کی جاے۔ سرگروہ جو میرے پاس چلا گیا ہے اُسے واپس بھیجدیجئے مرزا سلیمان نے اس بات کو نہ مانا اور لڑائی پر تیار ہوا۔ مرزا شاہرخ بھی اپنی برنائی کی مستی اور خودکامی کی شورش اور مصاحب دانا کے نہونے کے سبب سے روانہ ہوا اس نے حدود رستاق مین جاکر دادا پاس عرضداشت بھیجی اور لا یہ گری اس امید پر کی کہ لڑائی نہو۔ مرزا سلیمان بھی اُسکی بات ماننے کو تھا۔ مگر فتنہ اندوزون نے اسے نہ ماننے دیا۔ لڑائی ہوئی اور مرزا سلیمان کو ہزیمت ہوئی۔ مرزا شاہرخ

نے کچھ اس کا تعاقب کیا مگر پھر ملک کے کامون مین مشغول ہوگیا۔ کولاب اپنے بڑے بیٹے محمد زمان
کو سپرد کیا۔ مہر علی کو اتالیق اُس کا مقرر کیا اور خود قندوز مین آیا۔ مرزا سلیمان حصار کے مرزبان
اوزبک سلطان سے کمک لے کر بدخشان کو گیا۔ مرزا شاہرخ نے بھی لڑنے کا ارادہ کیا۔ تیاری
کر کے وادا سے لڑا اور اس کو پھر شکست دی۔ مرزا سلیمان پھر حصار مین چلا گیا انہی دنون مین اکبر
شہنشاہ کے ایلچی مرزا شاہرخ کے پاس آئے جس سے اُس کو بڑی تقویت ہوئی۔ اس سفر مین کہ
شہنشاہ اکبر زابلستان مین گیا تھا اور مرزا حکیم کو شکست ہوئی تھی۔ پادشاہ نے شیر دل کا ر روانہ
کو مرزا شاہرخ پاس بھیجکر اس کا حال پوچھا تھا اور حکم دیا تھا کہ خود یہ مرزا آستان بوس ہو یا اپنی والدہ
خانم کو بھیجے مرزا نے پادشاہ کی اطاعت کی جس سے اُسکے کام کو رونق ہوگئی۔ حصاریون نے مرزا
سلیمان کی یاوری سے دستکشی کی مگر شاہرخ پادشاہ پاس نہ آیا اور نہ اسکی مان بسبب علالت کے
آسکی مرزا سلیمان نے اہل حصار سے مایوس ہوکر دوستی کی باتون سے دشمنی کا سرانجام دیا۔ چند
اوزبکون کو لے کر بدخشان مین آیا اور صلح کا پیغام دیا مرزا شاہرخ نے قبول کیا اور یہ قرار پایا کہ جہان
پہلے ملاقات کا مقام ٹھیرا تھا وہین بزم دوستی آراستہ ہو اور تازہ عہد مرزا شاہرخ نے جو کہا تھا وہ کیا
مگر مرزا سلیمان نے نہ کیا۔ پوتے کو اپنے پاس بلایا وہ نہ آیا۔ انھین دنون مین مرزا شاہرخ کی والدہ نے
انتقال کیا۔ یہ بیگم بیٹے کو نصیحت کرتی رہتی تھی وہ بھی مرگئی۔ مرزا خویشتن بینی وخودکامی مین پڑا
سپاہ کا حال پراگندہ ہوا۔ بزل و بازی نے رونق پائی۔ رعیت تباہ ہوئی۔ عبداللہ خان اوزبک
فرمانروائے توران پاس مرزا گیا وہ تاشکند پر لشکر کشی کر رہا تھا اسکے باپ سکندر خان سے مرزا کی
ملاقات ہوئی عبداللہ خان کو کچھ اور خیال ہوا اسنے باپ کو لکھ بھیجا کہ میرے آنے تک مرزا کو نظربند
رکھو مرزا نے اپنی دورنگاہی سے یہ حال دریافت کیا اور اس خطرگاہ سے نکل بھاگا۔ جب عبداللہ
خان لشکر سے واپس آیا تو قل بابا کوکہ اس کا وکیل اور سپہ سالار تھا اوزبک سلطان پاس
اس قصد سے بھیجا کہ وہ مرزا سلیمان کو حوالہ کرے مگر اوزبک سلطان نے مروت کا پاس کرکے مرزا
سلیمان کو بدخشان روانہ کیا۔ نواحی کولاب مین شاہرخ مرزا اس سے ملا۔ اور بہتی طرح سے

ولایت کی تقسیم ہوئی۔ مگر اس تقسیم کو مرزا سلیمان نے ناپسند کیا اور کشم کو سیورغال مین لے لیا۔ مرزا شاہرخ خود کامی و ستایش و دوستی کی شراب سے مست ہو کر سوا باتون کے کچھ کام نہ کرتا اس کا تمام کام میر عماد و میر کلان و چوچک بیگ کے ہاتھ مین تھا۔ یار بیگ اس کا بخشی تھا اور تمام جاگیرون مین ریاست کو تقسیم کر دیا تھا غرض سب طرح سے سارے کام اسکے غیر منتظم تھے اسی زمانہ مین عبداللہ خان بدخشان مین آیا اور اس ملک دشوار کشا کو بے جنگ لے لیا۔ وہ ہمیشہ ان مرزاؤن کا حال دیکھتا رہتا تھا اب اُس نے دیکھا کہ شہنشاہ اکبر کی طرف وہ رجوع نہین کرتے ہین۔ اور ملک داری کا سررشتہ ہاتھ مین نہین رکھتے اور آپس مین لڑتے ہین۔ گو اُسنے پیغام دیا کہ غوری اور کہمرد بھی مجھے حوالہ کیا جائے اور ایاق توران کہ مدت سے اس دیار مین رہتا ہے وہ میرے پاس بھیجا جائے۔ مرزا شاہرخ نے کچھ جواب نہ دیا نہ کوئی کار آگہی کا کام کیا۔ یہ افواہ اڑ رہی تھی کہ والیٔ توران نے انتقال کیا قل بابا ایسی خواہشین کرتا ہے۔ اس افسانہ نے ان کو بے پروائی کی نیند مین سلایا۔ اس حال مین کہ مرزاؤن کا دل خراب تھا۔ قلاع بے سامان تھے۔ سپاہ پریشانی مین تھی دوست ایک کونے مین بیٹھے ہوئے تھے اور دشمن اپنے کامون مین کامیاب تھے کہ ناگاہ غنیم آیا۔ مرزایون نے سخت گریوون مین بھاگ کر پاؤن مین چھالے ڈالے۔ قورچی بیگ مخالفون سے جا ملا۔ اور قندوز بے لڑے ہاتھ سے نکل گیا اور امرا بدخشان کا حال بھی ایسا ہی ہوا۔ کولابیون نے محمد زمان کے ساتھ جانفشانی کی جو شخص آسودگی مین خویشتن داری اور طبیعت پرستی کرتا ہے اور ناکامی کے دن خوشخوئی اور بردباری مردم کرتا ہے وہ آشوبگاہ تعلق مین تنہا رہ جاتا ہے اور بے یار و بے نوا ہو جاتا ہے۔ بیغرضی کے وقت بہت توجہ سے دلون کا پیوند ہوتا ہے اور نہایت خالص معاملون کے کرنے سے جانین گرو ہوتی ہین۔ دنیا کے بدمست جب انپر مصیبت کا دن آتا ہے تو خوش اخلاقی کی باتین بناتے ہین اور بھلے برے کو جانتے نہین۔ ایسی ہی حالت مین مرزا ہنر تھے اس لیئے جسے وہ جھک کر سلام کرتے اُن سے منہ پھیر لیتا۔ ناگزیر بدخشان کی تنگنا سے گذر کر بھاگ مین کہ قلب گاہ تھا آئے یہان اُن کو توقع تھی کہ باہری نمک پروردے انکی

ان کی ہمراہی کرینگے مگران سے بھی وہ مایوس ہوگئے۔ برف و باران کی سختی کے سبب سے نہ ٹھیر سکے
پنجشیر مین کہ مضافات کابل مین ہے اس خیال سے آئے کہ اگر مرزا حکیم یاوری کرے تو اپنی بنگاہ
کے لینے مین سعی کیجائے اور نہین تو درگاہ شہنشاہ اکبر مین پناہ لیجائے۔ مرزا سلیمان تو اس شرمساری
کے سبب سے پادشاہ کی درگاہ مین نہین آنا چاہتا تھا کہ حجاز کی زیارت کو چھوڑکر بدخشان مین چیرہ دستی
کرنے آیا تھا۔ مرزا شاہرخ کو پادشاہ کی زیارت کی تمنا تھی وہ ہندوستان کو چلا۔ مرزا حکیم نے
مرزا سلیمان کو بلاکر لمغانات مین بھیجا اور یہان کچھ دہات دیدیئے گئے شاہ محمد پور مرزا شاہرخ
کو شادمان ہزارہ کے سپرد کیا کہ اس کو آوارہ کرے اور ہندوستان نہ جانے دے۔ مرزا شاہرخ
کے ساتھ تین بیٹے حسن و حسین جو توام پیدا ہوئے تھے اور بدیع الزمان اور اُنکی انائین تھین اور
چند ملازم تھے وہ نہایت آزردہ خاطر ہزارات مین گیا اور ہر روز یہ جانتا تھا کہ میری موت
سر پر کھڑی ہے مشہور یہ تھا کہ عبداللہ خان نے شکست پائی اور کولابی غالب ہوئے یہ سنکر شادمان
ہزارہ نے مرزا کو بدخشان کیطرف روانہ کیا۔ مرزا نے اس خوف سے کہ اس وحشی کی رائے بدل نہ جائے
کچھ دور چل کر بیراہ چلنا شروع کیا۔ سخت گریوون مین لڑتا ہوا حدود کھمردن مین آنکر آرام کیا۔
صحرانشین اسکے پاس جمع ہوئے۔ تھوڑے دنون مین یہ معلوم ہوا کہ جو سُنا تھا وہ غلط تھا۔ کولابی
محاصرے سے گھرے ہوئے تھے تو مرزا نے تالقان پر تاخت کی انھین دنون مین معلوم ہوا کہ کولاب
کو اوزبکون کی سپاہ نے فتح کرلیا۔ اس لیئے مرزا کے ہمراہیون مین پراگندگی ہوئی پہلے سے
زیادہ حال تباہ ہوا نہ رائے بودن و نہ روئے گردیدن۔ قریب تھا کہ مخالفون کے ہاتھ مین گرفتار ہو۔ مگر
ہزار طرح سے تگادو کرکے کابل کیطرف جلد چلا۔ سال النگ مین مرزا سلیمان سے ملاقات ہوئی مرزا
حکیم نے بھی خبر مذکور سُنکر بدخشان مرزا سلیمان کو روانہ کیا تھا اس منزل مین ان کو کمک کی امید تھی
کہ کچھ اوزبکون نے شورش مچائی۔ مرزا شاہرخ کے ان دنون مین بیٹا پیدا ہوا تھا اس کو صحرانشین
عورت کے حوالہ کرکے جلد چلا۔ مہ علی و قادر بردی و جہان گیبہ وائغ بیگ اور چند اور پیچھے سے
آگے چلے آتے تھے کہ صبح کے وقت اوزبک آن پہونچے۔ انھون نے پرتال کو تاراج کیا۔ مرزا سلیمان

مرزا شاہرخ کا پادشاہ کے پاس آنا سنہ ۹۹۲ھ ۲۹

کا گھوڑا چراغ پا ہوا اور مرزا زمین پر گرا۔ مرزا شاہرخ گھوڑے پر سے اُترا اور گھوڑے کو اُس کے آگے لایا کہ وہ چھوٹ کر جنگل کو بھاگ گیا۔ ہمراہیون مین سے ایک پیادہ پا ہوا اور اپنے گھوڑے پر مرزا سلیمان کو سوار کیا۔ مرزا شاہرخ جا کر اپنے گھوڑے کو پکڑ لایا۔ اس تیز روی مین مرزا دو راہون پر پڑ کر جدا جدا ہو گئے۔ غنیم مرزا شاہرخ کے پیچھے پڑا۔ دریا آگے آیا۔ مرزا نے اُس سے عبور کر کے پل توڑا اور آرام لیا۔ اس گیر و دار مین اس کا بیٹا حسن جدا ہو گیا جس سے ایک اور تازہ داغ لگا۔ اس زمانہ مین خبر معلوم ہوئی کہ مرزا سلیمان پشاور مین محفوظ ہے۔ مرزا اُسکے پاس گیا اُسن خوشدلی مین مرزا حکیم کے پاس سے سینو بیک خان آیا اور دوستی کا پیغام لایا۔ مگر اس پیام کو مرزا اُن نے باور نہین کیا چند آدمی اسکے ہمراہ کیے تاکہ وہ اچھی طرح علم حاصل کر کے استوار پیمان کرے مرزا سلیمان نے کہ وہ پادشاہ سے شرم اور مرزا حکیم سے چشم دستگیری رکھتا تھا توقف کیا۔ مرزا شاہرخ نے پادشاہ کی طرف راہ لی۔ جو رڑوان بچون کی مان اور ایک بیٹے کو چار نکاران مین چھوڑا کہ وہ اس خرد سال بیٹے کی جستجو کرین جو اس سے جدا ہو گیا ہے خود دامنہ کوہ سے دکہ مین آیا۔ یہان ایک قافلہ رہزنون کے خوف سے سراسیمہ تھا اسکے ہمراہ ہوا۔ اس مین عمۂ مرزا خانزادہ بیگم و شاہ محمد مرزا موجود تھے جن کو مرزا حکیم نے ہندوستان بھیجا تھا۔ شاطی افغانون کی دستانسرائی سے مرزا اس گریوہ سخت گذار مین چلا۔ جسقدر وہ راہ چلتا تھا بدسگال اس درہ کی تنگناؤن کو پتھرون سے روکتے جاتے تھے۔ دشوار مقامون کی راہ کو تاریکیون نے بند کیا قنقر بابا و جہانگیر و خنجر علی و بابر بیگ و ابدال کو جنمین سے ہر ایک اپنے وقت کا رستم تھا تاریکیون پاس پیغام گذاری کا بہانہ کر کے شاطی لیگیا اور ان کو مار ڈالا جب اسکی خبر ہوئی تو علی مسجد سے قافلہ اُلٹا پھرا۔ تاریکیون نے دست اندازی شروع کی سوداگرون کی سراسیمگی سے سپاہی بھی اپنی سستی بھولگئے۔ جان و مال لٹ گیا۔ مرزا شاہرخ نے ہمت کی کہ اس گریوہ سے لڑتا ہوا باہر آیا۔ کوہستان بدخشان کے سوا اب کوئی پناہ نہین تھی۔ یہین کہین قریب وہ مرزا سلیمان سے مل کر خوش ہوا لیکن اسکے ساتھ یہ غم لگا تھا کہ ایک بیٹا جو ابھی پیدا ہوا تھا وہ مر گیا تھا اسوقت مرزا حکیم کی سپاہ کچھ ملی اُسنے کہا کہ شہنشاہ اکبر نے بھائی کو لکھا تھا کہ شاہرخ

کے ساتھ شائستہ بدرقہ بھیجے سوا اس خدمت پر ہم نامزد ہوئے ہین۔ وہ سپاہ خیبر تک پہونچا کے واپس چلی گئی۔ سندہ مین جو امراء شاہی تھے انھون نے مرزا کی بزرگداشت کی۔ جو بیٹا جدا ہوا تھا وہ بھی مل گیا۔ اس کو ایک اور بک اُٹھا کے لے گیا تھا وہ اس لڑکے کو چھوڑ کر ہر تال لوٹنے گیا۔ اب ایک غلام اس لڑکے کو اُٹھا کر لے گیا اور مرزا حکیم پاس پہنچا دیا۔ مرزا شاہرخ لاہور مین آیا اور ۲۲ ردیم کو دارالخلافہ فتحپور سیکری مین پادشاہ کا قدمبوس ہوا۔ جو کچھ عنایتین اسکے حال پر ہوئین اس کا بیان اپنے مقام پر کیا گیا ہے۔ ۵ ارشہر یور سنہ ۲۸ الٰہی کو اس کا نکاح پادشاہ نے اپنی بیٹی شکرالنسا بیگم سے پڑھوایا وہ مالوہ کا صوبہ مقرر ہوا اور دکن کی فتح مین اسنے کارنامے دکھائے۔ اور ہفت ہزاری کا منصب پایا۔ ابوالفضل لکھتا ہے کہ پادشاہ پیشانی سے دل کا حال دریافت کر لیتا ہے شاہرخ کی فرخندہ ذاتی اس نے دریافت کر کے دست عاطفت سے اس کو سربلند کیا اس کا ستارۂ دولت تنزل پر تھا پھر عروج پر آیا ان مسافرون مین سے ہر ایک وفا گزین نے کہ شورا بہ ناکامی چکھا تھا۔ وہ کامروائی کی نشاط اندوزی سے محفوظ ہوا۔

مرزا سلیمان جب حجاز گیا اور وہان سے واپس آیا اور اپنے کامون مین ناکام رہا اس کا بیان اوپر ہو چکا ہے اب جب شاہرخ مرزا پادشاہ پاس چلا آیا تو مرزا سلیمان ملغانات مین اپنی عمر بسر کرتا تھا اور بدخشان کی فتح کی امیدون مین دن گنا کرتا تھا۔ مرزا محمد حکیم نے اسکے حال پر رحم کر کے کچھ بدخشی و کابلی سپاہ اسکے ہمراہ کی وہ تیز دستی کر کے کوہستان بدخشان مین آیا اور تالقان کی فتح کے درپے ہوا۔ محمود سلطان اس سے لڑنے کھڑا ہوا غنیم کی کثرت کے سبب سے مرزا سلیمان نے کوہ پایہ کو شاخ بند کیا اور اس مین اپنا پاؤن جمایا۔ بار بار ہنگامۂ کارزار گرم کیا اور فیروزمند ہوا اس کامیابی سے وہ مغرور ہوا اندیشہ دوربینی کو فروگذاشت کیا اور باہر جا کر لڑنے کا ارادہ کیا۔ کارآگہون نے اُس سے گذارش کی کہ شتابی کرنی شائستگی سے دور ہے۔ دیر لگانے مین یہ فائدہ ہے کہ بندگان بادری ہم سے ملتے ہین اور دشمن کے رونق ہنگامہ کو کم کرنے مین بے سبب اس استوار پناہ کا چھوڑنا اور اپنے سے زیادہ دشمنون سے لڑنا کار آگہی سے بعید ہے۔ مگر خود کامی ہمیشہ صلاح اندیش خرد کو برکنار کرتی ہے۔

اُس نے کانون مین ٹیٹان دے یین خیر سگالون کی باتون کو نہ سُنا۔ لشکر کو لیکر چلا۔ باہر آیا اور مرزائگی کا کارنامہ دکھایا قریب تھا کہ دشمن کو مار رکہتا کہ عبدالمومن سلطان بلخ سے مخالفون کے پاس آگیا اور ہنگامہ جنگ از سرِ نو گرم ہوا۔ مرزا کے جنگجو دلاورون نے دو دفعہ غنیم کو شکست دی مگر تیسری دفعہ دورمینی کے برخلاف مرزا لڑا قورچی بیگ اوزبک کے ایک گروہ کو سرکوب پر ایسا لایا کہ مرزا مین یکبارگی لڑنے کی تاب اور سامنے کھڑے رہنے کی توانائی نہ رہی۔ ناچار بھاگ کر زابلستان کی طرف رُخ کیا بخت یار بیگ آب ماراین تھا وہ استقبال کرکے کابل مین لایا۔ کنور مان سنگھ جلال آباد سے اسطرف گیا اور مرزا کو پشاور مین لایا۔ بصد اعزاز وہ ۴ ار اسفندار مذکور کو بادشاہ کی خدمت مین آیا شہنشاہ اکبر نے مرزا سلیمان کو لاہور مین اس لیئے رکھا کہ کوئی گزند اس کو نہ پہنچنے پائے وہ ۱۳ اردیبہشت ۹۹۶ھ ۳۳ جلوس کو ستتر برس کی عمر مین اس دنیا سے رخصت ہوا۔ بخشی ۹۲۰ اسکی تاریخ ولادت تھی۔ اب تم یہ سمجھو کہ ان دو تیموریہ خاندانون کا بیان جو قصہ در قصہ چلا جاتا ہے وہ انسان کی نیرنگی اقبال کا افسانہ نہین بلکہ وہ ایک واقعہ نفس الامری ہے۔ جو یہ بتلاتا ہے کہ جب ملک داری کی لیاقت نہ ہو اور گھر مین لڑائی جھگڑے فساد ہمیشہ ہوتے رہین تو وہ ایک زمانہ تاریخ کے لیئے بحران کا وقت ہوتا ہے رعیت کے حق مین مرزا سلیمان اور مرزا شاہرخ دونون کا ہونا زہر تھا ہر ایک اولوالعزم بادشاہ خواہ وہ متحمل اور تنگ دل عبداللہ خان ہو خواہ عظیم الشان نیک نہاد شہنشاہ اکبر ہو دونون ان کو مغلوب کرنا چاہتے تھے جس سے انکی سلطنت کی سطوت و شوکت و حشمت نمایان ہو۔

کابل سے رود بار سندہ تک افغانون کے گروہا گروہ رہتے تھے اور بے دانستی اور خودکامی سے مسافرون کو گزند پہنچاتے تھے اور زبردستون پر دست ستم دراز کرتے تھے پادشاہ نے حکم دیا کہ اس بیم گاہ مین سرائین بنائی جائین اور وہان دلاورون کا ایک گروہ اپنا بنگاہ بنائے۔ خرد کابل کے قریب سرخ دیوار کی آبادی کو زین خان اپنے ذمے لے اور میان دو آب و باد آم چشمہ مین خواجہ شمس الدین اور باریک آب مین حمزہ غرب جگدلک مین حیدر علی عرب اور سرخ آب مین حیدر علی خویش اور سفید سنگ مین مظفر کولہ۔ تاریک آب مین درویش اسلام آبادی اور یساول

مرزا سلیمان کا مرنا ۹۹۶ھ ۳۳ اور بدخشان کے فسادون کے نتائج

زابلستان کی راہ کا امن و امان ۹۹۵ھ ۳۲

کفشی مین بہادر دکہ مین تختہ بیگ غریب خانہ بین بندہ علی میدانی اور بکرام اور اتکات بتارسل
کے درمیان شاہ بیگ یہ اہتمام کرین ۔ پادشاہ نے بلال آفتابچی کے ہاتھ بہت سا روپیہ کوکل تاش
پاس بھیجا کہ وہ امیرون مین تقسیم کردے تاکہ وہ اپنی دیدبانی سے اس کام کو سرانجام دین ۔ تھوڑے
عرصہ مین پادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور اس سے چہرۂ روزگار پر گلگونۂ دادگری حسن افروز ہوا

ہم نے پہلے لکھا ہے کہ جب کولاب کو عبداللہ خان نے فتح کیا ہے تو اس سے شاہرخ کا پوتی
کا بیٹا محمد زمان لڑا تھا وہ اسیر ہوا ۔ زندان سرا مین بھیجا گیا اور وہین مرگیا ۔ اس زمانہ مین ایک
دستان فروش نے قرا تگین مین اپنے تئین محمد زمان بتلایا اور اپنی داستان یہ سُنائی کہ خواجہ
کلان خواجہ پسر خواجہ جویباری سنے خاندان کی خیرخواہی کے سبب سے مجھے جان شکرون کے
ہاتھ سے بچایا اور میری بجائے ایک اور خردسال کو مروایا بہت سے سادہ لوح اس کے ساتھ
ہوئے اور یہان کے کوہسار مین شورش اُٹھائی ۔ کولاب اور بہت سے مقامات کو لڑکر فتح
کرلیا ۔ محمود سلطان سپاہ آراستہ کرکے اس سے لڑا اور زخمی ہوکر بھاگ گیا اور اللہ داد بیگ و
تورم بیگ کاکی نے بھی عمر تمام کی اُنکے سر اپنی عرضداشت کے ساتھ شہنشاہ اکبر پاس بھیجے بہت
نیایش اور لابہ گری کے بعد اُس نے یہ لکھا تھا کہ خواجہ کلان خواجہ کی خیراندیشی سے مجھے اس
بیم گاہ سے رستگاری ہوئی تو مین ہندوستان مین آیا اور آزاد فقیرون کے لباس مین پادشاہ
کا قدمبوس ہوا ۔ چونکہ خواجہ سے عہد تھا کہ اسکی زندگی مین میرا حال ظاہر نہ ہو اس لیئے مین نے
اپنی سرگذشت عرض نہین کی حجاز کو چلا گیا پھر اپنے گھر آیا اور ازبکون سے لڑا ۔ خدیو عالم کی شمشیر چلاتا
ہون اگر توجہ والا میری دستگیری کرے تو بہروزی سے مجھے آسایش ملے ۔ اگرچہ پادشاہ کے
نزدیک اسکی داستان سچی نہ تھی مگر بھی اسکے فرستادون کو امیدوار کیا اور فرمایا کہ مرزبان توران
سے یگانگی کا پیمان ہے ۔ ہماری بزرگی سے بعید ہے کہ ہم اس سے لڑین بہتر ہوگا کہ وہ پادشاہ
کی خدمت مین آئے فرستادون کو نوازش فرماکر واپس بھیجا اور کچھ نقد و جنس ہمراہ کیا جو اُسکی
کامروائی کا سرمایہ ہوا ۔

محمد زمان کی بنا وٹی سرگذشت سن ۹۹۰

محمد زمان نے اپنے تئین شاہرخ مرزا کا فرزند بنایا اور پادشاہ کا عقیدتمند ہوا تو تھوڑے دنون مین اس
پاس بہت آدمی جمع ہوگئے۔ عبدالمومن کو جب اس نے شکست دی تو اوزبک بہت سے اس سے لڑنے
آئے۔ عباس سلطان ددستم بے وحمید قراول کو اس نے پہلے روانہ کیا اور خود اس نے آب امویہ
سے گذر کر جرکان کو لاب مین سنگر کیا اور استوار کریوون کو پناگاہ بنا کے پائے ہمت کو قائم کیا۔
اول جوق سے لڑکر اس کو شکست دی اور اسکے تعاقب مین عبدالمومن تک پہونچ گیا۔ قریب تھا کہ
اس کو گرفتار کرلیتا مگر وہ ہواخواہون کی دستگیری سے ہاتھ سے نکل گیا۔

احمد علی اتالیق ایلچی توران کا انتقال یہان ناوقت کھانا کھانے اور بد پرہیزی سے ہوا اس سے والی
توران کو اسکی خبر نہ تھی اسکے نہ آنے کے سبب سے دل اس کا نگران تھا اور اُسکے بیٹے نے یہ ناہنجاری کی
تھی کہ بدخشان کی ایماق کی درخواست کی تھی جس سے وہ اور زیادہ آشفتہ بر تھا اس شوریدہ مغز کو
اس نے سرزنش اور نفرین کین اور اسکی معذرت مین نامہ لکھا۔ مولانا حسین خراسانی کو کہ بازیون
مین سے اسکے پاس تھا بہت عمدہ تحفون کے ساتھ بھیجا۔ وہ پادشاہ کی ملازمت سے مشرف ہوا۔

اوپر لکھا ہے کہ ایک اندجانی پسر نے اپنے تئین مرزا شاہرخ کا بیٹا بنایا تھا اور انجان اسکے
گرویدہ ہوئے تھے۔ جب تک وہ شہنشاہ اکبر کا وابستہ رہا کچھ کارروائی کے ساتھ زندگی بسر کرتا
رہا جب اس کا سہارا چھوڑدیا تو ناکام ہوگیا۔ اسکی ناہنجاری سے کوہ نشین آزردہ خاطر ہوئے اور
تورانی سپاہ اسپر غالب ہوئی اس ناکام نے راہ مین ہزارہ کے ساتھ دوستی اس خیال سے کی کہ
اُسکی دستیاری سے زابلستان مین شورش مچائے۔ جب قاسم خان پادشاہ پاس آتا تھا تو وہ بھی سو
آدمیون کے ساتھ اس دیار مین اس سے ملنے چلا اور راہدارون پر یہ ظاہر کیا کہ مین پادشاہ پاس جاتا
ہون انھون نے یقین کرکے ہاشم بیگ پسر قاسم خان کو اطلاع دی اس نے کارشناسی سے علی شیر
ماکری وسلیم بیگ والہ دوست کو پانسو آدمیون کے ساتھ روانہ کیا کہ اس کے ساتھ ہون اور یہان
اس کو لے آئین۔ محمد زمان جب پنجشیر پر آیا تو بے راہ ہوکر بنگاہ ہزارہ پر جلد چلا گیا۔ ہاشم بیگ کو جب
اسکی اطلاع ہوئی تو وہ تیز روی کرکے اس کے پاس میدان مین آیا۔ کچھ لڑائی ہوئی۔ قرا بیگ

محمد زمان کو عبدالمومن پسر عبداللہ خان فرمانروائے توران پر غلبہ ۹۹۸ھ — احمد علی اتالیق ایلچی توران کا انتقال ۹۹۹ھ — قاسم خان اور محمد زمان کا مارا جانا ۱۰۰۰ھ

بہادر اور جہان گیر بیگ اور کچھ اور پادشاہی لشکر مین سے مارے گئے۔ مگر محمد زمان قید ہوا۔
ہاشم بیگ اُس کو کابل مین لایا جب قاسم خان یہان آیا تو اس نے محمد زمان کو اپنا مقرب بنایا
اور اُس کے آدمیون کو نوکر رکھا اور اسکی پاسبانی چھوڑ دی اور پادشاہ کے حکم سے اس کو پادشاہ
پاس بھیجنے کا سامان کیا۔ ہاشم بیگ کو اسکے ہمراہی کے لئے نامزد کیا۔ محمد زمان نے پانچ سو بدخشیون کو
اپنا ہمداستان بنایا۔ جان شکری کی کمین مین بیٹھا۔ سرکشون کے سردار میر شمس خان و عاقل قاضی
زادہ بقلانی وگدا بیگ حصاری ہوئے۔ بعض کی رائے یہ ہوئی کہ ہاشم بیگ کی راہ مار کر اپنے دل کا
مقصد حاصل کیجئے۔ ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ دونون باپ بیٹون کی عمر کو یہین ختم کیجئے تو بہت مال و
اسباب ہاتھ لگے جس سے قوت بڑھے اور آباد ملک ہاتھ آئے۔ محمد زمان نے ہاشم بیگ پاس آدمی بھیجکر
کہلا بھجوایا کہ مین کچھ دل گرفتہ ہون آپ تشریف لائیے نرد بازی سے دل بہلائیے اسکے دل مین یہ
ارادہ تھا کہ ایک وقت مین دو کام تمام کرے۔ وہ سفر کی تیاری کر رہا تھا اس لیے نہ آسکا دوپہر کو قاسم خان
کھانا کھا کے سوتا تھا۔ کچھ تھوڑے نوکر اس پاس تھے۔ چند ناسپاسون نے کچھ آدمی ہاشم بیگ کے گھر بھیجے
اور کچھ قاسم خان سے یازش کرنے گئے۔ قاسم خان نے مردانہ لڑکر نقد زندگی کو کھویا۔ اس کا سر کاٹکر
نیزہ پر چڑھایا گیا۔ خواجہ ارباب اور خداداد خاصہ خیل نے بھی نکوکاری کے ساتھ جان دی۔ اس شورش
کے مٹانے کو ہاشم بیگ آیا۔ تیز دستون کو بھیجکر حصار کے دروازون کو بند کرایا۔ تھوڑی دیر مین سب حال
اس کو معلوم ہوا وہ ارک کی طرف چلا آیا۔ دروازون کا بند کرنا بہت کام آیا۔ مخالف اندر نہ آسکے جب وہ
یہان آیا تو دروازون کو کھولا۔ خوب لڑا۔ کچھ تیز دستون نے دیوار پر چڑھ کر تیر و بندوق کے ہنگامہ کو آراستہ
کیا۔ بہت سے ناسپاسون کو مارا کچھ تو شکخانہ مین کہ پہلے سلاح خانہ تھا اس خیال سے چلے گئے کہ وہ پناہ
لے کر خوب لڑینگے جوانمردون نے دروازہ کو گھیر لیا۔ جو دروازے سے باہر نکلتا وہ مارا جاتا۔ چھت کو
پھاڑکر آگ لگا دی بعد اسکے مخالف ایک گرمابہ مین جو نزدیک تھا گھسے۔ اُنہر بھی ایسی سخت گیری
ہوئی کہ ایک ایک کی جان گئی دوپہر سے آخر شب تک یہی حال رہا صبح کو اسی آدمی اکھٹے ہو کر آئے۔
اور لڑے اور جان سے گئے۔ ان ناسپاسون کا سرگروہ بھی مارا گیا۔ دوسرے روز دوپہر تک پھر لڑائی رہی۔

ہاشم بیگ کی ہمپائی مین مرزا احمدی و میر مومن و میر عبداللہ و اللہ دوست و محبت خان نے بہت کوشش کی کسی کو گزند جانی نہین پہنچی۔ آخر روز مین پھر کچھ شورش ہوئی۔ ہاشم بیگ مسلح ہوا اگر بابہ سے پانچ آدمی رات کو نکلے مارے گئے۔ دوسرے روز ہاشم بیگ جب کسی بدخشی کو دیکھتا مار ڈالتا۔ اس طرح کچھ ظلم اس نے کیا۔

ایک شخص ہمایون نامی نے اپنے تئین مرزا سلیمان کا بیٹا بنایا اور اس کہسا مین حکومت کرنی شروع کر دی مرزا بدیع الزمان پادشاہ کا خواہرزادہ خواجہ حسن کا بیٹا کچھ سپاہ لے کر حصار سے گیا اور اس سے لڑا اور اسپر غالب ہوا اور ہمایون مارا گیا۔ مرزا نے اس فتح کو اپنی حسن خدمات کی دستاویز بنایا۔ منبر و زر و سیم کو پادشاہ کے نام سے آراستہ کیا اور پہلی کم خدمتی کا عذر کیا۔ پادشاہ نے اسکے آدمیون پر جو آئے تھے مہربانی کی اور آلات جنگ اسکی مدد کے لیئے بھجوائے۔ پھر اس شہزادہ نے اپنی عرضداشت سالانہ مین دے کر ایلچی بھیجا پادشاہ نے اسکے ساتھ بہت اسباب اور ہتھیار اور سامان جنگ ارسال کیا۔ پھر اس نے آلات جنگ کی درخواست کی تو پادشاہ نے آلات جنگ سے بیس۲۰ شتر لاد کر روانہ کیئے اور ملک محمد بدخشی کو لعل بدخشان کی کان کا داروغہ بنا کے بھیجا اور بہت دلدہی کا فرمان لکھا مگر ابھی یہ سامان جنگ مرزا پاس نہین پہنچا تھا کہ باقی خان حاکم توران نے ایک لشکر گران بدخشان بھیجا۔ مرزا اس سے لڑا غنیم غالب ہوا اسنے مرزا کو زندہ گرفتار کیا اور بیمہری سے شکار کیا۔ باقی خان کے بھائی پایندہ خان کو ولایت گرمسیر مین شاہ بیگخان نے گرفتار کیا تھا۔ پادشاہ نے قیدی کو اپنے پاس بلا کر مرزا والی کے حوالہ کیا اس نے اپنی بھائی بدیع الزمان کے خون کا انتقام اس سے لیا کہ ایسے بے گناہ کا خون اسی کی گردن پر تھا۔

معاملات توران

اگرچہ عبداللہ خان دادگری کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا مگر فرزند پرستی کے سبب سے بیٹے کو ستمگری سے باز نہین رکھ سکتا تھا اس بیٹے نے باپ کی جانشینی کے لئے بہت سے بیگناہو نکا خون

اپنی گردن پر لیا اور خاندانون کو تباہ کیا۔ باپ کی ناہنجار محبت نے اس کو بدمست کیا اور اس نے آدمیون کے مال و جان و ناموس پر دراز دستی کی۔ پادشاہون کو واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کا حال ہر وقت دریافت کرتے رہین۔ کیونکہ انکی اولاد کی شکایت دیر کران تک پہونچتی ہے۔ اولاد کے ساتھہ پادشاہ کو انصاف ایسا ہی کرنا چاہیئے جیسا کہ اور غیرون کے ساتھ کرتا ہی۔ پادشاہ باز پرس سے کبھی اُن کو معاف نہ رکھے۔ بیٹے کو باپ بسبب اپنی محبت کے پدرانہ انذار نہین کر سکتا تھا۔ دیر کے بعد مادرانہ نصیحت کرتا تھا جس سے اسکی شورش زیادہ ہو جاتی تھی اور باپ کی پیری اور خوشامد گویون کی خوشامد اُس کو شائستہ کارگر نہ ہونے دیتی۔ یہان تک نوبت آئی کہ اُس نے باپ کی جان لینے کا ارادہ کیا۔ ایک دن باپ شکار کھیل رہا تھا کہ بیٹا جان لینے کے قصد سے چلا وہان گیا۔ مگر پادشاہ کو اسکے ارادہ پر ایک شخص نے مطلع کر دیا جب وہ ناکام رہا تو خان نے اسکی مالش کا ارادہ کیا وہ باپ سے لڑ نہین سکتا تھا آب آمویہ سے پار چلا گیا اور کشتیون کو توڑ ڈالا۔ اس عرصہ مین توکل قزاق دشت سے تاخت کے لیئے آیا۔ خان اسکی چارہ گری کے لیئے گیا۔ وہ غارت گر سمرقند تک نہ پہونچنے پایا تھا کہ الٹا چلا گیا۔ خان یہان سخت بیمار ہوا۔ محمد باقی اور بعض اور امرا بیٹے کی دوروئی سے آگاہ تھے بیٹا بلخ سے چلا۔ جب خان کو کچھہ آرام ہو گیا تو اس نے بیٹے کو لکھا کہ اُلٹا چلا جائے۔ مگر اس نے کہنا نہ مانا اور آہستہ آہستہ چلا آتا تھا۔ محمد باقی نے جو وکیل تھا خان کو یہان بُلایا اور ۲۷ بہمن کو خان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ناسپاس نے اُسکے کھانے مین زہر ملا دیا اور ہمیشہ کے لیئے لعنت کا طوق اپنی گردن مین ڈالا۔

پادشاہ کا ارادہ فتح توران و خاتمہ عبدالمومن ۱۰۰۶ھ

پنجاب مین جب پادشاہ آیا تھا تو اسنے ارادہ کیا تھا کہ توران کو فتح کیجیے مگر مرزبان توران نے نیایش کی اسلیے پادشاہ نے یہ ارادہ ترک کیا۔ اب اسکے بیٹے عبدالمومن کی ستمگاری حد سے زیادہ گزری تو پھر پرانا ارادہ نیا ہوا باسمہ کرہ ہی مین اُبال آیا۔ سلطان سلیم کو بھیجنے کا قصد کیا مگر وہ ہندوستان سے باہر جانا نہین چاہتا۔ جب عبداللہ خان کا انتقال ہو گیا تو امرا نے کوشش کی کہ پادشاہ توران کو فتح کرے مگر پادشاہ نے کہا کہ اب توران شورش گاہ ہی۔ مردمی سے بعید ہے کہ اس پر فوج کشی ہو۔ بہتر ہوگا کہ کوئی عمدہ ایلچی تعزیت

اور اندرزگوئی کے لیئے بھیجا جاوے۔

جب عبداللہ خان موا اس کے چچازاد بھائی اوزبک خان نے سمرقند کا محاصرہ کیا۔ محمد باقی نے اُسکی پاسبانی کی اس لیئے اوزبک خان اخسی مین چلا گیا۔ توکل نے بخارا پر لشکرکشی کی۔ عبدالمومن کی آمد کا آوازہ سُنکر وہ ناکام واپس جاتا تھا کہ حصار نشین باہر آنکر اُس سے لڑے اُس کو زخمی کیا اور اسی زخم سے وہ مرگیا۔ دس روز بعد عبدالمومن بہت لشکر لے کر آیا اور سمرقند مین اورنگ فرمان دہی پر بیٹھا۔ محمد باقی نے وکالت کو قبول کیا۔ کچھ دنون سلطنت کی تھی کہ اُس کو لوگون نے مار ڈالا اور ماوراء النہر طوائف ملون بن گیا۔ شاہ ایران نے خراسان لے لیا۔

عبدالمومن فرمان فرمائے توران کا ایلچی بھی آیا سنہ ۱۰۰۵ھ ۴۲

شہنشاہ اکبر اور عبداللہ خان والی توران کے درمیان مراسلت اور سفیرونکا آنا جانا

والی توران کا ایلچی آیا۔ اور اس نے اساس سخن اس بات پر رکھی کہ ہندوستان سے پادشاہ چل کر ایران پر یورش کرے اور والی توران اسکے ساتھ ہوکر عراق و خراسان و فارس کو شاہ ایران سے لے لین۔ پادشاہ نے مرزا فولاد کے ہاتھ یہ جواب بھیجا کہ شاہ ایران خاندان نبوت سے انتساب رکھتا ہے اس کا پاس ہم کو ہے۔ آئین و کیش کے اختلاف کو ملک ستانی کے لئے سرمایہ آویزش نہین کرتا سوائے اس کے میرے اور شاہ ایران کے درمیان دوستی و آشنائی ہے اس لئے میرا ارادہ اس سے لڑنے کا ہرگز نہوگا والی توران نے اپنے خط مین شاہ ایران کو بہت بُرا لکھا تھا پادشاہ نے اس تحریر کی نکوہش کرکے والی توران کو نصیحت کی۔

جس سال مین پادشاہ کہ دریائے سندھ پر تھا اور جبر کی راہ ہموار کرا رہا تھا توران مین ایک عجیب شورش برپا تھی۔ پادشاہ کے ایلغار کے خوف سے بلخ کے دروازہ بند رہتے تھے عبداللہ خان نے اپنی کارآگہی و پیش بینی سے میر قریش کو تحائف اور خط دیکر پادشاہ پاس بھیجا اور دوستی و آشتی کے پیمان کئے پادشاہ نے حکیم ہمام کو روانہ کیا کہ سراسیمگی اسکی دور کرے احمد علی اور ملا حسینی جو پہلے دو ایلچی شاہ توران کے آئے تھے وہ بیمار ہوکر مرگئے تھے اس لیئے تورانیون کو ایک اور اندیشہ پیدا ہوا تھا۔ پادشاہ نے یہ نامہ شاہ توران کو لکھا جسکے کُچھ حصے کا ترجمہ کرکے لکھتے ہین

پادشاہ توران کا ایلچی بھیجنا سنہ ۱۰۰۱ھ ۴۱

اس نامہ سے شہنشاہ اکبر کی فتوحات کا اور اسکی نیتون وارادون کا حال معلوم ہوتا ہے توران و
ایران کے بادشاہون کو جو مراسلات ابوالفضل سے لکھا کر شہنشاہ نے بھیجے ہین وہ ڈپلومیٹک تحریرات کے
ایشیائی زبان مین بمثل نمونے ہین۔ اس مراسلہ مین اول حمد ونعت ہی پھر شاہ توران کے خط آنے کی مسرت
بیان کیگئی ہے کہ وہ درحقیقت ملاقات روحانی ومکالمہ زبانی ہے جو دل مشتاق کی مسرت افزا اور ضمیر
صافی کی طرب پیرا ہے۔ آپنے مجھے لکھا تھا کہ صلح کی بنیادون کے محکم کرنے مین اور وفاق کے چشمون کے
صاف کرنے مین جانبین سے اہتمام کیا جائے اور ہندوکوہ ہمارے اور تمھارے درمیان ہو۔ ہمین یہ امر
بہت پسند آیا۔ ظاہر ہے کہ عالم کون وفساد ونشار تعلق مین کوئی امر توددو توافق سے زیادہ تر شریف
نہین ہے کہ سلسلہ کائنات کا انتظام اسکے ساتھ مربوط ہے جس وقت یہ بات طبقۂ سلاطین مین ظہور مین
آئے تو اُن سے حال ومال مین برکات کے ثمر حسنات کے نیتجے ظاہر ہوتے ہین اور اس سے خلق اللہ
کو عافیت وآرام ملتا ہے۔ مراسم مصالحت ولوازم مصادقت کے اظہار کی ابتدا ہماری طرف سے
ہونی چاہیئے تھی اس لیئے ہماری ساری ہمت ابتدائی سلطنت سے برخلاف اکثر فرمانروایون کے اصناف
بنی نوع کے ساتھ ہمیشہ ایتلاف وارتباط مین مصروف رہتی ہے اب کہ آپنے اس باب مین ابتدا کی ہر
تو ہمارے ذمہ پر اور بھی زیادہ لازم ہوا کہ اس رابطہ کی مراعت کرین اس لیئے ان دنون مین کہ شاہ ایران
نے یادگار سلطان شاملو کو بھیجکر استعانت چاہی ہمنے قبول نہین کی شاہرخ مرزا کی آرزو یہ تھی کہ
کابل کشمیر یا سواد بجور و تیراہ مین کہ ولایت سر سبز ہے جاگیر مل جائے مگر ہمنے قرب وجوار کا ملاحظہ کرکے اسکی
درخواست کو نامنظور کرکے مالوہ مین جاگیر دیدی قندھار قدیم مین ممالک محروسہ مین داخل تھا وہان سے مرزاؤن کو
بلا کر اس دیار کی حراست ملازمان بابری کے حوالہ کی کہ مبادا جنود توران ان حدود کو منسوبات ایران سے
خیال کرکے اس کا قصد کرے اور آپ کے اور ہمارے ممالک کے درمیان خلط عظیم ہو۔

بدخشان کوہستان مین ایک اوباش بدطینت نے شورش برپا کی اور مدعی ہوا کہ مین شاہرخ
مرزا کا بیٹا ہون اور اس نواح کے زمینداردن کو اُسنے اپنے ساتھ ملا لیا چند اسنے عرضداشت
بھیجکر استمداد کی مگر ہمنے اسپر توجہ نہین کی یہان تک وہ دشت ادبار کا آوارہ ہوا۔ مین یہ چاہتا

بادشاہ کے نامے والی توران کے نام

ہون قاصد ونامہ جن باتون کی گذارشس کرتے ہین انکی فی الواقع تصدیق ہونے کے لئے اس سے بہتر کوئی بات نہوگی کہ کوئی جاے مقرر ہو کہ بغیر کسی غیر کے واسطے کے مقاصد دینی و دنیوی ومطالب صوری ومعنوی کی تنقیح وتحقیق روبرو ہون - ہمنے ایسا سُنا ہی کہ جب ہم حدود پنجاب مین تھا تو کس طینتون کی ایک جماعت نے ایسی باتین بنائین جو دوستی کے مخالف تھین کبھی میرے دل وزبان مین فرق نہین ہوتا اور جو امر کہ تحریر وتقریر مین آجاے اس کے خلاف نہین کرتا اگرچہ اس دیار کی آب وہوا اور سیر وشکار خوش معلوم ہوتی ہے مگر اب ارادہ ہے کہ دار الخلافہ آگرہ کی طرف نہضت کی جاے کہ بیہودہ بکنے والون کی زبان بند ہو جاوے - آپ نے جو لکھا تھا کہ مجھے مرزا شاہرخ کیطرف سے غبار ہے اس مین مجھے تامل ہوا کہ مقدس فرمانروایون کے دلون مین ہمسرون سے غبار نہین ہوتا اور عام طبقات سے کس طرح وہ ہو سکتا ہے - علی الخصوص جب اس کا منشا خرد سالی اور نادانی ہو تو اُسکو عفو سے محو کرنا چاہیئے - اس نے ہمارے دودمان کے ساتھ خودکامی کے سبب سے تقصیرات کین تھین - اسکے مکافات مین وہ بادیہ غربت مین سرگشتہ ہوا جب شرمندہ ہو کر ہماری پناہ مین آیا ہم نے اُسکے قصور معاف کر دیئے آپ نے جو یہ ایما کیا تھا کہ شاہرخ مرزا اور محمد حکیم مرزا کے بیٹے جو ہمارے آستانہ پر التجا لائے اس کا سبب آپکی اور ہماری محبت تھا مگر یہ خاص ہمارے منتسبون مین سے ہین انکی نسبت ہم یہ تصور نہین کرتا جو آپنے لکھا ہی آپنے جو اپنی فتوحات کی تفصیل لکھی ہین وہ آپ کی حسن نیت کا نتیجہ ہے اس سے ہم خوش ہوئے - وہ نامہ کہ آپنے ملا حسینی کی معرفت بھیجا تھا اور اس مین لکھا تھا کہ فرزند عزیز نے خرد سالی کے سبب سے چند نالایق خواہشین لکھی ہین میرا دل نگران ہے کہ مبادا وہ غبار خاطر ہوئی ہون اور اسکی استعذار مین آپنے بہت تفصیل کی اس کا حال یہ ہے کہ قاصد پہلے اس سے کہ میرے پاس آئے اثنا راہ مین ڈوب گیا اور اس خط کا مضمون نہ معلوم ہوا کہ کیا تھا اس واقعہ سے ہم کو تاسف ہوا - ہمارے اور آپ کے درمیان قرابت قدیم کے روابط ومحبت جدید کے ضوابط نے ایسا انتظام اور التیام نہین پایا ہے کہ اگر بالفرض کوئی بات ہوتی تو مجھے ناگوار ہوتی - فرزندون کو پدران حقیقی کے ساتھ ناز ہوتا ہے اگر پدران مجازی کے ساتھ اس کا ظہور ہو تو کیا دور ہے - یہ جو آپ نے لکھا تھا کہ احمد علی اتالیق کے آنے پر بعض یورشین موقوف

ہین سو یہ ایلچی مرگیا۔ اگر وہ زندہ آپ پاس پہونچتا تو بہت سے اسرار مصادقت و غوامض موافقت آپ کو اسکی زبان راست گو سے معلوم ہوتے۔ جو ارادہ کہ آپکے دل مین ہو اس کو قوۃ سے فعل مین لائی جو معاونت آپ چاہین گے مین اُس کے لئے موجود ہون - الحمد للہ کہ جب سے تخت سلطنت پر بیٹھا ہون اب تک کہ قرن ثانی کا دسوان برس ہے (قرن سے مراد ۳۰ سال ہے) اور صبح اقبال کے انکشاف کا اوائل اور بہار اجلال کے ابتسام کا مبدا ہے - مجھ نیازمند درگاہ آلہی کی نیت حق اساس یہ ہے کہ اپنے اغراض کو منظور نہ رکھکر ہمیشہ اہل جہان کے التیام اور انتظام مین کوشش کرون اور اس نیت کی برکت سے ہندوستان کی مملکت وسیع جو چند والا شکوہ فرمان رواؤن مین منقسم تھی ہمارے حیطۂ تصرف اور احاطۂ اقتدار مین آئی اور طبقات انام جو پہاڑون اور مضبوط قلعون اور مشکل مقامون مین مغرور بیٹھے تھے اور کسی کے آگے سر نہین جھکاتے تھے اور مخالفت کرتے تھے وہ ہماری درست نیت کے سبب سے اب ہماری اطاعت کرتے ہین اور ہم سے ارادت رکھتے ہین اور طوائف اناس باوجود اوضاع کے تباین و اطوار کی مخالفت کے روابط پیوند رکھتے ہین اب تک مین نے اپنی درستی نیت و راستی گفتار و حسن اعمال کے نتائج کو بیان کیا۔ اب تاگزیر ہے کہ کچھ خدا کی نعمتون کا شکر و ذکر کرکے آپ کی بزم یکجہتی کو خوش کرون آپ کو معلوم ہو کہ اندنون مین جو مین پنجاب مین آیا اگرچہ اول پیش نظر میرے یہ تھا کہ ان حدود مین سیر و شکار کرون - لیکن اب ایک ارادہ کشمیر کی تسخیر کا ہوا۔

کشمیر کی ولایت دلکشا استحکام و استحصان مین اپنا نظیر نہین رکھتی اور نزاہت و لطافت مین ضرب المثل ہے آئین ابتک سلاطین روزگار نہین گئے - ہمیشہ سے اس کام کی بنیاد ڈھونڈتا تھا - خدا کی مدد سے بیر و کیش بہادرون اور شہامت اندیش غازیون نے اسے تھوڑے دنون مین فتح کرلیا اگرچہ وہان کے حکام نے جنگ و جدل مین تقصیر نہین کی لیکن ہماری نیت حق اساس خیر بخش تھی - اچھی طرح سے یہ ملک مفتوح ہو گیا اور خود ہم اس سرزمین مین گئے اور وہان خدا کی اس نئی عطا کا شکر ادا کیا چونکہ کابل مین سیر و شکار و اس عشرت سرای کی گلگشت مانوس طبعی تھی - کوہستان کشمیر و تبت کی نہایت انتہا تک سیر کی اور اس نگارستان صنع آلہی مین نوادر کی سیر چشم عبرت بین سے دیکھی پکلی اور دمتور کی راہ سے جریدہ کابل کے

عرصۂ دلنشین مین آیا۔ اس راہ مین تصادم کوہسار و تراکم گریوہ و مغاک ایسا ہے کہ آسمان سیر از فکار او بلندی
پیمائے اوہام اس سے عبور کرنا دشوار پاتے ہین ۔ یہ بھی ہمارے حق پرست خاطر مین تھا کہ ٹھٹہ جو ہماری
مملکت روز افزون کے مغرب مین دریائے شور کے کنارہ پر ہے اور وہان کا حاکم اس مرزبوم کے زیردستون پر
عدالت نہین کرتا تھا اسکو اول نصائح ہوش افزا فرماکر فرمانبرداری کی راہ پر رہنمون ہون اور اگر وہ اپنی
بدنصیبی سے گوش نصیحت نیوش نہ رکھتا ہو تو اس ولایت کو کہ ایک آباد مملکت وسیع ہے کسی فرمان پذیر دادگر کو
حوالہ کرون وہ عقل صلاح اندیش و دیدہ دوربین و گوش شنوا نہ رکھتا تھا۔ ہماری داستان موعظت کو افسانہ سمجھا۔
اور خودکامی کے سبب سے ہوشمندی کو چھوڑا ہم نے اس ناحیہ مین شائستہ لشکر بھیجا قریب دو سال کے اخلاص مند
بہادرون نے ہر طرح کا تردد اور اہتمام کیا۔ دریا و صحرا مین طرح طرح کی لڑائیان لڑے ۔ چونکہ ہماری نیت
حق پذیر خلق اللہ کی رفاہیت پر تھی ۔ سب جگہ نصرت و فیروزمندی ہمارے عقیدتمند گروہ کو حاصل ہوئی
یہ ایک قدیم آئین چلا آتا ہے کہ کوتاہ بین معاملہ ناشناسون کا کام تباہ ہوتا ہے وہان کے حاکم نے شکست پر
شکست پائی مگر اسکی ذات مین مایۂ سعادت تھا وہ پیمان کر کے ہماری پناہ مین آیا اور وہ تمام وسیع مملکت
اور اس دیار کے قلعے ہماری ممالک محروسہ مین داخل ہوئے اسکے احوال سے ہم نے اسکی سعادتمندی دیکھ کر
پھر اس ملک کو جو جنگ عظیم سے ہاتھ لگا تھا اس کو دے دیا ۔ ہماری ضمیر صواب اندیش مین یہ بات بھی تھی
کہ درشت سیرت و بہائم سیرت افغانون کو کہ مور و ملخ سے زیادہ تھے اور سواد و بجور و تیراہ کے پہاڑون
مین رہتے تھے اور ہمیشہ توران کے قافلون کے سدراہ ہوتے تھے انکی تادیب و تنبیہ کیجائے اس نے بھی
بمقتضائے عدالت شائستہ صورت پکڑی انمین سے اکثر نے حلقۂ اطاعت و انقیاد گوش ہوش مین ڈالا اور قطاع
الطریقون کا ایک گروہ جسکے دماغ مین شقاوت و انحراف کا بخار بھرا ہوا تھا ہاتھیون سے پائمال ہوا اور بہت سے
قہر الٰہی کے جبال مین اسیر ہو کر فروخت ہوئے اور نیز ہمارے دل مین یہ بھی تھا کہ بدنہاد بلوچون کی اصلاح
و افلاح ہو کہ ہمیشہ انحراف و اطاعت کی خوف و رجا مین رہتے ہین اور ایران جانے والون کے سدراہ
ہوتے ہین اور یغما کو غنیمت جانتے ہین اور اکثر بندگان خدا کو بے برگ و بے مایہ کرتے ہین یہ کام بھی ہمارے
حسب دلخواہ ہوا پنجاب مین ہم تھے کہ ہماری نیک نیتون کی برکت سے سلطان مظفر گجراتی کہ چالیس ہزار

لشکر پر مغرور تھا گرفتار ہوکر آیا اس دیار کے سب سرکشون اور گردن افرازون نے پناہ مانگ کے غاشیۂ خراج دوش پر رکھا اور ایک عجیب واقعہ یہہ ہے کہ جب سلطان مظفر ہمارے پاس آتا تھا تو اُس نے اپنے تئین مار ڈالا ہماری مصلحت یہ ہے کہ ہماری خاطر ہرگز بنی آدمی کے مارنے کا اور بنیان ربانی کے اُکھیڑنے کا بہت پاس و لحاظ کرتی ہے غالب یہ تھا کہ اگر وہ ہمارے سامنے آتا تو سلامت رہتا اور مبارزان پیکار طلب کے اہتمام سے سومنات جو جوناگڈھ مشہور ہے اور تمام ولایت سورت کہ دریائے عمان کے کنارے پر جنوب رویہ ہے ہمارے تصرف مین آئین اور نیز برہان الملک برادر نظام الملک جس پاس دکن کی ولایت منتظم تھی وہ حوادث روزگار سے پناہ مین آیا اس وقت تک کہ اس بلاد کی معدلت کی خبر ہمارے کانون مین پہنچتی رہی اسکو عواطف جلیلہ سے مستمال فرماکر دکن کی تسخیر کو التوا مین رکھا مگر جب رعایا کی ستم رسیدگی کی خبر ہمارے پاس آئی تو امراء مالوہ و خاندیس نے حکم والا کے موافق کار بند ہوکر برہان الملک کو اس ولایت کی حکومت دلا دی اور معاودت کی مگر وہ کوتاہ حوصلہ تھا وہ دنیا آزمائی کی شراب کی تاب نہ لایا اور استقلال کا دم بھرنے لگا چونکہ مسلک ناسپاسی پر چلنا اپنا اسبیضا کرتا ہے۔ تھوڑے دنون مین نہ اُسکا نہ اسکی اولاد کا کوئی اثر باقی رہا اور وہان کے آدمیون نے اس سلسلے کے منسوبون مین سے کسی ایک کو حاکم بنایا اور نخوت آرا ہوئے۔ وہان سلطان مراد کی سرکردگی مین لشکرون کو بھیجا۔ یہ ملک دکن دوسرا ہندوستان ہے اس کا بہت سا حصہ وہ اپنے تصرف مین لایا اور ہمارے لشکر نے امصار بلاد شرقیہ مین اڈیسہ کی ولایت وسیع کہ متصل دریا رشور کے ہے تسخیر کی اور کئی ہزار سپاہی امان مانگ کر ہمارے ملازم ہوئے چونکہ خدا کی نعمتون کا گننا ایک دراز داستان ہے آپکی خاطر کی انبساط کے لیئے اسپر اکتفا کیا گیا۔

دوسرا مکتوب بنام فرمانروائے توران

ایک اور مکتوب مین پادشاہ نے اس فرمانروا کو لکھا ہے کہ ابتداء جلوس مین اورنگ جہانبانی پر کہ قرن ثانی کی ابتدا ہی توفیق ازلی کی مساعدت سے اور تائید سماوی کی معاضدت سے ہماری خاطر حق پرست مین اس جلوہ نمائش کی ہی کہ سلطنت و فرمان روائی واہبت و کشورکشائی سے مقصود یہ ہی کہ مراسم شبانی کی تقدیم اور لوازم پاسبانی کا اقدام ہو۔ نہ یہ کہ مال و منال جمع کیا جائے اور حظوظ نفسانی و مستلذات جسمانی مین ڈوب جائے اسلیئے

طریق سلوک اور سلوک طریق مجھ نیازمند درگاہ الٰہی کا یہ ہے کہ دوست و دشمن و خویش و بیگانہ سے بغیر مدارات و مواسات و معاطفت و مباسات کے کوئی دوسرا امر نہ کیا جائے اور ہمیشہ عموم خلائق و جمہور انام کی ترفیہ احوال اور آسودگی اوضاع مین دل مصروف اور اس مقصد بلند و مطلب ارجمند مین توجہ کو معطوف رکھے حق جل و علا گواہ ہے وکفی باللہ شہید اکہ ممالک ہندوستان جسکو ربع مسکون کے سیاح چاردانگ عالم کہتے ہین تین طرف سے دریائے محیط سے ملا ہوا ہے انکی تفتیح و تسخیر بمقتضا ہوا و ہوس نہین ہوئی ہے بلکہ ہماری ہمت کے پیش نہاد مظلومون کی رعایت اور بیکسیون کی حمایت کے سوا کوئی اور امر نہ تھا یہی سبب ہے کہ جسطرف عنان عزیمت معطوف ہوئی فتح و نصرت نے استعجال کے ساتھ استقبال کیا آپ نے جو رسل و رسائل کے ارسال کے موانع کے باب مین ایما کیا تھا اس باب مین عقل کے نزدیک کچھہ نہ کہنا کہنے پر ترجیح رکہتا ہے۔ اس قطعہ پر جو اجلۂ اکابر دین سے منقول ہے کفایت کرتا ہون **قطعہ**

قِیلَ اِنَّ الاِلٰہَ ذُو وَلَدٍ	قِیلَ اِنَّ الرَّسُولَ قَدْ کَہَنَا
مَا نَجَا اللّٰہُ وَ الرَّسُولُ مَعًا	مِنْ لِسَانِ الوَرٰی فَکَیْفَ اَنَا

الحمدللہ کہ جب سے پیدا ہوا ہون اور مجھے سلطنت ہین ہمیشہ منہج قویم ملت و دین و مسلک مستقیم حق و یقین میرے مدنظر رہا ہے بموجب الملک والدین توامان ہماری سلطنت کی ترقی ہماری کمال دینداری پر دلیل قاطع و حجت ساطع ہے۔ خدا تعالے سب کو اپنی مرضیات مین راسخ دم و ثابت قدم رکھے مین نے ہمیشہ یہ چاہا کہ کل خلائق لوازم عبادت الٰہی و مراسم معاش خیرخواہی مین سعی کرین ان ممالک وسیع کو مین نے اہل ایمان کا ساکن مواطن بنایا اہل کفر و خذلان کے معابد و کنائس کو مساجد طاعت و مشاعر عبادت اہل ایقان کا کیا۔ الحمدللہ کہ جیسا دل چاہتا تھا ویسا ہی التیام و انتظام حسب مدعا سامان سرانجام ہوا جنود ہنود کے گردن کشون نے حلقۂ اطاعت گوش انقیاد مین کھینچا اور ہماری لشکر مین داخل ہوئے اور طوالف انام مین ارتباط و ائتلاف پیدا ہوا۔ یہ بھی پیش نہاد ہے کہ جب یہان کی مہات کلی سے فراغ حاصل ہو تو جزائر دریائے شور مین کہ کفار فرنگ نے سر اٹھا رکھا ہے اور حرمین شریفین کے زائرون پر دست تعدی دراز کر رکھا ہے اور انکی ایک جماعت جمع ہو کر زائر و تاجر کی سنگ راہ ہوتی ہے خود توفیق ایزدی سے متوجہ

ہوکر اس راہ کو خار وخس سے پاک کرے مین نے یہ سنا ہے کہ والی ایران سے بعض امرا اسکے پھر گئے
ہین میرا ارادہ ہے کہ ایک بیٹے کو شاہ ایران کی حمایت کے لیے بھیجون اور جب تک کہ انکی معاندت سے
خاطر جمع نہوگی اور امر پر متوجہ نہون۔ الحال سلطان روم نے اپنے باپ دادا کے عہود ومواثیق کو بالکل معدوم
سمجھکر عراق پر کئی دفعہ فوج کشی کی ہے قطع نظر اس سے کہ شاہراہ سنت وجماعت سے شاہ ایران نے
انحراف کیا ہے لیکن محض خاندان نبوت سے انتساب رکھنے کے سبب سے ہم اسکی معاونت پر متوجہ ہین۔
اس زمانہ مین سنا ہو کہ ہمارے پاس فرمانروائے ایران نے علی قلی سلطان ہمدانی او غلی کو تحف وہدایا کے ساتھ
کمک ومدد کی التماس کرنے کے لیے بھیجا ہے اس لیے ہم پر واجب ولازم ہے کہ عراق وخراسان کیطرف جائین
امید ہے کہ حدود خراسان مین آپ سے ملاقات ہو اور پھر حاکم عراق وخراسان کی امداد وکمک کے باب مین
جو ہماری اور آپ کی رائے ہو وہ کیا جائے گا۔

ایک تیسرے مکتوب مین بادشاہ اپنے خیالات مذہبی کو اس پیرایہ مین بتلاتا ہے کہ عقل کو کہ خاتم کبریا کا فیروزہ
ہے معطل نہ چھوڑنا چاہیے ہمیشہ مسالک معاش ومعاد مین اس سے استعانت واستمداد طلب کرنی لازم
ہے خصوصًا اس صحبت مین کہ سیاہ دل لکھے پڑھے سب کا رتیرہ درونی چاہ وزبردستی وخودی وخودپرستی کی
خواہش مین کاغذ پر آنکھون کو سیہ کر فرمان آسمانی ونامہ جاودانی کو کہ خدا کا فرستادہ اور پیغمبر کا رسانندہ
ہے شاہراہ سے پھراکر اور رنگ سے دکھلاتے ہین محملات نصوص کی تاویلات وتسویلات کرکے چاہتے
ہین کہ فرمان روائی اور کارگذاری مین شریک بادشاہی ہون اس سبب سے دل دانش گزین ہمیشہ مرضیات
آلہی کی تحصیل مین رہتا ہے چونکہ ہر باب مین بہت سے اختلافات سننے مین آتے ہین مطالب علمی وعملی مین دلائل و
براہین کی طلب کرتا ہون۔ ہمیشہ غوامض مسائل دین کا استکشاف ومقاصد مجتہدین کی تنقیح وعقائد سلف کے
مستنبطات اور اقاویل خلف کے ماخذ اور موارد خلاف کا تفحص اور مواقع اختلاف کا تصفح کرتا رہتا ہون
اور منشار خلافی جو اس ایک ہزار سال مین علما امت کے درمیان متنازعہ فیہ ہین اور جنکی تفصیل
کتب متداولہ مبسوطہ ومشتمل ہین دریافت کرتا ہون۔ مبادی احوال مین اس باب مین گفتگوان تا وانونکی
کساد بازاری وبے رونقی کا سبب ہوئی جو تلبیس وتزویر کرکے ارباب دانش کے لباس مین آکے

اپنا اعتبار پیدا کرتے ہین ...... اور ان ارباب دانش کا اعتبار بڑھا کر اس طائفہ کے سبب سے کونے بین بیٹھے تھے اس جماعت نادان دانانما نے اپنی قبح شرپرست وسوء سیرت کے سبب سے ہماری نسبت بعض مقدمات نالائق کو شہرت دی جو امراے بنگالہ کی مزید اغوا کا سبب ہوئے یا امراء ممالک شرقیہ ہندوستان مین مقرر تھے اور انکی بدطینتی وکم ظرفی کے سبب سے بغاوت کا ارادہ انکے بیہودہ دماغ کو فاسد کرتا تھا۔ مدت سے وہ اپنے گھر سے دور تھے اور گھر آنا نہین چاہتے تھے اور باغی ہوجانا چاہتے تھے انھون نے ہماری نسبت یہ مشہور کیا کہ بادشاہ کبھی دعائے الوہیت کرتا ہے کبھی دعوائے نبوت۔ اس سے وہ خود ہی خاص وعام مین رسوا ہوئے فی الواقع جناب کبریائے الٰہی کی ساحت مقدس مین امکان کے خس وخاشاک کو کیا نسبت ہے اور نبوت کے سرا پردہ عصمت مین ہوا و ہوس کے پابندون کو کیا مناسبت ہے تعجب ہوتا ہے کہ آپکی مجالس مین ایسی باتون کا ذکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ والمنۃ کہ مین ہمیشہ فرمودہ خدا و پیغمبر پیش دیدہ دانش رکھتا ہون اور میری خوش نصیبی کی روز افزونی میرے اس حال کی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مرضیات مین ثابت قدم وراسخ دم رکھے۔ چونکہ ساری ہمت سلاطین عادل کی رضائے خالق وآسودگی خلائق مین مصروف ہوتی ہے ان کو اسطرح سلوک کرنا چاہیے کہ خلق خدا ارباب شرارت کے آسیب سے امن مین رہے اور عبادت الٰہی کے لوازم مین اور معاش خیرخواہی کے مراسم مین فارغ البال رہین محض خلق خدا کی رفاہیت کے لیے اس تیس سال مین زمین ہندوستان کے پاک کرنے مین ایسی کوشش کیگئی ہے کہ کتنے فرمانروا راجاؤن کی ذمانہ سرکشون کی دشوار جاہین ہاتھ آئین اور کل سرانجام ایسے شائستہ طور سے کیا گیا ہے کہ بدکیش ہندؤون کے بتخانے خدا اندیش درویشون کی خانقاہین ہوگئی ہین ناقوس کی آواز کی جگہہ بانگ نماز بلند ہوتی ہے۔

شہنشاہ اکبر کی خط وکتابت شاہ ایران سے بھی ہمیشہ رہتی تھی چنانچہ ۹۶۹ھ مین شاہ طہماسپ کا ایلچی آیا تھا اور ۱۰۰۰ھ مین شاہ عباس بادشاہ ایران کا ایلچی یادگار سلطان شاملو آیا۔ بادشاہ نے اسکے ہاتھ یہ نامہ لکھا جسکے اندر وہی باتین لکھی ہین جو شاہ توران کے مکاتیب مین لکھے ہین مگر یہ ایک نئی بات ہے وہ لکھتا ہے کہ جن دنون ہم پنجاب مین تھا مکرر یہ عزم ہوا کہ ماوراءالنہر کہ میرا ملک موروثی ہے جاؤن

شہنشاہ ایران کے ساتھ مراسلت

کہ یہ ملک بھی میرے تصرف مین آجائے اور خاندان نبوت کی معاونت بطرز دلخواہ ہو جائے۔ لیکن اس اثناء مین عبداللہ خان والی توران کے متواتر خط محبت طراز آئے۔ کاروان ایلچی بھیجکر وہ محرک سلسلہ صلح وصلاح و موسس وداد و وفاق کا ہوا - چونکہ ناموس اکبر شریعت غرا اور قسطاس اعظم بیضا ضیا مین ایسے شخص سے لڑنا جو صلح چاہے ناپسندیدہ و ناسنجیدہ ہے اس سبب سے ہم اس خیال سے باز آئے شاہ ایران اور شاہ توران سے جو خط وکتابت جاری رہے اور طرفین کے ایلچی اور تحفے تحائف آتے جاتے رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پادشاہون مین ہمیشہ اتحاد و وداد کی نیت رہی عبداللہ خان اوزبک ہمیشہ اس پیئے خوش ہوتا رہا کہ شہنشاہ اکبر سے اتحاد رکھتا ہے۔

شاہزادہ سلیم کی پیدایش اور اسکی ناہنجاریان

ہم پادشاہ کی اولاد اور ازواج کا حال بعد اس کی وفات کے ذکر کے لکھین گے۔ اسوقت صرف شاہزادہ سلیم کی پیدائش اور اسکی ناہجاریون کا ذکر کرتے ہین۔

پادشاہ کے دو بیٹے حسن وحسین توام ۳ ربیع الاول ۹۷۲ھ کو پیدا ہوئے اور ایک مہینے جی کر ماں باپ کو داغ دے گئے اس لئے انکے زندہ نہ رہنے سے پادشاہ کو بیٹے کی نہایت تمنا تھی قصبہ سیکری مین شیخ سلیم کی خداشناسی وایزد پرستی وریاضت کشی وحقیقت ورزی کے انوار چمک رہے تھے شیخ کے قرب وجوار مین ایک محل بنوایا اور اسمین بیوی جودہ بائی مریم الزمانی جو حاملہ تھی بھیجدیا کہ شیخ مولود کے زندہ رہنے کی دعا خدا سے مانگے۔ سوا اسکے تغیر مقام اور تبدیل مکان کی حکمت بھی پیش نظر تھی روز چہارشنبہ ۱۷ ربیع الاول ۹۷۷ھ کو شاہزادہ پیدا ہوا اس کا نام شیخ کے نام پر سلیم رکھا گیا مگر پادشاہ اس کو پیار سے شیخو بابا کہتا تھا۔ اس وقت پادشاہ آگرہ مین تھا۔ یہان بیٹے کی خوشی مین ہمات ...... روز جشن رہا قیدیون کو پادشاہ نے رہا کیا۔ بہت کچھ انعام اکرام دیا۔ اس شہزادہ کی پیدائش کی تاریخین دُر شہوار لجۂ اکبر دُرے برج شاہنشاہی۔ خواجہ حسن مروی نے یہ ایک قصیدہ لکھا جس کا مطلع ہم نقل کرتے ہین اسکی ہر بیت کے مصرع اول سے

پادشاہ کے جلوس کی اور مصرعۂ دوم سے شاہزادہ کے ولادت کی تاریخ نکلتی ہے۔ ۵

للہ الحمد از پے جاہ وجلال شہریار گوہر مجد از محیط عدل آمد برکنار

پادشاہ نے اس قصیدہ کے صلہ مین دو لاکھ ٹنکہ دیئے۔ پادشاہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو پیادہ پا اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کی زیارت کو جاؤنگا چنانچہ وہ جمعہ ۲ شعبان ۹۷۷ھ مین دارالخلافۂ آگرہ سے پیادہ پا زیارت کو گیا اور وہان چند روز توقف کیا بہت روپیہ مجاورون کو بانٹا۔ ایک جماعت حضرت کی اولاد ہونے کا دعوے کرتی تھی اس کا رئیس شیخ حسین تھا وہ سب نذر کے روپیے پر متصرف ہوتا تھا۔ اس مین اور درگاہ کے اور مجاورون کے درمیان جھگڑا ہوا۔ مجاورون نے دعوے فرزندی کی تکذیب کی پادشاہی تحقیق سے معلوم ہوا کہ فرزندی کے دعوے کی کچھ اصل نہیں ہے۔

شاہزادہ سلیم کی عمر جتنی زیادہ ہوتی گئی اتنا ہی وہ پادشاہ کی آزاری مین بڑھتا گیا ۱۰۰۷ھ مین جب پادشاہ دکن کو گیا ہے تو اس سبب سے کہ سفر دور و دراز کا تھا۔ سلطان سلیم کو اپنا ولیعہد مقرر کیا۔ اور شاہنشاہی کا خطاب دیا۔ اور اس نظر سے کہ اودے پور کے رانا کی سرکشی کا علاج خاطر خواہ ہو صوبۂ اجمیر اُسکے تیول مین دیا اور راجہ مان سنگھ اُس کے خسر پورہ اور شاہ قلیخان محرم کو اُسکے ساتھ کیا کہ اپنی رائے صائب اور رزم آزمائی سے اُس کی امداد کرین۔ فیل وخوا ہادہ ایک لاکھ اشرفی سے مفتخر کرکے رخصت کیا۔ راجہ مان سنگھ کو پادشاہ نے صوبۂ بنگالہ سے تبدیل کیا تھا اب اس کو بدستور سابق بحال کرکے یہ حکم دیا کہ خدمت شاہنشاہی (شاہزادہ) کو خدمت پادشاہی پر تقدیم دے اور اپنے بڑے بیٹے جگت سنگھ کو یا کسی اور کو جو اس کے نزدیک مناسب ہو بنگالہ کی نگہبانی کے لیئے اپنا نائب مقرر کرکے بھیجدے۔ ایک ہی ساعت مین پادشاہ دکن کو اور شاہزادہ اجمیر کو روانہ ہوا۔ سلیم تن آسانی اور بادہ پیمائی اور بد ہمنشینی کی وجہ سے اجمیر مین عیش وآرام مین مصروف ہوا یعنی سیر و شکار کرتا ہوا اودے پور مین آیا رانا نے دوسری طرف سے نکل کر شورش اُٹھائی اور مالپورا اور بعض اور آبادیون کو لوٹ مار کرکے

شہزادہ سلیم کی بادشاہ سے بیزاری

ستیاناس کیا۔ جہان گیر نے ماد ہو سنگھ کو لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ رانا پھر کوہسار مین فرار ہوا اور اس بازگشت مین اُسنے لشکر شاہی پر شب خون مارا۔ رضا قلی۔ لال بیگ۔ بہادر بیگ الف جان اس سے ایسے لڑے کہ وہ بھاگ گیا۔ پھر لشکر شاہی نے رانا کے ملک کو کھوند مارا ہزارون کو ہلاک کیا اور ان کے جورو بچون کو قید کیا پہلے اس سے کہ سلیم اس اپنی خدمت کو شائستگی کے ساتھ انجام دے ناشائستہ آدمیون کی رہنموئی سے خود سری کا خیال دل مین سمایا اور پنجاب کا ارادہ اس نیت سے کیا کہ طبیعت کے موافق خوب کام کرے کہ۔ ناگاہ بنگالہ کی خبر آئی کہ وہان افغانون نے شورش مچائی ہے اور راجہ کے نائب نے شکست پائی ہے جس کا حال ہم پہلے بیان کر چکے ہین۔ شاہزادہ نے اپنے ہمراہی امیرون مشورہ کیا کہ بنگالہ کا قصد کرنا چاہیئے بعض فتنہ جو اور واقعہ طلب امیرون نے اس کو یہ صلاح بتلائی کہ بادشاہ دکن گیا ہوا ہے اسکی فتح بغیر اس کا یہان یکایک آنا بھی عزیمت شاہانہ سے دور ہے اگر اس وقت راجہ مان سنگھ کو بنگالہ رخصت کیجئے گا۔ وہان کا فساد مٹ جائے گا اکبرآباد کی طرف متوجہ ہو جیئے اور وہان کے سیر حاصل خالصہ کے پرگنات اور محال پر قبضہ کیجئے اس ضلع کے ادر جاگیر دارون پر اختیار حاصل کر کے خزانہ جمع کیجئے تو نہایت مناسب ہوگا۔ احباب کی اس مصلحت خام کو سلیم نے بہ تقاضائے ایام شباب مان لیا۔ راجہ مان سنگھ کو بنگالہ بھیجا راجہ نے بھی شاہزادہ کی بازگشت مین اپنا عین مدعا سمجھا کہ بنگالہ کا بندوبست ہو جائے گا شاہزادہ رانا کی مہم کو موقوف کر کے اکبر آباد کا عازم ہوا اور راہ مین تمام شاہی محالون اور جاگیر دارون پر قبضہ و تصرف کرتا ہوا غرہ مرداد ۱۰۰۹ھ کو جمنا کے کنارہ پر اکبر آباد سے چار کوس پر آپہونچا۔ قلیچ خان کی حراست مین اکبر آباد کا قلعہ تھا وہ بڑا صاحب تدبیر و عاقل مشہور تھا وہ قلعہ سے باہر آیا اور صدق و اخلاص سے سلیم کو نذر دی اور ایسی اپنی خیر خواہی بادشاہ کے ساتھ ظاہر کی اور شاہنشاہی کی نابدی سے باز رہنے کی رہنمائی کی شورش انگیز و اقعہ طلبون نے اس کو ہر چند سمجھایا کہ قلیچ خان کو وہ قید کر لے جس سے اکبر آباد کا قلعہ آسانی سے ہاتھ آجاوے گا۔ وہ دفائن اور خزائن سے مالامال

ہے۔ مگر شاہزادہ نے اُن کی اس بات کو نہ مانا اور قلیچ خان کو قلعہ کو واپس کیا اور حکم دیا کہ قلعہ کا
سب طرف سے خوب بندوبست کہے۔ شاہزادہ کی دادی مریم مکانی کو اُس کی اس نافرمانی پر
تعجب تھا اُس نے اس پوتے کو بیٹے کی طرح پالا تھا وہ قلعہ اکبر آباد سے پوتے کے
سمجھانے کو باہر آئی۔ پوتے نے جب یہ دادی کا آنا سُنا تو وہ کشتی مین بیٹھہ الہ آباد روانہ ہوا
ملاحون کو انعام دیا کہ کشتی کو تیز چلائیں اور لشکر کو خشکی کی راہ سے الہ آباد روانہ کیا۔ دادی
آزردہ خاطر ہوکر قلعہ اکبر آباد مین واپس چلی آئی۔ غرہ صفر ۱۰۰۹ھ کو پوتا قلعہ الہ آباد مین
آگیا۔ یہان آن کر آس پاس کے صوبون اودہ اور بہار پر قبضہ کرکے کل محال شاہی اپنے
سرکار کے ملازمون کو دئے دین اور سب جگہہ اپنی طرف سے حکام مقرر کیے۔ اپنے
کوکہ شیخ جیون کو صوبہ بہار اور قطب الدین خان کا خطاب عطا کیا اور لعل بیگ (لالہ بیگ)
کو سرکار جون پور عنایت ہوئی اور تم بہادر (نسیم بہادر یا ینیم بہادر) کو سرکار کالپی
مرحمت ہوئی۔ اور دیوان کھنسو خزانچی پاس جو صوبہ بہار کی خالصہ کی آمدنی کا بیس لاکھ
روپیہ تھا وہ اپنے تصرف مین لایا۔ جب دکن مین باپ کے کانون تک بیٹے کے
ان کوتکون کا حال پہونچا اور یہان لشکر کے خیمے خیمے مین یہ خبر منتشر ہوئی اور خاص و عام
کی زبان زد ہوئی اور یہ وقائع اُسنے متواتر و مکرر سُنے اور اسی اثنا رمین شہزادہ دانیال
کے انتقال کی خبر آئی۔ ابتدا سے پادشاہ کو بہ نسبت اور فرزندون کے اس بڑے
بیٹے سے زیادہ محبت تھی اور اور بیٹون کے مرنے سے یہ محبت زیادہ تر ہوگئی تھی کہ وہ
عقل و تحمل کے سبب سے ان خبرون کے سننے سے ناراض نہوا بلکہ پدرانہ شفقت اور
لطف سے فرمان عنایت آمیز لکھا اور محمد شریف پسر خواجہ عبدالصمد شیرین قلم
کے ہاتھہ بھیجا وہ پادشاہ کا ہمدرس اور ہمباز تھا اور کلمات لطف آمیز بھی زبانی
اُسے کہلا بھجوائے کہ جسنے معلوم ہو کہ شفقت و محبت کا اظہار اور دیدار کا اشتیاق
اور طلب حضور عالی سرور کے ساتھہ ہوا ہے۔ جب محمد شریف وہان گیا تو اس نے

استقبال کیا اور فرمان کے لوازم تعظیم بجالایا اور باپ کی قدمبوسی کا ارادہ کرکے اپنے
ہمرازون ہمدمون سے مصلحت پوچھی تو ان بدکارون کی بدمشورت سے جانے پر جرائت
نہوئی اور محمد شریف کو واپس نہ جانے دیا۔ اس نے شاہزادہ کی ایسی خوشامد کی کہ
اس کو وکیل السلطنت مقرر کیا۔ جب از سر نو محمد شریف کے ساتھ اس سلوک کی
پادشاہ کو خبر ہوئی تو وہ اس فتنہ خانہ خیز کے مٹانے کو مہم دکن سے اہم سمجھا اور ملک
دکن کو جس مین اسکے چند روز رہنے سے کام اچھی طرح تمام ہوجاتا۔ ۱۵ اردی بہشت
۱۰۰۹ھ کو اُس نے چھوڑا اور اس ملک کی کارسازی کو خانخانان کی مردانگی وکاردانی اور
ابوالفضل کی جان سپاری پر چھوڑا اور ۲۰ امرداد ۱۰۰۹ھ کو اکبرآباد مین وہ آگیا
اندنون مین شاہزادہ نے خواجہ عبداللہ کو عبداللہ خان کا خطاب دیا اور شہریور ۱۰۰۹ھ
کو تیس چالیس ہزار سوار اور مصالح کارزار اور فیلان نامدار کے ساتھ اکبرآباد کی
طرف روانہ ہوا۔ ظاہر مین یہ کہا کہ مین باپ سے ملنے جاتا ہون مگر دل مین وہ خیال تھا
جو سلطنت پژوہی اور ملک جوئی کو لازم ہے بہت سے امراء حضور کی جاگیرون کو لوٹ لیا
یعنی اُن امیرون کی جاگیرون کو جو پادشاہ پاس موجود تھے۔ جب آصف خانی جاگیر
اٹاوہ مین آیا تو آصف خان نے ایک عرضداشت پادشاہ کے ایماء سے لکھکر اور ایک
لعل گران بہا اپنے وکیل کی معرفت شاہزادہ کی خدمت مین بھیجا اس پر شہزادہ نے
اس کی جاگیر سے کوڑی کوڑی وصول کی۔ پادشاہ پاس چارونطرف سے ہر ہفتہ
مین کیا بلکہ ہر روز شاہزادہ کی فتنہ افزائی کی ناخوش خبرین اور عرضداشتین آئین
امراء حضور نے جن کی جاگیرین صوبہ بہار مین ضبط کی تھین اور خصوصاً جعفر بیگ خان
نے جو دیوانی کی خدمت رکھتا تھا نالشین زیادہ کین۔ پادشاہ ان کے جواب مین اپنے
فرزندون کے باب مین سواے کلمات لطف آمیز ومحبت وشفقت افزا کے کچھ اور
زبان پر نہ لایا۔ جب فرمادین حدت گذرین اور سلطنت مین ایک برہمی پیدا ہوئی

شاہزادہ کا اٹاوہ مین آنا

اور شاہزادہ کی اٹاوہ سے کوچ کی خبر پادشاہ نے سُنی کہ وہ اس آئین سے آتا ہے تو اسکو بیٹے کے دیکھنے کی حسرت جاتی رہی بلکہ ایک وحشت و تفرقہ دل مین پیدا ہوا اور بیٹے کو ایک فرمان باپ نے اس مضمون کا لکھا کہ تجھ فرزند کا اس لشکر انبوہ اور فیلان پر شکوہ کے ساتھ آنا ہمارے دل مین کچھ اور خیال پیدا کرتا ہے۔

باپ کے گھر مین بیٹے کا آنا اس شوکت وحشم کے ساتھ اگر رسم کے طور پر ہے اور اس سے مطلب تجمل کا دکھلانا اور عرض لشکر سے ہے تو اس کا مجرا ہو گیا۔ آدمیون کو اپنے محال جاگیر مین رخصت کرو اور جریدہ ہمارے پاس آؤ اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ بدخواہون کی بادہ گوئی سے ہمارے دل مین تمھاری طرف سے وسوسہ و توہم ہے تو وہ ہرگز نہین ہے۔ لیکن اگر تم کو وہم ہو اور تمھارا اطمینان خاطر نہو تو الہ آباد واسطے چلے جاؤ اور جب دل صاف ہو جائے تو ہمارے پاس مقرری دستور کے موافق جریدہ چلے آؤ اور میری آنکھون کو اپنے دیدار سے منور کر دو۔ جب یہ فرمان آیا تو وہ ششدر و متحیر و اندیشہ مند ہوا۔ اور اٹاوہ سے میر حیدر کے ہاتھ پادشاہ پاس عرضداشت اس مضمون کی بھیجی کہ مین کس آرزو اور تمنا سے قدمبوس کے لئے حاضر ہوا تھا اب مجھے یہ حکم ہوتا ہے کہ الہ آباد کو الٹا چلا جا۔ اس کا مجھے کیسا افسوس ہے کہ میرے اخلاص و محبت کی تاثیر حضور کے دل پر نہ ہوئی اور فتنہ سرشتون کی بادہ گوئی کا اثر وہ ہوا کہ میری طرف سے دل بدگمان ہوا اور مجھے کچھ دنون ملازمت کی سعادت سے محروم رکھا۔ مجھے امید ہے کہ میرا صدق باطن حضور کی خاطر غیب ناظر پر جلوہ گر ہوگا۔ بعد اسکے چند روز اٹاوہ مین مقیم رہ کر اسنے الہ آباد کے سفر کا نقارہ بجایا۔ حقیقت مین اکبر کی برابر کوئی پادشاہ فرزند نواز کمتر ہوا ہوگا اس لئے اس زمانہ مین ایک اور فرمان بیٹے پاس یہ بھیجا کہ صوبہ بنگالہ اور اڈیسہ ہم نے اسکو مرحمت کیا۔ اپنے آدمی بھیجکر وہان بندوبست کرے اور راجہ مان سنگہ کو بھی لکھا کہ صوبہ بنگالہ شاہزادہ کے وکلا کو سپرد کر کے خود ہمارے پاس چلا آئے۔ اس عنایت سے پادشاہ کی یہ غرض تھی کہ اسکی طرف سے کوئی دغدغہ و وسوسہ بیٹے کے دل مین نہ رہے

مگر شاہزادہ نے اس عنایت کا شکریہ اور اس کے نہ قبول کرنے کا عذر لکھا۔ اپنے سردارون
اور اپنی جمعیت کو جدا کرنا مصلحت نہ سمجھا۔ الہ آباد مین توقف کیا اور جو سلاطین اور فرمانروا یونکے
دستور ہین وہ عمل مین لایا۔ منصب و اضافہ و خطاب و نقارہ و جاگیر عطا کیئے اور رام احضور
کی جاگیرون مین اپنے حاکم مقرر کیئے۔

انھین دنون ابوالفضل کو اس نے قتل کرایا جس کا حال ہم پہلے لکھ چکے ہین۔ جہانگیر نے
اپنے جہانگیرنامہ مین خود لکھا ہے کہ ابوالفضل ملحدون کا مقتدا تھا اور میرے باپ کے نام نامی کی
بدنامی کا باعث تھا اس لئے مین نے اس کا کام تمام اس تدبیر سے کیا۔

پادشاہ کی اس تقصیر سے وہ دل ہی دل مین ناراض و ناخوش تھا مگر مریم مکانی اور گلبدن بیگم
نے شاہزادے کے گناہون کی بخشایش کی درخواست کی اس کو پادشاہ نے قبول کیا وہ جانتا
تھا کہ شاہزادہ ابوالفضل کے قتل کرانے سے نہایت محجوب ہے اس لیئے اس نے اپنی بیوی
سلطان سلیمہ بیگم کو کہ دانائی و کاردانی و سخن سنجی مین سحرآفرین تھی بیٹے کی تسکین و ہدایت
و دلجوئی کے لیئے بھیجا اور تحفہ تحائف بھی اسکے ساتھ کیئے۔ باپ بیٹے کو ہمیشہ اقمشہ و
ماکولات و ملبوسات بھیجنے سے یاد شاد کرتا رہتا تھا اور بیٹے کا علاج حکیمانہ لطف کے
مرہم اور تدبیر کی دوا سے کرتا تھا۔ شاہزادہ دو منزل پر بیگم کے استقبال کو آیا اور آداب
فرزندی بجالایا۔ بیگم نے اسکے دل سے بالکل زنگ کدورت کو دھو دیا اور اپنے ساتھ لے کر
اکبرآباد کی عازم ہوئی۔ جب وہ حوالی دارالخلافہ اکبرآباد کے قریب آئی تو شاہزادہ نے ایک
عرضداشت دوست محمد کے ہاتھ بھجوائی جس کا مضمون یہ تھا کہ اس خداوند حقیقی اور خداے مجازی نے
اس بندہ کی تقصیرات کو معاف کیا امیدوار ہون کہ حضرت مریم مکانی کو ارشاد ہو کہ وہ فرزند
پروری فرما کر نیازمند کو پادشاہ کے پاس پہنچائین۔ تاکہ میرے دل مین کوئی وہم نہ آئے۔
اور یہ بھی حکم ہو کہ منجم کوئی ساعت سعید میرے قدمبوسی کے لیئے مقرر کرین پادشاہ نے پوتے
کا پیغام دادی سے کہہ دیا اس نے قبول کیا جسکی اطلاع پادشاہ نے بیٹے کو کی اور ساعت کے

باب مین یہ اشعار جعفر بیگ آصف خان کے لکھے

اے جستہ زما برسم عادت ساعت	ادراک وصال را چہ حاجت ساعت
از وصل کند کسب سعادت ساعت	بساعت چہ کنی بہانہ ساعت ساعت

دوست محمد کو یہ نوازشنامہ دے کر رخصت کیا۔ بعد ازان مریم مکانی ایک منزل آکر پوتے
کو اپنے گھر لے گئی اور اسی کی دولت سرائے مین قران السعدین ہوا۔ بیٹا باپ کے قدمون مین
گرا۔ باپ نے اُسے گلے لگایا۔ اور پھر اپنے گھر لایا۔ نقارۂ شادمانی بجا۔ دور و نزدیک نشاط
وانبساط کا آوازہ بلند ہوا۔ بیٹے نے باپ کی نذر مین بارہ ہزار مُہر اور ۷۷ زنجیر فیل پیشکش کے
طور پر دیئے۔ ان مین سے ۳۴ ہاتھی پادشاہ نے لیئے باقی بیٹے کو واپس دیئے۔ ایک عمدہ
ہاتھی عطا کیا اور اپنی دستار اسکے سر پر باندھی اور جانشینی کی نوید سنائی۔ پادشاہ نے
شاہزادہ کو پہلے رانا کی مہم کے انصرام کے لئے بھیجا تھا جس کو ناتمام چھوڑ آیا تھا اب پادشاہ کا
ارادہ ہوا کہ وہی اس مہم کو تمام کرے اس لئے پھر یہ مہم اسکے نامزد ہوئی دسہرہ کے جشن کو
۲۱ مہر کو اس کو بہت سی نصیحتین کر کے روانہ کیا اور امرا نامدار کی جماعت اس کے ہمراہ کی جب
شہزادہ فتحپور مین آیا چند روز اسباب ضروری کی تیاری مین توقف ہوا اس کار دشوار کے
لئے جتنے خزانے کی ضرورت تھی ارباب دخل نے اسکے سرانجام دینے مین بیجا استادگی
کی ناگزیر شاہزادہ نے پادشاہ کو عرضداشت لکھی کہ مین تو حکم شاہی کو نمونۂ حکم آلٰہی جان کر اس
خدمت پر دل وجان سے مشغول ہوا مگر کفایت مندون نے وہ سامان جس سے یہ مہم سرانجام
پاتی نہین تیار کیا۔ ناحق اوقات ضائع کرنے سے کیا فائدہ۔ حضور کو یہ بھی معلوم ہوا کہ رانا کوہستان
سے نہین نکلتا ہے اور محکم جاؤن مین پڑا پھرتا ہے لڑتا نہین اسکے لئے یہ تدبیر ہے کہ
افواج شاہی ہر طرف سے جا کر کوہستان کو گھیرے اور ہر فوج اسقدر ہو کہ جسوقت
رانا لڑے تو اس سے دوچار ہو کر اس کو مغلوب کرے تو مین اس مہم مین عہدہ برآ ہو سکتا
ہون۔ اکثر دولتخواہون نے کچھ اور صلاح سوچی ہے تو بندہ کو اجازت ہو کہ مین حضور

شہزادہ کا مہم رانا کے لئے مقرر ہونا اور اس کا عذر مقبول ہونا

کی قدمبوسی حاصل کر کے اپنی جاگیر مین جاؤن میرے آدمی نہایت پریشان ہو رہے ہین وہان جاکر جمعیت فراوان جمع کر کے رانا کے استیصال کے درپے ہون۔ پادشاہ نے یہ عرضداشت لے کر زیب النسا بیگم اپنی ہمشیر کو شاہزادہ پاس بھیجکر زبانی یہ کہلا بھیجا کہ مین نے تجھے نیک ساعت مین رخصت کیا ہے اور اختر شناس میرے پاس اس وقت آنے کو نحس بتاتے ہین اسلیئے وہ الہ آباد جائے اور جس وقت چاہے ملنے چلا آئے۔ شاہزادہ یہ حکم سن کر خوش وخرم شہرا مین اُٹھ آنا متھرا کے پاس سے جمنا پار اُترکر الہ آباد مین آیا۔ اکبرنامہ کے ضمیمہ مین لکھا ہے کہ یہ اجازت اور تجویز دوری پادشاہ کی عنایت تھی ظاہر مین سلیم ملک داری اور دارائی سے بیگانہ تھا مگر خدا کو اس کا پادشاہ بنانا منظور تھا۔ دادار کردگار کی جناب کبریائی مین کردار پر نظر نہین ہوتی۔

آنجا کہ عنایت تو باشد باشد　　ناکردہ چو کردہ کردہ چو ناکردہ

ایسی باتین اہل ہند کو بہت پسند ہین کہ خدا یونہی ٹکر لیس کام کرتا ہے۔

پادشاہ کو اس شاہزادے کی خاطر داری کا پاس تھا موسم زمستان مین ایک پوستین روباہ سیاہ اور دوہزار روباہ سفید کا بھیجا شاہزادہ نے اس کا شکر ادا کیا۔

جب شاہزادہ سرحد الہ آباد مین پہونچا تو وہی رویہ سابق اختیار کیا اور امرا حضور کے جاگیر دارون کو تبدیل کیا اور الہ آباد مین بد ہمنشینی وخوشامد دوستی طبیعت پرستی وخودسری اور درشتی نافرمانی ناستودہ کرداری اختیار کی۔

واقف طلب فتنہ جو ہنگامے فساد کے برپا کرنے مین تقصیر نہین کرتے تھے۔ پادشاہ شنیدہ کو ناشنیدہ خیال کرتا تھا۔

عبد اللہ خان جو شہزادہ کا پیش آوردہ تھا کبھی کبھی اُسکو کلمات نصیحت آمیز سنایا کرتا تھا جب وہ مفید نہوئے اور اُس کی شریف خان وکیل سلطنت سے نہ بنی تو وہ وقت پاکر پادشاہ کے پاس چلا آیا انھین دنون مین والدہ خسرو کہ زن

شہزادہ کی بدچلنیان اور پادشاہ کا قصد الہ آباد جانے کا ۱۰۱۲ھ

مان سنگہ کی بہن بھی سودائی ہوگئی تھی اس کا بیٹا خسرو تھا جو شاہزادہ محمد خرم سے تین برس بڑا تھا وہ ناخلف تھا اُسکے اطوار ناہموار تھے وہ دادا سے باپ کی چغلیاں کھایا کرتا تھا اس سبب سے بھی ماں کا جنون زیادہ ہوا وہ بیٹے کو منع کرتی تھی کہ باپ کی غمازی نہ کر وہ نہ مانتا تھا۔ اس غصہ میں اُس نے افیون کھائی اور جان گنوائی عبداللہ خاں کے جانے اور بیوی کے مرنے سے سلیم کو رنج ہوا۔ ان ایام میں شاہزادہ کی دلسوزی کے لباس میں بے غرض راست گویوں نے عرض کی کہ وہ ہمیشہ شراب کے نشہ میں مست رہتا ہے اور ایک لمحہ لب سے جام کو نہیں جدا کرتا۔ شراب کی ایسی عادت ہوگئی ہے کہ جب اُس کا نشہ کم ہوتا ہے تو اُس میں افیون ڈالکر پیتا ہے ان دو مغزی نشوں کے غلبہ سے دماغ میں خشکی اور طبیعت میں آشوب ایسا پیدا ہوگیا ہے کہ آدمیوں کو ادنیٰ قصوروں پر سخت سزا دیتا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ نویس شاہی کسی مرد غانہ زاد پر کہ بادشاہ کے خواص میں تھا عاشق ہوا اور یہ خواص کسی خدمتگار سے پیوند دلی رکھتا تینوں ساتھ دکن کی طرف اس ارادہ سے بھاگے تھے کہ سلطان دانیال کے لشکر میں زندگی بسر کرینگے۔ جب حقیقت حال پر شاہزادہ کو اطلاع ہوئی تو اُس نے آدمیوں کو بھیجکر تین چار منزل سے سب کو پکڑ بلوایا جس وقت اُس کا شعلۂ غضب بھڑک رہا تھا اسکے روبرو یہ تینوں آئے۔ اُس نے واقعہ نویس کا پوست اپنے سامنے کھچوایا اور خواص کو خواجہ سرا بنایا اور خدمتگار کو ایسا مارا کہ وہ مردہ ہوگیا اس قصہ کو ارباب غرض نے آب و تاب سے بادشاہ کے روبرو بیان کیا۔ بادشاہ کم آزار مہربان دل کو اس مردم آزاری سے دلی رنج ہوا اور زبان حقیقت بیان اور انصاف ترجمان سے فرمایا کہ ہم نے اتنی مدت کی جہانداری میں چیونٹی کے آزار دینے میں کوشش نہیں کی اور گوسفند کی کھال اُتارنے پر جو بسبب ظاہر گناہ نہیں ہے رضامند نہیں ہوئے ہمارا گرامی فرزند کیوں اس قسم کے کاموں پر جرأت اور بنائے ایزدی کی خرابی میں دلیری کرتا ہے اس سبب سے کہ جہانداری کو خودکامی و زیادہ سری و ظلم پرستی و بداعتدالی کی تاب نہیں ہے۔ شہزادہ کے ان اطوار سے

پادشاہ کا الہ آباد کو روانہ ہونا اور مریم مکانی کا انتقال

سخت آشفتہ ہوا اور یہ تجویز ہوئی کہ وہ خود الہ آباد جائے اگر شہزادہ اس کا استقبال کرے
تو اسکی تقصیرات سے درگزر کی جائے اور پادشاہ اس کو اپنے ہمراہ لائے اور اگر کوئی اندیشہ
تباہ اسکے سر میں ہو تو گوشمالی سے بیدار کیا جائے اس نیت سے دوشنبہ ۱۱ شہریور ۱۰۱۲ھ
کو پادشاہ کشتی میں سوار ہوا۔ اتفاقاً کشتی ریگ میں آدھی رات کو بیٹھ گئی۔ ملاحوں کی سعی کچھ کام
نہ آئی۔ صبح دوسری کشتی آئی اور اُس پر سوار ہو کر پیش خانہ میں وہ آیا۔ دوسرے روز آٹھ پہر
تک موسلا دھار مینھ برسا کہ پادشاہی خیمے حباب معلوم ہونے لگے۔ اس ضمن میں مریم مکانی
کے شدت مرض کی خبر آئی۔ مدت سے وہ عارضہ جسمانی میں مبتلا تھیں پوتے کی خبروں نے
اور مرض روحانی پیدا کیا۔ پادشاہ کے جانے پر وہ راضی نہ تھی۔ پادشاہ نے اس گمان میں
کہ شاید عارضہ نہ ہو اپنے لاڈلے پوتے سلطان خرم کو دادی کی خبر کو بھیجا وہ عیادت کے
بعد پادشاہ پاس آیا اور عرض کیا کہ حضور کو دیدار واپسیں کا ثواب حاصل کرنا اور حضرت
مریم مکانی کی خوشنودی منظور ہو تو جا کر دیکھ آئیے پادشاہ ماں کی عیادت کو آیا اُسی روز
اس کا انتقال ہو گیا وہ بیٹے سے کچھ بات نہ کر سکی پادشاہ نے اپنا بھدرا کرایا اور اُسکے
دیکھا دیکھی کئی ہزار امیروں اور احدیوں اور نوکروں نے بھدرا کرایا پادشاہ نے اپنی
ماں کے تابوت کو کندھا دیا اور گیارہ پہر میں دہلی میں اس کا جنازہ پہنچایا اور ہمایوں کے
مقبرہ میں دفن کرایا۔

شہزادہ سلیم کا پادشاہ پاس آنا

جس وقت سلیم کو باپ کے آنے کے ارادہ کی اور دادی کے مرنے کی خبر پہنچی تو
بے تامل آگرہ میں وہ باپ کی خدمت میں دوڑا آیا معلوم نہیں کہ یہ جوش محبت تھا یا باپ کے
ساتھ اس ماتم میں شریک ہونے کو فرض جانتا تھا یا یہ سمجھا تھا کہ بغیر جانے کے سب کام
بامراد نہ ہونگے غرض کوئی سبب ہو جب وہ باپ کی خدمت میں آیا تو اس نے گلے لگایا اور
بہت رویا اور بہت کچھ سمجھایا اور یہ فرمایا کہ بادہ پیمائی کی کثرت سے تیرے دماغ میں
فتور آگیا ہے مناسب ہے کہ تھوڑے دنوں دولت خانہ میں رہو اور کہیں نہ جاؤ

تاکہ تیرا علاج خاطر خواہ ہو۔ غرض بیٹے کو عبادت خانہ میں بٹھا دیا اور آدمی متعین کر دیے اور حکیم علاج کے لیے مقرر ہوئے بیٹوں اور بیویوں کو اُس پاس جانے کی اجازت تھی مگر شراب کی سخت ممانعت تھی جو اس کو نہایت تکلیف دیتی تھی یہی اسکی بڑی سزا تھی مگر جو حال بیٹے کے آشفتہ مزاجی کا سُنا تھا وہ نہ دیکھا حکیمانہ تدبیروں سے اُس کا مزاج اصلاح پر آگیا تھا اس لیے دس روز بعد اس قید کو اُس پر سے اُٹھا دیا۔ پادشاہ پہلے شہزادہ دانیال کے لیے اس تدبیر کرنے میں ناکام رہا تھا اس سبب سے اس کو رہا کر دیا۔ امیروں کی درخواست سے پادشاہ نے ہاتھیوں کی لڑائی کا دن مقرر کیا۔ شاہزادہ سلیم کے ہاتھی گرانبار اور خسرو کے ہاتھی آپ روپ کی جوڑ بندھی اور پادشاہ نے اپنا ہاتھی رن تھمن کمکی مقرر کیا یعنی جو ہاتھی مغلوب ہو اُسکی کمک کرے۔ فیل کمکی اور چرخی اور لوہ لنگر یہ پادشاہ کے اختراع کیے ہوئے تھے جھروکہ میں لڑائی ہوئی۔ خسرو اور شاہزادہ سلیم گھوڑوں پر سوار تھے اور شاہزادہ خرم دادا کی بغل میں بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا سلیم کا ہاتھی خسرو کے ہاتھی پر غالب ہوا تو پادشاہ کا ہاتھی کمک کے لیے سامنے آیا تو سلیم کے آدمیوں نے فیلبان کو منع کیا اور اُس پر ڈھیلے اور پتھر پھینک کر مارے اُسکی کنپٹی میں جا کر اپنے لگے کہ خون نکل آیا۔ مگر فیلبان نے ہاتھی کو بھڑا دیا گو سلیم کے ہاتھی نے اس ہاتھی کو بھی ہرا دیا۔ دریا میں دونوں جا کر ایک کشتی سے رُکے۔ یہ دیکھکر خسرو دادا پاس بھاگا گیا اور اس گستاخی پردادا کو باپ کی طرف سے بہت کچھ بھڑکا دیا پادشاہ کو بھی اپنے فیلبان کا خون نظر آیا تھا یہ گستاخی ناپسند ہوئی۔ شاہزادہ خرم کو پادشاہ نے کہا کہ تم شاہ بھائی سے جا کر کہو کہ شاہ بابا نے فرمایا ہے کہ یہ ہاتھی بھی تمھارا تھا پھر اُسکے فیلبان بچارے کی جان پر یہ غضب و عتاب کیوں کیا اسکے جواب میں سلیم نے عرض کیا کہ مجھے آپ کے سر کی قسم ہے کہ اسکی خبر بھی ہو۔ شاہزادہ خرم نے جو ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ دادا اور باپ میں بگاڑ نہ ہو۔ باپ کا یہ پیغام آنکر عرض کیا۔

ہاتھیوں کی لڑائی ۱۰۱۴ھ

روز دوشنبہ ۲۰ جمادی الاول ۱۰۱۴ھ کو بادشاہ کا مزاج مرکز اعتدال سے منحرف ہوا۔ بخار بہت شدت سے چڑھا اسہال دموی بھی شروع ہوا۔ حکیم علی سر آمد اطبا معالج ہوا۔ اکبرنامہ میں لکھا ہے کہ اس طبیب کی یہ بڑی غلطی تھی کہ اُس نے آٹھ روز تک علاج کچھ نہیں کیا جس سے ضعف قوی ہوا پھر جو دوا دی اُس نے مرض کی یاوری کی۔ غرض مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اگرچہ ہوش و حواس مرتے دم تک قائم رہے مگر مرنے سے پہلے دس روز تک وہ صاحب فراش رہا اور کاروبار سلطنت میں شریک نہ ہو سکا۔

بادشاہ کا بیمار ہونا۔

اب امرا کی ساری توجہ اس طرف تھی کہ کس کو بادشاہ بنائیے اس وقت انتظام سلطنت کا کام راجہ مان سنگھ اور خان اعظم کے ہاتھ میں تھا خسرو سلیم کا بڑا بیٹا تھا اور اکبر کا بڑا لاڈلا پوتا تھا ایک دفعہ بادشاہ نے یہ بھی کہا تھا کہ سلیم ایسا عیش دوست ہے کہ بادشاہی کے سزاوار نہیں ہے اس کا بیٹا خسرو تاجداری کے لائق ہے۔ یہ خسرو راجہ مان سنگھ کا بھانجا اور خان اعظم کا داماد تھا۔ ان دونوں کی یہ صلاح تھی کہ خسرو کو بادشاہ بنائے اور سلیم کو تخت سے محروم کیجیے جس سے سلطنت میں ہماری قوت قوی ہو اس سبب سے انھوں نے قلعہ آگرہ کی جیلے محل میں بادشاہ بیمار پڑا تھا اپنی سپاہ سے خوب حفاظت کی۔ جب جہانگیر نے دیکھا کہ یہ حال ہو رہا ہے تو وہ اپنی جان کے خوف کے مارے آگرہ سے کچھ دور چلا گیا اور بیماری کا بہانہ بنا کے بادشاہ پاس آمد و رفت موقوف کی مگر شاہزادہ خورم (شاہجہاں) اپنے دادا کے پلنگ سے لگا رہا۔ ماں باپوں نے ہر چند بار بار اُس کو سمجھایا کہ اس آشوبگاہ بے تمیزی میں آنا جانا اندیشہ سے خالی نہیں ہے مگر اس نے یہ جواب دیا کہ جب تک دادا کے دم میں دم ہے میں اس کے قدموں سے جدا نہ ہونگا۔

جانشینی کے واسطے سازشوں کا ہونا اور موقوف ہونا ۱۰۱۴ھ

بادشاہ جانتا تھا کہ یہ بیماری مجھے زندہ نہیں چھوڑیگی اس حالت میں بھی سرکش اور فتنو زمان بیٹے کے حق کو فراموش نہیں کیا۔ سلیم ایسا وارث سلطنت تھا جو قابل تسلیم تھا وہی

[illegible] پاس آنا

فقط ایک بادشاہ کا بیٹا زندہ تھا اس حالت میں بھی باپ کو بیٹے کا ایسا خیال تھا کہ جب
اُس کو آتا جاتا نہ دیکھا تو اس سے بہایت قلق ہوا اور اپنی فراست سے سمجھ گیا کہ وہ کیوں
نہیں آتا اسلیے اُس نے کئی دفعہ اپنی زبان سے کہا کہ میرے بعد میرا جانشین سلیم ہو اور
خسرو کو ملک بنگالہ کی حکومت دیجائے اب بادشاہ کے کلام کی تاثیر کو دیکھنا چاہیے کہ کیا
تھی کہ جونہی امرائے اس کا ارشاد یہ سُنا تو اُن کا اثر انکے دل پر یہ ہوا کہ وہ سلیم ہی
کی بادشاہی چاہنے لگے اور بسر راہ آئے۔ خان اعظم عزیز خاں نے جو سپاہ کا بالکل
مالک تھا سلیم کے ساتھ چپکے چپکے خط وکتابت شروع کی راجہ مان سنگھ اپنے ذاتی خیرخواہوں
کے سبب ایسی قوت اور شان وشوکت رکھتا تھا کہ اُس کو سلیم سے کچھ خوف وخطر نہ تھا مگر بادشاہ
کے ارشاد کا اثر اسکے دل پر ایسا تھا کہ اُس نے بھی سلیم کے ساتھ خوشامد کی باتیں شروع کیں
اور اسکی امداد کا وعدہ کیا۔

بادشاہ کی وفات ۱۰۱۴ھ

جب یہ ماجرا گزرا تو جہانگیر باپ کی خدمت میں آیا اس نے خود اسوقت کا حال یہ لکھا ہے
کہ باپ نے مجھے بہت پیار کیا اور یہ فرمایا کہ جس محل میں میں پڑا ہوں میرے تمام وزراء وامراء
بُلوائے جائیں اور مجھ سے یہ ارشاد کیا کہ میری مرضی نہیں ہے کہ تیرے اور میرے ان
دولتخواہوں کے درمیان ناچاقی ہو جنھوں نے برسوں میرے ساتھ محنتیں اُٹھائیں اور سختیاں
جھیلیں ہیں اور ہمیشہ میری شان وشوکت کے کاموں میں دل وجان سے مددومعاون رہے
ہیں جب سب امیر جمع ہوئے اور کورنش بجالائے تو ان سب کی طرف دیکھکر یوں مخاطب ہوا کہ
اگر میں نے بھولے سے بھی کوئی تمھاری خطا کی ہو تو تم اُس کو معاف کرنا جب میں نے یہ حال دیکھا
تو باپ کے قدموں پر گر کر زار زار رویا۔ بادشاہ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ میرے خاص تلوار
اور دستار اور خلعت شاہانہ لاؤ اور سلیم کو پہناؤ اور مجھے اُسے بادشاہ بناکر دکھاؤ اُس نے
کچھ سنبھالا لیا اور مرزا سلیم سے یوں مخاطب ہوا کہ تو تمام خاندان کی مستورات کی خبرگیری کرنا میرے
رفیقوں اور دوستوں کو نہ بھولنا یہ کہکر اُس نے ملا صدر جہاں کو بُلا کر اُن کے ہاتھ پر توبہ کی یسین

پڑھوائی کلمہ پڑھا اور جنتی مسلمانوں کی طرح بہشت نصیب ہوا (اس اخیری واقعہ کو تحقیق کے ساتھ اسکے مذہب کے بیان میں لکھونگا) اسکی تاریخ وفات میں مورخوں کا اختلاف ہے مگر زیادہ تر صحیح تاریخ ۱۳ جمادی الاخری ۱۰۱۴ھ ہے عمر ۶۳ سال اور مدت سلطنت ۴۹ سال ۸ ماہ تھی۔

انتظام سلطنت اکبری

تمہید

سبحان اللہ انتظام سلطنت اکبری بھی کیا انتظام تھا جو ہندوستان میں پہلے کسی بادشاہ وراجہ و مہاراجہ کے عہد میں نہیں ہوا۔ اور بعض فرنگستانی انصاف دوست سچے مورخوں اور مدبروں کو اس زمانہ کے انتظام میں بھی کلام ہے کہ انتظام اکبری کی برابر رعایا کو آسودگی اور آسائش نہیں حاصل ہے یہ تو ایک میٹر اوف اوپنین رائے کی بات ہے جس کا فیصلہ دُنیا میں کبھی ہوا نہ ہوگا۔ مگر یہ امر واقعی ہے کہ جب ہندوستان میں انگریزی سلطنت کا آغاز ہوا تو یہاں ہندوؤں کے قوانین تو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے انگلستان کے انگریزی قوانین اول تو کچھ تھے نہیں اور جو تھے ان میں ایک قانون بھی ایسا نہ تھا کہ وہ ہندوستان میں جاری ہوسکتا تھا اسلیے ناچار برٹش گورنمنٹ کو مسلمانوں کے قوانین پر جو یہاں جاری تھے چلنا پڑا۔ یہ مسلمانی قوانین اکثر وہ تھے جو آئین اکبری میں تحریر ہیں ان قوانین کو برٹش گورنمنٹ نے بتدریج ایسا بدلا ہے کہ وہ بالکل کایا پلٹ ہوگئے ہیں مگر پھر بھی ان قوانین اور آئین اکبری کے قوانین کے اصل اصول میں مشابہت و مماثلت باقی ہے جس پر ہم آیندہ اشارہ کرتے جائینگے آئین اکبری کو انگریزی قوانین کا پروٹوٹائپ (اصل) کہتے ہیں اب ہم آئین اکبری کا انتخاب کرتے ہیں اور اُس پر اور مسلمانی اور انگریزی کتابوں سے حاشیے چڑھاتے ہیں۔

یورپ کی مہذب قومیں جو حقیقت میں ساری دُنیا میں فرمانروائی کر رہی ہیں وہ بادشاہ کی عظمت کو ایسا نہیں مانتیں جیسا کہ مشرقی ملکوں میں کہ بادشاہ سے زیادہ کوئی اور خدا کے

قریب نہیں ہی۔ پادشاہی سے برتر مرتبہ کسی کا نہیں ہی۔ پادشاہی کے سبب سے گروہا گروہ آدمیوں
کی سرتابی کا چارہ ہوتا ہی اور اہل جہاں فرمان پذیر ہوتے ہیں پادشاہ کا لفظ اسی معنی
پر دلالت کرتا ہی۔ پاد کے معنی پایندگی و دارندگی کے ہیں اور شاہ کے معنی اصل اور خداوند
کے ہیں پس پادشاہ کے معنی اصل و خداوند پایندگی و دارندگی کے ہوئے۔ اگر فرمانروائے
نہ ہو تو فساد کا طوفان کبھی فرو نہ ہو اور خودآرائی کبھی معدوم نہ ہو آدمی اپنے خشم و آز کے
سبب سے نیستی کے گڑھے میں گریں اور دنیا میں چاروں طرف سے رونق اُٹھ جائے اور کمتر زمانہ
میں آباد دنیا خراب برباد ہو جائے پادشاہ کی دادگری سے ایک گروہ کشادہ پیشانی سے
فرمان پذیری قبول کرتا ہی اور ایک گروہ سیاست کے خوف سے ظلم و ستم کرنے سے باز
رہتا ہی اور خواہی نخواہی سیدھی راہ پر چلتا ہی شاہ اس کو بھی کہتے ہیں جو اپنے امثال میں بہتر ہو
جیسے کہ شاہ سوار و شاہراہ۔ داماد کو بھی شاہ کہتے ہیں۔ عروس جہاں پادشاہ سے بیاہی
جاتی ہی اور اسکی ایک لاویز بانو پرستار ہوتی ہی۔ کوتاہ بیں سیدھے سادھے آدمی ایک
حقیقی پادشاہ کو خود کام بیشی جو سے جُدا نہیں کر سکتے اور کیونکر کر سکتے ہیں اس لیئے کہ وہ
دونوں پاس دیکھتے ہیں کہ خزانہ بھرا ہوا ہی لشکر بہت ہی خدمت گزار شائستہ ہیں۔ آدمی
فرماں پذیر ہیں۔ دانش منشوں کی کثرت ہی۔ ہنرمندوں کا انبوہ موجود ہی اسباب
نشاط بہت جمع ہیں مگر راست بین ژرف نگاہ پر یہ امر ظاہر ہوتا ہی کہ یہ سامان اول
پاس پر بقا ہوتا ہی اور دوسرے پاس زود زوال اول اس اسباب کے ساتھ دل کو
وابستہ نہیں کرتا بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہی کہ وہ ستم کے نقش کو مٹائے اور استعداد دل
کو بروئے کار لائے۔ امن عافیت۔ عفت۔ عدالت لطف وفا حقیقت افزونی اخلاص وغیرہ
کے نتیجے پیدا کرے۔ دوسرا پادشاہ اپنی ظاہری کام روائی اور خویشتن آرائی اور پرستلدی
مردم اور تن آسانی میں گرویدہ ہوتا ہی جس سے ہمیشہ کی بے آرامی و آویزش ستمگاری
و بیوفائی و دوردئی کو رونق ہو جاتی ہی آجکل مہذب گورنمنٹوں کی توجہ اس بات پر ہی

کہ انسان کے۔ مائینڈ کا ڈولپ منٹ ہو یعنی انسان میں جو قابلیتیں ہیں وہ آشکارا ہوں۔ یہی مطلب اس فقرہ کا ہی کہ بروے کار آوردن استعدادہا پادشاہی ایک فروغ الٰہی ہی جس سے یہ گرامی قوتیں ظاہر ہوتی ہیں اول پدری مردم زاد طرح طرح کے آدمی اس کی مہربانی سے آرام پائیں۔ مذہب کے اختلاف سے وہ کسی سے دگرگوں نہو اور زمانہ کے مزاج کو پہچانے اور اُس کے موافق کاربند ہو فراخی حوصلہ ناملائم بات کے دیکھنے سے وہ خودرفتہ نہ ہو اور کوئی اس سے آزردہ خاطر دل گرفتہ نہ ہو وہ دلاوری سے اپنا پاؤں رکھے وہ اپنی دلیری خداداد سے بدی کی مکافات لے کسی مجرم کا بڑا آدمی ہونا اس کو سزا سے نہ بچائے اور اُسکی کشادہ دستی سے چھوٹے بڑوں کا کام نکلے اور کسی آرزومند کو انتظار نہ کھینچنا پڑے سوم توکل روزافزوں خدا کو کارساز حقیقی جانے۔ اسباب کی دگرگونی سے پراگندہ نہ ہو۔ چہارم ایزدی نیائش کامیابی کے سبب غافل نہ ہو جائے۔ ناکامی کی حالت میں آدمیوں سے دریوزہ گری میں دیوانہ نہ بنجائے اپنی خواہش کی باگ کو عقل کے ہاتھ میں رکھے ہوا وہوس میں بے آرام نہ ہو۔ ناباِئست کی جستجو میں اپنے انفاس گرامی کو ضائع نہ کرے۔ قہرمان خشم کو آگہی کا فرمان پذیر بنائے تا بیتا غضب غالب ہونے پائے۔ اور سبک سری اندازہ سے باہر نہ جلئے وہ مدارا ایسا اختیار کرے کہ کج روش پھر راہ راست پر بازگشت کریں اور اُنکی بیحیائی کا پردہ دریدہ نہو انصاف کے وقت ایسا منصف بنے کہ یہ معلوم ہو وہ خود دادخواہ ہی اور دادخواہ کارفرما آرزومندوں کو انتظار کی راہ میں نہ بٹھائے خالق کی فرمان پذیری خلقت کی رضا میں جانے خلق کی خوشنودی کے لیے عقل کی مخالفت نہ کرے حق گویوں کا جویا رہی۔ جو باتیں تلخ نما و شیریں اثر ہوں اُن سے غصے میں نہ آئے وہ مراتب سخن کا اور مدارج گذارندہ کا پاس رکھے اسی پر قناعت نہ کرے کہ خود ظلم نہ کرے بلکہ اپنی قلمرو میں ستم نہ ہونے دے۔ ان اوپر کے فقروں سے معلوم ہوتا

ہے کہ مہذب گورنمنٹ کے معنی پہلے لوگ وہی سمجھتے تھے جو اب سمجھتے ہیں پہلے اور پچھلے لوگوں
میں دورائی نہیں ہے - یہ دو باتیں اوپر کے بیان میں قابل غور ہیں کہ مذہب کے سبب
بادشاہ کسی سے دگرگوں نہ ہو اور جرم کے سزا دینے میں مجرموں کو خواہ وہ چھوٹے ہوں
یا بڑے مساوات ہو - مجرم کا محترم ہونا اُس کو جرم کی سزا سے نہ بچائے - آجکل ہم یہی
برٹش گورنمنٹ کی عدالت دیکھتے ہیں کہ وہ جرم کی سزا دیتی ہے - مجرم کے چھوٹے بڑے
ہونے کو نہیں دیکھتی ہے بلکہ جرم پر لحاظ کرتی ہے اور نہ مذہب کے سبب سے وہ کسی شخص کی حق تلفی
کرتی ہے - بادشاہ کو چاہیے کہ وہ شخص زمانہ کی صحت کی نگاہداشت کرے اور اس کے سب
طرح کے ارادوں کا علاج کرے جیسا عناصر کے تکافو سے اعتدال مزاج پیدا ہوتا ہے ایسا ہی
اہل عالم کی طبیعت میں تعدیل مراتب سے سویت پیدا ہوتی ہے اور یکتا دلی اور یکجہتی سے بہت سے
آدمی یک تن ہو جاتے ہیں اہل جہاں چار گروہ سے باہر نہیں ہوتے مبارزان یہ شخص عالم میں
آگ کا حکم رکھتے ہیں اس گروہ کی عقل قہر آمیز کے شعلے سے بدبختوں کی شورش فزا فتنہ سازی
کا خس و خاشاک جلجاتا ہے اور دنیا کی آشوبگاہ میں آسائش کا چراغ روشن ہو جاتا ہے -
پیشہ ور و تاجر بمنزلہ ہوا کے ہیں اس گروہ کی کارپردازی اور جہاں نوردی سے فیض ایزدی
شامل حال ہوتا ہے اور خوشدلی کی نسیم گلبن زندگی کو بڑھاتی ہے - اہل قلم جیسے حکیم و طبیب
و محاسب و مہندس و اخترشناس مثل آب ہیں - اس گروہ کی قلم و علم کی جوئبار سے دنیا کی
خشک سالی میں آبیاری ہوتی ہے اور آفرینش کو ایک خاص طراوت پہنچتی ہے -
برزہ گر اور کشاورز مثل خاک ہیں انہیں کے وسیلہ سے سرمایہ زندگی سرانجام پاتا ہے
اور انہیں کی کارکردگی سے تنومندی و شادمانی جمع ہوتی ہے فرمانروا کو ضرور ہے کہ انہیں سے
ہر ایک کو اپنے پایہ پر رکھے جس سے جہاں آباد ہو - اور کار آگہی کو قدردانی سے پرورش
کرے تاکہ زمانہ کی پراگندگی دور ہو اور کاروبار کی ترکیب میں اعتدال پیدا ہوں جیسے
کہ شخص جہاں چار کیفیت کے آدمیوں سے حسن تعدیل پاتا ہے ایسے ہی سلطنت کی یکرنگی

چار طرح کے طبقات سے انتظام کا غازہ اپنے مُنہ پر ملتی ہی اول نوئینان دولت جو اپنے اعتبار پہ لرزاں نہ ہوکر بر آمد کار کرتے ہیں اور بنبر دگاہ ناموس دوستی کے لوامع روشن کر کے جان دینے سے دست کشی نہیں کرتے یہ امرا بجاے آتش ہیں کہ دل افروز بھی ہیں اور دشمن سوز بھی صدر نشین اس گروہ کا وکیل ہی وہ اخلاص کے چار مرتبوں پر پہنچکر نائب ملکی ومالی ہوتا ہی مشوروں کی مجلسوں کو اسکی شناسائی سے فروغ ہوتا ہی اور فرماں روائی کے امور جلیل اسکی ژرف نگاہی سے انتظام پاتے ہیں. ترقی تنزل نصب عزل اسکی صوابدید سے ہوتا ہی وہ چاہیے کہ دیدہ ور. صائب فکر. بلند ہمت. نیک محضر. تونگر دل. فراخ حوصلہ. صاحب صلح کل. کشادہ پیشانی. خویش وبیگانہ کی سات یکجہت. دوست ودشمن کے ساتھ یکساں. سنجیدہ سخن. کارکش. راست گفتار. موقر. مودب. مستشار موتمن. خرم آرائے. دور اندیش. سلطنت کا ادب شناس. خلافت کا رازدان. نہ کسی کا کار بستہ رکھے. اور نہ اپنے کام کی کثرت سے دل تنگ ہو. اوروں کی آرزو برلانے میں اپنے اوپر منت رکھے: پایہ شناسی سے کارسازی کرے. ہر دل عزیز ہونے کے لیے زیر دستوں کو گرامی رکھے. اور نالائق گفتار اور بد کردار سے اپنے تئیں باز رکھے اگرچہ وہ صاحب دفتر نہیں ہوتا مگر دفتر کے کار فرما اس سے رجوع کرتے ہیں. وہ دور اندیشی سے اپنے مقاصد کی فہرست بناتا ہی. اس گروہ میں میر مال (جو پادشاہ کا جیب خرچ اُٹھاتا ہی) مہردار. میر بخشی (جو سپاہ کو تنخواہ تقسیم کرتا ہی) بار بیگی (افسر جو دربار میں پادشاہ کے روبرو آدمیوں کو پیش کرتا ہی اور لوگوں کی عرائض سُناتا ہی اُسی کو میر عرض بھی کہتے ہیں) قور بیگی (پادشاہ ہتھیاروں اور نشانات کو رکھتا ہی.

میر توزک (افسر تمام رسومات کا) میر بحر. میر بر (پادشاہی جنگلوں کا افسر) خوان سالار (بورچی خانہ کا افسر) منشی (پادشاہ کا خاص محرر) قوش بیگی (پرندوں باز وکبوتر دل کے کارخانہ کا افسر) اختہ بیگی (اصطبل کا افسر) ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ

اوروں کے کام سے بھی بہرہ رکھتا ہو۔ دوم اولیاے نصرت سر رشتہ داد وستد یعنی آمد وخرچ ملکی کے فراہم کرنے والے اور نگہبان ہیکل فرمانروائی نیز مثل باد ہیں کہ نسیم دلنواز بھی ہیں اور سموم جانگداز بھی۔ ان میں بزرگ وزیر ہوتا ہے اُسے دیوان بھی کہتے ہیں وہ بادشاہ کا نائب مالی ہوتا ہے وہ خزانوں کی پاسبانی اور محاسبات کا اہتمام کرتا ہے نقد عمل کا پرکھنے والا خزانہ جہاں کا آباد کرنے والا ہوتا ہے وہ الہی بندہ ہوتا ہے۔ اچھا حساب داں سیر چشم۔ بیدار مغز۔ گرم خون۔ پرہیزگار۔ کارساز۔ خوش عبارت۔ تنقیح نویس۔ راست گوی دیانت گزیں۔ نیک منظر۔ جد کار۔ وہ اصل میں صاحب دفتر ہوتا ہے۔ جب مستوفی (نائب دیوان) کو کسی معاملہ میں مشکل پیش آتی ہے تو وہ وزیر کی دوربینی سے سہل ہوتی ہے اور اگر اس سے بھی یہ عقدہ حل نہیں ہوتا تو وکیل اسکی کشائش کرتا ہے۔ مستوفی صاحب توجیہ (سپاہ کا حساب لکھنے والا) اوارجہ نویس (بادشاہ کے روزمرہ کا خرچ لکھنے والا) میر ساماں (دربار کے اسباب ومخازن کا افسر) ناظر بیوتات (بادشاہ کے کارخانوں کا حساب لکھنے والا) مشرف گنجور (محرر) واقعہ نویس۔ عامل خالصہ (کلکٹر) اسکے پیرو۔ ان سب عہدہ داروں کی کارکرد وزیر کی عقل سے ہوتی ہے بعض بادشاہ وزارت کو وکالت کا ایک جز شمار کرتے ہیں اور ان دونوں ارکان دولت کے کاموں کو ایک نکوکار طلبگار کو دیتے ہیں۔ کبھی وکیل کی نایابی کے سبب سے ایک شخص کو جس میں وکالت کے اوصاف پائے جائیں مشرف دیوان کرتے ہیں اس کا رتبہ دیوان سے بالا اور وکیل سے فروتر ہوتا ہے۔

سوم اصحاب صحبت۔ وہ اپنی دانائی کے فروغ سے اور ژرف نگاہی کے پرتو سے وقت شناسی کی قوت سے خوش مزاجی سے کشادہ روئی سے فصیح بیانی سے انجمن خلافت کو زینت دیتے ہیں اور اپنی رائے روشن اور اندیشہ درست سے دنیا کے عربدہ زار میں آز کو پابند کرکے خشمگینی کی آگ کو حکمت کی بارش سے بجھاتے ہیں۔ اس گروہ کو پادشاہی پیکر میں پانی کا رتبہ دیتے ہیں جب صافی مزاج ہوتے ہیں تو دلوں سے کدورت دھوتے ہیں محفل کو تازگی

اور شادابی دیتے ہیں اور اگر اعتدال سے باہر ہوتے ہیں تو عالم کو طوفان بلا میں غرق کر دیتے ہیں اور حوادث کی موج خیز سے سیل فنا میں بہا دیتے ہیں۔ اس گروہ میں سرآمد حکیم ہے وہ اپنی دانش اور کردار کی امداد سے تہذیب اخلاق کر کے اصلاح عالم میں کمر ہمت باندھتا ہے۔ صدر (جس کو صدر جہاں بھی کہتے ہیں وہ چیف جسٹس سلطنت میں ہوتا ہے) میر عدل قاضی طبیب منجم شاعر رمال اور اسی طرح کے آدمی اس گروہ میں داخل ہوتے ہیں۔

چہارم ارباب **خدمت**۔ سلطنت کی پیشگاہ میں بادشاہ کی پرستاری انہیں لازم ہوتی ہے جہاں آرائی کی ترکیب میں انکو خاک کا درجہ دیتے ہیں وہ شاہراہ بندگی میں افتادہ اور خطرگاہ قربت کے خاکسار ہوتے ہیں اگر وہ غل وغش سے پاک ہوتے ہیں تو اکسیر کا حکم رکھتے ہیں ورنہ چہرۂ مقصود پر غبار ہوتے ہیں۔ خواص۔ قورچی۔ شربت دار۔ آبدار۔ توشکچی۔ یکراق اور اسکی مثل۔

پہلے عاقل کہہ گئے ہیں کہ سلطنت کے چار رکن یہ ہیں اوّل عامل درست کردار نگاہبان کشت ورز پاسبان رعیت آباد ساز ولایت۔ مایہ افزائے خزینہ دوم تیمار دار سپاہ کارساز بے منت سوم میر داد آزمندی و غرض پذیری کو چھوڑ کر ژرف نگہی و درست بینی سے کام کرے اور گواہ و قسم پر مدار نہ رکھکر طرح طرح کی پرسش سے اصل مقصود کو دریافت کرے چہارم جاسوس کہ سوانح روزگار بغیر کم و بیش کے مطلع کرے اور سررشتہ راستی اور دوریابی کو ہاتھ سے نہ دے۔

بادشاہ دادگر کو ان پانچ طرح کے آدمیوں کو پہچاننا ضرور ہے۔ اوّل وہ فرد بیدہ مرد کہ وقت کی ضروری شائستگیوں کو اپنے علم سے عمل میں لاتا ہو۔ نیکوئی کے چشمے کو اپنے گھر میں نہ لیجائے۔ بلکہ اس سے اوروں کی کھیتی باڑی کو سرسبز کرے ایسا مقدس بزرگ پادشاہی ہمزبانی اور دولت افزائی کے لیے سزاوار ہے۔ بعد اس کے وہ سعادت پژوہ ہے کہ وہ خود ہی نیک عمل کرتا ہے مگر اوروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا ہے اگرچہ وہ عاطفت و احترام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بڑے اعتبار کے شایاں نہیں ہوتا اس سے کمتر وہ سادہ لوح

ہوتا ہی کہ اسکے آستین اعمال پر نیکی کے نقش نہیں ہوتے مگر اس کا دامن بدکرداری سے بھی
غبار آلود نہیں ہوتا ایسا آدمی بزرگی کے لائق نہیں ہوتا مگر وہ عاقبت میں سایہ نشینی کے
لائق ہوتا ہی اُس سے فروتر وہ غنودہ بخت ہی جس کی نگاہ میں سوائے تباہ کاری کے اور اسباب
نہیں ہوتا لیکن خلقت اسکے گزند سے ایمن ہوتی ہی اس کو پادشاہ کو چاہیے نا کام رکھکر اچھی
نصیحتیں او رجانکاہ نکوہش اور پسندیدہ مالشیں کر کے نیکی کی طرف لاوے سب سے بدتر وہ بدگوہر
ہی کہ وہ اپنی سیہ کاری سے اوروں کی تیرگی زیادہ کرتا ہو اور اُس کے سبب سے خلقت رنج و
تکلیف میں ہو اگر اس کو پہلی دار وجو اوپر بیان ہوئی سودمند نہ ہو تو کوڑھی کی طرح اس کو
اہل شہر کی آمیزش سے باز رکھے۔ اور اگر وہ اس دلخراش سیلی سے بھی اپنی بیدانشی کو نہ
چھوڑے تو اُس کو غم کے شکنجہ میں کھینچکر گھر سے باہر نکالدے اگر یہ علاج بھی اسکے مزاج کو
فائدہ مند نہ ہو تو ملک سے نکال دے۔ اگر اس سے بھی اُس کا خبث دور نہ ہو تو اُس کو
اندھا کر دے یا ہاتھ پاؤں کاٹ دے مگر جان کے لینے میں دلیری نہ کرے۔ عاقلوں نے
انسان کو بنائے ایزدی سمجھ کر اسکی خرابی کی اجازت نہیں دی ہی۔

پادشاہ نے بہروزی منزل اور برومندی سپاہ و آبادی ملک کے لیے آئین مقرر
کئے ہیں خلاصہ کے طور پر وہ لکھے جاتے ہیں۔

دفتر اول منزل آبادی

وہ شخص بلند فطرت اور عالی ہمت ہی کہ آفرینش کی وزارت کو غیر کی گزیدگی بغیر قدرت
ایزدی کی نیرنگی کی جلوہ گاہ جانے اور اُسکے اندازہ کے موافق اپنا ظاہری و باطنی
چال چلن بنائے اور از روئے بشناسائی خویش و بیگانہ کی قدردانی کرے اگر اس کو یہ
لیاقتیں نہ حاصل ہوں تو اُس کو ضرور ہی کہ وہ دنیا کے جھگڑوں و لڑائیوں میں نہ پڑے
اور آشتی کا طریقہ اختیار کرے۔ اگر تجرد گزیں ہو تو اپنے میں نیا رگ خوشیں پیدا کرے

(۱) آئین منزل آبادی

اور اگر وابستہ دنیا ہو تو وہ اپنے کاموں میں انتظام میں عاشقانہ دل لگائے اور آزاد خاطر زندگی بسر کرنے سچی بزرگی خواہ وہ صورتی ہو یا معنوی دنیا کے چھوٹے بڑے کاموں کے کرنے کو منع نہیں کرتی۔ بلکہ اُس کے کرنے کو خدا کی عمدہ بندگی جانتی ہے۔

اگر وہ اپنے سب کام نہ کرسکے تو اُس کو چاہیے کہ بخت شرف نگاہی اور درست کاردانی سے ایک ویسے دانشمندوں کو انتخاب کرے کہ وہ خرد پژوہ بے تعصب۔ جد کارشناسا دل ہوں اور ان کی دیدبانی پر کاموں کو چھوڑ دے۔

کار آگاہ اس کو فرماں روا نہیں شمار کرتے کہ وہ بڑے ہی بڑے کاموں میں مصروف نہ ہو اگرچہ بعض منصف اہل عالم ایسے بادشاہ کو معذور جانتے ہیں اس لیے کہ بیشتر نقد دوست خوشامد گو جو اپنے تئیں حیلہ سازی سے نیک دکھاتے ہیں اور تفاوت مراتب کی گفتار کو پیش کرتے ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے بادشاہ کی شان کے خلاف ہیں اور اس طرح ان بادشاہوں کو جو ظاہری صورت پر مرتے ہیں خواب غفلت میں سلا دیتے ہیں اور ان کا مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ داد وستد کی دکان کو آراستہ کریں اور اپنے گھر کو آباد کریں۔ بخت آور فرمانروا جزئیات وکلیات میں فرق نہیں کرتے اور تائید الٰہی کی قوت سے دونوں عالم کا بوجھ اپنی ہمت کے کندھے پر رکھتے ہیں اور آزاد خاطر و سبکدوش رہتے ہیں چنانچہ شہنشاہ اکبر کا حال یہی ہے کہ وہ اپنی دیدہ وری سے کارخانوں کی آبادی میں توجہ کرتا ہے جیسا اور پہلے بادشاہ اپنی تعظیم کے سبب سے کمتر مشغول ہوتے تھے۔ باوجودیکہ یہ جہانبانی کا اول پایہ ہے۔ یہ بادشاہ ہر کارخانہ کے لیے شائستہ آئین بناتا ہے اور اس کو خدا کی رضامندی کی دستاویز جانتا ہے اور اس کام میں دو چیزوں پر کامیابی موقوف ہے۔ اوّل دانائی اور بینش سے احکام جہاں آرا کا ظاہر ہونا بادشاہ کی طرف سے۔ دوم راستی منش جد گزینوں کو کام سپرد ہو کر اُن کی نگہبانی کی جائے۔ باوجودیکہ بیشتر بیوتات کے کارگزار سپاہ کے جرگہ

یں علوفہ پاتے تھے اس پر بھی انکا خرچ ۳۹ سنہ الٰہی میں تین کروڑ اکیانوے لاکھ چھیاسی ہزار
سات سو پچانوے دام تھا۔ سلطنت کے جیسے مخارج روز بروز بڑھتے جاتے ہیں ایسے ہی
مداخل۔ سو کارخانوں سے زیادہ کارخانے ہیں اور ہر ایک کارخانہ مثل شہر کی کیا ملک کی
مانند ہے۔ بادشاہ کی توجہ سے ہر کارخانہ کا عمدہ سامان ہے اور ہمیشہ بڑھتا جاتا ہے۔ جتنی بادشاہ
کی دولت بڑھتی جاتی ہے اُتنی ہی ان کارخانوں کی غمخواری اور تیمارداری زیادہ ہوتی جاتی
ہے اُن کارخانوں کا حال لکھا جاتا ہے۔

(۲) آئین خزانہ آبادی

ہر عاقل جانتا ہے کہ خدا کی عبادت کوئی اس سے بڑی نہیں ہے کہ آدمی زمانہ کی پریشانیوں
کو اور خلقت کی پراگندگیوں کا انتظام کرے اور پریشانیوں کو دور کرے۔ یہ جب ہوتا ہے کہ زمین
آباد ہو اور منزل معمور ہو اور مایہ ان دولت کے لیے سامان مہیا ہو اور سپاہ نیک کردار
ہو۔ اور یہ باتیں جب ہوتی ہیں کہ بادشاہ درست تدبیر اور خلقت کا تیماردار اور بر
گزیدہ مال کا جمع کرنیوالا اور عقل کے حکم کے موافق خرچ کرنیوالا ہو اس سے اہل شہر
اور اہل دہ کے لیے جو ہونا چاہیے وہ سرانجام پاتا ہے اور دونوں گروہ کی شائستگی کا اہتمام
ہوتا ہے۔ دید ور داد گروں کو روپیہ کے جمع کرنے کی فکر ضرور دنا گزیر ہے۔ جیسے کہ تجرد
پیشہ وارستوں کے لیے روپیہ کا جمع کرنا اور اُس کی افزائش میں کوشش کرنا مذموم ہے
ایسے ہی اہل تعلق کو اسکے برخلاف کرنا ممدوح ہے۔ یہ ظاہر نگاہ کوتاہ بینوں کی سخن سرائی
ہے۔ ورنہ حقیقت میں دونوں گروہ ان چیزوں کے لیے تگاپو کرتے ہیں کہ جنکی اُن کو
حاجت ہے۔ سیر دل تہیدست خورش پوشش اس قدر چاہتے ہیں کہ جس سے ان کو اپنی
یزدہش آگہی کے لیے قوت حاصل ہو اور گرمی اور سردی کی اذیت سے پناہ میں رہیں
دوسرے گروہ کی کفایت یہ ہے کہ خزانوں کو دولت سے بھریں اور اسباب سطوت کو
جمع کریں اور اور امور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے سوچیں۔ اس زمانہ میں کہ بادشاہ نے
نقاب اُٹھا کر انتظام مہمات میں کچھ توجہ فرمائی تو اعتماد خان خواجہ سرا کو شائستہ

خطاب کے لائق جان کر اپنا راز دل ظاہر کیا اور خواجہ کی کاروانی کے سبب سے پادشاہ کے دل میں جو تھا وہ عمل میں آیا اور وہ مرتبہ بمرتبہ وسعت پکڑتا گیا اور عمدہ سامان اس کا مہیا ہوتا گیا۔ ہر طرح کی زمین کے خراج کی تحقیقات ہوئی۔ راستی نش کاردیدوں کی دانائی سے اسکا نیک انجام ہوا۔

ایسی رسائی کے ساتھ کہ جسمیں آشنا و بیگانہ کی تمیز کچھ نہ تھی جو زمینیں خالصہ ہونے کے لائق تھیں وہ خالصہ ہوئیں اور جو جاگیر ہونے کے قابل تھیں وہ جاگیر ہوئیں۔ خدگزین دیانت منشوں کو ایک ایک کروڑ دام کی آمدنی سپرد ہوئی اور سیر چشم بتکچی (محرر) ہمراہ کیے گئے اور ایک سعادت منش خزانچی مقرر کیا گیا اور انکو کسانوں کی پرورش کی نظر سے یہ حکم ہوا کہ وہ کسانوں سے زرخالص کے لینے میں اصرار نہ کریں (یعنی انسے سکے کامل وزن کے طلب کریں) بلکہ جیسے سکے وہ دیں انکی رسید مہر لگا کر انکو دیجائے۔ اس شائستہ آئین سے پادشاہی کلکٹروں کے دل سے تردد اور لاعلمی کا زنگ جھل گیا اور رعیت نے طرح طرح کے ظلموں سے رہائی پائی مال کی افزونی ہوئی۔ ملک کی آبادی بڑھی۔ جب یوں مال کا چشمہ صاف ہوگیا تو کل کی خزینہ داری کے لیے ایک خزانچی سیر چشم خدگزین کو تاہ دست مقرر کیا اور اسکی مدد کے لیے داروغہ اور نویسندہ معین ہوا۔ خرم آرائی کام میں آئی اور کارآموزی کا آئین مقرر ہوا۔

ایک ایک کروڑ دام کی آمدنی خدگزین دیانت منشوں کو سپرد ہوئی۔ اور بتکچی (محرر) سیر چشم انکی ہمراہ کیے گئے اور ہر ایک کے واسطے ایک سعادت منش خزانچی مقرر ہوا۔ یہ حکم دیا گیا کہ جب ہر مرز کے خزانچی پاس دو لاکھ دام جمع ہو جائیں تو پادشاہ کی درگاہ میں وہ روپیہ بھیجکر اس خزانچی کو سپرد کریں اور اسکے ساتھ اس مال کی چگونگی بھی لکھکر بھیجا کریں۔ پیشکش کی گردآوری کے لیے خزانچی جدا مقرر کیا اور لاوارث مال کے لیے کنندی مقرر کیا اور نذر کی پاسبانی ایک آگاہ کو سپرد کی اور تلادان اور خیرات کے دینے کے لیے ایک اور نیک آدمی مقرر کیا خرچ کے واسطے طرح طرح کے آئین مقرر کیے اور راستی کا نگاہبان اور شائستہ داروغہ اور درست قلم بتکچی جدا جدا مقرر ہوئے۔ سالیانہ خرچ کے

لیے خزانچی جمع کا خزانچی خرچ کو روپیہ دے اور اُس کی درست رسیدیں لے لے۔ آوارہ نویسی آسانی سے ہونے لگی۔ فرمانروائی کا چمن زار شاداب ہوا۔ تھوڑی مدت میں خزانے مالا مال ہو گئے لشکر کی افزائش ہوئی گجگرا سرتاب فرماں پذیر ہوئے۔

ایران اور توران میں خزانچی ایک ہوتا ہے اسلیے محاسبہ میں بہت دقت اُٹھانی پڑتی ہے۔ بادشاہ نے مال کی زیادتی اور کام کی افزونی کے سبب سے بارہ خزانچی مقرر کیے کہ وہ اندوختہ روپیہ کی نگہبانی کریں خزانچی طرح طرح کی نقود کے واسطے اور تین خزانچی جواہر و طلا و مرصع کے لیے۔ خزانوں کا اندازہ گزارش نہیں کر سکتا کہ بادشاہ اپنی عیار شناسی سے کردار کے پاداش میں نوازش اور نکوہش کرتا ہے اسلیے کام میں رونق رہتی ہے۔ ہر کارخانہ کا خزانچی جدا جدا ہے جنکی گنتی سو کے قریب ہوگی۔ ہوشمند دیدہ ور روز بروز ماہ بماہ فصل بفصل سال بسال داد و ستد و آمد و خرچ حساب کو درست رکھتے ہیں جس سے دنیا کا بازار گرم رہتا ہے۔

بادشاہ کا حکم یہ بھی ہے کہ ہمیشہ بارگاہ عام میں اشرفیوں اور روپیوں کو آمادہ رکھے کہ بہت سے خواہشگر مستمند انتظار کے رنج کے بغیر کامیاب عشرت ہوں اور دولتخانہ کے میدان میں ایک کروڑ روپیہ تیار رہے۔ ہزار دام ایک ٹاٹ کی تھیلی میں رکھے جائیں اس کا نام سہسہ ہو اور اُسکے تودے کو گنج کہیں۔ سوا اسکے بادشاہ اپنے خاصوں کو بہت روپیہ حوالہ کرتا ہے کہ وہ وقت ناوقت اس کو تیار رکھیں اور بعض بغلی ہمیان کر کر دوست رکھتے ہیں اس سبب سے لوگ اس کو خرچ بہلہ کہتے ہیں (تھیلے کو ہندی میں بہلہ کہتے ہیں)

(۳) آئین جواہر

بادشاہ نے ایک شناسا دل سیر چشم درست کار گنجوران جواہر کے لیے مقرر کیا ہے اور اُسکے ساتھ ایک تحویلدار اور داروغہ اور دیدہ ور جوہری مقرر کیے ہیں جو سب ملکر کام کرتے ہیں۔ یہی چاروں اس کارخانے کے رکن ہیں ہر جنس کے جواہر کا ایک درجہ مقرر ہے جس سے ان میں کچھ اشتباہ نہیں واقع ہوتا۔ لعل۔ الماس۔ زمرد۔ یاقوت سُرخ و کبود۔ مروارید کے اقسام اور ان کے وزن ہر قسمیں مقرر ہیں۔

سکہ خانہ کی آبادی سے خزانہ کی مایہ افزائی ہوتی ہی اور ہر کار کا رواج اس سے رونق پاتا ہی اس لیے اس کا حال کچھ لکھا جاتا ہی۔ شہر کے اور گانو کے رہنے والو کا کام روپیہ سے چلتا ہی اور ہر ایک اپنی ضرورت کے اندازہ کے موافق اُس کو لیتا ہی جو آزاد ہیں وہ اُسی قدر اسکو لیتے ہیں جتنے کی ضرورت ہوتی ہی اور جو اہل دنیا ہیں وہ اُس کو اپنی مراد کی سرمنزل جانتے ہیں۔ ناگزیر ہر ایک کو اُس سے بہرہ کار ہی۔ خردمند اس کو جانتا ہی کہ دین و دنیا کی آرزوئیں اسی سے برآتی ہیں اور انسان کی زندگی کا مدار اسی پر ہی اسیلیے کہ انھیں کے ذریعے سے خورش و پوشش حاصل ہوتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں بہت رنج و محنت سے حاصل ہوتی ہیں ان میں بونا۔ جوتنا۔ پالنا۔ صاف کرنا۔ گوندھنا۔ پکانا۔ کاتنا۔ تو تبنا بننا۔ اور اور کام کرنے پڑتے ہیں۔ ان کاموں کا سامان بہت سے یاوروں کے بغیر میسر نہیں ہوتا اور ان کے کرنے کے لیے ایک آدمی کی قوت کافی نہیں ہوتی۔ روز بروز اکیلے سے کارسازی دشوار کیا بلکہ ناممکن ہوتی ہی آدمی کے لیے مکان کا ہونا بھی ضرور ہی کہ وہ چندروزہ سامان کو اس میں رکھے اسکو وہ اپنی منزل (گھر) رکھتا ہی خواہ وہ خیمہ ہو یا غار ہو۔ انسان کی پیدائش اور پایندگی ان پانچ چیزوں سے ہوتی ہی۔ پدر۔ مادر۔ فرزند۔ خادم۔ قوت (خوراک) سبکی کار پردازی ہی۔ چونکہ زیادہ تر ہمارا اسباب پایدار نہیں ہوتا اور ٹوٹ پھوٹ جاتا ہی اسیلیے زر کی احتیاج ہوتی ہی۔ اور زر بہ سبب استواری جوہر اور سخت پیوند کے دیرپا ہوتا ہی اور تھوڑا سا بھی بہت کام کر دیتا ہی اور سفر میں وہ بہت کام آتا ہی۔ چند روز کی غذا کا لیجانا دشوار ہوتا ہی۔ چہ جائیکہ بہت ماہ و سال کی غذا کا۔ یہ خدا کی عنایت ہی کہ اُس نے زر پیدا کیا ہی جس کے سبب سے بغیر رنج کشی کے زندگی کا سرمایہ آمادہ ہو جاتا ہی اور اس سبب سے آدمی شائستہ کام کرتا ہی اور خدا کی عبادت اچھی طرح کرتا ہی اس کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ وہ نرم اندام۔ نیک مزہ۔ خوشبودار ہوتا ہی اس کی ترکیب عنصری قریب بہ اعتدال ہوتی ہی اس کے جوہر میں چاروں عنصر اپنی صورت دکھاتے

ہیں۔ رنگ میں آگ۔ صفائی میں ہوا۔ نرمی میں پانی اور گرانی میں خاک برخلاف اور فلزات کے اس پر یہ چاروں عنصر اپنا اثر نہیں کرتے۔ آگ میں وہ جلتا نہیں۔ ہوا اسمیں تاثیر نہیں کرتی۔ پانی مدتوں میں بھی اس میں تغیر نہیں پیدا کرتا۔ خاک اس کو بوسیدہ نہیں کرتی۔ اس لیے وہ بڑا دیرپا ہوتا ہے اور حکمت ناموں میں عقل کو جسپر کام کی تدبیر ہوتی ہے ناموس اکبر کہتے ہیں اور زر کو کہ اُس سے روزی کا اسباب میسر ہوتا ہے۔ ناموس اصغر کہتے ہیں اسکے گرامی صفات یہ ہیں حافظ عدالت۔ مقوم کلی۔ اسی سے اشیار کی تقویم ہوتی ہے اور معدلت کی بنیاد اسپر قائم ہوتی ہے خدا نے چاندی اور تانبے کو بھی انسان کی خدمتگذاری کے لیے رواج دیا ہے ان نقود کے رواج میں دادگر فرمانروا اور بیدار بخت جہانیان دوربینی کرکے بڑی ہمت صرف کرتے ہیں اور اس کام کی عیار افزائی کے ٹکسال اور اسمیں شناسا جد گزیں راستی منش کار پرداز مقرر کرکے معمور کرتے ہیں۔

ٹکسال میں (۱) داروغہ ہوتا ہے جو کاریگروں اور اہلکاروں کو اپنے کاروبار میں سرگرم رکھتا ہے۔ (۲) صیرفی سونے کو کسوٹیوں پر کس کر عیار مقرر کرتا ہے۔ بادشاہ نے سونے چاندی کو ایسا خالص بنایا ہے جو کبھی پہلے کسی زمانہ میں نہیں ہوئے تھے۔ اہل ایران سونے کو دس عیار سے زیادہ نہیں جانتے تھے اور سب سے زیادہ خالص سونے کو دہی کہتے تھے ہندوستان میں سونا بارہ بانی ہوتا ہے جسکے خالص ہونے کی عیار بارہ قسم کی ہوتی ہیں۔ دکن میں ایک رائج سکہ ہن تھا اسکا پرانا سونا سب سے زیادہ خالص دس عیار کا سمجھا جاتا تھا اب اس کا عیار ۸ ½ شمار ہوتا ہے۔ سلطان علاء الدین کا مدور و خرد دینار کا عیار پہلے بارہ قرار پایا تھا اب ۱۰ ½ ہے۔

بنواری مخفف بانوری کا ہے اگرچہ ہندوستان میں ایسے دیدہ ور آزمودہ کار صراف ہوتے ہیں کہ سونے کے رنگ و صفائی کو دیکھکر انکا عیار تبلا دیتے ہیں مگر اوروں کی دلنشینی کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا ہے کہ تانبے کی یا مثل اس کے اور چیزوں کی قلمیں

بناتے ہیں اور ہر ایک قلم کے سرے پر تھوڑا سا سونا پیوستہ کرتے ہیں اور ہر ایک قلم پر اُسکے
سونے کا عیار لکھدیتے ہیں جب کسی سونے کا عیار معلوم کرنا ہوتا ہی تو سنگ محک (کسوٹی) پر
اس سونے کے اور ان قلموں کے خطوط کھینچتے ہیں پس جس قلم کے خطوں سے سونے کے خط مشابہ
ہوتے ہیں وہ اسی عیار کا سونا سمجھا جاتا ہی مگر خطوط ایک ہی طرح کے اور ایک ہی زور سے
کھینچنے چاہئیں کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ پڑے ۔ طلا کے مختلف عیار بنانے کی ترکیب یہ ہی
کہ ایک ماشہ نقرہ خالص اور اسی قدر مس جید کو یکجا کرکے گلاتے ہیں اور پھر اس کو منجمد کرلیتے ہیں اور
پھر اس آمیختہ کو چھ ماشہ طلائے خالص میں جسکا عیار ۱۰ ½ ہو ملاتے ہیں اور انکو گلاتے ہیں اور
اس زر مغشوش میں ایک ماشہ لیکر اسکے سولہ حصے یعنی آدھی آدھی رتی کرتے ہیں ۔ بس اس آدھی رتی
کو مختلف عیار کے سونے کی ساتھ ملاتے ہیں اور اسکے موافق اسکا نام رکھتے ہیں مثلاً ½ سرخ
طلائے خالص کو اس آدھی رتی کے ساتھ ملائیں تو ۱۰ ¼ بان کا سونا کہیں گے اور علیٰ ہذا القیاس

(۳) امین ہوتا ہی وہ داروغہ کا مددگار ہوتا ہی حق کو ظاہر کرتا ہی اور لڑائی کو دور کرتا ہی ۔

(۴) مشرف وہ روزنامچہ لکھتا ہی اور خرچ و دخل کا حساب رکھتا ہی ۔

(۵) سوداگر وہ طلا و نقرہ و مس کو لاکر داد و ستد کرتا ہی اور اپنا فائدہ لیتا ہی ۔

(۶) گنجور ۔ وہ ٹکسال کے فائدہ کا حساب لکھتا ہی اور داد و ستد کرتا ہی ۔

(۷) ترازوکش سکوں کو تولتا ہی اور اُسکے وزن کے موافق مزدوری لیتا ہی ۔

(۸) گداز گر خام ایک مٹی کے تختے میں چھوٹے بڑے گھر بناتا ہی اور ان کو اندر سے تیل سے
چکناتا ہی اور سونے چاندی کو گلاکر ان میں بھرتا ہی پھر انکے شوشے بناتا ہی اور تانبے کی
صورت میں تیل سے چکنانے کی جگہ خاکستر لگاتا ہی ۔

(۹) ورق کش زر آمیختہ کے چھ یا سات ماشے کے ورق بناتا ہی اُس کا لنبان و چوڑان
چھ انگل ہوتا ہی اور اُس کو صاحب عیار کے روبرو لاتا ہی وہ ایک تانبے کے قالب
میں ڈالکر اس کا اندازہ کرتا ہی اور جو ان میں مناسب معلوم ہوتے ہیں انہیں سکہ عدل کا

نقش کرتا ہی کہ کچھ تغیر اس میں نہ ہو۔

جب اوراق پر سکہ عدل لگجاتا ہی تو پھر وہ صاف کیے جاتے ہیں۔

(۷) سونے کے صاف کرنیکا آئین۔

(۱۰) گدازگر۔ اوراق خالص کے سونے کو گلاتا ہو اور اُسکے شوشہ بناتا ہی۔

(۱۱) ضراب۔ سونے چاندی تانبے کے شوشوں کا مطلس بناتا ہی یعنی مسکوکات کے اندازہ کے موافق کرتا ہی۔ ایران اور توران میں مطلسات کی مقدار بغیر سندان کے برابر نہیں بنا سکتے مگر یہاں بغیر اسکے بناتے ہیں جنمیں بال برابر فرق نہیں ہوتا۔

(۱۲) مہرکن۔ مسکوک کے نقش کو فولاد یا اسکی مثل کسی چیز پر نگارش کرتا ہی مسکوک منقش پذیر ہوتے ہیں۔

(۱۳) سکّی۔ مطلس کو دو سکوں کے درمیان رکھتا ہی اور سکّی دونوں طرف کو نقش پذیر کرتا ہی

(۱۴) سباک۔ چاندی کو پاک کرکے قرص بناتا ہی۔

(۱۵) قرص کوب۔ گرم کرکے جب تک کوٹتا ہی کہ سرب کی بو اسمیں سے بالکل جاتی ہی۔

(۱۶) چاشنی گیر۔ طلا و نقرہ کو خالص کرکے امتحان کرتا ہی اور اُسکے درجے مقرر کرتا ہی۔

(۱۷) نیاریہ۔ خاک خالص کو دھو کر چاندی سونا نکالتا ہی خاک خالص اُن اُپلوں کی راکھ کو کہتے ہیں جنمیں سونا چاندی خالص ہوتے ہیں (۸) آئین نقرہ کو طلا سے جدا کرنے کا اور (۹) آئین خاکستر سے نقرہ جدا کرنے کا چھوڑ دیا گیا۔

(۱۰)

بادشاہ کی توجہ سے جتنے زر و سیم کے عیار اور ہو گئے ہیں ایسے ہی اُنکے سکّے بہت سی صورتوں کے ہو گئے ہیں۔ سونے کے سکّے یہ ہیں۔

(۱۱) سونے کے سکّے

(۱) سہنسہ۔ ایک گول سکّہ ہی جسکا وزن ایک سو ایک تولہ نو ماشہ سات سرخ کا ہی اسکی قیمت سو لعل جلالی ہی۔ اسکے ایک طرف بیچ میں بادشاہ کا نام ہی۔ محراب میں پانچ طرف السلطان الاعظم الخاقان المعظم خلد اللہ ملکہ و سلطانہ ضرب دار الخلافہ آگرہ۔ دوسری طرف بیچ میں کلمہ طیبہ اور آیہ یرزق من یشاء بغیر حساب (اللہ رزق دیتا ہی جسکو چاہتا ہی بحساب) چاروں

کے نام ۔ اول یہ کار پردازی مولانا مقصود نے کی۔ بعد ازاں ملا علی احمد نے یہ شگرف نگاری کی کہ ایک طرف۔ افضل دینار ینفقہ الرجل دینار ینفقہ علی اصحابہ فی سبیل اللہ (سب سے افضل وہ دینار ہی جو آدمی اپنے اصحاب پر خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہی) اور دوسری طرف السلطان العالی الخلیفۃ المتعالی خلد اللہ تعالی ملکہ وسلطانہ وابد عدلہ واحسانہ پھر ان سب کو دور کرکے دو رباعیاں ملک الشعرا شیخ فیضی نے لکھیں ۔

رباعی

خورشید کہ ہفت بحر ازو گوہر یافت | سنگ سیہ از پرتو آں جوہر یافت
کان از نظر تربیت او جوہر یافت | واں زر شرف از سکہ شاہ اکبر یافت

دیگر

ایں سکہ کہ پیرایہ امید بود | بانقش دوام و نام جاوید بود
سیمائے سعادتش ہمیں بس کہ بدہر | یک ذرہ نظر کردہ خورشید بود

بیچ میں الہی سال و ماہ کے نقش تھے ۔

(۲) اسی نام کا ایک سونے کا اور سکہ ہی جس کا وزن ۹۱ تولہ ۸ ماشہ قیمت اسکی سو مہر گرد گیارہ ماشی ۔ اوسپر وہی نقش تھا جو پہلی پر تھا۔

(۳) رہس پہلے جو دو سکے بیان ہوے اُس سے آدھا ہی۔ کبھی وہ چو گوشیہ بھی ہوتا ہی اسکے ایک طرف نقش ونگار ہیں جو سہنسہ پر ہیں اور دوسری طرف یہ رباعی ملک الشعرا کی ہی۔

رباعی

ایں نقد رواں گنج شاہنشاہی | با کوکب اقبال کند ہمراہی
خورشید بہ پرورش ازاں روکہ بدہر | یابد شرف از سکہ اکبر شاہی

(۴) آتمہ ۔ سہنسہ کی چوتھائی ۔ گول و چو گوشیہ ۔ بعض پر وہی منقوش ہی جو صدمہری سہنسہ پر اور بعض پر ملک الشعرا کی یہ رباعی منقوش ہی ۔

رباعی

این سکہ دست بخت را زیور باد | پیرایہ نہ سپہر و ہفت اختر باد
زرین نقدیست کار از و چون زر باد | در دہر رواں بنام شاہ اکبر باد

اور دوسری طرف پہلی رُباعی۔

(۵) ہبنست بھی ایسی دو صورتوں کا ہوتا ہی جیسا کہ آتمہ۔ وہ قیمت میں اول سکہ کا پانچواں حصہ ہوتا ہی ایسی شکل کے اور سونے کے سکے ہیں جنکی قیمت برابر ۸/۱ و ۱۰/۱ و ۲۰/۱ و ۲۵/۱ سہنسہ کی قیمت کے ہوتی ہی

(۶) چگل (ڈیگل) چوگوشیہ سہنسہ کا ۵۰/۱ قیمت دو مہر۔

(۷) لعل جلالی گرد۔ قیمت و وزن میں دو مہر گرد کی برابر ایک طرف اللہ اکبر دوسری جانب یامعین

(۸) آفتابی۔ گول وزن میں ایک تولہ ۲ ماشہ ۴ ۴/۳ سرخ قیمت بارہ روپیہ۔ ایک طرف اللہ اکبر جل جلالہ۔ دوسری جانب ماہ و سال الہی و سکہ گاہ۔

(۹) الہی۔ گول و وزن ۱۲ ماشہ ۱ ۴/۳ سرخ اس پر وہ منقوش ہی جو آفتابی پر ہی قیمت ۱۰ روپیہ۔

(۱۰) لعل جلالی۔ چہارگوشیہ۔ الہی کی برابر وزن اور قیمت میں۔ ایک طرف اللہ اکبر دوسری طرف جل جلالہ۔

(۱۱) عدل گتکہ گول وزن ۱۱ ماشہ قیمت نُو روپیہ ایک طرف اللہ اکبر دوسری طرف یامعین۔

(۱۲) مہر گرد وزن اور قیمت میں برابر عدل گتکہ کے لیکن منقوش اور طرح پر۔

(۱۳) محرابی وزن و قیمت میں اور نقش میں مثل مہر گرد کی۔

(۱۴) معینی چہارگوشیہ دمددر۔ وزن اور قیمت میں لعل جلالی و مہر گرد کے برابر منقوش یامعین۔

(۱۵) چہارگوشہ۔ نقش و وزن میں آفتابی کی برابر۔

(۱۶) گرد ۔ نصف الہٰی نقش وہی ۔

(۱۷) دھن لعل جلالی سے نصف ۔

(۱۸) سلیمی ۔ عدل گٹکہ سے نصف ۔

(۱۹) ربی ۔ آفتابی سے چوتھائی ۔

(۲۰) من ۔ الہی و جلالی کی ایک چوتھائی ۔

(۲۱) نصف سلیمی ۔ عدل گٹکہ کی چوتھائی ۔

(۲۲) پنج ۔ حصہ الہی کا ۱/۵

(۲۳) پانڈہ ۔ لعل جلالی کا پانچواں حصہ ایک طرف لالہ کا دوسری طرف نسرین کا نقش ۔

(۲۴) ثمنی جسکو اشٹ سدھ بھی کہتے ہیں ۔ مہر الہی کا ایک آٹھواں حصہ ایک طرف اللہ اکبر دوسری طرف جل جلالہ ۔

(۲۵) کلا ۔ الہی کا سولھواں حصہ اسکے دونوں طرف گل نسرین منقوش ہے ۔

(۲۶) ذرہ ۔ الہی کا بتیسواں حصہ اسکے دونوں طرف وہی نقش ہے جو کلا پر ہے دار الضرب کا آئین ایسا ہے کہ ہر مہینے سونے کے سکے لعل جلالی ۔ دھن ۔ من نقش پذیر ہوتے ہیں مگر اور سکے بغیر تازہ حکم خاص کے نہیں بنتے ۔

(۱) نقرئی سکے

(۱) روپیہ گول ۱۱½ ماشہ کا یہ شیر خاں کے زمانہ میں داخل ہوا ۔ پادشاہ کے زمانہ میں اسکی تکمیل ہوئی اور اسپر یہ نقش تازہ ہوا کہ ایک طرف اللہ اکبر جل جلالہ دوسری طرف تاریخ ۔ اگرچہ اسکا بھاؤ بازار میں چالیس دام سے کم و زیادہ ہوتا رہتا ہے مگر مواجب میں اسکا ۴۰ دام کا اعتبار ہوتا ہے ۔

(۱) جلالہ ۔ چہار گوشیہ ۔ وزن و نقش مثل اول ۔

(۲) درب ۔ جلالہ سے آدھا ۔

(۳) چرن ۔ جلالہ کی چوتھائی ۔

(۴) پانڈو ۔ جلالہ کا پانچواں حصہ ۔

(۵) اشٹ - جلالہ کا آٹھواں حصّہ -

(۶) دسا - جلالہ کا دسواں حصّہ -

(۷) کلا - جلالہ کا سولھواں حصّہ -

(۸) سوکی - جلالہ کا بیسواں حصّہ -

روپیے کے ایسی کسروں کی برابر ریزہ سکّے بھی لیتے ہیں مگر ان کی پیکر او طرح کی ہوتی ہے -

(۱) دام تانبہ کا سکہ ہے اس کا وزن ۵ ٹانک ہے یعنی ۱ تولہ ۸ ماشہ ۷ رتی وہ روپیہ کا چالیسواں حصّہ ہوتا ہے اس کو پیسہ بھی کہتے ستھے اور بہلولی بھی - اب ہم کا نام دام ہے اسکے ایک طرف ٹکسال کے مقام کا نام ہے اور دوسری جانب سال و سنہ اہل حساب ہر دام کو پچیس حصے خیال کرتے ہیں اور ہر حصہ کو جیتل کہتے ہیں محاسبات میں یہ خیالی تقسیم کام میں آتی ہے -

(۲) ادھیلہ - دام کا آدھا -

(۳) پاؤلہ - دام کی چوتھائی -

(۴) دمڑی - ہر دام کا ایک آٹھواں حصہ -

ابتدائے سلطنت میں سونے کے سکّے بہت جگہ بنائے جاتے ہیں مگر اب چار جگہ کے سوا اور کہیں نہیں بنائے جاتے - دارالسلطنت - بنگالہ - احمد آباد - کابل - چاندی و تانبے کے سکّے ان چاروں جگہوں میں اور ان دس اور مقاموں میں بنائے جاتے ہیں الٰہ آباد - آگرہ - اجین - سورت - دہلی - پٹنہ - کشمیر - لاہور - ملتان - ٹانڈا - تانبے کے سکّے فقط ان اٹھائیس جگہ بنتے ہیں - اجمیر - اودھ - اٹک - الور - بداؤں - بنارس - بھکر - بہرہ - پٹن - جونپور - جالندھر - ہردوار - حصار - فیروزہ - کالپی - گوالیار - گورکھپور - کلانور - لکھنؤ - منڈو - ناگور - سرھند - سیالکوٹ - سرونج - سہارنپور - سارنگپور - سنبل - قنوج - رنتھنبور -

ہندوستان میں زیادہ تر خرید و فروخت مہر گرد و روپیہ و دام میں ہوتی ہے۔ خیانت
پیشہ سکوں کی مالش سے اور اُسکے سوا اور طرح سے بھی روپیوں کو بڑا نقصان پہنچاتے
ہیں اسی لیے بادشاہ کارپرداز اور نئے آئین مقرر کرتا رہتا ہے کہ اس خیانت کا علاج
ہوتا ہے سکوں کے آئین میں کئی دفعہ تبدیلیاں ہوئیں اور ۲۷ سنہ جلوس میں کہ احکام سلطنت
کا سر رشتہ راجہ ٹوڈرمل کی دیدہ وری سے منتظم تھا تو بادشاہ نے چار طرح کی مہر کو رواج
دیا تھا اول لعل جلالی اسیر بادشاہ کا نام تھا وزن اس کا ایک تولہ ۱ ۱/۴ رتی اور
عیار کامل قیمت چار سو دام - دوم وہ مہر کہ بادشاہ نے ابتدا سلطنت میں جاری
کی اس کا وزن ۱۱ ماشہ تھا - وہ تین قسم کی تھی - پورے وزن اور کامل عیار کی قیمت
۳۶۰ دام - اگر کسی مدت میں وہ گھس گھسا کر ۳ چاول وزن میں کم ہوتی تو اسکی قیمت
میں فرق نہیں آتا - مگر جب چار چاول سے ۶ چاول تک گھسکر کم ہو جاتی تو اسکو نقد دوم
کہتے اور اسکی قیمت ۳۵۵ دام ہوتے - اگر ۶ چاول سے ۹ چاول تک کم ہوتی تو اسکو
نقد سوم کہتے اور اسکی قیمت ۳۵۰ دام ہوتے اور اگر اس سے زیادہ گھسکر وہ کم
ہو جاتی تو اسکو زر ناسکوک کہتے - تین طرح کا روپیہ رواج رکھتا تھا - اول چارگوشیہ
صاف چاندی کا ۱۱ ۱/۲ ماشہ - اس کا نام جلالہ تھا قیمت ۴۰ دام دوم گول اکبر شاہی
تمام وزن ایک سرخ کم قیمت ۳۹ دام دو سرخ کم قیمت ۳۸ دام اور اس سے زیادہ
کم ہو تو وہ چاندی کے بھاؤ بکتا تھا

دوسری دفعہ ۱۸ ار مہر ۲۹ سنہ الٰہی میں عضد الدولہ امیر فتح اللہ شیرازی اس کام کا
امین مقرر ہوا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ مہر میں ۳ چاول کی اور روپیہ میں ۶ چاول
کی کمی میں مالیدگی پر کچھ خیال نہ کیا جائے اور وہ کامل وزن سمجھے جائیں اس سے زیادہ
جو مہر گھٹ جائے تو بقدر کمی قیمت کاٹی جائے - نہ یہ کہ ۹ برنج تک اس کو یکساں
سمجھیں اس سبب سے مہر کی قیمت جو ایک سرخ کم ہوتی ۳۵۵ دام کسر سے زائد

تھی اور ایک سرخ طلاے مسکوک کا نرخ چار دام اور کچھ کسرے زائد اعتبار کرتے تھے۔
پہلے قانون میں ایک نرخ کی کمی پر ۵ دام گھٹاتے تھے۔ اور اگر ۳ برنج سے زیادہ کمی ہوتی اور یہ کمی بھی نیم برنج ہوتی تو بھی ۵ دام کا حساب لگاتے تھے اور ڈیڑھ سرخ کمی پر دس دام گھٹا کے داد و ستد ہوتی اگر اتنی کمی نہ بھی ہوتی تو بھی دس دام کا حساب لگاتے مگر تازہ آئین میں کچھ کم چھ دام گھٹاتے اور قیمت ۳۵۲ دام کچھ کسر لگاتے۔
عضدالدولہ نے یہ قانون بھی منسوخ کیا کہ گول روپیہ کی قیمت چہار گوشیہ روپیہ سے با وجود درستی وزن عیار کے ایک دام کم ہو اور گول روپیہ کی جو ایک سرخ کم بھی ہو چالیس دام قیمت مقرر کی۔ پہلے دو سرخ کم روپیہ کی قیمت دو دام کم شمار ہوتی اب اسکی قیمت میں ایک دام کچھ کسر کم ہوتی۔
سوم جب عضدالدولہ خاندیس گیا تو راجہ تو ڈرمل نے مہر کی قیمت جو جلالہ روپیہ میں شمار ہوتی تھی گول روپیہ میں مقرر کی اور اپنی تعصب نفسی و سخن پرستی سے مہر و روپیہ کی کمی کے قواعد موافق سابق کے مقرر کیے۔
چہارم جب احکام خلافت کی پاسبانی قلیج خاں کو پہنچی تو اُس نے مہر کی قیمت کا قاعدہ وہی برقرار رکھا جو راجہ کے وقت میں تھا۔ مگر اس نے مہر کو جسکی کمی کے لیے راجہ ۵ دام اور دس دام کاٹتا تھا اُسکی جگہ ۱۰ دام و ۲۰ دام کاٹنے کا قاعدہ مقرر کیا اور جس مہر میں کم ۱½ سرخ کی کمی ہوتی اُسکو نامسکوک شمار کیا۔ روپیہ جسمیں ایک سرخ کم ہو تو اسکو سکہ زدہ نہ سمجھا آخر کو بادشاہ جو اپنے احکام کے پاسبانوں پر اعتماد کرتا تھا اور افزونی مشاغل سے اس طرف کم توجہ کرتا تھا ان دنوں اسکو معلوم ہوا کہ اس کارخانہ میں کچھ بے سرانجامی ہوتی ہے تو اُس نے شائستہ آئین مقرر کیا جس سے دور و نزدیک کو شادمانی ہوئی اور خلقت زیان زدگی سے آسودہ ہوئی۔ ۲۶ بہمن ۳۰ سنہ الہی کو دستور دوم (یعنی عضدالدولہ کا دستور) پسند کیا لیکن مہر ۳ برنج کم اور روپیہ ۶ برنج کم کو تمام وزن شمار کرنا منظور نہیں کیا۔ اس سے خیانت مندوں کے فریب کی

روک ہوگئی اس لیے کہ پہلے قانون میں کوئی اس کا علاج نہ تھا کہ دار الضرب کے کاربرداز اس
قدر سکہ کو کم بناتے یا خزانہ دار زرہائے تمام وزن کو اس مقدار کے موافق کم کرتے۔ اب اس کی
زبستی ہونے سے خلقت خوش ہوگئی بے حیا دزد پیشہ برنج ہلکے چینکر مہر ۳ برنج کم اسی تول کو ۶
برنج گھٹاتے اور ۶ برنج کم کو ۹ برنج کم بناتے اور علیٰ ہذا القیاس اور کاہش کو زیادہ کرتے
اس طرح وہ بہت ممکن کرتے اور ہمیشہ نقصان پہنچاتے۔ پادشاہ نے حکم دیا کہ باباغوری کے
برنج کے وزن بنائے جائیں اور اس سے مہر و روپیہ تولے جائیں اور اس سال و ماہ میں یہ
بھی بہت کوشش کی گئی کہ خزانچی کاربرداز رعیت سے زر مخصوص نہ طلب کریں اور جو
یہ کچھ وزن اور عیار میں کمی ہو اس کا حساب بے کم و کاست نرخ حال سے کریں۔ اس حکم سے
دغاباز بیدست و پا ہوگئے اور رعیت ظلم سے بچ گئی۔

(شاہنشاہی سکوں کے بعد درہم و دینار کا بیان کیا جاتا ہے)

(۱) درہم و دینار

درہم یا درہام بھی ایک چاندی کا سکہ تھا جسکی شکل کھجور کی گٹھلی کی سی تھی حضرت عمر فاروق رضی
کی خلافت میں اسکی شکل گول بنائی گئی اور حضرت زبیر کے زمانہ میں وہ کلمۃ اللہ اور برکت سے
منقوش ہوا۔ حجاج نے اسپر سورہ اخلاص کا نقش بنایا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسمیں اپنا نام بھی نقش
کروایا۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اول جس نے درہم پر سکہ لگایا وہ حضرت عمر فاروق رض تھے۔
بعض یہ کہتے ہیں کہ عبدالملک مروان کے زمانہ میں رومی دینار اور کسروی و حمیری دراہم
مروج تھے اسکے حکم سے حجاج یوسف نے درہم پر سکہ لگایا اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ حجاج
نے دراہم مغشوشہ کو خالص کیا اور اللہ احد اور اللہ الصمد کا سکہ اسپر لگایا اور ان دراہم کا نام
مکروہ ہوا اسواسطے کہ اسمیں خدا کے نام کا احترام نہیں ہوتا تھا یا آدمیوں نے اس تغیر کے سبب سے
انکا نام یہ رکھا۔ بعد حجاج عمر ابن ہبیرہ نے یزید بن عبدالملک کی عہد حکومت میں عراق کی سلطنت
میں دراہم کو حجاج سے بہتر بنایا۔ بعد ازاں خالد بن عبداللہ قسری والی عراق نے اسکو زیادہ
پاکیزہ کیا اسکے بعد یوسف عمر نے اس کو کمال پر پہنچایا۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اول جس نے درہم پر

سکہ لگایا وہ مصعب بن زبیر تھا اور اُسکے طرح طرح کے وزن ۱۰ یا ۹ یا ۶½ یا ۵ مثقال کے بنائے جاتے تھے یہ بھی کہتے ہیں کہ اُس کا وزن ۲۰ قیراط و ۱۲ قیراط و ۱۰ قیراط بھی تھا حضرت عمرؓ نے ہر طرح کے درہم لئے اور انکی اوسط ۱۴ قیراط یعنی تہائی کے برابر وزن کا درہم بنایا بعضے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کی خلافت میں چند طرح کے درہم رائج تھے۔ ایک ۸ دانگ کا درہم تھا اسکو بغلی کہتے تھے وہ راس بغلی سے منسوب تھا وہ صاحب عیار تھا۔ حضرت عمر خطابؓ کے حکم سے درہم پر سکہ لگا بعض کہتے ہیں بغلی ایک گانو تھا اس سے یہ سکہ منسوب تھا۔ چار دانگ کے درہم کو طبری کہتے تھے اور تین دانگ کے درہم کو مغربی اور ایک دانگ کے درہم کو یمنی کہتے تھے حضرت عمرؓ نے سب کو جمع کرکے مجموعہ کے آدھے کی برابر ایک وزن کا درہم جاری کیا۔ قوشنجی مجتہدی کہتا ہے کہ پہلے زمانہ میں درہم دو طرح کا تھا ایک کا نام ہشت دانگی وشش دانگی تھا۔ ۱ دانگ = ۲ قیراط و قیراط = ۲ طسوج و طسوج = ۲ حبہ دوسرا ناقص درہم چہار دانگ کسرے زائد اس باب میں بہت سی رائیں مختلف ہیں۔

دینار۔ سونے کا سکہ ہے جسکا وزن ایک مثقال یعنی بقدر ۱ ۳/۴ درہم کے کہتے ہیں۔

۱ مثقال = ۶ دانگ و ۱ دانگ = ۴ طسوج و ۱ طسوج = ۲۰ حبہ و ۱ حبہ = ۲ جو و ۱ جو = ۶ خردل (رائی) ۱۲ فلس = ۶ فتیل و فتیل = ۶ نقیر اور نقیر = ۶ قطمیر = ۶ ذرہ پس اس حساب سے ہر مثقال میں ۹۶ جو ہوتے ہیں۔ مثقال۔

سونے کے تولنے کا بھی وزن ہے اور ایک زرمسکوک بھی ہے۔ بعض پرانے نوشتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مثقال یونانی کا رواج جاتا رہا تھا اور وہ دو قیراط کم مثقال مروج سے ہوتا ہے اور درہم یونانی اور درہموں سے مختلف ہوتا ہے ۱/۶ یا ۱/۴ مثقال کی بقدر کم ہوتا ہے۔

اگرچہ ہندوستان میں اور ملکوں سے سونا آتا ہے مگر وہ ملک شمالی کوہستانی میں بکثرت پیدا ہوتا ہے اور تبت میں بھی اور دریائے گنگا اور سندھ کی ریت سے سلونی کے عمل سے سونا نکال لیتے ہیں۔ اکثر اس ملک کے دریاؤں کے ریتوں میں سونا ملا ہوا ہے مگر محنت

اور خرچ کے زیادہ ہونے سے ہر ساحل پر یہ کام سرانجام نہیں پاسکتا صاف چاندی ایک
تولہ ۲ سرخ ایک روپیہ کو بکتی ہے پس سوداگر ۹۵۰ روپیہ کی چاندی ۹۶۹ تولہ ۹ ماشہ
۴ سرخ خریدتا ہے جس میں سے شوشہ بنانے میں ۵ تولہ ۴ ۳/۴ سرخ چاندی کم ہوجاتی ہے باقی
چاندی میں ۱۰۰۶ روپیے تیار ہوتے ہیں اور ۲۷ ۱/۲ دام کی چاندی بچ رہتی ہے باقی خرچ
اور نفع کی تفصیل یہ ہے اول ۲ روپیے ۲۲ دام ۱۲ جیتل مزدوری میں دیے جاتے ہیں دوم
۱۰ دام ۱۵ جیتل مصالح میں خرچ ہوتے ہیں سوم ۵۰ روپیے ۱۲ دام دیوان شاہی کو
دیے جاتے ہیں چہارم ۹۵۰ روپیہ چاندی کی قیمت کے سوداگر لیتا ہے پنجم اس طرح ۳ روپیہ
۱۲ دام ۱۰ ۱/۲ جیتل سوداگر کا نفع رہتا ہے اور اگر سیم ناسرہ کو اپنے گھر میں پاک صاف کرتا
ہے تو بہت فائدہ اٹھاتا ہے۔

چاندی جس کو لاری اور شاہی کہتے ہیں اور سیم آغشتہ ایک روپیہ کی ایک تولہ ۴ سرخ
خریدی جاتی ہے اس حساب سے ۹۵۰ روپیہ کی ۹۸۹ تولہ ۷ ماشہ چاندی سوداگر
خریدتا ہے سباکی کے عمل میں ۱۴ تولہ ۱ ماشہ ۱ سرخ چاندی جل جاتی ہے یعنی سو تولہ میں ڈیڑھ
تولہ وہ کم ہوجاتی اور شوشہ بنانے میں ۴ تولہ ۱۰ ماشہ ۳ سرخ کم ہوتی ہے باقی چاندی
میں باو[illegible]ن روپیے ڈھلتے ہیں اور خاک کھرل سے ۳ ۱/۲ روپیہ کی چاندی نکل آتی ہے باقی
نفع خرچ کی تفصیل یہ ہے اول ۴ روپیے ۲۷ دام ۲۴ ۳/۴ جیتل مزدوری میں دیے جاتے
ہیں دوم ۵ روپیے ۴۲ دام ۱۵ جیتل اور ضروری کاموں میں سوم ۵۰ روپیے ۲۴ دام
سرکار شاہی میں داخل کیے جاتے ہیں چہارم ۹۵۰ روپیے چاندی کی قیمت کے لیے
جاتے ہیں پنجم اس طرح ۴ روپیہ ۲۹ دام فائدہ کے ہوتے ہیں۔

۱۰۴۴ دام کا ایک من تانبا آتا ہے یعنی ۲۶ دام ۲ ۱/۲ جیتل سیر اس میں ایک سیر تانبا تو
گلانے سے کم ہوجاتا ہے اور ہر سیر میں ۳۰ دام بنتے ہیں کل دام ۱۱۷۰ دام ڈھلتے ہیں
جن میں سے سوداگر تانبے کی قیمت لے لیتا ہے اور ۱۰۸ دام ۱۹ ۱/۲ جیتل فائدہ تانبے

کی قیمت سے لیتا ہ ادام ۹ جیتل مزدوری میں جاتا ہی اور ۱۵ ادہم ۸ جیتل اور ضروریات خرچ ہوتا ہی اور ۸ ۵ ½ دام دیوان اعلیٰ میں دیئے جاتے ہیں۔

(۱۳) آئین پیدائش فلزات میں (۱۴) آئین گرانی وسبکی میں۔ اگرچہ نہایت تحقیق سے بڑے دلچسپ لکھے ہیں مگر وہ علوم طبیعہ کیمیا سے تعلق رکھتے ہیں اسلیے انکو نذر گذاشت کرتے ہیں۔

آئین شمع ان اقبال (۱۵)

بادشاہ کو آبادی کا خیال ایسا ہی کہ کام شائستگی سے ہوتے ہیں اور مخلوق کی آرائش ہوتی ہی ظاہری امور کے معنی کھلتے ہیں۔ عورتوں کی افراط جو بزرگ دانشوردل طبیعت کے ظلمت کدہ میں لے گئی اس نے اور بادشاہ کی بنیش میں فروغ بڑھائی۔ اور تعلقات سے بادشاہ کو وارستہ بنایا۔ منزل (گھر) نے گزیدہ روش سے آراستگی پائی اور خاندانوں کا انتظام ہوا بادشاہ نے ہندوستان اور اور ملکوں کے بزرگوں سے خواستگاری کرکے پیوند یکجہتی پیدا کیا۔ دنیا کی آشوب گاہ کو چین اور آرام ملا جیسے کہ بادشاہ نے اپنی دیدہ وری کے فروغ سے بیرونی خدمت کے شائستوں کو گمنامی کے خاک سے اٹھاکر بلند پایہ کیا ہی ایسی ہی اپنی پیش بینی سے پرستاران بیرونی میں سے ہرایک کو اپنے اندازہ کے موافق بڑھایا ہی کوتاہ اندیش تو یہ جانتا ہی کہ خاک آلود سونا پاک ہوگیا مگر ژرف نگاہ سمجھتا ہی کہ یہ اکسیر سازی اور کیمیا طرازی ہی۔ جب جمادات کو بوٹی لی بدل دیتی ہیں اور مس اور آہن کو زر بنادیتی ہیں اور قلعی وسرب کو نقرہ۔ پس اگر کوئی بزرگ آدمی کسی ناکس کو آدمی بنادے تو اسمیں کیا تعجب ہی ؎

چہ نیکو زد ایں مثل ہوشمنداں ۔۔۔ کہ اکسیر بخت است چشم بلنداں

بادشاہ انتظام میں ژرف نگہی۔ پایہ شناسی۔ قدردانی۔ کاردستی۔ بردباری کرتا ہی وہ خشمناکی میں بھی مہرافزائی کرتا ہی سُنی ہوئی بات کو دوربینی سے تولتا ہی۔ خیال پرستی سے کنارہ کرتا ہی۔ وہ آدمیوں کی نیائش گری کو بزرگ نعمت سمجھتا ہی اور دنیا کی شراب سے عقل کو گزند نہیں پہنچاتا۔

(۱۶) آئین شبستان [illegible] (حرم سرا)

بادشاہ نے ایک حصار بزرگ بنایا ہے اور اس کے منازل دلکشا میں آرام کرتا ہے۔ اس میں پانچ ہزار سے زیادہ عورتیں رہتی ہیں جن کے لیے جدا جدا مکانات نامزد ہیں۔ اور اُن کو گروہوں میں تقسیم کیا ہے اور وہ عمدہ خدمات میں سرگرم رہتی ہیں ہر گروہ کی پاسبانی کے لیے پارسا عورتوں کو دیدبان داروغہ مقرر کیا ہے نیک ذات عفت سرشت عورتوں میں ایک کو اشراف بنایا ہے۔ باہر کے کارخانوں کی طرح حرم سرا میں بھی کارخانے آباد کیے ہیں۔ ہر ایک عورت کی کارروائی اسکے لائق مقرر کی ہے ہر ایک مہین بانو کی تنخواہ ماہوار ۱۶۱۰ روپیہ سے لیکر ۱۰۲۷ روپیہ تک اور بعض پرستاران حضور کو ۱ روپیہ سے ۲ روپیہ تک اور چند کو ۴ روپیہ سے ۲ روپیہ تک ملتی ہے۔ دربار خاص پر ایک مشرف درست قلم خدمت گزار مقرر ہوتا وہ حرم سرا کی داد وستد اور نقد وجنس کے حساب کو لکھتا ہے۔

شبستان اقبال کے گرداگرد اندر کی طرف پارسا عورتیں پاسبانی کرتی ہیں۔ اور ان میں سے جو عفت منش شیوا زبان نزدیک ہیں وہ درگاہ خاص پر حاضر ہوتی ہیں۔ در کے باہر خواجہ سرا خدمت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ مسافت مناسب پر اخلاص گزیں راجپوت دیدبانی کرتے ہیں۔ ان سے پیچھے پردہ دار (دربان) پہرہ دیتے ہیں۔ باہر چاروں طرف امرا احدیوں اور سپاہیوں کی مرتبہ بمرتبہ چوکی بیٹھتی ہے جس وقت بیگمیں اور امرا کی عورتیں پادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں تو اول اندر کی خدمت پذیروں کو اطلاع کرتی ہیں اور اُس کا شائستہ جواب پاتی ہیں اور اپنے نوشتہ کو بیشکاران محل کے پاس بھیجتے ہیں اُن میں سے جنکی قدر ہوتی ہے وہ محل میں جاتی ہیں اور بعض خاص بیگموں کو ایک مہینہ رہنے کی اجازت ہوتی ہے شکار میں اور نزدیک کے سفروں میں یہ انتظام ہوتا ہے کہ اول ایک گلال بار ہوتا ہے جو ایک عجیب حصار پادشاہ کا ایجاد ہے اسکے در اور دربند بڑے استوار

ہوتے ہین اور قفل و کنجی سے وہ کھلنے اور بند ہوتے ہین وہ سو گز مربع سے کم نہین ہوتا اسکے
مشرقی کنارہ پر ایک بارگاہ قائم کرتے ہین جس کے اندر دو سرغہ یعنی مداخل ہوتے ہین
اور اُس مین ۵۴ خانے ہوتے ہین اور وہ لمبی ۶۴ گز اور چوڑی ۱۴ گز ہوتی ہے اور اُس کے
اندر ایک چوبین بزرگ راوٹی کھڑی ہوتی ہے ....

اور اس کے گرد اور سراپردے ہوتے ہین اور اُس کے متصل ایک دو منزلہ کاخ چوبین
ہوتا ہے جس مین پادشاہ پرستش کرتا ہے صبح کے وقت وہ اُس مین بیٹھتا ہے اور اس کی
کورنش ہوتی ہے - پرستاران درونی بے اجازت اس کے اندر نہین جا سکتین اس کے
باہر نہایت عمدہ روش سے ۲۴ چوبین راوٹیان دس گز لمبی اور چھ گز چوڑی کھڑی ہوتی
ہین اور بزرگ قناتون سے جدا ہوتی ہے اس مین گزیدہ بیگین رہتی ہین - اور کئی ایک
خرگاہ و خیمے کھڑے ہوتے ہین جو خاص امیرون ہی کے ساتھ اختصاص رکھتے ہین زردوزی
و زربفتی و مخملی سائبانون سے اُن کو زینت دی جاتی ہے اس کے متصل ایک گلیمی سراپردہ
طول و عرض مین ساٹھ گز کا کھڑا ہوتا ہے اور اس مین چند خیمے ترتیب پاتے ہین ان مین اردو
بیگنیان (مسلح عورتین) اور پارسا عورتین آرام کرتی ہین -

اس کے باہر دولتخانہ خاص تک ۱۵۰ گز طول و ۱۰۰ گز عرض ایک صحن دلکشا آراستہ کرتے
ہین اور اس کا نام مہتابی رکھتے ہین - اس کے دونون طرف پہلی طرح سے قناتین لگاتے ہین
اور دو گز کے فاصلے پر چھ گزی چوبین گاڑتے ہین جنمین سے ایک ایک گز زمین کے اندر رہتی
ہین اور اسکے سرے پر قبۂ برنجی ہوتا ہے اس کو اندر و باہر دو رسیون سے استوار کرتے
ہین اور پہلی طرح سے دیدبان پہرہ دیتے ہین -

اور اسکے اندر ایک صفہ بناتے ہین اور اسپر چار چوبی نگیرہ لگاتے ہین رات کے وقت پادشاہ
اسپر بیٹھتا ہے اور سوائے خاصون کے کسی اور کو وہان بار نہین ہوتا ہمیشہ گلال بار سے پیوستہ
ایک دائرہ ہوتا ہے جس کے بارہ حصے ہوتے ہین اور اس کا دروازہ اس مہتابی کی طرف کھلتا ہے

اس میں چوبیں راوٹی دہ گزی اور ایک خیمہ چہل خزانہ سے آراستہ کرتے ہیں اور اسپر بارہ شامیانے دواز دہ گزی سایہ ڈالتے ہیں اور چند قناتوں سے انھیں جدا کرتے ہیں اس خلوت گاہ کو اچکی خانہ کہتے ہیں۔ ہر نشیمن گاہ میں ایک صحت خانہ ہوتا ہے پادشاہ نے طہارت خانہ کا نام صحت خانہ رکھا تھا اس سے ملا ہوا گلیمی سراپردہ ۱۵۰ گز طول و عرض کا جس کے ۱۶۰ حصے ۶ گز مربع ہوتے ہیں قائم کرتے ہیں پہلی طرح سے اُس کو قبہ و چوب سے زینت دیتے ہیں اُسکے درمیان بارگاہ بزرگ ایک ہزار فراش کھڑا کرتے ہیں اسمیں ۷۲ خزانہ (کمرے) ہوتے ہیں اور پندرہ گز سرغ (کشادگی) ہوتی ہے اسپر قلندری ڈالتے ہیں وہ موم جامہ سے یا کسی ملی چیز کے خیمہ کی شکل کی بنی ہوئی ہوتی ہے بارش و تابش میں اس سے فائدہ ہوتا ہے اس کے گرداگرد پچاس شامیانے دوازدہ گزی لگے ہوتے ہیں اس دولتخانہ خاص کے بھی ہزار اور دربند ہوتے ہیں۔ امراء بزرگ اور اعیان سپاہ کو بخشی حکم دے کر اس میں آنے دیتے ہیں اور ہر مہینے میں ایک دربار ہوتا ہے اندر اور باہر منقش فرشوں سے آراستگی ہوتی ہے ایک گلال بار سرخ نمودار ہوتا ہے اور اسکے باہر تین سو پچاس گز طناب کھنچی ہوئی ہے ہر تین تین گز پر ایک چوب لگی ہوتی ہے اس کے گرداگرد آدمی دیدبانی کرتے ہیں۔ اس تماشاگاہ کی انتہا پر بارہ طناب شصت گزی کی دوری پر نقارخانہ بنایا جاتا ہے اور اس فضا کے درمیان آکاش دیا روشن ہوتا ہے ایک بڑی لمبی چوب پر چراغ روشن ہوتا ہے ہر منزل کسی جگہ کو پسند کرتے ہیں اور وہاں خیمے فراش ایستادہ کرتے ہیں اور خیموں کو ٹٹے لیجا کے کھڑا کرتے ہیں اور پادشاہ کے آنے کے منتظر رہتے ہیں سو فیل دو پانچ سو اونٹ اور چار سو ارابے دو سو کہاران خیموں کی باربرداری کرتے ہیں۔ پانچسو سوار منصب دار و احدی اور سواے اس کے ہزار فراش ایرانی تورانی ہندی اور پانچ سو بیلدار نو سو ستے و پچاس بڑھئی و خیمہ دوز و مشعلچی و ۳۰ چرم دوز و ڈیڑھ سو خاکروب ہمیشہ خدمت کرتے رہتے ہیں پیادہ کا ماہوارہ ۲۴۰ دام سے ۱۳۰ دام تک۔

(۱۰) آئین فراہمی لشکر

پادشاہ لشکر کو فراہم کمتر کرتا ہے مگر پادشاہ جس جانب یورش کرتا ہے بہت لشکر جمع ہو جاتا ہے

جلد

تو وہ اس کو نواح مین کاموں پر مامور کرکے بھیجدیتا ہے اور ہمراہی کی اجازت نہین دیتا۔ پیشا کا انبوہ اور آدمیوں کا ہجوم اتنا ہوتا کہ دونوں لشکری ایس مین ایک دوسرے کو گھرنہ پاتے بیگانے کا تو کیا ذکر ہے۔ بادشاہ نے لشکر اتارنے کا یہ قاعدہ مقرر کیا تھا کہ بہت آدمیوں کو آسودگی ہوتی تھی۔ ایک دلکشا زمین پر جس کا طول ۱۰۳۰ گز ہوتا اس مین شبستان اقبال و دولت خانے و نقارخانہ انتظام پاتا جن کا بیان اوپر ہوا اسکے پیچھے داہین بائین و پیچھے کی طرفون نہین سو گز زمین کھلی رکھتے اس مین سوائے کشکداروں (چوکی والوں) کے کوئی اور آدمی نہین چل سکتا تھا۔ اس کے درمیان سو گز کے فاصلہ مین قول (مرکز) مین مریم مکانی و گلبدن بیگم اور اور پارسا گوہر عورتین اور شاہزادہ دانیال اُترتے۔ داہین طرف شہزادہ سلطان سلیم اُترتا۔ بائین طرف اور شہزادے اور شاہ مراد۔ پھر کچھ فاصلہ پر بیوتات ہوتے۔ ان کو ۳۰ گز چھوڑکر ہر گوشہ مین چوبیڑ کا بازار ہوتا اور ہر طرف باندازہ پایہ امرا کے خیمے ہوتے۔ شنبہ و جمعہ و پنجشنبہ کے چوکیدار قلب گاہ مین اور یکشنبہ و دوشنبہ کے چوکیدار داہین طرف و سہ شنبہ و چہارشنبہ کے بائین طرف پایہ بپایہ رہتے۔

روشن دل بادشاہ نور کے دوست رکھنے کو ایزد پرستی و ستایش الٰہی جانتا ہے جو تاریک دل نادان ہین وہ اس کو خدا فراموشی اور آتش پرستی خیال کرتے ہین اسکو خرد پژدہ ژرف بین خوب سمجھتے ہین جبکہ برگزیدوں کی عبادت ظاہری شائستگی رکھتی ہے اور اسکے نہ کرنے پر نفرین ہوتی ہے تو اس بالا عنصر آتش (جو سب عنصر و ملین اوپر ہے)

بزرگداشت کیون نہ سزاوار ہو جو مردم زاد کی سرمایہ ہستی اور پایندگی ہو اور اسکی نسبت کیون نہ بُرا خیال ہو۔ شیخ شرف الدین منیری نے کیا خوب کہا ہو کہ جس کسی کا آفتاب غروب ہو جائے اگر وہ چراغ سے موافقت نہ کرے تو کیا کرے ہر شعلہ اسی سرچشمہ الٰہی (آفتاب) کا نور ہے اور اسی گوہر خسرو آفرین کی نشانی ہے۔ اگر خور و آذر (سورج و آگ) نہ ہوتے تو غذا و دوا کیونکر پیدا ہوتی اور چشم بینا کس کام کی ہوتی۔ آفتاب کی آتش آسمانی ہے۔ دوپہر کو جب آفتاب جہان کو

آئین چراغ افروزی

روشن کرتا ہے تو ایک چمکتا ہوا پتھر کا سفید مہرہ جس کو ہندی مین سورج کرانت کہتے ہین۔
آفتاب کے روبرو لاتے ہین اور اس کے پاس روئی رکھتے ہین اسطرح روئی مین آگ لگجاتی
ہے اور یہ آسمانی آتش کارگاہون کو سپرد ہوتی ہے اس آگ سے چراغ چی و مشعل چی دلورچی
اپنا کام نکالتے ہین جس برتن مین اس آگ کو محفوظ رکھتے ہین اس کو اگن گیر کہتے ہین۔

اور ایک چمکتا ہوا پتھر سفید رنگ کا نکلا ہے جس کو چندرکرانت کہتے ہین اس کو چاند کے مقابل
رکھتے ہین تو پانی تراوش کرتا ہے۔

جب ایک گھڑی دن باقی رہتا ہے تو پادشاہ اگر سوار ہو تو پیادہ ہوتا ہے اور اگر سوتا ہو تو
بیدار کیا جاتا ہے۔ ظاہر و باطن کو ہمرنگ بناتا ہے جب آفتاب چھپ جاتا ہے تو خدمت گذار
بارہ زرین سیمین لگنون مین کافوری شمعین روشن کرکے پادشاہ کے روبرو لاتے ہین اور ایک
گویا شیوا زبان ہاتھ مین شمع کو لیکر خدا کے آگے بھجن طرح طرح سے گاتا ہے پھر پادشاہ کو دعا
دیتا ہے اور اس دعا پر ختم کرتا ہے۔ پادشاہ اس نیایش و نیاز کو برتر جانتا ہے اور اس سے
فروغ تازہ پاتا ہے۔

شمعدان اور فانوسون مین ہنرمندون نے اپنے کام تازہ دکھائے ہین ان مین بعض دہ منی اور
بعض اس سے زیادہ وزنی بناتے ہین اور انپر حسندہ پیکر بناتے ہین بعض ان مین ایک شاخہ
ہین بعض دو شاخہ۔ پادشاہ نے ایک فانوس ایک گز بلند ایجاد کی ہے اسکے اوپر پانچ فانوس لگائی
ہین ہر ایک پر ایک جانور کی صورت ہے اور ان مین بعض کافوری شمعین تین تین گز سے زیادہ اونچی
لگاتے ہین اور ان کو زینہ لگاکے بجھاتے ہین اندر اور باہر روشنی کے لیے شمعین بھی روشن
کرتے ہین ماہ قمری کے اول و دوم و سوم شب کو کہ روشنی کمتر ہوتی ہے آٹھ فتیلے روشن
کیے جاتے ہین اور چہارم سے دہم تک ایک ایک فتیلہ کم ہوتا جاتا ہے دسوین کو چاند نق
غروب ہوجاتی ہے تو ایک فتیلہ روشن ہوتا ہے اور اس طرح یازدہم تک روشنی ہوتی ہے
سولھوین سے انیسوین تک ایک بتی زیادہ ہوتی جاتی ہے اور بیسوین مین بھی انیسوین

کی طرح روشنی ہوتی ہے پھر ایک ایک بتی اونیسوین سے بائیسوین تک زیادہ ہوتی ہے اور تئیسوین کو بائیسوین کی طرح روشنی ہوتی ہے اورچوبیسوین سے ایک ایک بتی زیادہ ہوتی ہے اور سلخ تک آٹھ آٹھ بتیان جلتی ہین ہر بتی مین ایک سیر روغن اور آدھ سیر روئی جلتی ہے۔ بعض جگہہ تیل کی بتیون کی جگہہ چربی کی بتیان روشن کرتے ہین فتیلہ کے چھوٹے بڑے ہونے پر تیل و روئی کے جلنے کی مقدار موقوف ہے۔ پادشاہ نے اس لیئے کہ الٰہی بارگاہ کو لوگ جلد پائین۔ ایک چراغ اسطرح روشن کیا کہ دربار کے آگے ایک ستون چالیس گز سے بھی زیادہ اونچا کھڑا کرتے ہین اور اس کو سولہ طنابون سے استوار کرتے ہین اور اس کے اوپر ایک فانوس جلاتے ہین اس کو اکاش دیہ کہتے ہین۔ دور دور اس کی روشنی جاتی ہے اسے دیکھکر پادشاہ کی درگاہ پر آدمی پہونچ جاتے ہین۔ پہلے لوگ لورشون مین حیران ہوتے تے اور مقصد نہ پاتے تھے اس کارخانے مین بہت سے منصبدار اور احدی و سپاہی خدمت گزین ہین پیادہ کا علوفہ زیادہ ۲۴۰ دام اور کم ۸۰ دام ہین۔

فرمان روائی وہ فرہ ایزدی ہے کہ بغیر کوشش امکانی کے قدرت ایزدی کا دست بنا ہے عاقل اورنگ نشین صورت آرائی مین دل نہاد اس میلئے ہوئے کہ اس کو ایزدی فروغ کا چہرہ آرا جانتے ہین اس کا کچھ حال لکھا جاتا ہے۔

(۱) اورنگ۔ طرح طرح کے بنائے جاتے ہین۔ مرصع۔ زرین۔ سیمین وغیرہ

(۲) چتر۔ بیش قیمت جواہر اس مین لگائے جاتے ہین اور سات سے وہ کم نہین ہوتے۔

(۳) سائبان۔ اسکی شکل بیضوی ہوتی ہے بلندی مین ایک گز ہوتا ہے اس کا دستہ چتر کی مانند ہوتا ہے زربفت وغیرہ اس پر لپٹا ہوتا ہے اور بڑے بڑے موتیون سے آراستہ ہوتا ہے خدمت گزین اس کو تیار رکھتے ہین دھوپ مین اس کو لگاتے ہین اور اس کو آفتاب گیر کہتے ہین۔

(۴) کوکبہ۔ کئی ایک مخمل کی پیشگاہ مین لٹکاتے ہین۔ یہ چار چیزین سوائے پادشاہ کے کسی

(۱۴) آئین اورنگ و سلطنت

کسی اور کے شکن مین داخل نہین ہوسکتین -

(۵) علم - سواری کے وقت توغ کے ہمراہ پانچ سے کم علم نہین ہوتے ہمیشہ سقرلاط کے غلافون مین رہتے ہین - جشن اور رزم کے دنون مین کھلتے ہین -

(۶) چتر توق - علم کی قسم مین سے ہے مگر اس سے چھوٹا ہوتا ہے اور اسپر چند قطاس (ایک کوہی جانور کی دم) لگاتے ہین -

(۷) تمن - توق بھی چتر توق کی مانند ہوتا ہے لیکن اس سے لمبا ہوتا ہے - علمون مین ان دونون کا پایہ برتر ہے - بزرگ نوئینون کے ساتھ چتر توق مخصوص ہے -

(۸) جھنڈہ - ہندی علم ہے - قور مین اس قسم کے علم کا ہونا ضرور ہے اور بزرگ ہنگامون مین وہ بہت سے بنائے جاتے ہین - نقارخانے مین جو باجے بجائے جاتے ہین

(۱) کوورگہ جسکو عرف مین دمامہ کہتے ہین اٹھارہ جوڑیون سے کچھ کم زیادہ بلند آوازہ ہوتے ہین -

(۲) نقارہ - ۲۰ جوڑیون سے کچھ کم زیادہ بجتے ہین -

(۳) دھل چار بجتے ہین -

(۵) کرنا - سونے - چاندی - پیتل - وغیرہ کے بنائے ہین - چار سے کم نہین بجتے -

(۶) سرنا عجمی و ہندی ہین نو طرح کے بجتے ہین -

(۷) نفیر عجمی فرنگی ہندی ہوتے ہین ہر قسم مین سے کئی ایک بجائی جاتی ہین -

(۸) سنگ - تانبے کا کاسے کے سینگ کی شکل کا بناتے ہین ان مین دو کو ساتھ بجاتے ہین -

(۹) سنج تین جوڑی بجاتے ہین پہلے جب چار گھڑی رات باقی رہتی تھی اور اسی قدر دن بجائی جاتے تھے اب اول آدھی رات کو کہ یہان کا نہ فرد ز (سورج) بلندی پر چڑھنا شروع کرتا ہے اور دوم اسکے نکلنے کے وقت یہ باجے بالترتیب بجتے ہین - پادشاہ موسیقی کے علم و عمل کو خوب جانتا ہے اور خاص نقارہ بجانا اس کو خوب آتا ہے - اس کارخانہ مین منصب دار واحدی اور سپاہ خدمت گزاری ہین - ان مین ماہیانہ پیادون کا ۳۴۰ دام سے زیادہ ۷۴ دام سے

۱

کم نہین ہے۔

(۲۰) آئین پادشاہی نگین

تینون رکن سلطنت (منزل آبادی، سپاہ آبادی، ملک آبادی) مین مہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ آغاز سلطنت مین مولانا مقصود مہرکن نے اسمین کار پردازی کی تھی۔ فولادی سطح کے گرد پادشاہ کا اور اس کے باپ دادا کا نام صاحب قران تک خط رقاع مین کندہ کیا تھا بعد ازان فقط پادشاہ کا نام نستعلیق مین کندہ کیا اور دادخواہی کے کامون کے لیے محراب کی مانند مہر بنائی گئی اور پادشاہ کے نام کے گرد یہ شعر منقش ہوا ؎

راستی موجب رضاے خداست ۔ کس ندیدم کہ گم شد از رہ راست

نگین نے دو دو انسے اور بنائی۔ ملا مولانا علی احمد دہلوی نے اس کی نگارش مین سخن پردازی کی۔ چھوٹی گول مہر کو اوزک کہتے ہین اور فرمان تلی پر وہ لگتی ہے بڑی مہر مین پادشاہ کے باپ دادا کا نام ہے وہ پہلے سلاطین آفاق کے خطوط پر لگتی تھی اب دونون کامون میں کام آتی ہے اور اور کامون کے واسطے چارگوشہ مہر ہوتی ہے جسپر اللہ اکبر جل جلالہ ہے نقش یہ مہر شبستانی کارروان کے واسطے ایک خاص مہر ہے اور نرا تین کے انجام کے واسطے ایک مہر جداہے اور اسکی نگارش چند طرح کی۔

(۲۱) فراشخانہ

پادشاہ اس کارخانہ کو گزند سرما وگرما سے پناہ اور بارش کا نگاہبان اور پیرایہ سلطنت جانتا ہے اور اس کی آرایش کو فرمان دہی کا شکوہ اور ایزدی پرستش سمجھتا ہے۔ پادشاہ کی کارآگہی سے اس کارخانہ کی چگونگی اور چندی مین افزایش ہوگئی ہے اور اس مین بہت باتین ایجاد ہوئی مین ان کا حال لکھا جاتا ہے۔

(۱) بارگاہ بزرگ مین دس ہزار آدمیون سے زیادہ سمانشین ہوتے ہین۔ ہزار فراش ایک ہفتہ مین آلات جر کی قوت سے اُسے ایستادہ کرتے ہین اگر وہ دو سرغہ (دروازہ جو چوبون کو لگا کے بنایا جائے) ہوتے ہین۔ چند نے کی پادرون سے پیوند پاتے ہین وہ جو سادہ بنایا جاتا ہے جس مین زربفت و مخمل وطلا نہین لگایا جاتا دس ہزار روپیہ سے

زائد خرچ ہوتا ہے اور اس پرکار کی قیمت کا تو کچھ ٹھکانا ہی نہین اور یہی حال اور اقسام کا ہے۔

(۲) چوبین راوٹی دس ستونون پر لگائی جاتی ہے جو کچھ زمین مین دبے ہوئے ہین۔ سب بلندی مین برابر ہوتی ہین مگر دو زیادہ بلند ہوتی ہین جنپر شہتیر رکھتے ہین۔ ستونون کے اوپر اور نیچے واسے لگاتے ہین جس سے وہ مضبوط رہتے ہین اور چند ترک (ترنگے) تیر و واسے پر لگاتے ہین سب کو لوہے کے جامہ سے بطرز نر مادگی پیوند دیتے ہین۔ دیوار و چھت ترسل کے بوریہ کی بناتے ہین۔ ایک دو دروازے رکھتے ہین اور نیچے کے واسے کے اندازہ کے موافق صفہ بناتے ہین اس کو اندر سے زربفت و مخمل سے آراستہ کرتے ہین اور باہر سقرلاط اور ریشمین نواڑ سے کمربند کرتے ہین۔

(۳) دو آشیانہ منزل۔ اٹھارہ ستون لگاتے ہین۔ ستون شش گزی ہوتے ہین ان کو تختہ پوش کرتے ہین اور اسکے اوپر بطرز نر مادہ کے چار زرعی ستونون کو پیوند دیتے ہین اور بالاخانہ تیار کرتے ہین۔ اندر اور باہر آرائش راوٹی کی طرح کرتے ہین یورشون مین وہ شبستان اقبال کے کام مین آتا ہے۔ پادشاہ اسی مین خدا کی پرستش کرتا ہے اور آفتاب کی نیایش بجا لاتا ہے۔ بعد اس پوجا کے بیگمات دیدار سے کامیاب ہوتی ہین بعد ازان باہر کے آدمی کورنش بجالاتے۔ سفرون مین اسی منزل مین پادشاہ بیٹھکر سب چیزون کو دیکھتا ہے اس کو جھروکہ کہتے ہین۔

(۴) زمین دوز ایک خیمہ ہی جو طرح طرح کا بنایا جاتا ہے کبھی وہ ایک سرغہ کبھی دو سرغہ ہوتا ہی انہین پردی اس طرح لگاتے ہین کہ وہ کسی درجہ کا ہو جاتا ہے۔

(۵) عجایبی چار ستون پر نو شامیانے بلند ہوتے ہین۔ پانچ چہار گوشہ و چار مخروطی و یک لخت بھی بناتے ہین یک سرغہ برپا ہوتا ہے۔

(۶) منڈل۔ چار ستونون پر پانچ شامیانے متصل بلند ہوتے ہین۔ انمین سے کبھی چار شامیانونکو

چھوڑ کر ایک خلوتخانہ بنا لیتے ہین اور کبھی چار شامیانون کو اوپر کو چڑھا دیتے ہین اور کبھی ایک ضلع کو کھولتے ہین۔

(۷) آٹھ کٹھبہ آٹھ ستونون پر ستره شامیانے کبھی جدا کبھی پیوستہ بلند ہوتے ہین۔

(۸) خرگاہ طرح طرح سے بنلتے ہین کبھی ایک در سے کبھی دو در سے۔

(۹) شامیانے طرح طرح کے ہوتے ہین مگر بارہ گز سے زیادہ شامیانے نہین بناتے۔

(۱۰) قلندری اوپر بیان ہوا۔

(۱۱) سراپردہ۔ پہلے زمانہ مین وہ ایک موٹے کپڑے آیفنہ کا بنا تھا اب بادشاہ اُس کو گلیم کا بنواتا ہے اس سے شکوہ بڑہتی ہے اور زیادہ سودمند وہ ہوتا ہے۔

(۱۲) گلال بار۔ جو مین سراپردہ ہوتا ہے خرگاہ کی دیوار کی طرح چمڑے کی قسمون سے استوار ہوتا ہے۔

(۱۳) گلیم۔ نادر طرح کے نقش و نگار اور دلکشا کر ہین ان مین لگائی ہین آزمودہ کار استادون کو اسپر متعین کیا ہے اور انھون نے اپنے کارنامون کو اس مین آراستہ کیا۔ اب کوئی ایرانی تورانی کلیم کو یاد نہین کرتا اگرچہ اب بھی سارے سال گوشکان۔ خوزستان۔ کرمان۔ سبزوار سے سوداگران کو لاتے ہین۔ ہر طرح کے قالی بافون نے یہان اپنے گھر بنا لیئے ہین اور بہت فائدہ انکو ہوتا ہی۔ ہر شہر مین خاص کر آگرہ و فتحپور و لاہور مین بہ زیادہ عمدہ بنتے ہین۔ کارخانہ خاص مین بمثل گلیم لمبان مین ۲۰ گز ۲۷ طسوج چوڑان مین ۶ گز ۱۱½ طسوج بنتے ہین اس مین خرچ ۱۸۱۰ روپے ہوتے ہین اور واقفکار اسکی قیمت ۲۷۱۵ روپے آنکتے ہین۔

(۱۴) تکیہ نمد۔ کابل و ایران سے آتے ہین اس ملک مین بھی بہت بنائے جاتے ہین۔ جاجم دشطرنجی و بلوچی و نادر پورٹی کہ ابریشم بافتہ معلوم ہوتے ہین بہت کام مین آتے ہین جنکے بیان سے داستان دراز ہوجائے گی۔

پادشاہ اس سرچشمۂ زندگی کو آب حیات کہتا ہے اور اسکی پاسبانی درستہ کار سیراب مغزون کو سپرد کرتا ہی

پادشاہ بہت پانی نہین پیتا اس مین بہت احتیاط کرتا ہی۔ سفر وحضر مین گنگا کا پانی نوش کرتا ہے اور
گنگا کے کنارے پر معتبر آدمی متعین ہین وہ احتیاط سے پانی کو کوزون مین بھر کر سر مہر بھیجتے ہین۔
جب آگرہ و فتح پور مین وہ ہوتا ہے تو قصبہ سورون سے اور جب لاہور مین ہوتا ہے تو ہردوار سے اسکے
لیے گنگا کا پانی آتا ہے کھانے پکانے مین آب جمن و چناب و آب باران خرچ ہوتا ہے اسمین کچھ گنگا کا
پانی بھی ملا دیتے ہین اور سیر و شکار مین ودہرہ وردن کو مقرر کرتا ہے کہ دوربینی سے پانی کا امتحان
کرلین۔ پادشاہ نے شورہ سے کہ بندوق کی دارو مین آگ لگاتا ہے پانی ٹھنڈا کرنے کی ترکیب
نکالی ہے جس سے سب چھوٹے بڑے خوش ہوتے ہین۔ شورہ نمناک ہوتی ہے اس کو روزانہ برتن کی
مین بھرتے ہین اور اسپر پانی چھڑکتے ہین اور ٹپکاتے ہین اور اس چکیدہ کو جوش دیتے ہین اور خاک
سے جدا کرکے اس کو بستہ کرتے ہین اسکی قیمت ۳/۴ من سے ۴ من تک ایک روپیہ ہوتی ہے۔
جب سنہ ۳۰ الٰہی لاہور مین پادشاہ کا قیام ہوا تو برف و یخ کا رواج ہوا شمالی کوہ کے قریب ایک
قصبہ پٹہان لاہور سے ۴۵ کوس پر ہی وہان سے دریا و خشکی کی راہ سے ڈاک چوکی مین بہلی و کہار برف
لاتے ہین اور برف فروش بہت فائدہ کماتے ہین اور اس سے کہ دمہ کو عشرت ہوتی ہے روپیہ کی
دو تین سیر برف بکتی ہے۔ سب سے اچھی ترکیب اسکے لانے کی کشتی مین ہے پھر بہلی مین یا کہارون پر
کوہ نشین دامنہ کوہ مین آکر اُسکے پنڈ بیچتے ہین پنڈ ۲۰ سیر سے زیادہ اور ۲۵ سیر سے کم نہین ہوتا۔
پانچ دام اسکی وہ قیمت لیتے ہین۔ برف کے لانے کے لیے [illegible] کشتیان مقرر ہین ان مین سے ایک
ہر روز دارالسلطنت مین پہونچتی ہے اور ہر کشتی پر چار ملاح مقرر ہین ہر پنڈ گل گلا کر ۱۲ سیر سے ۶ سیر
تک رہ جاتا ہی اور اسمین گرمی سردی سے فرق ہوجاتا ہے۔ ہر بہلی مین دو لشتوارہ ہوتے ہین اور چودہ
چوکیان گھوڑونکی بدلتے ہین اور اسکے سوای ایک ہاتھی بھی کام مین آتا ہی اگر کہار لاتے ہین تو اٹھائیس کہار
چودہ چوکیون مین بدلے جاتے ہین اور ہر روز ایک لشتوارہ چار پارچہ کا وہ لاتے ہین بڑے آدمی تو سارے
سال برف سے اپنے عشرت بڑھاتے ہین اور عوام صرف موسم گرما مین اسکا مزہ اڑاتے ہین۔

(۲۲) آئین مطبخ

آئین مطبخ مین پادشاہ نے بہت سی طرزین دنیا پسند اور دوراندیشیان جاری کی ہین کوئی وجہ نہ تھی

اُسطرف توجہ نہین کرتا اس لئے کہ اعتدال مزاج و توانائی تن و صوری باطنی فیض کی پذیرائی اور دینی و دنیوی سعادت کا ملنا غذائے مناسب اور اندیشہ درست سے والبستہ ہے آدمی اور جانور مین اس علم کے سبب سے تیز ہوتی ہے ورنہ کھانے مین دونون ہم پلہ ہین - پادشاہ کھانے کی فرمایش نہین کرتا کہ آج میرے لیے کیا پکایا جائے - رات دن مین ایک دفعہ کھاتا ہے اور سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور کھانے کا وقت کوئی مقرر نہین رکھا - مگر کارپرداز کھانے کو تیار رکھتے ہین جسوقت فرمایش ہوتی ہے ایک وقت مین سو قاب تیار ہوتی ہین شبستان کے پرستارون کے لیے جو راتبہ مقرر ہے وہ صبح سے رات تک تقسیم ہوتا ہی اس کارخانہ مین دیانت مند کارآگاہ مقرر ہوتے ہین - انتظام سلطنت کا کل کام جس وزیر کو سپرد ہوتا ہے وہ خاص اس کام پر توجہ کرتا ہے پادشاہ خود اُسکی نگہبانی کرتا ہے - ایک میر بکاول مقرر ہوتا ہے کہ وہ اپنی دیدہ وری سے اس کارخانے کو آباد رکھتا ہے اور اسکے ہمراہ اور پارسا گوہر مقرر ہوتے ہین - نقد و جنس کے خزانچی مقرر ہوتے ہین اور ایک تنکچی مشرف ہوتا ہے اور خورش گر مقرر ہوتے ہین - ہر ملک کے بو پی کھانے پکانے ہین اور ہر طرح کی سوپ ترکاری گوشت و روغن شیرینی و مصالح دار کھانے پکتے ہین -

شہر و لشکر سے باہر دریا یا تال کے کنارہ پر تسلیخ ہوتی ہے کہ اسکے پانی سے گوشت دھل دھلاکر بورچی خانہ مین آتا ہے اور دوبارہ پھر یہان پانی سے دھویا جاتا ہے -

طلا و نقرہ و سنگین و گلین دیگچیون مین بادشاہ کا کھانا پکتا ہے جب کھانا دسترخوان پر پہنچایا جاتا ہی تو اول اُسکو پکانے والے اور بعد ازان میر بکاول چکھتے ہین - کھانے کے برتنون پر ایک مہینے مین دو دفعہ قلعی ہوتی ہے اور شاہزادون اور امیرون کے ہان ایک دفعہ - جو برتن ٹوٹ جاتے ہین وہ مسگرون کو دیدیئے جاتے ہین - ترکاریون کا ایک کھیت بورچیخانہ سے متعلق ہوتا ہے جس سے تازی ترکاریان آتی ہین -

کھانے اتنی طرح کے پکتے ہین کہ اُن کا بیان کرنا دشوار ہے - جو کھانا پکتا ہے وہ ان تین حال سے خالی نہین ہوتا - اول گوشت جسکو زبان عرف مین صوفیانہ کہتے ہین - دوم گوشت یا برنج - سوم گوشت

(آئین مصالح)

مع مصالح ہر قسم کے کھانے دہی دس طرح کے ہوتے ہین اور روٹیان بہت طرح کی پکتی ہین۔

(۲۵) آئین خوان

بادشاہ اپنی بکار آگہی کے سبب سے گوشت کی طرف بہت کم رغبت رکھتا ہے اکثر وہ ارشاد فرماتا ہی
کہ آدمی کے لئے طرح طرح کی خورش موجود ہے مگر وہ اپنی گرگ خوئی اور بے دانشی سے جاندارون
کو آزار دیتا ہے اور ان کے مارنے اور کھانے سے پرہیز نہین کرتا اور کم آزاری کو نہین دیکھتا اور
اپنے تیئن جانورون کا گورستان بناتا ہے۔ اگر با تعلق میرے سر پر نہوتا تو گوشت کھانا یکبارگی
چھوڑ دیتا (اکبر نامہ مین لکھا ہے کہ اُس نے بالکل گوشت کھانا اس خیال سے نہین چھوڑا کہ اوسکے
چھوڑنے سے اور بہت آدمی اس کو چھوڑ دیتے جس سے ان کو نہایت تکلیف ہوتی اور انکی صحت
مین فرق آتا) کچھ دنون وہ زمانہ کی چال پر چلا۔ پھر کچھ مدت تک جمعہ کے دن گوشت کھانا
چھوڑا۔ بعد ازان اتوار کو اس سے پرہیز کیا۔ ہر شمسی ماہ کے غرہ کے دن یعنی روز تحویل کو

(۲۶) آئین صوفیانہ

روز مہر (اتوار) کو اور خسوف و کسوف کو اور دو صوفیانہ دنون کے بیچ کے دن اور رجب کے دوشنبہ
کو۔ ہر ماہ الٰہی کے جشن کے دن۔ کل ماہ فروردین کو اور اپنی ولادت کے مہینے آبان مین
بادشاہ گوشت نہین کھاتا۔ ماہ آبان کے لئے یہ مقرر ہوا تھا کہ بادشاہ کی عمر کے جتنے سال
ہون اتنے دنون آبان مین گوشت نہ کھائے۔ اسکی عمر ماہ آبان کے ایام سے زیادہ ہو گئی ہے
اسنے ماہ آذر کے کچھ دنون مین بھی گوشت نہین کھایا۔ بادشاہ ہر سال صوفیانہ دن اپنے بڑھاتا
جاتا ہے جو پانچ سے کم نہین ہوتے۔ جب ایام صوفیانہ مین داخل ہوتا ہی تو وہ کمی کا بدل اور مہینون
مین قسمت کر دیتا ہے۔

جب بزرگ صوفیانہ ایام ختم ہوتے ہین تو اول مریم مکانی کے گھر سے گوشت کا کھانا آتا ہے پھر اور من
اور شاہزادے اور نزدیک کے عزیز وہ بھیجتے ہین۔

(۲۷) آئین اجناس

• طوالت کے خوف سے نرخ اجناس کا آئین چھوڑ دیا۔

(۲۸) آئین میوہ خانہ

بادشاہ میوہ کو خدا کی بڑی نعمت جانتا ہے اور اوسپر بہت رغبت کرتا ہے۔ ایران توران کے کاردانی
نے یہان اپنا گھر بنا لیا ہے اور ان کے کشت و کار کو بڑی رونق ہے یہان خربوزہ و انگور عمدہ اور

بکثرت پیدا ہونے لگے ہین - اور ایسے ہی تربز و شفتالو و بادام و پستہ و انار وغیرہ پیدا ہوتے ہین - جب سے کابل و قندھار و کشمیر قلمرو مین آئے ہین تو میوون کے انبار آنے لگے ہین - سال بھر تک میوہ فروشون کی دکانین و مکان اُن سے بھرے رہتے ہین

(۲۹) آئین پیدایش طعم و مزہ

گرمی لطیف کو تیزی و کثیف کو تلخی دیتی ہے وہ معتدل کو شوری بناتی ہے - سردی اول کو ترشی اور دوم کو دھن گیر سومین کو زفت (جو زبان کو کاٹے) اعتدال اول کو چرب اور دوم کو شیرین سوم کو بے مزہ کرتا ہے اور انھین مزون کی آمیزش سے اور بہت سے مزے پیدا ہوتے ہین - بعض کہتے ہین کہ اصل مین مزے چار ہین - شیرینی - تلخی - ترشی - نمکینی - انکی آمیزش سے بیشمار مزے پیدا ہوتے ہین -

(۳۰) آئین خوشبو خانہ

پادشاہ خوشبو کو دوست رکھتا ہے اور اُس کو پرستش ایزدی کا دستا یہ سمجھتا ہے عنبر و عود سے اور ان عطریات سے جو اسنے ایجاد کئے ہین اور پہلے سے چلے آتے ہین ہمیشہ اسکی محفل عطر آگین ہتی ہے اور انگیٹھیان زرین و سیمین طرح طرح کی بناتے ہین اور اسمین دھونیان خوشبودار جلاتے ہین - اور خوشبودار پھولون کے ڈھیر کے ڈھیر لگے رہتے ہین اور گل کا روغن بناتے ہین اور بالون مین اسے ڈالتے ہین -

(۳۱) آئین کرکراق خانہ و توشک خانہ

پادشاہ کو قماش پر بڑی توجہ ہے اس لیئے ایرانی و فرنگی و ختائی کپڑون کی افراط ہوگئی ہے اور کارپرداز استادون نادر کار ہنرمندون نے آن کر یہان کے آدمیون کو کپڑا بننا سکھایا ہے - پیشگاہ حضور مین و شہر لاہور و آگرہ و فتح پور و احمد آباد و گجرات مین کپڑا خوب بنایا جاتا ہے اور اُن پر طرح طرح کی تصویرین اور نقش و نگار ہوتے ہین - پادشاہ تھوڑے دنون مین اس کام کے علم و عمل سے واقف ہوگیا ہے اور نادر کارون کی قدر شناسی کے سبب سے اُس ملک کے آدمیون نے بھی شعر بافی (بالون کا بننا) اور ابریشم طرازی مین پایہ والا حاصل کیا - پادشاہی کارخانون مین ہر ملک کا کپڑا تیار ہونے لگا اس سبب سے بہت آدمی زینت دوست ہوگئے اور جشنون کی آرایش بھی اندازہ سے باہر ہوگئی جو کپڑا خریدا جاتا ہے یا بنا جاتا ہے یا پیشکش مین آتا ہے اُس کی شائستگی سے پاسبانی ہوتی ہے اور جو پہلے آتا ہے وہ پہلی

ہی دیکھا و قطع و سیا و پہنا و بخشا جاتا ہے۔ پہلے کی نسبت کپڑے کی قیمت دو تہائی اور تین چوتھائی کم ہوگئی ہے :۔ پادشاہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ خاص امرا خاص کپڑے پہنین تاکہ ان کپڑون کی خواہش معلوم ہو جاوے۔ پادشاہ کے کپڑے ہر فصل مین ہر قسم کے ہزار جوڑے تیار ہوتے ہین۔ امرا کو جو خلعت انعام دیئے جاتے ہین اس کا کچھ حساب نہین ہوتا۔ پادشاہ اپنی وارستگی مزاج کے سبب سے پشمینہ پہننے کو پسند کرتا ہے خاص کر شال کو۔

پادشاہ نے پوششون کے نام بدل دیئے ہین: جامہ کا نام سرب گاتی یعنی تمام بدن کا ڈھانکنے والا رکھا ہے ازار کا نام یار پیراہن۔ نیم تنہ کا نام تن زیب۔ فوطہ کا نام پٹ گٹ۔ برقع کا نام چتر گپت۔ کلاہ کا نام سیس سوبھا۔ موئے باف کا نام کیس گھن۔ پٹکے کا نام کٹ زیب شال کا نام پرم نرم فرد جو پشمینہ کی ایک قسم ہے پرم گرم۔ سپور دھور کہ تبت مین بنایا جاتا ہے۔ کپور نور۔ پاے افزار کا نام چرن دھرن اور ایسے ہی بہت سے نام (اس سے یہ عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اکبر کو ہندی نام رکھنے کا بڑا شوق تھا)

(۳۲) آئین شال

کشمیر سے زیادہ تر شالین آتین اور مالدار انکی چار تہین بنا کے مدتون تک پہنتے اور اب چھوٹے بڑے اسکی ایک تہ پہنتے ہین۔ پادشاہ کا یہ ایجاد ہے کہ وہ ہمیشہ دو تہ پہنتا۔ پادشاہ کی توجہ سے کشمیر مین شال بافی کا ہنگامہ خوب گرم ہوگیا اور لاہور مین ایکہزار سے زیادہ کارخانہ جاری ہوگئے بہران مین ابریشمی تانا اور پشمین بانا لگا کے شال بنتے ہین اور اسکو مایان کہتے ہین اور ان کے چیرے اور فوطے تیار کرتے ہین۔

(۳۳) آئین سفیدی و سیاہی کا رنگون کی پیدائش

سفید و سیاہ رنگ کو اصل رنگ خیال کرتے ہین اور ان کو رنگون کی طرفین (افراط و تفریط) کہتے ہین اور باقی اور رنگ انھین سے پیدا ہوتے ہین جیسے بہت سا سفید رنگ اور سیاہ رنگ مل کر زرد رنگ پیدا کرتا ہے اور سفید و سیاہ رنگ برابر برابر مل کر سرخ رنگ پیدا کرتے ہین۔ سفید رنگ بہت سیاہ رنگ کے ساتھ مل کر سبز رنگ پیدا کرتا ہے اور رنگ انھین رنگون کے مخلوط کرنے سے پیدا ہوتے ہین اسے یاد رکھنا چاہیئے کہ سردی سے جسم تر سفید ہوتا ہے و

خشک سیاہ و گرمی سے جسم رطب سیاہ اور خشک سفید ہوتا ہے۔ اور یہ گرمی و سردی اجسام
کے رنگوں مین تغیر پیدا کرتی ہے اس لیے کہ اجسام قابل ہیولا یعنی اثر قبول کرنے والے کواکب
خاص کر آفتاب کی تاثیر سے جو حرارت رکھتا ہے رنگ بدلتے ہین در رنگوں کی فرنگستانی تحقیقات سے
ابوالفضل واقف نہ تھا اس لیئے اس نے رنگوں کا بیان اس طرح کیا ہے کہ رنگ حقیقت اسمین
پھیکا ہے مگر اُس کا بیان خوشرنگ ہے۔

صورت صاحب صورت کو بتلاتی ہے اور صاحب صورت معنی کو بتلاتا ہے چنانچہ پیکر خطی حرف و لفظ
تبلاتے ہین اور حرف و لفظ ایک مفہوم کو یعنی معنے کو تبلاتا ہے اگرچہ عرفی تصویر اجسام کی کھینچتی ہے مگر
کارپردازان فرنگ بہت سے خلقی معانی (جیسے شجاعت۔ سخاوت۔ وغیرہ) کی بھی تصویر بنا دیتے
ہین مگر خط کا درجہ تصویر سے کہین زیادہ ہے اس سے پہلے لوگون کے تجربے معلوم ہوتے ہین
اور عقل کی افزایش کا سرمایہ دہ ہوتا ہے۔

اس سبب سے اول کتاب خانہ کا بیان ہوتا ہے کہ وہ خط کی سب سے زیادہ عمدہ قسم ہے۔ بادشاہ اسپر
بہت توجہ کرتا ہے اور اسکے صورت و معنی مین غور کرتا ہے سچ یہ ہے کہ حسن دوستون کی نظر مین کتاب
خانہ نور معنی کی جلوہ گاہ ہے اور دوربینوں کی دید مین جام گیتی نما ہے۔ خط کا طلسم قلم ابداع نے ایک
روحانی ہندسہ بنایا ہے اور دست تقدیر نے اُسکو آسمانی کتابہ۔ وہ سخن کا راز دار ہے۔ ہاتھ کی زبان ہے
سخن تو فقط حاضرون کو نیروی دل دیتا ہے مگر خط دور و نزدیک دونون کو آگاہی دیتا ہے۔ اگر خط نہوتا تو سخن کی
زندگانی نہوتی اور گذشتہ بزرگون سے کوئی ارمغان دل کو نہ پہونچتا۔ صورت بین تو خط کو فقط دہوئین
کی کالک جانتے ہین مگر معنی پرستار اسکو چراغ شناسائی جانتے ہین وہ ایک ظلمت ہی جسمین ہزارون فروغ
ہین۔ نہین نہین وہ ایک نور ہے جسپر چشم بد نہ لگنے کے لئے یہ سیاہ خال بنایا گیا ہی وہ علم کا نقش و
نگار ہے۔ شہرستان معنے کا سواد ہے وہ سیاہ ابر ہے دانش بار۔ وہ شب تار ہے جو خورشید کو
پیدا کرتی ہے۔ گنجینۂ بینا ہی عجیب طلسم ہے کہ خموش گویا ہے۔ با وجود مقیم ہونے کے مسافر
اور افتادگی کے بلند پرواز۔ نفس ناطقہ پر عالم راز ایزدی سے ایک پرتو پڑتا ہے دل اسکو

شہرستان خیال مین لے جاتا ہے۔ خیال ایک برزخ تجرد و مادی کے درمیان ہے جس کے سبب سے تجرد و تعلق آمیختہ اور اطلاق تقید آلود پیدا ہوتا ہے پھر خیال سے بام زبان پر گام رکھ کر ہوا کی مدد سے کان مین آتا ہے اور پھر پایہ بپایہ ربار تعلق کو کندہ پر ڈال کر اپنی جگہہ پر چلا جاتا ہے اور کبھی اس مسافت آسمان سیر کو انگلیون کی مدد سے چلاتے ہین۔ اور وہ قلم و دوات کے تجرد بر کوٹے کر کے صفحون کی نزہت گاہ مین اوترتا ہے اور دیدہ کی شاہ راہ سے پھر اپنی جگہہ واپس جاتا ہے

پہلے زمانہ مین حروف پر اعراب نہین لگتے تھے اپنے نقطے جن کا رنگ مکتوب سے غیر ہوتا تھا لگاتے تھے۔ زبر کے لئے اوپر اور زیر کے لیئے نیچے اور پیش کے لئے ایک سُرخ نقطہ لگا دیتے تھے

خلیل بن احمد عروضی نے ہر حرکت کی ایک صورت معین کی جس کا اب رواج ہے۔

دیکھو دلون کے مذاق پر حسن خط اور اُس کا مناسب موقوف ہے اس لیئے ہر گروہ اپنا خط جدا ہی رکھتا ہے اور اتنے خط ہم دیکھتے ہین۔ ہندی۔ سریانی۔ یونانی۔ عبری۔ قبطی۔ معقلی۔ کوفی۔ کشمیری۔ حبشی۔ ریحانی۔ عربی۔ فارسی۔ رومی۔ حمیری۔ بربری۔ اندلسی۔ رُدحانی۔ اور سوائے ان کے جن مین پہلی کتابین لکھی ہوئی موجود ہین۔ بعض عبرانی خط کا موجد حضرت آدم ہفت ہزاری کو بتاتے ہین اور بعض حضرت ادریس کو۔ بعض کہتے ہین اسنے معقلی خط ایجاد کیا اور بعض کہتے ہین کہ اس معقلی خط سے امیر المومنین علی نے خط کوفی ایجاد کیا۔ خطوط مین اختلاف سطح و دور سے ہوتا ہے۔ چنانچہ خط کوفی مین ایک دانگ دور ہے اور باقی سطح۔ معقلی مین سب سطح ہے۔ پرانی عمارتون کے کتابے اسی خط مین ہین سب سے بہتر وہ خط ہے جس مین سیاہی و سفیدی عمدہ روش سے جدا ہو۔ پڑھنے مین کچھ اشتباہ نہو۔

ایران و توران و روم و ہند مین آٹھ طرح کے خطون کا رواج ہے اور ان مین سے ہر ایک خط مین ایک گروہ لکھتا ہے۔

ان مین سے ابن مقلہ نے ۳۱۰ ہجری مین خط معقلی و کوفی سے چھ طرح کے خط ایجاد کیئے ہین جنکے نام یہ ہین۔ ثلث۔ توقیع۔ محقق۔ نسخ۔ ریحان۔ رقاع۔ ایک گروہ خط غبار کو

بھی ان میں داخل کرکے ساتھ خط لکھتا ہی۔ بعض خط نسخ کو یاقوت مستعصمی کا ایجاد کہتے ہیں
رقاع و توقیع سے ساتواں خط تعلیق پیدا ہوا۔ آٹھواں خط نستعلیق ہی جسمیں دائرے بہت ہیں
اسکو امیر صاحب قران کے عہد میں خواجہ میر علی تبریزی نے نسخ و تعلیق سے ایجاد کیا مگر یہ
غلط ہی اس لئے کہ نستعلیق خط میں کتابیں صاحب قران کے زمانہ سے پہلی لکھی ہوئی موجود ہیں۔

بادشاہ کی قدردانی اور راز شناسی سے بہت طرح کے خطوں میں ترقی ہوئی۔
نادرہ کار ہنر پردازوں کی قدر زیادہ ہوگئی ہی۔ خصوصاً نستعلیق خط کا رواج بہت ہوگیا ہی
محمد حسین کشمیری مخاطب زرین قلم پادشاہ پاس بیمثل خوشنویس ہی۔ پادشاہ نے کتابخانہ
کے چند حصے کئے ہیں۔ کچھ اُن میں سے محل کے اندر رہتے ہیں کچھ ماہر پھر ہر حصہ کی کئی
قسمیں کی ہیں۔ علم علم کی و نامہ نامہ کی کتابیں موافق قیمت کے درجہ رکھتی ہیں اور نظم و نثر
ہندی فارسی یونانی کشمیری عربی کتابیں جدا جدا ترتیب سے کتاب خانہ میں رکھی جاتی ہیں
پادشاہ انکا مطالعہ اس طرح کرتا ہی کہ روز بروز آگاہ دل کارداں کتابوں کو پادشاہ کو
سناتے ہیں۔ پادشاہ کتاب کو اول سے آخر تک سنتا ہی ہر روز جہاں تک کتاب سنائی
جاتی ہی وہاں پادشاہ اپنے قلم سے نقش کردیتا ہی۔ اور اوراق کی تعداد کے موافق خوانندہ
کو روپیہ اشرفیاں انعام ملتی ہیں۔ مشہور کتابیں بہت ہی کم ہونگیں جو محفل شاہی میں
مذکور نہ ہوئی ہوں۔ باستانی داستانیں اور غرائب علوم اور نوادر حکمت ایسی نہ ہونگی
کہ پادشاہ کو یاد نہوں مکرر سننے سے اسکو ملال نہوتا تھا بہت رغبت سے سنتا تھا۔ یہ
کتابیں ہمیشہ پادشاہ کے روبرو پڑھی جاتی ہیں اخلاق ناصری کیمیائے سعادت
قابوس نامہ مکتوبات شرف منیری گلستان حدیقہ سنائی۔ مثنوی مولوی روم جام جم
بوستاں شاہنامہ خمسۂ نظامی کلیات خسرو مولانا جامی دیوان خاقانی و انوری
اور اور تاریخ نامے۔

ہندی سنسکرت و یونانی و عربی و فارسی کے کتابوں کے زبان دانوں کو ہمیشہ حکم ہوتا
تھا کہ وہ ایک زبان کو دوسری زبان میں ترجمہ کریں۔ چنانچہ زیج جدید مرزائی کا

کچھ حصہ امیر فتح اللہ شیرازی کی دیدہ وری اور ابوالفضل کی ترجمانی سے چند جوشی گنگا دھر
مہیس مہانند نے سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ کیا اور کتاب مہابھارت کہ ہندوستان کی
قدیم کتابوں میں سے ہے نقیب خاں و مولانا عبدالقادر بدایونی و شیخ سلطان تھانیسری کے
اہتمام سے سنسکرت سے فارسی زبان میں ترجمہ ہوا اس میں قریب ایک لاکھ کے شعر ہیں۔
بادشاہ نے اسکا نام رزم نامہ رکھا اور اسی گروہ نے کتاب رامائن کا ہندی سے فارسی میں
ترجمہ کیا وہ ہند کی تالیفات قدیم سے ہے اور اسمیں رامچندر کا احوال بہ تفصیل لکھا ہے اور بہت سی
نوادر حکمت اسمیں مندرج ہیں اور کتاب اتھربن وید کا ترجمہ فارسی زبان میں حاجی ابراہیم سرہندی
نے کیا۔ یہ کتاب ہندوؤں کے زعم میں چار کتاب الہی میں سے ایک ہے۔ علم حساب میں لیلاوتی
کتاب ہندوستان کی عمدہ نشانی ہے شیخ ابوالفیض فیضی نے اسپر سے ہندی نقاب اوٹھا کر
فارسی چادر اوڑھائی۔ کتاب تاجک کہ علم نجوم میں ایک معتبر کتاب ہے وہ بادشاہ کے ارشاد
سے مکمل خاں گجراتی نے فارسی میں ترجمہ کیا واقعات حضرت گیتی ستان تیمور کہ ایک دستور العمل
کار آگہی ہے مرزا خانخاناں نے ترکی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ تاریخ کشمیر کہ اسمیں چار ہزار سال کا
حال لکھا ہوا ہے۔ مولانا شاہ محمد شاہ آبادی نے کشمیری زبان سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ معجم البلدان
کہ بلاد و امصار کے بیان میں ایک عجیب کتاب ہے ملا احمد ٹھٹوی و قاسم بیگ و شیخ منور ا۔
اور چند اور آدمیوں نے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ ہربنس جو احوال کشن پر متضمن ہے مولانا
شیری نے فارسی میں اسکا ترجمہ کیا۔ کتاب کلیلہ دمنہ کہ حکمت عملی میں ایک کارنامہ ہے جس سے
تعجب ہوتا ہے نصر اللہ مستوفی مولانا حسین واعظ نے فارسی میں ترجمہ کیا تھا مگر اسمیں استعارات
غریب و لغات دشوار تھے۔ بادشاہ کے حکم سے ابوالفضل نے ایک فارسی کا خلعت تازہ پہنایا
عیار دانش اسکا نام مشہور ہوا۔ نل و دمن کے عشق کا قصہ کہ سنسکرت زبان میں ارباب وفا کا
جگر گداز تھا شیخ فیضی فیاضی نے لیلی مجنوں کی بحر میں نظم میں لکھی وہ نل دمن کے نام
سے شہرہ آفاق ہوا۔ جب بادشاہ کو نقل کے خزانہ پر آگاہی ہوئی تو اوس نے
حکم دیا کہ ہفت اقلیم کا احوال آخر ہزار سال کا نبض شناس تاریخ داں ایک جگہ

جمع کریں - اول نقیب خاں نے اور ایک اور جماعت نے اس کام کو شروع کیا - مولانا احمد
ٹھٹوی نے اسکا بہت سا حصہ لکھا اور جعفر بیگ آصف خاں نے اسے ختم کیا اور اسکا خطبہ ابو الفضل
نے لکھا - اور تاریخ الفی اوسکا نام رکھا - یہ اوپر کا بیان ابو الفضل سے نقل ہوا ہی - مگر اب ہم
ان کتابوں کے ترجمہ کے بیان کو تاریخ بدایونی سے نقل کرتے ہیں وہ زیادہ مفصل ہیں -

اتھربن وید - ۹۸۳ھ میں ایک بڑا پنڈت برہمن دکن سے آیا اور اپنی رغبت سے اسلام سے
مشرف ہوا اور بادشاہ کے خاص خیل کے زمرہ میں داخل ہوا شیخ بہاون اسکا نام ہوا - بادشاہ
کا حکم ہوا کہ اتھربن وید کو کہ اہل ہند کی چار مشہور کتابوں میں سے چوتھی کتاب ہی اور بعض احکام
اسکے ملت اسلام کے موافق ہیں اسکے معانی وہ بیان کرے اور عبد القادر
اوسکو سنسکرت سے فارسی زبان میں ترجمہ کرے - اسکی عبارت میں بہت اغلاق تھا اور معانی
بیان کرنیوالا اسکو اچھی طرح بیان نہیں کرسکتا تھا اور اوسکے مقاصد مفہوم نہیں ہوتے تھے -
یہ حال عبد القادر نے بادشاہ سے عرض کیا اس نے اول شیخ فیضی کو اور بعد ازاں حاجی ابراہیم
سرہندی کو ترجمہ کا حکم دیا وہ اوسکو خاطر خواہ نہ لکھ سکا اور وہ باقی رہا اس بید کے حکموں میں
سے یہ ایک حکم ہی کہ جب تک ایک ناس فقرہ ہندو نہ پڑھے تو اسکی نجات نہیں ہوگی -
اس فقرہ میں لام اتنی دفعہ آتا ہی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوجاتا ہی - دوسرا حکم یہ ہی کہ ہندوؤں
کو گائے کا گوشت کھانا چند شرطوں کے ساتھ مباح ہی - تیسرے یہ کہ ہندوؤں کو مُردوں کو
جلانا نہیں چاہیئے - دفن کرنا چاہیے - ان باتوں کے مباحثے میں شیخ مذکور ہند کے برہمنوں
پر غالب رہا اور سب کو الزام دیا اور اسی تقریب سے وہ مسلمان ہوا -

اتھربن بید

مہا بھارت کتب ہند میں ایک معظم کتاب ہی اور طرح طرح کے نقلے و مواعظ و نصائح و اخلاق
و آداب و معارف و اعتقادات لکھے ہیں اور ہندوؤں کے مذاہب و طریق عبادات کا بیان
اسمیں ہی اور انہیں کے ضمن میں فرمانروایان ہند کوروں اور پانڈوں کی لڑائی کا بیان
لکھا ہی جسکو بعض کہتے ہیں کہ چار ہزار برس اور کسرے زائد گذرے ہیں - ایک جماعت کا
قول ہی کہ اس سے زیادہ اور کئی ہزار برس گذرے ہیں اور زمانہ آدم علیہ السلام سے پیشتر

مہا بھارت

ہی - اور ہندو اسکے لکھنے اور پڑھنے کو عبادتِ عظیم جانتے ہیں اور مسلمانوں سے چھپاتے ہیں
اس ترجمہ کا سبب یہ تھا کہ شاہنامہ و قصہ امیر حمزہ سترہ جلدوں میں پندرہ برس کے عرصہ میں بادشاہ
نے لکھایا تھا اور بہت روپیہ اوسکی تصویروں کے کھچوانے میں صرف کیا تھا - ایسے ہی قصہ ابو مسلم
و جامع الحکایات وغیرہ کو مکرر سُنا تھا انکی نسبت بادشاہ کی رائے یہ تھی - ان اکثر شاعرانہ
بناوٹ کی باتیں ہیں مگر وہ ایسی نیک مہورت میں اور سعید طالع میں تصنیف ہوئی ہیں کہ انکی
پوری شہرت ہوگئی ہی - اب سنسکرت کی کتابوں کو جو مرتاض عاقل عابدوں نے تصنیف کی
ہیں اور سب صحیح اور نص قاطع ہیں اور ہندوں کے دین و اعتقادات کا مدار انپر ہی -
اسکا ترجمہ سنسکرت سے فارسی زبان میں اپنے نام سے کرانا چاہیے کہ وہ تازہ غیر مکرر ہوگئے
اور سعادات دینی و دنیوی کی مثمر اور حشمت و شوکت بیرونی کی منتج اور کثرت اولاد اور اموال
کی مستوجب ہونگے جیسا کہ ان کتابوں کے خطبوں میں لکھا ہی اس لئے ۹۹۰ھ میں بادشاہ
نے حکم دیا کہ پنڈتوں کی ایک جماعت اکٹھی ہو کر مہابھارت کے معانی بیان کرے چند راتوں تک
بادشاہ نے خود اسکے معانی نقیب خاں کے خاطر نشان کئے تاکہ ماحصل کو فارسی زبان میں تحریر
کرے اور تیسری شب کو فقیر عبد القادر کو بلا کر حکم فرمایا کہ نقیب خاں کے ساتھ شریک ہو کر ترجمہ کرے
اور تین چار مہینے میں اس مزخرف واباطیل کے اٹھارہ فن (پرب) میں سے دو فن کا ترجمہ
لکھا اور کیا کیا اعتراضات سُنے جنکے معانی یہ تھے کہ میں حرام خوار اور شلغم خور ہوں - ان کتابوں
میں فقیر کا نصیب یہی تھا - النصیب یصیب بعد ازاں اسکا ایک حصہ ملا شیری اور نقیب خاں نے
تمام کیا اور حاجی سلطان تھانیسری نے اسکا ایک حصہ تنہا ترجمہ کیا بعد ازاں اس خدمت پر
شیخ فیضی مامور ہوا اس نے بھی دو فن سے زیادہ ترجمہ نہیں کیا پھر حاجی مذکور نے دوبارہ اسکو
کیا - باتیں جو اول بار میں فروگذاشت ہوئیں تھیں اونکے نقص کو دور کیا اور اسکو یہاں تک
اصل کے مطابق کیا کہ نقطہ مگس کو بھی متروک نہ کیا سو جزوں کا حصہ باریک خط میں لکھا -
جسکا نتیجہ اسکو یہ ملا کہ کسی تقریب سے اسکو بادشاہ نے خارج کرکے بکھر میں بھیجدیا اب وہ اپنے شہر
میں ہی - ان معبروں (معانی بیان کرنے والے) اور مترجموں میں سے اکثر کورووں اور

پانڈوں کے ساتھ محشور ہیں (مرگئے ہیں) اور کافروں کے ساتھ انکا حشر ہوا ہی) باقی ماندہ کو خدا تعالے نجات دے اور توبہ کی توفیق کرامت کرے اور عذر من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان مسموع ہوا - وانہ ھو التواب الرحیم اسکا نام رزم نامہ رکھا گیا تصویریں بنائی گئیں اور نقلیں مکرر ہوئیں اور امرا کو حکم ہوا کہ ایک نسخہ اسکا یمناً و تبرکاً رکھیں اور ابوالفضل نے تفسیر آیۃ الکرسی تالیف کی تھی اسکے برعکس اس کتاب کا خطبہ دو جز کا لکھدیا نعوذ باللہ من الکفریات والحشویات

سنہ ۹۹۷ میں بادشاہ نے حکم دیا کہ راماین کا ترجمہ عبدالقادر کرے اس نے چار سال میں اسکا ترجمہ تمام کیا اور اسکا مثنیٰ بادشاہ کی نذر کیا اوسکے اخیر میں لکھا تھا - ع

رامائن

ما قصہ نوشتیم بہ سلطاں کہ رساند	جاں سوختہ کردیم بہ جاناں کہ رساند

اس شعر کو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور پوچھا کہ ترجمہ کے کتنے جز ہوئے - عبدالقادر نے کہا کہ اول دفعہ مجملاً ستر جز تھے اور دوسری دفعہ مفصلاً ایک سو بیس جزو - حکم فرمایا کہ دیباچہ بھی مصنفین کی رسم کے موافق لکھو - عبدالقادر نے اس سے اعراض کیا - وہ لکھتا ہی کہ نقل کفر کفر نہیں ہوتی - میں نے بادشاہ کے حکم سے ترجمہ کیا گو اس سے مجھے کراہت تھی اور جسکے سبب سے مجھے یقین ہی کہ لعنت ملامت ہوگی میں اُس سے توبہ کرتا ہوں خدا تعالیٰ قبول کرے -

تاریخ کشمیر

سنہ ۹۹۹ میں بادشاہ نے عبدالقادر کو حکم دیا کہ ملا محمد شاہ آبادی نے جو ایک فاضل جامع معقول و منقول ہی حسب الحکم تاریخ کشمیر فارسی میں ترجمہ کی ہی اوسکو سلیس عبارت منقح میں لکھو دو مہینے کے عرصہ میں اسکا انتخاب کیا اور یہ بیت آئینہ میں لکھی - ع

در عرض یک دو ماہ بتقریب حکم شاہ	ایں نامہ شد چو خط پری پیکران سیاہ

بادشاہ نے یہ نذر بیسکر کتب خانہ میں داخل کی اور وہ مثل پڑھی جاتی ہی -

جامع رشیدی

سنہ ۱۰۰۰ میں بادشاہ نے عبدالقادر کو حکم دیا کہ شیخ ابوالفضل علما کی استصواب سے جامع رشیدی کہ ایک مجلد عظیم ہی عربی سے فارسی میں ترجمہ کرے انیں سے شجرۂ خلفاء عباسیہ و مصریہ و بنی امیہ کہ آنحضرت تک ختم ہوتا ہے اور وہاں سے آدم تک پہنچتا ہے اسکا اور تمام انبیا و اولوالعزم کا حال منفصل ترجمہ کیا -

تاریخ الفی

جب سنہ ہجری ہزار گذر گئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک تاریخ تالیف کی جائے۔ جس میں آجتک پادشاہان اسلام کا حال ایسا لکھا جاوے کہ حقیقت میں وہ اور تاریخوں کی ناسخ ہو اور نام اسکا الفی رکھا جائے اور سنوات میں بجائی لفظ ہجرت کے لفظ رحلت لکھا جائے اور آنحضرتؐ کی وفات سے آجتک وقائع عالم سات آدمی لکھیں سال اول کا حال نقیب خاں۔ دوم سال کا حال شاہ فتح اللہ علیٰ ہذا القیاس حکیم ہمام و حکیم علی و حاجی ابراہیم سرہندی کہ گجرات سے آیا تھا اور مرزا نظام الدین احمد و عبد القادر لکھیں۔ دوسرے ہفتے میں ۳۵ سال کا حال مرتب ہوا۔ بعد ازاں ملا احمد ٹھٹوی کو حکم ہوا کہ چھتیسویں سال سے تاریخ الفی لکھے۔ اُسنے تعصب سے موافق اپنے اعتقاد کے جو کچھ جی میں آیا لکھا۔ دو جلدوں میں چنگیز خاں کے زمانہ تک واقعات کو لکھا کہ اسکو مرزا فولاد برلاس نے مارڈالا۔ باقی احوال سب لام آصف خاں نے ۹۹۷ھ تک لکھا۔ ۱۰۰۰ھ میں عبد القادر کو لاہور میں حکم ہوا کہ اس تاریخ کو از سر نو مقابلہ کرکے تصحیح کرے اور سنوات کی جو تقدیم و تاخیر ہوئی ہی انکو ترتیب دے ایک سال تک اسکو ان خدمات سے شغل رہا دو جلدوں کا تو مقابلہ کیا اور دو جلدوں کو اُسنے آصف خاں کے حوالہ کیا۔ غرض اس تاریخ کے اول دو دفتر ملا احمد ٹھٹوی نے لکھے ہیں اور تیسرا دفتر آصف خاں نے اور اسکی تصحیح و مقابلہ ملا مصطفیٰ کاتب لاہوری کے اتفاق سے ملا عبد القادر نے کیا ہی۔

نل دمن

۱۰۰۳ھ کے اوائل صفر میں پادشاہ نے ملک شعرا فیضی کو حکم دیا کہ پنج گنج لکھے پانچ مہینے کے عرصہ میں اُسنے نل ودمن کہ عاشق و معشوق ہیں اور انکا قصہ ہند میں مشہور ہی۔ چار ہزار دو سو شعروں میں لکھا اور چند اشرفیوں کے ساتھ پادشاہ کی نذر کیا۔ وہ بہت بادشاہ کو مستحسن معلوم ہوا اور اوسکی کتابت کا اور اسمیں تصویروں کے لگنے کا حکم ہوا نقیب خاں کو حکم ہوا کہ اوسکو وہ پڑھکر سنائے۔ سچ یہ ہی کہ ایسی مثنوی تین سو برس سے بعد شیرین خسرو کے کسی نے ہند میں نہیں تصنیف کی ہی۔

سنگھاسن بتیسی

بکرماجیت کے زمانہ میں سنسکرت زبان میں تصنیف ہوئی تھی۔ اس میں بتیس کہانیاں ہیں بتیس کٹ پتلیاں راجہ کے سنگھاسن کو سر پر لیے ہوئے کھڑے ہیں اور ہر ایک پتلی ایک حکایت راجہ

بکوماجیت مہاراجہ مالوہ کے حال میں کہہ رہی ہیں۔ عبدالقادر کو حکم دیا کہ آج ہی سے وہ فارسی زبان میں اسکا ترجمہ شروع کرے اور ایک پنڈت مقرر کردیا کہ وہ اسکے روبرو اسکا مطلب بیان کرے۔ پادشاہ نے ملا کا ترجمہ پسند کیا اور خرد افزا اُسکا نام رکھا جو اُسکے ترجمہ کی تاریخ ہی۔

مگر ملر صاحب جو دنیا کی زبانوں کے علم میں بے مثل عالم متبحر مشہور ہیں وہ اپنی کتاب ری لی جین سائنس (اس کتاب میں یہ ذکر ہی کہ مذہب بھی سائنس ہی) لکھتے ہیں کہ اگر تاریخ عالم کو مطالعہ کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہی کہ جیسا سنہ ۱۵۴۲ و سنہ ۱۶۰۵ کے درمیان آپس میں مذہبوں کے باہم مقابلہ کرنے کا اور مذہبی تحقیقات کا شوق شہنشاہ اکبر کو ہوا ہی ایسا کسی اور شہنشاہ کو دنیا میں پہلے نہیں ہوا اس نے بہت دولت خرچ کی۔ اسنے مجتہدین مذہب کو دور دور سے بلایا۔ کردستان سے آرد شیر زردشتی کو بلایا۔ مذہبی کتابوں کے ترجموں میں لاکھوں روپے خرچ کیے بہت کتابوں کو جمع کیا۔

شبیہ کشی کو عرف میں تصویر کہتے ہیں چونکہ وہ بدو بازی دونو کا دستمایہ ہی اس لئے پادشاہ کو شوق اسکا ابتدائے عمر سے ہی اور اسکو رواج و رونق دینے کا طلبگار ہی اس سبب سے نادر جادوکاری نے رونق پائی اور ایک گروہ نامور مصوروں کا پیدا ہوگیا ہر ہفتہ میں داروغہ اور بتکچی (محرر) ہر مصور کے کاموں کو پادشاہ کی نظر کے سامنے لاتے ہیں اور انکی خوبی کے اندازہ کے موافق بخشش ملتی ہی اور اضافہ تنخواہ اونکا ہوتا ہی۔ تصویر کشی کے مصالح پر بہت غور ہوتی ہی اور تصویروں کی قیمت مقرر ہوگئی ہی رنگ آمیزی کا اور ہی جوبن ہوگیا ہی اور صفائی کی اور ہی تازہ آبرو ہوگئی ہی۔ ایسے شیرین کار ہنرمند چہرہ افروز ہوئے ہیں کہ شہرۂ آفاق۔ بہزاد کی نادرہ کاری کی اور اہل فرنگ کی سحر پردازی کی برابری کرتے ہیں۔ کام کی تازگی و نقوش کی صفائی و ثبات دست اور اور گزیدہ صفات میں مصوری بے مثل ہوگئی ہی اور جمادی اجسام کی بیجان تصویریں جاندار معلوم ہوتی ہیں سو مصوروں سے زیادہ پیشوائی کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اور انکی بلند نامی کا آوازہ بلند ہوگیا ہی اور ایسے مصوروں کا طائفہ کہ اپنی منزل کے قریب

پہنچگئے ہیں اور ایسے طبقے کہ آدھی راہ پر چلے ہیں بہت ہیں۔ ہند میں جواب مصوری ہی اسکی تصویر
بھی کبھی خیال میں نہیں گذرتی تھی کوئی ملک جہان میں مصوری میں اسکی برابر نہیں ہی۔ اس شاہراہ
کے پیش رودن میں سے میر سید علی تبریزی اور عبدالصمد شیرین قلم شیرازی اور دسونتھ کہار
کا لڑکا ہی۔ یہ لڑکا اس کارخانہ میں نوکر تھا اور مصوری کی ہوس میں دیواروں پر صورتیں بناتا
اور نقش کاڑھتا ایک دن پادشاہ کی نظر اوسپر جا پڑی وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑکا ہونہار ہی۔ ایک
دن یہ اوستاد ہو جائیگا اسکو خواجہ عبدالصمد کے حوالہ کیا۔ تھوڑے دنوں میں یگانہ
روزگار ہوا اور دیوانہ ہو کر خودکشی کرکے مرگیا۔ تعجب ہی کہ صورت بینی اور تمثال آرائی جس کو
لوگ خواب غفلت سمجھتے ہیں وہ اندیشہ کی درستی سے علم کی جاندارو اور جہالت کے درد بے درمان
کی دوا ہی۔ تقلید پیشہ جو تصویر کے دشمن ہیں اب اونکی آنکھیں کھلی ہیں کہ حقیقت کو دیکھتی ہیں
ایک روز انجمن رازگوئی میں بادشاہ نے حاضرین مجلس سے فرمایا کہ جو مصوری کے پیشہ
کی برائی کرتے ہیں اونکو میرا دل نہیں پسند کرتا اور میرے نزدیک خداشناسی میں بہت
آدمیوں سے مصور بہتر ہوتا ہی اسواسطے جسوقت وہ جانور کی تصویر کھینچتا ہی اور اوسکے
عضو عضو کی صورت بناتا ہی اور اوسکے اندر روح نہیں پھونک سکتا ہی تو وہ جان
آفرین کی نیرنگی کی طرف متوجہ ہو کر اسکو پہچانتا ہی جب اس پیشہ کا مرتبہ بلند ہوا بڑے
بڑے نادر کام تیار ہوئے۔ فارسی نظم و نثر کی کتابوں کو اسنے آراستہ کیا۔ دلکشا
مجلسوں کی تصویریں اسنے بنائیں قصہ حمزہ کے بارہ دفتروں کو رنگ آمیز کیا۔ اوستادوں
نے انہیں چودہ سو جگہہ تصویریں بنائیں۔ چنگیز نامہ۔ ظفرنامہ۔ آئین اکبری۔ رزم نامہ۔
راماین۔ نلدمن۔ کلیلہ دمنہ۔ عیار دانش وغیرہ میں پیکرنگاری ہوئی۔ پادشاہ نے
کتابوں میں جہان تصویریں بنی چاہئیں تھیں خود نشان کردیئے۔ پادشاہ کے اشارہ
سے تمام ملازمان دولت کی تصویریں بنائی گئیں اور ان سے ایک بڑی کتاب آراستہ
ہوئی جس سے مُردوں میں ایک تازہ جان پڑگئی اور حاضروں کو زندگی جاوید
مل گئی جیسی کہ تصویروں کو بلند پایگی حاصل ہوئی۔ ایسے ہی نقاشوں مذہبوں

(۳۵) آئین قورخانہ

جدول آرایوں وصحافوں کا بازار بھی گرم ہوا -

قورخانہ سے خانہ آبادی جہان کی معمور ہوتی ہی اور سپہ آرائی کا سرانجام ہوتا ہی۔ اِس سببسے پادشاہ اسپر بہت دل لگاتا ہی اور اسکی آرایش میں بہت غور کرتا ہی اور انئی تازی تازی طرحیں نکالتا ہی۔ اس سے کام کے جوہر نے افزایش پائی ہی۔ پادشاہ کے پاس ایک جوشن (زرہ) آئی۔ اسپر بندوق لگائی تو گولی کا نشان بھی اسپر نہ ہوا۔ قورخانہ (اسلحہ خانہ) ایسا تیار رہتا ہی کہ وہ لشکر کو کافی ہوتا ہی۔ بازاروں میں ہتھیار جس قیمت پر بکتے ہیں پادشاہ انکو بھی دیکھتا ہی۔ اپنے خاص ہتھیاروں کا نام رکھتا ہی اور اوسکے درجے مقرر کرتا ہی۔ ۳۰ شمشیر خاصہ ہیں ان میں سے ہر روز ہر شمشیر باری باری سے شبستان میں جاتی ہی۔ جب دوسری شمشیر جاتی ہی تو پہلی شمشیر واپس آتی ہی اور اسکو باہر نوکر باری باری سے لیتے ہیں روز چالیس شمشیر تیار رکھتے ہیں اسکو کوتل کہتے ہیں۔ جب بادشاہ کی خاصہ شمشیریں خرچ ہو جاتی ہیں اور بارہ جاتی ہیں تو اون کوتل شمشیروں سے انکی تعداد پوری کیجاتی ہی۔ جمدھر۔ کھپوہ۔ چالیس چالیس رہتے ہیں اور ہر ایک کی باری ایک ہفتہ کے بعد آتی ہی اور انمیں سے ہر ایک کے بیس بیس کوتل رہتے ہیں اور انکی بھرتی بھی شمشیروں کی طرح ہوتی ہی۔ کارد وبیس بیس نیزے وبرچھے رہتے ہیں ہر ایک کی باری ایک ہفتہ میں آتی ہے۔ شہد اور جدا ان کی ۸۶ کمانیں اور سوائے اسکے ۲۴ کمانیں رہتی ہیں۔ سواری اور بارعام کے وقت امیرزادی اور منصبدار واحدی قور کو ہاتھوں اور کندھوں پر اٹھاتے ہیں۔ ان میں سے چار چار آدمیوں میں سے ہر ایک چار ترکش چار کمان چار شمشیر چار سپر لیتے ہیں۔ اور اسکے سوا نیزہ وبرچھہ زاغ نول۔ پیازی۔ گپتی۔ کمان گروہ (غلیل) کتک۔ منال شائستہ آئین سے اٹھاتے ہیں اور چند قطار (پانچ اونٹوں کی ایک قطار ہوتی ہی) اشتر واستر پر بھی طرح طرح کے سلاح آمادہ رہتے ہیں اور چند چھکڑے وبہنتی اور سوار لنکے اور جانور سفروں میں باربرداری کرتے ہیں۔ بارگاہ میں امراء اور اور آدمی قور کی برابر منتظر خدمت کھڑے رہتے ہیں اور سواری میں وہ پیچھے چلتے ہیں مگر چند خاص امیر پادشاہ کے قریب رہتے ہیں۔ سجے ہوئے ہاتھی واونٹ وبھلیاں ونقاری وعلم وکوکبے اور سامان شکوہ

قور کے ساتھ ہوتا ہی - اور بیساول انکا اہتمام کرتے ہیں - اور میر بختی انکی مدد کرتے ہیں شکار گاہ میں چند تیز تک پیادے اور چند اور آدمی قور کو اُٹھاتے ہیں -

توپ جہانبانی کی اقبال سرائے کا عجیب قفل ہی اور کشور کشائی کے دروازہ کی دلکشا کنجی -

(۳۶) آئین توپ

جتنی توپیں یہاں ہیں اس سے زیادہ کہیں سوائے روم کے نہیں ہیں - بعض توپیں ایسی ہیں کہ انمیں بارہ من کا گولہ چھوٹتا ہی اور کئی ہاتھی اور ہزاروں بیل اسکو لیکر چلتے ہیں - بادشاہ ان توپوں کی رونق کو معنوی مقاصد میں سے گنتا ہی اور بہت انپر توجہ کرتا ہی جیسے داروغہ اور زرف نگاہ نویسندی مقرر کرتا ہی اور سارے کارخانے کو نہایت عمدہ انتظام سے رکھتا ہی - بادشاہ نے ان توپوں میں بہت باتیں انتزاع کی ہیں - ایک توپ ایسی بنائی ہی کہ اسکے پرزے جدا جدا کرکے یورش میں آسانی سے لیجا سکتے ہیں اور پھر چھوڑنے کے وقت انکو ملا سکتے ہیں سترہ توپوں کو اسطرح پیوند دیا ہی کہ ایک فتیلہ سے چھوٹ جاتی ہیں اور ایک توپ ایسی بنائی ہی کہ اسکو ایک ہاتھی لیجا سکتا ہی اسکا نام گجنال ہی - اسی کو تھنال کہتے ہیں اور ایک توپ ایسی ساخت کی ہی کہ ایک آدمی اُسکو لیجا سکتا ہی - اسکام کے اہتمام کے لیے ہزار احدی ماہوار پاتے ہیں اور پیادہ کی تنخواہ ۴۰۰ دام سے زیادہ اور ۱۰۰ دام سے کم نہیں ہی -

(۳۷) آئین بندوق

بادشاہ کو بندوق کی طرف بہت میل ہی وہ اسکے بنانے میں اور چھوڑنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا ایسی بندوقیں بناتا ہی کہ اگر انکو لبالب باروت سے بھر کر چھوڑو تو بھی وہ پھٹتی نہیں پہلے انمیں ایک چوتھائی سے زیادہ بارود نہیں بھرتی جاتی تھی - اسکے بنانے کا یہ دستور تھا کہ پتک (ہتوڑے) وسندان سے لوہے کو چوڑا کرتے اور پھر اسکے بوڑے سروں کے کناروں کو جوڑ دیتے تھے اور بعض دور بینی یہ کرتے تھے کہ ایک طرف کو نکلا رکھتے تھے انکے پھٹنے سے گزند پاتے تھے خاصکر پہلی طرح کی بندوقوں سے - اب بادشاہ نے انکے بنانیکی یہ روش نکالی ہی کہ لوہے کو چوڑا کرکے اسکو مار کی طرح اریب کے ساتھ اس طرح لپیٹتے ہیں کہ ہر پیچ میں اسکا طول زیادہ ہوتا جاتا ہی اسکے کناروں کو نہیں ملاتے بلکہ انکو نکلا رکھتے ہیں اور پھر انکو آگ میں پختہ کرتے ہیں - کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ لوہے کا میلن

یعنی اسطوانہ بناتے ہیں اور اُس میں سوراخ کرتے ہیں اور ایسے تین چار اسطوانوں کو دراز بندوق کے لیے اور دو اسطوانوں کو چھوٹی بندوق کے لیے جوڑ دیتے ہیں ایسی بندوق بھی بنائی ہے کہ بغیر فتیلہ آتش (توڑہ) کے وہ فقط ماشہ کی تھوڑی حرارت سے چھوٹ جاتی ہے اور بہت سی گولیاں ایسی بنائی ہیں کہ وہ لگ کر تلوار کا کام دیتی ہیں۔ ان سب بندوقوں میں سرافراز سنگ رام بندوق ہے جس نے فروردین ماہ الٰہی میں ایک ہزار نو سو جانور شکار کئے ہیں پادشاہ کی قدر دانی سے بڑے بڑے بندوق ساز استاد پیدا ہو گئے ہیں خصوصاً انہیں استاد کبیر حسین بڑے ہنرمند ہیں۔

بندوقوں پر جائے آہن۔ کاریگر۔ جائے ساخت سال و ماہ کے ہندسے لکھے جاتے ہیں پہلے سخت بازو آدمی بہت سے آلات سے محنت کر کے بندوقوں کو صاف کرتا تھا مگر پادشاہ نے ایک چرخ ایجاد کیا ہے۔ ایک بیل اسکو گردش دیتا ہے۔ سولہ بندوقیں تھوڑی دیر میں اندر سے صاف ہو جاتی ہیں۔ بندوقیں کیا خاص کارخانہ شاہی کی بنی ہوئی ہیں یا پیشکش میں آتی ہیں یا خریدی جاتی ہیں۔ انکی یہ قسمیں ہیں۔ دراز۔ کوتاہ۔ سادہ۔ رنگین کوفت کار۔ پادشاہ نے ہزاروں بندوقوں میں سے ۱۰۵ بندوقیں خاصہ پسند کی ہیں۔

پادشاہ نے میردھ کی تنخواہ میں یہ چار طرح کی مقرر کی ہیں۔ ۳۰۰ دام ۲۸۰ دام ۲۷۰ دام ۲۶۰ دام اور باقی اوروں کی تین قسمیں کی ہیں۔ اور ہر قسم کی تنخواہ تین طرح کی مقرر کی ہے۔ اول کے ۲۵۰ دام دوم ۲۴۰ دام سوم کے ۲۳۰۔ اور قسم دوم کے اول کے ۲۲۰ واوسط کے ۲۱۰ ادنیٰ کے ۲۰۰ دام قسم سوم کے اوّل کے ۱۹۰ دام دوم کے ۱۸۰ دام سوم کے ۱۷۰ دام۔ چہارم کی اول قسم کی ۱۶۰ و میانہ کی ۱۵۰ و فروتر کی ۱۴۰ پنجم کی اوّل قسم ۱۳۰ اوسط ۱۲۰ دام ادنی ۱۱۰۔

یہ جانور بھی عجیب ہی تنومندی و استواری میں کوہ کی مانند۔ دلیری و جان شکری میں شیر کردار شکوہ افزائی و کشورکشائی میں سترگ نبرد اور آبادی سپاہ و ملک میں دستاویز ہندوستانی تجربہ کار کہتے ہیں کہ عمدہ ہاتھی پانچ سواروں کی برابر ہوتا ہے۔ اور جب جید

(۳۹) آئین ... بندوق ... (۴۰) آئین بندوق ... (۴۱) ... (۴۲) آئین فیل خانہ

دلیر تیرانداز اسکے ہمعنان ہوں تو ایک ہاتھی ہزاروں آدمیوں کا کام دیتا ہی۔ تند خوئی
و سبک عنانی میں وہ عربی گھوڑے کی برابر ہی اور فرمان برداری و رموز دانی میں زیرک آدمی
کی برابر مستی کی شورش میں اور کینہ وری کی آشوب میں وہ آدمی سے بڑھکر ہی لیکن مادہ کو گزند
نہیں پہنچاتا باوجودیکہ وہی اسکو گرفتار کراتی ہی اور اپنے سے چھوٹے ہاتھیوں سے نہیں لڑتا
اور نہ انکو لائق مالش جانتا ہی حق شناس ایسا ہی کہ اپنے مہاوت کو آزار نہیں دیتا ہمیشہ
خاکبازی کرتا ہی لیکن سواری کے وقت اس سے باز رہتا ہی۔

ایک ہاتھی شورش مستی و خشمگینی میں اپنے ہمسر سے لڑ رہا تھا کہ ایک چھوٹا لڑکا اسکے پاؤں
کے نیچے آگیا۔ مہربانی سے اسکو سونڈ میں اوٹھا کر ایک طرف رکھدیا اور پھر جنگ شروع کی۔
جب مستی میں وہ قید سے رہائی پاتا ہی اور خود سر ہوتا ہی تو کسی کا مقدور نہیں ہوتا کہ اسکے
پاس بھی جا کر پھٹکے۔ پردل کارواں ہتنی پہ سوار ہو کر اسکے پاس جاتا ہی اور پابند کرتا ہی
بہت سی ہتنیاں اپنے بچوں کی سوگواری میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں اور اسی غم میں مرجاتی
ہیں۔ ہاتھی بہت طرح کے کام سیکھتے ہیں۔ ان اصول کو کہ سوائے موسیقی شناس کے کوئی اور
نہیں سمجھتا وہ انکو سیکھ لیتا ہی اور انکے موافق اپنے اعضا کو جنبش دیتا ہی اور روش میں آتا ہی
وہ کمان کھینچتا ہی۔ نیزہ پھینکتا ہی اور افتادہ کو اوٹھا کر فیلبان کو دیتا ہی۔ رسم ہی کہ دانہ کو گھاس
میں لپیٹ کر ہاتھی کو خورش میں دیتے ہیں اور وہ پاسبان کے اشارہ سے اپنے منہ کے گوشہ
میں اسکو رکھ لیتا ہی اور تنہائی میں اسکو دیدیتا ہی سونڈ میں پانی لیکر اپنے اوپر چھڑکتا ہی اور اسمیں
کوئی بو ناخوش نہیں پیدا ہوتی اونکی قیمت ایک لاکھ روپیہ سے لیکر سو روپیہ تک ہوتی ہی۔
پنج ہزاری بہت سے ہوتے ہیں اور دہ ہزاری بھی پائے جاتے ہیں۔ انکی چار قسمیں بھدر۔ مند۔ مرگ
میر۔ ہوتے ہیں۔ انکے دانت اٹھارہ ہوتے ہیں ان میں سولہ آدھے اوپر آدھے نیچے اور دو باہر
ہوتے اکثر ایک گز کے اور اس سے بھی بڑے۔

ہاتھی کی عمر طبعی آدمی کی برابر ۱۲۰ سال کی ہی اسکے نام بہت سے ہیں ہستی۔ گج۔ پیل
ہاتھی وغیرہ وہ کارشناسوں کی تعلیم سے بہت سے جوہر اپنے میں پیدا کر لیتا ہی۔ اور تعلیم

پالنے کے بعد سو روپیہ کا ہاتھی ایک لاکھ روپیہ کا ہو جاتا ہی۔

ہند کے دانش گر اکہتے ہیں کہ دنیا کی جو آٹھ دشا (جہت) ہیں انمیں ایک قدسی نفوس ہاتھی کی پیکر میں اوتار لیتا ہی۔ اسکی عجیب کہانیاں بناتے ہیں اور انکے نام یہ بتاتے ہیں۔ (۱) مشرق میں ایراوت (۲) مشرق جنوب میں پنڈریک (۳) جنوب میں بامن (۴) مغرب جنوب میں کمد۔ (۵) مغرب میں انجن (۶) شمال میں پھپدنت (۷) شمال میں ساربہ بھوم (۸) شمال مشرق میں سپرتیک اپنے برآبد کار کے لیئے ہرایک کی پوجا کرتے ہیں اور اسکے لیئے منتر پڑہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہاتھی ہی وہ انمیں سے کسی ایک کی اولاد میں سے ہی۔ وہ سفید پوست فیل کو اوّل درجہ کا شمار کرتے ہیں اور اگر وہ بزرگ سر اور دراز مو و خشمناک و مردانہ ہو اور پلکیں کشادہ کر کے دیکھے تو اوسکو درجہ دوم اور اگر خوب دیدار و سیاہ فام اور میان پشت بلند ہو تو سوم درجہ کا اور اگر بلند قامت سرخ چشم سیاہ سرخی آمیز ہو۔ و شوخ و آگاہ و کوتاہ ہو تو درجہ چہارم کا اور اگر چمکتا ہوا سیاہ ہو اور ایک دانت دراز ہو اور سینہ و شکم سفید ہو۔ و دست دراز اور بہت موٹا ہو تو پانچویں درجہ کا۔ اگر جسم رگیں نکلی ہوئیں اور پشت و گوش خرد ہوں و خرطوم دراز تو چھٹے درجہ کا اور اگر نازک بدن و سرخ چشم و دراز خرطوم تو ساتویں درجہ کا اور اگر ان ساتوں قسم کی صفات میں کچھ حصہ کسی میں ہو تو اسکو آٹھویں قسم کا شمار کرتے ہیں اور انکو اس طرح بھی آٹھ قسموں میں تقسیم کرتے ہیں کہ (۱) اگر اسکا پوست چین زدہ نہ ہو و بیمار نہ ہو و قارمند ہو اور لڑائی میں مونہہ نہ پھیرتا ہو اور گوشت پر رغبت نکرے اور شائستہ خوراک کھا کر خوش وقت ہو تو اوسکو دیو مزاج کہتے ہیں (۲) اگر ہاتھیوں کی شائستہ خاصیتیں رکھتا ہو اور بہت آگاہ ہو و سر و گوش و خرطوم و دست و پا کو ہلاتا رہی۔ بے اشارہ کسی کو نہ آزار دے تو اوسکو گندھرب مزاج کہتے ہیں (۳) اگر خشمناک ہو اور اشتہا کے ساتھ کھائے اور پانی میں رہنے کو دوست رکھے تو اوسکو برہمن مزاج کہتے ہیں (۴) جو بہت تنومند و خوشحال و آویزش دوست و شوخی افزا ہو اسکو کھتری مزاج کہتے ہیں

(۵) اگر پست قد و فراموش کار اور اپنے کام میں شوخ اور مالک کے کام میں کاہل منش اور زبوں خوراک پر مائل ہو اور ہر فیل کے ساتھ جنگ جو تو اسکو شو در مزاج کہتے ہیں (٦) اگر دراز، سستی و فریب کار اور جان شکر بیراہہ رو تو اُسے بار مزاج کہتے ہیں (۷) اگر کج رو و کم آگاہ اور اپنے تئیں مست بنائے رکھے تو اسکو پشاچہ (بھوت) مزاج کہتے ہیں (۸) اگر زور آور تیز رو و آدم آزاری دشت گردی کو دوست رکھے تو اُسے راچھس مزاج کہتے ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں ہاتھیوں کے باب میں بہت سی کتابیں اور انکی بیماریوں اور علاجوں کا ذکر انہیں ہی۔

صوبہ دار الخلافہ آگرہ میں جنگل بیادان و نرور میں برار تک اور صوبہ الباس میں حدود دیپہ و گھوڑا گھاٹ ورتن پور و نندن پور و سرگجہ و بستر اور صوبہ مالوہ میں ھندیا راچھو و چندیری و ستواس و بیجاگڈھ و رائسین و ہوشنگاباد و گڈھہ دھریا گڈھ اور صوبہ بہار میں نواحی رھتاس و جہارکھنڈ و صوبہ بنگالہ میں اڈیسہ و ساتگانوں میں ہاتھی بہت ہوتے ہیں اور سب سے اچھا پٹہ کا ہاتھی ہوتا ہے (ابو الفضل نے جو مقامات ہاتھیوں کی افراط کے لکھے ہیں اب وہاں ہاتھی بالکل نہیں ہیں۔

گلہ فیل کو سنسکرت میں سمھنہ کہتے ہیں اسمیں مختلف تعداد ہوتی ہی۔ ہزار تک ہاتھی ایک گلہ میں ہوتے ہیں اور صحرا میں نہایت ہوشمندی سے رہتے ہیں۔ زمستان و تابستان میں مناسب مقام میں سکونت اختیار کرتے ہیں اپنی خوابگاہ کے نزدیک درخت زار کو اکھیڑ ڈالتے ہیں اور نشاط و چرنے اور پانی پینے کے لیے دور دور چلے جاتے ہیں اور چلنے میں ایک آگے چل کر قراول بنتا ہی اور نگہبانی کرتا ہی اور یہ قراول اکثر بوڑھی ہتنی ہوتی ہی اور جب سوتے ہیں تو چار چار ہتنیوں کو چاروں طرف پاسبانی کے لیئے مقرر کرتے ہیں اور دن کو نوبت بہ نوبت پہرہ دیتے ہیں۔

جب بچہ پیدا ہوتا ہی تو ہتنی تین چار روز تک بچے کو سونڈ میں اوٹھا کر پیٹھ پر یا دانت پر بٹھا لیتی ہی اور اُسے لیئے پھرتی ہی۔ زچہ اور بیمار کا علاج نباتات سے کرتے ہیں اور

(۲) آئین مراتب فیل

اسکے گرد جمع ہوتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر کہتا تھا کہ صحرائی ہتنی کا بچہ کنوئیں میں گر پڑا تھا تو وحشی فیلوں نے کنوئیں کو لکڑی اور گھاس سے بھر کر نکال لیا۔

پادشاہ نے ہاتھی کے یہ سات مراتب مقرر کئے ہیں (۱) مست (۲) شیر گیر (۳) سادہ (۴) منجھولہ (۵) کرہ۔ (۶) پھندرکیہ (۷) موکل۔

(۳) آئین خوراک

پہلے ہاتھیوں کی قسمیں مقرر نہیں تھیں۔ اس لئے انکی خوراک میں ناہنجاری ہوتی تھی مگر اب ہاتھیوں اور ہتھنیوں کی اقسام مقرر کر دیں ہیں اور ہر ایک کی خوراک کی مقدار معین کی ہی جس سے انتظام خوب ہو گیا۔ اول مست ہاتھی پر ساڑھے پانچ نفر اسکے معنے کنا یہ ہیں یہ ہیں کہ دو ہاتھیوں پر گیارہ آدمی یا پانچ آدمی اور ایک لڑکا) (۱) مہاوت وہ گردن پر بیٹھتا ہی۔

(۴) آئین خدمت گذاری فیل

اور اسکو چلاتا ہی۔ (۲) بھوئی وہ سرین گاہ پر بیٹھتا ہی وہ لڑائی اور تیز روی میں یاوری کرتا ہی (۳) میٹھ وہ ہاتھی کو کھولتا اور باندھتا ہی۔ ساڑھے تین نفر اسکے مقرر ہیں دوم ہر شیر گیر پر پانچ نفر سوم ہر سادہ پر ساڑھے چار نفر چہارم ہر منجھولہ پر ساڑھے تین نفر پنجم ہر کرہ پر ساڑھے تین نفر ششم ہر پھندرکیہ پر دو نفر ہفتم ہر موکل پر دو نفر مقرر ہیں فوجدار شہریار دس دس و سو سو بیس بیس تیس تیس ہاتھی کار دانوں کی سپرد کرتا ہی ان ہاتھیوں کو حلقہ کہتے ہیں اور اسکے سردار کو فوجدار وہ ہاتھیوں کی فربہی و ہنر آموزی و دلیری و توپ اندازی اور آتش افروزی میں انکی بار برجائی میں کوشش کرتا ہی۔

(۵) آئین رخت

ہاتھی کا رخت یہ ہوتا ہی (۱) دھرتہ۔ بڑی زنجیر ہوتی ہی جس سے پانوں باندھتے ہیں (۲) آندو۔ زنجیر ہوتی ہی جس سے دونوں ہاتھیوں کو باندھتے ہیں (۳) بیڑی ایک زنجیر پچھلے پانوں میں ڈالنے کی ہوتی ہی (۴) بلاپای بندی جس سے آمد و شد کر سکتا ہی مگر وہ دوڑ نہیں سکتا۔ (۵) گدھ بیری اندو کی مانند ہوتی ہی (۶) لوہ لنگر۔ ایک بڑی سی زنجیر ہوتی ہی اسکا ایک سرا ہاتھی کے دست راست میں باندھتے ہیں دوسرا کسی کنڈہ میں۔ (۷) چرخی۔ خالی نرسل ہوتا ہی جسمیں بارود بھر کر چھوڑتے ہیں اور وہ چکر کھاتی ہی۔ اس سے ہاتھی بہت ڈرتا ہی (۸) اندھیاری جسکا نام پادشاہ نے آفتابی رکھا ہی۔ وہ ٹاٹ و زربفت و مخمل وغیرہ کی بنائی جاتی ہی جو گوشیہ ہوتی ہی آنکھوں پر لگاتی

جاتی ہی۔ پادشاہ نے اوسکے نیچے تین زنگولہ لگا دیئے ہیں (۹) کلاوہ چند ریسمان بٹی ہوئی ہوتی ہیں جنکو حلقہ بناکے گلے میں ڈالتے ہیں اور فیلبان انمیں اپنے دو پانوں لٹکا کے بیٹھتا ہی۔ کبھی وہ چمڑے یا ریشم کا بنایا جاتا ہی۔ اور بعض دفعہ اُس کلاوہ میں آہنیں میخیں جنکے سر تیز ہوتے ہیں لگا دیتے ہیں جسکے سبب سے بدکردار ہاتھی سر کو ہلاکر فیلبان کو نیچے نہیں گرا سکتا ہی (۱۰) ڈلتی پانچ گز کا لنبا رسّہ ہوتا ہی اور عصا کی برابر موٹا اسکو کلاوہ کے اوپر مضبوطی کے لیے باندھ دیتے ہیں جس سے وہ مضبوط ہو جاتا ہی (۱۱) کنار سینچہ ہوتا ہی جسکا سر تیز ہوتا ہی اسکو کلاوہ میں لٹکاتے ہیں اور ہاتھی کے بن گوش کو اس سے کھجلا کر تیزی اور شورش میں لاتے ہیں (۱۲) ڈور ایک موٹا رسّا ہوتا ہی۔ دم سے گلے تک بندھا ہوتا ہی (۱۳) گدیلہ مشہور (۱۴) گدوٹی (۱۵) پیچیدہ (۱۶) چوراسی (۱۷) پٹ کچھہ (۱۸) بزرگ زنگ (۱۹) ٹیا (۲۰) قطاس یا کھر فولاد کی ہوتی ہی اور سر و سونڈ کے لیئے ایک جداگانہ سلاح تر (۲۲) کج جھنپ (۲۳) میگھ ڈنبر ایک شامیانہ ہوتا ہی جسکو پادشاہ نے ایجاد کیا ہی فیلبان اسکے سایہ میں بیٹھتا ہی۔ (۲۴) رن بیل (۲۵) گینتیلی (۲۶) پائے رنجن (۲۷) آنکس یا جھنگک اسکا پادشاہ نے گجباگ نام رکھا ہی (۲۸) گدّ (۲۹) بنگڑی (۳۰) جگاوٹ (۳۱) جھندہ۔

پادشاہ کے خاص سواری کے لیئے ایک سو ایک ہاتھی منتخب ہوتے ہیں ہر دس فیل پر ایک افسر ہوتا ہی اسکو دہائی دار کہتے ہیں۔

پادشاہ ہر قسم کے ہاتھی پر سوار ہوتا ہی اور اس دیو کردار کو فرمان پذیر رکھتا ہی مست ہاتھیوں کے دانتوں پہ پانوں رکھکر سوار ہو جاتا ہی۔ دلکشا عماریاں خوش رفتار ہاتھیوں پر کسی جاتی ہی اور خواب گاہ رواں اسپر سرانجام پاتا ہی۔

نوکر تن آسان نہ ہو جائیں اور خدمت گذاری میں ہوشیار رہیں پادشاہ نے اور کارخانوں کی طرح اس کارخانہ کے لئے جرمانہ کا قانون بنایا۔ نر یا مادہ خاصہ فیل مرجاتا ہی تو بھوئی پر تین مہینے کی تنخواہ کا جرمانہ ہوتا ہی۔ اگر جنت فیل میں کچھ کمی ہوتی ہی تو اوسکی قیمت کی دو تہائی کی برابر بھوئی اور میٹھ پر جرمانہ ہوتا ہی۔

(۴۲) آئین فیلان خاصہ (۴۳) آئین پادشاہ بر سواری (۴۴) آئین جرمانہ

اور اگر بھول جاتی رسے تو اسکی قیمت کی برابر ہوتا ہے۔ اگر مادہ لاغری و کم تیاری سے مرجائے
تو بھوئی سے اوسکی قیمت لیجاتی ہے۔ اگر فیلبان ہاتھی کے ست کرنے کے لیے دارو کھلاوے اور
اس سے وہ مرجائے تو فیلبان کو قتل کرنے یا ہاتھ کاٹنے یا بیچ کر غلام بنانے کی سزا ہوتی ہے
اور اگر خاصہ ہاتھی ہو تو بھوئی سے بھی تین مہینے کی تنخواہ کا جرمانہ لیا جاتا ہے اور ایک سال معطل
کیا جاتا ہے اگر ہتھنی مرجائے تو بھوئی اور مہاوت پر تین مہینے کی تنخواہ جرمانہ ہوتا ہے اگر
ہاتھی کا دانت ٹوٹ جائے یا اوسکی کلی (کلی دانتوں کے قریب ایک جگہ ہوتی ہے جب اوسکو
گزند پہونچے تو وہ چپک کرتی ہے) کو آزار پہنچے اور دانت کھوکھلا ہوجائے تو داروغہ سے
دوتہائی اور فوجدار سے ایک تہائی جرمانہ لیا جاتا ہے۔ ہاتھیوں کی فربہی و لاغری دیکھنے کیواسطے
ہر مہینے میں دو کاردار مقرر ہوتے ہیں جو پادشاہ کو سب حال کی اطلاع دیتے ہیں۔

آئین گھوڑوں کا بیان (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲)

گھوڑا آبادی منزل و آبادی سپاہ و آبادی ملک میں بڑا درجہ رکھتا ہے۔ کشورکشائی و
مرزبانی میں بڑی دستاویز ہوتا ہے۔ پادشاہ اسپر بہت مائل ہے۔ اس لیے عراق۔ عرب۔ روم۔
ترکستان۔ بدخشاں۔ شیرواں۔ قرغز۔ تبت۔ کشمیر۔ اور اور ملکوں اور توران و ایران سے کارواں در
کارواں پادشاہ پاس گھوڑے آتے ہیں۔ پادشاہ کے طویلہ میں بارہ ہزار گھوڑے ہیں ہر روز بہت سے آتے جاتے
رہتے ہیں۔ دیدہ ور کارشناسوں نے گھوڑوں کی نسل لینے میں وہ ترقی کی ہے کہ تھوڑے عرصہ میں
ہندوستان کو عربستان سے بڑھادیا اور اب ہندوستان میں گھوڑا ایسا پیدا ہونے لگا کہ وہ بالکل عربی و
عراقی معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ ان کی نسل ہر جگہ پائی جاتی ہے مگر کچھ میں وہ خوب ہوتی ہے اور عربی گھوڑے کی
مانند گھوڑا وہاں پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں عرب کا ایک جہاز تباہ ہو کر اس سرزمین میں
آیا اس میں سات گھوڑے نہایت عمدہ تھے وہاں گھوڑے ان گھوڑوں کی نسل میں سے گنے جاتے
ہیں۔ پنجاب میں بھی گھوڑا عراقی گھوڑے کی مانند پیدا ہوتا ہے۔ خاص کر دریا سندھ و بہت (جہلم)
کے درمیان اسکو سنوجی کہتے ہیں۔ اور پٹی ہیبت پور۔ بجواڑہ۔ تہارہ۔ صوبہ دارالخلافہ آگرہ۔ میوات
صوبہ اجمیر میں جو گھوڑے پیدا ہوتے ہیں ان کو پچواریہ کہتے ہیں۔ ہندوستان کے
کہسار شمالی میں چھوٹے گھوڑے طاقتور پیدا ہوتے ہیں اور انکو گوٹ کہتے ہیں۔ بنگالہ کی انتہا پر

کوچ (بہار) میں گھوڑا پیدا ہوتا ہے جو ترکی اور گوٹ کے درمیان ہوتا ہے اوسکو تانگھن کہتے ہیں۔
وہ بڑا توانا اور زورمند ہوتا ہے۔ پادشاہ گھوڑے کو فرماندہی کا مایہ اور بزرگی کی اکسیر جانتا ہے۔
اس لیئے انکے جمع کرنے میں بہت توجہ کرتا ہے۔ اول اس نے ایک جدا جگہ مقرر کر رکھی ہے کہ گھوڑوں کے
سوداگر وہاں بغیر انتظار کے رنج کے آرام کیا کریں اور کسی طرح کی انکو گزند نہ پہنچے اور آز مندی
جو آجکل سوداگروں کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہے گھوڑوں میں پراگندگی نہ پیدا کرے۔ دوم اس نے ایک
نیک مرد کاروان سرائے کا امین مقرر کر دیا ہے کہ وہ کار آگہی اور شناسائی سے سوداگروں کو بیفرمان
نہ ہونے دے اور بدگوہر سخن سازوں کی زبان بیہودہ گوئی سے بند کرے۔ سوم ایک بتکچی درست قلم
مقرر کیا ہے کہ وہ گھوڑوں کے آنے اور نظر سے گذرنے کے سرشتہ کو منتظم رکھے اور پادشاہی احکام کی
تکمیل کو دیکھتا رہے کہ اسمیں تو کچھ خلل نہیں آیا۔ چہارم اس نے سچے قیمت شناس مقرر کیئے ہیں
کہ وہ گھوڑوں کی قیمت ان کی آمد کی ترتیب کے موافق مقرر کریں یعنی جو پہلے آئیں انکے پہلے قیمت
مقرر کی جائے جو قیمت وہ مقرر کرتے ہیں پادشاہ انکو آدھی قیمت اور زیادہ دیدیتا ہے۔
ہر قسم کے گھوڑوں کے مراتب مقرر ہیں خاصہ وغیر خاصہ۔ چھ طویلے چہل اسی عرب وعجم کے برچیدہ
گھوڑوں کے اور درطویلے شاہزادوں کے ہیں۔ ایک طویلہ رہوار ترکی گھوڑوں کا ہے۔ ایک طویلہ
خانہ زدوں کا ہے۔ خوراکیں ہر قسم کے گھوڑوں کی مقرر ہیں۔ سب کے ساز واسباب جدا جدا ہیں۔
خدمتگاروں کی تفصیل یہ ہے کہ (۱) ایک عہدہ آتبیگی کا ہے وہ سب گھوڑوں کے حال سے واقف
ہوتا ہے طرح طرح کی تیمارداری ورہنمونی کرتا ہے۔ یہ ایک منصب والا امرائے بزرگ کی برابر ہے
آجکل خانخانان اس خدمت پر سربلند ہے۔ (۲) ہر طویلہ کا ایک داروغہ ہوتا ہے (۳) منصبدار ول
اوراحدیوں میں سے ایک مشرف ہوتا ہے وہ گھوڑوں کی شمار اور دادوستد کا حساب لکھتا ہے وہ بھی
امرا میں داخل ہوتا ہے۔ (۴) دیدہ ور پادشاہ کے ملاحظہ سے پیشتر گھوڑوں کا حال تحقیق کرتا ہے
انکا حال اور درجہ قرار دیتا ہے اور مشرف اس کو لکھتا ہے۔ اکثر منصبداروں واحدیوں
میں سے کسی کو یہ عہدہ ملتا ہے۔ (۵) اختچی وہ گھوڑوں کے رخت کی پاسبانی کرتا ہے
اور ان کو آراستہ کرتا ہے (۶) چابک سوار وہ گھوڑوں پر سواری کرکے انکی چال کو

درست کرتا ہی (۷) ہاڑا ایک گروہ راجپوتوں کا ہی وہ گھوڑوں کو اصول سکھاتا ہی یعنی قدم چلنا۔
(۸) میر دھہ (جو سائیسوں میں شناسا تر ہوتا ہی۔ وہ دس آدمیوں کا سردار ہوتا ہی۔ اوس کو
احدیوں میں تنخواہ ملتی ہی) (۹) بیطار (۱۰) نقیب وہ ہر طویلہ کے حال کی خبر داروغہ کو کرتا ہے۔
(۱۱) سائیس (۱۲) جلودار پیک (۱۳) نعلبند (۱۴) زین دار (۱۵) آب کش (۱۶) فراش جو اسباب
پر سے گرد جھاڑتا ہے (۱۷) سپند سوز (۱۸) خاک روب جسکا نام بادشاہ نے حلال خور رکھا ہے (اکبر کو
نام بدل کرنئے ناموں کے رکھنے کا شوق بڑا تھا) بادشاہ بعض آدمیوں کو یہ جانتا ہے کہ وہ گھوڑی
پر خوب سوار ہوتے ہیں مگر گھوڑے کا رکھنا نہیں جانتے اس لیے اُس نے چند طویلے داروغوں کو سپرد
کردیئے ہیں اور نیز مشرف جدا مقرر کئے ہیں جب خدمت کا وقت ہوتا ہی تو یہ سوار بلائے جاتے ہیں
اُنکا نام بادشاہ نے بارگیر سوار رکھا ہے۔ اس لیے کہ گھوڑے بدلے نہ جائیں اور فریب کی نقش مٹ جائے
بادشاہ نے کچھ دنوں نظر کے لفظ سے کچھ دنوں داغ کے لفظ سے کچھ دنوں سات کے ہندسہ کے
نشان سے گھوڑوں کو نشان مند کیا جو سرکار والا میں گھوڑا لیا جاتا اسپر یہ نشان کلہ پر دائیں طرف
ہوتے جو گھوڑا باہر دیا جاتا اسکی بائیں طرف یہ نشان ہوتے۔ کچھ عراقی و محض گھوڑوں پر دائیں
طرف قیمت کے ہندسہ کا نشان ہوتا اور ترکی و تازی کے بائیں طرف۔ اب ہر طویلے کے گھوڑوں پر
قیمت کا ہندسہ لکھا جاتا ہے۔ دہ مہری پر ۱۰ کا نشان و بست مہری پر ۲۰ کا نشان اور علیٰ ہذا القیاس۔
اگر بادشاہ کے ملاحظہ میں اس قیمت میں کمی و بیشی ہوتی ہے تو پہلا ہندسہ کا نقش مٹا دیا جاتا ہے،
جب چہل اسپی اصطبل میں سے دس گھوڑے کم ہو جاتے تو انکی بجائے اور شاہزادوں کے منتخب گھوڑوں
میں سے بھرتی کئے جاتے اور اگر خانہ زاد گھوڑے دس کم ہو جاتے تو انکی بجائے اور دس خانہ زاد گھوڑے
بھرتی کیے جاتے اور اگر ہوا میں سے پانچ کم ہوتے تو انکی جگہہ اور طویلوں سے بھرتی ہوتے۔ اگر شاہزادہ
بزرگ سلیم کے طویلہ میں پندرہ گھوڑے کم ہو جاتے تو انکی جگہہ اسکے چھوٹے بھائیوں کے طویلوں سے گھوڑے
بھرتی کیے جاتے اور اگر اُس سے چھوٹے شاہزادہ مراد کے طویلہ میں ۲۵ گھوڑے کم ہوتے تو انکی بجائے
اپنے چھوٹے بھائی دانیال کے طویلوں سے گھوڑے پر ہوتے اور اگر سب سے چھوٹے شاہزادہ دانیال کے طویلہ
سے ۲۵ گھوڑے کم ہو جاتے تو انکی جگہ اور طویلوں سے پُر ہوتے۔ سنہ ۲۷ الٰہی میں حکم ہوا کہ اب سے بعد

(۵۴) آئین بارگیر (۵۵) آئین داغ (۵۶) (۵۷) آئین گھوڑوں کے بابت میں

کوچ (بہار) میں گھوڑا پیدا ہوتا ہی جو ترکی اور گوٹ کے درمیان ہوتا ہی اوسکو ٹانگھن کہتے ہیں۔
وہ بڑا توانا اور زورمند ہوتا ہی۔ پادشاہ گھوڑے کو فرمان دہی کا مایہ اور بزرگی کی اکسیر جانتا ہے۔
اس لیئے انکے جمع کرنمیں بہت توجہ کرتا ہے۔ اول اس نے ایک جدا جگھہ مقرر کر رکھی ہی کہ گھوڑوں کے
سوداگر وہاں بغیر انتظار کے رنج کے آرام کیا کریں اور کسی طرح کی انکو گزند نہ پہنچی اور آزمندی
جو آجکل سوداگروں کے گلے کا ہار بنی ہوئی ہی گھوڑوں میں پراگندگی نہ پیدا کرے۔ دوم اس نے ایک
نیک مرد کارواں سرائے کا آئین مقرر کر دیا ہی کہ وہ کار آگہی اور شناسائی سے سوداگروں کو بیفریان
نہ ہونے دے اور بدگو ہر سخن سازوں کی زبان بیہودہ گوئی سے بند کرے۔ سوم ایک بتکچی درست قلم
مقرر کیا ہی کہ وہ گھوڑوں کے آنے اور نظر سے گذرنے کے سررشتہ کو منتظم رکھے اور پادشاہی احکام کی
تکمیل کو دیکھتا ہی کہ اسمیں تو کچھ خلل نہیں آیا۔ چہارم اس نے سچے قیمت شناس مقرر کیئے ہیں
کہ وہ گھوڑوں کی قیمت ان کی آمد کی ترتیب کے موافق مقرر کریں یعنی جو پہلے آئیں انکے پہلے قیمت
مقرر کی جائے جو قیمت وہ مقرر کرتے ہیں پادشاہ انکو آدھی قیمت اور زیادہ دیدیتا ہے۔

ہر قسم کے گھوڑوں کے مراتب مقرر ہیں خاصہ وغیر خاصہ۔ چھ طویلے چہل اسی عرب و عجم کے برچیدہ
گھوڑوں کے اور دو طویلے شاہزادوں کے ہیں۔ ایک طویلہ رہوار ترکی گھوڑوں کا ہی۔ ایک طویلہ
خانہ زدوں کا ہی۔ خوراکیں ہر قسم کے گھوڑوں کی مقرر ہیں۔ سب کے ساز و اسباب جدا جدا ہیں۔

خدمتگاروں کی تفصیل یہ ہی کہ (۱) ایک عہدہ آتبیگی کا ہی وہ سب گھوڑوں کے حال سے واقف
ہوتا ہی طرح طرح کی تیمارداری و رہنمونی کرتا ہے۔ یہ ایک منصب والا امراے بزرگ کی برابر ہے
آجکل خانخانان اس خدمت پر سربلند ہی۔ (۲) ہر طویلہ کا ایک داروغہ ہوتا ہے (۳) منصبداروں
اور احدیوں میں سے ایک مشرف ہوتا ہے وہ گھوڑوں کی شمار اور داد و ستد کا حساب لکھتا ہے وہ بھی
امراء میں داخل ہوتا ہے۔ (۴) دیدہ ور پادشاہ کے ملاحظہ سے پیشتر گھوڑوں کا حال تحقیق کرتا ہی
انکا حال اور درجہ قرار دیتا ہے اور مشرف اس کو لکھتا ہے۔ اکثر منصبداروں و احدیوں
میں سے کسی کو یہ عہدہ ملتا ہے۔ (۵) آختچی وہ گھوڑوں کے رخت کی پاسبانی کرتا ہے
اور ان کو آراستہ کرتا ہے (۶) چابکسوار وہ گھوڑوں پر سواری کرکے انکی چال کو

درستی کرتا ہے (۷) ہاڑا ایک گروہ راجپوتوں کا ہے وہ گھوڑوں کو اُصول سکھاتا ہے یعنی قدم چلنا۔
(۸) میر دھہ (جو سائیسوں میں شناسا تر ہوتا ہے - وہ دس آدمیوں کا سردار ہوتا ہے - اوس کو
احدیوں میں تنخواہ ملتی ہے) (۹) بیطار (۱۰) نقیب وہ ہر طویلہ کے حال کی خبر داروغہ کو کرتا ہے -
(۱۱) سائیس (۱۲) جلودار پیک (۱۳) نعلبند (۱۴) زین دار (۱۵) آب کش (۱۶) فراش جو اسباب
پر سے گرد جھاڑتا ہے (۱۷) سپند سوز (۱۸) خاک روب جسکا نام بادشاہ نے حلال خور رکھا ہے (اکبر کو
نام بدل کر نئے ناموں کے رکھنے کا شوق بڑا تھا) بادشاہ بعض آدمیوں کو یہ جانتا ہے کہ وہ گھوڑی
پر خوب سوار ہوتے ہیں مگر گھوڑے کا رکھنا نہیں جانتے اس لیے اُس نے چند طویلے داروغوں کو سپرد
کردیئے ہیں اور نیز مشرف جدا مقرر کئے ہیں جب خدمت کا وقت ہوتا ہے تو یہ سوار بلائے جاتے ہیں
اُنکا نام بادشاہ نے بارگیر سوار رکھا ہے - اس سبب کہ گھوڑے بدلے نہ جائیں اور فریب کا نقش مٹ جائے
بادشاہ نے کچھ دنوں نظر کے لفظ سے کچھ دنوں داغ کے لفظ سے کچھ دنوں سات سے کے ہندسہ کے
نشان سے گھوڑوں کو نشان مند کیا جو سرکار والا میں گھوڑا لیا جاتا اسپر یہ نشان کلہ پر دائیں طرف
ہوتے جو گھوڑا باہر دیا جاتا اسکی بائیں طرف یہ نشان ہوتے - کچھ عراقی و محض گھوڑوں پر دائیں
طرف قیمت کے ہندسہ کا نشان ہوتا اور ترکی و تازی کے بائیں طرف - اب ہر طویلے کے گھوڑوں پر
قیمت کا ہندسہ لکھا جاتا ہے - وہ پھری پر ۱ کا نشان و بست پھری پر ۲ کا نشان اور علیٰ ہذا القیاس -
اگر بادشاہ کے ملاحظہ میں اس قیمت میں کمی و بیشی ہوتی ہے تو پہلا ہندسہ کا نقش مٹا دیا جاتا ہے،
جب چہل اسپی اصطبل میں سے دس گھوڑے کم ہو جاتے تو انکی بجائے اور شاہزادوں کے منتخب گھوڑوں
میں سے بھرتی کئے جاتے اور اگر خانہ زاد گھوڑے دس کم ہو جاتے تو انکی بجای اور دس خانہ زاد گھوڑے
بھرتی کیے جاتے اور اگر ہواریں سے پانچ کم ہوتے تو انکی جگہہ اور طویلوں سے بھرتی ہوتے - اگر شاہزادہ
بزرگ سلیم کے طویلہ میں پندرہ گھوڑے کم ہو جاتے تو انکی جگہہ اسکے چھوٹے بھائیوں کے طویلوں سے گھوڑے
بھرتی کیے جاتے اور اگر اُس سے چھوٹے شاہزادہ مراد کے طویلہ میں ۲۵ گھوڑے کم ہوتے تو انکی بجائے
اپنے چھوٹے بھائی دانیال کے طویلوں سے گھوڑے پُر ہوتے اور اگر سب سے چھوٹے شاہزادہ دانیال کے طویلہ
سے ۲۵ گھوڑے کم ہو جاتے تو انکی جگہ اور طویلوں سے پُر ہوتے ۔ سنہ ۲۲ الٰہی میں حکم ہوا کہ اب سے بعد

(۵۴) آئین بارگیر (۵۵) آئین داغ (۵۶) آئین گھوڑوں کے بارے میں

ہر سال ایک ایک گھوڑا زیادہ کیا جاوے اُس وقت طویلہ خاصہ میں گیارہ گھوڑوں کی کمی ہوئی ہے
انکی جگہ بھرتی شروع ہے اور اور طویلوں کی کمی نظر ملاحظہ کے وقت پوری کی جائیگی سب کوئی
خاصہ گھوڑا مر جاتا ہے تو اوسکی قیمت اوّل کی ہر مہر کے پیچھے داروغہ سے ایک روپیہ ور میردھہ سے دس
دام اور سائیس سے چوتھائی تنخواہ تاوان لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گھوڑا چوری جاتا ہے یا عیبناک ہو جاتا ہے
تو اطلاع بادشاہ کو ہوتی ہے اور وہ اُسکے واسطے تاوان تجویز کرتا ہے۔ یہ تاوان یکساں نہیں ہوتا۔
مختلف ہوتا ہے اور اور طویلوں میں اوہ داروغہ سے ایک گھوڑے کے مرنے پر ایک روپیہ مہر پیچھے
اور دو کے مرنے پر دو روپیہ فی مہر میردھہ اور سائیس سے بدستور سابق تاوان لیا جاتا ہے اور
اب ایک گھوڑے سے تین گھوڑوں کے مرنے تک ایک روپیہ فی مہر اور چار کے مرنے پر دو دو روپیہ
ہر مہر پیچھے اور علی ہذا القیاس تاوان لیا جاتا ہے۔ اگر گھوڑے کا منہ چرجاوے تو ہر مہر پیچھے دس دس
دام میردھہ سے جرمانہ لیا جاتا ہے اور وہ اور سائیسوں سے وصول کرتا ہے۔ ہمیشہ بادشاہ کی سواری
کے لئے یہ گھوڑے تیار رہتے ہیں دو دو خاصہ۔ مگر ہوا تین طوائل ہفتا دھری سے وہ دھری تک
کوٹ ایک ایک چار چار گھوڑوں کو مثل کہتے ہیں۔ جب بادشاہ کچھ طویلہ خاصہ میں سے کسی گھوڑے
پر سوار ہوتا ہے تو ایک آئین مقررہ کے موافق نوکروں کو ایک روپیہ انعام دیتا ہے جس سے خدمت اُنکی
کی ترقی ہوتی ہے اور وہ سب نوکروں میں تقسیم ہوتا ہے جب کوئی گھوڑا بخشش میں دیا جاتا ہے تو اوسکی
قیمت ڈیوڑھی یعنی پچاس فیصدی زیادہ کی جاتی ہے اور ہر اشرفی کے پیچھے پانچ دام اُس سے
انعام لیتے ہیں اور اصطبل کے ملازم اُسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ اس ملک کے گھوڑے کی عمر طبعی ۳۰
سال اور قیمت پانچ سو روپیہ سے لیکر دو سو روپیہ تک اونٹ ابتدائے شعور سے اس شگرف پیکر
جانور کی طرف بادشاہ بہت میلان خاطر ہے وہ آبادی منزل و آبادی سپاہ و آبادی ملک کا
مددگار ہے اور باربرداری میں صابر ہے اس لیئے بادشاہ کا وہ دلنشیں ہے اور اوس پر بہت
توجہ ہے اس ملک میں وہ بہت عمدہ پیدا ہونے لگا ہے اور ایرانی و تورانی اونٹوں سے بیش ہوگیا ہے
بادشاہ اپنی خوشی اور اوروں کی نشاط افزائی کے لیئے اونٹوں کو لڑاتا ہے اور چند
منتخب آدمیوں کو اس کام کے واسطے آمادہ رکھتا ہے خاصہ اونٹوں میں ایک اونٹ کا نام

(۶۰) (۲۵) آئین

شاہ پسندی - خانہ زاد بارہ برس کا ہے وہ اپنے ہمسروں پر غالب ہے اور اوسکی رفت و خیز میں
کشتی گری کی تازگیاں نمودار ہوتی ہیں - اجمیر و جودھپور و ناگور و بیکانیر و جیسلمیر و بٹھنڈا و بھٹنیر
کے نزدیک اونٹ بہت ہوتا ہے صوبہ گجرات و کچھ کے قریب بہت عمدہ اونٹ ہوتے ہیں -
اور سندھ میں سب سے زیادہ - بہت سے آدمیوں پاس دس دس ہزار اونٹ ہوتے ہیں -
اجمیر کا اونٹ تیز رفتاری میں اور بھٹنیر کا اونٹ باربرداری میں نامدار ہیں پانچ اونٹ کی
ایک قطار ہوتی ہے -

ہندوستان میں گائے کی بڑی بزرگداشت ہوتی ہے ہندو اوسکو مقدس جانتے ہیں
کشت و کار اُسی کی قوت سے ہوتی ہے اور اس سے مایہ زندگانی کا سامان مہیا ہوتا ہے اسی کے
دودھ و گوشت و روغن سے دسترخوان کی رونق ہوتی ہے - بیل باربرداری اور گردون کشی
میں بڑا تنومند ہوتا ہے اور سلطنت کی تینوں قسموں میں بڑا مددگار - وہ سب جگہ پیدا ہوتا ہے
اور اُسکے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں لیکن صوبہ گجرات میں سب جگہ سے بہتر ہوتا ہے اور اوسکی ایک
جوڑی کی قیمت سو مہر ہوتی ہے اور رات دن میں اسی کوس چلتا ہے اور اسپ خوش رفتار سے آگے
بڑھنا چاہتا ہے اور راہ میں سرگین نہیں کرتا بیس مہری اور دس مہری بیل تو بہت ہوتے ہیں بنگالہ اور
دکن میں بیل اچھا ہوتا ہے اور بوجھ لادنے کے وقت بیٹھ جاتا ہے - یہاں کی گائے آدھ من دودھ
دیتی ہے اور ملک دکن میں دس روپیہ کی قیمت سے زیادہ قیمت کا بیل نہیں ہوتا -
بادشاہ نے بیلوں کی ایک جوڑی دو لاکھ دام کو خریدی تھی - تبت و کشمیر کے قریب گائے قطاس
پیدا ہوتی ہے وہ ایک عجیب نمود رکھتی ہے - اس جانور کی عمر طبعی ۲۵ سال ہے - بادشاہ انمیں سے
بہت سے گائے بیل پاسبانوں کو سپرد کرتا ہے انمیں سے سو خاصہ میں انکا نام کوتل رکھا گیا ہے -
وہ ہمیشہ خدمت کے لیے آمادہ رہتے ہیں اور شکار میں انمیں سے چالیس بے بار ہمراہ ہوتی ہیں اور
اکیاون گاؤ اور ہوتی ہیں وہ کوتل کی برابر عمدہ نہیں ہوتیں انکو نیم کوتل کہتے ہیں اور انکے اور
گاؤں کو پاؤ کوتل ہر قسم کے بیلوں کو گردون کشی و ہل آرائی و آب آوری کے کام سپرد ہوتے ہیں
انمیں ایک قسم کا بیل گوٹ کی مانند ہوتا ہے اس کو گینی کہتے ہیں وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے -

اس طرح گاؤں اور بھینسوں کے تقسیم سو سو کے گلوں میں ہو کر آدمیوں کو حوالہ کی جاتی ہیں اور
سب کی خوراک مقرر ہوتی ہے۔

بہل دو طرح کی ہوتی ہے چتری دار کہ جسپر چار چوب یا زیادہ لگی ہوتی ہیں اور انکو زبردست
گھوڑے کھینچتے ہیں اسکو گھڑبہل کہتے ہیں۔ دس خزانوں پر ۲۰ عرابچی اور ایک بڑھئی مقرر ہوتا ہے
اگر بیل کا سینگ ٹوٹ جاے یا وہ اندھا ہو جائے تو اوسکی چوتھائی قیمت کی برابر داروغہ سے
تاوان لیا جاتا ہے۔ ہر گاڑی کے اوگھنے کے لیے نیم دام دیا جاتا ہے۔ بھینسے کو ارنہ کہتے ہیں۔ گاؤ
و گاؤمیش کے گلہ کو ٹھاٹ کہتے ہیں۔ ایک گائے ایک سیر سے پندرہ سیر تک اور ایک بھیس دو
سیر سے ۳۰ سیر تک دودہ دیتی ہے اور پنجاب کی بھینس عمدہ ہوتی ہے۔ ہر گاے کا دودھ اول
مشخص ہوتا ہے اور ہر سیر سے دو دام روغن طلب ہوتا ہے۔

آئین استر

خچر میں گھوڑے کی طاقت اور گدھے کا صبر ہوتا ہے۔ نہ وہ گھوڑے کا سا زیرک ہوتا ہے نہ
گدھے کا سا کودن جس راہ پر وہ ایک دفعہ جاتا ہے پھر اُسے نہیں بھولتا ہے۔ بارکشی و گریوہ نوردی
و نرم روی میں بہت ہی کم جانور اُس کی برابر ہیں۔ اس لیے اسکو کاردار ہوشیار دوست رکھتے ہیں اور
اوسکی پرورش کرتے ہیں۔ ہندوستان میں پکھلی اور اسکے نواح کے سوا اور کہیں اور نہیں پیدا
ہوتا وہ اوسکو گدھے کی برابر سمجھتے ہیں اور اسکی سواری سے ننگ رکھتے ہیں۔ مگر بادشاہ نے
اس نفرت کو دور کر دیا ہے۔ عراق۔ عرب۔ عجم۔ اور ملکوں سے وہ آتی ہیں اور انمیں جو اچھی
ہوتی ہے وہ ہزار روپیہ کو بکتی ہے اور اسکی قطار بھی مثل شتر کے پانچ خچروں سے بناتے ہیں
اوس کی عمر طبعی پچاس سال نہ ہے۔ سب کے لیے خوراک اور ساز مقرر ہے۔

آئین تقسیم اوقات روزی پادشاہ

سلطنت کی تینوں شاخوں کی آبادی اور مایہ وری اور چھوٹے بڑوں
کی کام روائی۔ دلوں کی پاسداری خاطروں کی دیدبانی اس بات پر موقوف
ہے کہ پادشاہ اپنے دن رات کو کئی طور سے صرف کرتا ہے پادشاہ کے
دل پر اگر ہزاروں شغلوں کا ہجوم ہو تو اُس کے صفائی قلب میں کوئی غبار
نہیں اوٹھتا اور خدا تعالے کی نیرنگی نقش کی آگاہی میں۔ پراگندگی پیدا ہوتی۔ ہر لحظہ

رضامندی ایزدی کی جویائی اس کی بڑھتی ہے اور دمبدم اس کی ژرف نگہی اور دوراندیشی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی دانائی اور بزرگ شناسی سے دوریاب دیدہ وروں کی تلاش میں رہتا ہے اور اپنے حُسن روزافزوں پر کمتر نظر ڈالتا ہی اور اس امید میں سب چھوٹے بڑوں کی سنتا ہے کہ اسکے چراغ دانائی کو کوئی دل آویز سخن یا گزیدہ کردار روشن کرے باوجودیکہ اس تلاش میں برسوں گذرگئے مگر کوئی خالص بزرگ مرد اُس کو دستیاب ہوا منصف رہنمایوں نے تو پادشاہ کا حال دیکھ کر اپنے علم کا دفتر دھویا اور از سرِ نو پادشاہ سے سبق پڑھا مگر فراخ حوصلہ پادشاہ پہلے ہی طرح اس فرقہ کی طلب میں سرگرمی کے ساتھ ساعی رہتا ہی اور اس طریقہ کی مصاحبت سے خوش وقت ہوتا ہے۔ گو اسکو ہزاروں ظاہری شکوہ حاصل ہیں۔ بہت سے افسانہ ہاے خواب اس کے لیئے موجود ہیں مگر وہ اپنی خواہش وخشم کو سلطان خرد کی فرمان پذیری سے باہر جانے کے لیئے قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتا اور اسکے موافق کام کرنا تو کیسا افسانہ سرائی جو اہل جہان کو خواب میں لاتی ہی وہ اسکو اور زیادہ بیدار کرتی ہی۔ اس میں خداطلبی و حق پژوہی کی کثرت ایسی ہی کہ وہ خدا کی پرستش میں جان و تن سے ریاضت صوری اور معنوی کرتا ہی وہ ایسی عبادت بھی کرتا ہے کہ جو لوگ زمانہ کی رسم کے پابند ہیں انکی زبان طعن اسپر بند ہو جاتی ہے۔ مگر ہمیشہ بڑی جستجو اسکی یہ رہتی ہی کہ میں اپنے میں ایسی نیک عادتیں پیدا کروں کہ خردمند بیدار دل اسکی خوبی کو بالاتفاق مانتے ہوں اور کوئی کیش و مذہب اسپر طنز نہ کرتا ہو وہ اپنے وقت کی قدر جانتا ہے اور کبھی اس کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اور اپنے گرامی انفاس کی پاسداری کرتا ہی اور جو کام اسکو کرنا چاہیئے اس کو ترک نہیں کرتا۔ اسکی عادتوں میں ایسی خیر پسیجی ہی کہ وہ عبادت معلوم ہوتی ہے اسکی عبادتوں کا بیان نہیں ہوسکتا وہ کسی وقت عبادت الٰہی و محاسبہ روحانی سے خالی نہیں رہتا۔ خصوصاً صبح کے وقت کہ جسمیں نورپاشی اور بہ روز روشنی کا آغاز ہوتا ہی اور دوپہر کو کہ آفتاب عالمتاب کا فروغ سارے جہان پر پھیلتا ہے اور طرح طرح کی نشاط کا سرمایہ بنتا ہے اور شام کے وقت کہ اہل زمین کے آگے سے روشنی کا دسترخوان اُٹھ جاتا ہے اور جو نور کو دوست رکھتے ہیں وہ سراسیمہ ہوتے ہیں اور آدمی

رات کو انجمن ہستی کا روشنی افزا و بلندی گر تا ہوا ہی اور اندھیری رات کے غمزدوں کو خوشدلی کی نوید پہنچاتا ہے یہ سب بزرگ اشت ایزدی اور پرستش خداوند جان آفرین کی نیرنگیاں ہیں۔ اگر نادان شپرہ طبع اس بھید کو نہ پہنچے تو اُس میں کس پرتا وان ہی اور کس کا زیان ہی؟ (ان اوپر کے فقروں کا مطلب یہ ہی کہ صبح و دوپہر و شام و آدھی رات کو پادشاہ آفتاب کو خدا کی نیرنگی کا مظہر سمجھکر عبادت کرتا ہی۔ مگر نادان اسکو نہ سمجھیں تو اس میں کس کا قصور ہے) ہر شخص جانتا ہے کہ منعم کی سپاس گذاری اور نیایش گرمی ناگزیر ہے نور الانوار (سورج) کی فیض گستری کا شکر کس قوت سے ادا ہو سکتا ہی اور اوسکی نعمتیں جو ہمکو پہنچی ہیں کون گن سکتا ہی۔ سب دانشوروں کے نزدیک پادشاہوں کے طائفہ پر سریر آسمانی کے سلطان کی خاص نظر عنایت ہی پس اس طائفہ پر فرض ہی کہ وہ اسکا شکر ادا کرے اس نظر سے پادشاہ آتش کی تعظیم اور چراغ کی بزرگ داشت کرتا ہے۔ اب میں آفتاب کی فضیلتوں کو بیان کروں یا اس نیر اعظم کی پرتو اندازی کا ذکر کروں یا ہنگامہ تقلید کی بیدانشوں کی گمراہی لکھوں کہ وہ پادشاہ کو آتش پرست جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آفتاب کو معبود مانتا ہے میں ان سب کی ہنسی اڑاتا ہوں۔

پادشاہ کا دل ایسا محبت سے بھرا ہوا ہی کہ وہ جان آزاری اور دلشکنی پر راضی نہیں ہوتا اور جان بخشی اور دلنوازی کرتا رہتا ہی اس لیئے وہ گوشت کی غذا سے پرہیز کرتا ہی۔ مہینوں گذر جاتے ہیں کہ وہ اسکو چھوتا بھی نہیں۔ گوشت گو دلوں کا معشوق ہے مگر صاف باطن اس کی کچھ قدر نہیں کرتے۔ پادشاہ کو مستلذات ظاہری پر کچھ رغبت نہ تھی وہ رات دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتا اور اپنے ہر وقت کو انہیں کاموں میں جو ناگزیر وقت و بائست کار ہیں صرف کرتا۔ رات کو کچھ تھوڑا سا اور دن کو کچھ سو کر وہ آرام لیتا ہی۔ یہ سونا بھی اسکا بیداری پر غالب ہی۔ یہ اس کی عادت ہی کہ رات کو جاگ کر خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہی اور زیادہ تر خاص خلوت کدہ میں حکمت پژوہ و شیوا زبان و صاف دل صوفیوں کی انجمن جمع ہوتی ہے اور ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھ کر دلآویز گفتار کرتا ہے اور پادشاہ اپنے علم سے انکے علم کا امتحان کرتا ہی۔ اس سے گذشتہ زمانہ کے خیالات معلوم ہوتے ہیں اور نئے پیدا ہوتے ہیں۔ سعادت مند جوان ستایش کرتے ہیں اور فرحی و خورمی سے

اپنے دل کا مقصد بر لاتے ہیں اور منصب پیرانہ سال غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انکو نئی رسم و راہ سیکھنی پڑتی ہیں۔ اور اسی صفوت گاہ میں ہوشیار مغز مورخ جمع ہوتے جو چہرہ سخن کی افزایش کاہش سے نہیں بگاڑتے ہیں۔ بات جون کی توں کہتے ہیں اور ہوش افزا پہلی داستانیں بیان کرتے ہیں بزرگ دانش پادشاہ نادر نکتے کہتا ہے اور بحث کے لیے برگزیدہ مضامین پیش کرتا ہے اکثر اوقات عرض ملکی و مالی پادشاہ سننے لگتا ہے۔ ہر کار کے واسطے جتنا وقت مقرر کرنا چاہیے اتنا ہی مقرر کرتا ہے جب ایک پہر رات باقی رہتی ہے تو سب طرح کے غنیاگر جمع ہو کے داخل ہوتے ہیں اور اپنی آواز و ساز ہوش افزائی اور نیایش گری کو آراستہ کرتے ہیں جب رات چار گھڑی باقی رہتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پادشاہ اپنے وحدت کدہ میں جاکر باطن کا ہمرنگ ظاہر کو کرتا ہے اور دنیا و حقیقت میں سیر کرتا ہے۔ رات کے آخر ہونے پر ساتوں ولایت کے شائستہ آدمی اور سپاہی اور سوداگر اور کسان و زر و پیشہ ور اور طرح طرح کے حرفوں کے آدمی جمع ہوتے ہیں اور بادشاہ کے دیدار کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ دن چڑھے وہ کورنش بجا لاتے ہیں جسکا اوپر ذکر ہوا۔ پھر شبستان دولت منتظر اہل حرم مسرت آمود ہوتے ہیں اور اس عرصہ میں دین دنیا کے کام بہت ہو جاتے ہیں۔

دربار بھی ایک طرز جہاں آرا اور تینوں آبادی سلطنت کا ضامن اور حوادث روزگار کی پناہ ہے۔ اسکی آبیاری سے گلشن سلطنت سیراب ہوتا ہے اور امیدوں کے کھیت ہرے ہوتے ہیں۔ پادشاہ رات دن دو بار دربار کرتا ہے اول صبح کی عبادت کے بعد پردہ سے باہر اپنا دیدار دکھاتا ہے۔ اسمیں سب چھوٹے بڑے بغیر سپاہیوں کی دورباش کے پادشاہ کو دیکھتے ہیں اور اسکو درشن کہتے ہیں اسمیں کبھی اور کاموں کا بھی انتظام ہو جاتا ہے دوم دولتخانہ میں پادشاہ آتا ہے۔ اکثر پہر دن چڑھے کبھی آخر دن میں بھی رات کو کبھی ایک منظر پہ جو اس دولتخانہ کی طرف ہوتی ہے بیٹھتا ہے اور کارروائی کرتا ہے کشادہ پیشانی اور شگفتہ روئی سے مسند دادی پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور بغیر اپنی طبیعت کی خواہشوں کے اور رضامندی ایزدی کی آلایش کے عدالت کرتا ہے۔ ہمیشہ کارپرداز ان سلطنت طرح طرح کے مطالب اور رنگارنگ کی درخواستیں موقف عرض میں پیش کرتے ہیں اور ہر ایک کو پادشاہ شائستہ جواب دیکر ہدایت کرتا ہے۔ داد رسی کی افزونی اور بر

(۱۹) آئین دربار

مزاج روزگار کی شناسائی سے برخلاف پہلے فرماں روایوں کے وہ ہستی کے ذرّات کو کل نما آئینہ جانتا ہے اور جن چیزوں کو ظاہر میں چھوٹا و کمتر گنتے ہیں اُن پر پادشاہ توجہ کرتا ہے اور اہل جہاں کی آسودگی کو اپنی آسایش جانتا ہے اور ایسی چھوٹی باتوں پر متوجہ ہونے سے ملول نہیں ہوتا پادشاہ کی درشن کے وقت نقارہ بلند آوازہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو اطلاع ہو جاتی ہے۔

(۱۶) آئین کورنش و تسلیم

جو ظاہر میں درست یا بہتے ہیں وہ فرماں روایوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کی پراگندگیوں کو وہ دور کرتے ہیں لیکن ژرف نگاہ روشن ضمیر یہ جانتے ہیں کہ دار الملک معنی بغیر اس گروہ ایزدی کے کسی اور صورت سے سرانجام نہیں پاسکتا اور انہیں کی قدسی بارگاہ میں خودبینی کا نقش مٹ سکتا ہے اور نیازمندی کے پیش طاق کی آرایش ہو سکتی ہے اس سبب سے فرہنگ آرا اور رنگ نشینوں نے اپنی رسائی کے موافق نیایش گری کا آئین مقرر کیا ہے بعض نے صرف سر کا جھکانا بعض نے کچھ اور۔ اس شہنشاہ نے یہ مقرر کیا ہے کہ روے دست کو پیشانی پر سر جھکا کر رکھنا۔ اس کو اس وقت کورنش کہتے ہیں یعنی سر کو جھکے ساتھ زندگانی محسوس و معقول وابستہ دست نیاز میں لیکر محفل مقدس میں نثار کرنا۔ اور اپنے تئیں فرماں پذیری کے لیے آمادہ کرنا ایسا آئین ہے کہ بندگان عاطفت پذیر دست راست کی پشت کو زمین پر رکھ کر آہستگی کے ساتھ اوٹھاتے ہیں اور سیدھے کھڑے رہ کر روے دست کو تارک سر پر رکھتے ہیں اور اس روش سے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم خود اپنے تئیں سپرد کرتے ہیں اس کو تسلیم کہتے ہیں۔

پادشاہ فرماتا تھا کہ ایک دن باپ نے اپنا تاج خاص عنایت کیا وہ فراخ تھا میں اُس کو ہاتھ میں اُستوار پکڑ کر کورنش جس طرح اوپر بیان ہوئی بجالایا۔ میرے باپ نے اوس کو پسند کرکے یہی طریقہ کورنش و تسلیم کا جاری کر دیا۔ رخصت۔ ملازمت۔ منصب۔ جاگیر۔ و تشریف و اسپ کی بخشش کے وقت تین دفعہ تسلیم کی جاتی ہے اور باقی اور مراتب داد و دہش اور طرح طرح کی عنایتوں کے وقت میں ایک تسلیم کی جاتی ہے ہر نوکر اپنے آقا کے ساتھ اسی طرح زندگانی بسر کرتا ہے۔ اور اسکو اپنی دولت افزائی کا سرمایہ سمجھتا ہے اس لیے جو بندے پادشاہ سے ارادت خاص رکھتے تھے اونہوں نے سجود نیایش کا اضافہ کورنش و تسلیم پر

آئین ایستادہ و نشست

کیا ہے اور اس کو سجدۂ ایزدی سمجھتے ہیں۔ کیونکہ پادشاہ دادار بیہمال کا ایک نمونہ والا ہے۔ اور
آفتاب جو کہ ایک پرتو جہاں افروز ہے۔ بہت سے آدمی یہ معنی سمجھکر اس روش پر مائل ہو کر
سعادت پر سعادت حاصل کرتے تھے۔ مگر اس سبب سے کہ تیرہ دل لوگ اسجدہ کو آدمی کی پرستش
سمجھتے تھے۔ شہریار کارشناس نے احمقوں کو اور سب درجے کے آدمیوں کو سجدہ سے باز رکھا
اور دربار عام میں اپنے پیش خدمتوں کو بھی سجدہ سے منع کر دیا۔ انجمن خاص میں تھوڑے سے
بیدار بخت بندوں کو حکم تھا کہ وہ سجدہ سپاس گذاری کا ادا کرکے بیٹھیں۔ اس فرمائش اور اس
باز داشت سے خاص و عام دونوں کو کامیاب اور گروہا گروہ آدمیوں کو شائستگی پر مطلع کرتا ہے۔ جب
پادشاہ تخت پر بیٹھا ہو تو جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ اول کورنش بجالاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر اپنی
منزلت کے موافق آگے ہاتھ کو اس طرح رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ
کی کہنی پر اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں دہنے ہاتھ کی کہنی پر ہوتی ہیں۔ بزرگ شاہی تخت سے ایک گز
سے زیادہ نزدیک اور چار گز سے زیادہ دور نہیں کھڑے رہتے اور جب بیٹھتے ہیں تو دو گز سے کم
اور آٹھ گز سے زیادہ دور نہیں ہوتے متوسط شاہزادے کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈیڑھ گز سے ۶ گز تک دور
بیٹھتے ہیں ۳ گز سے بارہ گز تک تخت سے نزدیک و دور ہوتے ہیں اور درجہ سوم کے شاہزادے
بھی ایستادہ و نشست میں اسی نسبت سے تخت سے فاصلہ رکھتے ہیں۔ پادشاہ اپنی محبت کے سبب
خردسال شاہزادوں کو زیادہ قریب رکھتا ہے اور اول درجہ کے امیر کھڑے ہوتے ہیں تخت سے
۳ گز سے ۱۵ گز تک دو بیٹھتے ہیں ۵ گز سے ۲۰ گز تک نزدیک و دور ہوتے ہیں دوسرے مرتبے
کے بڑے امیر ۳½ گز نیچے اور باقی اور امرا ۱۲½ گز دور ہوتے ہیں اور باقی اور لوگ یسال میں
کھڑے رہتے ہیں اور ایک دو زیادہ نزدیک بھی ہوتے ہیں (یسال سپاہ کے بازو کو کہتے ہیں) تخت
کے آگے جگہ خالی رہتی تھی اور اسکے دو بازوؤں میں سے ایک بازو میں شاہزادے اور بڑے بڑے
امرا اور اعلیٰ درجے کے عہدہ دار و منصب دار اور دوسرے بازو میں قور اور ملا و علما نشست
و برخاست کرتے تھے۔

(۶۷) آئین [illegible]

اگرچہ کام ہر روز بے شمار ہوتے ہیں مگر اس میں ۵ کام بیان کیے جاتے ہیں جو ہمیشہ

کیے جاتے ہیں اُن میں فرق نہیں ہوتا۔ انجمن داد و دہش میں طرح طرح کے آدمی پادشاہ کے حضور میں
آتے ہیں۔ اور اُن کی لیاقت کا امتحان ہوتا ہے بعض آدمی مرید ہونے کو آتے ہیں بعض آدمی اپنے
امراض کی دوا لینے کے لیے بعض دین کی دشواریوں کے حل کرنے کے لیے بعض دنیا کی مشکلات کی
چارہ پژوہی کے واسطے۔ گروہا گروہ۔ تورانی۔ ایرانی۔ رومی۔ فرنگی۔ ہندی۔ کشمیری آدمیوں کے گروہوں کا
ماہوارہ کارپردازان دولت بعض آئین کے موافق مقرر کرتے ہیں۔ اور بخشی انکو پادشاہ کے روبرو
لاتا ہے۔ پہلے یہ آئین تھا کہ وہ اسپ براق کے ساتھ آتے تھے۔ اب سوا احدی کے گھوڑے کے
کوئی اور روبرو نہیں آتا بعض آدمیوں کا وظیفہ کم وزیادہ ہوتا ہے۔ مگر پادشاہ اس تفصیل میں ایسی
گرم بازاری رکھتا ہے کہ بیشتر لوگوں کا اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ہر روز جو آدمی پیش ہوتے ہیں انمیں
فزونی وکمی ہوتی رہتی ہے۔ دوشنبہ کے روز جسقدر سوار کہ ہفتہ سابق کے بعد ملاحظہ سے باقی رہتے
ہیں۔ پادشاہ کی نظر کے آگے گذرتے ہیں۔ جتنے سوار کوئی شخص پیش کرتا ہے۔ اس کو فی سوار دو
دو دام دیئے جاتے ہیں کہ جس سے سپاہ کی کارافزائی وخدمت آموزی ہو۔ احدیوں کو بھی۔۔
اسی طرح خاص بکچی پیش کرتے ہیں۔ پادشاہ اس گروہ کا اضافہ تنخواہ ہمیشہ کرتا ہے۔ چونکہ آئین یہ ہے
کہ جب احدی کا گھوڑا مرجاے تو وہ گھوڑا نہ خریدے۔ بلکہ اس کو گھوڑا سرکار سے ملے اور ماہوارہ
اور انعام میں اس کی قیمت مجرا لی جاے اس لیے وہ احدی بھی پیش ہوتے ہیں جنکے گھوڑے
مرگئے ہیں۔ نوئینان بزرگ اور بڑے امرا کچھ ملازموں کے لیے استدعا منصب کرتے ہیں وہ بھی
پیش ہوتے ہیں اور انکے درجہ کے موافق تنخواہ مقرر ہوتی ہے پچاس روپیہ ماہوار سے کم یہ
درخواست نہیں ہوتی۔ ہر کارخانہ کے نوکروں کا ماہیانہ اس بارگاہ میں مقرر ہوتا ہے اور
خدمتیں نوکروں کے لیے نامزد ہوتی ہیں۔

آئین رہنمونی

خرد بخش جہان آرا خدا جب چاہتا ہے کہ مردم زاد کا گوہر ظاہر ہو اور اس کے حوصلہ کی تنگی و
وفراخی سب پر عیاں ہو تو انمیں غبار دورنگی کو اُٹھاتا ہے اور دین و دنیا کا نقش بناتا ہے انمیں
سے ہر ایک کا جُدا جُدا ایک خداوندگار پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی نکوہش میں آویزش
کرتا ہے۔ ناتواں بینی اور بیدانشی اپنا عیار نمودار کرتی ہے۔ قدردانی و مہراندوزی

بڑی ہنگی ہو جاتی ہے دگرنہ دین کیا اور دنیا کیا ہے۔ ایک حسن دلآویز ہے۔ جو چندہزار پردوں کو چمکاتا ہے۔ اور ایک گلیم لمبی چوڑی بچھی ہوئی ہے جسمیں گوناگوں رنگ چہرہ روشن کررہے ہیں۔

قطعہ

درحقیقت نسبِ عاشق ومعشوق یکی ست	بوالفضولان صنم وبرہمنے ساختہ اند
یک چراغ است دریں خانہ کہ از پرتو آں	ہر کجا می نگرم انجمنے ساختہ اند

ایک شخص اپنے نفس پہ لعنت ملامت کرنی اختیار کرتا ہے۔ دوسرا اہل جہاں کی نگہبانی کو اپنی پاسبانی سمجھتا ہے۔ ایسے ہی گروہا گروہ آدمی اپنے خیال کے موافق اعتقاد رکھتے ہیں اور خواب وخیال میں نشاط بازی کرتے ہیں جب خوی وعادت چھوٹتی ہے اور علم بڑھتا ہے پردۂ تقلید کا تانا بانا ٹوٹتا ہے اور چہرہ یک رنگی نمودار ہوتا ہے۔ ہر گھر کو فروغ دانائی روشن نہیں کرتی اور ہر دل شناخت کا پذیرا نہیں ہوتا اور اگر کسی کو شناسائی بہم پہنچ جاتی ہے تو وہ ان جان گزوں کے خوف سے بنی آدمی کی صورت ہی خموشی اختیار کرتا ہے اگر کوئی اپنی پُردلی کے سبب سے کچھ کہنے لگتا ہے تو سعادت سگالان سادہ لوح اسکو دیوانہ کہہ کر پایہ اعتبار سے ساقط کردیتے ہیں اور بدگو اہرلان تا ز جام کفر والحاد کہہ کر اسکو نیست ونابود کردیتے ہیں۔ جب کسی قوم کی بختمندی سے ایسا وقت آتا ہے کہ حق پرستی اسکے شامل حال ہوتی ہے تو اس میں ایسا پادشاہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں معنی کی مشیوائی بھی اسکے حوالہ ہوتی ہے اس کو علم بغیر کسی آدمی کے توسل کے حاصل ہوتا ہے اور اوسکی لوح خاطر سے دوزی کا نقش بالکل مٹ جاتا ہے کبھی وہ وحدت کو جلوہ زار کثرت میں دیکھتا ہے اور کبھی اس کے برخلاف عشرت اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ اورنگ تمکین پر بیٹھتا ہے اور غم وشادی سے باہر ہو کر یکساں نسبت سے زندگی بسر کرتا ہے چنانچہ یہی حال شہنشاہ اکبر کا ہے۔ یہ شہریار دوربین ایک مدت تک بیگانوں کے طور پر پردہ رہا اور اس کار سے اپنے تئیں ناآشنا رکھا مگر جس چیز کو خدا چاہتا ہے اس روکنے کی کون قدرت رکھتا ہے؟ ناگزیر پادشاہ نے رہنمونی اختیار کی اور اس کو رضامندی ایزدی شمار کرکے ہدایت کا دروازہ کھولا اور جویائی کے دشت کے تشنہ لبوں کو سیراب کیا۔ طرح طرح کے ارباب تجرد سناسی جوگی سیوڑہ قلندر حکیم صوفی کی

اور گروہا گروہ اہل تعلق سپاہی سوداگر پیشہ کشاورز کی چشم آگہی کو کھولا اور گوہر بینائی کو فروغ دیا
ترک۔ تاجیک۔ خرد۔ بزرگ۔ آشنا۔ بیگانہ۔ دور نزدیک پادشاہ کی نذر کو اپنی بستگی کی گرہ کشائی
سمجھتے ہیں اور اپنے کام روائی کے وقت پادشاہ کے حضور میں حاضر ہو کر نیایشگری کرتے
ہیں۔ بہت سے آدمی جو دوری راہ کے سبب سے یا قدسی آستان کی ہجوم کی وجہ سے حاضر نہیں
ہو سکتے وہ غائبانہ اپنے تئیں نثار کرتے ہیں اور سپاس گذاری بجا لاتے ہیں۔ انتظام ولایت کے
لیے۔ ملک کی تسخیر کے واسطے شکار کی نشاط کے لیے پادشاہ سفر کرتا ہے تو قصبہ و شہر کم ایسا
ہوتا ہوگا۔ جہاں گروہ کے گروہ عورت مرد ہاتھ پر نثار رکھے ہوئے اور زبان پر نیایشگری لیے
ہوئے اوس کی طرف متوجہ نہ ہوتے ہوں اور جبین اخلاص کو رگڑ کر اپنی زندگی کی کارسازی کو
نہ کہیں اور پادشاہ کی دستگیری کی داستانیں نہ پڑھیں یعنی لوگ آن کر کہتے ہیں کہ ہمنے یہ تیری نذر
مانی تھی جس سے ہمارے کام تیری دستگیری سے نکل گئے پادشاہ سے بہت آدمی سعادت جاوید
کی اندیشۂ آبادی کی۔ کردار گزیدہ کی۔ صورت کی تنومندی کی۔ آنکھوں کی روشنی کی بیٹے کے پیدا
ہونے کی۔ دوستوں کے ملنے کی۔ زندگی کے دراز ہونے کی۔ جاہ و مال کی افزایش کی
اور اور آرزوؤں کے برلانے کی درخواست کرتے ہیں۔ پادشاہ ہر ایک کو شائستہ جواب دیتا ہے
اور انکی اندرونی سراسیمگی کا علاج کرتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ بہت سے آدمی پیالے
پانی سے بھر کر پادشاہ پاس دم کرانے کے لیے نہ لاتے ہوں وہ نیازمندی کے ساتھ پانی کو
ہاتھ میں لیتا ہے اور آفتاب جہانتاب کے پرتو میں رکھتا ہے اور اس طرح لوگوں کی تمنا کو پورا
کرتا ہے بہت سے بیمار جنکو اپنی زندگی سے مایوسی تھی اور بڑے بڑے طبیبوں نے ان کو جواب
دیدیا تھا وہ اس پادشاہ کے علاج سے تندرست ہو جاتے ہیں۔

پادشاہ پاس جو لوگ مرید ہونے آتے ہیں اونکے مرید کرنے میں وہ درنگ کرتا ہے اور کہتا ہے
جب ہم ہی خود رسیدہ نہ ہوں تو کیسے رہنمائی کا دم بھر سکتے ہیں جب وہ کسی شخص کی پیشانی میں
راستی کی نشانی بہت ظاہر دیکھتا ہے اور اوسکی جویائی روز بروز زیادہ ہوتی ہے تو اوس کا
مرید کرنا قبول کرتا ہے اور اتوار کے دن آفتاب عالمتاب کی فروغ میں وہ اپنے دل سے

مقصد پر پہنچتا ہے باوجود اس تنگ گیری اور دشوار پسندی کے ہر طائفہ کے ہزاروں
آدمی مرید ہوتے اور اسکے ساتھ ارادت اپنی سعادت سمجھتے ہیں جب کوئی مرید ہوتا ہے
تو اپنی پگڑی کو اوتار کر ہتیلی میں لیتا ہے اور پادشاہ کے قدموں پر سر رکھتا ہے اور زبان
حال سے کہتا ہے کہ خود آرائی اور خویشتن گزینی کو کہ طرح طرح کی گزند دیتی ہے دور کرکے میں
دل سے پادشاہ کی طاعت کرتا ہوں۔ پادشاہ اوس کے سر کو اوٹھاتا ہے اور اوسکی پگڑی سر پر
پہناتا ہے۔ اور شصت خاصہ کہ اسپر اسم اعظم اور طلسم اقدس اللہ اکبر نقش ہوتا ہے اسکو دیتا ہے
اور جسکے معنی یہ تلقین ہوتے ہیں **مصرع** شصت پاک و نظرے پاک خطا نہ کند ۔ (شصت کے
معنی کانٹے کے اور چھلے کے ہیں۔ شاید پادشاہ کوئی چھلا اپنے مریدوں کو دیتا ہوگا یا اس سے
مراد شبیہ ہے جو بدایونی نے لکھا ہے کہ پادشاہ مریدوں کو بجائے شجرہ کے شبیہ دیتا تھا اور وہ
غلاف میں لپیٹ کر مرید کے سر پر رکھی جاتی تھی)

اعلام دین الٰہی

پادشاہ کے مرید جب آپسمیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک اللہ اکبر کہتا۔ دوسرا
جل جلالہ جواب دیتا۔ پادشاہ کی غرض اس سے یہ تھی کہ یاد الٰہی میں لوگ اس طرح سیراب دل
وتر زبان و شیرین کام ہوں اور سرچشمہ ہستی (خدا) کو فراموش نہ کریں۔ پادشاہ کی فرمایش تھی کہ اس
کے مرید وہ آش کہ مرنے کے بعد لوگ پکاتے ہیں وہ پیدا ہونے کے دن پکائیں کہ سفر کا توشہ
واپسیں پہلے سے پہنچے۔ ولادت کے دن ایک انجمن جمع کریں اور طرح طرح کی نعمتوں کا خوان
بچھائیں۔ بہت خیرات کریں کہ راہ دراز کا زاد آمادہ ہو۔ پادشاہ نے مریدوں کو یہ حکم
بھی دیا ہے کہ گوشت کھانے سے پرہیز کرنے میں کوشش کریں وہ اوروں کو گوشت
کھلائیں مگر خود نہیں چھوئیں اور اپنی ولادت کے مہینے میں گوشت کے پاس بھی نہیں جائیں
جس جانور کو خود حلال کریں اسکے پاس نہیں جائیں اور نہ اسکو کھائیں قصاب ماہی و
کنجشک گیر کے ساتھ ہمکاسہ ہونے کی انکو ممانعت تھی حاملہ۔ بوڑھی۔ بانجھ۔ نابالغ عورت
کے ساتھ ہم بستر ہونا انکو منع تھا۔

خیالات مذہبی اکبر کے ہم نے جدا لکھے ہیں انکو پڑھو

سب سے اول نادر جانور ہاتھی پادشاہ دیکھتا ہے - ہر روز پہلے خاصگی فیل مع سازو پیراستہ کے حضور کے پیشگاہ میں لاتے ہیں - اور اول تاریخ ماہ الٰہی کو دس دس ہاتھی اور بعد ازان اور ہاتھیوں کے حلقے موافق انکی شمار کے ملاحظہ میں آتے ہیں - اور روز دوشنبہ کو دس بیس تک تبلچی اس ملاحظہ کے وقت حاضر رہتا ہے اور وہ پادشاہ کے تمام سوالوں کا جواب دیتا ہے اور ہر ہاتھی کا نام بتاتا ہے - پادشاہ کے ہاں پانچ ہزار ہاتھی ہیں - اور ہر ہاتھی کا نام جدا ہے - جب ایک دفعہ سب ہاتھیوں کو پادشاہ ملاحظہ کر لیتا ہے تو پھر خاصگی ہاتھیوں سے معائنہ شروع ہوتا ہے - پادشاہ سب ہاتھیوں کا درجہ اور قیمت مقرر کرتا ہے اور انپر مناسب داغ لگواتا ہے -

پادشاہ اول چہل گانی گھوڑوں کو دیکھتا ہے اسکے بعد شاہزادوں کے گھوڑے اور بعد اس کے راہ وار خاصہ و خانہ زاد اور طویلے ملاحظہ ہوتے ہیں - جب وہ یہ ری گھوڑے (جن گھوڑوں کی قیمت دس اشرفی ہے) کا ملاحظہ ہو چکتا ہے گوٹ - قزاق جنپر سپاہی سوار ہوتے ہیں دبارگیر معائنہ ہوتے ہیں - قیمت کے موافق انکے ملاحظہ میں بیشی و کمی ہوتی ہے ان کے قیمت کے تین درجے اول و دوم و سوم مقرر ہوتے ہیں - اونٹ اول خانہ زاد ملاحظہ ہوتے ہیں - اور ہر روز پانچ قطار نظر کے روبرو آتے ہیں - گاؤ موافق قیمت کے دس جوڑی ملاحظہ ہوتی ہیں - چہارشنبہ سے اس دایہ روزگار کا ملاحظہ شروع ہوتا ہے - دیوالی کے روز کہ اس مُلک کے بڑے تہوار کا دن ہے اور گروہا گروہ ہندو اُس روز اس جانور کی نیایش کرتے ہیں اور اسکی بزرگداشت کو عبادت سمجھتے ہیں - پادشاہ کے حکم سے آراستہ ہوکر پادشاہ کے ملاحظہ میں آتی ہیں جس سے دلوں کی صید ہوتی ہے - پنجشنبہ کو دو بار کش خچروں کا ملاحظہ شروع کرتا ہے چھ قطار بہ ترتیب قیمت ملاحظہ میں آتی ہیں - پہلے یہ دستور تھا جو اوپر مذکور ہوا مگر اب روز یکشنبہ کو گھوڑے دوشنبہ کو شتر و خچر و گاؤ و سہ شنبہ کو سپاہ و چہارشنبہ کو دیوان وزارت - پنجشنبہ کو دادخواہ - آدینہ کو شبستان - شنبہ کو ہاتھی دیکھے جاتے ہیں -

پادشاہ نے ہر جانوروں کی خوراک مقرر کی ہے جس سے وہ تنومند ہو۔ اور جانوروں کی
لاغری و فربہی کے اندازے مقرر کیے ہیں اور انکے موافق خوراک کی کمی و بیشی کے قاعدے
مقرر کیے۔ پادشاہ یہ چاہتا ہے کہ یکجہتی کی نزہتگاہ میں طرح طرح کے آدمی عشرت اندوز ہوا کریں
اور دوستی و یکتا دلی کی بزم آراستہ ہو تاکہ کام شائستگی سے ہوا اور انتظام کو استحکام ہو
چونکہ سب آدمیوں کی خرد حقیقت گزیں نہیں ہوتی اور آگہی کی داستان کو ہر گوش نہیں
سنتا اس لیے پادشاہ نے ہنگامۂ نشاط بازی کو گرم کیا۔ اس کام میں بہت آدمیوں کو لگایا۔
جنگ آہو۔ رنگ و روش اس کی دل گزیں و آفت و خیز اسکی شادمانی بخش ہے اس لیے
پادشاہ اس پر بہت توجہ کرتا ہے اور ان وحشیوں کو اُنس پذیر کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سو
ایک ہرن خاصہ ہیں اور ہر ایک کا نام و صفت جدا ہے۔ انسے دس دس ہرنوں پر ایک نگہبان ہے
تین طرح کے ہیں۔ ایک خانہ پرور جو دشتی سے خوب لڑتے ہیں دوم وہ جو بیچ ہوئے ہرن
سے لڑتے ہیں سوم صحرائی سے گرم تر پرخاش کرتے ہیں۔ ان ہرنوں کے لڑنے پر شرطیں
بدی جاتی ہیں اور ہار جیت ہوتی ہے۔

پادشاہ اپنے مقربین میں سے ۴۲ آدمی منتخب کرتا ہے اور انہیں سے دو دو کو حریف
بناتا ہے جنکی ۲۱ مثل بنتی ہیں۔ ہر مثل میں ایک فیل۔ گاؤمیش۔ گاؤ۔ قچقار۔ بز۔ خروس لڑائی
کے لیے عنایت ہوتے ہیں۔ ہر زمانہ میں گاؤ و بز کی لڑائی کا پتا نہیں ملتا۔ مگر اب وہ لڑتی ہیں
شرط کے روپیوں کی تعداد ہر منصب کے موافق مقرر ہوتی ہیں اور انکی ہار جیت ہوتی ہے۔

عمارت کے لیے آئین کا مقرر ہونا ضروری ہے۔ اس سے کاخ بلند ہوتے ہیں
سپاہ اس سے عشرت اندوز ہوتی ہے ملک کی آبرو اس سے پدیدار ہوتی ہے۔ بزم
تعلق کے اہل تو شہر کو تلاش کرتے ہیں اور شہر بغیر عمارت کے رونق نہیں پاتا۔ اس لیے
پادشاہ نے بڑے عالی مکانات بنائے ہیں آب و گل کے لباس میں جان و دل کا کام
بنایا۔ بڑے اونچے قلعے بنائے ہیں۔ وہ ضعیفوں کو آرام دیتے ہیں اور سرتابوں کو ڈراتے
ہیں ......

(۲۰) آئین جانوروں کی لڑائی کا اور اس پر شرطوں کے مقرر ہونے کا

(۲۱) آئین در باب عمارت

فرماں پذیروں کو عشرت افزوز کرتے ہیں اور دل فریب نشیمن اور روح افزا منظر تیار کرائے ہیں وہ گرمی سردی باراں کی عمدہ پناہ ہیں اور شبستان اقبال کی پردگیوں کی آرام کی جگہہ ہیں سرائیں کہ مسافروں کی سرمایہ آسودگی اور مفلس غریبوں کی آسائش کی جگہہ ہے جابجا بنائی ہیں۔ بہت سے آبگیر و چاہ کہ زندوں کے جاندارو اور زمین کی آبرو ہیں بنائے ہیں۔ مدرسوں اور ریاضت خانوں کی بنیاد رکھی ہے۔ عمارت کے کام سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں انکے بنانے والے بنوانے والوں کو خوب لوٹتے ہیں۔ اس لیے پادشاہ نے عمارت کے مصالح اور راج مزدوروں کی اجرت کی شرح اور عیار عمارت و اندازہ تراش اور گرانی سب کی قوت کے آئیں مقرر کردیئے ہیں۔

دفتر دوم سپاہ آبادی

پادشاہ اپنی سپاہ کو عمدہ پند و نصائح سے ہدایت کرتا ہے اور طرح طرح سے انکو ناہنجار روش سے روکتا ہے۔ سپاہ کو اس کی کثرت کے سبب مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہی کہ جس کے سبب سے ملک میں امن و امان رہتا ہے۔ پادشاہ نے بعض قوموں کی صرف فرماں برداری کو کافی سمجھا ہے اور انکو بہت کاموں سے رہائی دی ہی اور اس سبب بہت سے وحشی منش زمینداروں نے اطاعت قبول کرلی ہی۔ چالیس لاکھ چالیس ہزار سے کچھہ زیادہ سپاہ کا سرانجام ملک کے زمیندار کرتے ہیں۔ بعض سپاہی اس بیچ مجبور کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑوں کے داغ لگوائیں۔ انکی چہرہ نویسی ہوتی ہی اور انکے درجے مقرر ہوتے ہیں۔ بعض سپاہی فقط ایک سردار کی ہمراہی اور پرستاری کے لیے نامزد ہوتے ہیں۔ جو یکتائی کے لیے شائستہ ہوتے ہیں ان کے اعتبار زیادہ کرنے کے لیے انکا نام احدی رکھا ہی۔ جس گروہ کو پادشاہ نے سرکردگی کے لیے سزاوار جانا ہی اسکو سرگروہ بنایا ہی۔ بہت سے سپاہی مفلس ہیں مگر شائستہ ہیں ان کی سواری کے لیے اقطاع مقرر کردیئے اور ان کو مجبور نہیں کیا ہی کہ وہ اپنے گھوڑوں کو داغ لگوائیں۔ ایرانی و تورانی سپاہ کو پچیس ۲۵ روپیے اور ہندوستانی کو بیس روپیے اور جو خالصہ کا عمل پرداز ہوتا ہے وہ زر مالگذاری وصول کرتا ہے وہ پندرہ روپے ماہوار پاتا ہے اس طرح کی سپاہ کو برآوردی سپاہ کہتے ہیں۔

بعض منصب دار جنکو سپاہیوں کا بہم پہنچانا دشوار ہوتا ہے تو ان کو ایسے سپاہی جنکے گھوڑوں کے داغ لگے ہوئے ہوتے ہیں دیئے جاتے ہیں اور اس سپاہ کو داخلی کہتے ہیں وہ دہ ہزاری منصب دار کی سپاہ میں ہزاری منصب دار تک اور ہشت ہزاری منصب دار کی سپاہ میں ہشت صدی منصب دار تک اور ہفت ہزاری منصب دار کی سپاہ میں ہفتصدی منصب دار تک۔ اور پنج ہزاری منصب دار کی سپاہ میں پانصدی منصب دار تک، پانصدی منصب دار کی سپاہ میں صدی منصب دار تک داخل ہو سکتے تھے اور ان سے کم منصب دار اعلیٰ منصب داروں کی سپاہ میں نہیں داخل ہو سکتے تھے۔ بعض منصب داروں کو یاد رمی کے لیے سپاہ دی جاتی تھی اسکا نام لکی سپاہ تھا اس زمانہ میں اس سپاہ کو ترجیح دی جاتی ہے جنکے گھوڑوں پر داغ لگا ہوا ہو۔ اور یہی سپاہ اور سپاہیوں سے برتر ہوتی ہے پادشاہ کا مقصد اعظم یہ ہے کہ سپاہیوں کو چہرہ نویسی کے وقت گھوڑوں کی عاریت مانگنے سے یا تبدیل کرنے سے روکے۔ اور پادشاہی گھوڑوں کی نگاہداشت سے وہ دولت جمع کریں۔ آدمی آزمندی اور کج بینی سے اپنا فائدہ اپنے زیاں میں جانتا ہے اس سلطنت کی ابتدا میں جب پادشاہ پردہ گزیں تھا اور ناراستی میں بہت سے کارپرداز تگا دو کرتے تھے۔ نوکر شتر بے مہار رہتے اور بے حیائی سے شوم ہو جاتے تھے۔ کمینے زربندی گھوڑے کو بیچ ڈالتے تھے اور پیادے بن جاتے تھے۔ یا عمدہ گھوڑے کی عوض میں ٹٹو گدھا سا لے لیتے تھے۔ اور رہا ہوا تنخواہ لینے میں وہ بیہودہ باتیں بناتے اور ناخوش گفتگو کرتے اور سرزنش پاتے۔ پادشاہ نے چہرہ نویسی کا قاعدہ مقرر کیا اور مواجب تنخواہ کو دیکھنے پر قرار دیا اس سے خود کامی بند ہو گئی اور لشکر کے سرکار کو اور ہی رونق ہو گئی۔ آئین داغ کو احمق جانور کا آزار جانتے تھے اور اپنی بیدانشی سے اسکو مہر افزائی نہیں سمجھتے تھے۔ نیک و بد میں حریص لالچی تمیز نہیں کرتے۔ اور نہ آپ اپنے سے نہ خدا سے شرم و حیا کرتے ہیں۔ اور تباہ کرداری میں کام روائی ڈھونڈھتے ہیں۔ اور اپنی جان گزائی میں دوا دو کرتے ہیں۔ بعض بد ذاتوں نے بداتی کی اور کسی قدر سپاہ کی کارروائی میں مخل ہوئے اس زمانہ میں گھوڑوں کے عاریت لینے کا عام رواج تھا۔ پادشاہ نے چہرہ نویسی پر جبانور کے

داغ کو زیادہ کیا۔ اس نے ہر جا سبکسروں کو حقیقت کا سبق سکھا کر گراں سنگ کیا اور فرومایہ
مگس خصلتوں کو بزرگ منشی اور مردمی سکھائی۔ افسردہ دل آزمندوں نے توانگر دلی کی
نشاط حاصل کی اور سپاہی کے سرابستان نے اور ہی آبیاری پائی اور خزانہ معمور رہوا۔
یہ کارشناس اور اندیشہ کی درستی کے نتیجہ ہوتے ہیں۔ ظاہر میں گھوڑے کو داغ لگتا ہے
اور حقیقت میں اس سے روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔

آئین داغ
شلہ جلوس میں داغ کا رواج ہوا۔ دل گزیں روش سے آدمیوں کی پایہ شناسی مقرر ہوئی
جاگیروں کے مراتب مقرر ہوئے ہر ایک کی بائست تحریر میں آئی اُسکا دستور مقرر ہوا زمانہ کی گرانی
اور ارزانی کا حساب لگا کر اس کے اوسط پر کارروائی ہوئی اس سے حساب کا سرشتہ مستحکم کیا گیا
اور ایک شائستہ قانون مقرر ہوا۔ سپہ آرا بخشیوں کے سر پر سے سفارش کا بھاری بوجھ اُتر گیا۔
اور وہ نزہت سرائے شادمانی میں آئے اوّل بارگی (گھوڑے) سات طرح کے مقرر ہوئے اور
ہر ایک کا راتبہ قرار پایا۔ عربی۔ عراقی۔ مجنس۔ ترکی۔ یابو۔ تازی۔ جنگلہ۔ اوّل درجہ تازی نژاد کا
یا اُس کا جو اسکی برابر خوش رو اور شگرف کار ہو ماہوارہ اسکا ۷۲۰ دام ہر روز ۶ سیر دانہ (ہر
جانور کی برآورد میں قیمت ایک من کی بارہ دام لگائی جاتی ہے ۲ ½ دام کا گھی ۲ دام کی شکر
اور ۳ دام کی گھاس اور ایک مہینہ میں ۷ دام کی جل وارتک و بال پوش و تنگ جس کا
نام بادشاہ نے فراخی رکھا ہے وگدی و تختہ بند و قیزہ جس کو عوام فائز کہتے ہیں۔ و
انگس ران و خرخرہ و ہتھی (گھوڑے کے دُم کے بالوں کی تھیلی گھوڑے کے صاف کرنے کی
ہے) و دست مال و پایہ بند و میخ و شل اس کی اس کو خرچ یراق اسپ کہتے ہیں۔ ۶۰
دام زین ولگام کے لیے دو ماہ میں ایک دُمچی اور ہر مہینے میں نعل ۷ دام اور ۳ ۶ دام تیمار دار
کو اور جو دو گھوڑوں کی خدمت کرے تو اسکو دو چند تنخواہ کل خرچ ۷۹۴ دام۔ جب
بادشاہ نے سپاہی کی رفاہیت اور آسودگی حال کو دریافت کیا تو اوّل ۱۸ دام کا اضافہ کیا
اور جب بادشاہ نے روپیہ کو ۳۵ دام سے چالیس دام کا کر دیا تو اس سے دام کا
اضافہ اور ہوا علوفہ کی داد و ستد میں روپیہ کی قیمت ۴۰ دام شمار کی جاتی ہے اور پھر

ہر قسم کے گھوڑوں کے لیئے سوا جنگلہ کے دو روپیہ کا اضافہ ہوا۔

اب اس جنگلہ گھوڑے کو برآورد میں نہیں درج کرتے ہیں دوم وہ گھوڑے جو عراق عجم (ایران) میں پیدا ہوئے ہیں۔ یا وہ گھوڑے جو پیکر و کردار میں انکی مانند ہیں۔ یک ماہہ انکا ۶۸۰ دام ان میں سے ۴۵۸ دام ضروری خرچوں کے لیے پہلے گھوڑوں کی نسبت ۲۱ دام کم خرچ ہوتے ہیں۔ یراق میں دس دام اور زین لگام میں ۱۰ دام اور نعل میں ایک دام سوم عراقی مانند یعنی مجنس۔ اکثر انہیں ترکی و عراقی کی نسل سے پیدا ہوتے ہیں ماہیانہ ۵۶۰ دام جسمیں ۳۵۸ دام ضروری خرچوں کے لیئے۔ عراقی سو دام کم خرچ چہارم ترکی یعنی جو گھوڑے توران میں پیدا ہوئے ہیں اگرچہ وہ تنومند اور بالیدہ ہوتے ہیں لیکن مجنس کو نہیں پہنچتے۔ ماہیانہ خرچ ۴۸۰ دام جس میں ۲۹۰ ضروری خرچوں کے لیئے پنجم گھوڑے۔ یابو جو یہیں پیدا ہوتے ہیں۔ ماہوار ۴۰۰ دام آخر دو قسمیں یہیں ہندوستان کی پیدائش ہیں جو ان میں اچھا ہوتا ہے اس تازی جو میانہ ہوتا ہے اس کو جنگلہ اور سب سے بدتر کو ٹٹو کہتے ہیں۔

ہاتھی۔ ان کی سات قسمیں ہیں۔ مست۔ شیرگیر۔ سادہ۔ منجھولہ۔ کرھ۔ پھندرکیہ۔ موکل۔ مست کا ماہوار خرچ ۱۲۰۰ دام دانہ ڈھائی من اور ہاتھی کے تین تیماردار ہوتے ہیں۔ مہاوت۔ و بھوئی و میٹھ اول کا ماہیانہ ۲۱۰ دام اور باقی دو میں سے ہر ایک کا ۹۰ دام پادشاہ نے ۱۲۰ دام کا اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے ان پر داغ لگا تھا مگر اب نہ طرح سے انہیں فرق ہوتا ہے دوم کا ماہوارہ اول سے ۲۲۰ کم دانہ دو من سوم کا ۸۰۰ دام دانہ ڈیڑہ من چہارم کا ۶۰۰ دام دانہ یک من پنجم کا ۴۲۰ دام دانہ ۳۰ سیر ششم کا ۳۰۰ دام دانہ ۱۵ سیر ہفتم کا خرچ برآورد میں نہیں درج ہوتا۔

شتر۔ خرچ ۲۹۶ دام دانہ ۶ سیر ایک دام کی گھاس ایک دام کا یراق۔

گائے۔ خرچ ۱۲۰ دام دانہ ۴ سیر۔ ایک دام کی گھاس ۶ دام کا یراق۔

عرابہ۔ خرچ ۶۰۰ دام۔ چار بیلوں کا خرچ ۴۸۰ دام اور ۱۲۰ دام کا مصالحہ۔

فیل و عرابہ سوائے منصب داروں کے کسی اور کو نہیں ملتے یا اونکو ملتے ہیں جو عمدہ گھوڑے

اور اونٹ و گائے کو داغ کے لیے لاتے ہیں۔

ابو الفضل نے جو لکھا ہے اسکا گوشوارہ بناتے ہیں۔ تاریخ بدایونی سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سپاہ میں اکثر گھوڑے چھٹے درجے کے تھے۔ اکبر نے ہندوستان سے گھوڑوں کے باہر جانے کے واسطے سخت ممانعت کر دی تھی اور اس نے اس کام کے انسداد کے لیے کوتوال مقرر کیے تھے۔ منصب داروں کی سپاہ جو نئے گھوڑے بھرتی کئے جاتے تھے وہ اس گوشوارہ کے موافق خزانہ پادشاہی سے ماہوارہ پاتے تھے۔

اس گوشوارہ سے گھوڑوں کے تمام خرچ خوب معلوم ہوں گے

	اول عربی	دوم عراقی	سوم مجنس	چہارم ترکی	پنجم یابو	ششم تازی	ہفتم جنگلہ	ہشتم ٹٹو
دانہ	۵۴ دام	۵۴ دام	۵۴ دام	۷۲ دام	۷۲ دام	۵۴ دام	۵۴ دام	کچھ نہیں لکھا
گھی	۷۵ دام	۷۵ دام	۶۰ دام		۳۰ دام	۱۰ دام	۵۸ دام	
شکر	۶۰ دام	۶۰ دام	۳۰ دام			۱۰ دام	۴ دام	
گھاس	۹۰ دام	۹۰ دام	۹۰ دام	۶۰ دام	۶۰ دام	۴۵ دام	۳۰ دام	
یراق	۷۰ دام	۶۰ دام	۴۰ دام	۳۰ دام	۲۰ دام	۱۲ دام	۷½ دام	
زین وغیرہ	۶۰ دام	۵۰ دام	۲۰ دام	۱۶ دام	۱۰ دام	۱۰ دام	۱۰ دام	
نعلبندی	۷ دام	۶ دام	۴ دام	۲ دام	۲ دام	۲ دام	·	
تیماردار	۶۳ دام	۶۳ دام	۶۰ دام	۴۵ دام	۴۵ دام	۴۵ دام	·	
میزان اصل خرچ ماہوار	۴۷۹ دام	۴۵۸ دام	۳۵۸ دام	۲۹۸ دام	۲۳۹ دام	۱۸۸ دام	۱۴۵ دام	
اول اضافہ	۸۱ دام	۶۷ دام	۷۲ دام	۵۲ دام	۴۱ دام	۲۲ دام	۲۹¼ دام	
دوم اضافہ	۸۰ دام	۷۵ دام	۳۰ دام	۵۰ دام	۴۰ دام	۳۰ دام	۲۵ دام	
سوم اضافہ	۸۰ دام	۸۰ دام	۸۰ دام	۸۰ دام	۸۰ دام	۸۰ دام	۴۰ دام	·
[illegible]	۷۲۰ دام	۶۸۰ دام	۵۶۰ دام	۴۸۰ دام	۴۰۰ دام	۳۲۰ دام	۲۶۰ دام	۱۶۰ دام

ہمیشہ دوربین خردپژوہ ایک ہی اصول پر قائم رہتے ہیں خواہ وہ زمانہ حال کے
ہوں یا پہلے زمانہ کے یعنی (زنانیاں را با پیشینیان دورائی نباشد) جب تک ہر کثرت میں
وحدہ نہیں پیدا ہوتی اس شورش نہیں مٹتی اور خودکامی کا آشوب نہیں بیٹھتا۔ عناصر کو دیکھ لو
کہ جب تک ان میں یگانگی کی نہ ہو وہ مُردہ ہیں موالید ثلاثہ کو نہیں پیدا کر سکتے۔ جانور گروہا
گروہ جب خود آمیزی کرتے ہیں تو اُن میں خودسری کا نقش مٹتا ہے اور اپنی چارہ سگالی میں
آسایش سے رہتے ہیں اور لپنے سود وزیان کی پاسبانی کرتے ہیں۔ آدمی کا نفس بیانذ فنون
ہے کہ وہ ایک دادگر فرماں روا کا بہت محتاج ہے اسکی پابندگی تھرمان سلطنت کے پاس
گردہی ہے وہ اپنی عجیب عجیب بدذاتیوں سے اور بڑے اندیشیوں سے تُشم دا آزکو تازہ -
شورشیں سکھاتا ہے۔ جانکاہی اور دل آزاری کو دینداری شمار کرتا ہے۔ خدا تعالے
بیدانشی کے غبار بٹھانے کے لیے ایک شخص کو منتخب کرتا ہے اور اسکے کمال کی تائید کرتا ہے
اور روزافزوں توفیق دیتا ہے وہ اپنی شناسائی و دلیری و فراخ حوصلگی سے اہل جہان
کی لڑائیوں کا علاج کرتا ہے اور ہستی کے چشمہ کو سیراب مگر اس میں ایک شخص کی قوت
انجام کار میں کافی نہیں ہوتی تو وہ اپنی یاوری کے لیے اپنی عقل کی روشنی سے چند پسندیدہ
مردوں کو منتخب کرتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے نوکر مقرر کر دیتا ہے اس سبب سے
پادشاہ نے منصب کے پایے دہ باشی سے دہ ہزاری تک قرار دیے ہیں اور پنج ہزاری سے
زیادہ منصب خاص اپنے فرزندوں کے لیے قرار دیا منصب کے چھیاسٹھ مراتب مقرر کئے اور اسم اللہ
کے حرفوں کے عدد بھی بحساب بجد ۶۶ ہیں پس اس میں ایک سعادت سرمدی ہے۔ پادشاہ بعض
کو تو اول دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے اور ایک ہی دفعہ میں بلند پایہ کر دیتا ہے۔ کبھی بعض کا وہ
منصب زیادہ کر دیتا ہے مگر اس کے ہمراہ سوار کم کرتا ہے اپنی کار آگہی سے ہر ایک منصب دار
کے لیے ستور کی تعداد مقرر کرتا ہے اور اس کے سواروں کی لیاقت کے موافق اسکا ماہوار بدلتا
رہتا ہے جس منصب دار پاس سوار اس کے منصب کے موافق ہوتے ہیں وہ اول پایہ کا منصب دار
ہوتا ہے جس پاس آدھی یا اس سے زیادہ ہوتے وہ پایہ دوم رکھتا ہے۔ اور اسیسے

جس پاس سوار کمتر ہوں وہ درجہ سوم کا یوزباشی گیارہ درجے کے ہوتے ہیں۔ اوّل وہ ہے
جس پاس سو سوار ہوں اس کی تنخواہ سات سو روپیہ ماہوار ہوتی ہے گیارہویں درجہ کا
وہ جس پاس کوئی سوار نہ ہو تو وہ داخلیوں میں جس کا اوپر ذکر ہوا شمار ہوتا ہے اور اس کی
تنخواہ پانچ سو روپیہ ماہوار۔ درمیانی نو درجوں کی تنخواہ پر دس سوار کے پیچھے بیس روپیہ
زیادہ ہوتے ہیں۔ پنجہزاری سے دوصدی تک منصب دار ۱۲۱۴ تھے اور یک وپنجاہ صدی
سے لیکر دہ باشی تک - ۱۳۸۸ -

جدول جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منصب داروں پاس کیا کیا سامان ہوتا تھا اور انکا ماہیانہ کیا تھا

منصب	گھوڑے						ہاتھی					بردا			ماہیانہ		
	عراقی	مجنس	ترکی	یابو	تازی	جنگلہ	شیرگیر	سادہ	منجھولہ	کرہا	پھندرکیا	[illegible]	[illegible]	[illegible]	اوّل	دوم	سوم
۱۰۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۶۰۰۰۰		
۸۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵۰۰۰۰		
۷۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۴۵۰۰۰		
۵۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۰۰۰۰	۲۹۰۰۰	۲۸۰۰۰
۴۹۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۷۶۰۰	۲۷۴۰۰	۲۷۳۰۰
۴۸۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۷۶۰۰	۴۰۰	۲۷۳۰۰
۴۷۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۶۶۰۰	۲۶۵۰۰	۲۶۴۰۰
۴۶۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۶۴۰۰	۲۶۲۰۰	۲۶۱۰۰
۴۵۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۶۰۰۰	۲۵۸۰۰	۲۵۷۰۰
۴۴۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۵۲۰۰	۲۵۰۰۰	۲۴۸۰۰
۴۳۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۴۴۰۰	۲۴۲۰۰	۲۴۰۰۰
۴۲۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۳۶۰۰	۲۳۴۰۰	۲۳۲۰۰

[illegible]	گهوڑے						هاتهی					باربردار			ماهیانه		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	اول	دوم	سوم
۴۱۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۲۶۰۰	۲۲۴۰۰	۲۲۴۰۰
۴۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۲۰۰۰	۲۱۸۰۰	۲۱۶۰۰
۳۹۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۱۴۰۰	۲۱۲۰۰	۲۱۱۰۰
۳۸۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۰۸۰۰	۲۰۶۰۰	۲۰۵۰۰
۳۷۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۰۲۰۰	۲۰۰۰۰	۱۹۹۰۰
۳۶۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۹۶۰۰	۱۹۴۰۰	۱۹۳۰۰
۳۵۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۹۰۰۰	۱۸۸۰۰	۱۸۷۰۰
۳۴۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۸۳۰۰	۱۸۰۱۴	۱۸۳۰۰
۳۳۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۸۲۰۰	۱۸۰۰۰	۱۷۹۰۰
۳۲۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۷۸۰۰	۱۷۶۰۰	۱۷۵۰۰
۳۱۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۷۴۰۰	۱۷۲۰۰	۱۷۱۰۰
۳۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۷۰۰۰	۱۶۸ ۰	۱۶۷۰۰
۲۹۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۶۴۰۰	۱۶۲۰۰	۱۶۱۰۰
۲۸۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۵۸۰۰	۱۵۶۰۰	۱۵۵۰۰
۲۷۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۵۲۰۰	۱۵۰۰۰	۱۴۹۰۰
۲۶۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۴۶۰۰	۱۴۴۰۰	۱۴۳۰۰
۲۵۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۴۰۰۰	۱۳۸۰۰	۱۳۷۰۰
۲۴۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۳۶۰۰	۱۳۴۰۰	۱۳۳۰۰
۲۳۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۳۲۰۰	۱۳۰۰۰	۱۲۹۰۰
۲۲۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۲۸۰۰	۱۲۶۰۰	۱۲۵۰۰
۲۱۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۲۴۰۰	۱۲۳۰۰	۱۲۱۰

تنخواہ	گھوڑے						ہاتھی				باربردار				ماہیانہ		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	اول	دوم	سوم
۲۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۲۰۰۰	۱۱۹۰۰	۱۱۸۰۰
۱۹۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۱۹۵۰	۱۱۳۵۰	۱۱۴۵۰
۱۸۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۱۹۵۰	۱۱۳۵۰	۱۱۴۵۰
۱۷۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۱۲۲۰	۱۱۰۰۰	۱۸۰۰
۱۶۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۰۶۰۰	۱۰۴۰۰	۱۰۲۰۰
۱۵۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۰۰۰۰	۹۸۰۰	۹۷۰۰
۱۴۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۹۶۰۰	۹۴۰۰	۹۲۲۰۰
۱۳۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۹۲۰۰	۹۱۰۰	۹۰۵۰
۱۲۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۹۰۰۰	۸۹۰۰	۸۸۰۰
۱۱۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۸۷۰۰	۸۵۰۰	۸۴۰۰
۱۰۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۸۲۰۰	۸۱۰۰	۱۰۰۰۰
۹۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۷۷۰۰	۷۴۰۰	۷۱۰۰
۸۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۵۰۰۰	۴۷۰۰	۴۴۰۰
۷۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۴۴۰۰	۴۰۰۰	۳۸۰۰
۶۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۳۵۰۰	۳۲۰۰	۳۰۰۰
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۸۰۰	۲۷۵۰	۲۷۰۰
۵۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۵۰۰	۲۳۰۰	۲۱۰۰
۴۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۲۰۰۰	۱۷۵۱	۱۵۰۰
۳۵۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۴۵۰	۱۳۰۵	۱۳۵۰
۳۰۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۴۰۰	۱۲۵۰	۱۲۰۰
۲۵۰	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	۱۱۵۰	۱۱۰۰	۱۰۰۰

منصب	گھوڑے						ہاتھی					باربردار			ماہیانہ		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	اول	دوم	سوم
٢٠٠	٢	٤	٤	٤	—	٠	—	٢	—	٢	٠	٤	٠	٨	٩٧٥	٩٥٠	٩٠٠
١٥٠	٢	٤	٤	٤	٠	٠	—	—	—	٠٠	٠	٤	٠	١٠	٨٧٥	٨٥٠	٨٠٠
١٢٥	٢	٢	٢	٤	٤	٠	٠	—	—	٢	٠	١٨ـ ٢	٠	٥	٧٨٠	٧٦٠	٧٥٠
١٢٠	٢	٢	٢	٤	٢	٠	٠	—	—	٢	٠	٢	٠	٥	٧٤٥	٧٤٠	٧٣٠
١٠٠	٢	٢	٢	٢	٢	٠	٠	—	—	—	٠٠	٢	٠	٤	٧٠٠	٦٠٠	٥٠٠
٨٠	٢	—	٢	٢	—	—	٠	٠	—	٢	٠	٢	٠	٤	٤١٠	٣٨٠	٣٥٠
٦٠	—	—	٢	٢	—	—	٠	٠	—	—	٠	٢	٠	٠	٣١٢	٢٨٥	٢٧٠
٥٠	—	—	٢	٢	—	—	٠	٠	—	—	٠	١٨ـ ٢	٠	٢	٢٥٠	٢٤٠	٢٣٠
٤٠	—	—	٢	٢	—	—	٠	٠	—	—	٠	١٥ـ	٠	—	٢٢٣	٢٠٠	١٨٥
٣٠	٠	—	—	٢	٠	٠	٠	—	٠	٠	٠	١٥ـ	٠	—	١٨٥	١٦٥	١٥٥
٢٠	٠	—	—	—	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١١ـ	٠	—	١٣٥	١٢٥	١١٥
١٠	٠	٢	٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠	٨٢½	٧٥

ابوالفضل نے جو ٦٦ منصبوں کو بالتفصیل لکھا ہے مگر آئین ۳۰ میں جو فہرست منصبداروں کے نام کی لکھی ہے وہ ۳۳ منصبوں کی ہے۔ تین شاہزادوں کے منصب دہ ہزاری سے ہفت ہزاری تک بیان کرکے باقی بیس منصب یہ بیان کیے ہیں۔ ۵۰۰۰ و ۴۵۰۰ و ۴۰۰۰ و ۳۵۰۰ و ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ و ۲۰۰۰ و ۱۵۰۰ و ۱۲۰۰ و ۱۰۰۰ و ۹۰۰ و ۸۰۰ و ۷۰۰ و ۶۰۰ و ۵۰۰ و ۴۰۰ و ۳۵۰ و ۳۰۰ و ۲۵۰ و ۲۰۰ و ۱۵۰ و ۱۲۰ و ۱۰۰ و ۸۰ و ۶۰ و ۴۰ و ۵۰ و ۳۰ و ۲۰ و ۱۰۔ تمام آئین اکبری کے نسخوں میں ۹۰۰ و ۳۰۰ کا منصب نہیں لکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گو منصب کے ٦٦ درجے مقرر ہوئے ہوں مگر سب دیئے نہیں گئے ابوالفضل نے اکبرشاہی تمام منصبداروں کے نام پانصدی منصبداروں تک لکھے ہیں اور پھر پانصدی سے کہ اُسنے فہرست بنائی ہے دوصدی تک اُن منصبداروں کے نام لکھے ہیں جو اُس وقت زندہ تھے! ور دوصدی سے جو منصبدار زندہ تھے اُن کی

ان کی تعداد بہ تفصیل ذیل لکھی ہے منصب دار یک صد و پنجاہ ۵۲۔ یک صد و بستی و یک صدی (یوزباشی) ۲۷۰ وہشتادی ۹۱ و شصتی ۲۰۴ و پنجاہی ۱۶۰ و چہلی ۲۶۰ وسی ۳۹ و بستی ۲۵۰ و دہی ۲۲۴ کل ۱۵۰۰ اسے ۱۳اتک منصب دار ۱۳۸۸ تھے۔ اور اعلے منصب ۵۰۰۰ سے ۵۰۰ تک ۱۲۴ جن میں قریب ۵۰ کے اس وقت مر گئے تھے کہ ابوالفضل نے فہرست بنائی تھی طبقات اکبری میں اس فہرست کی نسبت یہ لکھا ہے کہ تفصیل آسامی امراے حضرت خلیفہ الٰہی افاضل پناہ شیخ علامی شیخ ابوالفضل در کتاب اکبر نامہ مرقوم قلم بدائع رقم گردانیدہ اند دریں مختصر بذکر اسامی امراے کبار اختصاص یافتہ۔ اس بیان سے اور مآثر الامرا سے یہ معلوم ہوتا ہے اکبر کے عہد میں ہزاری سے اوپر منصب دار امرا کبار یا امراے اعظم کہلاتے تھے مگر طبقات میں ہزاری سے نیچے منصب داروں کو بھی لکھا ہے کہ بمرتبہ امارت رسید یا در جرگہ امرا انتظام یافت امیر الامرا کا خطاب ایک ہی وقت میں کئی آدمیوں کا تھا۔ طبقات میں یہ خطاب وسیم خاں خضر خواجہ خاں۔ میر محمد خاں انگہ۔ مظفر خاں قطب الدین محمد خاں۔ منعم خاں مرزا عبدالرحیم خاں کا لکھا ہے اور انہیں سے آخر کے تین امیر الامرا کو خانخانان بھی کہتے تھے۔

ابوالفضل نے جو منصب داروں کی سپاہ کی تعداد لکھی ہے وہ اور تاریخوں میں منصبداروں کے پاس بہت جگہ اس سے کم و بیش بیان کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ضرور نہیں تھا کہ پنجہزاری کے پاس پانچہزار سپاہ ہو۔ طبقات میں عبدالمجید خاں سہ ہزاری پاس ۲۰ ہزار سپاہ لکھی ہے اکثر اعلے درجہ کے منصبداروں صوبوں کے فرماں روا ہوتے تھے ان کو اول سپہ سالار اور اکبر کے آخر عہد سلطنت میں حاکم اور بعد ازاں صاحب صوبہ یا صوبہ دار اور آخر میں صوبہ کہتے تھے اور منصب دار جاگیر کہتے تھے جو بعد اکبر کے عہد کے بدل گئے منصب داروں کو تعیناتیان اور اوس کی سپاہ کو تابینات بھی کہتے تھے اس لیے تابین باشی منصبدار بخشی ہوا۔ سپاہ کی اصلاح جب ہو لی کہ شہباز خاں میر بخشی مقرر ہوا۔ عبدالقادر بدایونی نے اس باب میں جو لکھا ہے اسکے نقل آئین ۔

۹ کے بعد دیکھو -

(۴) آئین احدی

بہت سے پُر دل شائستہ کار آدمی ہوتے ہیں جنکو پادشاہ منصب نہیں دیتا مگر انکو دونکی پرستاری سے رہائی دیتا ہے۔ اور بندگان خاص میں داخل کرتا ہے۔ دبستان خدمت میں انکی آموزش ہوتی ہی اور ان کے علم کا امتحان ہوتا ہے۔ پادشاہ صورت میں معنی پیدا کرنا چاہتا ہے اس لیے انکا نام احدی رکھتا ہے جس سے خدائے واحد یاد آتا ہے انکے درجہ بڑھانے کا نیا آئین مقرر کیا ہے ان کی تیمارداری کے لیئے دیوان اور بخشی جدا جدا اور انکی سرداری کے لیے ایک بزرگ امیر مقرر کیا ہے اور ایک لایق آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ احدی کے امیدواروں کو پادشاہ کے روبرو پیش کیا کرے وہ بے منت فروشی ورشوت ستانی کے ہر روز چند امیدواروں کو پیش کرتا ہے۔ پادشاہ انکا امتحان لیتا ہے جب سکو وہ پسند آتے ہیں تو انکا نام یادداشت ور تعلیقہ میں لکھا جاتا ہی۔ پھر انکی چہرہ نویسی ہوتی ہی اور برآورد میں نام داخل ہوتا ہے۔ امیدوار سے بخشی ضمانت لیتا ہی اور سب کو دوبارہ پادشاہ کے روبرو پیش کرتا ہے۔ ضرور انکا اضافہ ہوتا ہے اس کی تنخواہ نصف تین چوتھائی اور چھ ساتویں تک بڑھ جاتی ہی۔ بہت سے احدی پانچ سو روپیہ ماہوار پاتے ہیں اور ۹ کے ہندسہ سے نشان مند ہوتے ہیں۔ (آئین داغ دیکھو) ابتدا میں جب اسکا درجہ مقرر کیا گیا تھا تو انکے آٹھ گھوڑوں پر داغ لگا دیا جاتا تھا۔ مگر اب پانچ سے زیادہ پر داغ نہیں لگایا جاتا -- .

(۵) آئین سوار

منصب دار احدی کے بعد تیسرا درجہ سوار رکھتے ہیں - اوّل گھوڑوں کا مالک سپاہ میں گھوڑوں کی اوصاف بیان کرتا ہی۔ بخشی انکا امتحان کرتا ہے - پھر سوار کی چہرہ نویسی ہوتی ہے اگر سوار پاس ایک گھوڑے سے زیادہ گھوڑے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک اونٹ یا بیل زیادہ کرتے ہیں اور اس کے خرچ کے لیے عمدہ سوار کی نصف تنخواہ کی برابر روپیہ دیتے ہیں اگر یہ اونٹ یا بیل نہیں دیتے تو پانچویں حصے تنخواہ بڑھا دیتے ہیں یک اسپہ سوار کی تنخواہ یہ ہوتی ہی کہ عراقی کا سوار تیس روپیہ ماہوار اور مجنس کا سوار پچیس روپیہ ماہوار اور ترکی کا سوار بیس روپیہ ماہوار اور یابو کا اٹھارہ روپیہ ماہوار اور جنگلہ کا بارہ روپیہ ماہوار پاتا ہے

ہر ایک کا نام جدا ہے۔ ہر ایک کا ہنر نادر ہے۔ ایسے سپاہی ایک لاکھ سے زیادہ ہیں اور ان میں ایک ہزار پادشاہ کے پاس رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا درجہ احدی کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ انکا ماہوار چھ سو سے کم اسی تنکہ ہوتا ہے۔

ہمیشہ پادشاہ کے آستانہ پر ترکی و تورانی کشتی گیر و مشت زن و سنگ انداز کم خطا رہتے ہیں۔ بہادران ہندی اور نادرہ کار گجراتی مل کر ہر طرح کے جنگ آور گروہ گروہ جمع رہتے ہیں۔ انکی تنخواہ ۴۵۰ دام سے زیادہ اور ۷۰ دام سے کم نہیں ہوتی اور دو پہلوانوں کی کشتی ہوا کرتی ہے اور انکو طرح طرح کے انعام ملتے ہیں۔

اس خداپرست پادشاہ کو بندہ کے نام سے چڑ ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ سوا درگاہ خدا کے خداوندی کسی کو سزاوار نہیں ہے۔ اس سبب سے بندہ کا نام چیلہ رکھا ہے جس کے معنی سنسکرت میں عقیدت مند ارادتمند کے ہیں۔ اس عاطفت شاہنشاہی سے ایک گروہ پادشاہ کا چیلہ ہو گیا ہے۔

(غلام) غلام کے معنی بہت سے ہیں [illegible] جماعت اپنے سے غیر آئین (غیر مذہب) پر غالب ہو اور انکی خرید و فروخت کرلی جاتی ہے عاقل اسکو بہت برا جانتے ہیں۔ دوم کوئی شخص [illegible] ارادت اختیار کرے (جیسے کہ پیروں کے اندھے مرید ہوتے ہیں) سوم [illegible] چہارم کسی شخص کا قاتل جو اس پادشاہ کی ملک میں آتا ہے۔ پنجم چور اپنی چوری سے باز آکر جسکا مال چراتا ہے اسکی غلامی اختیار کرتا ہے۔ ششم ایک شخص خون کرے اور اس خون کے بدلے میں روپیہ دیکر کوئی شخص اسکو چھڑاتا ہے تو وہ اس رہانندہ کی غلامی اختیار کرے۔ ہفتم کوئی شخص کشادہ پیشانی سے اپنی غلامی کو اختیار کرے۔ انکا روزینہ ایک روپیہ سے لیکر ایک دام تک ہے۔

پادشاہ نے انکو طرح طرح کے گروہوں میں تقسیم کیا ہے اور جدا جدا کارشناسوں کے حوالہ کیا ہے۔ وہ انکو طرح طرح کے ہنر سکھاتے ہیں کہ انکی پایہ شناسی ہو اور وہ کام شایستگی سے کریں۔

کہار

پادشاہ کی گوہر شناسی سے اور نیک پرستاری سے ہر طائفہ کے بہت آدمی سپاہ میں مرتبہ پاتے ہیں اور پیادگی سے امیری پر سرفراز ہو جاتے ہیں کہار بھی ہندوستان کے عجیب پیادوں میں سے ہیں بھاری بوجھ کندھے پر اُٹھاتے ہیں اور فراز و نشیب میں چلتے ہیں - پالکی سنگھاسن - چوڈول ڈولی لیکر ایسی نرم چال سے چلتے ہیں کہ بیٹھنے والی کو ذرا جنبش نہیں ہوتی - اس ملک میں وہ کثرت سے ہوتے ہیں - دکھن و بنگالہ کے کہار نہایت عمدہ ہوتے ہیں - کئی ہزار پادشاہ کی خدمت میں رہتے ہیں انکا سرگروہ ۳۸۴ دام سے زیادہ ۱۹۲ دام سے کم نہیں پاتا اور دن کو ۱۲۰ دام سے ۱۶۰ دام تک ملتے ہیں -

داخلی پیادے

ایک خاص تعداد اس قسم کے پیادوں کی امیروں کو سپرد کی جاتی انکو علوفہ پادشاہ دیتا ہے - پادشاہ نے حکم دیدیا ہے کہ ان پیادوں کی چہرہ نویسی نیم سواروں کے نام سے ہوا کرے چوتھائی حصہ اسکا بندوقچی ہوتا ہے اور باقی تیرانداز کچھ بڑھئی - لُہار و بیلدار اس گروہ میں داخل ہوتے ہیں - بندوقچی کا سرگروہ ۱۶۰ دام اور ۱۴۰ دام پاتے ہیں تیرانداز میردھہ ۲۰۰ سے ۱۸۰ دام تک اور ۱۰۰ سے ۱۲۰ دام تک -

(۷) جانوروں پر نقش یعنی داغ لگانے کا آئین

جب پادشاہ نے سپاہ کے مراتب اور درجے مقرر کرکے گھوڑوں کی نگہبانی پر علم حاصل کیا اور تنبکچی معین کیے کہ وہ سپاہی کی چہرہ نویسی کریں اور یہ باتیں لکھیں اسکے خاص نشان عمر - باپ کا نام - جائے سکونت - ذات - ایک آگاہ کا داروغہ مقرر کیا کہ آدمیوں کو انتظار کی تکلیف اُٹھانی نہ پڑے اور اُن کو اپنی کارسازی کیلئے رشوت دینے کی آرزو نہ ہو - سپاہی اول پادشاہ کے ملاحظہ میں آتا ہے پادشاہ اُسکا درجہ مقرر کرتا ہے اور پھر محرر اسکا تعلیقہ کرتا ہے اور داخلی اپنے منصبدار کی تصدیق سے لکھا جاتا ہے - پادشاہ نے پانچ آدمی تجربہ کار سپاہیوں اور گھوڑوں اور علوفہ کی نگرانی کے لیے مقرر کئے ہیں - کارفرما افسر سپاہ کو ایک فراخ میدان میں جمع کرتا ہے اور چہرہ نویسی کے کاغذات ان افسروں کے روبرو پیش ہوتے ہیں اور کاغذات کیساتھ سپاہی اور اسکا گھوڑا دکھایا جاتا ہے چہرہ نویسی کے اوراق کے نیچے برآورد میں اُسکی تنخواہ لکھی جاتی ہے جسمیں کوئی فریب و غل نہیں ہونے پاتا اور

ایک کو انکے دیکھنے کے لئے بھیجدیتا تھا اور اسکام کیطرف بہ نسبت اپنی مہماندوزی اور پرستش آموزی وعیارگیری وہنگامہ آرائی کے زیادہ توجہ کرتا تھا اگر چوکی میں کوئی حیلہ سازی اور کاہلی کے سبب سے حاضر نہیں ہوتا تھا تو اُسپر ایک ہفتہ کی تنخواہ کا جُرمانہ ہوتا تھا یا کچھ اور مناسب سزا پاتا تھا۔ بادشاہ نے اس سپاہ کے بارہ حصّے کیئے تھے۔ اور ہر ایک حصّہ ایک ایک مہینے کے لئے نامزد ہوتا تھا اس طرح دور اور نزدیک کی سپاہ اپنے وقت پر بادشاہ کی ملازمت میں حاضر ہوتے تھے اور اسپر طرح طرح کی عاطفت ہوتی تھی۔ جو سپاہ کا گروہ دوردست کی سرحد پر یا کسی اور بڑی خدمت میں سرگرم ہوتا تھا تو وہ اپنی حقیقت حال کا عریضہ بھیجتا تھا اور بادشاہ کے حکم کا کاربند ہوتا تھا۔ ہر شمسی مہینے میں پہلی تاریخ کو سپاہ چوکی ہر ہفتہ کی طرح بادشاہ کو تسلیم کرتے تھے اور خسروانی عنایت سے اختصاص پاتے تھے

بادشاہ نے اپنی سپاہ کی اور بارہ قسمیں کی تھیں اور ہر قسم کو ایک سال سے مخصوص کیا تھا جسکے سبب باری باری سے ہر سپاہ اپنے سال میں بادشاہ کے حضور میں آتی تھی۔

یہ اوپر جو تین آئین ہم نے آئین اکبری سے نقل کیئے ہیں جنسے معلوم ہوتا ہے کہ شہنشاہ اکبر سپاہ کی چہرہ نویسی اور داغ لگانے میں بڑا اہتمام کرتا تھا اسی کے سبب سے دغا وفریب کے کام بند ہوگئی تھے۔ عبدالقادر بدایونی نے اس انتظام کی نسبت اپنی تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ تمام ولائتیں سوائے انکے جو خالصہ سے منسوب تھیں امرا کی جاگیروں میں منقسم تھیں۔ امرا فسق وفجور کی کثرت سے اور بیوتات کی زیادتی کے خرچ سے اور اموال کے جمع کرنے سے فرصت نہیں رکھتے تھے کہ سپاہ حال پر نگاہ رکھتے رعایا کے احوال میں مشغول ہوتے کام کے وقت پر وہ تنہا مع چند ملازموں اور شاگرد پیشہ مشغول کے معرکہ میں حاضر ہوتے تھے سپاہ بکار آمد کسی جگہ موجود نہ تھی شہباز خاں کنبوہ میر بخشی نے داغ ومحلی کی مراسم ورودش کو جو سلطان علاء الدین خلجی کا ایک ضابطہ اور بعد ازاں شیر شاہ کا طریقہ تھا بادشاہ کو یاد دلاکر جاری کرایا جسکے سبب سے یہ مقرر ہوا کہ اول اُمرا پر منصب بستی مقرر ہوا کہ وہ اپنے تابینوں کو (تابعینوں) کو کشک (چوکی) میں حسب الطلب حاضر کرنے اور جب انکے بیس سواروں کے گھوڑوں پر داغ حسب

ضابطہ لگ جاے تو اسکا صدی اور اور منصب مقرر کیا جاوے۔ اور فیل اور اسپ اور شتر اسکو منصب کے موافق دی جائیں اور یہی دستور جاری رہے اور جب وہ پوری سوار پادشاہ کی نظر کے روبرو لائیں تو منصب ہزاری دو ہزاری یا پنجہزاری جس سے بالاتر درجہ کوئی نہیں ہے ترقی پائیں ورنہ درجہ گھٹایا جائے مگر اس ضابطہ سے بھی سپاہیوں کا اور تنزل ہوگیا امرا نے اپنا کام یوں بنایا کہ اکثر اپنے خاص چیلوں اور بارگیرونکو سپاہی کا لباس پہنا کر موقف عرض میں لاکر منصب کی درستی کے لیے دکھاتے اور منصب کے موافق جاگیر پاتے۔ بارگیرونکو رخصت کردیتے جب پھر وقت پر ضرورت پڑتی تو حسب ضرورت نئی عاریت کی سپاہ بھرتی کرلیتے ہیں اور بعد از فراغ اسے موقوف کر کے خدا کی پناہ میں بیٹھ جاتے خزانہ وجمع خرج منصبداروں کا تو بدستور بحال رہتا مگر سپاہی بیچارہ کا پیالہ ایسا خاک سے بھرا رہتا کہ پھر وہ کربادھنے کے لایق نہ رہتا ہر جگہ اہل حرفہ دھنے وجلاہے کھتری ہندو مسلمان گھوڑے۔ ویراق کرایہ کا لیکر داغ کے لئے پہنچتے کوئی منصب پاتے اور کروڑی و احدی یا داخلی ہوجاتے۔ چند روز بعد ان موہوم اسپوں اور معدوم یراق کا نشان باقی نہ رہتا اور وہ پیادہ ہوجاتے اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جسوقت دو پادشاہی نظر (ملاحظہ) کے لیے دیوانخانہ خاص میں پیش ہوئے تو مع لباس کے ہاتھ پاؤں باندھکر ترازو میں تولے گئے تو وزن میں ڈھائی تین من سے کچھ کم وبیش تُلے۔ مگر بعد تحقیق کے معلوم ہوا کہ یہ سب لباس و یراق کرایہ کا عاریت تھا۔ پادشاہ نے فرمایا تھا کہ میں دیدہ ودانستہ ایسے آدمیونکو کچھ دیدیتا ہوں کہ اُن کی گذرا وقات ہو بعد چند مدت کے احدی کو دو اسپہ و یک اسپہ و نیم اسپہ یعنی دو سپاہیوں میں ایک گھوڑا مقرر کیا دونو کو چھ چھ روپیہ ماہوار ملتے مصرع

انیک در روزگار من بہ بیں ومپرس۔ اس بازار کو رونق ہوگئی اور ترکش بندی کی دوکان ٹھنڈی ہوگئی باوجود اسکے پادشاہ نے اپنی قوت طالع اور بلندی اقبال سے ہر جگہ غنیم کو نابود کیا اور سپاہی کی چندان احتیاج نہیں رہی اور امرا کو اپنے نوکرونکے بیجا ناز سے رہائی ہوئی۔ بدایونی کا یہ بیان اس عداوت کے سبب سے ہے جو وہ

اپنی خیانت سے بادشاہ کے ساتھ رکھتا تھا اسکا یہ لکھا کہ بادشاہ اپنی غنیم کو ہر جگہ نابود کرتا ہی بادشاہ
کی سپاہ اور افسروں کے حسن انتظام پر دلیل قطعی ہی اور یہ لکھا کہ بادشاہ کے اقبال سے یہ ہوتا تھا اسکا
ملا نا بن نہ - وہ اس عداوت کے سبب سے بد انتظامی کی سستہ صورتوں کو قاعدہ اور خوش انتظامی
کے قاعدہ کو سستہ صورت بناتا ہے ۔

(۱۰) آئین واقعہ نویسی

واقعہ نویسی بھی ایک پسندیدہ طرز جہانبانی کے لیئے بلکہ ہر انبوہ کیلئے ضروری ہی - اگرچہ پہلے زمانہ میں
بھی اسکا مذکور ہی مگر اس زمانہ میں اصلی معانی اسکے ظہور پذیر ہوئے ہیں چودہ تیکچی سیر چشم درست خامہ
جدگزیں اسطرح نامزد ہوئے ہیں کہ ہر روز ان میں سے دو دو اپنا کام کیا کریں اور چودھویں روز
ہر ایک کی نوبت آیا کرے اور اور لوگ بھی اس شائستہ خدمت کے واسطے بادشاہ نے انتخاب کر رکھے
ہیں کہ ان میں ہر یک ایک دن کیواسطے رہتا ہی جب ان چودہ میں سے کسی کو ضروری کام پیش ہوتا ہے
تو اسکی جگہ انہیں سے ایک آتا ہے اسکو کوتل کہتے ہیں - اس واقعہ نویس کے یہ کام ہیں کہ بادشاہ کے
احکام اور کام کو وہ لکھے - اور جو کچھ کار پردازان سلطنت عرض کریں اسکو تحریر کرے - بادشاہ
کی خورد - آشام - بیداری و خواب نشست و برخاست شبستان اقبال میں جانیکا اور بارگاہ خاص
میں خرامش کا وقت - شکار کی عام حالت - جانوروں کا ذبح ہونا - کوچ و مقام - رہنمونی
نذر - دلاویز سخنی - دانش کی باتوں کا سننا - خیرات و انعام تکلف روزینہ
و ماہوارہ - تابین کا منصب - ماہیانہ چاکر - ارناس (بعض ارنس کی جمع کہتے ہیں جسکے
معنے قبر کے ہیں) - بدایونی نے اسکو ارناس پڑھا ہی اور اسکے معنی زوال و شمن یعنی دشمنوں
کے مرنیکا بیان اور امرا اس لفظ کو بجائے طلب اجناس کی کام میں لاتے ہیں اسلئے ارناس کے
معنے سپاہ کے لیئے - طلب اجناس یا تنخواہ کے ہوئے سیورغال (معافی زمین) خراج کا گھٹنا
بڑھنا - اجارہ - بیع - تحویل پیش کش - ارسال - نفاذ فرمان - اس پر بادشاہ کی مہر کا
لگنا - عرائض کا آنا - جواب کا دیا جانا - ملازمت - رخصت - تعین مدت - چوکی میں نہ آنا
جنگ و فتح - صلح - روشناس (جنکو بادشاہ پہچانتا ہو یعنی بڑے آدمی) کا مرنا - جانوروں کی

شرطونکی ہار جیت گھوڑوں کا مرنا۔ پادشاہ کے جرموں کا معاف کرنا۔ بارعام کی سرگذشت کتخدائی ولادت۔ چوگان بازی۔ چوسر۔ نرد۔ شطرنج۔ گنجفہ۔ سوائے اسکے حوادث آسمانی و زمینی سال کی فصلیں۔ عرض واقعہ۔ ان سب باتوں کو لکھے۔

جب اس روزنامچہ کی تصحیح کوئی آگاہ دل راستی منش کردے تو پھر وہ پادشاہ کو سنایا جاے وہ اسکو قبول کرے تو تبکچی ہر ساختہ کی نقل کرے اور اسپر اپنی مہر لگائے اسکے جوینده کو سپرد کرے۔ اسپر میر عرض و پروانچی کی مہر لگوائے اور اس شخص کی مہر جسنے اسکے پادشاہ کے روبرو پیش کیا ہے اس زمانہ میں اسکو یادداشت کہتے ہیں۔ سوائے اسکے کئی ایک خوشنویس روشن بیان راستی گذار جداگانہ نامزد ہوتے ہیں کہ وہ اس یادداشت کو جب پوری ہوجاتی ہے لے لیتے ہیں اور اپنے پاس رکھتے ہیں جو گذارش مقصود کے لائق ہوتی ہے اسکو وہ لکھتے ہیں اور اسپر مہر کرکے بجای یادداشت کے دیتے ہیں اسپر مہر و دستخط واقعہ نویس کے و سکہ رسالہ و میر عرض داروغہ کے ہوتے ہیں۔ اس نوشتہ کو تعلیقہ کہتے ہیں اور لکھنے والے کو تعلیقہ نویس۔ جب تعلیقہ اسطرح تیار ہوجاتا ہے تو اور اعیان دولت کی مہر اسپر لگتی ہے۔ پادشاہ کا مقصد اس سے یہ ہے کہ آگہی کا سررشتہ مستحکم ہوا اور بالست وقت میں کمی و بیشی اپنی ہنجار سے نہ گذرے۔ اور خیانت مند فرومایہ ایک کونے میں بیٹھیں اور سعادت سرشت آگاہ دل اعتبار پائیں کارسازوں کو خوف سے رہائی ہو اور بداندیش فراموش کاروں کا علاج ہو۔

(۱۱) آئین اسناد

جبتک دو اوستد کے سررشتہ کو استحکام نہیں ہوتا ہے کہ دلسے بات گویائی میں نہیں آتی اور قلم کے لکھنے سے پائداری نہیں پاتی اور راستی طرازوں کی نشان سی درستی نہیں ہوتی یعنی سچے آدمیونکی گواہی نہیں ہوتی اپنے نگاشتہ کو سند کہتے ہیں اور اسطرح طرح کی آدمی کامیاب ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس سند کی دستاویز سے بازخواست سے رہائی پاتے ہیں اور لوگ اپنا واجب وظیفہ پاتے ہیں۔ کاردان دستی منش کہ جنکی پیشانی سے راستی جھلکتی ہے گفتار اور کردار کو صفحوں اور ورقوں پر لکھتے ہیں کہ جس سے یاد کی مدد ہوتی ہے ان اوراق اسناد کو دفتر کہتے ہیں (دفتر ایک یونانی لفظ ہے جسکے معنی صاف سینے ہوے چمڑے کے ہیں)

بادشاہ نے اس دفتر کو بھی غور کی نگاہ دیکھا ہے اور انکا شائستہ انتظام کیا ہے درست نویس راستی سرشت وسیر چشم دیدہ وروں کو دفتر میں مقرر کیا ہے اور کاردانان کم آز کو وہ حوالہ کیا اور اُسکو اپنی کار آگہی سے بھی اُستوار کیا ہے۔ دفتر تین طرح کا ہے اوّل ابواب المال۔ اس سے خراج ملک کی آمدنی اور اُسکی کمی و بیشی معلوم ہوتی ہے ہر قسم کی آمدنی جو فراہم ہوتی ہے اُس میں لکھی جاتی ہے۔ دوم ارباب التحاویل اُس سے منزل (خانگی) کے خرچ کی اور خزینہ داروں کی جمع خرچ کی تنقیح اور طرح طرح کی خرید و فروخت کی اوارجہ نویسی معلوم ہوتی ہے۔ سوم توجیہ اسمیں سپاہ کے ماہیانہ کا سر رشتہ ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا کہ سپاہ کے لئے کتنی آمدنی ہوئی اور کتنا اسمیں خرچ ہوا۔ بعض اسناد پر صرف مہر شاہی ہوتی ہے بعض پر درگاہ شاہی کی مہر نشان ہونیکے بعد بادشاہ اپنا سکہ لگاتا ہے۔ بہت سی سندوں پر صرف ارکان دولت کے مہر و نشان ہوتے ہیں۔ انہیں سے بعض کا بیان نیچے کیا جاتا ہے

فرمان ثبتی

فرمان ثبتی تین کاموں کے جاری ہوتے ہیں۔ اوّل مناصب والا وکالت سپہ سالاری شاہزادوں کی اتالیقی۔ امیر الامرائی۔ ناحیتی (تقرر اضلاع) وزارت بخشی گری صدارت کے لئے۔ دوم جاگیر۔ جو بدوں ماہیانہ ہو یعنی جس جاگیر میں سپاہیوں کی تنخواہ نہ دی جاوے۔ اور ملک نو مفتوح کے حکم رکھنے کے لئے اور ملک دینے کے واسطے سوم سیور غال و بقاع خیر کے سرانجام کے لیئے۔

پروانچوں اور فرمانوں اور براتوں کو نیچے کیطرف کی شکنج دیتے ہیں۔ اول شکنج میں جو کم چوڑی ہوتی ہے۔ کنارہ پر جہاں سے کاغذ کترتے ہیں وکیل کی مہر ہوتی ہے اور اسکے مقابل کچھ نیچے مشرف دیوان کی مہر جسکا آدھا حصہ دوسری شکنج پر ہوتا ہے اور اس سے نیچے صدر کی مہر۔ بعد ازاں کچھ مہرونکے مقامات میں تقدیم و تاخیر ہو گی۔

بعض احکام خلافت ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں تاخیر نہیں ہوسکتی اور ہر کوئی اسکا راز دان بھی نہیں ہوسکتا اسلیئے منشور پر فقط مہر بادشاہی ہوتی ہے اور ایسے

(۱) اتین و امیر…
(۲) سرو داران…
(۳) امراحصہ تنخواہ لینے کا قاعدہ…

(۴) صاحب تنخواہ لینے کا قاعدہ

فرلان بیاض کہتے ہیں۔

جب کوئی شخص جرگۂ سپاہ میں داخل ہوتا ہے اور داغ سے فراغت پاتا ہے تو اسکو انتظار کے رنج کھینچنے اور مال خرچنے کے بغیر سندیں ملجاتی ہیں۔ تنخواہ کا حساب داموں میں ہوتا ہے۔ برآورد کیوقت سپاہی کی تنخواہ کے آدھے روپئے ۴۸ دام فی روپیہ کے حساب سے دیے جاتے ہیں اور آدھی تنخواہ کے دو برابر حصے کیئے جاتے ہیں جنمیں سے ایک حصہ میں مہر (اشرفی) بحساب ۹ روپیہ فی مہر دوسرے حصہ میں اجناس دی جاتی ہیں۔ جب روپیہ کا بہاؤ چالیس دام ہوگیا تو اسی بہاؤ سے سپاہ کو تنخواہ ملتی ہے۔ سال بھر میں ایک مہینے کی تنخواہ گھوڑے کی قیمت کی بابت وصول ہوتی ہے اور گھوڑے کی قیمت پچاس فیصدی بڑھائی جاتی ہے۔ گھوڑے کی خریدمیں نہایت احتیاط ہوتی ہے اس لئے اس اضافہ قیمت سے سپاہی کا نقصان نہیں ہوتا اور ہمیشہ بڑے بڑے کاموں میں اور بادشاہی احکام کے پہنچانے میں احدی کو دستوری ملتی ہے اگر وہ خدمت شائستگی کی بجالاتا ہے تو کام کی سپاس گذاری کے عوض میں تمام یہ دستوری بخشش دیجاتی ہے ورنہ کچھ حصہ اسکا ماہوار میں لگایا جاتا ہے پادشاہ نے پرستاری کی آموزش کے لیے اور تن آسانی کے دور کرنیکے واسطے یہ مقرر کیاہے۔ جو احدی کشک میں غیر حاضر ہوتا ہے تو اسکی پندرہ روز کی تنخواہ ضبط ہوتی ہے۔ اور اوروں کی ایک ہفتہ کی تنخواہ اور تابین باشی کو جب یہ دستوری ملتی ہے کہ وہ اپنے آدمیوں کے ماہوارہ میں سے بیسواں حصہ کاٹ لیتا ہے اور اسکو بعض خرچوں میں صرف کردیتا ہے۔

(۵) آئین مساعدت

اقطاع دار اور ماہوار لینے والوں کو اگر کوئی خرچ کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ انعام کے مستحق نہیں ہوتے تو پادشاہ نے ایک خزانچی اور میر عرض جداگانہ مقرر کر رکھا ہے کہ اس سے وہ روپیہ قرض لے لیتے ہیں جس سے ان کی آبرو بچ جاتی ہے اور انتظار سے بھی پریشان نہیں ہوتے اول سال میں قرض کچھ نہیں بڑھایا جاتا

دوسرے سال میں سولھویں حصہ قرض کا قرض پر زیادہ کرتے تھے اور تیسرے سال میں آٹھواں
حصہ اور چوتھے سال میں چوتھائی پانچویں سال سے ساتویں سال تک نصف اور ساتویں سال سے
دسویں سال تک تین چوتھائی اُس سے زیادہ سال کے لئے دوچند۔ اس سے زیادہ نہیں بڑھتا
اس سے بادشاہ کا مقصد نیک معاملگی سکھانا منظور ہے ورنہ اس زمانہ کی داد وستد کے موافق
یہ افزائش کسی شمار میں نہیں ہی اس آئین سے جب بے انصاف سود بڑھانیوالے تھے وہ راہ پر آگئے
اور اس سے شائستہ انتظام ہوگیا۔

(۲۹) آئین انعام

بادشاہ آدمیوں کو پہچانکر اُنکو کئی طرح سے انعام وبخشش دیتا ہی۔ بظاہر بھی اور پوشیدہ بھی قرض
کہکر دیتا ہی مگر لیتا نہیں اس سے دور و نزدیک تونگر و مستمند فیض پذیر ہوتے ہیں۔ ہاتھی گھوڑے
اور جنسیں بھی دیتا ہی ہر روز بخشی لشکداروں اور سپاہیونکے نام پڑھتا ہے کہ انہوں نے پہلے کچھ
نہیں پایا ہی۔ بادشاہ انکو گھوڑے دیتا ہی جسکو یہ گھوڑا ملجاتا ہی اسکو پھر ایک سال تک کچھ انعام وبخشش
نہیں ملتی جو آرزومند محتاج مفلس ہیں اُنکو بادشاہ نقد وجنس دیتا ہی اور ظاہر اور پوشیدہ

(۳۰) آئین خیرات

دلوں کو ہاتھ میں لاتا ہے بہت سے آدمیوں کا روزینہ وماہیانہ وسالیانہ مقرر ہے جو ان
کو انتظار کی تکلیف بغیر ملتا ہے اور خود بادشاہ کے مقرب آدمیوں کے احوال کو عرض
کرتے ہیں اور جتنا مال لیتے ہیں وہ بیان نہیں ہوسکتا جو کچھ محتاجوں کو دیا جاتا ہے اور
آتش خانوں میں خرچ ہوتا ہے اُس کا بیان بڑا دراز ہے۔ ایک خزانچی جدا اسکے لیے مقرر
ہے۔ بادشاہ کے روبرو جو تہیدست آتا ہے وہ اپنا کام دل پاتا ہے۔

(۳۱) آئین وزن مقدس (ہزاروان)

نظر بد کے لگنے سے بچنے کے واسطے اور مفلس محتاجوں کی آرزو برلانے
کے لیے سال بھر میں بادشاہ دو دفعہ طرح طرح کی اجناس سے تلتا تھا۔
غرہ آبان ماہ الٰہی کو کہ بادشاہ کے سال کا نوروز ہے ان بارہ چیزوں
سے بارہ دفعہ تلتا تھا۔ سونا۔ پارہ۔ ابریشم۔ خوشبو۔ مس۔ روح توتیا
ادارصالح۔ گھی۔ لوہا۔ شیر برنج سات طرح کا غلہ (ستہ نجا) ونمک ان چیزوں سے تولتے ہیں

(۳۲) [illegible] لینے کا قاعدہ

لیسی وبیشی اجناس کی قیمت پر موقوف تھی اور پادشاہ کی عمر کے سالوں کی تعداد کے موافق گوسفند۔ بز۔ مرغ۔ مفلس جاندار پروروں کو دئے جاتے تھے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے جانور رہائی پاتے تھے۔ دوسرا تلادان پنجم رجب کو آٹھ چیزوں سے جداجدا ہوتا تھا۔ چاندی قلعی۔ پارچہ۔ سیسہ میوہ۔ شیرینی۔ تلون کا تیل۔ سبزی۔ ان دونوں تاریخوں میں جشن سالگرہ ہوتا تھا۔ بخشش بخشایش کی صلاح عام ہوتی تھی۔

بادشاہ کے بیٹے و پوتے جب تیسرے سال میں لگتے تو وہ سال شمسی کے نوروز کو پہلی دفعہ ایک چیز سے تولے جاتے پھر ہر سال ایک نئی چیز اُنکے تولنے کیواسطے بڑھتی جاتی۔ جب وہ بڑے ہو جاتے تو آٹھ سات چیزوں سے جُدا جُدا تولے جاتے مگر بارہ چیزوں سے زیادہ انکے تولنے کے لیے نہیں بڑھتیں اور جانور بدستور دیے جاتے اس کام کیواسطے خزانہ و مشرف جدا تھے تاکہ شائستگی سے خرچ ہو۔

پادشاہ آدمیوں پر طرح طرح سے عاطفت کرنے کو خداپرستی جانتا وہ آدمیوں کی پایہ شناسی کرکے چار طرح کے آدمیوں کو زمین و روزینہ دیتا ہے۔ اول وہ جو علم و دانائی کی تلاش میں سب چیزوں سے دست کشی کرکے علوم حقیقی کے جمع کرنے میں رات کو رات جانتے ہیں نہ دن کو دن۔ دوم وہ جو تارک الدنیا ہوتے ہیں اور اپنی نفس سے لڑتے رہتے ہیں اور رنج کش و خویشتن گداز ہوتے۔ سوم مفلس درماندہ جو جُست و جو کی توانائی نہیں رکھتے۔ چہارم شریف بزرگ زادے جو اپنی کم دانشی سے پیشہ دری نہیں اختیار کرتے جو نقد دیا جاتا ہے اسکو اس زمانہ میں وظیفہ کہتے ہیں اور جو زمین دی جاتی ہے اسکو مِلک و مدد معاش کہتے ہیں۔ اس طرح سے کروڑوں کی سیورغال دیجاتی ہے اور وہ روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے چونکہ حال مردم کی پژوہش اور آرزو کا اندازہ کرنا بہت بڑا کام ہے۔ ایک نیک مرد درست اندیش کو جسکی پیشانی گفتار و کردار سے صلح کل و مہربانی عام وجد دائمی کا نشان نمایاں ہو اسکو اس خدمت پر سربلند کیا ہے۔ اسکو صدر کہتے ہیں۔ قاضی۔ میر عدل ان سے رجوع کرتے ہیں

کاروائی و مزاج شناسی سے ایک عمدہ تیکچی مقرر کیا جاتا ہے وہ یاور ہوکر داد وستد کے سررشتہ کو مضبوط کرتا ہے اسکو دیوان سعادت کہتے ہیں پادشاہ کے حکم سے ہمیشہ صاحبان درگاہ شاہی شائستہ آدمیوں کو اسکے روبرو لاتے ہیں اور بہت آدمی اسطرح اپنے دلی مقصد کو پاتے ہیں۔ جب پادشاہ نے حال تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ پہلے صدور نا ہنجار خواہشوں سے دامن آلودہ تھے اپنے مقربین کی سفارش سے شیخ عبدالنبی کو اس عہدہ پر مقرر کیا۔ افغانوں و چودریوں کی سیورغال خالصہ ہو گئی تھی پادشاہ نے آدمیوں کو اسکی تصدیق و تصحیح کے لیے متعین کیا۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ یہ گروہ زمین ایک جگہہ نہیں رکھتا۔ یکجا جاگیر و خالصہ کی شرکت سے کمزور آزردہ ہوتے تھے اور بدگوہر اسکو اپنی بد یانتی کا دستمایہ بناتے تھے اسلیے پادشاہ کے حکم سے دہات خالصہ اور جاگیر جُدا جُدا ہو گئے جس سے بھلے آدمیوں کو آسایش ہوئی اور بدسرشتوں کا ہاتھ کوتاہ ہوا۔ زمانہ ہمیشہ پردہ دری کیا کرتا ہے اسلیے اس صدر کی بھی ستمائیں پادشاہ کے کان میں پہنچیں۔ فرمان ہوا کہ جو شخص پانچسو بیگہ زمین سے زاید رکھتا ہو جب تک پادشاہ کے روبرو آنکر منظوری نہ حاصل کرے وہ اس سے محروم کیا جاے۔ جب اُسپر عمل نہ ہوا تو پادشاہ نے حکم دیا کہ جس سو بیگہ کی تفصیل کچھہ نہ ہو اس میں دو حصے جاگیر اور تین حصے خالصہ کیا جاے مگر ایران و توران کی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بعض حریص پُرانی زمینیں چھوڑ کر اور جگہہ نہیں لیتے ہیں تو یہ حکم ہوا کہ جو شخص قدیمی زمین کو چھوڑے اُسکی چوتھائی زمین کم کر دیجاے۔ قاضیوں کی رشوت ستانی پادشاہ کے دلنشین ہوئی۔ ان خراب دروں عمامہ پیرایوں اور کوتاہ خرد دراز آستینوں کی سخن سازی پر کچھ خیال نہ کیا اور مغز کار کو تلاش ان لوگوں کو کہ سلطان خواجہ کی صدارت میں قاضی ہوئے تھے ان کو تو اس منصب پر بحال رکھا اور باقی سب کو معزول کیا۔ ایرانی و تورانی معجر پوشوں کی بھی تزویر ظاہر ہوئی تو سو بیگہ سے زیادہ زمین کی تازہ تصحیح کے لیے اشارہ ہوا۔ عضدالدولہ کی صدارت میں

یہ قرار پایا کہ جو شخص سیورغال میں شریک ہوں اور فرمان میں اُسکی قیمت نہ لکھی ہو اور ان میں سے ایک فوت ہو جاوے تو جبتک کہ اُسکے پس ماندی پادشاہ کے روبرو نہ آئیں صدر بغیر پوچھے اس زمین کے حصے کرے اور مردہ کے حصے کو خالصہ بنائے اور سینکڑہ بیگہ زمین سے زیادہ دینی بغیر منظوری پادشاہ صدر کو منع ہو گیا امنی و آسودگی کے سبب سے اپنی زمینوں میں لوگوں نے باغ بہت لگائے اور اُن سے بہت فائدے اُٹھائے۔ کاربرداران سلطنت نے کفایت اندیشی سے جانا کہ ان باغوں کو لے لیں۔ مگر پادشاہ اسپر خفا ہوا۔ اور لوگوں کو باغ بخش دئے۔ جب معلوم ہوا کہ جس پاس سو بیگہ یا اس سے کم زمین ہے وہ بھی خیانت کرتے ہیں۔ تو حکم ہوا کہ میر صدر جہاں ان کو پادشاہ کے روبرو لائے۔ بعد ازاں یہ حکم ہوا کہ صدر بصلاح دید ابوالفضل جاگیر کو زیادہ و کم کردے۔ ایسا آئین ہی کہ سیورغال کی زمین آدھی مزروعہ اور آدھی قابل زراعت ہوتی ہے۔ اگر قابل زراعت نہ ہو (یعنی زمین بالکل مزروعہ ہو) تو کل کی ایک چوتھائی کم دیجائی اور باقی کے لئے ایک نئی سند دی جائے۔ ہر قصبہ میں بیگہ کا حاصل مختلف ہوتا ہے وہ ایک روپیہ سے کم نہیں ہوتا۔ دانش آموزی و ریاضت نفسی کے سبب سے پادشاہ اس طرف متوجہ ہوتا ہی۔ ارنیک مردوں کو کل و جز کی صدارت مقرر کرتا ہے۔ (حاشیہ آئین ۱۹)

کل آئینوں میں یہ آئین بڑا دلچسپ ہے۔ اس میں ایک چغتائی لفظ سیورغال کا استعمال ہوا ہی جسکا ترجمہ عربی میں مدد المعاش اور فارسی میں مدد معاش ہوتا ہی۔ ہماری زبان میں معافی دوامی اور ملک بھی کہتے ہیں۔ یہ سیورغال دوام کے لیے نسلاً بعد نسلٍ دیجاتی تھی اسمیں اور جاگیر یا تیول میں یہ فرق ہے کہ یہ ایک خاص مدت کے لیئے منصبداروں کو بعوض سپاہ کی تنخواہ کے دیجاتی تھی۔

اکبر نے ان سیورغالوں میں بہت تغیر و تبدل کیا اور زیادہ تر ان کو خالصہ بنایا۔ جسکے سبب سے افغانوں کے بہت خاندان تباہ ہو گئے۔ اسنے صدر کی اختیارات کو

بھی گھٹا دیا۔ جو سلطنت مغلیہ سے پہلے بہت بڑے ہوتے تھے پہلے صدر کو صدر جہاں کہتے تھے جو اپنے حکم سے بادشاہوں کے جلوس کو جائز کرتا تھا۔ اکبر کے عہد میں بھی صدر چوتھے مرتبہ کا افسر سمجھا جاتا تھا (آئین ۲۰ دیکھو) انکے اختیارات بڑے ہوتے تھے۔ وہ مفتی عظیم ہوتے تھے اور تمام اوقاف کی زمینوں پر اختیارات کامل رکھتے تھے۔ بادشاہ کے حکم کے بغیر وہ ان زمینوں کو جسے چاہتے تھے دیدیتے تھے۔ وہ اعلیٰ درجہ کے مفتی و قاضی ہوتے تھے مقدمات کی تحقیقات میں بڑا دخل رکھتے تھے۔ عبدالنبی نے اپنی صدارت میں دو آدمیوں کو بدعتی ہونیکے سبب قتل کرا دیا۔ مغلوں کی سلطنت سے پہلے سیورغال کے لفظ کی جگہ یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے اورادات وضائف انعام۔ دہا۔ انعام زمینہا وغیرہ۔

ہر صوبہ میں ایک صدر جز یعنی ایک ضلع کا صدر ہوتا تھا اور ان سب پر ایک حاکم ہوتا تھا۔ جسکو صدر جہاں۔ صدر کل۔ یا صدر صدور کہتے تھے۔

صدر کے دفتر میں اندھیر رہتا تھا۔ فرمان شاہی میں جسقدر زمین کسی سیورغال میں دی جاتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ دبالیتا تھا اور فرمان کی عبارت کے معانی ایسے گھڑلئے جاتے تھے۔ کہ جب تک کہ مالک تا ضیوں اور صدر جز کو رشوت دیتا رہتا تھا۔ اس زمین پر اپنا قبضہ رکھتا تھا۔ اکبر نے نہایت تحقیقات کر کے معافی کی سب زمینیں جو پہلے بادشاہوں نے عطا کی تھیں ضبط کرلیں۔ زیادہ تر یہ معافیاں علمار کے پاس تھیں جنسے اکبر کو رغبت نہ تھی اسنے ان کی زمینیں ضبط کر کے انکو جا بجا پراگندہ کر دیا۔

صدر

اکبر کے عہد میں یہ صدر ہوئے (۱) شیخ گدائی جو شیعہ تھا اور بیرام خاں کی سفارش سے مقرر ہوا تھا ۹۶۸ء تک (۲) خواجہ محمد صالح ۹۷۱ء تک (۳) شیخ عبدالنبی ۹۸۶ء تک (۴) سلطان خواجہ تا حیات ۹۹۳ء (۵) امیر فتح اللہ شیرازی ۹۹۷ء تک (۶) صدر جہاں جسکا خود نام اور اسکے عہدہ کا نام ایک ہی تھا۔ ابوالفضل نے مولانا عبدالباقی کو بھی

لصدر لکھا ہی مگر اسکا حال معلوم نہیں - اب ان سب صدروں کی نسبت جو ملا عبدالقادر بدایونی نے لکھا ہی اسکو نقل کرتے ہیں - کیونکہ یہ مینے التزام کیا ہے کہ ملانے جو اعتراض خلافت اکبر کے انتظام سلطنت پر کئے ہیں ان سب کو نقل کروں - وہ شیخ گدائی کی نسبت لکھتا ہی کہ اس نے خانوادوں (پٹھانوں کے خاندان) کی اراضی مدد معاش و اوقاف پر قلم نسخ پھیر دیا جو شخص کہ اسکی دربار داری کرتا اور اسکی ذلت کا تحمل ہوتا تو اُسکو وہ سیورغال دیتا سوا اسکے کسی کو نہیں دیتا لیکن اگر اس زمانہ کی خست پر نظر کی جائے کہ جسمیں پانچ جریب زمین پر بلکہ اس سے بھی کمتر پر انعام و مدد معاش کے لیے حجتیں ہوتی ہیں تو شیخ گدائی کو عالم بخش کہنا چاہیے بعد شیخ گدائی کے ۹۶۸ھ میں خواجگی محمد صالح ہروی نبیرہ خواجہ عبداللہ مروارید وزیر مشہور عہدہ صدارت پر منصوب ہوا - مگر اسکو اوقاف اور مدد معاش کے لئے زمین دینے میں چندان استقلال نہ تھا - اس باب میں دیوانوں کا حکم تھا -

۹۷۲ھ شاید زیادہ صحیح ۹۷۱ھ میں بادشاہ نے شیخ عبدالنبی محدث نبیرہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی کو صدر الصدر مقرر کیا کہ وہ باتفاق مظفر خاں کے جو اسوقت وکیل اور وزیر تھا مدد معاش کا کام کرے - تھوڑے دنوں میں یہ شیخ ایسا مستقل ہوا کہ اُسنے مستحقوں کو اوقاف و انعامات و ادرارات استقدر بخشے کہ اگر ہندوستان کے سب پہلے بادشاہوں کی بخشش جمع کرکے ایک پلہ میں رکھی جاوے اور اسکے عہد کی دوسرے پلہ میں - تو یہی پلہ بھاری رہیگا مگر رفتہ رفتہ پھر یہ پلہ اُلٹا ہو گیا - جیسا کہ پہلے بادشاہوں کے عہد میں تھا اور قضیہ منعکس ہو گیا ۹۸۳ھ میں بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام ممالک محروسہ کے ائمہ جبتک اپنی مدد معاش و اوقاف و ادرارات کے فرامین کو صدر سے امضا نہ کرائیں کروڑی اُنکو مجرا نہ دیں اس سبب سے اہل استحقاق کا گروہ انتہاء مشرق سے ولایت بکر تک ملازمت میں حاضر ہوا انمیں سے جس کسی کا حامی بادشاہ کے امراء اور مقربوں سے کوئی تھا اُسکا کام حسب المدعا ہو گیا اور جس کسی کو ایسی نہیں میسر ہوئی وہ شیخ عبدالرسول اور شیخ کے تمام وکیلوں کو یہانتک کہ فراشوں اور درباانوں و سائیسوں اور حلال خوروں تک بڑی بڑی رشوتیں دیتا اور اس ذریعہ سے اپنے تکلیم کو کنارے لگاتا

ان دونوں صورتوں کے بغیر وہ لکڑیاں کھا کے تباہ ہوتے بہت سے نامراد آیمہ اس اژدحام عام
میں ہوا کی گرمی سے مرگئے پادشاہ کو بھی یہ خبر پہنچی مگر وہ اس صدر عالیقدر کے سامنے اسکی
علوشان و فرط تعظیم کے سبب سے ذکر نہ کرسکا۔ جسوقت شیخ اپنے مسند جاہ و جلال پر بیٹھتا۔ اُمرار
عالیشان اہل علم وصلاح کو اسکے دیوانخانہ میں بطریق شفاعت لیجاتے اور وہ اپنی شفاعت سے
بہت ہی کم کسی کی تعظیم کرتا اور الحاح وعجز میں نہایت مبالغہ کیا جاتا تو ہدایہ اور منتہی کتابوں کے
درس دینے والوں کو نہایت سَو بیگہ یا اس سے کچھ کم و بیش وہ مدد معاش تجویز کرتا باقی زمین انکی گو وہ مدتوں
سے اسپر متصرف ہوں ضبط کرلیتا لیکن عامہ مجہولوں اور مخذولوں کو یہانتک کہ ہندوؤنکو زمینیں اپنے
تفضل کے بیے دیدیں اس سبب سے روز بروز علم وعلمار کی قدر وقیمت کی کساد بازاری ہوتی گئی
عین دیوان میں جب دوپہر کو وہ کرسی پر بیٹھ کر وضو کرتا تو اُمرار کبار کے سر ومنہ دکپڑوں پر
اسکے وضو کی چھینٹیں پڑتیں مگر کوئی اس سے نہیں بچتا وہ فقرا کی کارسازی کے لئے ان باتوں
کے متحمل ہوتے تھے اور تملق وچاپلوسی وخوشامد ودلجوئی سے اپنا کام نکالتے تھے کسی پادشاہ کے
زمانہ میں کسی صدر کو اسقدر تسلط وتصرف واستقلال نہیں حاصل ہوا۔ بعدازاں عبدالنبی کا
حال جو ہوا وہ تاریخ میں بیان ہوا کہ وہ مکہ معظمہ غریبوں اور محتاجوں کے لئے روپیہ لیکر گیا تھا
جب وہ واپس آیا اور روپے کے حساب کا مطالبہ ہوا تو وہ قید میں پڑا اور سنہ ۹۹۲ھ میں اسکو
اوباشوں نے مارڈالا۔ بعد شیخ عبدالنبی کے سلطان خواجہ صدر رہا اسکے عہد میں سیورغال
کی صورت ہی کچھ اور ہوگئی اسوقت شہنشاہ اکبر کے مذہبی خیالات بدل گئے تھے۔ خواجہ حج سے
آن کر پادشاہ کے دین الٰہی کا رکن بنا تھا۔ علمار وفقہار کی سیورغال کے باب
میں پادشاہ نے خود تحقیق کرکے اسکا ضبط کرنا شروع کیا جسکے سبب سے بہت
سے مسلمانوں کے خاندان مفلس اور تباہ ہوگئے۔

سنہ ۹۹۳ھ میں میر فتح اللہ شیرازی منصب صدارت پر مقرر ہوا اب یہ عہدہ سیاہہ نویسی
سے زیادہ نہ تھا۔ وہ زمینوں کی ضبطی کے لئے تھا دینے کے لئے نہیں تھا میر فتح اللہ

دکن کی مہم میں بھیجا گیا۔ اسکا ملازم کمال شیرازی اسکی غیر حاضری میں اسکا قائم مقام مقرر ہوا۔ پھر تو یہ عہدۂ صدر کمال کو پہنچ گیا وہ ائمہ داروں کی زمین کو جسکے چھپے کہیں کہیں باقی رہگئی تھی دیکھنے لگا۔ فتح اللہ کو خود پانچ بیگہ زمین دینے کا اختیار باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک خیالی صدر تھا۔ تمام زمینیں ضبط ہو ہی چکی تھیں۔ اس اراضی منضبطہ میں وحشی جانور بستے تھے وہ نہ ائمہ داروں کے پاس رہیں نہ کسانوں کے ہاتھوں میں گئیں فقطان کے قلموں کے نوشتے صدر کے دفتر میں اور صدر کا عہدہ برائے نام باقی رہا۔

میر فتح اللہ صدر نے بقدر ایک ہزار روپئے کے خریطہ میں ڈالکر بادشاہ کی نظر کے سامنے رکھے اور جو اسکے شقدار نے تغلب کی علت و تہمت لگا کے پرگنہ پشاور میں ائمہ کی بیواؤں اور نامراد یتیموں سے ظلم و تعدی کرکے بازیافت کئے تھے انکو کہا کہ میری عمال نے یہ ائمہ داروں سے کفایت کے ساتھ لیا ہے (یعنی سیورغال رکھنے والوں پاس بہت کچھ ہی اسمیں سے یہ تھوڑا لیا گیا ہی) بادشاہ نے فرمایا کہ تم ہی اسے لیلو تین مہینے کے بعد فتح اللہ مرگیا بعد اسکے صدر جہاں جو دین الٰہی کا ایک کن تھا صدر جہاں مقرر ہوا۔ اب کچھ ضرورت اس عہدہ کی نہیں رہی تھی سیورغال کی تفصیل ابوالفضل نے اپنی ایک جدول میں لکھی ہے۔

بادشاہ نے ایک عجیب بار یہ ایجاد کیا۔ جس سے نوکروں کو بڑی آسایش ہوئی ہی کہ جب وہ چلتا ہی یا بوجھ کھینچتا ہی تو وہ دانوں کا آٹا بناتا ہی۔ بادشاہ نے ایک اتنا بڑا عرابہ ایجاد کیا ہی کہ جسکو ایک ہاتھی کھینچتا ہے اور اسمیں طرح طرح کے گرمابے کے خانے ہوتے ہیں۔ وہ ایک حمام رواں ہوتا ہی۔ تعجب یہ ہے کہ اسکو بیل بھی کھینچتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑے بھی اور اُس سے آدمیونکو آسایش ہوتی ہی جو عرابہ نازک تر ہوتا ہی اُسے بہل کہتے ہیں اُسمیں چند آدمی ساتھ بیٹھکر ہموار زمین پر چلتے اور ایسے رہٹھ بنائے ہیں کہ دور سے وہ پانی کو کھینچ لیتے ہیں وہ بیل چار چرخ کو اور ایک دو چرخ کو حرکت دیتا ہے ایک اور کل ہی جو کنوئیں سے پانی لیجاکر چکی چلاتی ہے۔ حاشیہ طبقات میں یہ ایجاد میر فتح اللہ شیرازی کے لکھے ہیں کہ اُسنے ایک چکی بنائی تھی جس کو گاڑی میں

رکھ دیتے تھے تو وہ اپنے آپ چلتی تھی اور آٹا پیستی تھی) اس نے ایک آئینہ بھی ایجاد کیا تھا جس میں خواہ نزدیک یا دور سے دیکھو تو عجیب عجیب شکلیں نظر آتی تھیں اور ایک چرخ ایسا بنایا جس سے بارہ بندوقیں صاف ہو جاتی تھیں ۔ مگر ابو الفضل اس چرخ کی ایجاد کو بھی اکبر سے منسوب کرتا ہی۔

(۲۱) آئین دوازدہ سیری

ہر بیگہ کے کشت کار سے دس سیر پادشاہ اپنا غلہ محصول لیتا ہے اور ہر ناحیہ میں اُسکا انبار لگتا ہے ۔ سرکاری جانوروں کی خوراک اس سے چلتی ہی۔ بازار سے وہ نہیں خریدی جاتی اس سے آدمیوں کو آسایش ہوتی ہی اور مفلس کسانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے ۔ جب اناج گراں ہوتا ہے تو ان کے ہاتھ یہ اناج سستا بیچڈالا جاتا ہی مگر کسی کو ضرورت سے زیادہ یہ اناج نہیں دیتے ۔ ہر طرح کی آبادی اس سے ہوتی ہے اور بہت جگہ قلمرو میں اس سے آتش خانے آمادہ ہوتے ہیں اور بہت مفلسوں کی روزی اس سے چلتی ہے اور سب جگہ اسکی نگاہبانی کے واسطے آدمی اور داروغے تبکچی مقرر ہوتے ہیں کہ دخل و خرچ کا حساب رکھیں۔

حاشیہ۔ سنہ ۱۰۰۵ میں بارش کم ہوئی تھی اور غلہ کی گرانی سے خلقت کو بڑی تکلیف تھی تو پادشاہ نے ہر جگہ ایک کارآگاہ مقرر کیا کہ وہ مفلس و محتاج بھوکوں کو کھانا کھلاوے اور ہر شہر میں ایک آش خانہ بنا دیا ایسا مکان جس میں بھوکونکو کھانا ملا کرے۔

(۲۲) آئین جشن نوروزی

پادشاہ نے اول قدیمی روشوں اور رسموں کی جستجو کی ہے اور انکے رواج دینے میں بڑی کوشش کی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کسکی رسمیں ہیں بلکہ اُنکی شائستگی کو دیکھکر قدر کرتا ہے دوم طرح طرح کی آدمیوں کی پرورش پر وہ توجہ کرتا ہے اور بخشش کے لئے بہانہ ڈھونڈھتا ہے اس سبب سے جب اسنے جمشیدی جشنوں اور موبدی عہدوں کا حال سُنا تو ان کو اختیار کیا اور اسباب دہش کو آمادہ کیا ۔ اول جشن نوروزی جب آفتاب برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو اُنیس روز ایک ہنگامہ عشرت فراہم ہوتا ہے اس درمیان میں دو دن بڑی عید ہوتی ہے اور بہت مال اور طرح طرح کا

اسباب انعام دیا جاتا ہے۔ اول غرہ ماہ فروردین دوم ۱۹ ماہ فروردین کہ شرف آفتاب کا دن ہے جو تاریخ کہ ماہ کی ہمنام ہوتی ہے۔ اُس میں قدیمی آتش پرست بڑا جشن کرتے تھے۔ بادشاہ بھی انکا پیرو ہے۔ ہر جشن میں صورت و معنی طرح طرح سے آرایش پاتے ہیں۔ آدمی خوش ہوکر اپنی کامیابی کا ترانہ شوق گاتے ہیں۔

نقارہ بلند آوازہ ہوتا ہے۔ خنیاگر رود نوازوں کا گانا ہوتا ہے۔ اول تین راتوں کو رنگین چراغ روشن ہوتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے:

ہر مہینے کی تیسری تاریخ بادشاہ ایک انجمن اسلئے آراستہ کرتا ہے کہ زمانہ کے چیزوں کی شگرف کاری پر علم ہو۔ زمانہ کے سوداگر اپنی گرم بازاری کے لئے بیٹھتے ہیں اور ہر یک ملک کا اسباب مکانوں میں سجاتے ہیں محل کی عورتیں اور اور طرح کی عورتیں آتی ہیں۔ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بہت آدمیونکے کام آرزو کے موافق برآمد ہوتے ہیں۔ شہریار اسمیں خود آتا ہی اور اسباب انتخاب کرتا ہے اور نرخ مقرر کرتا ہے اور اسطرح علم حاصل کرتا ہے ملک کی پوشیدہ باتیں اور آدمیوں کی حالتیں اسکو معلوم ہوتی ہیں اور ہر کارخانہ کے نیک و بد پر مطلع ہوتا ہے اُس نے اُسدن کا نام خوش روز رکھا ہے جسمیں خوشدلی کی نوید وہ دیتا ہے۔ بعد اس زنانہ بازار کے مردونکے بازار کا انتظام ہوتا ہے۔ ہر ملک کے سوداگرونکا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ بادشاہ داد و ستد کا امتحان کرتا ہے اور اہل دربار خریداری کرتے ہیں۔ ہر گروہ بہرہ داروں کی دوز باش بغیر اپنا درد دل بادشاہ سے بیان کرتا ہے اور اس متاع آرائی کو اپنی گذارش حال کا دستاویز بناتا ہے۔ نیکوں کی مراد برآتی ہے اور بروں کو اپنا اعمال کی سزا ملتی ہے اور اس سے اپنی دیدہ وری سے اس کام کے لئے خزانچی اور مشرف جداگانہ مقرر کیا ہے کہ فوراً انتظار کے رنج کے اُٹھانے بغیر لوگ بہت فائدہ اُٹھاتے ہیں

حاشیہ۔ اس خوش روز پر جو بدایونی نے اعتراض کئے ہیں وہ اکبر کے مذہبی خیالات میں پڑھو۔

پیوند کہ خدائی کی نگہبانی پابندی مردم اور انجمن آرائی تعلق کا دستا یہ ہی اور نفس کے جگر اکو برائی
سے بچاتی ہی اور گھر کو آباد کرتی ہی پادشاہ اپنے نیک روزگار ہونیکے سبب سے سب چھوٹے بڑونکی
پاسبانی کرتا ہی اور زناشوئی میں نسبت معنوی اور ہمسری کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ وہ نابالغ عورتوں
اور مردوں میں اس پیوند کو مکروہ جانتا ہے وہ کہتا ہی کہ اس سے کوئی عمدہ فائدہ نہیں ہوتا
بلکہ بڑا نقصان ہوتا ہی۔ جب یہ دونوں عاقل بالغ ہوتے ہیں تو انکو یہ آمیزش ناخوش معلوم ہوتی ہے
ہندوستان میں حیا کے سبب سے عورت اپنی پسند سے خاوند نہیں کرتی اس سے بہت دشواریاں
واقع ہوتی ہے۔ دولہا دولہن کی رضامندی اور ماں باپوں کی اجازت کو پادشاہ ناگزیر
سمجھتا ہے۔ قریب کے رشتہ داروں میں بیاہ کو ناسزا جانتا ہے۔ زبان مبارک سے وہ
فرماتا ہی کہ پہلے زمانہ میں لڑکی کا بیاہ اپنے توام بھائی سے نہیں ہوتا تھا پس یہ ان لوگوں
کی زبان بند کرتا ہے جو نقل کے غلام بن رہے ہیں مسلمانوں کی بیٹی اعمام کی نکاح پر شورش
نہ کریں اسلئے کہ مذہب کا حال اپنی ابتدائی حالت میں ایسا ہی ہوتا ہے جیسے مردم
زاد کا ابتدای آفرینش میں تھا (ایسی حالت میں بمجبوری قرابت قریبہ میں نکاح
کرنا پڑتا ہے) بڑے بڑے مہروں کا باندھنا بھی اسکو پسند نہیں جو کمتر ادا کئے جاتے
ہیں اور دروغ سازی ہوتی ہے وہ فرماتا تھا کہ مہر اس لئے زیادہ باندھا جاتا ہے کہ
طلاق دینے کا خوف نہ رہے۔ اسکو یہ پسند نہ تھا کہ ایک مرد ایک عورت سے زیادہ
بیویاں کرے۔ اس سے طبیعت کو شورش اور گھر میں آشوب پریشانی ہوتی ہی کہن سال اور
نوجوان میں اس رشتہ مندی کو ناشائستہ اور شرم سے دور سمجھتا تھا۔ اسنے دو بے طمع
فروہیدہ آدمی مقرر کئے تھے ایک انیں سے مردوں کا حال دریافت کرے اور دوسرا
عورتوں کا۔ انیں سے ہر ایک کا نام توی بیگی تھا بہت دفعہ ایسا ہوا کہ یہ کام ایک ہی
آدمی کو سپرد ہوتا تھا اور ہر دولہا دولہن کی طرف سے نکاح پڑھکر ٹیکس لیا جاتا تھا
پنج ہزاری سے ایک ہزاری تک دس مہر اور پانصدی تک چار مہر اور بہر صدی تک دو اور

بیستی تک ایک ۔ترکش بند سے دہ باشی تک اور اہل ثروت سے چار روپیئے اور متوسط آدمیوں سے ایک روپیہ اور عام خلائق سے ایک دام ۔ دولہا دلہن کے باپ کے حال کو تحقیق کر کے اسکے مقدور کے موافق محصول لیا جاتا تھا۔

حاشیہ (بدایونی نے عوام کی شادی پر یہ لکھا ہی کہ عوام الناس میں بیاہ جب تک نہوتا کہ دولہا دولہن دونو کوتوالی کے چبوترہ پر نہ آتے ۔ اسطرح کوتوالی کے اہلکار بڑے فائدے اُٹھاتے اور مزے اُڑاتے) ہر ملک میں خصوصاً ہندوستان میں نوآموز لڑکے مدتوں مکتب میں بیٹھتے ہیں اور مفردات حروف اور انکے اعراب سیکھتے ہیں اور عمر کا بڑا حصہ ضائع کر کے وہ کتابوں کے پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں - پادشاہ کے حکم کے موافق یہ طریقہ تعلیم جاری ہوا کہ لڑکے حروف الف بے تے ثے لکھیں اور پھر اُن کی اور صورتیں لکھیں اول صورت اور نام سے وہ آشنا ہوں دو روز میں وہ حرفونکے نقشوں سے واقف ہو جائینگے اور جب ایک ہفتہ میں یہ استعداد انکو ہو جائے تو کچھ انکو نظم و نثر سے جو خدا کی تعریف اور نصایح میں ہوں استاد انکو جُدا لکھکر سکھائیں اور جہانتک ہوسکے کوشش کی جائے کہ ہر ایک کو وہ خود سمجھیں اور استاد انکی مدد کمتر کرے ۔ کچھ دنوں تک ہر ایک روز ایک مصرع یا ایک بیت کی انکو مشق کرائین تو تھوڑی مدت میں ان کو پڑھنے کا ملکہ ہو جائیگا۔ اُستادکو پانچ چیزوں پر توجہ چاہیئے شناسائی حروف ۔ الفاظ مصرع ۔ بیت ۔ خواندگی اس روش سے لڑکے برسوں میں جو سیکھتے وہ ایک مہینے میں بلکہ کچھ دنوں میں سیکھنے لگے اور اُسپر لوگونکو تعجب ہوا۔ اخلاق ۔ حساب سیاق ۔ مساحت ہندسہ ۔ نجوم ۔ رمل ۔ تدبیر منزل ۔ سیاست مدن ۔ طب ۔ منطق ۔ طبعی ۔ ریاضی الٰہی ۔ تاریخ تحصیل کے لئے علوم مقرر ہوئی کہ وہ بہ تدریج سیکھیں سنسکرت میں بیاکرن ۔ نیائے بیدانت ۔ پاتنجل پڑھیں اور ہر شخص کو جو وقت پر کرنا چاہیئے وہ کرے اس طرز تعلیم سے مکتبوں میں اور ہی رونق ہو گئی اور مدرسوں نے تازہ فروغ پایا۔

اس کارخانہ سے سپاہ کی کارسازی ہوتی ہی ۔ ملک فراغ ہوتا ہی ۔ علم زیادہ ہوتا ہے ۔

(۲۵) آئین تعلیم

(۲۶) آئین ...

بیش قیمت چیزیں ہاتھ آتی ہیں۔ کسانوں کی آبادی ہوتی ہی۔ منزل شاہی کا سامان ہوتا ہے
پادشاہ اپنے چشمۂ اقبال کو ان چار چیزوں سے سیراب رکھتا ہی اور اسکو خدا کی عبادت جانتا ہی۔
اول مضبوط کشتیوں کا بنانا جسپر ہاتھی بھی سوار ہوسکے اور انکو ایسا بناتے ہیں کہ قلعوں کی
بھی وہ سرکوب ہوسکیں اور دشوار قلعوں کو فتح کرلیں دیدہ ور کار آگاہ اسکو منزل و راحلہ جانتے
ہیں........ اور اسباب جہانگیری کا عمدہ اسباب۔ خاص کردستان زنگبار۔ فرنگستان
میں۔ اگرچہ پادشاہ کی قلمرو میں کشتیوں کا سامان بہت جگہ ہے۔ مگر بنگالہ۔ کشمیر۔ ٹھٹھہ (سندہ)
میں انپر بڑا مدار ہے۔ پادشاہ نے کشتیوں کے سروں پر عجیب جانور بنائے ہیں۔ مہابت و
نشاط کو ہمدوش کیا ہے۔ ان میں بلند کاخ اور دلکشا کوشک اور عمدہ چوبڑے کے
بازار اور دل فریب چمن روے دریا پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ساحلِ دریا، شور پر مشرق
و مغرب و جنوب میں بڑے بڑے جہاز رہتے ہیں اور اس کے سبب دریا نوردون
کو بڑی آسایش ہوتی ہے۔ بندروں کو اس سے آرایش ہوتی ہے اور آگہی کو نالش
الہاباس اور لاہور میں جہاز تیار ہوکر دریاے شور میں بھیجے جاتے اور کشمیر میں بھی
ان کا نمونہ بنایا گیا ہے۔ جسپر تعجب ہوا۔

دوم دیدہ ور دریا نوردون کا مقرر کرنا جو مد و جزر کے اسباب کے اور اندازہ ژرف کے دانا
ہوں اور طرح طرح ہواؤں کے چلنے سے اور اسکے سود و زیان سے اور ان کھاروں سے
جو پانی کے اندر ہوں آگاہ ہوں اور اس بنیش کے سواے تنومندی و شناوری و
مہربان دلی و جد کاری و بیخ و بردباری اور ستودہ خصائل انمیں ہوں ایسی نیکمردوں
کو پادشاہ نے بہت تلاش کرکے جمع کیا ہے خاصکر ملیبار سے۔ رودباروں میں وہ
شائستگی و آہستگی کے ساتھ آدمیوں اور اسباب کو ساحل پر پہنچاتے ہیں اور کشتی
کے اندازہ کے موافق ان کی تعداد میں فرق ہوتا ہے جہاز میں بارہ طرح کے
آدمی خدمت گذار مقرر ہوتے ہیں۔

(۱) ناخدا۔ خداوند کشتی حقیقت میں وہ ناؤ خدا ہوتا ہے جسطرف وہ چاہتا ہے کشتی کو لیجاتا ہے (۲) معلم وہ دریا کے نشیب و فراز اور ستاروں کی نیرنگی سے واقف ہوتا ہے اسی کی رہنمونی سے کشتی منزل مطلوب پر پہنچتی اور خطروں سے اسکا بچاؤ ہوتا ہے (۳) تنڈیل برائے خلاصی دریاوروں کی زبان میں ملاح کو خلاصی و خاروہ کہتے ہیں (۴) ناخدا خشت کشتی نشینوں کے لیئے ہیمہ و کاہ آمادہ رکھتا ہے اور کشتیوں میں اسباب لادنے میں اور اُنسے اُتارنے میں یاور ہوتا ہے۔ (۵) سرہنگ۔ وہ پانی میں کشتی کو ڈالتا ہے اور پانی سے نکالتا ہے۔ بہت دفعہ وہ معلم کا کام کرتا ہے (۶) بھنداری۔ کشتی کے واسطے جو چیزیں ضرور ہوتی ہیں ان کا نگران ہوتا ہے (۷) کرانی خرچ کشتی کا محرر وہ آدمیوں کو پانی بھی پہنچاتا ہے۔ (۸) سکان گیر معلم کی رہنمونی سے وہ کشتی کو سو بسو پھراتا ہے وہ ایک گروہ بیس آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوتا (۹) پنجری وہ کشتی کے مستول پر بیٹھ کر دیدبانی کرتا ہے ساحل کے دکھائی دینے کی اور کشتیوں کے اور ہواؤں کے شورش کی اور اور باتوں کی اطلاع دیتا ہے۔

(۱۰) گن متی خلاصیوں میں سے ہوتے ہیں وہ کشتی کا پانی باہر نکالتے ہیں (۱۱) توپ انداز لڑائی میں کام کرتا ہے۔ انکی تعداد کشتی کی حقدار پر موقوف ہے (۱۲) خاروہ بہت ہوتے ہیں بادبان کا کھینچنا و باندھنا ان کا کام ہے۔ بعض انمیں سے دریا کے اندر جاکر کشتی کے رخنہ کو بند کرتے ہیں اور جو لنگر فرو ماندہ ہوجاتا ہے۔ اس سے کشادہ کرتے ہیں ہر سفر میں جسکو یہ لوگ کوسش کہتے ہیں۔ ان کشتی کے ملازموں کا علوفہ مختلف ہوتا ہے بندر ساتگانوں ہگلی) میں ناخدا کو چار سو روپیئے ملتے ہیں اور چار مینخ ملتے انمیں جو وہ چاہے بھرتی کرے اور فائدہ اُٹھائے آدمیوں کے رہنے کے لئے اور اسباب کے بھرنیکے لئے جہاز کے جُدا جُدا حصے ہوتے ہیں ہر حصے کو مینخ کہتے ہیں۔ معلم کو دو سو روپیے اور دو مینخ ٹنڈیل ایک سو بیس روپیے۔ کرانی کو پچاس روپیہ و یک مینخ و ناخدا خشت کو ۳۰ روپیے۔

سرہنگ کو ۵ ۲ روپئے ۔ سُکان گیرو پنجری و بھنداری کو پندرہ پندرہ روپئے اور کھائت میں ناخدا
ناخدا کو تین سو روپیے اور اوروں اسی نسبت سے اور آچی میں جنوبی بندروں کی نسبت ڈیوڑھا
پرتگال میں ڈھائی گنا اور ملاغہ (ملاکا) میں دو چند اور پیگو دو دہنا سری میں دیوڑھا کھبنائت سے
روپیہ ملتا ہے۔ اسی طرح اور مقامات میں وراہوں میں جسکا بیان دشوار ہے۔ سوم ایک نیک مرد تمام
قامت ۔ مہیب سیما ۔ بلند آواز ۔ رنج کش ۔ چابک دست کارگذار ۔ مہرگزیں ۔ سفری دوست ۔
شناور ۔ زیرک منش ۔ دریاؤں کی دیدبانی کے لئے مقرر ہوتا ہے ۔ اسکی کارآگہی سے جو گذروں پر
سخت مشکلیں پیش آئیں وہ حل ہوجاتی ہیں ۔ گذرگاہ کو انبوہی و تنگی و ناہمواری و کیچڑ سے
محفوظ رکھتا ہے اور کشتیوں میں اسباب بھرنے کا اندازہ مقرر کرتا ہے ۔ رہ رووں
کو انتظار کا رنج نہیں اُٹھانے دیتا اور مفلسوں کو آسانی سے گذار دیتا ہے اور تیر
کردہ نہیں جانے دیتا اور اسباب کو سوار گذرگاہ کے نہیں اُترنے دیتا اور بے
ضرورت رات کو نہیں چلنے دیتا ۔ چہارم باج کا بخشنا ۔ بادشاہ نے اس باج کو
جو کشوروں کے خراج کی برابر تھا معاف کر دیا ۔ صرف کشتیبانوں کی مزدوری
لی جاتی ہے ۔ بعض دریاؤں میں باج لیا جاتا ہے جو ڈھائی فیصدی سے
زیادہ نہیں ہوتا یہ اتنا کم ہے کہ سوداگر پہلے زمانہ پر خیال کر کے یہ سمجھتے
ہیں کہ کچھ لیا ہی نہیں جاتا ۔ رود باروں میں اس طرح کرایہ لیا جاتا ہے کہ ہزار
من بوجھ کا ایک کوس کے لئے ایک روپیہ ۔ بشرطیکہ کشتی اور کشتی کے ملازم
ایک ہی آدمی ہوں ۔ اگر کشتی دوسرے آدمی کی ہو اور کشتی کے اندر ہر چیز کشتی
کے کرایہ کرنے والوں کی ہو تو ہر ڈھائی کوس پر ایک روپیہ لیا جاتا ہے
گذروں میں ہاتھی پر دس دام اور لدے ہوئے چھکڑے سے چار دام
اور خالی سے دو دام اور لدے ہوئے اونٹ سے ایک دام اور خالی
سے اور گھوڑے سے و لدے ہوئے بیل سے آدھا دام اور اگر خالی ہو تو

چوتھائی دام اور بار بردار جانوروں سے ۱/۱۶ دام ان میں ہنکانے والے کی بھی اُتروائی داخل ہی
۲۰ آدمیوں سے ایک دام بہت دفعہ کچھ نہیں لیتے اور قاعدہ یہ ہی کہ آدھا یا تہائی حصہ محصول کا
جو اسطرح جمع ہوتا ہے وہ سرکار میں داخل ہوتا ہی۔ یوں سوداگروں کا کام خوب چلتا ہے
اور ہر ملک کی اجناس بہت آتی ہیں۔

ظاہر میں طبیعت کے موافق کام کرنیوالے تو کسی جاندار کے شکار کرنیکو فقط خوشی خاطر سمجھتے
ہیں اور اپنی جہالت سے اپنی خواہش نفس کی متابعت چال جانتے ہیں مگر حقیقت پژوہ ژرف نگاہ اپنا
علم بڑہاتے ہیں اور اپنے دلکو روشن کرتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس شکار کو ہمیشہ اپنی دانش
افزائی کا سرمایہ بنایا ہی اور اس میں اپنے جانے کی راہ کوئی نہیں مقرر کرتا ہی اور رعیت اور سپاہ کے
حال کی تفتیش اسطرح کر لیتا ہی وہ ناشناسندگی کے لباس میں جاکر مال و ملک و منزل سے شناسا
ہوتا ہی۔ ستم دیدوں کی دستگیری کرتا ہی۔ بیدادگروں کو سزا دیتا ہی۔ اس والا دید کے سبب سے طرح طرح
شکار میں مشغول ہوتا ہی اور اسکو شیفتہ اپنے تئیں ظاہر کرتا ہی۔ کوتاہ بین جو ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں اسکو
شکار جانتے ہیں اور دوربین کار آگاہ اسکو شکار حقیقت سمجھتے۔ جب وہ شکار کے قصد سے چلتا ہے
تو اول شکارگاہ کو تیزدست قراول (یہ شکار جن آدمیوں کو شکار کے لئے مقرر کرتا ہے) گھیرتے
ہیں اور قور (ہتھیار بند آدمی) چار یا پانچ کوس کے فاصلہ پر اُس سے رہتے ہیں اور قور کے قریب
اُمرا اور گروہ گروہ آدمی بادشاہ کے دیدار کا انتظار کرتے ہیں اور تیاق دار دیدبانی
کے لئے بیٹھتے ہیں اور اُن سے ایک گز کے فاصلہ پر میر توزک کھڑا ہوتا ہے اور اسنے ڈیڑھ
کوس پیچھے خدمتگار اور مقرب ہوتے ہیں اور خدمتی اس جگہ کی پاسبانی کرتے ہیں اور
اسیقدر فاصلہ پر ایک بیدار مغز افسر بادشاہ کے خاص نوکروں کو لیکر کھڑا ہوتا ہی وہ آہستہ
آہستہ چلتا ہے اور بادشاہ کی خاصہ شکارگاہ کی نشاط کی پاسبانی کرتا ہے اور اس
سے پہلے ایک آگاہ نقش کاردان کل کی نگرانی کرتا ہے۔ اس مقام میں سوای بادشاہ
کے خاص آدمیوں کے کوئی نہیں آسکتا اور سوائے ان لوگوں کے جو شکار کے لئے ضروری

ہیں کوئی آگے نہیں دوڑ سکتا۔

جب پادشاہ کچھ رستہ چل لیتا ہی وہ خاص آدمیوں کو اپنی ہمراہی کے لئے منتخب کر لیتا ہے پھر جب کچھ اور آگے چلتا ہی تو کبھی تنہا جاتا ہے اور کبھی ایک دو آدمیوں کو ساتھ لے لیتا ہے اور جب آسایش کا وقت آتا ہی تو وہ دو گروہ جنکو پیچھے پادشاہ نے چھوڑا تھا اسکی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

پادشاہ کا مقصد جو شکار سے تھا اُسکو بیان کر دیا اب شکار کے طریقے بیان کئے جاتے ہیں۔

ایک بڑا پنجڑا بناتے ہیں اور اسکو زمین سے لوہی کی زنجیر دلسے پیوستہ کر دیتے ہیں اور اسکو وہاں لگاتے ہیں جہاں شیر اکثر آتے رہتے ہیں۔دروازہ کو اس ترکیب سے کھلا رکھتے ہیں کہ ذراسی جنبش سے وہ بند ہو جائے اور ایک بزکو اُسکے اندر باندھ دیتے ہیں اور اسکے آگے پردہ ایسا لگا دیتے ہیں کہ شیر اسکو دیکھتا ہی مگر اُسکو پکڑ نہیں سکتا۔بھوکا شیر آتا ہی اور پنجڑے کے اندر جاکر گرفتار ہو جاتا ہی۔

دوسری ترکیب یہ ہی کہ ایک تیر کو زہر آلود کمانی میں کھینچکر درخت کی شاخیں اس ترکیب سے لگا دیتے ہیں کہ اگر ذراسی بھی جنبش ہو تو وہ تیر چھوٹ جاے جب شیر اس پاس آتا ہی اور اُسے ملتا ہی تو تیر اسکے لگ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔

تیسری ترکیب جہاں شیر اکثر آتے جاتے رہتے ہیں وہاں ایک بھیڑ کو باندھ دیتے ہیں اور اسکے گرد گھاس سریش لگا کے بچھا دیتے ہیں جب بھیڑ پھاڑنے آتا ہی تو اُسکے پنجوں میں یہ گھاس چمٹ جاتی ہی جتنا وہ اپنے تئیں چھڑاتا ہی اُتنا ہی اور سریش میں لتھڑ پتھڑ ہو جاتا ہی اور زیادہ سراسیمہ ہوتا ہی۔آدمی جو گھات میں لگ رہتے ہیں آنکر اُسے مار ڈالتے ہیں یا زندہ گرفتار کر کے پالتے ہیں۔

پادشاہ اپنی راستی کے سبب سے اس فریب کو نہیں پسند کرتا۔اس درندہ مردم خوار کو تیر یا بندوق سے مارنے کو پسند کرتا ہے۔

چوتھی ترکیب۔ ایک کارواں پُرول بھینسے پر سوار ہوتا ہے اور اُسکو شیر سے

لڑتا ہی اور بھینسا چابک دستی کرکے اپنی سینگوں سے شیر کو اُٹھا کر ایسا پھینکدیتا ہی کہ اُسکی جان نکلجاتی ہے
اس تماشے کا بیان نہیں ہو سکتا ہی۔ سوار کی دلیری ور بھینسلواں بیٹھ پر اس کا جما رہنا بڑا تعجب خیز ہے
ایک دن قصبہ باری کی نواح میں پادشاہ کو اس درندہ جان گزا کی خبر لگی۔ پادشاہ
ناہر خاں ہاتھی پر سوار اس جنگل میں گیا شیر نے اس ہاتھی کے مستک پر پنجہ مارا اور اسکے
سر کو زمین کی طرف جُھکا دیا۔ پادشاہ نے اس قوی ہیکل کو مار ڈالا جسپر لوگوں کو تعجب ہوا۔
ایک دفعہ ٹوڈہ کے نزدیک پادشاہ شکار کھیل رہا تھا کہ اسکے ایک آدمی کو شیر نے پکڑ لیا پادشاہ
نے ایک تیر ایسا شیر کے مارا کہ وہ مرگیا اور آدمی جو زندگی سے مایوس تھا بچگیا۔ ایک
دفعہ شکار قمرغہ میں ایک قوی شیر نے پادشاہ پر حملہ کیا اس نے اسکی پیشانی میں
ایسا تیر مارا کہ وہ نکما ہو گیا۔
ایک دفعہ شیر نے ایک پیادہ کو اپنے پنجہ میں پکڑ لیا دیکھنے والے اسکی زندگی سے مایوس
تھے کہ پادشاہ نے شیر پر ایک ایسی بندوق ماری کہ وہ مرگیا اور گرفتار نے رہائی پائی
ایک دفعہ متھرا کے جنگل میں شیر کے آنے کی شورش برپا ہوئی۔ شجاعت خاں آگے آگے
جاتا تھا وہ ڈر گیا مگر پادشاہ نے اسی جگہ جمکر شیر کو خشم آلود آنکھیں دکھائیں
تو شیر کا جوش کافور ہوا اور ڈرتا ڈرتا چلا گیا کچھ دیر بعد تیر دوز ہوا۔
ہاتھیوں کو ان ترکیبوں سے پکڑتے ہیں۔
(۱) کھیدا۔ گرمی کے موسم میں ہاتھیونکے پکڑنے والے سوار اور پیادہ ہاتھیون کی
چراگاہ میں جاتے ہیں اور ڈھل و نفیری بجاتے ہیں جنکی آواز سے ہاتھی بھاگتے ہیں
اور جلد جلد دوڑتے اور اپنی گرانی پیکر سے اور فروماندگی سے توانائی انمیں باقی نہیں رہتی
ناچار کسی درخت کے سایہ میں آرام لیتے ہیں۔ کاردان رسّے جو سن کے یا چھال کے
بنے ہوئے ہوتے ہیں انکی گردن یا پاؤں میں ڈالکر اس درخت سے باندھ دیتے ہیں
خانگی ہاتھیوں کو لیجاتے ہیں اور انسے انکو ملا دیتے ہیں اور پھر گھر لے آتے ہیں اسطرح

ہاتھیوں کا پکڑنا

ہاتھی پکڑنے والوں کو مزدوری ہاتھی کی قیمت کی چوتھائی ملتی ہے۔
(۲) چورکھیدہ۔ وحشی ہاتھیوں کی چراگاہ میں خانگی فیل کو لیجاتے ہیں اور اسکے اوپر فیلبان اسطرح بے حس و حرکت لیٹتا ہے کہ کوئی اسکا نشان نہیں معلوم ہوتا پھر ہاتھی آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں اور اس زد و گیر میں فیلبان ہاتھی کے پاؤں میں کمند ڈالکر پابند کرلیتا ہے۔
(۳) گاڈ۔ ایک گہرا گڑھا وہاں کھودتے ہیں جہاں ہاتھیوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اور اسکو خس پوش کردیتے ہیں جب ہاتھی اسکے قریب آتا ہے تو گھات میں بیٹھنے والے ایسا غل مچاتے ہیں کہ وہ اپنی دوربینی بھول کر ایسا گھبراتا ہے کہ اس گڑھے میں تندی و تیزی سے جا پڑتا ہے۔ پھر اسکو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں۔ بعدازاں آب و دانہ دیکر آہستہ آہستہ فرمان پذیر کرلیتے ہیں۔
(۴) بار۔ جہاں ہاتھی آرام کرتے ہیں وہاں ایک لمبی چوڑی زمین کے گرد چاروں طرف خندق کھودتے ہیں۔ اور ایک راہ رکھتے ہیں اُسپر دروازہ لگا دیتے ہیں اور اس میں ریسمان اس طرح باندھکر کھلا رکھتے ہیں کہ اگر ان کو توڑ دیں تو دروازہ بند ہوجائے اور پھر ہاتھیوں کی گذرگاہ میں اندر و باہر ایسی خوراک رکھتے ہیں جو ان کو پسند ہوتی ہے شکم پروری اور کھانے کی حرص سے وہ اپنی ہوشیاری کو بھول جاتے ہیں اور بے دھڑک یہاں آجاتے ہیں ایک جانباز گھات میں بیٹھا ہوا رسیوں کو توڑ دیتا ہے جس سے دروازہ بند ہوجاتا ہے۔ بہت سے ان میں سے جھنجھلا جھنجھلا کر دروازہ کے کھولنے کا قصد کرتے ہیں اور چنگھاڑتے ہیں۔ مگر وہ کب کھلتا ہے کاردیدہ آگ روشن کرتے ہیں اور غل مچاتے ہیں جسکے سبب سے ہاتھی اسقدر تگاپو کرتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں اور پھر ان میں لڑنے کی طاقت نہیں رہتی انکو خانگی ہاتھیوں کو لاکر باندھ لیتے ہیں۔
یہ سب طریقے قدیم سے مروج ہیں۔ مگر بادشاہ نے ایک طریقہ سب سے بہتر یہ نکالا ہے کہ ہاتھیوں کے گلے کو تین طرف سے گھیرتے ہیں چوتھی طرف سے ہتھنیوں کو لاتے اور

فیلبان تینوں طرفوں سے انکو ہرکا کے اسطرف لاتے ہیں۔ وہ بمقتضائے ہمجنسی ان ہتھنیو نکے پاس آتے ہیں اور ہتھنیاں ایک قلعہ (احاطہ) میں چلی جاتی ہیں وہ انکے پیچھے ساتھ آتے ہیں اور اس طرح گرفتار ہوجاتے ہیں جیساکہ اوپر بیان ہوا۔

چیتہ جنگل میں تین طرح سے زندگی بسر کرتا ہی۔ ایک ناحیہ میں شکار کھیلتا ہی اور غذا جمع کرتا ہی اور دوسری جانب میں آرام لیتا ہی اور سوتا ہی۔ تیسری جگہ کھلاڑیاں کرتا ہی اکثر پہاڑ کے اوپر وہ ہوتا ہی۔ ایک درخت کا سایہ اسکے لئے کافی ہوتا ہے اس درخت کے تنہ سے وہ اپنے تئیں کھجلاتا ہی اور اسکے گرد سرگین کرتا ہی اسکو ہندی میں آکھ کہتے ہیں پہلے اس طرح پکڑتے تھے کہ گہرا گڑھا کھودتے تھے اُسکو اودی کہتے تھے اور اس کو خس پوش کرتے تھے۔ . . . . چیتہ جب ہاں آتا تو اُس گڑھے میں گرپڑتا تھا۔ بعض دفعہ اسکے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے تھے۔ کبھی وہ جست وخیز کرکے اس سے باہر نکلجاتا تھا اسطرح ایک سے زیادہ پکڑا نہ جاتا تھا۔ پادشاہ نے یہ ترکیب ایجاد کی کہ ایک گڈھا دو تین گز گہرا کھودا جاتا تھا اور اسمیں ایک دربند ایسا لگایا جاتا کہ جب چیتہ اُس میں داخل ہوتا تو جنبش سے یہ دروازہ بند ہوجاتا اور چیتے کو کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ ایک دفعہ میں کئی چیتے گرفتار ہوجاتے۔ ایک دفعہ میں سات چیتے گرفتار ہوئے۔ چیتے جاڑے کے موسم میں مست ہوتے ہیں ایک چیتے کی مادہ جنگل میں پھرتی تھی چھ نر چیتے اسکے پیچھے پڑے وہ اس گڑھے میں گئی نر بھی اسکے پیچھے ایک دوسرے کے بعد داخل ہوئے۔ ساتوں گرفتار ہوگئے یوں بھی اُنکو پکڑتے ہیں کہ درخت کی جڑ میں پھندے پھیلا دیتے ہیں جب چیتہ اس درخت سے مالش وخارش کے لئے آتا ہی تو وہ اس پھندے میں پابند ہوجاتا ہے۔ پادشاہ چیتہ کو تھکاکر بھی گرفتار کرتا تھا۔

پہلے زمانہ میں چیتہ جو گرفتار ہوتا تو نہایت محنت سے دو مہینے میں اسقابل ہوتا کہ اسکو کھول کر شکار کراتے۔ مگر پادشاہ نے ایسی روش نکالی کہ وہ اٹھارہ روز میں شکار کھیلنے کے قابل ہوجاتا ایک چیتہ پادشاہ کی سواری میں بے قلادہ و زنجیر ہمراہ چلتا۔

اوّل درجہ کے چیتوں کو ۵ سیر اور دوسرے درجہ کو ۴½ سیر تیسرے درجہ کو ۴ سیر چوتھے درجہ کو ۳¾ سیر پانچوں کو ۳½ سیر چھٹے کو ۳¼ سیر ساتویں کو ۳ سیر اور آٹھویں کو ۲¾ سیر گوشت ملتا تھا ۔ اتوار کو جانور مارا نہیں جاتا تھا اسلئے چیتے کو دو روز کی خوراک دیجاتی تھی ۔ پہلے چھ مہینے میں اور اب سال بھر میں انپر ملنے کے لئے چار سیر گھی اور ۱½ سیر گندک دیجاتی تھی کہ جس سے وہ خارش سے بچتے تھے ہر چیتے کی فرمان پذیری اور تیمارداری کے لئے چار آدمی مقرر تھے مگر اب جو چیتے گھوڑوں پر جاتے ہیں انکے لئے تین آدمی اور جو گاڑی اور ڈولی میں جاتے ہیں انکے واسطے دو آدمی مقرر ہوتے ہیں اور انکے ہر ملازم کا ماہوار تیس روپیہ سے زیادہ اور پانچ روپیہ سے کم نہیں ہوتا اور بیلوں کی پاسبانی انکے ذمے ہوتی تھی ۔

رونق کے لئے ان چیتوں کے واسطے زیادہ تر زربفت کی جھولیں اور مرصع زنجیریں اور نمدوں کے تکیے گشکانی مخمل (گوشکان ایران میں ایک شہر ہے اسکی مخمل مشہور رہے) کی اور بڑے امیروں میں سے ایک اسکا نگہبان مقرر ہوتا ہے جو انکی آرائش اور افزائش میں کوشش کرتا ہے ۔ اور دس چیتوں کو مثل یا طرف کہتے تھے انکے نام اور درجے مقرر رہتے شکار گاہ میں ہزار چیتے جمع ہوتے انکی سواری اسطرح ہوتی کہ ہاتھی کے دو طرف محفے لٹکائے جاتے اور ہر یک میں ایک ایک چیتہ آرام کرتا ہوا شکار کو جاتا اور اسی طرح اونٹ اور گھوڑے وخچر پر بھی محفے بنائے جاتے گھوڑے اور بیلوں کی گاڑیاں انکے لئے تیار ہوتیں ایک گھوڑے پر بھی انکی نشست تیار کی جاتی ۔ ان چیتوں کا سرآمد سمند نائک تھا وہ چوڈول میں سوار ہوتا اور بڑا اسکا احترام ہوتا ۔ نوکر آراستہ ہوکر اسکے گرد دوڑتے اور نقارہ اسکے آگے بجتا ۔ بعض دفعہ اسکو دو سوار اسطرح لیجاتے کہ گھوڑوں کی گردن پر ڈولی کے دونو سرے رکھے جاتے ۔

چیتا ہوا کے روبرو دوڑتا اور اسکے ذریعے سے وہ شکار کی بو اور آواز سن لیتا اور شکار پر حملہ کو تیار رہتا اور شکاریوں کو بتلاتا کہ شکار کدہر ہے ۔ اس اطلاع پر شکاری اپنا

کام تین طرح سے نکالتے۔ اول اُپر کھُی چیتہ کو سیدھا آہو کی نظر گاہ میں چھوڑ دیتے وہ سُبک خیزی اور چابک دستی سے ہرن کو پکڑ لیتا دوم رکھنی چیتہ کو کسی کمین میں چھپاتے اور اسکو ہرن دکھا کر چھوڑ دیتے چیتا ایک کمین سے دوسرے کمین جست و خیز کرتا ہوا ہرن کو پکڑ لیتا سوم مہاری چیتے کو کسی کمین میں بٹھاتے اور ہوا کا رُخ اُسکی طرف رکھتے۔ اور اُسکی گاڑی کو دوسری طرف لیجاتے۔ ہرن ڈولی سے سراسیمہ ہوتا ہی۔ اور چیتہ گھات سے نکلکر اُسکو دبوچ لیتا ہے چیتے کو عجب مکر آتے ہیں اور بڑا ہوشمند ہوتا ہی وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے خاک اُڑاتا ہی اور اسمیں چھپ جاتا ہی اور ایسا اپنی تئیں پست کرتا ہے کہ اُسمیں اور روے زمین میں کچھ تمیز نہیں معلوم ہوتی۔ جب نر سامنے ہو تو مادہ کا شکار نہیں کرتا اور جب بڑا جانور سامنے ہو تو چھوٹے کو نہیں مارتا۔ اول نر اور بزرگ جانور کو مارتا ہے پہلے زمانہ میں چیتہ تین شکار سے زیادہ شکار نہیں کرتا مگر اب بارہ شکار تک کرتا ہے پادشاہ نے چیتے سے ہرن شکار کرنے کی ایک ترکیب ایجاد کی ہی جسکو چتر منڈل کہتی ہیں جہاں ہرن بہت سے ہوتے ہیں وہاں ایک کمین گاہ بناتے ہیں اور ہرنونکو گھیر کر اسطرف لاتے ہیں اور پھر ہر طرف سے چیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بہت سے ہرنوں کو مار لیتے ہیں۔ اس جانور کے آموزگار اور خدمتگار کارپردازی کے صلے میں بخشش پاتے ہیں۔ ایک آہو اور چیتے میں ایسی محبت تھی کہ وہ ساتھ رہتے تھے اور تعجب یہ ہے کہ چیتہ اس ہرن کے سوا اب اور ہرنوں کا شکار اسی طرح کرتا تھا جیسے کہ اور چیتے کرتے تھے۔ پہلے زمانہ میں آخر دن میں چیتے سے شکار نہیں کھیلتے تھے اسوقت اسکی سرکشی اور صحرا گزینی کا خوف ہوتا تھا مگر اب رات کو اس سے شکار کھیلتے ہیں اور وہ فرمان پذیری کرتا ہے شکار کے وقت کے سوا اُسکو چشم بند رکھتے تھے ورنہ وہ سراسیمہ ہوتا تھا اور گرمی کرتا تھا اب وہ بے نقاب آرام سے رہتا ہے پادشاہ کے خاص چالیس چیتوں پر اراکین میں شرطیں بدی جاتی تھیں جسکا چیتہ غالب رہتا وہ شرط کا روپیہ اوروں سے لیتا ایسا ہی اگر کسیکا چیتا بیس ہرن سے زیادہ شکار کرتا تو اسکا دو روپیہ اپنی ہمسروں میں سے ہر یک سے پانچ روپیہ لیتا

چیتوں کا سردار سید احمد بارۂ شیرداؤں سے ایک مُہر لیتا اور اسی طرح بہت روپیہ جمع کرتا ۔
جو اُمرا کالے ہرنوں کے بیس جوڑی سینگوں کی پادشاہ کی نذر کرتا وہ ایک ایک اشرفی
ہم قرینوں سے لیتا ۔

حاشیہ ۔ پادشاہ کو ہرنوں کے سینگوں کا بڑا شوق تھا اسکی وجہ یہ تھی کہ تاریخ بدایونی
میں لکھا ہے کہ پادشاہ نے ۹۸۱ھ میں عالی عمارتیں اور رفیع و وسیع قصر اجمیر کی سڑک پر
بنوائے پادشاہ اپنے اعتقاد کے سبب سے اجمیر میں ہر سال جاتا اسواسطے آگرہ سے اجمیر تک
ہر منزل میں ایک محل تعمیر کرایا اور ہر کوس پر ایک مینارہ اور چاہ بنوایا اور کئی ہزار شاخ آہو
جو اُس نے اپنی عمر میں مارے تھے وہ ان مناروں کے سر و بنیر لگائے کہ عالم میں یادگار رہو اور
میل شاخ اسکی تاریخ ہوئی ۔

(۳) ہرنوں کی کھالیں ۔ غریبوں کو اور مال کے ساتھ دی جاتیں ۔ جمعہ کو پادشاہ شکار نہیں
کھیلتا تھا اسنے شاہزادہ سلیم کی ولادت کے لئے یہ منت مانی تھی ۔

پادشاہ اس چھوٹے جانور سے بھی شکار کھیلنے کا شوق بہت رکھتا ہے ۔ پہلے وہ خرگوش
اور لومڑی کو پکڑتا تھا اب ہرن کو پکڑتا ہے ۔ ہر روز ایک سیر گوشت کھاتا ہے اور ایک سیاہ
گوش پر ایک آدمی مقرر ہے جسکی تنخواہ سو دام ماہوار ہے ۔ پادشاہ کتوں پر انکی نیکخوئی کے
سبب سے بہت توجہ کرتا ہے اور ان کو ہمیشہ ہر ملک سے منگاتا رہتا ہے کابلستان میں خاص
کر ہزارہ (شمال راولپنڈی) میں عمدہ کتے ہوتے ہیں ان کو زیور سے آراستہ کرتے ہیں
اور ان کے نام رکھتے ہیں کتا بہت طرح کے جانور شکار کرتا ہے اور تعجب یہ ہے کہ وہ شیر سے
لڑتا ہے اور کئی کتے ملکر شیر کو خاک و خون میں آلودہ کرتے ہیں ۔

یہ وحشی جانور مانوس ہو جاتا ہے اسکے دونو سینگوں پر ایک جال لگا کے وحشی ہرنوں
کے سامنے اسے چھوڑ دیتے ہیں وہ اس سے لڑتے ہیں اس زود خوردمیں وحشی ہرن کا
پانون یا سینگ یا کان جال میں پھنس جاتا ہے ۔ گھات میں لگے ہوئے آدمی آن کر

سیاہ گوش

آہو شکاری ہرن

اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنے اُستادی سے اُسے رام کر لیتے ہیں اگر یہ جال ٹوٹ جاتا ہے یا اہلی
جانور میں لڑنے کی قوت نہیں رہتی تو وہ اپنے محافظ پاس آتا ہے۔ جال بدل کر دوسرا جال لگایا
جاتا ہے یا دوسرا ہرن لڑنے کے لئے بھیجدیا جاتا ہے۔ سلطان خلجی نے یہ ترکیب شکار کی نکالی
تھی مگر بادشاہ نے اوس کو اور زیادہ رونق دیدی تعجب یہ ہے کہ بارہا دشتی ہرن صبح سے
شام تک لڑا اور چار تنومند ہرنوں کو اس نے شکست دیدی پانچویں دفعہ پکڑا گیا سُنتے ہیں کہ
رات کو شکار ہوتا ہے۔ اگر خانگی ہرن کا جال ٹوٹ جاتا ہے یا صحرا سے بھاگ جاتا ہے تو اپنے
تیماردار پاس چلا آتا ہے کبھی بلانے پر لڑائی کو چھوڑ کر چلا آتا ہے اور پھر کہنے سے لڑنے کو چلا
جاتا ہے اور لڑنے لگتا ہے پہلے زمانہ میں آخر روز میں ہرن کو نہیں چھوڑتے تھے چھوڑتے تھے
تو اُس کے پانوں میں ایک گیند باندھ دیتے تھے کہ وہ جنگل میں نہ بھاگ جائے۔

ہرن کی وفاداری کی اور نادر کاموں کی داستانیں بہت سی ہیں ایک دفعہ ایک
ہرن نے صوبہ الٰہ آباد سے صحرائی راہ لی اور کئی دریاؤں اور آبادیوں کو طے کر کے
وہ اپنی جنم بھوم پنجاب میں آیا اور اپنے تیماردار کے پاس پہنچا جس پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا
پہلے زمانہ میں ایک دو آدمیوں کے سوا شکار کو نہ جاتے اور ہرنوں کی رمیدگی کے خوف
سے لباس بدل پہنتے اور جھاڑیوں درختوں کی آڑ میں بیٹھتے اور سوائے دشتی آہو کے
جس کو پکڑ کر شکار سکھاتے کسی اور جانور سے کام نہ لیتے مگر بادشاہ نے ایسا آئین نکالا
کہ جس سے سو آدمی اس شکار سے ایک وقت میں خوش ہو سکتے جس جنگل میں ہرن بہت
ہوتے ہیں وہاں چالیس گاڑیوں کو آہستہ آہستہ چلاتے ہیں اور ان کی آڑ میں آدمی بہت
جاتے ہیں اور جب ہرن آتے ہیں تو ان کو شکار کر کے خوشیاں مناتے ہیں۔ اب ہرنوں کو
پالتے ہیں اور وہ بچے دیتے ہیں اور ان خانہ زاد ہرنوں سے شکار کھیلتے ہیں۔ آہو کے
تیماردار خم ہو کر اپنے اوپر ہرنوں کو لدواتے ہیں صحرائی ہرن اس کو نر و مادہ کا تماشا
جان کر لڑتے آتے ہیں بادشاہ نے اس طریقہ کو پسند کیا اور آدمی کی جگہ ہرنی کو

نر ہرنوں کے لڑنے کے لئے کام میں لایا۔

تعجب ہے کہ ایک دفعہ ہرن نے اپنے جال میں چیتے کو پابند کیا جو پادشاہ کے ملاحظہ کے لئے گجرات سے آیا۔

گھنٹا ہیرہ۔ سپر کو یا ٹوکری کو اُلٹا کرکے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اس کی آڑ میں چراغ روشن کرتے ہیں اور پھر گھنٹے بجاتے ہیں۔ اور جانوروں کے انتظار میں کماندار بیٹھتے ہیں اس روشنی میں اور آواز کے سبب جانور جمع ہوتے ہیں جن کو کماندار گھات میں بیٹھے ہوئے تیرانداز کرتے ہیں۔ کبھی ہرن ساز کی آواز سے بیہوش ہو جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں۔ بعض اوقات شکاری منتر گاتے ہیں اس کے گرد جانور جمع ہو جاتے ہیں سنگین دل ان کو اُٹھا کر مار لیتے ہیں۔ پادشاہ ان دونوں طریقوں کو ناپسند کرتا ہے اور ان کو منع کر دیا ہے۔

تھانگی دشتی ہرنی کے روبرو ایک حیلہ پرداز ننگے سر ہو کر ناہنجار حرکتیں کرتا ہے۔ وحشی ہرن ان کو دیوانہ سمجھ کر اس پاس آکے متحیر ہوتے ہیں اور یوں اپنے آپ شکار بن کر اپنی جان کھوتے ہیں۔

نوکارہ۔ چند کماندار ہوا کی طرف منھ کرکے دور دور بیٹھتے ہیں۔ کچھ ہرنوں کو آدمی ہکا کر اس طرف لیجاتے ہیں۔ ہکانے والا چادر کو ہوا میں اُڑاتا جاتا ہے۔ وحشی ہرن اُس سے بھاگ کر کمانداروں کی طرف طبیعت کی خواہش سے دوڑ آتے اور شکار ہو کر جان حوالہ کرتے ہیں۔

ڈداون۔ یہ طریقہ بھی پہلی طرح کا ہے۔ ایک کماندار سپر پوش پہلی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں اور ہرنوں کو ہکوا کر اپنے پاس لاتے ہیں اور شکار کرکے خوش ہوتے ہیں

اجارہ۔ کماندار اپنے تئیں سر سے پاؤں تک اور اپنے تیر و کمان کو سبز شاخوں اور پتوں میں چھپاتے ہیں اور درندوں کی گذرگاہوں میں بہادرانہ کھڑے ہوتے ہیں اور صید افگنی کرکے مسرور ہوتے ہیں اور نیز ہرن کی کھال کی رسن بٹتے ہیں اور جہاں ہرن سوتے ہیں ان کے گرد اس رسن کو درخت پر یا چوب پر لگاتے ہیں اور

نوا کی طرف چند دام لگا دیتے اور شکاری کنارہ سے نمودار ہوتے ہیں جانور ڈر کر ناچار اس گندہ گاہ پر دوڑتے ہیں اور گرفتار ہوتے ہیں کبھی شکاری درخت کی آڑ میں اپنی آواز کو ہرن کی آواز بنا کر نکالتا ہے ہرن اس کی برابر آتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے کبھی مادہ آہو جنگل میں یا سکھائے ہوئے ہرن کو چراگاہ میں چھوڑتے ہیں۔ صحرائی ہرن ہمجنسی کے سبب سے پیوستہ ہوتا ہے اور پائے بند ہو جاتا ہے۔ ٹھگی۔ ایک کماندار خانہ زین میں برہنہ سر بیہوشوں کی طرح چلتا ہے اور پان کی پیک سے اپنی پوشش کو آلودہ کر کے زخمیوں کی مانند بیتابی کرتا ہے۔ صحرائی شکاری جانور اور اور جانور اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اس کے مرنے کے منتظر ہوتے ہیں اس حرص میں وہ خود شکار ہو جاتے ہیں۔

شکار گاو دشتی (بھینسے)

بھینسوں کی آرام گاہ یعنی سونے کی جگہ میں ایک ریسمان زمین کے اندر دباتے ہیں اور اس کے سرے کو حلقہ کی شکل کا بنا کے باہر رکھتے ہیں اور ایک لمبی رسی اس سے باندھتے ہیں اور اس سے۔ مادہ گاو میش کہ مستی پر آئی ہوئی ہوتی ہے باندھتے ہیں اور ایک آدمی تیز دست بہادر گھات میں بیٹھتا ہے وحشی بھینسا آتا ہے تو نر مادگی کے شغل میں لگتا ہے وہ دلیر مرد فرصت جو اس کو پائے بند کرتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس جوان مرد کو ایسی لغزش ہو جاتی ہے کہ اس کی جان جاتی ہے۔ ایک اور ترکیب یہ ہے کہ ان تالابوں کے قریب جاتے ہیں جہاں بہت سی بھینسیں آتی رہتی ہیں۔ اس کے قریب دام بچھاتے ہیں یا اور بھینسے پر بیٹھ کر تالاب کے اندر جاتے ہیں اور رسیاں ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ بعض بھینسوں کی جان سنان سے لیتے ہیں۔ بعض کو دام میں پھنساتے ہیں چراگاہ دشتی میں بھی اس روش سے شکار کر کے خوش ہوتے ہیں۔

شکار پرندہ

پادشاہ بلند پرواز نادر کار پرندوں سے بھی طرح طرح سے شکار کھیلتا ہے باز۔ شاہیں۔ شنقار۔ شاہباز۔ برکت کو اڑا کر عجیب عجیب کام اس سے لیتا ہے لیکن باشہ کو زیادہ تر دوست رکھتا ہے اور ان کے نام پسندیدہ رکھتا ہے۔ اوسط انہار میں

پادشاہ ان پرندوں کو دیکھ کر گریز بٹھاتا ہے اور شہروں میں بھیجدیتا ہے۔ جب گریز کا موسم ختم ہوتا ہے تو پادشاہ ان کو دیکھنا شروع کرتا ہے۔ اول خاص باز ترتیب سے ملاحظہ میں آتے ہیں۔ جرہ کی پسی وپیشی اُس کی شکار کی ذولی پر موقوف ہوتی ہے اس کے بعد باشہ وشاہین۔ کھیلہ۔ چیک باشہ بچہ۔ بچہ وشکرہ۔ اس کی چیک۔ ترمتی۔ ریکی۔ بیسرد دھوتی۔ چرغ۔ چرغیلہ۔ لگڑ۔ جھگڑ۔ یہ نام پادشاہ نے چیک لکڑ کا رکھا ہے) مول چین کو بھی پادشاہ دیکھتا ہے۔ وہ زرد رنگ کا چڑیا کی برابر ہوتا ہے اور شاہین کی مانند کلنگ کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ پرواز میں کلنگ کے پر کتر دیتا ہے دوسرا گروہ کہتا ہے اسکی آنکھوں کو زخمی کر دیتا ہے۔ مگر ان دونو باتوں میں سے ایک بات بھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ کشمیر سے اودہ پیر بھی پادشاہ پاس آیا ہے۔ وہ ایک سبز فام مرغ ہے طوطی سے چھوٹا۔ چونچ اُس کی لال۔ سیدہی درازی اور دُم زیادہ کشیدہ وہ ہوا میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کو شکار کرکے ہاتھ پر آن بیٹھتا ہے۔

مرغابی کے شکار میں بڑے تماشے دیکھے جاتے ہیں ان کے پکڑنے کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ ایک کالبد (پرند کی شکل) بناتے ہیں اس پر مرغابی کا پوست چڑہاتے ہیں جس میں پر ومنقار ودُم لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں دو سوراخ رکھتے ہیں جس میں شکاری دیکھتا ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے اس میں شکاری سر رکھتا ہے اور پانی میں گلے تک غرق ہوتا ہے اور وہ مرغابیوں کے پاس ہوشیاری سے جاتا ہے اور ایک ایک کو پکڑتا جاتا ہے عجب نشاط افزا تماشا ہوتا ہے۔ بہت سے پرند اپنی زیرکی سے اُسے پہچان جاتے ہیں اور اُڑ جاتے ہیں۔ کشمیر میں باز ایسا دست آموز ہوتا ہے کہ پانی پر سے جانوروں کو پکڑ کر کشتی میں لاتا ہے اور کئی جانوروں کو پانی کے اندر پکڑ کر ان کے اوپر جب تک بیٹھتا ہے کہ آدمی کشتی سے اُس پاس آتا ہے۔ ایک اور ترکیب شکار کی یہ ہے کہ بھینسیں پانی کے اندر جاتی ہیں اور ان کی آڑ میں شکاری اپنے تئیں چھپاتا ہے اور مرغابیوں کو پکڑتا ہے

مرغابی

دراج کے شکار کے بہت سے طریقے ہیں بعض انکے بچوں کو پکڑ کر ایسا ہلا لیتے ہیں کہ انکی آواز پر وہ ان پاس آتا ہے وہ اپنے ہمسروں سے لڑتا ہے۔ایک پنجرے میں اُسے بند کرتے ہیں اور اسکے گرد بالوں کا جال بچھاتے ہیں۔ وہ صیاد کے اشارہ پر بولتا ہے پھر اِلی دراج اسکی دوستی کے سبب سے یا لڑائی کے لیے اس پاس آتے ہیں جال میں پھنس جاتے ہیں۔

دراج کا شکار

رات کے وقت مٹی کی ہنڈیا تنگ منہ کی رکھتے ہیں اور اس میں سے توکی آواز نکالتے ہیں بودنے اس آواز سے ڈر کے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں دوسرا آدمی کچھ خس کو روشن کرکے گردش دیتا ہے جس سے انکی آنکھوں میں چکا چوند آتی ہے کہ وہ گرتے ہیں اور آدمی پکڑ کر انکو پنجرے میں بند کرتا ہے اور ایک بڑا جال بھی وہاں کشاں کشاں لیجاتے ہیں جسمیں وہ اُٹھتے ہوئے گرفتار ہو جاتے ہیں۔

بودنے کا شکار

گُمر چرغ کی مانند ہوتا ہے بچہ اس کا جرّہ کی برابر ہوتا ہے۔ایک بلا ہوا لگڑ لیتے ہیں اور اس کے گرد جال لگاتے ہیں اور اس کے پنجوں میں پرندوں کے پر لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو اڑاتے ہیں شکاری جانور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پنجے میں صید ہے اس کو چھین کرلے جانے کے ارادہ سے آتے ہیں اور گرفتار ہو کر لڑتے ہوئے زمین پر گر پڑتے ہیں۔ ستے کا اڈا بناکے اس پر غوغائی اور چغد کو بٹھاتے ہیں اور بالوں کے حلقے لٹکا دیتے ہیں الو بیتاب ہوتا ہے۔غوغائی لڑنے کے ارادہ سے غوغا کرتا ہے ان کے ہمسر انکی مدد کو کھڑے ہوتے ہیں اور قید میں پھنستے ہیں۔

گمر

غوغائی

پادشاہ غوک کو چڑیا کا شکار کرنا سکھاتا ہے اور اُسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے پادشاہ مکڑیوں کے شکار پر دل لگاتا ہے۔اور مکڑیوں کی چارہ سگالی اور جست وخیز وگرفت وگیر ملاحظہ کرکے نہایت خوش ہوتا ہے۔

غوک کی جست

(۲۹) آئین نشاط بازی۔

ہمیشہ سے پادشاہ چوگان بازی دن کو کرتے رہے ہیں مگر اس پادشاہ نے یہ ایجاد کیا کہ گیندیں پلاس کی لکڑی کی بناتے ہیں جو ہلکی ہوتی ہیں اور اس کے

آئین نشاط بازی (۲۹)

چوگان بازی

عشق بازی یعنی کبوتر بازی

..... اندر آگ دیر تک قائم رہتی ہے بس انکو روشن کر کے رات کو چوگان بازی ہوتی ہے۔

پادشاہ کو لڑکپن میں کبوتر بازی کا بڑا شوق تھا مگر جب بڑا ہوا تو کبوتر اُڑنے چھوڑ دیے۔ ایران توران کے پادشاہ اُس پاس اپنے ملک کے تحفہ کبوتر ہدیۃً بھیجتے تھے اور سوداگر چاروں طرف سے بہت عمدہ لاتے تھے۔ سفر میں یہ کبوتر ساتھ جاتے تھے۔ اور خیمے اکھڑ کر کہیں جاتے تھے تو یہ کبوتر اُڑتے ہوئے اسکے ساتھ جاتے تھے۔ کبوتر بیس ہزار سے زیادہ تھے ان میں پانسو خاصہ شمار ہوتے تھے۔

چوپڑ و چندل منڈل

چوپڑ کا کھیل بڑا پرانا ہے۔ اس میں سولہ گوٹیں اور تین پاسے شش پہلو ہوتے ہیں۔ دو آدمی اسے کھیلتے ہیں۔ مگر پادشاہ نے چندل منڈل ایجاد کیا جس میں سولہ آدمی کھیل سکتے تھے چار پاسے ہوتے تھے جن کے طولانی رخ پر ایک دو خال اور اس کے مقابل رخوں پر دس اور بارہ خال ہوتے تھے۔ بساط میں سولہ متوازی الاضلاع ایک مرکز پر دور صورت میں ان کی ترتیب ہوتی تھی اور ہر متوازی الاضلاع میں چوبیس خانے ہوتے تھے۔ ۶۴ گوٹیں ہوتی تھیں جن میں سے ہر ایک آدمی چار گوٹیں لیتا تھا۔

گنجفہ ایک مشہور کھیل ہے پادشاہ نے اس کے پتوں میں کچھ تغیر کیا ہے متقدمین نے اسکی بنیاد بارہ پر رکھی ہے اور اس کا کچھ خیال نہیں کیا کہ اس کے لیئے بارہ امیر بارہ صنف کے چاہئیں۔ پادشاہ اس طرح کے گنجفہ سے کھیلتا ہے اول اشوپت کے خدیو اسپان۔ پہلے ورق پر یہ نقش ہے کہ ایک پادشاہ گھوڑے پر سوار ہے وہ دہلی کے پادشاہ سے مشابہت رکھتا ہے کہ اس کے سر پر تاج اور اس کے ساتھ علم اور سامان شاہی ہے۔ دوسرے ورق پر وزیر کی تصویر ہے جو گھوڑے پر سوار ہے باقی دس ورقوں پر گھوڑے کی تصویر ہے (اور یکہ سے دہلی تک ایک ایک زیادہ ہوتی جاتی ہے) دوم گج پت یعنی ایسا فرماں روا جس کی دولت کا مدار ہاتھیوں پر ہو جیسا ایک اڑیسہ کا فرماں روا۔ اس میں ہاتھی کی تصویریں گھوڑوں کی تصویر کی جگہ بناتے ہیں۔ سوم نرپت یعنی آدمیوں میں بزرگ جس کے ملک کے مدار پیادوں پر ہو جیسے کہ فرمانروائے بیجاپور دہلی میں تصویریں

اس طرح بناتے ہیں کہ پادشاہ تخت پر شکوہ سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہے اور صندلی پر وزیر بیٹھا ہے۔ باقی دس ورقوں پر پیادوں کی تصویر ایک سے دس تک ہیں۔ چہارم گڈھ پت۔ کلاں قلعہ ایک ورق پر ایک شخص تخت پر قلعہ کے اوپر بیٹھا ہے اور وزیر قلعہ کے اوپر صندلی پر بیٹھا ہے باقی دس پتوں پر قلعہ کی تصویریں ایک سے دس تک ہوتی ہیں۔ پنجم دھن پت خدیو خزاین۔ پہلے ورق پر ایک آدمی کی تصویر بناتے ہیں کہ وہ تخت پر بیٹھا ہے اور چاندی سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور وزیر کی تصویر اس طرح بناتے ہیں کہ وہ صندلی پر بیٹھا ہوا خزانہ کا محاسبہ لے رہا ہے۔ اور اوراق میں طلا و نقرہ کے تھیلیوں کے نقش ایک سے دس تک ہوتے ہیں۔ ششم دلپت بزرگ نیرو۔ اول ورق پر ایک قربان دہ مسلح تخت پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے گرد آہنیں پوش کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے ورق پر وزیر جبہ پوش صندلی پر بیٹھا ہوا۔ اور باقی ورقوں کے سطحوں پر مسلح آدمی ایک سے دس تک ہشتم تی پت۔ ایک فرمانروا عورت تخت پر بیٹھی ہوئی اور گرد اس کے لونڈیاں۔ عورت وزیر صندلی پر بیٹھی ہوئی اور دس اوراق پر ایک سے دس تک عورتیں۔ نہم سرپت۔ دیوتاؤں کا پادشاہ جس کو اندر کہتے ہیں اس کی تصویر تخت پر بناتے ہیں۔ وزیر صندلی پر اور دس پتوں پر ایک سے دس تک طرح طرح کی تصویر دیوتاؤں کی بناتے ہیں۔ دہم اسرپت۔ کلاں دیوتا۔ سلیمان داؤد کی تصویر تخت پر اور وزیر کی صندلی پر بناتے ہیں اور باقی اور پتوں پر دیوؤں کی تصویر بناتے ہیں۔ یازدہم بن پت۔ وحشی جانوروں کا بزرگ شیر کو چند جانوروں کے ساتھ نمودار کرتے ہیں اور وزیر کو پلنگ کی تصویر پر سوار کرتے ہیں اور باقی دس ورقوں میں جانوروں کی تصویریں ایک سے دس تک بناتے ہیں۔ دوازدہم آہ پت یعنی سردار باران مار کو اژدہا پر سوار کرتے ہیں اور وزیر کو مار پر سوار کرتے ہیں اور باقی دس پتوں میں ایک سے دس تک سانپ بناتے ہیں اول چھ کو بیش بر اور آخر کو ششش کو کم بر کہتے ہیں۔

پادشاہ نے مشہور گنجفہ میں جس سے سب کھیلتے ہیں شائستہ تصرف کئے ہیں پادشاہ زر سرخ کو ایسا بناتے ہیں کہ وہ زر بخش رہا ہے اور وزیر صندلی پر بیٹھا خزانہ کو دیکھ رہا ہے اور باقی ورقوں

پر عملہ کے آدمیوں کی تصویریں ہیں - زرگر - گداز گر مطلس ساز - (ٹکڑے کرنیوالا) ورّاق - تیکچی - مہر
بخش کرنیوالا - تنکچی دھن - تنکچی من - خرندہ - فروشندہ - قرص گر پادشاہ برات کی تصویر ایسی
بناتے ہیں کہ فرامین واسناد اور اوراق دفتر اس کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں - وزیر صندلی پر
بیٹھا ہوا دفتر آگے لئے ہوئے اور باقی اوراق میں کار گذار - کاغذ گیر - مہرہ کش - مسطر کش - نویسندہ
دفتر - مصوّر - نقاش - جدول کش - فرمان نویس - مجلد - رنگریز - پادشاہ قماش کی تصویر شکوہ کے
ساتھ بناتے ہیں کہ وہ قماش کو دیکھ رہا ہے جیسے کہ گاذ قسطاس - ابریشم - ابریشمی - اس کے
پاس وزیر صندلی پر بیٹھا ہوا پہلی چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اوراق پر بارکش جانوروں کی تصویریں
چنگ کے پادشاہ کو تخت پر بٹھاتے ہیں کہ وہ گانا سن رہا ہے اور وزیر صندلی پر بیٹھا ہوا اہل نغمہ
کا حال دریافت کر رہا ہے اور باقی اوراق پر غناگروں کی تصویریں زر سفید کی پادشاہ کی تصویر ایسی
کھینچی ہیں کہ وہ چاندی نقد بانٹ رہا ہے اور وزیر صندلی پر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے اور اوراق پر مثل
زر سرخ کے اہل عملہ کی تصویریں بناتے ہیں - شمشیر کے پادشاہ کی تصویر ایسی بناتے ہیں کہ وہ تلوار
کو دیکھ رہا ہے اور وزیر صندلی پر بیٹھا ہوا سلاح خانہ دیکھتا ہے اور اُس کے اوراق پر آہن گر صیقل
گر وغیرہ بناتے ہیں - تاج کے پادشاہ کو تاج بخش بناتے ہیں اور وزیر کو صندلی پر بٹھاتے ہیں کہ وہ تاج
کا سامان کرے و . قوں کے کھفوں پر ان کے عملہ کی تصویر بناتے ہیں - درزی اتو کش وغیرہ - غلام
کے پادشاہ کو ہاتھی پر سوار کرتے ہیں اور اس کے وزیر کو عرابہ پر - اوراق پر غلام بناتے ہیں بعض
ان میں کھڑے ہوتے ہیں - بعض مست بعض ہوشیار - پادشاہ کی غرض ان کھیلوں سے یہ ہے
کہ انجمن یکجہتی فراہم ہو اور آدمیوں کا امتحان ہو -

دفتر سوم ملک آبادی

(۱) آئین تاریخ الٰہی

مدت سے پادشاہ کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان میں تاریخ ماہ و سال تازہ مقرر کرے جس کے سبب سے دشوار آسان ہو تاریخ ہجری سے بادشاہ کو سرگرانی اس سبب سے ہوتی تھی کہ وہ اس کی ناکامی پر مطلع ہو گیا تھا۔ لیکن کوتاہ بین کارشناسوں کا انبوہ تھا جو اس تاریخ کے رواج کو بھی فرائض مذہبی میں شمار کرتے تھے۔ پادشاہ کی طبیعت بھی مدارا پسند تھی اس خاطر سے وہ اس ارادہ کو ظاہر نہ کرتا تھا۔ ہرچند انصاف منشوب پر ظاہر ہے کہ اس معاملہ دانی کے بازار کو دیکھنے گوہر شب تاب سے کیا نسبت ہے اور اس صورت کی سلسلہ پیوندی کو حقیقت سے کیا رشتہ ہے لیکن جہان تو جہالت سے پر ہے ۹۹۲ھ ہجری میں پادشاہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ امیر فتح اللہ شیرازی نے پادشاہ سے تاریخ کا آغاز کیا۔ سال و ماہ شمسی کو حقیقی سمجھا سال کبیسہ کو دور کیا۔ مہینوں اور دنوں کے فارسی نام قائم رکھے۔ مہینے کے دن ۲۹ سے ۳۲ تک ہوتے ہیں آخر دو روز دن کا نام اس نے روز شب رکھا۔

(۲) آئین سپہ سالار

سپہ سالار پادشاہ کا جانشین ہوتا ہے۔ رعیت و صوبہ کی سپاہ اس کی فرمان پذیر ہوتی ہے۔ رعیت کی آبادی اس کی دادگری سے ہوتی۔ پس ہر کار میں وہ خدا کی رضامندی کا طالب ہو عبادت زیادہ کرے۔ کبھی آدمیوں کی خیر اندیشی کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ زمانہ کی جلد کاری میں نہ سو جائے۔ یاوہ گوئی اور تلخ روئی نہ کرے۔ آگہی و قدر دانی کو اپنی خو کرے خاص کر اپنے نزدیک کے نوکروں کی اور دور کے خدمت گذاروں کی قدر کرے جو کام ملازم کریں وہ فرزندوں کو نہ دے اگر وہ نہ ملے تو چند برگزیدوں کے ساتھ ہمزبان ہو اور گذارش کرے۔

قطعہ

گاہ باشد کہ پیر دانشمند ۔۔۔ بر نیاید درست تدبیرے
گاہ باشد کہ کودک ناداں ۔۔۔ بہ غلط بر ہدف زند تیرے

انجمن راز میں بہت آدمیوں کو نہ داخل کرے۔ دلیر دانا دلسوز کم آز نایاب ہوتا ہے۔ مبادا کوئی خلل پیدا
کرکے بالشت وقت کو ہاتھ سے جانے دے۔ سرداری کو پاسبانی جانکر دوربینی کام میں لائے و مزاج
شناسی کو دستاویز دولت بنائے۔ شائستہ زندگی بسر کرے۔ لطف و قہر کو خرد کی فرمان پذیری میں رکھے
سرکشوں کو کارشناسی و اندرزگوئی سے فرمان پذیر کرے ورنہ تلخ گوئی و بیم افزائی و بند دزوں و عضو کاٹنے
کی سزا دے مگر جان لینے میں بہت کچھ سوچ بچار کرے۔ زبان کو گالی دینے سے خراب نہ کرے کہ وہ طریقہ بازارنشین
ہرزہ درایوں کا ہے گفتار میں قسم نہ کھائے قسم کھانا اپنے تئیں دروغ گوئی کے ساتھ اور مخاطب کو بدگمانی کے
ساتھ تہمت آلود کرنا ہے۔ دادپرسی میں گواہ و سوگند پر کفایت نہ کرے۔ طرح طرح کی پرسش کرے اور
سواد پیشانی کی دید اور دوربینش کرے اور اوروں پر کام چھوڑکر خود فارغ نہ ہو بیٹھے۔

دادخواہوں کو رنج انتظار نہ دے گناہ سے چشم پوشی کرے اور پوزش پذیری کرے
ایسی زندگانی بسر کرے کہ مردمی و شکوہ کو گزند نہ پہنچے۔ کسی کے مذہب کا متعرض نہو خردمند
کار دنیا میں کہ پائدار نہیں ہوتا۔ اپنا نقصان نہیں قبول کرتا تو دین جو پایندہ ہے
اس میں ندانستہ کیسے زیان قبول کریگا اگر وہ حق پر ہے تو اس کے ساتھ شورش ناپسندیدہ ہے
ورنہ وہ بیمار نادانی ہے مہربانی کے لایق ہے۔ ملک کے ہر حصے کو راستی منش چند کاروں کے
سپرد کرے اور پُردل آدمیوں کی دیدبانی سے راہوں کو امن کرے ہر وقت خبر لیتا رہے
ہمیشہ نیک اندیش دوربین راست گو کم آز کو جاسوسی کے لئے مقرر کرے اگر کوئی ایسا نیک مرد
نہ ہاتھ آئے تو ہر کار میں چند آدمی جو باہم آشنا نہوں متعین کرے اور ہر ایک کی گذارش
کو لکھ کر راستی کا امتحان کرے ہمیشہ خرچ کو دخل سے کم رکھے اور اندوختہ کو مستمندوں کو دے
خاص کر ان لوگوں کو جو سوال نہیں کرتے۔ سامان سپاہ و یراق سے ایک لحظہ غافل نہ
ہو۔ سواری کو نہ چھوڑے تیر و بندوق میں مشغول رہے اور آدمیوں کو ان کی ورزش کراتا
رہے آدمیوں کے مقرب بنانے میں اور ان کے اعتبار بڑھانے میں دیدہ دری اور آہستگی
کو ہمدستی کرے بہت سے خراب درون ناپارسا گوہر اخلاص کی گفتگو

درمیان لاتے ہیں۔ اور اپنا نرخ بالا کرتے ہیں اور ترقی زراعت اور آبادی زمین میں ہمت صرف کرے اور راست پیمانی کے ساتھ دلوں کا شکار کرے۔ کسانوں کی مدد کو خدا کی بڑی عبادت عمل گزار انصاف گرائے مقرر کرے۔ ہر وقت ان کے کارکردے سے مطلع رہے۔ حوض و چاہ و کاریزد باغ و سرا و منازل خیر کے بنانے میں اپنی سعادت جانے۔ یا ستانی آثار کی تعمیر میں ہمت کرے خلوت گزیں پراگندہ دل نہ ہو کہ وہ صحرانشیں وارستوں کا آئین ہی۔ نیز عام آدمیوں میں اور ہنگاموں میں بیٹھنے کی بھی عادت نہ کرے۔ یہ طریقہ نابینا صورت پرستوں کا ہی ؎

تو یا ہمہ منشیں و مبراز ہمگان نیز در راہ خرد بردہ مگس باش نہ عنقا

خدا پرستوں کی عزت کرے خدا جو گوشہ نشینوں و برہنہ پا ژولیدہ مُویوں سے دریوزہ گر ہو و نیایش آفتاب و چراغ کو خورشید معنوی و آتش پرستی نہ جانے۔ بیداری کا خوگر ہو۔ خواب و خور کو اندازہ سے نہ گذرنے دے آدھی رات کو اور دوپہر کو نیازمندی کرے۔ جب ان سب کاموں سے فارغ ہو تو فرہنگ ناموں کا مطالعہ کرے اور ان پر کاربند ہو اگر اس سے دل کو آرام نہ ہو تو مولانا روم کی مثنوی پڑھے اور اس کے ظاہری معنی سے اصلی مقصد پر توجہ کرے۔ وہ افسانوں کو نہ پڑھے۔ نیک سگال شناسا سے دوستی کرکے اسکو اجازت دے کہ وہ اسکے روزنامچہ حال کے مطالعہ میں ژرف نگہی کام میں لائے اور جو بات اس کی کارآگہی کے نزدیک بُری معلوم ہو اس کو خلوت میں گذارش کرے۔ اگر اسکی شناخت میں لغزش ہو تو اسکے آزار کے درپے نہ ہو اس لئے مدت سے آدمی راستی تلخ نما کی گذارش سے باز رہتے ہیں خصوصاً خشمنا کی حالت میں کہ جس وقت عقل سوتی ہی اور طبیعت جوشش پر ہوتی ہے۔ بیشتر ہمنشین عیب بین و عیب آرا ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی ایک کا دل جلتا ہے تو وہ خوف کے مارے دم نہیں مارتا ہے اور ایسے آدمی کمیاب ہیں کہ اوروں کے فائدہ کو اپنے نقصان میں اختیار کریں بدگویوں کی گذارش سے غصہ نہ ہو۔ اور خوب دوربینی کرے اس لئے کہ سخن ساز بدگو ہر یختہ کاری کے آئین کے ساتھ دستان فروشی کرتے ہیں اور اپنے تئیں بے غرض مبتلا کر جان آزاری میں

کوشش کرتے ہیں کین توزی نہ کرے آزار و مدارا اختیار کرے۔ قدیمی خاندانوں کو برباد نہ کرے گوشنگان شائستہ کو سفارش گذار اور اُن کے پس ماندگان ناہنجار کو جانے دید بانی نہ کرے کہ پادشاہ کے ارادت گزیں ملاقات کے وقت چھوٹے کو اللہ اکبر کہتے ہیں اور بڑے کو جل جلالہ۔ ایک برس سے کم عمر گوسفند و بز کو نہ کھائے اور اپنے روز ولادت سے ایک ماہ تک گوشت نہ کھائے اپنے حلال کئے ہوئے جانور کو نہ کھائے۔ زناشوئی کی عشرت میں کم مشغول ہو۔ حاملہ عورت سے ہم صحبت نہ ہو۔ آش کہ لوگ مرنیکے بعد تقسیم کرتے ہیں ہر سال روز ولادت کو پکا کر بھوکوں کو کھلائے۔ **بیت**

برگ عیشی بگور خویش فرست   پس نیارد و زپس تو پیش فرست

جب آفتاب ایک برج سے دوسرے برج میں جائے۔ سپاس گذارش کرنے بیخبروں کے خبر کرنے کے لئے توپ و بندوق چھوڑے۔ آفتاب کے نکلنے کے وقت اور آدہی رات کو کہ آفتاب کے بلند ہونے کا وقت ہے نقارہ بجوائے۔

(۳) آئین فوجدار

جیسے ایک صوبہ میں سپہ سالار مقرر ہوتا ہے ایسے چند پرگنوں کی دید بانی کیلئے ایک دلاور دادگر کم آز۔ اندازہ شناس درست پیان متعین ہوتا ہے اس کا نام فوجدار ہوتا ہے وہ فرمان پذیری اور یاوری میں اول ہوتا ہے۔ جب کسان یا عمل گذار خالصہ یا جاگیردار سرکشی کرتا ہے تو وہ اسکو دلاویز گفتار سے فرمان پذیر بنا م ہے۔ ورنہ اعیان سلطنت کی اجازت لیکر اسکی نالش کرتا ہے گروہ سرتاب کے قریب اپنا بنگالہ بناتا ہے اور گاہ بیگاہ ان کے آدمیوں اور مال کو وہ گزند پہنچاتا ہے۔ دفعۃً وہ یہ کام نہیں کرتا۔ جب تک پیادوں سے کام نکلتا ہے سواروں کو حکم نہیں دیتا قلعہ پر تیز دستی نہیں کرتا۔ ایسی جگہ پر کہ جہاں تیر و توپ و تفنگ نہ پہنچ سکیں بیٹھا ہے اور آمد و شد کی راہ رکھتا ہے شب خون سے غافل نہیں ہوتا اور اور پناہ کے اندیشہ میں رہتا ہے اور یزک (قراول) بھیجنے سے فارغ نہیں ہوتا۔ جب وہ سرکشوں کے بنگالہ پر تاخت کرتا ہے تو غنیمت کے حصے مناسب طور سے کرتا ہے

اس کا پانچواں حصہ خالصہ میں داخل کرتا ہے اگر دیہ میں باقی ہوتی ہی تو اول وہ باقیداروں کا شمار کرتا ہی ہمیشہ سپاہی کے اسپ و یراق کا سراغ لگاتا رہتا ہی۔ اگر کسی سپاہی پاس گھوڑا نہیں ہوتا تو وہ ہمراہیوں سے لیکر اس کے گھوڑے سرانجام کرتا ہی اور اگر لڑائی میں گھوڑا مارا جاتا ہی تو سرکار والا سے اسکا سامان کراتا ہی سپاہ کی حاضر و غائب کی کتاب کی نقل پادشاہ کی درگاہ میں بھیجتا رہتا ہی۔ اور پادشاہ کے آئینوں کے رواج کو پیش نہاد ہمت رکھتا ہے۔

اگرچہ داوری و فریادرسی فرماندہوں کا کام ہے لیکن ایک آدمی کی قوت سب پاس نہیں پہنچ سکتی۔ ناگزیر یہ ہے کہ وہ کسی آگاہ دل سیر چشم کو داد دہی پر نامزد کرے وہ گواہ و سوگند پر کفایت نہ کرے اور تحقیق کرے پرسندہ نادان ہوتا ہے اور مدعی و مدعا علیہم دو دانا ہوتے ہیں۔ سخت کاوش و درست بینش بغیر حقیقت حال پر مطلع ہونا نہایت دشوار ہے۔ بدگوہری و آزمندی کی افزایش کے سبب سے گواہ و سوگند پر تکیہ نہ کرنا چاہئے۔ بغیر طمع و لالچ کے مزاج شناسی سے ستم رسیدہ بیداد گر کو پہچانے اور پردلی و عدالت دوستی سے تحقیق کرکے موافق عمل کرے۔ اول پرسش خوب کرے اور ہر گواہ کے جاہ سے آگاہ ہو اور ہر لڑائی میں جن باتوں کا تحقیق کرنا سزاوار ہو ان کی تنقیح کرے۔ سخن کو شاخ شاخ کرے اور گواہوں سے جدا جدا پوچھکر ان کا بیان لکھے جب یہ کام فہمیدگی و آہستگی و ژرف نگہی سے انجام کو پہنچے دوسرے وقت میں فیصلہ کرکے اوروں سے پوشیدہ رکھے۔ پھر دوبارہ پہلی طرح تحقیقات ازسرنو پرسش و کاوش کے ساتھ کرے۔ دگرگونی و یک رنگی میں یعنی دونو دفعہ کی تحقیقات کے اختلافات و اتفاقات سے اصل بات کو سمجھے۔ اگر کارشناسی مردانگی کے ساتھ فراہم نہو تو دو آدمی متعین کرے۔ جن میں سے ایک تحقیق کرے جس کا نام قاضی ہے اور دوسرا عمل کرے اُس کو میر عدل کہتے ہیں۔ کوتوالی کے لایق وہ شخص ہوتا ہے جو دلیر کارواں چابک دست عنان کشیدہ بردبار شکل فہم نیک سگال ہو اس کی بیداری و شب گردی سے

(۴) آئین میر عدل و قاضی

(۵) آئین کوتوال

اور لوگ خواب آسایش میں ہوں اور بدگوہر ناپیدا ہوں۔ آباد گھروں و راہوں میں سے ایک ایک کو وہ لکھے اور آپس میں ایک دوسرے کی یاوری کا عہد و پیمان لے اور ایسا قرار دے کہ وہ غم و شادی میں شریک ہوں۔ چند گھروں کا ایک محلہ بنائے اور کسی بزرگ کو وہ محلہ سپرد کرے اور آیندہ روندہ کے روزنامچہ پر اور جو اور واقعات پیش آئیں انکی تحریر پر اسکی مہر ہو۔ اور کسی ایک بیگانہ آدمی کو جو اہل محلہ سے ناآشنا ہو جاسوسی کے لئے مقرر کرے اور ہمیشہ ان کے بیانات کو لکھے اور ژرف نگہی کو کام میں لائے۔ سرائے جدا بنائے۔ اور جو ناشناسا آئیں انکو وہاں اتارے اور چند دیکھنے والے ان کا امتحان کریں۔ طرح طرح کے آدمیوں کے خرچ و دخل کے دیکھنے میں باریک بین ہو نیک ذاتی کو پیشکار بناکر کاوش کا انتظام کرے پیشہ وروں کے ہر گروہ میں سے کسی کو سرگروہ بنائے۔ اور دوسرے کو دلال۔ آئین آگہی سے خرید و فروخت ہوا کرے اور انہیں سے روزنامچوں پر دستخط کرائے۔ کوچوں کی فراخی میں کوشش کرے۔ سربند انکو کرے۔ آلایش سے ان کی پاسبانی کرے۔ جب کچھ رات گذرے تو آدمیوں کی آمد و شد کو بند کرے۔ بیکاروں کو ہنرمندی کے لئے بٹھائے پہلے ظلموں کو موقوف کرے اور کسی شخص کو کسی کے گھر میں بزور نہ دخل دینے دے۔ چوروں اور چوری کے مال کو برآمد کرے ورنہ وہ عہدہ سے معطل ہو۔ اور ایسا کرے کہ سوائے سلاح و فیل و اسپ و گاؤ و شتر و گوسفند و بز و قماش کے کسی اور چیز پر کوئی شخص تمغا و باج نہ لے سکے۔ پرانے سکوں کو گلوا دے یا نامسکوک قیمت کے موافق خزانہ میں داخل کرائے۔ پادشاہی زر و سیم کی قیمت میں تفاوت نہ ہونے دے۔ جتنے گھس گئے ہوں کاہش کے اندازہ کے موافق ان کی قیمت باز یافت کرے۔ نرخ کی ارزانی میں آگہی سے کام کرے اور شہر سے آگے جاکر لوگوں کو جنس نہ خریدنے دے۔ توانگر ضرورت سے زیادہ نہ خریدیں۔ بانٹوں کی پاسبانی کرے اور سیر کو ۳۰ دام سے کم و بیش نہ ہونے دے اور گز میں کمی و افزونی نہ ہونے دے اور شراب کے بنانے و ناپنے و بیچنے و خریدنے

سے آدمیوں کو باز رکھے اور اندرونی پژوہش سے کنارہ کشی کرے۔ اگر کوئی شخص مرجائے یا غائب ہو جائے اور اسکا پس ماندہ کوئی نہ ہو تو اسکے مال و اسباب کو تحت میں رکھے اور دریا کے اور کنوؤں کے گھاٹوں کو عورتوں اور مردوں کے لئے جدا جدا کرے اور دولاب کھینچنے کے لئے کسی پاکیزہ آدمی کو مقرر کرے اور عورت کو گھوڑے پر سوار نہ ہونے دے اور ایسا کرے کہ گاؤ و گاؤ میش و اسپ و شتر تسلیخ (ذبح) نہ ہونے دے۔ غلام بنانے اور بردہ فروشی کو روا نہ رکھنے۔ اور عورت کو زبردستی سے ستی کریں تو انکو ستی نہ کرنے دے اور سزادار نفس کشی کو یعنی جو آدمی مرنے کو ہو ویسے تو اسکو دار پر نہ کھینچنے دے۔ بارہ برس سے کم عمر کے لڑکے کا ختنہ نہ ہونے دے اور جب وہ بارہ برس کا ہو تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ختنہ چاہے کرے یا نہ کرے۔ ریاکار ملنگوں و قلندروں و دوکانداروں کو باہر نکال دے یا انکو اپنے طریقہ سے باز رکھے مگر کسی گوشہ نشین ایزد پرست کو آزردہ نہ ہونے دے اور بادیۂ طلب کے برہنہ پاؤں کو کوئی گزند نہ پہنچنے دے۔ قصاب و صیاد و غسال و بناش کے گھروں کو آدمیوں سے جدا بنوائے۔ اور آدمیوں کو ان سیہ دروں سنگ دلوں کی آمیزش سے باز رکھے۔ اور جو کوئی جلاد کے ساتھ ہمکاسہ ہو اس کے ہاتھ کو آسیب پہنچائے۔ اور اگر یہ ہمکاسہ اسکی جورو ہو تو اسکی انگلی کو آسیب پہنچایا جائے اور شہر سے باہر مغرب رویہ قبرستان کو مقرر کرے اور بادشاہ کے مریدوں کو سوگواری میں کبود پوشی سے باز رکھے اور ان کی سرخ پوشی میں کوشش کرے۔ فروردین مہینے میں شرف آفتاب تک جو (۱۹۔ کو ہوتا ہے) اور سارے ماہ آبان اور روز ہائے تحویل وغیرہ ماہ شمسی۔ اور اسکی ۱۶۔ تاریخ کو۔ الٰہی جشنوں کے دن۔ چاند سورج کے گرہنوں کے دن۔ اینوار کو آدمیوں کو تسلیخ سے باز رکھے۔ شکاری جانوروں کے لئے اور بیماروں کے لئے جن کو گوشت کھانا ضروری روا رکھے اور شہر کے باہر جانوں کا شکار ہو روز شرف میں چراغوں کی روشنی کرے۔ آغاز شب میں جس کے بعد عید ہو اور عید کے دن ہر پہر پر نقارہ بلند آواز ہو۔ تقریبات پارسی میں وہندی میں تاریخ الٰہی کو رواج دے اور ہندی پتروں میں ہر مہینے کا آغاز شکل پچھ (پکش) سے کرے

(۶) آئین عمل گذار

عمل گذار چاہیے کہ کشاورز دوست ہو جدکاری راست گفتاری اس کا آئین ہو۔ اپنے تئیں پاسبان
کل پادشاہ کا جانشین جانے۔ ایسی جگہ بیٹھے کہ ہر شخص اُس پاس آسانی سے جاسکے اور اس کو کسی
میانجی کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ بجز دگزین وحیلہ فروش کے ساتھ اندرزگوئی سے پیش آئے اگر اس سے
فائدہ نہ ہو تو مالش کرے زمین افتادہ (عاجز) سے ڈرے۔ راہ زن وخون ریز وتیرہ کار سے جرمانہ
لینے میں درگذر نہ کرے اور ایسی کارکرد اختیار کرے کہ کسی کی قریاد کی آواز نہ اُٹھنے پائے۔ مفلس
کسانوں کو قرض دیکر دستگیری کرے اور آہستگی کے ساتھ اس سے یہ قرض وصول کرے۔ جب بیس دہ
کی نگاپو سے گانوں کی جمع کامل ہو جائے۔ تو ہر بیگھہ میں نیم بسوہ اسکو چھوڑ دے ورنہ اسکی خدمت کے
موافق اس کو بہرہ مند کرے۔ زمین کی چندگی کی پژوہش کرے اور چپہ چپہ زمین کو تراز و سے
بنیش میں تولے اور اُس کی چگونگی پر واقف ہو زمینوں کی کاشت میں بہت تفاوت ہوتا ہے
اور ہر فصل میں زمین بوئی جاتی ہے ہر کسان جدا جدا تیار رواری کرتا ہے اور اس کا حصہ پاتا ہے
پہلے عمل گذار نے جو جمع تشخیص کی ہو آگہی کے ساتھ اس کا امتحان کرے۔ اگر بیوقوفی اور
خیانت اُس میں ہوئی ہو تو اوس کی چارہ گری کرے۔ ویران زمینوں کی آبادی میں
کوشش کرنے اور بہت اس کی احتیاط کرے کہ کوئی آباد زمین ویران نہ ہو جائے
ایسی کوشش کرے کہ ہر جنس عمدہ پیدا ہو اور ان کی افزائش کے لئے دستور کے
موافق جو جمع لیجاتی ہے اس کو کچھ کم کردے اگر کسان اپنے اقرار سے زمین کم کاشت کرے
اور اُس کی وجہ بھی عمدہ بیان کرنے تو بھی نہ قبول کرے اور اگر کسی گانوں میں بجز زمین نہ
رہے اور دہقان کو زیادہ مقدور بونے کا ہو تو دوسرے موضع کی زمین اس میں زیادہ
کردے۔ زمین کی پیمایش میں دوربینی و دادگری کو پیش نظر رکھے سال بسال کشاورز
کی قوت کو بڑہاتا رہے اور اپنے اقرار کا پابند رہکر افزائش کاشت سے زیادہ نہ لے
کہ اگر کچھ زمین کی پیمایش کی ضرورت ہو۔ اور کچھ انتظام ہوا ہو تو اقرار نامہ کو جلدی
جلدی درگاہ شاہی میں بھیجے۔ نقد لینے کی عادت نہ ڈالے غلہ بھی لے یہ غلہ لینا کئی

طرح سے ہوتا ہے اول کنکوت کن کے معنی اناج کے اور کوت کے معنے تخمینہ وقیاس کے،
تمام زمین کا اندازہ جریب سے یا قدم سے کیا جائے، اور غلہ ترازو سے بینش سے تولا جائے
جو اس کے تجربہ کار ہیں انکے اس تخمینہ میں فرق نہیں ہوتا۔ اگر خاطر میں کوئی اندیشہ ہو تو
اعلیٰ ومتوسط وادنےٰ کھیت کو کاٹ کر تولے اور اشتباہ کو دور کرے۔ بعض اوقات
زمین کا بھی تخمینہ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے (۲) بٹائی جس کو بھاولی بھی
کہتے ہیں کھیتوں کا اناج کاٹ کے خرمن کرتے ہیں اور قرارداد کے موافق حصے کر لیتے
ہیں۔ اس صورت میں پاسبان چاہئے ہیں۔ ورنہ بدگوہر خائن خیانت کرتے ہیں۔ (۳)
کھیت بٹائی۔ کاشت زمین کے حصے کرتے ہیں (۴) لانگ بٹائی۔ غلہ کو کاٹ کر
اس کے پشتارون کے آپسیں حصے کرتے ہیں اور ہریک اپنے گھر لیجا کر اسکو پاک کرتا ہے
اور فائدہ اٹھاتا ہے اگر رعیت کو گراں نہ معلوم ہو تو نرخ بازار کے موافق زمین غلہ بخش
کی نقدی کرلے اس زمین میں اگر جنس کامل بوتے ہیں تو سال اول میں چہارم حصہ دستور سے
کم لے۔ ضبطی میں اگر سال گزشتہ سے گزیں جنس زیادہ اور زمین کم ہو اور جمع موافق ہو تو نہ جوش
میں آئے اور نہ لڑے ہمیشہ مالک کاشت کی خوشی کا طالب ہو وہانت کے بڑے آدمیون کے ساتھ
بندوبست نہ کرے کہ تن آسانی اور کارنشناسی پیدا ہو اور ستم پیشہ چیرہ دستوں کو قوت ہو بلکہ ایک
ایک کسان سے واقف ہو کر مہربانی سے نوشتہ اسکو دے اور اس سے لے۔

جریب کش وپیمایندہ اور اور عمل گذاروں سے ضامن لے۔ کل اہل پیمایش جس روز کام
کریں ان کو ۱۳ دام اور ۱۲ سیر اناج دلائے اور اس کو ماہوارہ میں شمار کرے۔ نپی ہوئی
زمین پر نشان کرے۔ گانوں کے کلاں تر سے مچلکا لے کہ وہ زمین کو پوشیدہ نہ رکھے
اور مختلف الفصول زمینوں کو بتلائے۔ پیمایش کی نگاہ میں اگر کوئی قطعہ زمین
ناقص نظر میں آئے تو اس کا اندازہ کیا جائے اور اس کی مقدار روز بروز لکھ کر کشاورز
کو دی جائے۔ اگر محصول وصول کرنے کے بعد اس کی اطلاع ہو تو ہمسایوں اور کاغذ خام

سے شناسائی حاصل کرکے میانہ روی عمل میں لائے کارکن جو سوانح ضبطی کو لکھے مقدم و پٹواری
بھی اسکے ہم قلم ہوں اوس کی تحریروں کا عمل گذار مقابلہ کرے اور اسپر مہر لگائے اور اس کی
نقل بتکچی کو سپرد کرے جب موضع کا کام ختم ہو جائے تو اوسکی
یک ضمن منتخب لکھے اور تازہ تصحیح کرے اور اس کے کارکن پٹواری تصدیق لکھیں اور اس کاغذ کو ہفتہ
بہفتہ پادشاہ کی خدمت میں بھیجے اور پندرہ روز سے زیادہ نہ گذریں اور درگاہ والا میں کاغذات
بندوبست کے بھیجنے کے پیچھے اگر کوئی آفت کشتکار پر پہنچے تو اس وقت نابود کا اندازہ کرے
اور اس کو لکھ کر بے تاخیر روانہ کرے کہ وہ منظور ہو یا امین مقرر ہو مال کی تحصیل نکوئی کے ساتھ
کرے اور بے ہنگام دست خواہش دراز نہ کرے۔

فصل ربیع کی تحصیل ہولی سے شروع ہوتی ہے اور خریف کی دسہرے سے۔ عمل گذار کی پاسبانی کرے
کہ خزینہ دار زر خاص نہ چاہے جو وزن و عیار میں برابر ہو اس کو لے اور تھوڑی کمی ہو تو نرخ سکوک کے
موافق صرف لے اور تفاوت کو قبض میں لکھے اور یہ قرار دے کہ اسکو کشاورز خود چند بار میں پہنچائے
تاکہ باجی خواہش گردوں کا آرا پیچ میں سے اُٹھایا جائے۔ غلہ جو کمال کو پہنچے مال اسکا شائستگی
سے لے اور دوسری جنس کے کامل ہونے پر موقوف نہ رکھے جو شخص اراضی خراجی کو لکھے اور علفت
کے لئے فرق کرے وہ گاؤمیش کے لئے ۶ - اور گاؤ کے لئے ۳ دام سالیانہ بازیافت کرے
بھینس جس کے بچہ نہ ہوا ہو اُس کی چرائی کا کچھ نہ لے - اور ہر قلبہ میں چار نر گاؤ و دو مادہ گاؤ
و یک گاؤمیش مقرر کر رکھے ان کی بابت کوئی چیز نہیں طلب کیجائے خزانہ میں جو روپیہ آئے
اس کو خود جاکر تیار کرے اور روزنامچہ کا اس سے مقابلہ کرے - خزانچی کی تصدیق لکھائے
اس کو تھیلیوں میں سربمہر کرکے ایک استوار مکان میں رکھے اور دروازہ پر چند
قفل طرح طرح کے لگائے ایک کنجی اپنے پاس رکھے اور دوسری کنجی خزانچی پاس
اور آخر ماہ میں روزنامچہ جمع خرچ کا بتکچی سے لے کر درگاہ پادشاہ میں بھیجے - جب دو
لاکھ دام جمع ہو جائیں تو اُس کو معتمد آدمیوں کے ہاتھ روانہ کرے اور ہر دیہہ کے

پٹواری سے یہ اہتمام کرائے کہ جو کچھ رعیت سے لیا جائے اُس کو یادداشت میں کہ رعیت کو دی جاتی ہے بہ تفصیل لکھا ہو جو کچھ باقی رہی ہو اسم باسم طومار درست کر کے اس کو اعیان کے نشان (دستخط) کے لئے بھیجے اور یہ آسانی دوسری فصل میں لے۔ سیورغال کے فرامین جو پہنچے ان کی نقل دفترخانہ میں بھیجکر مقابلہ کرے ناموں کو مشخص کرے۔ مردہ و غائب و نوکر کے حصہ کی بازیافت کر کے حفاظت کرے کہ زمین خود کاشتہ رعیت کاشتہ نہ ہونے پائے۔ زمین بازیافت زراعت سے خالی نہ رہے۔ غائب و مردہ لاوارث مال کی شائستگی کے ساتھ پاسبانی کرے اور حقیقت حال کو عرض کرے اور دیدبانی کرے کہ کوئی چیز نہ لے زمانہ سابق میں ملک داری کی مصلحت کے لئے وہ جو بخشا گیا ہے اس میں خلل نہ پڑنے دے سفر و شادی و ماتم کو کسی چیز کے لینے کا سرمایہ نہ ہونے دے۔ سلامی سے برکنار رہے جس وقت مقدم یا پٹواری زر لائے یا چبوترہ پر سلام کرتا ہوا ایک دام لائے تو اس کو ہاتھ نہ لگائے اور ایسی ہی بل کٹی سے باز رہے۔

جب کھیتی کٹنے کو ہوتی ہے تو ہر موضع سے کچھ چیز لیجاتی ہے اس کو بل کٹی کہتے ہیں اور ایسے ہی پیشہ وری و بازار نشینی و چوکیداری و راہداری و حاصل باغات و منڈوی و قرق و ماہی گیری و میزبکری و دستور روغن زرد و روغن کنجد و کنبلی و چرم و پشم اور چیز جو پہلے حریص ناخدا ترسوں کی آرزنیاں تھیں انکے پاس جائے اس سرزمین کے جو شاسندے ہوں ان میں سے ہر ایک کو نوبت بہ نوبت مقرر کرے کہ وہ درگاہ پادشاہی میں جاکر نقیر و قطمیر (چھوٹی چھوٹی باتوں سے) آگہی بخشے۔ ہر مہینے احوال رعایا و جاگیرداروں و ہمسایوں کا اور سرکشوں کے تابع ہونے کا و نرخ اشیاء و جہ کرایہ و درویشوں و ہنر پیشوں کا اور سوانح کا عرض کرے اگر کوتوال نہ ہو تو آئین رواج کو اپنے ذمہ لے۔

تبکچی چاہئے کہ راستی منش درست قلم حساب دان جدگزیں عمل گذار ضرور ہو مواضع کا موازنہ دہ سالہ نقدی و جنسی قانون گو سے لے اور اس سرزمین کی راہ و رسم سے آگہی حاصل کر کے عامل کے دل نشین کرے یاوری و تیمارداری میں ہمت لگائے جو کچھ بزرگروں سے قرار پائے اسے لکھے۔ ہر دیہ کی حدود بندی جدا جدا اسکے

(۶) تبکچی

بعد ازاں آباد و خراب زمین کا اندازہ کرے۔ منصف و ضابطہ و جریب کش و تھانہ دار کا
نام لکھے کسان کا اور اس کے باپ دادا کا نام اور اس کے نیچے زراعت کی جنس لکھے۔ دیہہ و
پرگنہ و فصل بھی لکھے۔ نابود کو جدا کرکے بود کی قیمت لگائے۔ اہل ہند کے دستور کے مطابق
اسم و جنس و نابود کو تاریخ کاشت سے نیچے لکھے جب موضع کا بندوبست انجام کو پہنچے
تو ہر کسان کی جمع درست کرے اور ہر موضع کا محصول قرار دے اور اس دستاویز کی
عامل وصول کرے۔ نسخۂ ضبط کو کہ ہندی میں خسرہ کہتے ہیں روانہ درگاہ کرے۔ توجیہ کے
وقت اگر نسخہ پیشین نہ ہو تو کسان کے کشت و کار کو نام بنام پٹواری سے لکھوائے اور
اپنا کام نکالے۔

نسخہ توجیہ اور باقی و واصل کو وقت پر بھیجے اور روزنامچہ میں تحصیلدار کا نام ہر موضع کی
نام کے نیچے لکھے اور کسان جو مال لاوے اسکا نام لکھے اور خزانچی کو سپرد کرے اور اس سے
تحریر کرالے۔ نقل توجیہ پٹواری و مقدم جسکی دستاویز پر تحصیل کی ہے اور سرخط یعنی یادداشت کہ
رعایا کو حوالہ کی ہے پٹواری سے لے اور اسکو خوب غور سے دیکھے اگر اس میں کوئی ناراستی
ہو تو جرمانہ لے اور ہر روز عامل سے ہر دیہہ کی واصل و باقی کو کہے اور اس کو انجام کار میں
زیادہ تیز کرتا رہے۔ جس وقت رعیت حساب پر رجوع کرے تو بے انتظار اس کو سرانجام دے
ہر فصل کے آخر میں ہر موضع کی واصل و باقی کا مقابلہ پٹواری کی تحریر سے کرے۔ جمع خرچ
کا روزنامچہ روز بروز نام بنام صیغہ بصیغہ لکھے اس پر خزانچی کے دستخط اور عامل کی مہر
کرائے جب مہینہ آخر ہو تو اس کو سربمہر خریطہ میں عمل گذار پاس روانہ کرے۔ مہر روپیہ
اور اجناس کے نرخنامہ کو روز بروز اعیان کی مہر کے لئے بھیجے و خزانچی کو ہر فصل کے
آخر میں جمع خرچ لکھا کر اس سے دستخط کرائے۔ ہر سال کے آخر میں محل جمع بندی عمل گذار
کی مہر لگا کے روانہ کرے جو موضع تاخت و تاراج کیا جائے اسکے مال و مویشی کو لکھکر روزنامچہ
میں داخل کرے اور حقیقت و حال کی عرضداشت کرے اور سال کے آخر میں جب

تحصیل کا وقت آخر ہو تو موضع کی باقی کو لکھ کر عامل کے سپرد کرے اور اُس کی نقل درگاہ میں بھجوائے۔ اگر معزول ہو تو اپنے کاغذات کو وجوہ باقی و تقاوی اور سوائے اسکے عامل حال کو سپرد کر کے خاطر نشان کرے اور انکی فہرست لیکر درگاہ میں خود حاضر ہو۔

(۸) آئین خزانچی

خزانچی کو اس زمانہ میں فوطہ دار کہتے ہیں۔ خزینہ خانہ کو حاکم کے پاس بنوائے اور ایسی سرزمین رکھنے کے واسطے پسند کرے کہ اسکو کوئی گزند نہ پہنچے۔ مہر اور روپیہ وزرسیاہ وغیرہ ہر قسم کا کسان لائے اس سے لے اور زر مخصوص نہ طلب کرے اور سکہ شاہی جو وزن میں برابر ہو اسپر صرف نہ کاٹے اور وزن مسکوک میں جو تفاوت ہو اس پر صرف کاٹے اور قدیمی مسکوک کو مسکوک سمجھے شقدار و کارکن کو مطلع کر کے زر کو کسی اچھی جگہ میں رکھے اور جب دن ختم ہوئے کو ہو تو اس کا شمار کرے اور سر خط پر عمل گذار کے مُہر کرائے روزنامچہ کو نسخہ کارکن سے مقابلہ کرے اور اپنے خط سے اس پر دستخط کرے خزانہ کے دروازہ پر جب عامل اپنی مُہر لگائے تو یہ بھی اپنا ایک قفل لگاوے عامل اور کارکن کو اطلاع دیکر خزانہ کھولے۔ کشاورز سے زر عامل و کارکن کو شناسا کر کے لے۔ قبض دے۔ یا غیچہ حساب پر جسکو عرف میں ہندوستانی بھی کہتے ہیں پٹوازی کے خط سے لکھائے جس کے سبب سے کوئی خلاف نہ واقع ہو۔ کسی طرح کا خرچ دیوان کی پسند کی دستاویز بغیر خرچ نہ کرے۔ سود کی دوکان نہ کھولے۔ اگر کوئی خرچ ضروری آن پڑے کہ آئین پر نہ لگ سکتی ہو تو کارکن و شقدار کے نوشتہ پر عمل کرے اور حقیقت حال کو موقف عرض میں پہنچائے۔

(۹) آئین داد و افزائی

انسان کی قوت کارکردگی اور فیض پذیری کی بازگشت خورش پر ہے اور خوراک ہی کی نیکی کے اندازہ کے موافق۔ دل کی تنومندی ہوتی ہے ورنہ تن موٹا ہوتا ہے اور جان دبلی ہوتی ہے اس لئے برگزیدہ تدبیریں اور شائستہ کردار ہوتے ہیں۔ ہشیار سعادتمند اول لقمہ کی سرانجام کرنے میں غور کرتے ہیں اور ہر کھانے پر ہاتھ نہیں دوڑاتے ہیں۔ سادہ لوح خداترسوں کا کار دشوار ہوتا ہے اور روزی تنگ ہوتی ہے ان کو وہ فروغ بینش نہیں ہوتی ہے کہ مغز کار کو پہنچ کر آسانی سے جئیں وہ مدار رضامندی ایزدی کے خوف سے

بھوک کی تکلیف سے جانکاہی میں پڑتے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک کے پاس چند گائیں وجہ حلال سے تھیں۔ انکے دودھ سے وہ اپنی روزی چلاتا۔ نیرنگی روزگار سے وہ لٹ گئیں چند روز وہ بھوکا رہا ایک بیدار بخت سخت تگاپو کرکے ان حضرت کے پاس ان گایوں کو لایا تو اس نے ان کو نہ قبول کیا اور یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ان خاموش جانوروں کو چند روز تک خوراک کیونکر حاصل ہوئی۔ تھوڑے عرصہ میں کشادہ پیشانی کے ساتھ اس دنیا سے وہ رخصت ہوا ایسے دشوار اندیش مردوں کی داستانیں بہت ہیں۔ کچھ اہل تعلق ایسے لالچی وحریص ہوتے ہیں کہ وہ اوروں کے مال مارنے میں دریغ نہیں کرتے اور دین و دنیا کو کھوتے ہیں اور دل کا کام نکالتے ہیں۔ یہ پیدایش آشفتہ رائے اپنی رفع احتیاج کے لئے اوروں کے مال کی گرفت وگیر کو سرمایہ بناکر ابدی رنج جمع کرتے ہیں۔ بھولے بھالے سعادت مندوں نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسی خراب زمین کہ وہ کسی کی نہ ہو ناپدید ہے اور اگر پیدا بھی ہو جائے تو آلات کاشت بہم پہونچانا دشوار۔ اگر وہ بھی میسر ہو جائیں تو قوت (خوراک) کا بھی پہنچنا ناپیدا ہے کہ جس کی قوت سے کاشت کا کام کیا جائے اس کو نہیں پاسکتے اور اگر کہیں اس کا بنانا لگے اور کوئی اس کا مالک نہ ہو تو اس میں کامیاب ہونا دشوار۔ وہ سپاہ گری سے بھی کنارہ کشی کرتے ہیں کہ اس میں بزرگ جان کو خسیس مال کی عوض دینا پڑتا ہے تجارت سے بھی دست کش ہوتے ہیں اس سبب سے کہ اس میں زیادہ تر اسباب کو زیادہ قیمت پر فروخت کرنا ہوتا ہے اور اس کے عیب چھپانے پڑتے ہیں اور جو خوبی اس میں نہیں ہوتی وہ بیان کرنی پڑتی ہے اور جن چیزوں کو خریدتے ہیں ان کی ظاہری نیکیوں سے چشم پوشی کرتے ہیں اور جو عیب ان میں نہیں ہوتے وہ بیان کئے جاتے ہیں اور اپنے فائدے کو اوروں کے نقصان سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کو پسند نہیں کہ اپنے مخالف مذہبوں کا مال مارکر آسایش سے بیٹھیں وہ کہتے ہیں جنے اسکو روا رکھا ہے اگر وہ دوربین آگاہ دل ہے تو یہ بیم افزائی کی داستان ہے۔ دوسرے کا

مال حلال کرنا۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ مخالف مذہبی کے سبب سے دوسرے کا مال لینا بغیر اسکی اجازت کے شایستہ ہو یہ ایسا دیوا فسانہ ہے جو لالچیوں کو خواب میں لاتا ہے اور نیک آدمیوں کے کان میں نہیں جاتا۔ اب چراغ ہدایت سب کے لئے روشن کیا جاتا ہی تا کہ راہ کو چاہ سے پہچان کر زبان اندوزی کے گڑہے میں نہ گریں اور اپنے گرامی انفاس کو ناپاکست کی طرف نہ متوجہ کریں۔

اس سبب سے کہ مردم زاد کی بنیاد میں اختلافات بہت سے ہیں اور اسکی اندرونی اور بیرونی شورش روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے گراں پائے خواہش دواسپہ جاتا ہی اور سبک سیر چشم عنان گسل ہی۔ اس نامردی کے دیوسار میں دوستی کمیاب اور انصاف بس ناپدید ہی اس آشوب گاہ میں چارہ سوا تھری وحدت کے اور کوئی نہیں اور یہ انتظام کی جان دار دسوائے دار و گیر فرمانروایوں کی شکوہ کے نہیں پیدا ہوتی جبکہ خانہ و محلہ دیدہ ور پیشوا کی امید و بیم بغیر منتظم نہیں ہوتا تو پھر زنبور خانہ دنیا کی شورش پادشاہ کے بغیر سطوت کے کیسے بیٹھ سکتی ہے اور اہل جہاں کی مال و جان ناموس و دین کی کس طرح حفاظت ہو سکتی ہی۔ اگرچہ بعض تجرد گزینوں نے اپنی خرق عادت کی دستاویز پر اس کا قصد کیا مگر سلاطین والا کی یاوری بغیر حسن انتظام نہیں پایا اور سوائے اس کے اس آتشیں دشت میں طلسم کار و نیرنجی و شعبدہ بازبھی راہ پا سکتا ہے اور اس دریائے بے تمیزی سے شورش کے طوفان اُٹھے اور اُٹھتے ہیں اور بہت سے اہل زباں سادہ لوحی اور کم وبیشی سے اس موج خیز ناشناسائی میں ڈوب گئے اور ڈوبتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی فروغ خرد سے پذیرائی سے عنان کھینچکر سفر دراز کا توشہ سرانجام دیا وہ اس اس چارسوے پر آشوب میں چھوٹے بڑوں کی طنز نگاہ دیوانگی و بیدینی کافری کے ہوئے اس بزم ناشناسائی میں اگر خرد پژوہ کاروان کا گذارہ ہو تو ناگزیر دیوانوں کا آئین اختیار کرے کہ فرومایوں کے طعن سے بچے ظاہر ہے کہ ہر آباد ملک میں صاحب مال بہت ہوتے ہیں اور باپ دادا کے وقت سے زمینوں کی زراعت

کرتے چلے آتے ہیں لیکن بدسگالی وتباہ اندیشی سے غبار آمود شک ہوتے ہیں۔ اور اپنا دست ہمت اس پر دراز نہیں کرتے اگر کشاورز کو گیہان پیرائے اور زندوں کی جان داری کا اندیشہ ہو اور تاچرپناہ پیچی سے بازرہیں اور اپنے زمانہ کی فرمان وہ کی یاری کا اور فیض ایزدی کا خیال دل میں لائیں تو البتہ ان کا مال خردگزیں ہوتا ہے۔ پس مال کا نہ شائستہ ہونا آدمی کے منشاء پر موقوف ہے اور پادشاہ منصف نکسار کی طرح ناپاک کو پاک کرتا ہے اور بد کو نیک بناتا ہے مگروہ بے اخلاص گروہ یاوروں کے اور اسباب شوکت و فزونی خزانہ کے کوئی کام نہیں کرسکتا اور جہان پرستاری اور فرمان پذیری کا انتظام نہیں ہوسکتا پس جو شخص تنومند ہو وہ سپاہ گری کا پیشہ کرے اور یاوری کا خیال رکھے اور اہل جہاں کی پراگندگیوں کے دور کرنے میں اپنی جان لڑاوے جیسے ستور کے لئے علف کثرت سے ہے ایسے ہی کشاورز کی روزی بہت ہے۔ اگر اس میں وہ نہیں مشغول ہوسکتا تو کسی اور طرح سے یاوروں کی گروہ میں آئے۔ پس روزی کی روائی دو چیزوں پر موقوف ہے۔ فرمان دہوں کی دادگری پر اور سعادتمندوں اور فرمان پذیروں کی اندیشہ آبادی پر طبیعت پرست فرومایہ فرمان معقول کو نہیں سمجھتے۔ ہمیشہ محسوس سے آگے نہیں بڑھتے۔ اس شورہ زمین میں آب شمشیر کام میں آتا ہے زلال دلیل نہیں۔ اسکی شکوہ سے نخوت فروش جھگڑا چھپ جاتے ہیں اور انصاف پروہ نیکوں کو رونق ہوتی ہے۔

پس چار گوہر بے بہا جان و مال و ناموس و دین کی پاسبانی کی دست مزد کوئی قرار دی جائے وہ سزاوار و شائستہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خدا کی رضامندی بھی ہو۔ جب صاحب خانہ اپنے خانہ کے نگہبانوں کی اجرت دیتا ہے تو عالم کے نگہبان یعنی پادشاہ پاسبانوں کو اجرت دیتے ہیں اگر فقط ناموس کی پاسبانی میں تمام مال خرچ ہو جائے تو اس کا شکرانہ قرض میں دینا چاہئے چہ جائے کہ جو چار روپ

بزرگ گوہر جان و مال و ناموس دین کی پاسبانی کرے ۔ اس کو جو کچھ دیا جائے وہ تھوڑا ہی لیکن داد گستر فرمانروا اتنا ہی رعیت سے لیتے ہیں کہ اس کا کام چل جائے اور لالچ نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ زمان و مکاں کے انقلابات ہوتے رہتے ہیں جس کا بیان آگے آتا ہے۔ اس حلاوت گفتار سے ظاہر ہوا کہ ہشیار فرماں دہ اپنی ژرف نگہی و دولت افزائی سے جو کچھ رعیت سے لیتے ہیں اور فرمان پذیر خدمت گذاروں کو دیتے ہیں وہ کمال درجہ کی شائستگی رکھتے ہیں۔

اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ سپاہی کی روزی زیادہ فراوان اور گزیدہ تر ہوتی ہے بعد ازاں کشاورزی کی اور پھر اور پیشہ وروں کی یونانی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پیشہ وری تین طرح کی ہوتی ہے ۔ شریف ۔ خسیس ۔ میانہ ۔ اول تو نفس سے متعلق ہے جو تین حال سے خالی نہیں ہوتی ایک گوہر خرد سے متعلق ہے جیسے دور بینی و حسن تدبیر دوم دانش پذیری سے جیسے کتابت و بلاغت سوم نیروے دل سے متعلق جیسے سپاہ گری خسیس بھی تین طرح کے اول عام آدمیوں کی مصلحت کے منافی جیسے احتکار ۔ دوم فضائل میں سے کسی فضیلت کے خلاف جیسے مسخرگی سوم جس سے طبیعت کو نفرت ہو جیسے کہ حجامی ۔ دباغی ۔ کناسی ۔ میانہ بھی تین طرح کی ہوتی ہے ۔ مکاسب و حرفے ۔ بعض ناگزیر جیسے کدیوری ۔ بعض ایسے کہ بغیر ان کے گذارا ہو جیسے کہ رنگ ریزی بعض بسیط جیسے درودگری و آہنگری بعض مرکب جیسے ترازوگری و کاردگری ۔ اس گذارش میں بھی سپاہ گری کی بلند پائگی پیدا ہے ۔ روزی کاسب سے زیادہ بہتر دستمایہ وہ پیشہ ہوتا ہے کہ جو عدالت و پارسائی و مردمی سے نزدیک ہو اور بدکاری و بدنفسی سے دور ۔ نیک آدمی پیشہ میں تین چیزوں کو ناگزیر جانتے ہیں ستمگاری سے دوری ۔ عار سے پرہیز اور دناءت سے یکسو ہونا ۔ جس پیشہ میں عار ہوتی ہے وہ ایسا ہے جیسے مسخرگی اور خوار پیشے اور پیشے جیسیں دناءت ہوتی ہے وہ خسیس صناعت ہیں ۔

جب آدمی کو گزیدہ روزی فراہم ہوا اہل تعلق کے لئے ناگزیر یہ ہے کہ کچھ مال کو اندوختہ

کرے۔ بشرطیکہ اہل منزل کی زندگانی میں تنگی نہ ہو اور کوئی حاجتمند مانگے تو اس کو ناکام نہ رکھے۔ لالچی وخسیس ہونے کا طعن نہ ہو۔ مال جب جمع ہوتا ہے کہ خرچ کو دخل سے کمتر رکھے کچھ روپیہ ایسے کاموں میں لگائے۔ کہ سود حاصل ہو اور کچھ ایسے کاموں میں کہ وہ عمر بسر ہوں قدرے نقد رکھے۔ کچھ اجناس و امتعہ خریدے کچھ اوروں کے سودے میں ملائے۔ بعض کا ضیاع و عقار بنائے ایک حصہ نیک آدمیوں کو قرض کے نام سے دے۔ خرچ کو آگہی و حق پژوہی و آزرم دولت کے ساتھ قرار دے۔ داد و ستد کشادہ پیشانی کے ساتھ کرے۔ دل میں پشیمانی کو راہ نہ دے پیش نہاد ہمت رضامندی الہی ہو۔ نہ توقع شکر و ذکر و انتظار جزائے ہو۔ بیشتر درویشوں کو پوشیدہ نذر دے اور دو طرح کا بھی دینا ہوتا ہے اگر وہ اچھے طور پر ہو تو شائستگی حاصل ہوتی ہے۔ اول برسم سخاوت ایثار دین جیسے کہ ارمغان اور اسکے سوا۔ یہ چاہیے کہ جلد و پوشیدہ ہو۔ اور اسکی افزونی اور بزرگی پر خیال نہ ہو اگر مستحق حال و دیبچان نہ ہو۔ دوم از رہے ضرورت ہو یہ طلب ملائم و دفع مضرت جیسا کہ ستمگاروں و سفیہوں کو دیتے ہیں کہ نفس و مال و عرض انکے گزند سے رہائی پائے۔ یہاں میانہ روی برتنی چاہیے اور ملائم کی پژوہش میں یہ بہتر ہے کہ افزونی کے نزدیک تر ہو۔ اہل جہاں کی معاشش تین طرح کے حال سے باہر نہیں ہوتی بعض تو ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بایست معنوی انکی خاطر میں نہیں آتا۔ کار روگی کی تو کیا نوبت آئے۔ بعض اپنی روشن ستارگی سے ایسی حقیقی مرادیں شگفتہ ہوتے ہیں کہ انکے دل میں روزی کی یاد نہیں آتی۔ بعض ہوشیار سعادتمند ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شتا سالی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ظاہر کو باطن کی آبادی کا سرمایہ بناتے ہیں۔ آدمی جب تک دنیا کے ساتھ دلبستگی رکھے تو سوم درجہ سے سعادت حاصل کرے اور اگر دشت وارستگی میں قدم رکھے تو دوم کے ساتھ آرام پائے۔

جہانبانی کی مزد کا ذکر اوپر ہوا۔ نیک فرہنگ آرا اور تنگ نشینوں کی دادگری پر اور اس کے سعادتمند دستیاروں کی نیک پسیچی کے ہاتھ میں روزی کی رونق ہے اس سبب سے کہ ہر ملک میں سامان شکوہ و فزاندہی اور طرح کا ہوتا ہے اور زمینوں میں تفاوت ہوتا ہے

کہ بعض میں اکثر کوشش سے بہت کچھ پیدا ہوتا ہے اور بعض اسکے بالعکس ہوتی ہیں۔ اور پانی اور
آبادی کی نزدیکی و دوری سے بھی ان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے ہر ملک کا پادشاہ اس کا اندازہ کرتا
ہے اور اسکا پاس رکھتا ہے ہندوستان کی فراخنائے میں ہر زمانے میں بہت سے کارآگاہ پادشاہ ہوتے
تھے اسلئے وہ چھٹا حصہ لیتے تھے۔ رومستان و توران و ایران میں پانچواں و چھٹواں و یک دسواں پہلے
زمانہ میں ہر آدمی پیچھے کچھ لیتے تھے اور اسکو خراج کہتے تھے قباد نے اسکو مکروہ جانا اور یہ ارادہ کیا کہ
زمین کشتمند کو ناپ کر اس سے باز خواست کرنی چاہیے مگر اس کا یہ ارادہ پورا نہ ہوا کہ اسکا زمانہ آخر ہو گیا
نوشیرواں نے جریب قبضہ در دہ قبضہ بنایا کہ وہ شصت در شصت گز کسری گز سے تھی۔

پایرنج فرمانذہی (پادشاہ کا حق) اس نے سوم حصہ مقرر کیا اور ایک قفیز کی ایک چوتھائی سے
درہم لیتا تھا۔ قفیز ایک پیمانہ ہے اس کو صاع بھی کہتے ہیں اس کا وزن آٹھ رطل ہے اسکے
بعض اور وزن بھی بتاتے ہیں۔ درہم کا وزن ایک مثقال کی برابر تھا جب حضرت عمرؓ کی خلافت
کا زمانہ آیا تو دانشوروں کی گذارش سے اُنھوں نے نوشیرواں کا طریقہ اختیار کیا
پھر زمانہ کے انقلابوں سے اور روشیں مقرر ہوئیں جن کا بیان تاریخ میں موجود ہے۔

احمدی کیش میں اراضی گرفتہ کی تین قسمیں کرتے ہیں۔ عشری۔ خراجی۔ صلحی اور پھر اول دو
کی پانچ قسمیں اور پچھلی کی (یعنی صلحی) کی دو قسمیں کرتے ہیں اول زمین تہامہ جس میں مکہ و طائف و
یمن و عمان و بحرین در بہ تھی۔ دوم وہ زمین کہ جس کا مالک دل کی خوشی سے مسلمان ہوا ہو
سوم وہ زمین جو بزور لی گئی ہو اور حصہ کی گئی ہو چہارم جس وقت کسی شخص نے اسلام قبول کر لیا
ہو وہ زمین میں اپنا گھر بنائے یا تاک لگائے یا باغ بنائے یا آب باران سے شاداب کرے
پنجم زمین خرابہ کہ مرزبان کی منظوری سے آباد ہو۔ خراجی کی تقسیم اول زمین فارس و
کرمان دوم ذمی اپنے گھر کو باغ بنائے سوم مسلم جو خراب زمین کو آباد کرے اور چشمہ سے
پانی دے۔ جسکی نیا بیت المال سے ہوئی ہو چہارم وہ کشور کہ صلح سے لی گئی ہو پنجم ایسی زمین
کہ آب خراج سے بوئی گئی ہو۔ صلحی اول زمین بنی نجران و بنی تغلب اس کی شرح

پہلی کتابوں میں لکھی ہے۔

بعض کتابوں میں زمین چار طرح کی لکھی ہے اول یہ کہ مسلمان نے آباد کی ہو اوس کو عشری کہتے ہیں دوم زمین کے مالک مسلمان ہوگئے ہوں وہ بعض کے نزدیک عشری بعض اماموں کے نزدیک عشری تا خراجی ہوتی ہے سوم یہ کہ بزور لی ہو اُسکو ایک گروہ عشری کہتا ہے ایک طائفہ خراجی۔ اس کو امام کی رائے پر چھوڑتے ہیں چہارم زمین جس پر دین کے بیگانوں نے صلح کی ہو اسکو خراجی کہتے ہیں۔

خراجی زمین کا خراج دو طرح کا ہوتا ہے مقاسمہ پانچویں حصہ سے لیکر چھٹے حصہ تک خراج وظیفہ یہ ہو کہ توانائی اور سودمندی کے موافق قرار پایا ہو ایک طائفہ اصل مال ارتفاعی کو خراج کہتے ہیں۔ جب اس گروہ کا حصہ ان کے خرچ سے زیادہ ہوتا ہے تو چند شرائط کے ساتھ اس سے زکاۃ لیتے ہیں اور اس کا نام عشری رکھتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں بڑا اختلاف ہو حضرت عمرؓ نے اپنے عہد میں اپنے مذہب کے بیگانوں سے اعلیٰ ۴۸ درہم واوسط ۲۴ درہم اور ادنیٰ بارہ درہم لیا تھا اسکو جزیہ کہتے تھے۔

ہر ملک میں سوا کشت وکار کے آدمیوں کے مال میں سے کچھ اور بھی لیتے ہیں اسکو تمغا کہتے ہیں اراضی مزروعی پر از راہ ربیع جو قرار پاتا ہو اسکو مال کہتے ہیں اور انواع گزیدہ محترفہ سے جو حاصل ہوتا ہو اسکو جہات کہتے ہیں۔ اور باقی کو سائر جہات اور جو مال پر متفرع ہوتا ہو اسکو وجوہات کہتے ہیں اگر وہ دیوان میں جاتا ہو ورنہ انکا نام فروعات ہوتا ہو۔

ہر سرزمین میں ایسی خواہشوں سے آشوب پھیلتا تھا اور لوگوں کو آزار پہنچتا تھا اس لئے پادشاہ نے جو بے حساب باز خواستیں تھیں ان سب کو موقوف کر دیا اس نے آدمیوں کی اس طرح کی ستمگاری کی خو کو پسند نہیں کیا۔ اول گز۔ طناب بیگہ کا عیار مقرر کیا۔ اور پھر زمینوں کی اقسام کیں اور وجہ پاسپانی کا اندازہ کیا گز مقدار کا پیمائش کرنے والا اور حال کا گذارش کرنے والا ہے چھوٹے بڑوں کو اس سے

کام پڑتا ہے نیک و بد اسکے آرزومند ہوتے ہیں۔ ہندوستان کے وسیع ملک میں وہ تین طرح کا مروج تھا
اول دراز دوم میانہ سوم کوتاہ اور ہر ایک گز کے چوبیس حصے کئے تھے۔ ہر حصہ کو طسوج کہتے تھی۔ دراز
گز کا ایک طسوج آٹھ معتدل جوؤں کی برابر تھا جن کی چوڑان کو ملاکر برابر رکھیں اور میانہ کا
طسوج برابر سات جو کے اور کوتاہ کا طسوج برابر ۶ جو کے بڑے گز سے کشت و زار کروہ و شہر و قلعہ و
حوض و گلین و دیواروں کی پیمایش ہوتی۔ میانہ سے سنگین و چوبین عمارت و نے بست خانے و پرستش جائیں
و کنوئیں و باغ پیمائش ہوتے اور چھوٹے سے پارچہ و سلاح و پلنگ و سنگاسن چوڈول ڈولی و صندلی
و عرابہ اور اوران کی مانند چیزیں۔ اگرچہ اور دیار میں گز کو ۲۴ طسوج کا بتاتے ہیں مگر ہر طسوج کو دو حبہ
کی برابر گنتے ہیں۔ اور ہر حبہ دو جو کی برابر اور ہر جو چھ خردل کی برابر اور ہر خردل بارہ فلس کی برابر
اور ہر فلس ۶ فتیلہ ہر فتیلہ ۶ نقیر اور ہر نقیر آٹھ قطمیر کی اور ہر قطمیر بارہ ذرہ کی اور ہر ذرہ آٹھ ہبا اور ہر ہبا
دہ وہمہ کی برابر اعتبار کرتے ہیں۔

چار طسوج کو ایک دانگ کہتے ہیں چھ دانگ کو ایک گز اور بعض گز کو ۲۴ انگشت (انگل)
قرار دیتے ہیں اور ہر انگل برابر چھ جو معتدل کے جنکی چوڑان ملاکر برابر رکھی جائے اور ہر جو برابر
ٹٹو کی ایال کے چھ بال کے۔ پرانی کتابوں میں گز دو شبر و دگیرہ (پور) انگشت ابہام کی برابر
گنتے ہیں اس کی پیمائش سولہ گرہ سے کرتے ہیں اور ہر گرہ کے چار حصے اور ہر حصہ کا نام چار پہر
اور ہر گز کے ۶۴ پہر ہوتے ہیں۔

سلطان سکندر لودی نے ایک گز بنایا جس کا اندازہ ۴۱½ اسکندری بنا اور اسکندری ایک
تانبے کا نقد گول نقرہ آمیز تھا۔ جنت آشیانی نے اس پر ایک نیم اور زیادہ کرکے ۴۲ قرار
دیا اس کی مقدار ۳۲ انگشت کی تھی۔ پہلے حکیموں نے بھی ایسا ہی گز بنایا تھا شیر شاہ و سلیم شاہ
کے زمانہ میں کہ ہندوستان میں غلہ بخشی و مقطعی ضبط میں آئی تو اس گز سے پیمایش ہوئی
سنہ ۳۱ الٰہی تک اگرچہ کرپاس میں گز اکبر شاہی جو ۴۶ - ۳ انگل تھا کام میں آتا تھا۔ مگر
زراعت و عمارت میں اسکندری گز کام میں آتا تھا۔ بادشاہ نے یہ سوچ کر کہ طرح طرح کے

گزوں سے خلقت کے دلوں کو پریشانی ہوتی ہے اور بدکاروں کو دہوکہ دینے کا موقع ملتا ہی سب گزوں کو دور کیا اور ایک معتدل گز کو رواج دیا جو اہم - انگشت کا تہا - اور یاد الہی کے لئے اسکا نام الہی گز رکھا اور اب سب کاموں میں وہی دست آویز ہی -

بادشاہ نے پرانی جریب شصت در شصت کی رکھی مگر گز اسکے الہی کر دئے اس ملک میں طناب پیمایش رسن سے جسکو سن کہتے ہیں بٹتے ہیں وہ خشکی و نرمی میں دراز و کوتاہ ہوتی ہی اسکو اس میں رکھ دیتے یا پہلے بنا کے پانی میں بہگو دیتے - بسا اوقات صبح کو جب کام شروع ہوتا تو وہ تری سے سکڑ جاتی اور آخر روز میں خشک ہو کر دراز ہو جاتی - اول صورت میں دست مزد جہاں بانی میں کمی ہوتی سنہ ۱۹ الہی میں ایک جریب بانس کی بنائی گئی اور اس کو آہنی حلقوں سے پیوستہ کیا کہ کم و افزون نہ ہو خلقت کو اس سے آسودگی حاصل ہوئی اور خیانت گروں کے ہاتھ کوتاہ ہوئے -

بیگہ جریب کو کہتے ہیں - جو قطعہ زمین ساٹھ گز سے ساٹھ گز ہوتا ہے وہ بیگہ کہلاتا ہے - اگر طول یا عرض میں کمی ہو اور دوسرے میں افزونی تو وہ حساب میں کمسر ہوتی ہے - کل بیگہ میں زمین ۳۶۰۰ گز ہوتی ہے - ہر بیگہ کے بیس حصے کرتے ہیں اسکو بسوہ کہتے ہیں اور اسکے پھر بیس حصے کرتے ہیں اسکو بسوانسہ کہتے ہیں اور پیمایش میں اسکے بعد پھر حصے نہیں شمار کرتے اگر زمین ۹ بسوانسہ ہو تو اس سے مال نہیں طلب ہوتا اگر دس ہو تو ایک بسوہ شمار کرتے ہیں بعض بسوانسہ کے بھی بیس حصے کرتے ہیں اس کو تسوانسہ کہتے ہیں اور پھر تسوانسہ کے بھی بیس حصے کرتے ہیں اسکو پنوانسہ کہتے ہیں اور پھر اسکے بیس حصے کرتے ہیں اسکو انوانسہ کہتے ہیں -

ایک بیگہ طناب سن کا طناب بانس کے بیگہ سے دو بسوہ بارہ بسوانسہ کم ہوتا ہی اور ہر سو بیگہ میں تیرہ بیگہ کا تفاوت ہوتا ہے - اگرچہ طناب سن بھی شصت گزی ہوتی ہی لیکن تاب زدگی میں ۵۶ گز ہو جاتی ہے اور الہی گز سکندر گز سے ایک بسوہ - ۱۲ بسوانسہ و ۱۳ تسوانسہ ۸ پنوانسہ و چار انسوانسہ زیادہ ہوتا ہے اس سے بیگہ میں ۱۸ بسوہ ۲۰ بسوانسہ و ۱۲ تسوانسہ ۱ پنوانسہ چار انسوانسہ کا نقصان ہوتا ہے اور سو بیگہ میں

ان دو نوطرح کی گزوں کی پیمایش سے ۲۲ بیگہ ۱۳ بسوہ ۰۰ بسوانسہ کا فرق ہوتا ہے۔

پادشاہ نے جب گزینہ طناب بیگہ مقرر کردیا تو زمینوں کی یہ اقسام مقرر کی۔

اول پولج۔ وہ زمین جسمیں سال بسال اور فصل بفصل زراعت ہو اور اسکا زور کم نہ ہو۔

دوم پرولی۔ کچھ دنوں بوئیں کچھ دنوں نہ بوئیں جسکے سبب اسمیں پھر زور آجائے۔

سوم بنجر۔ جسمیں پانچ سال سے زیادہ گذر گئے ہوں کہ زراعت نہ ہوئی ہو۔

اول دو قسم کی زمینوں کی پیداوار کے لحاظ سے تین قسمیں ہوئیں۔ گزیدہ۔ میانہ۔ زبون ان تینوں قسموں کی پیداوار کو جمع کرکے تین پر تقسیم کریں تو اس اوسط کا نام محصول رکھا گیا اور اس کی ثلث دست مزد جہانبانی قرار پایا۔ ربع جو شیر خاں نے لیا تھا اور آج کل تمام صوبوں میں اس سے کمتر نشان نہیں دیتے اسکو اکبر شاہ نے منظور کیا۔ سپاہ و رعیت کی آسودگی کے لئے قیمت میں زر خالص کی بار خواست ہوتی ہے۔

ربیع پولج

ہندی زبان میں اسکو اساڈہی کہتے ہیں۔

گندم ایک بیگہ میں اعلیٰ ۱۸ من میانہ ۱۲ من زبون میں ۸ من ۳۵ سیر کل ۳۸ من ۳۵ سیر تہائی اس کی ۱۲ من ۳۸ سیر و یک پاؤ محصول قرار پایا اور اسکی ایک تہائی ۴ من ۱۲ سیر ۳ پاؤ پاریخ جہانبانی۔

نخود۔ ۱۳ من و ۱۰ ½ من و ۷ ½ من ثلث ۱۰ من ۱۳ ½ سیر اس میں سے ۳ من ۸ سیر لیتے ہیں۔

عدس (مسور) ۸ من ۱۰ سیر ۶ ½ من و ۴ من ۲۵ سیر سہ یک ۶ من ۸ سیر یک پاؤ۔ ۲ من ۶ سیر طلب کرتے ہیں۔

جو۔ ۱۸ من و ۱۲ ½ من و ۸ من ۱۵ سیر ۱۲ من ۱۲ ½ سیر۔

کتاں (السی) ۶ ½ من و ۵ من ۱۰ سیر و ۳ من ۳۰ سیر۔ ۱ من ۲۹ سیر لیتے ہیں۔

تخم معصفر (کرڑ) ۸ من ۳۰ سیر ۶ من ۲۰ سیر و ۵ من ۱۰ سیر۔ ۲ من ۱۲ سیر کی خواہش ہوتی ہے

ارزن (چینہ) ۱۰ ½ من و ۸ ½ من و ۵ من ۵ سیر ـ و ۱ من ۲۷ ½ سیر دیتے ہیں۔

شرشف (سرسوں) ۱۰ ½ من و ۸ ½ من و ۵ من ۵ سیر و ۲ ½ من ۷ ½ سیر

مشنگ (مٹر) ۱۴ من و ۱۰ ½ من ۸ من ۵ ۲۵ سیر ۳ ½ من ۱۴ سیر دیوان میں پہنچاتے ہیں۔

سنبلیت - (میتھی) عربی میں حلبہ کہتے ہیں ۱۴ من و ۱۱ من و ۹ ½ من ۱۵ سیر ۳ ½ من ۱۵ سیر لیتے ہیں

شالی کور ایک زبون قسم ہے ۱۴ من و ۸ من و ۱۴ من ۱۰ سیر ۶ من ۱۰ سیر لیتے ہیں۔

خربوزہ و نان خورہ (اجواین) و پیاز اور سبزیوں (ترکاری) کو ربیع نہیں قرار دیا

دستور العمل نقدی کا رکھا ہے جس کا بیان ہوگا۔

خریفی ربیع

اس کو ہندی میں سانونی کہتے ہیں۔

قند سیاہ ۱۴ من ۱۰ ½ من و ۷ ½ من ۱۴ من ۱۰ سیر لیتے ہیں۔

پنبہ - ۱۰ من ۷ ½ من و ۵ سیر ـ ۲ ½ من ـ

شالی مشکیں ریزہ دانہ بہت سفید خوشبودار زود ہضم و پزو گوارا ۱۴ ۲۰ من ۱۸ من ۱۴ من ۱۰ سیر

۱۴ من و ۱۰ سیر قرار پایا۔

شالی سادہ - اس طرح کا نہیں ہوتا ۱۱ من - ۹ ½ من و ۹ من ۱۵ سیر ۴ من ۱۳ سیر

لیتے ہیں۔

ماش ہندی - (مونگ) ۱۰ ½ من و ۷ ½ من و ۵ من ۱۰ سیر ـ ۲ من ۲۳ ½ سیر قرار

پایا۔

ماش سیاہ (اڑد) بدستور مونگ۔

موٹھ - ماش مونگ سے بدتر و اڑد سے بہتر ۶ ½ من و ۵ ½ من و ۳ ¾ من ۱ من

۲۹ سیر لیتے ہیں۔

جرت (جوار) ۱۴ من و ۱۰ من و ۷ ½ سیر ـ ۱۴ من ۱۰ سیر لیتے ہیں۔

شاماخ (ساوان) ۱۰ ½ من ۸ ½ من ۵ من ۵ سیر ۲ من ۲۷ ½ سیر لیتے ہین۔

کودون (ساتوان کی مانند ہے لیکن اس کا پوست مائل بہ تیرہ سرخی ۱۷ من و ۱۲ ½ من و ۹ من ۱۵ سیر وچہ دیوان ۴ من ۱۲ سیر

کنجد (تل) ۸ من و ۶ و ۴ من - ۲ من لیتے ہین۔

کال کنگنی) ۶ ½ من ۵ من ۵ ½ سیر ۳ ¾ من ا من ۲۹ سیر لیتے ہین۔

توریا سرسون کی مانند لیکن سرخی مائل ہوتا ہے ۶ ½ من ۵ ½ من ۳ ¾ من ۱ ½ من لیتے ہین

ارزان اکثر ربیع مین ہوتا ہے۔ ۱۶ من و ۱۳ ½ من ۱۰ من و ۲ سیر ۴ من ۱۸ ½ سیر لیتے ہین۔

لہدرہ - خوشہ و دانہ اس کا کنگنی کی مانند ہوتا ہے ۱ ½ من و ۷ ½ من ۵ ½ من - ۲ من ۳۲ سیر

منڈوہ - اس کا خوشہ ساتوان کی مانند ہوتا ہے اور اس کا دانہ سرسون کا سا لیکن کچھ سرخ دانے کچھ سفید دانے ہوتے ہین ۱۱ ½ من و ۹ من و ۲ ½ من - ۳ من لیتے ہین۔

لوبیا - باقلے کی مانند ہوتا ہے مگر اس سے کچھ چھوٹا ۱۰ ½ من و ۷ ½ من ۵ ½ من ۲ من ۲۰ ½ سیر

کودری سرسون کی مانند مگر اس سے زبون ۶ ½ من و ۵ ½ من و ۳ ¾ من ۱ من ۲۹ سیر لیتے ہین۔

قلت - مسور کی مانند کچھ سیاہ زیادہ اس کا پانی اور نفط کو فائدہ مند ہوتا ہے پتھر کو اس سے اگر کرتے ہین تو اس کا کاٹنا آسان ہوتا ہے ۱۰ ½ من ۷ ½ من ۵ ½ من ۲ من ۲۰ ½ سیر

برٹی - ساتوان کی مانند مگر اس سے سفید زیادہ ہوتا ہے ۶ ½ من ۵ ½ من ۳ ¾ من ۱ من ۲۹ سیر مزد پاسبانی کی بازخواست مین بعض جگہہ پاؤ سیر گھٹا دیتے ہین اور بعض جگہہ بڑھا دیتے ہین جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔

نیل و کوکنار و پان و زرد چوب و سنگھاڑہ و سن و کچالو و کدو و حنا و خیار و بادرنگ و بادنجان

وترب وزردک وکریلہ وگلورہ وٹینڈس وکچرہ کو ربیع نہین قرار دیتے اوران پر نقدی کا دستور العمل نہ ہے اس آئین سے پرونی کی کھیتی پرمثل پوپچ کی جمع لی جاتی ہے۔

بادشاہ نے مال مین جو نوازش کی اس کا بیان اوپر ہوا جہات مین ایک دسوان حصہ معاف کر دیا اور بیسوان حصہ قرار دیا۔ دو فیصدی مین ادھی پٹواری کو اور ادھی قانونگو کو دینا ٹھیرا۔ پٹواری کسانون کی طرف سے ہوتا ہے جو گانون کا خرچ و دخل لکھتا ہے اور کوئی گانون ایسا نہین ہوتا جسمین وہ نہو۔ قانون گو کشا ورزون کی پناہ ہوتا ہے اور ہر پرگنہ مین ایک ہوتا ہے اس زمانہ مین قانون گو کا حصہ موقوف کر دیا گیا ہے اور خدمت گزینی کی شرط مین تین طرح کی تنخواہ اسکی مقرر ہوئی ہے اول ماہوارہ پچاس روپیہ دوم ۳۰ روپیہ سوم ۲۰ روپیہ اور اسی کے موافق جاگیرین ہوتی ہین ایسا آئین تھا کہ شقدار نے گماشتے وکارکن وامین ہر روزہ ۵ دام ضابطانہ لے لیتے بشرطیکہ ربیع مین ۲۰ بیگہ سے کم اور خریف مین ۲۵۰ بیگہ سے کم نہ ناپتے۔ بادشاہ نے یہ بخشش کی کہ اس کی جگہہ پر ہر بیگہ پیچھے ایک دام مقرر کر دیا۔

بہتی وجوہات جو محصول ہندوستان کی برابر تھی بادشاہ نے ایزدی شکرانہ مین معاف کردیئے ہیں جیسے کہ جزیہ و میر بحری وکر (یعنی گروہ گروہ آدمی جو معابدین حاضر ہوتے ان مین ہر ایک سے کچھ لیا جاتا) وگاو شماری۔ وسرو درختی۔ پیشکش۔ فردق۔ اقسام پیشہ ور۔ داروغگانہ۔ تحصیلداری و فوطہ داری۔ سلامی۔ وجہ کرایہ خرلیطہ صرافی حاصل بازار۔ نخاس بسن کنبل۔ روغن۔ ادھوڑی۔ کیسالی و وزانی۔ قصابی۔ دباغی۔ قمار بازی تعقل۔ ساوری۔ راہ داری۔ پک۔ (دستار کی عوض مین کچھ لیے) دودی (جو شخص آگ روشن کرے وہ کچھ دے) اسمخانہ (جو بیچین یا خریدین ہر ایک مین سے کچھ لیا جائے) نمکی (شورہ اس سے بنائین) وبلکٹی (یعنے کھیت کاٹنے کی اجازت جو کسان کو دین تو اس سے کچھہ زرلین) پنتی۔ نمدہ چونہ گری۔ خماری۔ دلالی۔ ماہی گیری۔ حاصل۔

دہ‌نیم آل - اس طائفہ کی اصطلاح مین جسکو سائر جہات کہتے تھے ان سب کو بادشاہ نے بخشدیا -

(۱۴) آئین چچر

بارش کی کثرت سے و سیلاب کی شورش سے جس زمین مین کھیتی نہ ہوتی اور اسکے بونے جوتنے مین کسانون کو مشکل پڑتی تو اسکے لیئے یہ دستور مقرر ہوا کہ ان سے سال اول مین دو یا پانچوین حصے اور دوسرے سال مین تین پانچوین اور چوتھی سال مین چار پانچوین بدستور لیئے جایئن اور جگہہ کے اندازہ کے موافق نقد یا جنس طلب کیا جاے - بعد ازان سال سوم مین ۱۰ ½ حصے مانگے اور پھر ایک دام زیادہ کرے -

(۱۵) آئین بنجر

چونکہ سیلابی ہونے سے اس زمین کا حال مختلف رہتا ہے اس لیئے بہ حق شاہی مقرر ہوا کہ زمین گندم سیلابی مین سال اول مین بیگہ سے آدہ من دوم مین ایک من سوم مین دو من چہارم مین تین من اور پنجم مین بدستور - اور اسی طرح اور اناجون کے لیئے دستور مقرر تھے -

سب طرح کی زمینوں مین کشاورز کو اختیار تھا کہ نقد یا غلہ دے جس مین اسکو آسانی ہو دامن کوہ سیلابی پرگنات سنبل و بھرائچ مین بنجر نہین ہے - سیلابون مین خاک اتنی نئی آجاتی ہے کہ جس سے اس مین زراعت آسان ہوتی ہے اور زیادہ پیداوار ہوتا ہے - بادشاہ اس زمین کو بہشت کی برابر شمار کرتا ہے - کشاورز کے اختیار مین یہ امر تھا کہ نقد یا کنکوت یا بھاؤلی ذکر اسکے مال ادا کرے -

ہمیشہ کاروان بیٹے اور ملک کے نرخنامے لیتے اور بہت غور کرکے غلہ کی قیمت مقرر کرتے زمین پولج پر جس کا ذکر اوپر ہوا زر قرار دیتے مگر اب سال ششم الہی ۹۶۹ھ ہجری سے ۲۴ سال تک نہایت کاوش سے نرخنامے جمع کیئے گئے اور ان کی جدولین بنائی گیئن اور ہر سال پر دہ‌سالہ کا نشان کیا گیا اور اوسط کے موافق نرخ قرار دیکر غلہ کی قیمت لیجاتی - اگر کسان زر نقد نہ دیتا تو غلہ لیا جاتا اور بازار کے بھاؤ پر بیچڈالا جاتا -

بادشاہ کی آغاز سلطنت مین یہ دستور تھا کہ ہر سال کاروانی نرخون کو دریافت کرکے بادشاہ

پاس لاتے اور ربیع جنس اور اسکی قیمت مقرر کرکے جمع مقرر کرتے جس مین بہت رنج اٹھانا
پڑتا۔ مگر جب خواجہ عبدالحمید آصف زمان وزارت سے سربلند ہوا تو جمع ولایت رقمی ہوتی
جو کچھ دل مین آتا۔ قلم سے جمع بڑھا دی جاتی۔ اس سبب سے کہ ملک فراخ نہ تھا اور خدمت گذار
نوکرون کا ہر وقت عروج ہوتا جاتا تھا لوگوں کی رشوت ستانی اور غرض پرستی سے جمع کم
بیشی ہوتی رہتی تھی۔ مگر جب یہ خدمت مظفر خان اور راجہ تو ڈرمل کو سپرد ہو گئی تو سنہ ۱۵
الٰہی مین قانون گویوں سے ملک کی تقسیمات دریافت ہوئین۔ محصول کو قیاس و تخمینہ سے
مقرر کرکے ایک تازہ جمع مقرر ہوئی۔ دس قانون گو مقرر ہوئے کہ وہ خرد قانون گویوں سے
کاغذات لیکر دفتر خانہ مین سپرد کرین۔ اگرچہ پہلے کی نسبت اس سے کچھ رشوت وغیرہ کا انسداد
ہوا مگر ابھی حاصل کی راہ دور تھی اب ملک بہت فراخ ہو گیا تھا۔ ہر سال بہت سی ارج
شناسی کی تلاش مین تکلیف ہوتی تھی اور دیر مین سامان بہم پہنچتا۔ اس سے طرح طرح
کی خرابیان پیدا ہوئین کہ مزارع وہ باقین افزون خواہی سے فریاد کرتے اور اقطاع دار
زر بقایا کی نالش کرتے۔ بادشاہ نے ان برائیون کے دور کرنے کے لئے علاج کیا کہ جمع
دہ سالہ مقرر کی جس سے خلقت آسودہ اور سپاہ گذارہ ہوئی سنہ ۱۵ الٰہی سے سنہ ۲۴ تک
محصول دہ سالہ کو جمع کیا اور اس کا دسوان حصہ ہر سال کے لئے جمع مقرر کیا گیا سنہ ۲۰ سے
سنہ ۲۴ تک تحقیق کے ساتھ جمع دریافت ہوئی اور باقی پانچ سال کی جمع راستی منشون کی
گذارش پر مقرر ہوئی۔ ہر سال مین جنس کامل اعتبار کی گئی غرض بندوبست دہ سالہ ہوا ہی

احوال دوازدہ صوبہ

ابوالفضل نے لکھا ہے کہ سنہ ۴۰ الٰہی مین بادشاہ کی قلمرو مین ۲۷۳۷ قصبے اور ایک سو پانچ سرکارین
تھین۔ جب جمع دہ سالہ یعنی بندوبست دہ سالہ ہوا تو سارے ملک کی آمدنی تین ارب
۶۲ کروڑ ۹۷ لاکھ ۵۵ ہزار ۲ سو ۴۶ دام تھے اور بارہ لاکھ برگ تنبول پادشاہ نے ملک کے

بارہ حصہ کیے اور ہر ایک کا نام صوبہ رکھا اور اس کو کسی ملک و شہر کے نام سے موسوم کیا جنکی تفصیل یہ ہے (۱) الہ اباد (۲) آگرہ (۳) اودہ (۴) اجمیر (۵) احمدآباد (۶) بہا (۷) بنگالہ (۸) دہلی (۹) کابل (۱۰) لاہور (۱۱) ملتان (۱۲) مالوہ۔
جب برار و خاندیس و احمدنگر فتح ہوگئے تو یہ تین چھوٹے صوبہ اور زیادہ ہوکر پندرہ صوبے ہوگئے۔

نمبر	نام صوبہ	محصول زمین داموں مین	محصول زمین حال کے روپے مین
۱	الہ آباد	۲۱۲۴۲۷۱۱۹	۵۳۱۰۶۶۷
۲	آگرہ	۵۴۶۲۵۰۳۰۴	۱۳۹۳۶۲۵۷
۳	اودہ	۲۰۱۷۵۸۱۷۲	۵۰۴۳۹۵۳
۴	اجمیر	۲۸۰۶۱۳۷۹۶۸	۷۱۵۳۴۴۹
۵	گجرات (احمدآباد)	۴۳۶۸۰۲۳۰۱	۱۰۹۲۴۱۲۲
۶	بہار	۲۲۱۹۸۹۴۰۴	۵۵۴۷۹۸۵
۷	بنگال	۵۹۸۴۵۹۳۱۹	۱۳۹۶۱۴۸۲
۸	دہلی	۶۰۱۶۱۵۵۵۵	۱۵۰۴۰۳۸۸
۹	لاہور	۵۵۹۴۵۸۴۲۳	۱۳۹۸۶۴۶۰
۱۰	ملتان	۳۸۴۰۳۰۵۸۹	۹۶۰۰۷۶۴
۱۱	مالوہ	۲۴۰۶۹۵۰۵۲	۶۰۱۷۴۷۶
۱۲	کابل اور قسم کے سکے جنکی تحویل ہندوستانی داموں مین کیگئی	۲۷۲۷۱۷۷۸۶ / ۵۰۱۲۳۲۰۰	۸۰۷۱۰۲۴۴

نمبر	نام صوبہ	محصول زمین داموں میں	محصول زمین حال کے روپیہ مین
	پرانے صوبون کی جمع	۴۶۱۲۵۵۷۸۱۲۰	
۱۳	برار	۶۹۵۳۴۶۸۴	۱۷۳۷۹۱۱۷
۱۴	خاندیس	۳۰۲۵۲۹۴۸۸	۷۵۶۳۲۳۷
۱۵	احمدنگر	کچھہ نہین لکھا	x
۱۶	ٹھٹہ (سندھ)	۶۶۲۵۱۳۹۴	۱۹۵۲۲۸۴
	نئے صوبون کی جمع	۱۰۶۳۸۲۵۵۶۴	۱۳۳۸۲۹۵۵۲
	کل جمع	۵۹۷۶۳۸۳۳۸۴ =	

۲۸۳۸۱۹۱۶۹ روپے۔

نظام الدین احمد نے اپنے طبقات اکبری مین یہ لکھا ہے کہ ہندوستان [illegible] بدخشان کی سرحد ہندوکوہ سے [illegible] جو بنگال کی سرحد پر ہے مغرب سے [illegible] آلہی کوس ہے اور [illegible] کشمیر سے لیکر [illegible] کے پہاڑون تک [illegible] گجرات کی سرحد پر ہین [illegible] آلہی اور [illegible] سے یون بیان کیا جاتا ہے کہ [illegible] کمایون [illegible] کی حدود تک [illegible] آلہی کوس ہے۔ بالفعل [illegible] ہجری [illegible] ہندوستان مین [illegible] تعمیے جن مین [illegible] شہر ہین اور پانچ لاکھ دیہات مین [illegible] آمدنی [illegible] بائیس کرور [illegible] تنکہ ہین اس مختصر [illegible] شہرون کے نام لکھنے کی گنجایش نہین ہے [illegible] تھی [illegible] ترتیب سے جدا [illegible] معلوم نہین کہ [illegible] لکھے یا نہین۔

زمین کا محصول [illegible] سولہ کرور روپیہ قیصری تھا۔ اور اکبر کی وفات کے وقت سترہ کرور سینتالیس لاکھ روپیہ اور کل آمدنی ۳۲ کرور روپیہ کی اور خرچ سپاہ کے لئے یعنی [illegible] کے لئے دس کرور روپیہ دیا جاتا تھا کل آمدنی پیالیس کرور روپیہ قیصری کی ہوئی۔

بادشاہ کی بیویان

پادشاہ کے باقی حالات

تاریخون مین بادشاہ کی آٹھ بیویون کا ذکر آیا ہے اول سلطان رقیہ بیگم جو مرزا ہندال کی بیٹی
تھی وہ آگرہ مین ۸۴ برس کی عمر مین ۷ رجمادی الاول ۱۰۳۵ھ کو اس دنیا سے سدھاری
وہ شہنشاہ اکبر کی زن کلان یعنی پہلی بیوی تھی۔ اس کے کچھ اولاد نہین پیدا ہوئی۔ اس لئے
بادشاہ نے جب شاہزادہ خرم (شاہجہان) پیدا ہوا تو اس کو اس بیگم کے حوالہ کیا اور اسی نے
اس شاہزادہ کو پالا پوسا اور تربیت کیا۔ شیر افگن خان کے مرنے کے بعد نور جہان اس
بیگم کے پاس رہتی تھی۔ دوم سلطان سلیمہ بیگم تھی وہ بابر کی بیٹی گلبدن بیگم اور مرزا نورالدین محمد کی بیٹی
تھی۔ ہمایون نے اس کا نکاح بیرام خان کے ساتھ ٹھیرایا تھا جو اکبر کی ابتداء سلطنت مین ہوا
بعد بیرم خان کے مرنے کے بادشاہ نے خود ۹۶۸ھ مین اس سے نکاح کیا۔ ۱۰ ذیقعدہ ۱۰۲۱ھ کو
اس نے انتقال کیا۔ وہ شاعرہ تھی۔ مخفی اس کا تخلص تھا۔ یہی تخلص اورنگ زیب کی بیٹی
زیب النسا کا بھی تھا جس کا دیوان مخفی چھپا ہوا ہے۔ سوم راجہ بہاری مل کی بیٹی اور راجہ
بھگوانداس کی بہن کی شادی بادشاہ سے سانبھر مین ۹۶۸ھ مین ہوئی۔ چہارم عبدالواسع کی
بیوی بیوہ سے بیاہ [illegible] مین ہوا۔ پنجم جودھ بائی۔ یعنی جودھپور کی رانی جہانگیر کی مان تھی۔
اس کا نام تاریخون مین نہین بیان ہوا۔ مگر بادشاہ کی والدہ مریم مکانی کے پاس رہتی تھی اور
مریم زمانی کہلاتی تھی ۱۰۳۲ھ مین اسکا انتقال ہوا تزک جہانگیری مین اسکی نسبت لکھا ہے کہ امید
کہ اللہ تعالی ایشان را غریق بحر رحمت خویش گرداناد گو وہ ہندنی تھی جسکا دوزخ مین جانا مسلمانوں کے
نزدیک ضرور تھا مگر وہ جہانگیر کی مان بھی تھی اس لئے دوزخ مین کیونکر جا سکتی تھی اسلئے خدا سے یہ امید
کی گئی۔ ششم شاد بی بی جس سے دو لڑکیان پیدا ہوئین۔ ہفتم عبداللہ خان مغل کی بیٹی ۹۶۴ھ
مین نکاح ہوا ہشتم میران مبارک شاہ خاندیس کی بیٹی۔ بادشاہ کے پانچ بیٹے اور تین بیٹیان تھین
ان مین سے حسن حسین توام پیدا ہوئے اور ایک مہینہ جی کر مر گئے۔ پھر شاہزادہ سلیم پیدا ہوا جسکی ولادت

حرم [illegible]

کا حال ہم نے اوپر بیان کیا خواصون و خدمتگارون مین ایک سے پادشاہ کے بیٹا مراد پیدا ہوا۔ وہ کوہستان فتحپور مین پیدا ہوا تھا۔ اس کو پادشاہ پہاڑی کہتا تھا۔ جب وہ دکن کی تسخیر کو گیا تو ناجنسون کی مصاحبت سے شراب خواری کی کثرت سے ۳۰ سال کی عمر مین جالناپور کی نواح مین رحمت حق سے پیوستہ ہوا۔ حلیہ اس کا یہ ہے کہ سبز رنگ۔ لاغر اندام قد بدرازی مائل اسکے اوضاع سے تمکین و وقار ظاہر اور اسکے اطوار سے شجاعت و مردانگی باہر ۳ محرم ۹۷۸ھ کو پیدا ہوا اور ۱۰۰۶ھ مین مرگیا اسکی ایک بیٹی تھی جسکی شادی جہانگیر نے اپنے بیٹے پرویز سے کی۔

سہ شنبہ ۱۰ جمادی الاول ۹۷۹ھ کو ایک اور خواص سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام دانیال اس سبب سے رکھا کہ وہ اجمیر مین خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمتہ کے مجاورون مین سے شیخ دانیال کے گھر مین پیدا ہوا تھا۔ جب شاہزادہ مراد کا انتقال ہوا تو شاہزادہ دانیال کو دکن کی تسخیر کے لیئے پادشاہ نے بھیجا تھا اور اس کے بعد خود بھی دکن روانہ ہوا تھا جس کا مفصل حال مہمات دکن مین بیان ہوا کہ بادشاہ نے جب دارالخلافہ کو مراجعت کی ہے تو ولایت دکن دانیال کو سپرد کی ہے اسنے بھی اپنے بھائی مراد کا طریقہ ناپسندیدہ مے خواری کا اختیار کیا۔ جب باپ کو اس بادیہ پیمائی کی خبر ہوئی تو اس نے خانخاناں کو فرمان بھیجا کہ جس طرح ہوسکے اس بلائے جان ستان سے شہزادے کو بچائے۔ خانخانان نے شراب بندکی اور ان تیرہ کارون کو جو مخفی شاہزادے کو شراب پہنچاتے تھے قید کرکے انکی خوب لتکوب کی۔ جہانگیر نے شاہزادہ دانیال کی وفات کا حال یہ لکھا ہے کہ دانیال کو بندوق و شکار کا بہت شوق تھا اور اپنی بندوقون مین سے ایک کا نام اسنے یکہ و جنازہ رکھا تھا اور یہ بیت اپنی تصنیف سے اسپر نقش کرائی تھی

از شوق شکار تو شود جان تر و تازہ — بر ہر کہ خورد تیر تو یکہ و جنازہ

جب باپ کے حکم سے شراب بالکل مسدود ہوئی تو مرزا نے اپنے نزدیک کے خدمتگارون کو بہ اصرار بلکہ نہایت زاری سے کہا کہ جس طرح ممکن ہو میرے لیئے تو لاؤ اس نے

اُس نے مرشد علی تفنگچی کو فرمایا کہ اسی تفنگ یکہ وجنازہ کی نال مین شراب ڈال کر لا۔ اس بے سعادت نے تفنگ مین جو مدت سے باروت اور اسکی بو مین پرورش یافتہ تھی عرق دو آتشہ بھر اجس مین لوہے کا زنگ بھی تحلیل ہوکر آمیختہ ہوا اسکے پیتے ہی دانیال کا انتقال ہوا ؏

کسے باید کہ قا ے بدنہ گیرد ٭ ذگر گیرد برائے خود نہ گیرد

دانیال چالیس روز تک بستر پر سے نہ اُٹھ سکا مگر شراب نہ چھوڑی جس دن شراب نہ ملتی وہ زندہ رہنے کو مرنے سے بدتر سمجھتا اور بیماری کا کچھ خیال نہ کرتا سچ ہے مصرع

حریص بادہ کجا فکر درد سر دارد۔ دانیال جوان خوش قد اور نہایت خوش ترکیب اور خوشنما تھا۔ گھوڑے اور ہاتھی کا ایسا شوقین تھا کہ جب سنتا کہ کسی پاس اچھا گھوڑا اور عمدہ ہاتھی ہے تو اس کو لیئے بغیر نہین رہتا۔ نغمہ ہندی سے میلان رکھتا تھا اور کبھی کبھی اہل ہند کی زبان اور محاورہ مین شعر کہتا۔ وہ بد نہ ہوتا۔ ۳۲ سال ۶ ماہ اس دیر فنا مین بادہ زندگی پیا۔ ۲۸ شوال ۱۰۱۳ھ پھر خمار مرگ مین گرفتار رہا ۱۰۰۲ھ کی ابتدا مین دانیال کی شادی قلیچ خان کی بیٹی سے ہوئی اور ۱۰۰۶ھ کے آخر مین خانخانان کی بیٹی خانخانان بیگم سے بادشاہ نے نکاح پڑھا کر دکن اسکے ساتھ بھیجا تھا۔ بیجاپور کے بادشاہ عادل شاہ کے بیٹے کے ساتھ نکاح کا حال اوپر پڑھ چکے ہو اس کے تین بیٹے تھے۔ اول طہمورث دوم ہوشنگ۔ سوم بایسنغر۔ اور چار لڑکیان تھین اول سعادت بانو۔ دوم بولاقی بیگم جو دختر قلیچ خان سے پیدا ہوئی تھی سوم ماہی بیگم ہمشیرہ ہوشنگ۔ چہارم برہانی بیگم خواہر طہمورث۔ طہمورث کی جہانگیر کی بیٹی سلطان بہار بیگم سے اور ہوشنگ کی خسرو کی بیٹی ہوشمند بانو بیگم سے شادی ہوئی تھی۔ جہانگیر کے مرنے کے بعد طہمورث اور ہوشنگ کو آصف خان نے مار ڈالا تھا۔ سلطان دانیال اپنی بیوی خانخانان بیگم کو بہت چاہتا تھا یہ بیوی بھی ایسی وفادار تھی کہ خاوند کے مرنے کے بعد جینا نہین چاہتی تھی۔ مگر خودکشی بھی نہین کرسکتی تھی اس لیئے خاوند کا سوگ تا دم مرگ ایسا ہی تازہ رکھا کہ وہ ابھی مرا ہے۔

شہنشاہ اکبر بیٹوں کیطرف سے بدنصیب تھا - ۲۸ برس کی عمر تک کوئی بیٹا جیا نہین -
پھر تین بیٹے جیئے تو ان مین سے دو مراد اور دانیال جوان مرگ ہوئے جس سے اُسکے دلپر
داغ لگے - تیسرا بیٹا سلیم جو زندہ رہا اُسنے اپنے کو تکون سے باپ کی زندگی کو آخر عمر مین تلخ کیا -

پادشاہ کے تین بیٹیان تھین ایک شہزادہ خانم جو سلیم سے تین مہینے بعد ۹۷۷ھ مین پیدا ہوئی
دانیال کے تولد ہونے کے بعد بی بی دولت شاد سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام شکر النساء
بیگم رکھا گیا اُسنے باپ کے پاس ہی پرورش پائی تھی اس مین نیک ذاتی اور عام خلائق کے
ساتھ رحدلی فطری اور جبلی تھی اپنے ایام خردسالی سے وہ جہانگیر سے ایسی بے اختیار محبت
رکھتی تھی کہ بہن بھائیوں مین کمتر ہوتی ہے - دستور ہے کہ لڑکیوں کی چھاتیوں مین سے
اول دودھ نکالتے ہین اور ایک قطرہ شیر اس مین سے نکلتا ہے - جب اس بہن کی چھاتی مین قطرہ
شیر نکلا تو باپ نے جہانگیر سے فرمایا کہ بابا اس شیر کو پی لے حقیقت مین یہ تیری بہن بجاے مان کے
ہوجاے - جہانگیر لکھتا ہے کہ خدا گواہ ہے کہ جس روز سے مین نے یہ قطرہ شیر پیا تو علاوہ بہن بھائی
کی محبت کے مجھے اس سے وہ الفت ہوگئی تھی جو اولاد کو مان کے ساتھ ہوتی ہے اسکی شادی
مرزا شاہرخ سے ہوئی تھی بعد ازان کچھ مدت کے بعد بی بی دولت شاہ سے ایک لڑکی
پیدا ہوئی اس کا نام آرام بانو بیگم رکھا گیا - اسکے مزاج مین گرمی اور تندی تھی - باپ کو وہ ایسی
عزیز تھی کہ اسکی بے ادبیان بھی باپ کو غایت محبت کے سبب سے بُری نہ معلوم ہوتی تھین -
انکی شرح بھی وہ ایسی کرتا تھا کہ ادب مین وہ داخل ہوجاتی تھین اس لیئے جہانگیر کو وصیت
کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری اس لاڈلی بیٹی سے ایسا سلوک کرنا جیسا مین کرتا ہون اسکی
بے ادبیون اور شوخیون پر کچھ خیال نہ کرنا - وہ چالیس برس کی عمر مین اسہال کے مرض مین
مبتلا ہوکر دنیا سے انتقال کرگئی -

پادشاہ کا حلیہ جہانگیر کی توزک جہانگیری مین یہ لکھا ہی کہ قد بلند بالا کی حد وسط مین گندم گون چشم و
ابرو سیاہ - صباحت سے ملاحت زیادہ - شیر اندام - کشادہ سینہ - دست و بازو دراز پرہ بینی

بادشاہ کے قوائے جسمانی

کے بائین طرف آدھے چنے کی برابر مسّہ نہایت خوشنما جس کو ارباب علم قیافہ دولت عظیم اور اقبال جسیم کی علامت جانتے ہین ۔ آواز نہایت بلند تکلم و بیان نمکین ۔ اہل عالم سے وہ اوضاع واطوار مین مناسبت نہین رکھتا تھا بلکہ فرّہ ایزدی اُس سے ظاہر ہوتا تھا ۔ بادشاہ ایسا قوی تھا کہ بہت کم بیمار ہوتا اور اگر کبھی ہوتا تو جلد تندرست ہوجاتا ۔ کئی دفعہ شکار کرنے مین اسکے جسم پر ضربین لگین مگر وہ اچھی ہوگئین ایک دفعہ دکہ مین ۹۹۰ھ مین ایک کفتار نمودار ہوا ۔ اس سنگلاخ مین بادشاہ نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا ۔ گھوڑا سر کے بل گرا ۔ بادشاہ کا منہ پتھرون پر لگ کر زخمی ہوا وہ خود کھڑا ہوا اور اپنے زخمون کو باندھا ۔ یہ زخم حکیم علی نے ہندوستانی تیلون کو ملکر اچھے کئے اس نے زخمون کو اچھا ہونے کا انتظار نہین کیا اور اپنا دورہ شروع کیا سکھپال مین سفر کیا ۔

ایک دفعہ بادشاہ ہرنون کا تماشا دیکھ رہا تھا کہ ایک ہرن دوڑ کر بادشاہ کی طرف سینگ کر کے آیا ۔ بادشاہ نے اُسکے دونون سینگ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیے جس سے اسکے بیضون مین خراش آئی ۔ پھر آفتابہ کی ٹھیس سے اُن پر آماس ہوا ۔ ایکماہ بیس روز مین اچھا ہوا اور غسل صحت کا جشن ہوا ۔ طرح طرح بخشش وبخشایش ہوئی اور قیدیون کی رہائی ہوئی ۔ مفلسون کو زمینین دی گئین ۔

بادشاہ کے روبرو ہر روز پہلوان لڑتے تھے ایک دفعہ جگ سونبھا وہیبت دو پہلوان کشتی لڑتے تھے کہ ہیبت نے اپنے حریف کی انگلیون کو چیڑا ۔ بادشاہ نے اسکے ایک گھونسہ ایسا مارا کہ وہ بیہوش ہوگیا ۔

بادشاہ کے سفرون کا حال تم نے پڑھا کہ وہ اپنی قلمرو مین دور دور کے مقامون مین دو دو تین تین دفعہ سخت موسمون مین گیا ۔ کابل دو دفعہ کشمیر تین دفعہ گجرات دو دفعہ بنگال و بہار و مالوہ وغیرہ مین گیا یہ اسکے قوائے جسمانی کی خوبی تھی کہ ان سفرون مین اس کو کبھی تکان نہوا ۔

شہنشاہ اکبر لڑکپن مین نوشت و خواند سے دل چراتا تھا اور مکتب سے چھپتا تھا ۔ ایام طفلی مین تعلیم سے بے بہرہ رہا ۔ بڑی عمر مین لکھنے پڑھنے سے ماہر ہوا ۔ اسکے پڑھنے کی کتابین ما... تو...

اس کی اولاد نے تبرکاً اپنے پاس رکھین۔ گو وہ علم کے اعتبار سے امی تھا مگر اس کو ارباب علم کی مصاحبت کا شوق ایسا تھا کہ علماء کبار اسکو چارون طرف سے گھیرے رہتے تھے وہ ان کے دائرہ کا مرکز بنا رہتا۔ ان کی باتین اور مباحثے سننے سے اور اپنی خداداد ذہانت اور جودت طبع سے ایسا صاحب استعداد ہوگیا کہ جب علمی جلسون مین وہ سخن آرائی اور نکتہ پیرائی کرتا تو کبھی اسپر بے علمی کا گمان نہ ہوتا۔ نظم و نثر کے دقائق کو وہ خوب سمجھتا تھا۔ ایک دن اسکی مجلس آراستہ تھی کہ اسمین یہ شعر پڑھا گیا۔ ؎

مسیحا یار و خضرش رہنما و ہمعنان یوسف
فغانے آفتاب من بدین اعزاز می آید

اس شعر کو سنکر پادشاہ نے فرمایا کہ آفتاب کی جگہہ شہسوار بہتر معلوم ہوتا ہے اسی طرح ایک اور دن ملا طالب صفاہانی کی یہ رباعی پادشاہ کے سامنے پڑھی گئی جو اس نے حکیم ابوالفتح کے مرثیہ مین اور حکیم ہمام کے آنے کی تہنیت مین لکھی تھی۔

رباعی

مہر دو برادرم ز مساز آمد
او شد بسفر دین ز سفر باز آمد
او رفت بدنبالہ او رفت عمر
وین آمد و عمر رفتہ ام باز آمد

تو اس نے فرمایا کہ دنبالہ کا لفظ دل مین کھٹکتا ہے اگر مصرعہ یہ ہو تو خوب ہو ع
او رفت و در رفتنش مرا عمر رفت۔ سخن شناسون نے اس اصلاح کی داد دی۔

چو شاہنشہا دو رہبینی کند
بدانشوران ہمنشینی کند
کسانے کہ دانا دلی خواستند
بدانا دلان مجلس آراستند

پادشاہ علم کا قدر شناس بڑا تھا اُسنے اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے بڑے بڑے منتخب عالم مقرر کئے سلطان سلیم کا معلم مولانا میر کلان کو اور سلطان مراد کا استاد ابوالفیض فیضی کو اور سلطان دانیال کا سعید خان کو مقرر کیا تھا۔

اب ہم شہنشاہ اکبر کے مقولات کو نقل کرتے ہین جنسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ کیسا روشن تھا۔

مقولات شہنشاہ اکبر

اور اسکے کیسے خیالات بلند فلسفیانہ تھے ان کے پڑھنے سے آدمی کی عقل کی افزائش ہوتی اور اور نیکی کیطرف ہدایت ہوتی ہے ۔ یہ سارے مقولے اسکے فرمائے ہوئے ہین ۔ ہر مقولے کے اول یہ الفاظ لگالو کہ وہ فرماتا ہے ۔

(۱) آفریدہ کو آفرینندہ کے ساتھ وہ پیوند نہین کہ کوئی اس کو بیان کر سکے ۔

(۲) قاعدہ ہے کہ ہر چیز کی ایک خاصیت ہوتی ہے جو اسکی ذات سے فک نہین ہوتی ہے ۔ دل کی بھی ایک خاصیت تعلق ہے جو اگر یہ کسی نہ کسی کے ساتھ دوستداری کا ہوتا ہے اور اسی پر اسکی خوشی و رنج کا مدار ہوتا ہے جو شخص کہ اپنی خوش نصیبی سے دنیا سے اپنے تعلقات کو دل سے اُٹھا دیتا ہے وہ خدا کی محبت سے تعلق پیدا کرتا ہے جس مین کچھ چون و چرا نہین ہے ۔

(۳) اس پیوند خاص کے سوا مخلوق کی ہستی کا ظہور نہین ہوتا جو اس پیوند کو جان لیتا ہے وہی بلند پایہ ہوتا ہے ۔

(۴) جو شخص اس پاک انتساب کی پاسبانی کا خوگر ہوجاتا ہے تو پھر کوئی شغل اُسکو اس سے باز نہین رکھتا ۔

(۵) ہندنیان دریا تال ۔ کنوئین سے گھڑون کو پانی سے بھر کر سرون پر کئی کئی اوپر تلے رکھتی ہین اور تیز چلتی ہین اور نشیب و فراز پر گذرتی ہین اور اپنے ساتھیون کے ساتھ باتین کرتی جاتی ہین مگر ان کا دل گھڑون کی نگاہداشت مین لگا رہتا ہے بس جب عورتون کا حال گھڑون کے ساتھ یہ ہو تو پھر مرد کیون خداوند کے ساتھ پیوند رکھنے مین ان سے کم ہو ۔

(۶) جس وقت کہ مجرد اور مادی کا پیوند معنوی استوار ہوجاتا ہے تو ایزد بیہال کے ساتھ نفس ناطقہ کی پیوستگی کو کوئی الگ نہین کر سکتا ۔

(۷) فائدہ یا زیادہ جوئی کے لئے دریوزہ گری مین ناحق تگاپو ہوتی ہے ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے اس لیئے اس کو بھی دوست رکھو ۔

(۸) عقل اس کو نہین قبول کرتی کہ دانستگی (جانتے) مین خدا کے فرمان کے خلاف مجردی کوئی کام کرے ۔ لیکن بعض آدمی ایسے ہین کہ وہ کتب سماوی کو نہین مانتے اور خدا کی ذات کو

بے زبان سمجھ کر اس کو حرف سرا نہین جانتے اور بعض انکے قبول کرنے مین اختلافات رکھتے ہین۔

(۹) سب پر یکسان خدا کا فیض جاری ہے لیکن بعض وقت کی نارسیدگی کے سبب سے اور بعض اپنی بے استعدادی کی وجہ سے کامروا نہین ہوتے۔ اس گفتار کی راستی کو کوزہ گر کے کردار سے دیکھ سکتے ہین۔ کمھار اپنے سارے برتنون کو آوے مین یکسان گرمی پہونچاتا ہی ان مین بعض برتن اپنے وقت کی نارسیدگی کے سبب سے اور بعض اپنی نااہلیت کی جہت سے خام رہتے ہین۔

(۱۰) ظاہری پرستش جسکو نوآئین آلہی کہتے ہین وہ غافلون کے ہشیار کرنے کے لیے ہی ورنہ ایزدی نیایش دل سے ہوتی ہے نہ تن سے۔

(۱۱) بندگی کا اول درجہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو امر ناملائم کے پیش آنے سے تیوری مین بل نہ ڈالے اور طبیب کی کڑوی دوا سمجھ کر شگفتہ روئی سے اس کو پی لے۔

(۱۲) خواب و بیداری مین بے صورت کو نہین دیکھ سکتے مگر اس کے خیال کے غلبہ مین اس کی نمود ہوتی ہے۔ خواب مین خدا کے دیکھنے کے معنے یہی ہون گے۔

(۱۳) بہت سے خداپرستون کو اپنی خواہش روائی پیش نظر ہوتی ہے نہ ایزدپرستی۔

(۱۴) سیاہ بالون کے سفید ہوجانے سے یہ امید پڑتی ہے کہ جیسی یہ سیاہی جس کا ازالہ کسی طور سے نہین ہوسکتا تھا دور ہوگئی ایسے ہی دل کی تیرگی دور ہوجائے گی۔ اور بینش مین ایک اور فروغ آجائے گا۔

(۱۵) ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کی مرضی کے برخلاف آدمی کام کرسکتا ہے اور اس بطرز سے بازگشت کرنے مین اس کی رستگاری ہے۔ مگر آگاہ دل جانتا ہے کہ خدا کے فرمائے کو کوئی سرتابی نہین کرسکتا اور اسی بات سے حکیمون نے رنجورون کے لیے دوائین تجویز کی ہین۔

(۱۶) ہر شخص اپنے حال کے اندازہ کے بقدر ایزد بیچون کا نام لیتا ہے ورنہ اُس بے نشان کا نام کہان ہے۔

(۱۷) اشتباہ کے دور کرنے کے لیے تسمیہ ہوتا ہے اور اس کی ذات قدسی مین راہ نہین۔

(۱۸) ایزد توانا سب جگہہ موجود ہے اس لئے خلا کے محال ہونے مین گفتگو عبث ہے۔ (شاعرانہ مضمون ہے)

(۱۹) اہل عالم نے جن باتون کو نیک و بد خیر و شر قرار دیا ہے وہ عنایت ایزدی کی نیرنگیان ہین ان مین آدمیون نے یہ اختلاف پیدا کیا ہے۔

(۲۰) شیطان کو یہ جاننا کہ وہ برے کام کرنے والا ہے اس کو خدا کا شریک بنانا ہے۔ اگر وہ راہ زن ہے تو اسکی رہ زدگی کس نے پیدا کی ہے۔

(۲۱) شیطان کی پُرانی داستان معما یا رموز ہے۔ کس کا مقدور ہے کہ خواہش ایزدی کے موافق کام نہ کرے۔

(۲۲) ایک کسان کے دل مین خدا طلبی کا درد پیدا ہوا اس کے پیر کو یہ معلوم ہوا کہ گائے سے اس کو بڑی محبت ہے تو اسنے اس کو ایک کوٹھری مین بند کیا اور فرمایا کہ گائے کے خیال کی ورزش کیا کر۔ کچھ دنون کے بعد امتحاناً اُسے باہر بلایا تو وہ گائے کے خیال مین ایسا مستغرق تھا کہ اپنے تئین شاخدار سمجھکر کہا کہ مجھے بڑی شاخین (سینگ) باہر آنے نہین دیتین۔ رہنما نے یہ نیک اندیشی دیکھکر اس کو بتدریج آگے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔

(۲۳) انسان کی برتری گوہر خرد سے ہے اس لیئے آدمی کو چاہیئے کہ اُس کی زنگ زدائی مین کوشش کرے اور اس کی فرمان پذیری سے سرتابی نہ کرے۔

(۲۴) ہر آدمی اپنی خرد کا مرید ہوتا ہے اگر خرد مین عمدہ تابش ہے تو وہ خود پیشوا ہے اور اگر وہ اپنے خرد کی تابش کو کسی اپنے سے زیادہ مبالغہ کی مریدی سے بڑھاتا ہے تو خود رہنما ہے۔

(۲۵) عقل پژوہی کی ستایش کی اور تقلید کی نکوہش کی اس سے زیادہ کیا حجت ہو سکتی ہی کہ اگر تقلید شائستہ ہوتی تو انبیا اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے۔

(۲۶) بہت سے آدمی ایسے خرد بیمار ہوتے ہین کہ اپنے تیئن دستار سرائے سے تنومند دکھاتے ہین مگر طبیب معنوی انکی نقش پیشانی سے یہ بیماری پہچان جاتے ہین۔

(۲۷) جیسا آدمی کا بدن ناسازگاری سے بیمار ہوتا ہے ایسے ہی عقل بیمار ہوتی ہے شناسائی ایسی اس کی جاتی رہتی ہے کہ کسی دوا کو قبول نہین کرتا۔

(۲۸) عقل کی بیماری کا علاج اس سے بہتر کوئی نہین ہے کہ نیک آدمیون سے ملے جلے۔

(۲۹) آدمی کا پہچاننا نہایت ہی مشکل کام ہے ہر شخص اُس کو نہین کرسکتا۔

(۳۰) نفس باوجود گزیدہ ہونے کے طبیعت کی ہمنشینی سے اسی کا ہمرنگ اور اُس کا گوہر تابناک خاک پوش ہوجاتا ہے۔

(۳۱) جب آدمی کی عقل تاریک ہوجاتی ہے تو دل کا کام جس سے بہروزی ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے اور بدن کی فربہی جس سے جان نزار ہوتی ہے تگا پو کرتا ہے۔

(۳۲) آدمی اپنے ہمنشین کے ساتھ رغبت کرنے سے اُسی کا ہمخو ہوجاتا ہے اور اس مین بغیر اپنی خواہش کے بہت سی نیکیان اور بدیان پیدا ہوجاتی ہین۔

(۳۳) آدمی کے شعور کا آغاز جب ہوتا ہے تو وہ بروقت اپنا ایک رنگ دکھاتا ہے سر و سرا مین خوش۔ ماتم کدہ مین دل تنگ ہوتا ہے مگر جب اُسکی بینش بلند ہوجاتی ہے تو اندوہ و شادی اس سے کنارہ کرتے ہین۔

(۳۴) بہت سے آدمی اپنے خیال کے پندار مین اور نقل کے خارزار مین اپنے تیئن عقل کا پیرو جانتے ہین مگر غور سے دیکھے تو وہ عقل کے گرد بھی نہین گئے۔

(۳۵) بہت سے سادہ لوح تقلید پرست قدیمی باتونکو عقل کی باتون پر ترجیح دیتے ہین اور نقصان اُٹھاتے ہین۔

(۳۶) خرد و آز۔ و خشم۔ کے سبب سے طرح طرح کے کردار ناگفتار پیدا ہوتے ہین۔ اور

انصاف کی پردہ نشینی سے مخالف باتون کی شورش ہوتی ہی۔
(۳۷) سونا بھی مرنے کا نمونہ ہے جب آدمی سونے سے اُٹھے تو تازہ زندگانی کا شادیہ بجے اور نیک خیالی اور ستودہ کرداری مین کوشش کرے۔
(۳۸) میرا دل چاہتا ہے کہ راستی و درستی کہ ... کی پیشگاہ مین شائستگی رکھتی ہے کردار کی ... ہو۔
(۳۹) اول آدمی اپنے تئین آراستہ کرنے مین کوشش کرے اور پھر دانش ... پر متوجہ ہو تو امید ہے کہ آگہی کا چراغ روشن ہوا اور اختلاف کی شورش مٹھ جاے۔
(۴۰) مجھے افسوس ہے کہ میری جوانی شائستگی کے ساتھ نہین گذری مگر آئندہ امید ہے کہ ... ساتھ بسر ہو۔
(۴۱) عادت و رسم کے خلاف کام کرنے سے عام آدمیون کا دل آزردہ ہوتا ہے اور دانا جب تک ... کسی کام کے لئے برگزیدہ دلیل نہین ہوتی اس کو وہ نہین قبول کرتا۔
(۴۲) اگرچہ نیایش ایزدی مین صورت و معنی کی کارروائی ہے مگر فرزندون کی بہروزی باپ دادا کی رضامندی مین ہے۔
(۴۳) مجھے افسوس ہے کہ میرے باپ جنت آشیانی کا انتقال جلد ہوگیا اور مین اُس کی ... خدمت نہ کرسکا۔
(۴۴) آدمی کے غمون کا سبب یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے اور روزی سے زیادہ چاہتا ہے۔
(۴۵) ایک شہزادہ سے مخاطب ہوکراسنے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بزرگ سمجھو۔
(۴۶) حکیم مرزا جنت نشانی باپ کی یادگار ہے گو وہ ناشناس ہو مگر ہم کو اسپر مہربانی کرنی چاہیئے۔
(۴۷) بعض دلاور اجازت چاہتے تھے کہ گھات لگا کر مرزا حکیم کا کام تمام کرین مگر میرے دل نے یہ نہ چاہا اور خدادانی سے اسے دور جانا بس سے اس گزین یادگار کے بھی گزند ...

رہائی پائی اور مخلص جان سپار کی بھی پاسبانی ہوئی۔

(۴۸) آدمی کے سارے کام اپنے ساتھ ہین خشم و آز کے سبب وہ اوروں سے لڑتا ہے

(۴۹) دنیاداروں کو چاہیے کہ وہ کسی پیشہ مین سرگرم ہون کہ بیکاری یا اور ناسزا خواہشون مین گرفتار نہون۔

(۵۰) میرا یہ ارادہ ہوا کہ میری قلمرو سے گدائی موقوف ہو۔ بہت آدمیون کو بہت مال دیا مگر حرص کی بیماری ایسی آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اس سے کچھ فائدہ نہین ہوا۔

(۵۱) قالب ہستی مین سوائے خیر کے کوئی اور چیز نہین آتی۔ کوئی آفریدہ نکوہش کا سزاوار نہین ہے۔

(۵۲) خودی کی طرح حرص کی خواہش بھی ہمت مین نہین سماتی اس لیے وہ سزاوار نہین ہے وہ برباد کرتی ہے یا آموزش کرتی ہے۔

(۵۳) پیری کے معنے درد پہچاننے اور چارہ گری کرنے کے ہین نہ یہ کہ ٹھڈری پر بال لگائین اور خرقہ مین پیوند لگائین اور بناوٹ کی باتون سے ہنگامہ آراستہ کرین۔

(۵۴) رہنمونی سے مراد رہنمائی ہے نہ پیرونگی گرد آوری۔

(۵۵) مرید کرنے کے معنے یہ ہین کہ کسی کو خدا کی بندگی سے آگاہ کرے نہ یہ کہ کسی کو اپنا بندہ بنائے

(۵۶) پیشتر مین اپنے مذہب پر لوگون کو زبردستی لاتا تھا اور اس کو مسلمانی سمجھتا تھا جب میرا علم بڑھا تو مجھے اس اپنے کام سے شرمندگی ہوئی کہ آپ خود مسلمان نہ ہونا اور اورون کو مسلمانی پر مجبور کرنا ناسزا ہے۔ زبردستی دین مین لانے کا نام دینداری کب ہو سکتا ہے۔

(۵۷) دولت افزائی اور عمر افزائی کا سرمایہ کم آزاری اور خیر سگالی ہوتا ہے باوجودیکہ گوسپند سال بھر مین ایک دو بچے سے زیادہ نہین جنتی مگر اس کے ریوڑ کے ریوڑ موجود ہین اور کتے باوجود بہت بچے جننے کے کم ہین۔

(۵۸) کیا تعجب کی بات ہے کہ لوگ رہنمائی کے لیے بیٹھین اور رہزنی کے لئے کھڑے ہون۔

(۵۹) کار یہ ہے کہ آدمیون مین انسان رہے اور نالائق کامون سے بچے ورنہ عزلت گزینی تو تن آسانی ہے۔

(۶۰) اگرچہ تنہا علم کو لوگ کمال شمار کرتے ہین لیکن علم جب تک عمل مین نہ آوے پسندیدہ نہین ہوتا بلکہ نادانی سے بھی فروتر ہوتا ہے۔

(۶۱) جب آدمی اکثر کم بینی کے سبب سے زیادہ تر اپنا فایدہ اپنے نقصان مین دیکھتا ہے وہ غیرون کو کیا فائدہ پہونچا سکتا ہے۔

(۶۲) آدمی اپنی نابینائی کے سبب سے اپنے ہی گرد دیکھتا ہے یا تنتا ہے اور اپنے ہی فائدہ کی سوچتا ہے۔

(۶۳) بلی جب کبوتر پر پنجہ مارتی ہے تو آزردہ ہوتی ہے اور جب چوہے کو پکڑتی ہے تو خوش ہوتی ہے بھلا اس پرند نے کیا خدمت کی اور اس بیچارہ نے کیا نابکاری کی۔

(۶۴) دنیا کی راہ دراز کا اول قدم یہ ہے کہ آزو خشم کو مطلق العنان کرے اور کردار کی اساس کو راستی کی کو نیا سے کر رکھے۔

(۶۵) جب آدمی کی عقل مین روشنی آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ مین چیزون کو اپنی ملک سمجھتا ہون وہ سب عاریت ہین

(۶۶) جس گھر مین بلی وچڑیا اور جانور شریک رہتے ہین ان مین سے ہر ایک اپنی تبسا سکالی سے اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے

(۶۷) ناپسندیدہ ملنے والون سے آدمی پرہیز کرے اور رنج کی ناخوشنودی کو دل کے گرد نہین آنے دے۔

(۶۸) ہم کو سب کے ساتھ آشتی کرنی چاہیئے۔ جو خدا کی رضامندی کی راہ پر چلتے ہین ان سے لڑنا یقینی ناسزا وہ ہے اور اگر وہ راہ پر نہین چلتے وہ نادانی کے بیمار ہین اور مہربانی کے سزاوار

(۶۹) جو پیشہ ور اپنے کام مین سرآمد ہوتا ہے اسکے ساتھ فیض ایزدی ہوتا ہے اسکی

بزرگداشت پرستش ایزدی ہے۔

(۷۰) خواب و خور اس لیے ہے کہ رضاے ایزدی کی جستجو کی نیرو ہو مگر آدمی انھین کو اپنا مقصود جانتا ہے۔

(۷۱) اگرچہ سونے سے تنومندی ہوتی ہے زندگانی خدا تعالے کی بڑی بخشش ہے بہتر یہی ہے کہ وہ بیداری مین بسر ہو۔

(۷۲) دور بین سختی روزگار کو اپنے اوپر ستم نہین جانتا بلکہ اپنے اعمال کی سزا جانتا ہے

(۷۳) خردمند روزی کا غم نہین کھاتا بلکہ بندہ اور نوکر سے پند لیتا ہے۔

(۷۴) چمن زار ہستی کے نورس خوردسال ہوتے ہین انکی طرف رغبت کرتا داد اربان آزین کی جانب منہ کرتا ہے۔

(۷۵) جس نقد پر کہ خدا کا نام لکھا ہو اس کو صدقہ کرنا نکوہیدہ ہے۔

(۷۶) نیایش گری مین چاہیے کہ اپنی جس سودمندی مین دوسرے کی ضررمندی ہو اس سے دور رہے

(۷۷) جو لوگ خواہش نفس کے خلاف کام کرنے کو ایزد پژوہی جانتے ہین وہ زیادہ تر اس روش سے کشایش پاتے ہین ورنہ بہت سے آدمی ایسے ہین کہ کامروائی کو اپنی نردبان جانتے ہین۔

(۷۸) عالم معنے کا نمونہ جہان صورت ہے جیسے اس عالم مین جو اس کو سپرد کرتے ہین وہی اس سے پھر مانگ لیتے ہین ایسے ہی اس عالم مین بھی آدمی کو حق نے خرد دی ہے اسکے اندازہ کے موافق کردار مانگتے ہین۔

(۷۹) پندپذیری مین سال و شرست پر لحاظ نہین پڑتی۔ یہ نہ چاہے کہ خورد و ر تہید... اوروں سے حق نیوشی مین باز رہتے ہین۔

(۸۰) پیغمبر امی تھے ان کے معتقدون کو چاہیے کہ اپنے فرزندون مین سے کسی ایک کو امی رکھین۔

(۸۱) شاعر کی بنیاد ناراست گذاری پر ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی خاطر کو پسند نہین۔

(۸۲) بازی گر کے اصول دست وپا ہوتے ہین شاعر کی زبان۔

(۸۳) جو شخص دوسرے کے شعر کو تضمین اچھی طرح کرتا ہے یا برمحل اس کو پڑھتا ہے وہ شاعر کا اور اپنا مرتب علم مین دکھاتا ہے۔

(۸۴) ایک خدا جو بسیارخواری کی بیماری مین مبتلا ہوا وہ ایک کارآگاہ پاس گیا اس نے کدو کا ایک ظرف اس کو دیا کہ ہرروز اس کو بھر کر کھایا کرے اور کچھ اس کے کنارہ مین سے گھس کر قشقہ لگایا کرے اور غلط اندازی کے لیئے اسی کو ایک دعا پڑہنے کو بتلادی۔ تھوڑے عرصہ مین اسس بیماری کا علاج ہوگیا۔

(۸۵) کاشکے مین رسمی علوم کے خوانندون سے مقدر اختلافات نہ سنتا اور تفاسیر اور احادیث کے اختلافات مجھے حیرانی مین نہ ڈالتے۔

(۸۶) حکمت کی باتین ایسی دلربا ہوتی ہین کہ سب کامون سے باز رکھتی ہین۔ مین ان کے سننے سے زبردستی کنارہ اس لیئے کرتا ہون کہ ضروری کامون کا وقت (ناگزیر وقت) نہ جاتا رہے

(۸۷) اختلافات تین سببون سے پیدا ہوتا ہے۔ نارسائی دریافت۔ دوست نما دشمنون کی آمیزش۔ طامع دوستونکی دروغ سازی۔

(۸۸) کاش نامون کی نوشت اور خواند مین پسندیدہ والا دانش کے سوائے کسی اور کو اجازت نہ ہوتی جسکے سبب سے نسرو مایون کو کام روائی کے واسطے داستانین بنانے۔ اور کوتاہ بین سکار سادہ لوحون کی نگارشس کا موقع نہ ملتا۔

(۸۹) بناوٹ کی باتون کی شناخت کرنا بہت دشوار ہے لیکن گوئندہ کے سنجیدہ کرنے سے وہ ظاہر ہوجاتی ہے۔

(۹۰) اگرچہ مین نے بہت سی قلمرو مین فتح کرلین اور سامان جہانگیری مہیا کرلیا۔ مگر حقیقی بزرگی خدا کی رضامندی مین ہے۔ مذہب وکیش کے اختلافات سے میرا دل آسودہ نہین ہوتا اور ظاہری شکوہ سے ملال ہوتا ہے پھر دل کی کسی خوشی کے لیئے کشورکشائی اختیار

کی جائے امید ہے کہ کوئی صاحب دل ایسا آ جائے کہ میری خاطر کو کشایش سے چھٹا دے۔

(۹۱) بیسوان سال مجھے تھا کہ مین اپنی باطنی امارت کی طرف مشغول ہوا اور وابسی راہ کی زاد کی تمہید سننی نے ایک عجیب طرح کا درد میرے دل مین پیدا کیا۔

(۹۲) آب راوی کے دوسرے کنارہ پر ایک درویش حجرہ مین بیٹھا اور لوگون کی آمد و رفت کو اپنے پاس بند کیا۔ جب اُس سے یہ حال پوچھا تو اسنے جواب دیا کہ مین ایک خاص عبادت کرتا ہون۔ جب تک عبداللہ خان والی توران نہ آجائے گا مین خود نہ باہر آؤن گا نہ کسی اور کو اپنے پاس آنے دون گا۔ تو اس سے یہ کہا گیا کہ اگر تیری دعا قبول ہوتی ہے تو ہمارے بہبود کے دروازہ کے بند ہونے کی دعا مانگ اور اس بہتان سے باز آ۔

(۹۳) اگر مین کسی اور شخص مین جہانبانی کی بیر دیکھتا تو اس گرانبار کو اسکے کندھے پر رکھ کر کنارہ گزین ہو جاتا۔

(۹۴) اگر مین کسی پر بیداد کرتا ہون تو خود اپنے سے لڑتا ہون چہ فرزندون اور خویشون کا تو کیا ذکر ہے۔

(۹۵) دادار کام بخش نے بہت سے قلعے میرے حوالے کئے ہین مگر میرے دل نے کسی کے سامان کی طرف رغبت نہین کی۔ دل مین خدا کا خوف ایسا سمایا ہوا ہے کہ کسی اور خوف کے آنے کی گنجایش ہی اسمین نہین ہے۔

(۹۶) مجھ سے جو شخص ترک دنیا کی اجازت چاہتا ہے مین بکشادہ پیشانی اس کو اجازت دیتا ہون اگر اُس کا دل اس نادان فریب جہان سے برگرفتہ ہے تو اس کو ترک دنیا سے باز رکھنا گناہ ہے اور اگر وہ اپنی خود فروشی کے لئے یہ ارادہ ظاہر کرتا ہے تو وہ اپنے کئے کو بھگتے گا۔

(۹۷) امراض جسمانی ظاہر ہین اور انکی دوائین وافر۔ ان کے علاج مین اطبا کس قدر خطا مین کرتے ہین اور کرینگے۔ امراض نفسانی ناپدید اور ان کا چارہ نایاب پھر کیونکر اس کا

مداوا ہوسکتا ہے۔

(۹۸) یہ خدا کی عنایت تھی کہ مجھے کوئی وزیر برگزیدہ نہین ملا۔ ورنہ میری ساری تحقیقاتین اور دریافتین اس سے منسوب ہوتین۔

(۹۹) جس روز خدا ہمارا جینا نہین چاہتا ہم بھی علاج کی تدبیر نہین کرتے۔

(۱۰۰) مین ہمیشہ خدا سے یہ دعا مانگتا رہتا ہون کہ اگر میرے خیال اور کردار تیرے مقبول نہون تو میری جان نکال لے تاکہ دم بہ دم تیری نارضامندی زیادہ نہو۔

(۱۰۱) ایزدی نوازش کے ساتھ کشایش کار وابستہ ہے اور نیک مرد اسکے ملنے کو اسکی نشانی جانتا ہے مگر اسکی نایافت سے بہت سے آدمیون کی استعداد خاک اندود ہوئی ہے۔

(۱۰۲) ایک رات کو بارہسنگی سے میرا دل عاجز ہوا تھا کہ خواب و بیداری مین اس سے شگفتہ نمائی ہوئی کہ خاطر کو کچھہ آرام ہوگیا۔

(۱۰۳) جو شخص کہ دل اخلاص گزین یا صاف درونی سے ہمارا آئین قبول کرتا ہے اس کا کام خواہ صورت کا ہو یا معنے کا دلخواہ نکل آتا ہے۔

(۱۰۴) خویشتن بینی اور ناہنجار خواہی سرمایہ زیانکاری ہے۔

(۱۰۵) وہ طائفہ سعادتمند ہے کہ والاشکوہ فرمان روہون کی درگاہ مین سواے نیکوئی اور خیراندیشی کی سخن نہین کہتے اور خویشتن بینی اور غرض آرائی نہین کرتے خاص کر خشمناکی کے وقت اگر گفتار دلآویز نہین کرسکتے تو خاموش رہتے ہین۔

(۱۰۶) فرمان روایون پر خورشید والا کو خاص عنایت ہے اور اس سبب سے اسکی نیایشگری وہ کرتے ہین اور یہی پرستش سمجھتے ہین کوتاہ بین اسپر بدگمانی کرتے ہین۔

(۱۰۷) سیہ دردن مالدارون کو عام لوگ نفع کے خیال سے کیون بزرگ جانتے ہین۔ اور نابینائی سے اس چشمۂ نور کے احترام مین کوتاہی کرتے ہین اور اسکے نیایش گرپر طعنہ و طنز کرتے ہین۔ اگر عقل پر آفت نہین آئی تو پھر کس لیے سورۂ والشمس بھول گئے ہین۔

(۱۰۸) پہلے سر کے بال اس سبب سے سفید ہوتے ہین کہ وہ داڑھی اور مونچھون سے پہلے نکلتے ہین۔

(۱۰۹) ناقوس بجانے اور بوق سے آواز نکالنے کی کوئی وجہ معقول مین نے ہندوؤن سے اب تک نہین سنی۔

(۱۱۰) ابر کی ریزش کے وقت مغرب مین روشنائی نمودار ہونے سے ہوا صاف ہوتی ہے۔ تحقیق سرچشمۂ تاریکی کا فروغ ہر طرف کی روشنی کا حال بتلاتا ہے۔

(۱۱۱) احدی کیش مین جو لڑکی کو میراث کم ملتی ہے باوجودیکہ وہ اپنی کم نیروی کے سبب سے زیادہ میراث کی مستحق ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہے اس لیے بیگانہ کو مال پہونچتا ہے

(۱۱۲) استخوان سے جو گوشت پیوستہ ہوتا ہے وہ لذیذ اس سبب سے ہوتا ہے کہ خلاصہ غذا اس کو پہونچتا ہے۔

(۱۱۳) جس سال مین میوہ زیادہ ہوتا ہے۔ وہ شیرین وشاداب اس سبب سے نہین ہوتا کہ شادابی اور شیرینی کے بہت سے حصے ہوجاتے ہین۔

(۱۱۴) یہ جو پرانی کتابون مین لکھا ہے کہ فلان معبد مین آسمانی آتش تھی اس کو لوگ باور نہین کرتے اور جھوٹ بتلاتے ہین اور یہ نہین جانتے کہ آئینہ کو یا سنگ سورج کرانت کو آفتاب کے مقابل رکھنے تو اسمین آگ لگجاتی ہے۔

(۱۱۵) گروہا گروہ جانورون مین نرومادگی کی عشرت کا وقت معین ہے مگر انسان کے لئے نہین۔ ہمیشہ وہ اس کا شیفتہ رہتا ہے اسمین خدا کی حکمت یہ ہے کہ اس سبب سے پیوند دوستی اسمین استوار رہتا ہے اور دولتسرائے تعلق کی بنیاد اسپر قائم ہوتی ہے۔

(۱۱۶) مردہ کا کھانا اس سبب سے ناروا ہے کہ اس کا مزاج کچھ اور ہوجاتا ہے۔

(۱۱۷) آدمی کے مارے ہوئے کا کھانا اسکی خواری کی پاداش ہے۔

(۱۱۸) جس کو خدا مارتا ہے اور اس کا سبب نہین معلوم ہوتا ہے اسکی حرمت بوجھہ اسکی بزرگداشت کے ہے۔

(۱۱۹) خون مین جان کا مایہ ہوتا ہے اس لیئے اُسکی خورش سے پرہیز کرنا اس کا گرامی رکھنا ہے

(۱۲۰) خوبرویون کی اولاد کا بدصورت پیدا ہونا کچھہ تعجب کی بات نہین ہے۔ بلکہ اگر آدمی کے کوئی جانور پیدا ہو تو کچھہ دور نہین۔ تحقیق یہ ہے کہ مخیلہ سے صورت لے کر مصورہ کارفرما ہوتا ہے جس کو خیال مین جگہہ ہوتی ہے اسی کی صورت زائیدہ کی صورت ہوتی ہے۔

(۱۲۱) اگر عورت کو مرد زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ خویشتن پرستی ہو جاتی ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اگر مرد کو عورت زیادہ عزیز رکھتی ہے تو ہر وقت اسکے خیال ہین شوہر رہتا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔

(۱۲۲) اندرز نامون مین لکھا ہے کہ دشمن کو خرد نہ گننا چاہیئے۔ دوستی و دشمنی ایزدی تقدیر کی نیرنگیان ہین پس دشمن کو درمیان نہ دیکھے اور دادار بین ہو جائے۔

(۱۲۳) اگر استاد سے شاگرد بڑھ جائے تو بھی اسکو سوائے نیازمندی اور نیایش کے کچھ اور زیبا نہین۔

(۱۲۴) ہر مذہب کی پرستشگاہ مین چند خارق عادات چہرہ افروز ہوتی ہین اسمین صرف دلکی وابستگی کارگر ہوتی ہے وگرنہ حق ایک سے زیادہ نہین ہوتا۔

(۱۲۵) امانت گذاری اور وام دیرین کی سبکباری کا نام بخشش ہے۔

(۱۲۶) زنار بندی کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گردن مین ریسمال ڈال کر نیایش کیجاتی تھی پچھلے لوگون نے اس کو دین شمار کرلیا۔

(۱۲۷) ہندوستان مین کسی نے پیغمبری کا دعوے نہین کیا اس کا سبب یہ ہے کہ یہان خدائی کا دعوے پہلے ہوتا تھا۔

(۱۲۸) یہ جو لوگ کہتے ہین کہ فلان شخص نیک ذات یا بدذات ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے

کہ اُس کے خاندان مین سے کوئی صوری یا معنوی بزرگی کو پہونچا تھا یا کسی ہنر اور پیشہ مین زبانزدِ روزگار ہوا تھا مگر میرے نزدیک نیک سرشت وہ ہے جو آباد کردار ہو۔

(۱۲۹) بعض کہتے ہین کہ بخشندہ سے ستانندہ زیادہ دوست ہوتا ہے میرے دل مین یہ ہے کہ دہندہ تو ایسی ذات ہوتی ہے کہ جب تک وہ شائستہ کسی کو نہیں جانتا نہیں دیتا اور گیرندہ سے بخشش کا ظہور ہوتا ہے۔

(۱۳۰) سنسکرت کی کتابون مین لکھا ہے کہ ہنر کے سیکھنے مین اور مال کے جمع کرنے مین ایسی کوشش کرے گویا کہ اس کو کبھی بڑھاپا اور مرنا پیش نہین آئے گا ان دونوں کے خوف سے جو سرمایہ نوامیدی ہیں تن آسان تگاپو سے باز رہتے ہین میری راے یہ ہے کہ ان دونون ضروری چیزون کے جمع کرنے مین فردا کے تعلق کے نشار کو روز روا مین جان کر آج کی کارگزاری کو کل پر نہ ڈالے۔

(۱۳۱) ہندی حکیم کہتے ہین کہ نیکوکاری کی گردآوری مین ہمیشہ مرگ کو اپنی آنکھون کے سامنے رکھے جوانی اور زندگی پر بھروسہ نہ رکھے اور ایک دم آسودہ نہ ہووے میری رائے یہ ہے کہ نیکی کی جویائی مین مرنے کا خیال بھی نہ کرے تاکہ بے بیم و امید نیکی کو اس شائستگی کے لیئے جو وہ رکھتی ہے کام مین لگائے۔

(۱۳۲) تعجب ہے کہ ہمارے پیغمبرؐ کے زمانہ مین کوئی تفسیر ایسی قرار نہ پائی کہ اسمین اختلاف نہوتا

(۱۳۳) پہلے لوگ کہہ گئے ہیں کہ سخت ترین بلائین پیغمبرون پر اور بعد ازان اولیاء پر اور پھر مرتبہ بمرتبہ نیک آدمیون پر آتی ہین مجھے اس کا یقین نہین ہوتا کہ خدا کی درگاہ کے مقبول اس شکنجۂ فرسائی مین آئین۔ رسمی ملانون نے مجھ سے کہا کہ یہ آزمایش الٰہی ہے اسپر مجھے تعجب ہوا کہ پوشیدہ اور آشکارا جاننے والے کو امتحان کب سزاوار ہے۔

(۱۳۴) ہر گروہ جو اپنی روش کا آشنا ہے اس کو نیک جانتا ہے اور حقیقت مین وہ نیک ہوتی ہے۔ اگر دنیا سے وابستہ ہے تو راستی اور درستی اور نا گزیر وقت کی فراہمی مین اپنی بسر

کرتا ہے اور اگر وارستہ ہے تو اپنے نفس سے لڑتا ہے اور اوروں سے آشتی رکھتا ہے اور آفرین اور نفرین مین تمیز نہیں کرتا ہے

(۱۳۵) بعض یہ رائے رکھتے ہین کہ جو بندہ ورسندہ کو فیض اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے جتنے ان کے میانجی زیادہ ہوتے ہین حقیقت مین یہ نہین بلکہ کشش معنوی اور نیک کرداری پر رسیدگی موقوف ہے۔

(۱۳۶) تعجب کی بات ہے کہ امام خاک کربلا کی تسبیح اس لیے بناتا ہے کہ لوگ اس کو یہ سمجھین کہ اس مین امام کا خون ملا ہوا ہے۔

(۱۳۷) جو شخص فرمایون وبازی گرون اور مسخرون کو اپنی پوشش دیتا ہے گویا وہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے تیئن کچوال بناتا ہے۔

(۱۳۸) کسی کی تصنیف کا انتخاب کرنا اس شخص کو سزاوار ہے جس کے علم کا رتبہ مصنف سے زیادہ ہو ورنہ وہ انتخاب نہین کرتا بلکہ اپنی نمایش کرتا ہے۔

(۱۳۹) نور کے ساتھ سکندر کے فریب دینے کی داستان سچ نہین ہے جس کو خدا بزرگ بناتا ہے وہ اس راہ پر نہین چلتا۔ خاص کر جب وہ مرنے کو قریب جانتا ہے۔

(۱۴۰) میرے نزدیک خواجہ حافظ کی ہر غزل کے بعد عمر خیام کی ایک رباعی لکھنی چاہیے ورنہ حافظ کا پڑھنا شراب بے گزک کا حکم رکھتا ہے۔

(۱۴۱) لوگ بزرگون کے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھتے ہین اگرچہ اس مین تفاول کا خیال ہوتا ہے مگر وہ ادب سے دور ہے۔ تعجب یہ ہے کہ فقہا جو تناسخ کے قائل نہین ہین زیادہ تر اسطرح کے نام رکھتے ہین اور اہل ہند جو تناسخ کے قائل ہین اس سے پرہیز کرتے ہین (یہ خیال غلط ہے)

(۱۴۲) آدمیون کی اس حرکت پر حیرت ہوتی ہے کہ بچون کی جو بار فرائض سے سبکدوش ہوتے ہین ختنہ کی سنت ناگزیر سمجھتے ہین۔

(۱۴۳) تکفین کی رسم قدیم سے چلی آتی ہے ورنہ مرنے والے پر کیون یہ بوجھ لادتے ہین جسطور

سے آیا تھا اسی طور سے جانے دین۔

(۱۴۴) کسی شخص سے خواہش کرنی بُری ہوتی ہے۔ خاص کر عالی ہمت و دانا فطرتون سے اس لیے یہ لوگ سوائے ناگزیر کے کسی کو ہاتھ نہین لگاتے۔ پس ان سے چاہنا ان کی اور اپنی آبرو ریزی ہے۔

(۱۴۵) آدمیون مین استعداد کا اختلاف انکی پایندگی کا سبب ہے۔

(۱۴۶) کلمۂ حق وہی ہوتا ہے کہ ادھر کان مین گیا ادھر دل نے قبول کیا اس کا قبول کرنا لازمی ہوتا ہے۔

(۱۴۷) بچون کا سخت بیمار ہونا تناسخ پر کچھ آگاہ کرتا ہے۔

(۱۴۸) آسمانی کتابون مین جو یہ لکھا ہے کہ پہلے زمانہ مین گناہگارونکی صورت مسخ ہوکر بندر اور سور کی شکل ہوگئی تھی اس کا یقین ہوتا ہے۔

(۱۴۹) اگر یہ سوچین کہ خدا نے چند پیکر بنا کے ان کے اندر نفوس کو پیوند دے دیا ہے اور اس سے آگے کچھ نہین کیا ہے۔ تو یہ امر نکو ہیدہ معلوم ہوتا ہے ورنہ نیرنگ ساز تقدیر اگر جماد و نبات و جاندار مین پایہ بہ پایہ پیوند دیوے اور والا پایہ بنائے تو تعجب نہین ہے۔

(۱۵۰) بعض پہلے لوگ کہہ گئے ہین کہ ہر ایک کے اعمال کی مکافات چند جونون مین بدلنے سے ہوتی ہے۔ اور ہر جون مین اس کے کیفر کردار کے مناسب بدن بنایا جاتا ہے اس بات کی ہم تائید کرتے ہین۔

(۱۵۱) چراغ روشن کرنا آفتاب کو یاد کرنا ہے جس کے ہان آفتاب چھپ گیا ہو۔ اگر چراغ نہ جلائے تو کیا کرے۔

(۱۵۲) دھوان ناخلقی اور نور سے دور ہونے کے سبب سے سیاہ ہوتا ہے۔

(۱۵۳) جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو آدمی کچھ غوطہ مین جاتا ہے۔ اور پھر کچھ خوشی ہوجاتی ہے۔ اس مین یہ اشارہ ہے کہ خدا کی قدرت مین جان کا لینا و دینا ہے۔

(۱۵۴) آواز کا دیدبان کان ہے۔ جب گانے والا بہرا ہوا وہ بے سُرا ہوا۔

(۱۵۵) اُس سبب سے کہ دونون ابتدا شعور و پیرانہ سالی مین آدمی ونڈوی کرسکتا ہے وہ زنا سے بدتر ہے مگر اس سبب سے کہ زنا مین آدمی اپنے تئین اور دوسرے کو بھی گناہگار بناتا ہے تو یہ سخت تر ہے۔

(۱۵۶) معدہ کو جانورون کا گورستان بنانا سزاوار نہین۔

(۱۵۷) بے گناہ کی جان کا شکار کرنا اسکی خیرسگالی او رخدا کی رحمت سے ملاتا ہے۔

(۱۵۸) جان کا شکار کرنا اُسی کو سزاوار ہے جو جان دے سکے۔ جو کوئی خرد کے موافق یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی خدا ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے۔

(۱۵۹) باوجود بیٹی کے ہونے کے جو عمزاد کو میراث پہونچتی ہے وہ کسی طرح سزاوار نہین۔ مگر اس حال مین کہ مُردہ کو پدر سے میراث ملی ہو تو گنجایش ہے۔

(۱۶۰) شہر اُسی کو کہتے ہین کہ اُسمین طرح طرح کے پیشہ ور رہتے ہون یا اسقدر آدمی اسمین بستے ہون کہ رات کو معتدل آواز اُس سے باہر نہ سُنائی دیتی ہو۔

(۱۶۱) دریا وہ ہے کہ جو سب سال جاری رہے۔

(۱۶۲) ملک آپس مین کیا دریا سے یا کوہ سے یا بیابان سے یا زبان سے جدا ہوا کرتے ہین۔

(۱۶۳) سردسیر ملکون مین جیسے کابل و کشمیر مین بندوق کچھ موٹی بنانی چاہیئے تاکہ خشکی و سردی سے پھٹ نہ جائے۔

(۱۶۴) ہوا مین اعتدال کا ہونا عوام مین یہ مشہور ہے کہ چراغ اس مین بجھ جائے مگر وہ کشتنی و چکی کے لحاظ سے کچھ اور ہے۔

(۱۶۵) تعبیر بھی تفاؤل کی قسم مین سے ہے اس لیئے خواب کو دانائے نیک سگال کے آگے بیان کرے کہ وہ فال نیک مونھ سے نکالے۔

(۱۶۶) بلاغت یہ ہے کہ سُننے والے کے اندازہ کے موافق بات کہی جائے اور بہت سے معانی تھوڑی

سی عبارت مین اس طرح ادا ہون کہ بے تکلف سمجھ مین آئین اور فصاحت یہ ہے کہ زبان کج مج نہ ہو۔

(۱۶۶) مرزبان مصر اور حسین منصور کا مقولہ یہ ہے کہ خودبینی اور خدانگری جدا جدا ہین۔

(۱۶۷) استقامت احوال کا نام کرامت ہے۔

(۱۶۸) ایک دانشور سے کرگس کی درازی عمر اور باز کی کوتاہ زندگی کا سبب پوچھا گیا تو اسنے جواب دیا کہ پہلا کسی کو ستاتا نہین اور دوسرا شکار کرتا ہے۔

(۱۶۹) جب باز کو جسکی خورش سوائے جانور کے نہین ہے یہ کم زندگی بادافراہ ہو تو آدمی کا حال کیا ہوگا کہ جس کے لئے باوجودیکہ بہت سے کھانے کی چیزین موجود ہین مگر اس کو گوشت کھائے بغیر صبر نہین آتا۔

(۱۷۰) جاندار کم آزار کے حلال ہونے مین اور آزار رسان درندہ کے حرام ہونے مین سرایت کا اندیشہ کیا گیا ہے۔

(۱۷۱) ہم نشینی سے زبان آموزی پیدا ہوتی ہے ورنہ زبان بستگی رہتی ہے۔

(۱۷۲) کسی کے لیئے خدا سے دعائے بد مانگنی قبول نہین ہوتی اسی سبب سے مین ایک شخص کے لیئے دعائے بد مانگتا تھا وہ چھوڑ دی۔

(۱۷۳) جب سے مین شورہ کو استعمال کرتا ہون تو پانی مین بھی حق نمک ظاہر ہوا ہے۔

(۱۷۴) آدمی گوشت کھانے کا خوگر ایسا ہوگیا ہے کہ اگر اس کو تکلیف نہ ہوتی تو اپنا گوشت کھاتا۔

(۱۷۵) کاش میرا جسم ایسا تنومند ہوتا کہ اس سے گوشت خوارون کا کام چل جاتا اور کسی اور جاندار کو شکار نہ کرنا پڑتا اُن کے کھانے کے واسطے مین جتنا گوشت جدا کرتا تو اُس کی جگہہ وہ اور پیدا ہوجاتا۔

(۱۷۶) کاش ہاتھی کا گوشت حلال ہوتا کہ وہ اکیلا بہت سے جانورون کا بدل ہوتا۔

(۱۷۷) اگر لوگون پر بغیر گوشت کھانے کے زندگی دشوار نہ ہوتی تو مین ان کو گوشت کھانے سے

منع کردیتا اور مین خود جو اس کو بالکل نہین چھوڑتا اس کا سبب یہی ہے کہ مجھے دیکھکر اور لوگ خواہی نخواہی اُسے چھوڑ دین گے جس کے سبب سے وہ غمگین ہونگے۔

(۱۷۸) ابتدائے شعور سے جب مین نے کسی جانور کو خورش کے لیئے پکوایا تو اس مین دلخواہ مزہ نہ پایا جان پروری کیطرف رہنمونی ہوئی اور مین نے بیزار کے کھانے سے دست کشی کی۔

(۱۷۹) ہر سال اپنے ماہ ولادت مین آدمی گوشت نہ کھاوین تاکہ سپاس الٰہی ادا ہو اور سال بخیر و خوبی گذرے۔

(۱۸۰) قصاب و ماہی گیر اور مثل ان کے جو جان شکاری کا پیشہ رکھتے ہین ان کے مکان اور آدمیون کے مکان سے جدا ہون اور جوان سے ملے اس سے تاوان لیاجائے۔

(۱۸۱) جب ایک سوداگر کا وقت آخر آیا اور اسکے مال پر اسکے چار بیٹون نے جھگڑنے کا ارادہ کیا تو اُس نے سب کو نصیحت کی اور کہا کہ مین نے دوربینی سے تمھارے لیئے برابر حصے کر کے مکان کے چارون کونون مین دبا دیئے ہین۔ جب مین مرجاؤن تو ہر ایک اپنا حصہ لے۔ جب اسکی وصیت پر عمل ہوا تو ایک کو زر ملا اور دوسرے کو غلہ۔ باقی دو کو کاغذ اور استخوان۔ کم فہمی سے ان مین شورش ہوئی۔ ہندوستان کی فرمانروا سالباہن نے کہا کہ استخوان کا اشارہ مویشی کیطرف اور کاغذ کا اشارہ قرض کی طرف ہے جو اورون پر لینا ہے۔ جب ان کا حساب ہوا تو سب کو برابر حصہ پہونچا۔

(۱۸۲) حسن صباح بہت آدمیون کے ساتھ دریانوردی کرتا تھا۔ ناگاہ طوفان کا آشوب اُٹھا اور آدمی سراسیمہ ہوئے وہ شگفتہ اور خندان تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اُس نے سب کے بچنے کا مژدہ سُنایا۔ جب کنارے پر اُترے تو سب اسکی غیب دانی کے معتقد ہوئے۔ تحقیق یہ ہے کہ اس سبب سے وہ آشفتہ نہ ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی خواہش مین تغیر نہین ہوتا اور رہائی کی نوید اس سبب سے سُنائی کہ وہ جانتا تھا کہ اگر سب سیلاب فنا مین بھی بہے تو کوئی میرا دشمن نہین بگڑے گا۔ اور اگر ایسا نہوا تو سادہ لوح میری نیایش گرمی کرینگے۔

(۱۸۳) مجھ سے علی کہتا تھا کہ مین نے بلبیہ مین ایک آدمی دیکھا جس کے اوپر کے دھڑ دو تھے اور اُن مین سر و آنکھین اور ہاتھ جدا جدا تھے اور نیچے کا دھڑ ایک تھا یہ آدمی کہ خدا اور زرگری کرتا تھا۔

(۱۸۴) جس سال مین کہ بیرم خان حجاز کو گیا ہے سکندرہ کے قریب ایک ہرنی کو چیتہ نے پکڑا۔ زندہ بچہ اُسکے پیٹ سے نکلا۔ مین خود ہرنی کا گوشت ہڈیون سے جدا کر کے چیتہ کو کھلاتا تھا ایک پیکان نکلا یقینی چھوٹی عمر مین اسکے یہ پیکان لگا تھا خدا نے اسکی حفاظت کی کہ اس سے کچھ گزند اس کو نہ پہونچا۔ اور تنومندی اور بچہ جننے سے باز نہ رکھا۔

(۱۸۵) چوہا بیضہ کو بغل مین لے کر پیٹھ کے بل سو جاتا ہے اور اور چوہے اُس کی دُم پکڑ کر سوراخ مین لے جاتے ہین۔ اور چوہا اپنی دم کو بل دے کر شیشہ مین لے جاتا ہے اور اس سے خشخاش وغیرہ چیزون کو نکال لیتا ہے اور اسی طرح چوہا عجیب عجیب کام کرتا ہے۔

(۱۸۶) بھیڑیا اگر منھ کھول کر حملہ کرتا ہے تو شکار کو پکڑ لیتا ہے اور نہین تو پھر اس کا منھ نہین کھلتا اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر آواز نہین کرتا۔

(۱۸۷) سنگ و منگ مین یون تمیز ہو سکتی ہے کہ پہلا پانی مین گل جاتا ہے اور دوسرا نہین گلتا۔

(۱۸۸) شکارگاہ مین خانگی اور دشتی ہرنون مین کشتی ہوئی اُنھون نے چابک دستی کر کے صحرائی کو پکڑ لیا تو مین نے یہ مصرع پڑھا۔

کس ندیدم کہ آہو بدویدن گیرد

آہو فارسی مین عیب کو کہتے ہین وہ تگاپو اور کوشش سے ہاتھ نہین آتا۔

(۱۹۰) چھوٹی عمر مین کدخدا کرنے سے خدا ناخوش ہوتا ہے اس کام سے جو اصل مقصود ہے وہ بہت دور ہوتا ہے اور اسکی گزند نزدیک۔ جس آئین مین کہ عورت کا دوسرا نکاح کرنا

جائز نہین اس سے بڑی دشواریان ہوتی ہین۔

(۱۹۱) بیگانون مین زناشوئی پسندیدہ ہوتی ہے اسی لیئے کہ بیگانگی خویشی ہوجاتی ہے اور خویشون مین جتنی دوری زیادہ ہو اتنی ہی آزرم نزدیکت رہوتی ہے اور یہ لکھا ہے کہ آدم کے زمانہ مین ہر شکم سے ایک دختر و ایک پسر پیدا ہوتے تھے اور ایک کا بیٹا دوسرے کی بیٹی سے بیاہا جاتا تھا اس سے بھی اوپر کی بات مین کچھ آگاہی ہوتی ہے۔

(۱۹۲) احمدی کیش مین جو دختر عم سے اور اُس کی بہن سے خویشی جائز رکھی گئی ہے وہ اسکا ابتدائی زمانہ آدم کی مانند تھا۔

(۱۹۳) خواہش طبیعت پر عورت سے نزدیکی کرنا بہت ناسزا ہے اسمین حکمت یہ ہے کہ سرچشمہ ہستی اسکے گلے مین اٹک نہ جائے۔

(۱۹۴) جیسا کہ چھوٹی عمر کی عورت سے نزدیکی کرنا خدا کو ناراض کرتا ہے ایسے ہی بڑھیا سے جس کی جننے کی عمر نہ رہی ہو یہ اکثر پچپن سالہ کے بعد ہوتا ہے۔

(۱۹۵) حاملہ عورت کے ساتھ نزدیکی سے خدا خوش نہین ہوتا نطفہ ناچیز ہوجاتا ہے اور بار ان نیست ہوجاتی ہے۔ بار آور کو بھی گزند پہونچتی ہے۔

(۱۹۶) ایام سرخی مین عورت سے پرہیز رکھنا چاہیئے۔ اس مین بعض ناخوشیان ہوتی ہین۔

(۱۹۷) ایک زوجہ سے زیادہ زوجہ کرنی اپنے خون مین لگاپو کرنی ہے اگر وہ بانجھ ہو یا بیٹیا ہی جنے تو البتہ اسکی گنجایش ہے۔

(۱۹۸) اگر مجھے یہ علم پہلے سے ہوتا تو مین اپنی قلمرو مین سے کسی کو حرم سرا مین نہ لاتا اس لیئے کہ رعیت فرزند کا حکم رکھتی ہے۔

(۱۹۹) ہندوستان مین عورتون نے اپنی جان بیٹے بہا کو کم قیمت کر رکھا ہے۔

(۲۰۰) ہندوستان مین عورتون کے ستی ہونے کی رسم قدیم سے چلی آتی ہے وہ مردہ شوہر کے

ساتھ جل کر کشادہ پیشانی سے جان دے دیتی ہے اور اپنے شوہر کی رستگاری کا سبب جانتی ہے۔ مردون کی ہمت پر افسوس ہے کہ وہ عورتون کی دستاویز سے اپنی رہائی ڈھونڈھتے ہین۔

(۲۰۱) فرمان روائی بہت بڑی نعمت ہے اسی کے کارکردین ہر کار کی شائستگی ہے پادشاہون کو سپاس گذاری دادگری اور قدردانی اور اورون کو انکی فرمان پذیری اور نیایش گری ضرور ہے۔

(۲۰۲) فرمان دہون کا دیکھنا خدا کی پرستش ہے۔ اہل زمانہ اسکو ظل اللہ کہتے ہین۔ اور صاحب سایہ کو سایہ بتلاتا ہے اس لیئے بادشاہ کا دیدار خدا کی یاد کا سرمایہ ہے۔

(۲۰۳) جہانبانی بڑی عنایت ہے اس کا فائدہ بہت آدمیون کو پہونچتا ہے اور راستون کی نیکیان انھین کو پہونچتی ہین۔

(۲۰۴) جو کام بندے کر سکتے ہین وہ پادشاہ کو نہین کرنے چاہیئین اس لیئے پادشاہ اورون کی خطاؤن کا چارہ کرتا ہے اسکی لغزش کو کون درست کرے گا۔

(۲۰۵) پایہ شناسی کا نام بادشاہی ہے کہ اسکے اندازے کے موافق تلطف و قہر پر آمادہ ہو۔

(۲۰۶) پایہ شناسی ہی پیرایہ سعادت پژوہی و دستمایہ کامروائی ہے۔

(۲۰۷) یہ جو لوگ کہتے ہین کہ پادشاہون کے قدم سے ایمنی اور آسودگی ہوتی ہے۔ سچ ہے جب جماد اور رستنی خاصیتین رکھتی ہین تو برگزیدہ آدم کیون نہ رکھے۔ خاص کر وہ شخص جس کا کردار اہل جہان کی پاسبانی ہے

(۲۰۸) کارفرمائی اور فرمان پذیری بیم و امید ناگزیر ہین جنسے ہنگامہ صورت آراستہ ہوتا ہے اور خلوت گاہ معنے فروغ پاتی ہے۔ لیکن زبردست گرانبار خشم سے سبک سر نہ ہوکر ہر یک کے اندازہ اور مقام کو خرد سے تخمینہ کرے۔

(۲۰۹) جو بیم اور امید کے درمیان راہ چلتا ہے اسکی دین و دنیا آباد ہوتے ہین اسکے

فروگذاشت سے گزند پہونچتی ہے۔

(۲۱۰) بیکاری تمام برائیون کا سر ہے۔ سعادت پژوہ کا کام یہ ہے کہ کوئی ہنر سیکھے اور اسکے کارکرد مین مشغول ہو اور داروغون کو ناگزیر ہے کہ دیدبانی مین سو نہ جائین۔

(۲۱۱) دادگر کا خشم اسکے لطف کی مثل جہان آبادی کا سرمایہ ہے۔

(۲۱۲) کسی شخص کو ستم کرنا روا نہین ہے خاص کر بادشاہ کو کہ وہ پاسبان جہان ہے۔

(۲۱۳) فرمانرواؤن کی پرستش دادگری اور جہان آرائی مین ہے اور راستونکی عبادت جان و تن کی گذارش مین ہے ساری شورش اس سبب سے برپا ہوتی ہے کہ آدمی اپنی ناگزیر کو چھوڑ کے اورون کی کارکرد مین مشغول ہوتے ہین۔

(۲۱۴) بادشاہ کو چار چیزون سے پرہیز کرنا چاہیئے۔ زیادہ شکار کرنے سے۔ ہمیشہ کھیلنے سے۔ رات دن مست رہنے سے۔ عورتون کے ساتھ سخت آمیزش سے۔

(۲۱۵) اگرچہ شکار مین ملکی تدابیر بھی بہت ہین لیکن مقدم یہ ہے کہ جان شکری ایک ہنگام کے ساتھ ہو

(۲۱۶) سب کا جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے اور بادشاہ کا اور زیادہ تر برا ہوتا ہے۔ اس گروہ کو سایۂ خدا کہتے ہین۔ اور سایہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے۔

(۲۱۷) داروغون کو دیدبانی کرنی چاہیئے کہ کوئی شخص اپنی خواہش سے اپنے پیشہ کو نہ چھوڑے

(۲۱۸) ایران کے بادشاہ طہماسپ ایک مصرعہ بھول گیا مشعلچی نے وہ پڑھ دیا۔ بادشاہ نے اُس کی کچھ مالش کی اور فرمایا کہ جب شاگرد پیشہ علم جانین گے تو بہت سے کامون کی کارروائی نہین ہوگی۔

(۲۱۹) بادشاہ اپنے نزدیکون سے خندہ و بازی کا خوگر نہو۔

(۲۲۰) بادشاہ کو چاہیئے کہ وہ ہمیشہ ملک گیری کا قصد کرتا ہے۔ نہین اسکے ہمسایہ غالب ہو جائینگے۔

(۲۲۱) سپاہ کو لڑائی کے کام مین مشغول رکھنا چاہیئے۔ کہ وہ کم ورزشی سے تن آسان نہو

(۲۲۲) پادشاہ کو چاہیئے کہ آدمیون کے مال وجان و ناموس ودین کی نگہبانی مین مبالغہ کرے۔ آزو خشم کے گمراہون کو جب نصیحت رہنمون نہو تو مالش کرنی چاہیئے۔

(۲۲۳) جو شخص پادشاہ کو شائستگی کے ساتھ یاد نہین کرتا تو اسکی نکوہش ہوتی ہے۔

(۲۲۴) پادشاہونکی باتین دُر کا حکم رکھتی ہین ہر کان آویزہ کا سزاوار نہین ہوتا۔

نصائح اکبری

پادشاہ کی عادت تھی کہ شائستہ خیر سگالون کو منتخب کرتا تھا اور زیر دستون کی تیمارداری خاص کر جو بزرگ نژاد سا شائستہ کاری کے پیرایہ سے آراستہ ہوتے یہ اسکی خوی ستودہ تھی کہ خویش و بیگانہ کو کسوٹی پر کستا۔ نیک مردون کو برتر کرتا اور نیک نیتی کے ساتھ ہمسایہ کے مرزبانون کو غور سے دیکھتا۔ اگر وہ خلق کے غمخوار ہوتے تو انکی دادگری اور آبادزندگی مین کوئی گزند نہ پہونچاتا اور انکی یاوری پر دل نہاد ہوتا۔ ورنہ لابہ گری کے سبب سے ان کے سزا دینے سے باز نہ رہتا۔ مگر اول ان کو نصیحت کرتا اور بیم وامید کی داستان سُناتا۔ جب دکن کے سردارون نے ناہنجاری اختیار کی تو پندگزاری کے لئے کار آگہون کو ان پاس بھیجا اور شاہزادہ سلطان مراد کو یہ نصیحتین کرکے روانہ کیا۔

اول رضائے الٰہی کی جستجو مین اندیشہ کو آباد کرے تاکہ اعمال نیک سرزد ہون پھر بیداری نمایش کرے اور وقت اور اندازہ کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ ہر عضو سے ایک پسندیدہ کام لے۔ بہت باتین کرنے سے اور ہنسنے سے باز رہے۔ رات دن کے تہائی حصے سے زیادہ نہ سوئے۔ اور ملک کی سپاہ و آبادی مین اور راہ کی ایمنی مین اور سرتابون کے فرمان پذیر بنانے مین اور دزد و رہزنون کے پامال کرنے مین کوشش کرے۔ اس پیرایش بیرونی کے بعد افزونی ورزش درونی کرے۔ خواہش وخشم کو اپنی فرمان

ہین رکھے کہ خدانے اس ہڈیون کے کاخ کے یہی دو پاسبان مقرر کیئے ہین۔ اول سے جو درخور بہودہ
حاصل کرے اور دوم سے جو ناسزا ہواس سے پرہیز کرے۔ آدمی اپنے خود کو ایسا بُھلادیتا ہے کہ جس سے
یہ دونون عنان گسست ہوجاتے ہین اور پیرایۂ زندگی مردگی کا سامان ہوجاتا ہے۔ شائست
کی شناسائی کو نہ چھوڑے اور کارفرمائی کی نیرو کو شائستگی سے تنومندی دے۔ آن جان رو
باتون مین اعتدال کی طرف رغبت کرے اور کمی اور فزونی سے کہ سرمایۂ نکوہیدگی ہے
دور رہے۔ اس زمانہ مین تقلید ودو روئی کے بازار کو رونق ہورہی ہے اس مین انصاف
اور ہوشمندی کو کام مین لائے۔ گوشہ نشین تارک الدنیا کی پرستش اور ہے اور دنیا کے
دل بستون کی نیایش اور ہے اگرچہ دونون کو اندیشہ کی آبادی ضرور ہے لیکن اول کو آگہی
اور دوم کو غفلت سزاوار ہے۔ ہر یک کار کے پایہ کو دریافت کرے اور ناملائم کے دیکھنے
سے اپنی جگہہ پر قائم رہے۔ مہر وکین وبیم وامید کو اندازہ اور مقام سے نہ گذرانے
دے۔ بہت آدمی ایسے ہوتے ہین کہ اُن پر فقط چین پیشانی وہ کام کرتی ہے جو دوسر پر
شمشیر وخنجر کرتے ہین۔ اختلاف مذہب کے سبب سے کارسازی سے باز نہ رہے اور
عوض لینے مین شورش نہ برپا کرے۔ رازگوئی کی انجمن کو کاردانون سے آراستہ کرے
اگر کوئی عذر کرے تو قبول کرے۔ اپنی رائے پر غرہ نہو اور سوائے دوربین خیرسگال کے
جو خود لرزان نہو مشورہ کے لائق نہ جانے تو شخوئی کو اپنی عادت بنائے۔ اور دستگیری کو
ناکامی کے روز پر موقوف نہ رکھے اور اسکی فزونی سے اپنی شکوہ کو شکستہ نہ کرے۔
پیمان کے پاس کو سب فائدون پر ترجیح دے۔ اسی طرح زندگی بسر کرے کہ گروہاگروہ
بیگانے آدمیون کے خاصکر سوداگرون کے دل اس سے آزردہ نہون اس سے نیکنامی کا
آوازہ بلند ہوتا ہے اور آدمی سے اسکی قوت کے موافق خدمت کی امید رکھے۔ شناسائی
مین چرب زبانی پر فریفتہ نہ ہو۔ ان چار چیزون مین سے ہر ایک سے دوستداری پیدا
ہوتی ہے۔ اول دنیا کا فایدہ اگرچہ گمان مین آتا ہے لیکن وہ ذیر مین ہاتھ آتا ہے اور

اور جلد ہاتھ سے جاتا ہے۔ دوم دینی بہرہ جو اول سے برعکس ہے۔ سوم نیک ذاتی۔ وہ جان کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ اسکی پابندگی اور ناپائداری اپنے ساتھ ہے۔ چہارم اخلاص۔ یہ چارون باتین اپنے عقیدت گزینون مین غور سے دیکھنی چاہیئے اور شناسائی کے اندازہ کے موافق کارکردگی کی بنیاد رکھنی چاہیئے آگہی نامون کی آموزش مین کوشش کرے اور دانش کو کردار مین لائے۔ جو خورسند گوشہ نشین اور برہنہ ژولیدہ مو ہین انکے دل کو ہاتھ مین لائے اور خدا کے جلال کے جو ربودہ ہین انکے دیکھنے مین دلبری نہ کرے سپاہ کی غمگساری مین ہمت لگائے اور ان کا ماہوار وقت پر دے اور ہر شخص سے اسکے موافق دستور خریہ طلب کرے۔ نیکو خدمت کا پایہ بڑھاوے اور قدیمی نوکرون کو نظرانداز نہ کرے اور کشاورزون کی آبادی سے غافل نہ ہو راستی منش و آگاہ دل کو ہر شغل پر معین کرے جو بغیر اپنی بزرگی کے اظہار کرنے کے اور ستایش کے آرزو کے کامون کو شائستگی سے انجام دین اور اپنی دیدبانی بھی ان سے باز نہ رکھے حق سگالون کا مرتبہ بڑھاوے اور باطل پیچون کو نصیحت و مالش سے پیرایش دے۔ داوری مین سوگند و گواہ پر بس نہ کرے طرح طرح کی پرسش کرے اور پیشانی کے نامہ کو پڑھکر اپنا یاور بنائے کوئی تازہ رسم ایسی نہ قائم کرے جس کا فائدہ تھوڑا اور نقصان بہت ہو۔ ملک کی سرحدون کو آزمودہ کار جوان مردون کے سپرد کرے اور راہ کے ایمنی کے فکر مین ایک لمحہ صبر نہ کرے۔ عافیت کے وقت مین ناکامی کے زمانہ کو یاد کرتا رہے اور ہر چیز کا چارہ تیار رکھے اور شائستہ کار ہمنشین منتخب کرے کسی کی راست گوئی سے برہم اور دل گرفتہ نہو اور اپنی طبیعت کو اپنے اختیار مین رکھے اور شورش طبیعت سے بچتا رہے۔

شہنشاہ اکبر کی ربط مندیان راجپوتون کے ساتھ اور راجپوتون کے مناصب

جہان قوم کی قوت و استعداد کسی خاص شے کے ہاتھ مین ہوتی ہے وہان آخر کو آزادی باقی نہین رہتی۔ چنانچہ راجستان کا یہی حال ہوا کہ وہان کے راجاؤن مین سے ایک جماعت دہلی کے بادشاہون کو اپنا حاکم اعلے ماننے لگی اور اپنے تئین ان کو حوالہ کیا کہ اس کا اقتدار

اور اختیار قائم رہے اُس نے براے نام اپنی ریاستین مسلمان بادشاہون کو تفویض کین۔ بادشاہون نے پھر اس کو واپس دے دین اور اسکو اسناد لکھدین کچھ عرصہ کے بعد ان اسناد کی تجدید ہوتی رہتی تھی۔ اور اسناد کے ساتھ راجاؤن کو خلعت بانٹی۔ گھوڑا۔ اسلحہ وجواہر بھی دیئے جاتے تھے اور ان کے موروثی خطابون پر اور القابون کا اضافہ ہوتا تھا اور جدید منصب ملتے تھے۔ اور علم شاہی و نقارہ اور امارات شاہی عطا ہوتے تھے۔ یہ راجہ سوائے اطاعت شاہنشاہی کے معمولی نذرانہ اور پیشکش دیتے تھے خصوصًا نوروز کو اور اس کا عہد و پیمان کرتے تھے کہ جب بادشاہ ہم کو طلب فرمائے گا ہم مع تعداد معینہ تابعین کے حاضر ہون گے

ہمایون بادشاہ کی چند راجاؤن نے ملازمت اختیار کی تھی مگر ان کی اعانت و امداد پر اعتماد نہ تھا اس کے دانشمند عالی دماغ فرزند شہنشاہ اکبر ہی کا یہ حصہ تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کی زینت اور اپنے تخت کا پایہ رجپوتون کو بنایا۔ اس نے اپنی سلطنت کا اس خوش اسلوبی سے انتظام کرکے مستحکم کیا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہین کرسکتا تھا۔ جو ملک اسنے اپنی قوت سے فتح کیا اُسکو اپنی نیک تدبیری اور خوش انتظامی سے برقرار رکھا وہ خوب جانتا تھا کہ اگر مین اپنی حکومت کو دکھا کر رجپوتون کو ہمیشہ دباؤن گا تو وہ اثر پذیر نہین ہوگی بلکہ خطرناک ہوگی اس لئے ان کو خود سلطنت کے کامون مین ایسا دخیل کردیا کہ وہ اس کی حفاظت و اعانت مین خود بدل مستعد و ساعی ہو گئے۔

اس نے یہ عزم مصمم کرلیا تھا کہ جو چنگیز و تیمور و بابر کی رگون مین اوغرخان کے خون کی نہرین جاری ہوئی تھین ان کو رجپوتون کے خاص خون سے مخلوط کرون کہ جس کے سبب آپس مین وہ مؤانست پیدا ہو کہ رجپوت میری فرمان برداری پر زیادہ تر جلد تیار ہوجائین بہ نسبت اسکے کہ وہ خالص تاتاری ہوتے۔ ان کے ساتھ رشتہ مندی ہونے سے رجپوت راجاؤن کے عزیز و اقارب بڑے اعانت و مدد پر مستعد ہون گے جس سے سارے کے سارے رجپوت وہ مستدار ہوجائین گے: یہ خیال اس کا بالکل صحیح نکلا

اسس کام کی ابتدا مین جو دشواریان پیش آئین ان کا حال بہ نسبت ان مشکلون کے غیر معلوم ہے جن کا مقابلہ اسکو آخر مین کرنا پڑا۔

پتھورا کے خاندان مین نہ اکبر کا نہ اسکی اولاد کا کوئی بیاہ ہوا۔ اس خاندان نے کبھی شاہان دہلی سے اپنی لڑکیون کی شادی کرنے کو نہین پسند کیا۔

دہلی کے قریب امیر (جے پور) تھا اول اسی نے شاہان دہلی سے اپنی لڑکیون کے بیاہنے کا طریقہ اختیار کیا۔ راجہ بھگون داس نے اپنی لڑکی ہمایون پادشاہ سے بیاہی۔ پھر اس طریقہ کا رواج اکبر نے ایسا دیا کہ راجاؤن کی لڑکیون سے بڑے بڑے نامور شہنشاہ اور شہزادے پیدا ہوئے جنکی تفصیل یہ ہے۔ کہ سلطان سلیم جو تخت نشین ہوکر جہانگیر شہنشاہ دہلی ہوا اور اس کا بیٹا شاہجہان جو باپ کو بہت عزیز تھا اور بد نصیب بیٹا خسرو اور شہنشاہ اورنگ کا سرکش بیٹا اکبر۔ سلطنت کے زوال کی حالت مین فرخ سیر نے اجیت سنگھ راجہ مارواڑ کی لڑکی سے شادی کی۔

اس کے بعد اس قسم کا بیاہ اور نہ ہوا گو ہندو امراء کی لڑکیون سے مسلمانون کی یہ رشتہ مندی مغلون کی سلطنت سے پہلے بھی ہوتی تھی مگر ان ہندو امیر زادیون کو مسلمان ہوکر رہنا پڑتا تھا۔ مگر مغل پادشاہون سے اس رشتہ مندی کی صورت مین وہ اپنے مذہب پر قائم رہتی تھین وہ مسلمان نہین ہوتی تھین۔ بلکہ پادشاہون کو کچھ ہندو بنا لیتی تھین۔ یہ ہندو راجہ پادشاہون کے سسرے ہوکر اپنے خردسال بھانجون کے حامی ہوئے تھے اور ان کی سلطنت کی ترقی کے خواہان اور ان کے ساتھ سارے خوف و خطر مین شریک رہتے تھے۔

شہنشاہ اکبر نے جو اس رشتہ مندی کا رواج دیا اسپر ارباب الرائے مختلف رائین رکھتے ہین۔ بعض کہتے ہین کہ اس سے اکبر کو دو فتحین حاصل ہوئین اول یہ کہ ہندو اسکی نسبت نیک رائے رکھنے لگے۔ دوم راجاؤن کی تلوار اس کی حمایت کرنے لگی۔

مسلمان بادشاہون اور راجپوت راجاؤن کے درمیان بیاہ ہونے کے نتائج

اوران کی پرچھیون کی نوکین اس کے تخت کو سہارنے لگین۔ اگر خاندان تیموریہ کے پادشاہ
اکبر نے ان اصول پر جمے رہتے تو ان کی سلطنت لازوال ہوجاتی مگر اکبر و جہانگیر
و شاہجہان کے اصول کے خلاف اورنگ زیب نے سلطنت کو بگاڑا گو وہ خود اپنی زندگی مین
ذہن عالی کی وجہ سے سلطنت وسیع کا انتظام کرتا تھا۔ مگر اس نے ان لوگون کو ناراض کر دیا
جنھون نے سلطنت کو معراج پر پہونچایا تھا۔ اورنگ زیب کی قوت و سطوت کے قائمقام
ایسے قائمقامون کا ضعف ووہن ہوا اور بہت بدون فتنے غیر موانست ہوئی جس سے سلطنت
کی بنیاد اکھڑ گئی۔

دوسرے ارباب الرائے کہتے ہین لوگون کی عادت مین داخل تھا کہ جہان دھر فوج کرتے وہان
کی عورتون سے رشتہ مندی پیدا کرتے۔ انھون نے یہان بھی اپنی عادت کے موافق ہی کیا
اور ان مین اس عقد و پیوند سے فائدہ ہوا کہ انکی نسلین خوبصورت ہوگئین اور تہذیب
شائستگی حاصل ہوئی مگر اس کے ساتھ ہی ترکی خون کے ساتھ ہندی خون کے پیوند پانے
سے انکی نسل کی بسالت اور شہامت مین فرق آیا اور وہ جو پادشاہونکی سطوت و شجاعت و
عظمت کا رعب وداب ہندو راجاون کے دلون پر بیٹھا ہوا تھا وہ اس رشتہ مندی کی
وجہ سے اٹھ گیا۔ اس رشتہ مندی سے بھائی بندی اور ہمسری کا دعوے وہ کرنے لگے۔
اور سلطنت کے کامون مین برابر کے مدعی ہوگئے۔ اس لیے اس رشتہ مندی کے پیوند سے
مسلمانون کی سلطنت مین زوال کا بیج بویا گیا۔ اور آخر کو ہندوون نے مسلمانون کی سلطنت
کو چھین لیا۔

تیسرے ارباب الرائے یہ کہتے ہین کہ ہندوستان مین رجپوتون کی قوم جوان مرد بہادر
اور غیرتمند اور اپنی عزت کے لیے جان نثار ایسی ہے جیسی کہ دنیا مین اور بہادر قومین ہین
وہ مسلمانون کی عملداری سے پہلے آپس مین لڑ کر اور کٹ کٹ کر ضعیف ہوگئی تھی۔ پھر
ان کی قوت غزنویون اور غوریون کی لڑائیون مین صرف ہوئی پھر افغانون سے انکی

لڑائی رہی۔ مگر اکبر نے اپنی عقل و دانش سے وہ تدبیر کی کہ اس قوم کو بالکل نکما
کردیا۔ اس نے رجپوتون سے رشتہ مندی کرکے اوران کو جاہ و منصب مین بلند مرتبہ بناکے
انکی آدہی قوم کو اپنا دوست و مطیع بنالیا اور اس نصف قوم سے باقی نصف قوم کو جو مطیع
نہ ہوئی مارکر تباہ کردیا۔ غرض یون رجپوتون کا ایسا کام تمام کیا کہ جب مسلمانون کی سلطنت
بگڑی اور قزاقون اور غارت گرون نے زور پکڑا تو اول اول رجپوتون نے اپنی ناعاقبت
اندیشی کے سبب سے اس سے چشم پوشی کی اور پھر کچھ پوشیدہ پوشیدہ فسادون کو برپا کر رہے
رہے اور یہ نہ سمجھے ...... کہ اس کا اثر ہمپر پڑے گا غرض ان کو اس انقلاب مین اور
اقوام ہنود کی طرح عروج نہ ہوا وہ مطلق العنان اور صاحب اقتدار نہ ہوئے اس طرح اکبر
کی دوستی سے جو انکی قومی قوت و ہمت شکستہ ہوئی وہ کبھی کسی دشمن سے بھی نہوئی تھی۔
اسیطرح کی ارباب الراے رائے زنی کرتے ہین اصل حقیقت تو کھلتی نہین مگر یہ رائین بھی دل
بہلانے کے لیئے اچھی ہین

پادشاہ کے شوق کی چیزین

بسب پادشاہ لڑکا تھا اور کابل مین رہتا تھا۔ وہان اونٹ سے بڑا کوئی جانور نظر نہ
آتا تھا وہ اونٹ پر سوار ہوتا تھا اور ان کو لڑاتا تھا جب وہ ہندوستان مین آیا تو ہاتھی
دیکھکر اس کا شوق پیدا ہوا۔ یہ جانور صورت و سیرت مین عجیب ہے اگر اس کو کلانی مین پہاڑ
سے تشبیہ دیجیے تو بجا ہے پہاڑ مین اس صورت آمد و رفت رہے اگر سرعت و تندی مین ہوا سے
اُسے نسبت دیجئے تو یہ صحیح نہین ہوا مین عرصہ نبرد مین ثابت قدمی اور خشم گینی سے لشکر کا
درہم برہم کرنا کہان ہے۔ دوربینی و دریافت و فراست مین اگر گھوڑے کی برابر کہا جائے
تو بیان واقع نہوگا۔ دو بانمرد۔ دراز عمر۔ بدیع منظر۔ عظیم شکل۔ بلند دریافت۔ سوار بنا ہے
فوج برہم زن۔ کوہ فگن۔ عجیب جانور ہے کہ اسکی بدمستی و کمینہ کشی کے لکھنے کے لیئے ایک

جدا کتاب کی ضرورت ہے۔ پادشاہ اس مہیب پیکر بدیع ہیکل کو دیکھ کر اسپر فریفتہ ہو گیا
اسپر چڑہنے کی مشق ایسی بڑھائی کہ مست آدم کش بد خو فیل ربا ہاتھیوان پر سوار ہونے لگا
اُس بدمست بدخو ہاتھی پر کہ جس نے اپنے فیلبان کو مارا ہوا ور کئی خون کیئے ہون اور شہر
مین شورشس مچائی ہو اسکے دانتون پر پاؤن رکھکر چڑہ جاتا اور ہنستا و کھیلتا بدست
عربدہ جو ہاتھی سے لڑاتا تھا اوران بدمست ہاتھیون کی لڑائی مین کہ جن کے پاس جاتے
ہوئے بڑے بڑے بہادرون کی جان نکلتی تھی وہ ایک ہاتھی سے دوسرے ہاتھی پر
اچھل جاتا ہاتھی پر نہ گدی ہے نہ جھول ہے فقط کلاوہ مین اسکے پاؤن اور پیٹھ پر
اُسکی جما ہوا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ دہلی مین پادشاہ بدمست ہاتھی لکھنہ پر سوار ہو
دوسرے ہاتھی سے لڑاتا تھا۔ لکھنہ ہاتھی نے دوسرے ہاتھی کو بھگا دیا اور اسکے پیچھے
بے تحاشا بھاگا وہ ایک گڈھے مین گرا اور ایسی حرکتین کین کہ بھوئی جو اُسکی پیٹھ پر بیٹھا تھا
زمین پر گرا اور پادشاہ بھی اُسپر سے گرا مگر پاؤن کلاوہ مین اٹکا رہ گیا۔ لوگون نے کلاوہ
سے پاؤن کو نکالا جب ہاتھی گڈھے سے نکلا تو اُسپر پھر وہ سوار ہو گیا۔ سو دفعہ سے زیادہ
پادشاہ نے مست ہاتھیون کو لڑایا ہوگا کبھی پادشاہ درخت یا چھت پر ہو بیٹھتا جب ہاتھی
برابر آتا تو اُسپر اچھل کر آن بیٹھتا۔

پادشاہ بڑا محقق تھا اُس نے ایک دفعہ ایک گروہ کو بسبب اُس کے ہر شے کو تحقیق کرنے اُس نے
ایک عجیب تجربہ کیا کہ انسان کی طبعی زبان کیا ہے یعنی اول انسان کونسی زبان بولتا تھا مسلمانون
کو دعوے تھا کہ اول عربی زبان بولی گئی۔ یہودی کہتے ہین کہ عبرانی سب زبانون کی اصل ہے
ہندو اپنی سنسکرت کو سب زبانون کی مان بتاتے ہین۔ اس تحقیقات کے لیئے اس نے
شہر سے باہر بہت دور ایک مکان عالیشان سب ضروریات سے آراستہ کیا اور
گنگ محل اس کا نام رکھا بہت سے لڑکے لڑکیان پیدا ہوتے ہی مان باپ سے لیکر
اسس محل مین داخل کین۔ دایون کو دودھ پلانے کا حکم دیا۔ مگر ان کے سامنے بولنے

زبان کی تحقیقات

سے منع کیا۔ غرض ایسا اہتمام کیا کہ ان کے کان مین انسان کی آواز نہ پہونچنے دے۔ جب
یہ لڑکے پانچ پانچ سات سات برس کے ہوئے تو انکو اپنے سامنے بلوایا تو سوائے غا غین
باتین کے ان کے منہ سے کوئی لفظ نہین نکلتا تھا ہر زبان کے فضلا مقرر تھے کہ جو لفظ اول
انکی زبان سے نکلے اُس کو امتحان کرین کہ کس زبان کا ہے مگر انکی زبان سے کوئی لفظ ہی
نہین نکلتا بلکہ وہ اشارون مین باتین کرتے تھے۔ غرض تجربہ مین ناکامی ہوئی۔ ہیرودوٹس
ایک قدیمی مورّخ نے لکھا ہے کہ کسی فرعون مصر نے بھی تجربہ کیا تھا مگر اکبر کے تجربہ مین یہ
زیادہ خوبی تھی کہ پھر ان بچون کو بولنا سکھایا گیا تو مشکل سے انھون نے سیکھا۔
بدایونی بادشاہ کے اس تجربہ کو بھی بڑی حقارت سے اسطرح لکھتا ہے کہ بچون کو گونگی دایون
سے چار برس تک دودھ پلایا گیا مگر اسکے بعد ان کو ایک لفظ بولنا نہین آیا۔ ابوالفضل یون
لکھتا ہے۔
ایک دن بادشاہ کی محفل مین ہر طرح کے علم کا ذکر ہوتا تھا اس نے فرمایا کہ ہر گروہ کی زبان
وافی بہ لیاقت شنوائی سے ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی بات یاد کرتے ہین اگر ابتدا پیدایش سے
وہ اسطرح پلین کہ آدمی کی گفتگو ان کے کان مین نہ جانے تو نہ زبان مین بولنے کی قدرت ہوگی
اگر ان مین سے کوئی بولے تو اس کو ایزدی گفتار سمجھ کر یقین کرنا چاہیئے مگر بعض سامعین کی پیشانی
سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سے انکار کرتے ہین لیکے دل نشینی کے واسطے ایسی سرزمین
مین کہ آدمیون کی آواز کبھی وہان نہ پہونچے ایک سرائے آباد کی اور وہان نوزادون کو رکھا
راستی منشون کو پاسبانی کے لیئے مقرر کیا کچھ زمانہ تک دائیان ان بچون کو دودھ پلاتی ہین۔
مگر ایسی زبان بند رکھین۔ عام لوگون نے اس سرائے کا نام گنگ محل رکھا۔ بادشاہ
اس عبرت سرا مین خود گیا کوئی آواز اس خاموش خانہ سے برآمد نہوئی اور اس آرامگاہ
مین کوئی گفتار نہ تھی۔ باوجودیکہ اسپر چار سال گذر گئے تھے مگر بچون کو گویائی سے کچھ
بہرہ نہ تھا۔ ایسی آوازین نکالتے تھے جیسے گونگے نکالا کرتے ہین۔

حالات اسد بیگ - ایک تاریخ مرزا اسد بیگ کی تصنیف سے ہے اس مین مرزا نے تمباکو
کا حال یہ لکھا ہے کہ مجھے بیجاپور مین کچھہ تمباکو ہاتھہ لگا - مین نے ہندوستان مین اسکو پہلے
نہین دیکھا تھا مین نے اسکو لیا اور خوبصورت پائپ بنایا - اجین سے نے منگائی وہ تین
ہاتھہ لمبی تھی اور اچھی طرح خشک کیگئی تھی اور اسپر رنگ کرایا اس کے دونون سرون مین
جواہرات اور زمرد لگائے - عقیق یمنی کی مہنال کا دم بہم پہونچائی اور اس کونے پر لگایا اور سونے کا
آتش افروز بنایا - عادل خان نے مجھے ایک پاندان دیا تھا جسپر نہایت عمدہ کام کیا ہوا
تھا اس مین مین نے ایسا عمدہ تمباکو بھرا کہ اگر اس کے ایک پتے کو آگ لگائیے تو سارا جلنے لگے -
ان سب کو مین نے ایک کشتی مین رکھا اور نئے رکھنے کے واسطے مین نے ایک چاندی
کی نلی بنوائی اور نلی کے اوپر سرخ مخمل کا غلاف چڑھایا - جب بادشاہ کی خدمت مین حاضر
ہوا اور تحائف پیش کیے تو بادشاہ نے مجھہ سے پوچھا کہ اتنے تھوڑے دنون مین ایسی عمدہ اشیاء
کس طرح بہم پہونچائین - جب کشتی اور تمباکو اور اسکے سامان پر اسکی آنکھہ پڑی تو اس کو تعجب
ہوا اور تمباکو جو چلم مین تھا دیکھہ کر پوچھا کہ یہ کہان سے تجھے ہاتھہ لگا ہے - نواب خان زمان خان
نے کہا کہ یہہ تمباکو ہے کہ مدینہ مین اس کا بہت رواج ہے - یہ حکیم حضور کے لیے بطور دوا
لایا ہے - بادشاہ نے اس کے تیار کرنے کا مجھے حکم دیا مین نے اس کو بھر کر تیار کیا
بادشاہ اس کا دم بھرنے کو تھا کہ اس پاس ایک طبیب دوڑا آیا اور اس کو پینے سے منع کیا
مگر بادشاہ نے کہا کہ میرے خوش کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا ہی پیے گا اور اس نے
مہنال کو منہہ مین لے کر دو تین دم کھینچے - طبیب نے بیتاب ہو کر کہا کہ مین اب زیادہ پینے
کی اجازت نہین دیتا بادشاہ نے مہنال منہہ سے نکال کر خان زمان کو دی اس نے بھی
دو تین دم ہوتین کے ساتھہ اڑائے پھر اس نے اپنے حکیم پاس اسکو بھیجا کہ وہ اسکے خواص
کی تحقیق کر کے اطلاع دے - حکیم نے جواب دیا کہ ہماری کتابون مین کہین اس کا ذکر نہین
ہے - وہ کوئی نیا ایجاد ہے اور دنیے چین کی ہے - انگریزی ڈاکٹرون نے تمباکو کی بہت

تعریف لکھی ہے۔ امیر الحکمار نے کہا کہ یہ ایک دوا ایسی ہے کہ جس کا امتحان نہین ہوا اور
اطبا رتے اس کے بارے مین کچھ نہین لکھا ہم کس طرح سے حضور سے اس مجہول شئے کے
خواص عرض کر سکتے ہین۔ مناسب نہین ہے کہ حضور اس کا استعمال فرما ئین۔ مین نے
امیر الحکمار سے کہا کہ اہل فرنگ ایسے احمق نہین ہین کہ وہ تمباکو کا حال نہ جانتے ہون اور یونہی
پینے لگے ہون۔ ان مین بعض ایسے با فرہنگ ہین کہ کبھی خطا و غلطی نہین کرتے۔ تم کسطرح کہ
ایک چیز پر بغیر اسکے خواص دریافت کرنے کے اور امتحان کے راے دے سکتے ہو جس کا
اطبا اور سلاطین اور امرا رکو اعتبار ہوا شیا پر انکی برائی اور بھلائی تحقیق کر کے حکم لگانا
چاہیے۔ حکیم نے جواب دیا کہ ہم کو اہل فرنگ کی تقلید کرنی نہین چاہیے اور ایک رسم کو
جسکو ہمارے عقلا رنے حکم نہین دیا بغیر امتحان کے نہین جاری کرنا چاہیے۔ مین نے جواب دیا
کہ کیا عجیب بات آپنے کہی ہے۔ آدم کے وقت سے اس دم تک ہر رسم کسی نہ کسی زمانہ
مین نئی تھی وہ بتدریج ایجاد ہوتی گئی۔ جب کوئی نئی چیز داخل ہوتی ہے اور دنیا مین
مشہور ہوتی ہے تو ہر ایک آدمی اس کو اختیار کرتا ہے۔ دانشمندون اور حکیمون کو چاہیے
کہ کسی چیز کے برے بھلے خواصون کی تحقیق کر کے اسکی تشخیص کرین۔ اچھے خواص مدتون مین
تحقیق ہوتے ہین۔ چین کی چا رکو دیکھو جو پہلے زمانہ مین لوگون کو نہین معلوم تھی اس زمانہ
مین دریافت ہوئی ہے وہ بہت بیماریون کی دوا مین کام آتی ہے۔ جب بادشاہ نے اس
مباحثہ اور میرے دلائل کو سُنا تو خان زمان سے کہا کہ تو نے دیکھا اسد کیا فرزانگی و زیرکی
کی باتین کرتا ہے۔ اب حکیم کچھ اور عرض کرنے کو تھا کہ بادشاہ نے اس کو چپکا کر کے مولوی صاحب
کو بلا یا۔ مولوی نے تمباکو کی بہت تعریف کی گر حکیم صاحب کو کوئی نہ منوا سکا اس کے
علاوہ طبیب ہونے مین شبہ نہ تھا۔

مین بہت سا تنبا کو لایا تھا اور بہت سی نیچیان۔ مین نے ان کو امرا رمین تقسیم کیا پھر تو
اُسکی ایسی چاٹ ایسی لگی کہ مجھ سے تباکو کے طلبگار رہنے لگے اور تمباکو کا رواج بہت

جلد ہوگیا۔ مگر بادشاہ نے اس کو نہین پیا۔ اس تمباکو کا بیان پرتگیزون کی کتابون سے
ایک اور طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان پرتگیز نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر حضور
کی مرضی ہو تو مین عجیب وغریب تماشا دکھاؤن۔ بادشاہ نے فرمایا کہ مین ہر عجیب وغریب
چیز کے دیکھنے کا مشتاق ہون تو ضرور تماشا دکھا۔ اس نے روشنی منگائی اور چھپ کر تمباکو کو
روشن کیا اور پائپ کی چلم پر ہاتھ رکھکر منہ سے دھوان نکالنے لگا بادشاہ نے یہ دیکھکر
ناک چڑھا کے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے ایسے تماشے تو ہمارے مداری کرتے ہین کہ ناک کے نتھنون
سے دھوان کیا شعلے نکالتے ہین اور خوب روپیہ کماتے ہین۔ تو تو اپنے تماشے سے ایک روپیہ
مہینہ بھی نہین کما سکتا۔ اسپر پرتگیز نے کہا کہ مین نے تماشا نہین دکھایا۔ بلکہ یہ دھوان دکھا
سے جو خوش ذائقہ ہے اور اس سے انسان کا دل خوش اور صاف ہوتا ہے اُس نے ہاتھ
اُٹھاکر مٹی کا پائپ اور تمباکو نکال کر دکھایا۔ بادشاہ نے چلم مین ابوالفتح گیلانی کو تمباکو دکھایا
عبدالقادر بدایونی نے حکیم سے کہا کہ یہ شیطان نے بہکانے کی تدبیر کی ہے تو ہرگز تمباکو کا
امتحان نہ کرنا وہ شیطان کا لایا ہوا ہے۔ جاسوسون اور نوکرون کے ذریعہ سے بادشاہ پاس
پہونچا ہے۔ حکیم نے آنکر دیکھا کہ بادشاہ بہت کھانس رہا ہے وہ پائپ کے کئی دم کھینچ چکا تھا
اس سبب سے کھانستا تھا۔ حکیم نے تمباکو کو سنجیدگی سے آزماکر عرض کیا کہ وہ خوش ذائقہ اور صحت بخش
ہے مگر اس کا دھوان پہلے صاف ہونا چاہیئے پانی مین پہلے گذرنا چاہیئے۔ بادشاہ نے اسکی
رائے سے اتفاق کیا۔ غرض اسطرح حقہ ایجاد ہوا۔

شہنشاہ اکبر کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر رعایا کے ضروری حالات کو دریافت کیا کرتا
تھا۔ بازارون مین جاکر نرخ اجناس معلوم کرتا تھا ایک دن وہ اس طرح چلا جاتا تھا کہ ایک
شخص نے اُسکو پہچان لیا اور ایک دوسرے آدمی سے کہا کہ یہ اکبر جاتا ہے بادشاہ نے اُسے
سُن لیا۔ جب وہ اسکے پاس آیا تو ایسا منہ ٹیڑھا کر لیا کہ اس آدمی نے دیکھکر کہا کہ یہ اکبر
نہین ہے کوئی ٹیڑھا ہوا ہے۔

تفتیش حال رعایا

ہمدردی رعایا

سنہ ۹۹۱ھ میں بادشاہ نے راجہ جے مل کو گھوڑے کی ڈاک میں بھیجا تھا۔ تیز روی کی ناہنجاری
اور افسردگی ہوا سے اور وجوہ سے اس راہ میں ان کا چراغ زندگی افسردہ ہوا۔ ان کی بیوی راجہ
اودے سنگھ پسر راے مالدیو عرف موٹا راجہ کی بیٹی تھی وہ ستی ہونے پر راضی نہیں ہوتی
تھی۔ اس کا بیٹا اور چند اور جاہل رجپوت اپنی جہالت کے سبب سے زبردستی اس کو ستی کرنا چاہتے
تھے۔ محل میں پہروں چڑھے بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی فوراً ذہن بادشاہ کو یہ آیا اور سوچا
کہ اگر کسی امرا میں سے کو بھیجتا ہوں تو اس کے سینہ میں اپنا دل اور دل میں یہ درد کہاں ڈال سکتا
ہوں مبادا وہ تاخیر کرے۔ اس لئے وہ اسپ بادپا پر سوار ہو کر اس مسافت کو روانہ ہوا۔
لوگوں کو اصل حقیقت پر آگہی نہ تھی۔ بادشاہ کے اس طرح غائب ہونے سے ایک شورش
برپا ہوئی اور شور بد سرا بیہودہ گویوں نے خیال پرستی سے طرح طرح کی خبریں [illegible]
بنائیں ان امور میں مفسدوں نے [illegible]
اس دوڑ دوڑ میں لشکر کے آدمی بھی پہونچ سکے [illegible]
رہتے جب بادشاہ اس ہنگامہ کے قریب آیا تو جگناتھ اور راے سال آگے گئے اور [illegible] سے
گروہوں کو گرفتار کر کے حضور کے روبرو لائے۔ بادشاہ نے کہا ان کی پیشانی سے
پشیمانی نمایاں ہوتی ہے۔ جوش شفقت کی حالت میں جان بخشی کی مگر مقید کیا۔
غرض چھوٹے زمانہ میں بادشاہ اپنی عدالت اور رافت داد و شجاعت بزرگ
دکھا کر اپنے آرامگاہ میں آیا اس سے شان شاہی بلند ہوا۔

شہنشاہ اکبر کے مذہبی خیالات

اس بادشاہ کے مذہبی خیالات معلوم کرنے کے مخازن میرے پاس یہ ہیں۔ اکبرنامہ
آئین اکبری۔ خافی خان کی منتخب اللباب۔ توزک جہانگیری۔ منتخب التاریخ عبدالقادر بدایونی
دبستان المذاہب۔ ایشیاٹک سوسائٹی کلکتہ کے مختلف جو انگریزی محققین نے لکھے ہیں

بادشاہ کے مذہب کا اصل حال ابو الفضل اور عبد القادر بدایونی کی تحریرات سے معلوم ہوتا ہے جس کو بلوک مین صاحب نے بالترتیب لکھا ہے۔ باقی تحریرات انہیں دو اہل علم کی تحریروں پر مبنی ہیں جن پر محقق کی رائے کے گل پھول لگے ہوئے ہیں۔

عبد القادر بدایونی اکبر کا دشمن تھا اور ابو الفضل کا دوست تھا پس جب کسی شخص کے حال کو لایق دوست اور قابل دشمن دونو لکھیں تو پھر کوئی اس کی برائی بھلائی چھپی نہیں رہتی گو دونو کے بیان میں مبالغہ ہوتا ہے مگر عقل سلیم ان دونوں کی تحریروں میں ثالث بالخیر بن کر اصل حال کا استنباط کر سکتی ہے کہ کیا ہے۔ اول ہم مذہب کے باب جو کچھ منتخب التاریخ میں عبد القادر نے لکھا ہے وہ لکھتے ہیں اور پھر ابو الفضل نے جو لکھا ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ دونو کی تحریر سے جو نتایج محققین نے نکالے ہیں ان کو زیر قلم لاتے ہیں اور خطوط وجدانی کے اندر بعض الفاظ یا رمزونکی تشریح کرتے ہیں اور دبستان المذاہب کو بھی زیر نظر رکھتے ہیں:

ان ایام میں آخر ۹۸۲ھ میں شیخ ابو الفضل خلف شیخ مبارک ناگوری بادشاہ کی درگاہ میں دوبارہ آیا (پہلی ملاقات ۹۸۱ھ میں ہو چکی تھی) اب اس کو علامی کہتے ہیں۔ اس نے ایک جہان میں آگ لگا دی۔ اس نے صباحیوں (حسن صباح ایک مذہبی مشہور مکار ہے) کا چراغ روشن کیا یعنی روز روشن میں چراغ جلایا اور بمقتضائے من تخالف تعرف (جو مخالفت کرتا ہے قوت پاتا ہے) اسنے کل امم کی مخالفت پر کمر خوب درست اور چست کی اسکو درگاہ والا میں منشی کی خدمت ملی۔ آیۃ الکرسی جس میں دقایق و نکات قرآنی بہت سے مندرج ہیں اس کی تفسیر پیش کی کہتے ہیں کہ یہ تفسیر اسکے باپ کی تصنیف سے تھی مگر اسنے اسکو نذر دیکر تحسین کی عزت حاصل کی اور تفسیر اکبری (۹۸۳) اسکی تاریخ تصنیف تھی۔ بادشاہ نے اس کو ان ملانوں کی گوشمالی کے لئے خاطر خواہ پایا جو فرعون تھے۔ یہ توقع بادشاہ کو مجھ سے نہ تھی۔

ابو الفضل کو جو ان ملانوں سے مخالفت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اہل بدعت اور اسی قبیل

شہنشاہ اکبر سے ابو الفضل کی دوسری ملاقات

کے لوگ جیسے کہ میر حبشی اور مثل ان کے تھے گرفتار ہوے تو شیخ عبد النبی اور مخدوم الملک
اور کل علمار نے متفق اللفظ والمعنے ہوکر پادشاہ سے عرض کیا کہ شیخ مبارک فرقہ مہدویہ مین
سے ہے اور ضال و مضل (خود گمراہ اور اورون کو گمراہ کرنے والا) ہے ایک طرح کی پادشاہ
کی اجازت اس کے رفع دفع کرنے کے لیے لے کر پادشاہ کے سامنے اسکے حاضر کرنے کے لئے
محتسبون کو بھیجا شیخ اپنے دو بیٹون سمیت مخفی ہوگیا تو اسکی مسجد کے منبر کو ان محتسبون نے
توڑ ڈالا - اس زمانہ مین شیخ سلیم چشتی فتحپوری کا جاہ و جلال اوج پر تھا ان کے پاس اول شیخ
التجا لایا کہ وہ پادشاہ سے التماس کرکے اسکی شفاعت کرا دین - شیخ سلیم نے بعض اپنے
خلیفون کے ہاتھ کچھ روپیہ شیخ مبارک کے پاس بھجوایا اور اس سے کہا کہ تمھارے لئے بہتر
یہی ہے کہ اس دیار سے فرار کرو اور گجرات مین چلے جاؤ - جب شیخ کو یہان سے ناامیدی ہوئی
تو اس نے مرزا عزیز کوکہ کو اپنا متوسل بنایا اس لیئے پادشاہ سے شیخ مبارک کی درویشی اور
اسکی اولاد کی فضیلت کی تعریف کی اور عرض کیا کہ شیخ مرد متوکل ہے اس لیئے کوئی زمین
بھی انعام مین نہین لی - ایسے فقیر کو رنجیدہ کرنا ہم نہین جانتا کہ کس لیئے ہے اس سفارش
سے پادشاہ نے شیخ کے ایذا پہونچانے کا خیال بالکل چھوڑا اور تھوڑی مدت مین زمانہ اسکے
موافق ہوا - شیخ ابوالفضل کو اپنی خدمت کے زور سے اور پادشاہ کی حمایت سے اور زمانہ سازی
و بے دیانتی و مزاج شناسی اور غایت درجہ کی خوشامد سے ایسے موقعے ملے کہ اس نے اس
جماعت کو جس نے سعایت اور سعی ناشکور کی تھی نہایت بری طرح سے رسوا کیا اس نے فقط
انھین تخریبکار عالمون کا استیصال نہین کیا بلکہ کل ان خدا کے بندون کو خراب کیا جو مشائخ و
علماء و عوام صلحاء و ضعفاء و یتیم تھے انکی مدد معاش و وظائف کو بند کیا اور حال و قال کی
زبان سے یہ کہتا -

رباعی

یارب بجہانیان دلیلے بفرست	نمرودان را جو پشہ پیلے بفرست
فرعون وشان دست برآوردستند	موسی و عصا و رود نیلے بفرست

جب اس وضع سے ان علمار کے حال مین خلل پیدا ہوا اور جنھون نے اس کے باپ کو ستایا تھا تو یہ رباعی اکثر وہ پڑھا کرتا تھا۔

رباعی:

آتش بدو دست خویش در خرمن خویش	چون خود زدہ ام چہ نالم از دشمن خویش
کس دشمن من نیست منم دشمن خویش	اے واے من و دست من و دامن خویش

جب بحث مین اسکے سامنے کسی مجتہد کا قول پیش کرتے تو وہ کہتا کہ فلان حلوائی۔ فلان کفش دوز فلان چرم گر کا قول میرے لیے حجت نہین ہوسکتا۔ وہ سب مشائخ و علمار کا منکر تھا۔

عبادت خانہ و مباحثون کا آغاز

سنہ ۹۸۳ھ مین عبادت خانہ کی عمارات تمام ہوئین۔ پادشاہ نے فتحپور سیکری مین ایوان شاہی کے پاس یہ عمارت بنوائی تھی۔ ان تعمیرات کا منشا بیان ہو گا ان چند سالون مین (۹۸۳ سے پہلے) فتوحات عظیمہ و غریبہ پے درپے حاصل ہوئی تھین دائرہ مملکت روز بروز فراخ ہوجاتا تھا مراد کے موافق کام برآتے تھے۔ کوئی مخالف جہان مین باقی نہ تھا۔ اسنے فقرا سے اور حضرت معینہ کی آستانہ کے مجاورون سے دوستی پیدا کی تھی۔ اکثر اوقات اس کے قال اللہ و قال الرسول مین گذرتے تھے۔ تصوف کے مسائل حکمی و فقہی وغیرہ مین وہ مصروف رہتا تھا اور اکثر راتون کو جاگ کر خداے عز و جل کے اسمون یاھو یا ھادی کا ذکر کرتا تھا یہ اس کو القا ہوا تھا کہ ان دو نامون کے ذکر سے معرفت حاصل ہوتی ہے فقرا ان کو ہزارون دفعہ پڑھتے ہین۔ منعم حقیقی کی تعظیم نے اسکے دل مین جگہہ پکڑلی تھی وہ بعض نعمتون کے شکرانہ کے لیے بہ طریق نیاز مندی و دردمندی صبح کو ایک چوڑی سل پر بیٹھتا۔ یہ سل ایک پرانے حجرہ کی تھی جو پادشاہی محلون کے سایہ مین آبادی سے ایک طرف تھا۔ اسپر وہ مراقبہ کرتا اور فیض سحری حاصل کرتا اسنے سُنا تھا کہ سلیمان کررانی (جس کا ذکر بہت کچھ ہوچکا ہے کہ وہ سنہ ۹۷۱ھ سے سنہ ۹۸۱ھ تک حاکم بنگالہ تھا) کا ذکر سُنا تھا کہ وہ سحر کو ڈیڑہ سو مشائخ و علمار نامدار کے ساتھ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتا تھا اور صبح تک ان کے ساتھ بیٹھکر تفسیر و تذکیر سُنا ہی

صبح کی آغاز کے بعد مہمات ملکی اور سپاہی و رعیت کی داد و ستد میں مشغول ہوتا ہے اور تقسیم
اوقات کرنے کے تضییع اوقات نہیں کرتا مرزا سلیمان جو ایک بادشاہ صوفی مشرب و صاحب حال
تھا اور مرید کرتا تھا اس کے آنے کی بھی خبر بدخشاں سے تھی غرض ایسے بواعث تھے
کہ شیخ عبداللہ نیازی سرہندی نے حجرہ کا نام عبادت خانہ رکھا دیہ شیخ پہلے شیخ الاسلام
چشتی کا مرید تھا) اور پھر فرقہ مہدویہ میں آگیا تھا (اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے) اس حجرہ کے
چاروں طرفوں میں ایوان بنائے۔ اور بیچ میں ایک تالاب بنایا جسکا نام انوپ تالاب
رکھا اور اس حجرہ کا نام عبادت خانہ رکھا کہ آخر رفتہ رفتہ وہ عبادت خانہ ہی ہو گیا
ملا شیری نے اس عمارت کے باب میں قصیدہ کہا ہے جسکی ایک بیت یہ ہے ؎

عبادتہائے فرعونی عمارتہائے شدادی
دریں ایام دیدم جمع با اموال قاروتی

بادشاہ ہر نماز جمعہ کے بعد خانقاہ جدید شیخ الاسلام سے آکر اس عبادت خانہ میں ایک مجلس کرتا جس میں
سوائے مشائخ وقت و علما و فضلا، اور چند مخصوص بادشاہ کے معتبر ندیموں کے کوئی اور طلب نہ
ہوتا اور اسمیں افادت اور استفادت کی باتیں ہر قسم کی ہوتیں۔

ہر شب جمعہ کو سادات و مشائخ و علما و امرا کے گروہوں کو بادشاہ بلاتا جب اس جماعت نے اپنی نشست کے
مقام میں اور تقدیم و تاخیر میں بھی بدنفسی دکھائی۔ اور جھگڑے کھڑے کئے تو بادشاہ نے حکم دیدیا کہ امرا جانب
شرقی میں اور سادات جانب مغربی میں اور علما جانب جنوبی میں اور مشائخ جانب شمالی میں بیٹھیں ان
صفوں میں خود بادشاہ نوبت بہ نوبت پھرتا اور اس جماعت سے باتیں کرتا اور مقاصد کی تحقیق کرتا۔ طرح
طرح کی خوشبوؤں سے مکان کو معطر کرتا۔ بے شمار زر ان اہل استحقاق کو دیتا جو مقربوں
کے ذریعہ سے عبادت خانہ میں چلے آتے تھے۔ فتح گجرات میں اعتماد خاں گجراتی کے کتب خانے
سے جو نفیس کتابیں ہاتھ لگی تھیں وہ ان علما کو خود اپنے ہاتھ سے تقسیم کیں اور جو کتابیں
فاضل بچی تھیں وہ امرا کو دیں اجناس میں کہ جسکو اراس یعنی زوال دشمن کہتے ہیں دیتا
تھا ایک دن رات کو علما گردن کی رگیں پھلا پھلا کر اور غل مچا مچا کر باتیں کرنے لگے۔

یہ بات بادشاہ کو ناگوار گذری اسنے عبدالقادر سے کہا کہ ایسے آیندہ جو اس جماعت میں نامعقول بات کہے اس کی مجھے اطلاع دیوے میں اسکو مجلس سے اٹھا دونگا اوس نے آصف خاں سے آہستہ سے کہا کہ اسطرح تو اکثر علما مجلس سے اٹھائے جائینگے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اسنے کیا کہا تو آصف خاں سے جو اسنے کہا تھا وہ عرض کیا تو بادشاہ خوش ہوا اور اس کا ذکر اپنی مجلس میں اپنے مقربین سے کیا۔

ایکدن حاجی ابراہیم سرہندی نے فتویٰ دیا کہ سرخ و زعفرانی لباس پہننا مباح ہے اور اسبات کے ثبوت میں ایک حدیث بھی نقل کی۔ اسکو میر عدل نے سنکر مجلس بادشاہی میں اسکو بدبخت ملعون کہکر گالیاں دیں اور عصا لیکر اوسکے مارنے کو چلا اوسنے اپنے تئیں حیلہ کرکے بچایا اب شہنشاہ کو علما اور مفتیوں سے نفرت ہوگئی وہ کسی آدمی کے قصور غرور و تکبر کو معاف نہیں کیا کرتا اور تمام تکبر کی باتوں میں اسکو علم میں تکبر کرنے سے نہایت نفرت تھی اب اسنے ان علماء عظیم کو ایذا پہنچانے کا قصد کیا اور جب اس کے مقربین کو بادشاہ کی نیت یہ معلوم ہوئی تو پھر علما پر سب طرح کے الزاموں کا طومار باندہ دیا۔

اسواسطے بادشاہ نے مجلس میں مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطانپوری کو بلایا کہ اسکو ایذا پہنچائے اور اسکے مقابلہ کے لئے حاجی ابراہیم و شیخ ابوالفضل کو اور نئے آدمیونکو بلایا۔ ابوالفضل نیا نیا مجلس میں آیا تھا وہ نئے مذہب و دین کا مجتہد تھا اور مرشد بحق اور داعی مطلق تھا۔ اور مباحثہ میں مخدوم الملک کی ہر بات میں بادشاہ دخل دیتا تھا پھر بعض مقربین بھی بادشاہ کے اشارہ سے اس سے کاوش و کاہش و ترادش کے مقام میں آکر اس کی عجیب و غریب نقلیں کرنے لگے۔

خانخاناں نے کہا کہ مخدوم الملک نے فتویٰ دیا ہے کہ اس زمانہ میں حج فرض نہیں ہے بلکہ گناہ ہے جب اسکی وجہ اس سے پوچھی تو اُس نے دلیل یہ بیان کی۔ کعبہ کی دو راہیں ہیں ایک عراق دوسری گجرات سے پہلے خشکی کی راہ میں قزلباشوں کی ناسزا باتیں سننی پڑتی ہیں اور دوسری دریا کی

راہ مین غیر ملکون سے قول اور عہد لیا جاتا ہے اور عہد نامہ پر اس عہد نامہ پر حضرت مریم اور حضرت عیسی علیہ السلام کی تصویر منقش ہوتی ہے۔ وہ بت پرستی کا حکم رکھتی ہے۔ دونون طرح سے حج ممنوع ہے اور خان جہان نے یہ بھی کہا کہ زکوۃ کے باب مین ایک اور حیلہ مخدوم الملک نے یہ نکالا ہے کہ آخر سال مین جو خزانہ پاس ہو وہ اپنی منکوحہ کو بخشدے اور پھر اسپر ایک سال نہ گذرنے پائے کہ اس سے لے لے۔ اہل سنت کے پاس جو سال کے آخر مین بحث ہوتی ہے اسپر زکوۃ دی جاتی ہے۔ بس اسی طرح نہ میان پر نہ بیوی پر زکوۃ فرض ہوگی اس کے حیلون کے سامنے بنی موسی کے حیلہ بھی شرمندہ ہوتے تھے۔ اس نے مشائخ و فقرا کے ساتھ خصوصاً پنجاب کے ائمہ اور اہل استحقاق کے ساتھ خست رزالت۔ خباثت۔ جہالت۔ مکاری۔ دنیاداری۔ ستمگاری کی۔ اور ایسی طرح طرح کی حکایات اسکی اہانت و تخفاف و مذمت کی تقریر مین آتی تھین جو قیامت کے دن سب کھلینگی۔ برا فہرا اس کو مکہ معظمہ بھیجا جب اس سے پوچھا کہ تجھپر حج فرض ہے تو اُس نے کہا کہ نہین (یعنی مفلس ہون) ان دنون مین شیخ عبدالنبی کا عین جاہ و جلال تھا اور مخدوم الملک کے ہبٹو کا اور زوال کا آغاز تھا۔ پادشاہ شیخ کی تعظیم و احترام کرتا تھا اور کبھی کبھی علم حدیث کے سننے کے لئے اس کے گھر جاتا اور ایک دودفعہ انکی جوتیان اُسکے پاؤن کے سامنے رکھین تھین۔

انھین مجلسون مین سے ایک مجلس مین پادشاہ نے پوچھا کہ کتنی اصل عورتون سے نکاح کرنا درست ہی۔ علمانے جواب دیا کہ چار حرہ عورتون سے زیادہ عقد نکاح باندھنا جائز نہین ہی اسپر پادشاہ نے فرمایا کہ مین عنفوان جوانی مین اس مسئلہ کا مقید نہین تھا جتنی آزاد و بندہ عورتین چاہین مین نے جمع کرین اب اسکا علاج کیا ہوسکتا ہے ہر ایک شخص نے کچھ کچھ عرض کیا۔ پادشاہ نے فرمایا کہ ایک دن مین نے شیخ عبدالنبی سے سُنا کہ مجتہدون مین سے ایک نے نو بیویان کرنی جائز رکھی تھین لوگون نے عرض کیا۔ ابن لیلے مجتہد نے یہ لکھا ہے کہ اس آیت فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنے وثلاث ورباع کی عبارت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹھارہ بیویان کرنی

علما پر ایک صدر عظیم کا واقع ہونا

جائز ہین (جس طرح چاہو نکاح کرو۔ عورتون مین سے دو دو یا تین تین یا چار چار (جس نے نو بیویان کہین اسنے ۲ + ۳ + ۴ = ۹ کا حساب لگایا اور جس نے اٹھارہ کہین (۲ + ۲ + ۳ + ۳ + ۴ + ۴) یعنی اٹھارہ کا حساب) مگر یہ روایتین مرحوم ہین عمل کے لایق نہین۔ پادشاہ نے آدمی بھیجکر شیخ عبد النبی سے پوچھا اس نے جواب دیا کہ مین نے اختلافات کا بیان کیا تھا کوئی اباحت کا فتوے نہین دیا۔ یہ بات پادشاہ کو گران معلوم ہوئی اور فرمایا کہ شیخ نے ہماری ساتھ نفاق کی بات کی کہ اُس وقت کچھ اور کہا اور اسوقت کچھ اور کہتا ہے یہ بات اُس کے دل مین بیٹھ گئی۔ اس مسئلہ مین بہت سے ردوبدل اور روایات متنوعہ کے جمع کرنے کے بعد علمار نے یہ فتویٰ دیا کہ بطریق متعہ کے جسقدر عورتین کہ میسر ہون مباح ہین اور یہ امام مالک کے مذہب مین جائز ہے اور شیعہ اس فرزند کو کہ متعہ سے پیدا ہو بہ نسبت منکوحہ اولاد کے زیادہ عزیز رکھتے ہین برخلاف اہل سنت وجماعت کے اس مسئلہ مین بہت سی اور باتین ہوئین جن کا بیان عبد القادر نے نجات الرشید مین بالاجمال لکھا ہے۔ موطا امام مالک کی نصیب خان اٹھالایا جس مین امام مالک نے ایک حدیث نقل کی تھی جس سے متعہ کا منع ہونا ثابت ہوتا تھا۔ ایک رات کو قاضی یعقوب و شیخ ابو الفضل و حاجی ابراہیم اور ایک دو اور علمار حجرہ انوپ تلاؤ مین پادشاہ کی خدمت مین بلائے ہوئے آنکر بیٹھے شیخ ابو الفضل مشائخ کے معارض مقرر ہوئے جو روایتین کہ متعہ کے باب مین ابو الفضل کے باپ نے جمع کی تھین اسنے پیش کین۔ اسی اثنار مین پادشاہ نے ملا عبد القادر کو بھی بلاکر پوچھا کہ اس باب مین تمہاری رائے کیا ہے اس نے عرض کیا کہ ان ساری روایات مختلفہ و مذاہب گوناگون کا مآل اس ایک بات پر تمام ہوتا ہے کہ امام مالک اور شیعہ کے نزدیک بالاتفاق متعہ مباح ہے اور امام شافعی اور امام اعظم کے نزدیک حرام ہے اگر کوئی قاضی مالکی حکم اسکے اقتضار کا کرے تو امام اعظم کے مذہب مین بالاتفاق متعہ مباح ہوتا اس بات کے سوائے سب قیل وقال و جنگ وجدال ہے۔ پادشاہ کو یہ بات بہت مستحسن معلوم ہوئی اس باب مین قاضی یعقوب نے چون وچرا کی عبد القادر نے کہا کہ کوئی جو مختلف فیہ ہوتا ہی

وہ قاضی کی قضا سے مجمع علیہ میں فیصل ہوجاتا ہی اس اصول کی مثال سے توضیح کی کہ قاضی یعقوب معقول ہوگیا اور عجز کے ساتھ کہا کہ اب میں کیا کہوں مبارک ہو کہ متعہ مباح ہی۔ بادشاہ نے قاضی حسین عرب مالکی کو اس سررشتہ میں قاضی مقرر کیا اور قاضی یعقوب کو معزول کیا۔ فوراً قاضی حسین نے اپنے مذہب کے موافق متعہ کے جواز کا حکم دیدیا جس سے سارے مذہبوں کے صدر سے لیکر مخدوم الملک و قاضی ملک کے چہرے بگڑ گئے اس سے اب انکی خزاں شروع ہوئی اور خزلیف کا زمانہ آگیا۔ اس واقعہ کے چندروز بعد مولانا جلال الدین ملتانی کو کہ مدرس متبحر تھا آگرہ سے طلب کرکے قضاء ممالک پر منصوب کیا اور قاضی یعقوب کو صوبہ گور کا قاضی مقرر کرکے وہاں بہیجدیا جہاں کچھ دنوں بعد وہ گور میں گیا اس دن سے جب تک بادشاہ خود مجتہد ہوا اس باب میں خلاف و اختلاف کا دروازہ بند نہ ہوا ان دنوں میں بادشاہ نے پوچھا کہ اگر لفظ اللہ اکبر کا مہر میں کندہ اور سکہ میں نقش کرائیں تو کیسا ہے۔ اکثر نے کہا کہ خوب ہے حاجی ابراہیم نے اسکے خلاف کہا کہ اس ترکیب میں اور احتمال بھی ہے (اللہ اکبر کے دو معنے ہوسکتے ہیں ایک یہ خدا بڑا ہے دوم یہ کہ اکبر خدا ہے) اگر یہ آیہ ولذکر اللہ نقش فرمائیں تو بہتر ہوگا اس سے وہ احتمال قطع ہوجائیگا۔ یہ بات اسکی بادشاہ کو پسندیدہ نہ ہوئی اور فرمایا کہ یہ بات ظاہر ہے کہ بندہ کمال عاجزی کے سبب سے خدائی کا دعوی نہیں کرسکتا مقصود ہمارا فقط مناسبت لفظی ہے۔ نفس مدعا کو دوسری جانب لیجانا کیا معنے رکہتا ہے (اکبر نے گو خود اس اپنے مدعا کو بیان کردیا مگر بلوک میں صاحب نے اپنی آئین اکبری کے ترجمہ میں اس پر حاشیہ چڑہادیا کہ بادشاہ اللہ اکبر اس کو ذوالمعنین ہونے کے سبب پسند کرتا تھا۔ وہ مہر شاہی میں سکہ میں کتابوں کی پیشانی پر فرمانوں وغیرہ پر اُسکو استعمال کرتا تھا)

حکیم ابوالفتح و حکیم ہمایوں کا بادشاہ پاس آنا

۹۸۳ھ میں حکیم ابوالفتح گیلانی اور حکیم ہمایوں و نورالدین تین بھائی آئے۔ حکیم ہمایوں نے اول نام اپنا حکیم ہمایوں قلی بدلا اور پھر حکیم ہمام۔ قراری اس کا تخلص تھا۔ یہ تینوں بھائی گیلان سے آئے۔ بڑے بھائی نے ندیمی کے زور سے بادشاہ کے

پیدا کیا اسکی صریح خوشامد کرکے دین و مذہب کی راہ مین اسکے ساتھ چلا اور آگے چل کر
بلندی سے اعلےٰ درجہ کا تقرب حاصل کیا چند مدت کے بعد ملا محمد یزدی ایران سے آیا جس کو
یزیدی بھی کہتے تھے اوران کے ساتھ مل گیا اس نے شان صحابہ مین برملا مطاعن کرنے شروع
کیے اور اصحاب کی نقلین عجیب عجیب بناکر بادشاہ کو چاہا کہ شیعہ بنائے لیکن بیربر اور شیخ
ابوالفضل وحکیم ابوالفتح نے اس سے آگے قدم بڑھایا کہ دین سے اسکو منحرف کردیا۔ وحی و
نبوت و اعجاز و کرامت و شریعت سے مطلق انکار کرادیا یہان تک نوبت پہنچی کہ عبدالقادر
انکی رفاقت مین نہ رہ سکا۔

انھین دنون مین قاضی جلال الدین ملتانی اور علماء کو حکم ہوا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھین علماء کے
درمیان اس کا بڑا شوغا اٹھا۔

قریب چندرائے مجہول نے منبر دین سے یہ کہا کہ اگر خدا کے نزدیک گائے معظم نہین ہوتی تو
قرآن کی اول سورۃ بقر کیون ہوتی اسپر سارا دربار ہنسا۔

بادشاہ کے سامنے تاریخ اسلام پڑھی جاتی جس سے روز بروز اس کا اعتقاد اصحاب کے ساتھ
فاسد ہوتا جاتا تھا۔ ان اصحاب سے آنحضرت کا ذکر بادشاہ سنے اور قدم بڑھایا کہ نماز و روزہ اور تمام
مسائل جو نبوت سے متعلق تھے ان کا نام تقلیدیات رکھا یعنی غیر معقول اور دین کا مدار عقل پر رکھا
(نقل پر فرنگیون (پرتگیزون) کی آمد و رفت بھی انکے بعض اعتقادات کو اس نے مان لیا (ابعض
متعصب عیسائی یہ سمجھتے ہین کہ اکبر عیسائی ہو گیا تھا مگر بدایونی نے فقرہ یہ لکھا ہے کہ بعضے
اعتقادات ایشان را اقرار گرفتند اس سے مطلب یہ ہے کہ جو عقائد عیسائیون کی عقل کے مطابق تھے
ان کو اس نے مان لیا وہ ہر مذہب کے اعتقاد کو جو مطابق عقل کے ہوتا مانتا تھا کچھ عیسائیون کی خصوصیت
نہ تھی)

ہر خیال کہ عقل شان بندد ۔ چرخ بر عقل اہل آن خندد ۔

اسی سال مین ایک رات شیخ بدرالدین خلف صدق و سجادہ شیخ الاسلام چشتی بلائے گئے وہ

نوکری سے نائب اور نائب مناب باپ کا ہوکر اور توفیق پاکر گوشہ نشین ہوا تھا ریاضت و
مجاہدت و ذکر و فکر و تلاوت مین مشغول رہتا مراتب آداب جو یہان وضع کیے گئے تھے ان کا
وہ پابند نہ ہوا اس لیے اُسکی نشست و برخاست و کلام پر ایسی باتین بنائی گئین کہ اس کو
ایذا ہوئی۔

شروع ۹۸۴ھ مین جب بادشاہ مالوہ مین دیبال پور مین تھا شریف آملی اس پاس آیا
اس مردود کا حال جلیے پانوؤن کے کتے کا نا سا تھا کہ ایک دیار سے دوسرے دیار مین جاتا اور
ایک مذہب سے دوسرے مذہب مین آتا۔ جدل کے بعد الحاد پردہ جما۔ کچھ مدت تک
بلخ مین روشن متصوفہ مبطل و بے صفا پر چلا۔ مولانا محمد زاہد کی خانقاہ مین درویشون کے
ساتھ مولانا مخدومی اعظم شیخ حسین خوارزمی کا بھتیجا بنا۔ مگر اسکو درویشی کے ساتھ مناسبت ذاتی
نہ تھی اور ہرزہ گوئی اور پریشان باتین بہت کرتا تھا اس سبب سے مولانا نے اپنی خانقاہ سے اس کو
نکال دیا اور اسکی شان مین یہ چند بیتین کہین جن مین سے ایک یہ ہے۔ ؎

ہست یک ملحدے شریف بنام　　　نا تمامے بطور خویش تمام

وہ دکن مین سیر کرتا ہوا پہونچا۔ مذہب مین مقید نہونے سے اس کا خبث ظاہر ہوا حکام دکن نے
اس کو مارنا چاہا لیکن اسکو گدھے پر سوار کرکے شہر مین تشہیر کی۔ ہندوستان ایک وسیع ملک
ہے اور یہان میدان اباحت فراخ ہے کسیکو کسی سے کچھ کام نہین ہے جو شخص جس طور کو چاہے اختیار
کرے وہ افتان خیزان مالوہ مین بادشاہ کی منزل گاہ سے پانچ کوس پر اُترا جن اہل باطن کو وہ
منہ سے اُگلتا وہ بجای نوش کے زہر مار ہوتین اور عام آدمیون کی مجلس مین اسکا ذکر ہوتا عوام
کالانعام نے خصوصاً عراق کے ملحدون نے اُسے گھیرا یہ ملحد حقیقت ایمان سے ایسے نکالے گئے تھے
جیسے کہ خمیر سے بال اور بلفظی عبارت انھین سے ہی وہی دجال کی سب سے اول پرستش کرنے والون
مین ہونگے اور اسکے اشارہ سے انھون نے یہ شہرت دی کہ وہ زمانہ عاشر ہزار سال حسین حضرت
عیسیٰ زمین پر رہینگے کا مجدد ہے اس شہرت کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس کو ایک رات کو مجلس

مین بُلایا اور ایک مسجد مین جو کپڑے کی طولانی بنائی گئی تھی اور اس مین پادشاہ پنجگانہ نماز
پڑہتا تھا آپ مین سے خلوت کی باتین کرتا اول دفعہ وہ ایسی صورت ہیات سے آیا کہ دیکھنے
سے ہنسی آتی تھی۔ گردن ٹیڑہی کیئے ہوئے وہ کورنش بجالایا۔ دست بستہ دیر تک
کھڑا رہا۔ اسکی چشم ارزق (کیری آنکھین) تھین جن کو آنحضرت کی دشمنی کی علامت کہتے
ہین۔ کذب وریا ونفاق ٹپک رہا تھا۔ جب پادشاہ نے اُسکے بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ سجدہ کرکے
اونٹ کی طرح دوزانو بیٹھا پھر اسے پادشاہ کی دو بدو صحبت خلوت ہوئی اور اُس سے
پادشاہ نے باتین پوچھین۔ سوا مخدوم الملک کے یہان کوئی بھی کھڑا رہ نہ سکتا تھا کبھی
کبھی کہ آواز بلند ہوتی تھی مین علم کا نفظ سنتا تھا وہ بہت خرافات بکتا تھا اور حقیقۃ الحقائق
اور اصل الاصول اُس کا نام رکھتا تھا۔ رباعی

توے نہ زظاہر نہ زباطن آگاہ	آنکہ زجہالت بہ بطالت آگاہ
مستغرق کفر ند وحقیقت گویند	لاحول ولا قوۃ الا باللہ

تمام اُس کا مدار محمود بسخوانی کی روش پر تھا۔ گیلان کے توابع مین سے سخوان ایک گاؤن کا
نام ہے۔ صاحبقران امیر تیمور کے زمانہ مین محمود تھا۔ اُسنے تیرہ رسالے جدا جدا لکھے ہین
جن مین وہ مکر کی باتین لکھی ہین کہ کسی مذہب مین درست وراست نہین سوا زٹیال کے
جس کا نام علم دنقط دجال رکھا ہے کچھ حاصل نہین ہے۔ اس شقی الاشقیا کی تصنیفات کا
خلاصہ کتاب بحر وکوزہ ہے جو فضلات کہ اُسنے اسمین دکھلائے ہین کان کو اُسکے سُننے سے
قے آتی ہے اگر شیطان بھی اسے سُنے تو ہنسی کے مارے لوٹ جائے اس کثیف شریف نے
ایک اور کتاب ترشح ظہور لکھی ہے جسمین سوای مہملات کے کچھ اور نہین ہے اسمین میر عبد الاول کی
جماعت کی تقلید کی ہے۔ ہر فقرہ نامربوط عام فریب کا عنوان می فرمودند بنایا وہ ایک عجیب کشتگاہ اور
طرفہ منزل اور عجیب مضحک ہے باوجود اس جہل کے ضرب المثل کے موافق ان المدر ملکاً یسوق الاہل
الے اہل (اہل اہل سے ملتے ہین) اسکا کام ایسا بنا کہ اسنے زمانہ کے مزاج مین اپنا دخل پیدا کیا اور

امرار ہزاری کے گروہ مین داخل ہوا اور ولایت بنگ مین مذہب حق (مذہب آلہی کا) کے اعیان مین سے ہے اور صاحب مراتب چہارگانہ ہے۔ اور اس ملک مین بادشاہ کی بیعت کرکے مریدون و معتقدون کو ان مراتب اخلاص پر پہونچاتا ہے ان مراتب کا مذکور عنقریب ہوگا

علما کی تکفیر و تضلیل

سنہ ۹۸۲ مین زیادہ تر اوقات عبادتخانہ مین علما و مشائخ کی صحبت مین بادشاہ بسر کرتا خصوصاً جمعہ کے دن ساری رات جاگتا اور تحقیق مسائل دین کے اصول و فروع مین مصروف رہتا علما نے ایک دوسرے پر اپنی زبان کی تلوار سونتی اور تناقض و تقابل کرنے لگے اور اختلاف مذاہب کی نوبت یہان تک پہونچی کہ ایک دوسرے کی تکفیر و تضلیل کرنے لگے۔ عبد النبی کے برخلاف سنّی و شیعے و حنفی و شافعی بحث اپنی حد سے گذری اور اصل اصول مین خلل انداز ہونے لگے مخدوم الملک نے رسالہ لکھا اور اسپر یہ تہمت لگائی کہ اسنے خضر خان شروانی کو نبی علیہ السلام کے گالی دینے پر متہم کرکے اور میر حبشی کو رافضی ہونے کی تہمت لگاکے دونونکو ناحق قتل کروایا اسکے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہین ہے اسواسطے کہ اسکے باپ نے اسکو عاق کیا ہے اور خونی بواسیر اس کو ہے۔ شیخ عبد النبی نے بھی اسکی تجہیل و تضلیل کی اور ملا کچھ اسطرف اور کچھ اسطرف ہوکر دو گروہ سبطی و قبطی بنگئے۔ اہل بدعت بمقتضائے آرائے فاسدہ اور شبہات باطلہ باطل کو صورت حق مین اور خطا کو صورت صواب مین دکھانے لگے بادشاہ پاک نفس جوہر اور طالب حق مطلق تھا اسکی تعلیم اچھی طرح نہین ہوئی تھی اسکے گرد ارذال و کافر و اہل بدعت و جہالت جمع ہوئے۔ انھون نے اسلام کی صداقت مین بادشاہ کو مشتبہ کردیا۔ حیرت پر حیرت اسپر طاری ہوتی گئی اور جو اس کا اصل مقصود تھا وہ مفقود ہوگیا شرع مبین و دین متین کی مضبوط دیوار شکستہ ہوگئی اور پانچ برس بعد اسمین کوئی دین کا اثر باقی نہین رہا قضیہ منعکس ہوگیا۔

حج کا حال

پانچ چھ برس سے یہ برابر دستور تھا کہ اعیان درگاہ مین سے کسی شخص کو امیر حاج بناتا اور آدمیون کو اذن عام ہوتا کہ بادشاہی خرچ سے حج کو جائے اور زر نقد و جنس و بیش قیمت سے لاکھون

کے مکہ معظمہ مین مستحقین مین تقسیم کیئے جاتے - چنانچہ اُسنے ایک دفعہ خواجہ خاوند محمود کو میر حاج بنا کر ۹ لاکھ روپیہ نقد و جنس حرمین الشریفین کے مستحقون میں تقسیم کرنے کے لیئے اور حرم مین مکان بنانے کے واسطے بھیجے اور خواجہ کی رخصت کے وقت خود محرمون کے طریق پر سر و پا برہنہ احرام باندہ کر چند قدم اسکے ساتھ گیا جسپر آدمیون مین ایک غل ہوا اور بہت رقت ہوئی اسی زمانہ مین خبر آئی کہ شاہ طہماسپ اس عالم سے رخصت ہوا - شاہ اسمعیل نامی اسکی جگہہ جانشین ہوا جسکی تاریخ جانشینی مصرعہ اول دولت و فتح و ظفر ہوئی (د ۴ - ف ۸۰ - ظ ۹۰۰ = کل ۹۸۴) اسنے حکم عام دیا کہ جس کا جی چاہے حج کو جائے اور خرچ راہ خزانہ شاہی سے لے ایک خلق کثیر حج کی سعادت سے فائز ہوئی مگر یہان یہ حال ہو گیا کہ کوئی حج کا نام نہین لے سکتا تھا اور جو اسکے لیے رخصت مانگتا مجرم و واجب القتل ہوتا تھا -

۹۸۵ھ مین خبر آئی کہ شاہ طہماسپ کا بیٹا شاہ اسمعیل کو اسکی بہن پری خانم نے امیرون کے ساتھ سازش کرکے مار ڈالا - میر حیدر معمائی نے اس بادشاہ کی تاریخ جلوس شاہنشاہ روئے زمین اور تاریخ وفات شاہ زیر زمین لکھی اور ایران مین فروزندہ (مدار ستارہ) نکلا اور اس کا اثر وہان ظاہر ہوا کہ عراق مین ہرج مرج عظیم ہوا و تبریز و شروان و مازندران کو رومیون نے لے لیا - بعد اسکے سلطان محمد خدابندہ ولد شاہ طہماسپ جو دوسری مان سے تھا بادشاہ ہوا اور صحابہ کبار پر لعن طعن ہزار برس سے چلے آتے تھے اور بنی امیہ کو ناسزا باتین کہی جاتی تھین انکی مدت پوری ہوئی یعنی تبرا موقوف ہوا مگر اس بلاد سے الحاد ہندوستان مین منتقل ہوا

نفاق آمدہ در بست از بلاد عراق ‏‏‏‏‏‏‏‏ عراق قافیہ میدان بر گذار نفاق

بادشاہ کے بے دین ہونے کے بواعث بہت سے ہین مگر اس سبب سے کہ قلیل کثیر پر دلالت کرتا ہے ان کا مختصر بیان تحریر و تقریر مین آتا ہے - ہر دیار کے طرح طرح کے دانا اور ارباب مذاہب و ادیان بادشاہ کے دربار مین آنے شروع ہوئے اور بادشاہ کی ہمزبانی سے مخصوص ہوئے جن کا شیوہ و پیشہ شب و روز تحقیق و تفتیش کے سوا کچھہ اور نہ تھا انھون نے بعد تحقیق و تفتیش کے غوامض

علوم ودقائق حکم وعجائب وغرائب آثار پادشاہ کے رو برو بیان کیئے کہ انکے مجمل ومفصل بیان کو دفاتر مطول بھی ادا نہین کر سکتے۔ پادشاہ نے ہر ایک کی راے کو جمع کیا خصوصًا اُن آدمیون کو جو مسلمان نہ تھے ان مین سے جو باتین اس کو اپنی طبیعت کے موافق پسند آئین انکو انتخاب والتقاط کیا جنکو اپنی مرضی کی خواہش کے خلاف دیکھا انسے احتراز واجتناب کیا۔ لڑکپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک کل مذاہب متنوعہ ومشارب مختلفہ سے پادشاہ کی متنوعہ حالتین ہوئین کتابون مین جو متعارف باتین دیکھی اور پڑھی جاتی ہین انکے سواے پادشاہ کو ایک معرفت جداگانہ جو اسکی ذات کے ساتھ مخصوص تھی حاصل ہوئی تھی اور ایک اعتقاد کی ہیولانی پیکر اسکے مرآۃ ضمیر اور گنجینۂ خیال مین مرتسم تھی اور کل رایون سے اسکے دل مین یہ نقش کالحجر ہوا تھا کہ کل ادیان مین عقلا موجود ہین اور ارباب ریاضات وکشف وکرامات کل طوائف انام مین پیدا ہوئے ہین جب حق سب جگہہ دائر ہے تو اس کا انحصار اُس ایک دین وایک ملت پر کہ نو پیدا ہوا ہو اور ہزار سال بھی اسپر نہ گذرے ہون کیا لازم ہے ایک کا اثبات اور دوسرے کی نفی ترجیح بلا مرجح کیون ہو۔

(سمانی سندہ مین ایک فرقہ ہے جو تناسخ کا قائل ہے اور برہمن جو پادشاہ کی خلوت وجلوت مین ادراک ملازمت ودولت صحبت مین سب پر سبقت رکھتے تھے اور کتب فضائل وعلوم رسمی وحقیقی وحالات ومقالات وکمالات انسانی مین بجمیع وجوہ باعتبار معتبر کل داناؤن ومرتاضون پر فائق تھے انھون نے اپنے دین کے صدق پر اور اورون کے دین کے بطلان پر دلائل عقلیہ وشواہد نقلیہ بیان کین اور نظریات کو بدیہات کے حکم مین کر دیا اور اس نے پادشاہ مین ایسا اعتقاد راسخ پیدا کیا کہ وہ کسی مشکک کی تشکیک سے زائل نہین ہو سکتا تھا۔ اگر پہاڑ چور چور اور آسمان شق ہو جاتین حشر ونشر اور شبہات ونقلیات جن کا ماخذ مشکاۃ نبوۃ تھا سب کو بالاے طاق رکھا ملت بیضا وحنفیہ غرا پر بعض مطاعن کہ اہل کلام کی کتابون مین مذکور ہین وہ ہمیشہ حریفون نے اسکے گوش زد کیئے اور اپنی زبان حال وقال سے اپنے مسلک پر سلوک کرنے کی تحریص وترغیب دی۔

رباعی

سبداو رقیب آن سہی قد راپند		کاندر رخ ہرکس چوگل از باد مخند
از حد چو بشد نصیحت آن شوخ گرہ		برگوشۂ ابروزد و سرپیش فگند

یعنی مذہبی تحقیقات آدمی کو ایسا برباد کرتی ہے جیسا کہ گل کو باد (جو اسکی پتیان گرا دیتی ہے) پادشاہ نے پرکھوتم برہمن (معبر خرد نامہ یعنی سنگھاسن بتیسی کے مطلب بتلانے والے) کو خلوت مین بلاکر یہ فرمائش کی کہ تمام اشیاء موجودات کے نام وید کے خاص زبان مین انتزاع کرے بعض اوقات اپنے قصر کے قریب جو اسکی خوابگاہ تھی دیبی برہمن کو چارپائی پر بٹھاکر اوپر کھینچا ذریہ معلق کرنا اس سبب سے شاید تھا کہ خواب مین زنانہ کے سبب سے وہ بلا نہین سکتا تھا) یا یہ کہ وہ اور چیزون کے چھونے سے ناپاک نہ ہوجائے) اس سے اسرار و افسانہ ہندؤن کے مذہب کی پوچھتا۔ اور بتون اور آگ و آفتاب کے پوجا کے اور کواکب کے تعظیم کے اور اساطین ہنود کے احترام کے طریقے پوچھتا۔ اساطین ہنود برہما و مہادیو و بشن و کشن رام و مہامائی ہین۔ جن کا بنی نوع انسان سے ہونا تو موہوم ہے اور نہونا متیقن۔ ان مین سے ہنود اپنے زعم باطل مین بعض کو الٰہ بعض کو ملائک مانتے ہین اس دیار کی رسوم و عادات کا اعتبار کرکے بادشاہ اختیار کرتا اور تناسخ کے اعتقاد مین وہ راسخ ہوا اور اس قول کو وہ صحیح سمجھتا کہ کوئی مذہب نہین ہے جسمین تناسخ اپنا راسخ قدم نہین رکھتا۔ خوشامدی جو پادشاہ کا کلمہ بھرتے تھے انھون نے رسالے لکھے جسمین اس مسئلہ تناسخ کو دلائل سے ثابت کیا۔ ہندؤن کے مذہبی فرقے نامعدود ہین اور انکی کتابین بےشمار ہین مگر باوجود اسکے وہ اہل کتاب (یہود۔ عیسائی۔ مسلمان) نہین ہین پادشاہ کو ان کے مذہب کی تحقیقات کا مزہ پڑگیا تھا۔ روز بروز اس خبیث شجر مین ایک نیا پھل لگتا تھا اور تازہ شگوفہ کھلتا تھا شیخ تاج الدین دہلوی ولد شیخ زکریا اجودھنی جسکو اعیان مین سے تاج العارفین کہتے تھے۔ وہ شیخ زمان پانی پتی کے رشید شاگردون مین سے تھا۔ یہ شیخ صاحب شرح لوائح اور بہت سی تصنیفات لائق فائق کا علم تصوف مین تھا اور علم توحید مین

وہ شیخ ابن عربی کا ثانی تھا اسنے نزہت الارواح کی شرح بسوط لکھی ہے کتنے دنون تک راتونکو اسی برہمن کی طرح جس کا بیان اوپر ہوا اس کو معلق اپنے پاس بلاتا ساری رات اہل تصوف کے شطحات و ترہات سنتا تھا وہ چندان شرعی باتون کا مقید نہ تھا اس نے وحدت الوجود کے مقدمات کو جو چھوٹے صوفیون کے اعتقاد مین داخل ہین اور آخر کو وہ اباحت والحاد کو منجر ہوتے ہین پادشاہ کے روبرو بیان کیئے اور فرعون لعنۃ اللہ علیہ کے ایمان کا مسئلہ کہ کتاب فصوص الحکم مین مذکور ہے (فرعون نے دعوے خدائی کیا تھا اسواسطے وہ ملعون ہے مگر فصوص الحکم مین اور بعض اور کتابون مین لکھا ہے کہ فرعون نے موت کے وقت توبہ کی اور حضرت موسی پر ایمان لایا اس لیے وہ دوزخی نہین ہے) بیان کیا اور رجا کو خوف پر ترجیح دی (اسلام کا عقیدہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا) ایمان خوف و رجا کے درمیان ہے اس سببسے یہ گناہ ہے کہ خوف کو رجا پر یا رجا کو خوف پر ترجیح دین) اور اسی طرح کے مسئلے کہ جنپر آدمی بالطبع زاجر عقلی و مانع شرعی سے قطع نظر کرکے مائل ہوتے ہین پادشاہ کی خاطر نشان کیے اسلیئے وہ باعث عظیم پادشاہ کے اعتقاد کے فتور کا احکام شرعی مین ہوا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کفار کا نار مین ہمیشہ رہنا تحقیق لیکن ان کو دوام عذاب کا ہونا مشتبہ و نامشخص اور نصوص قرآنی اور حدیث نبوی مین تاویلات کین اور انسان کامل عبارت خلیفۃ الزمان سے بتلائی اور اسکی تعبیرسے یہ نتیجہ نکالا کہ پادشاہ کی ذات اقدس سے اسی طرح کی جو باتین عین واجب تھین انکو عکس کرکے سمجھایا اور اس باب مین بہت خرافات بکا اور پادشاہ کے واسطے سجدہ تجویز کیا اور اس کا نام زمین بوس رکھا اور ادب پادشاہی کی رعایت کو فرض عین شمار کیا اور اسکے منہ کو کعبہ مرادات اور قبلہ حاجات قرار دیا اور اس باب مین بعض روایات مجروحہ اور بعض مشایخ ہند کے مریدون کے عمل کو متمسک کیا بعد ازان کہ پادشاہ عادل ذی شوکت و ذی شان انسان کامل کی فرد مطلق قرار پایا تو مشایخ عظام مین سے بعض نے جیسے کہ شیخ یعقوب کشمیری تھا کہ صاحب تصانیف مشہورہ و مرشد و مقتدا ار عصر تھا۔ ایسی ہی باتین بنائین اور عین القضاۃ ہمدانی کی تمہیدات

باتوں کو نقل کیا کہ آنحضرت مظہر اسم الہادی تھے اور شیطان اسم المضل کا مظہر ہے اس دنیا کے کارخانہ میں دونوں مظہروں کا ظہور ہوا۔ ان دونوں مظہر کا ہونا ضرور تھا (اسلام میں خدا کو خالق خیر و شر مانتے ہیں اسلیے خدا ہی کو ہادی اور مضل سمجھتے ہیں) اور اسی طرح ملا محمد یزدی بھی معلق بادشاہ پاس پہنچے وہ طعن صریح اور ناسزاے قبیح خلفاء ثلاثہ پر کہتا اور صحابہ کبار و تابعین و تبع تابعین و سلف و خلف صالحین متقدمین و متاخرین کی تکفیر و تفسیق کرتا اور اہل سنت و جماعت کی تحقیر کرتا اور مذہب شیعہ کے سوا سب مذہبوں کو خیال و مضل تبلاتا۔ علماء میں یہ اختلاف تھا کہ اگر ایک فعل کو ایک ملّا حرام کہتا تو دوسرا اُس کو حیلہ بنا کے حلال کہتا اسیسبب سے بھی بادشاہ منکر مذہب ہوا۔ بادشاہ اپنے عہد کے علماء کو باعتبار جاہ و عظمت کے امام غزالی اور امام رازی سے بہتر جانتا تھا۔ جب انکی ان رکاکتوں کو دیکھا تو اس نے سلف پر بھی یہ قیاس کیا اور اس سے منکر ہوا۔

ملک فرنگ کے بھی مرتاض دانا جنکو پادھری اور انکے مجتہد کامل کو پوپ کہتے ہیں بادشاہ پاس آتے تھے۔ یہ پوپ احکام مذہبی کو مصلحت وقت کی رعایت کرکے بدلتے رہتے تھے اور بادشاہ بھی انکی عدول حکمی نہیں کرسکتا تھا وہ بھی انجیل کو لاکر ثالث ثلاثہ کی دلائل گزارش کرنے لگے اور نصرانیت کی حقیقت کو ثابت کرکے ملت عیسوی کو ترویج دیتے تھے شاہزادہ مراد کو حکم ہوا کہ چند کلمے انجیل کے تیمناً پڑھے شیخ ابوالفضل اسکے لیے مترجم مقرر ہوا۔ پہلا فقرہ جو بطور بسم اللہ کے تھا اس کا ترجمہ یہ ہوا مصرعہ اے نام وے ژزو کرستو۔ (ژزو جنس اور کرسٹو یعنی عیسیٰ مسیح) یعنی اے وہ کہ نام تیرا مہربان اور بسیار بخش ہے۔ شیخ فیضی نے اسپر دوسرا مصرعہ یہ لگایا مصرعہ سبحانک لاسواک یا ہو (ہم تیری تعریف کرتے ہیں تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے) یہ ملاعین عیسائی آنحضرت کو دجال بتاتے اور اسکی صفات کو انکی ذات میں بتاتے جو دجالین سے ضد رکھتی تھیں۔ بیربل ملعون نے بادشاہ کی خاطرنشان کیا کہ آفتاب خدا کا مظہر تام ہے و غلہ کا بکنا و زراعت و میوہ و سبزہ اسی کی تاثیر سے ہوتے ہیں اور عالم کی روشنی و اہل عالم کی زندگی

اسی سے وابستہ ہی پس تعظیم اور عبادت کے لائق وہ ہی۔ نیاز ش میں اسکے طلوع کی جانب منہ کرنا چاہیئے نہ اُسکے غروب کی طرف فیضی نے شعر کہا ہی۔

شعر

قسمت نگر کہ درخور ہر جوہری عطاست ۔۔۔ آئینہ با سکندر و با اکبر آفتاب

ایسی ہی دلیلوں سے بیربل نے بتلایا کہ آتش و آب سنگ و درخت اور تمام مظاہر کی یہاں تک گائے اور اسکے گوبر کی بھی پرستش کرے اور قشقہ لگائے اور زنار پہنے۔

حکما اور فضلا، جو پادشاہ کے مقرب اور خدا کے مقہور تھے ایسے دلائل بیان کرتے جس سے اوراوپر کی باتوں کو تقویت ہوتی وہ کہتے تھے کہ آفتاب نیر اعظم ہی اور تمام عالم کا عطیہ بخش اور پادشاہوں کا مُربی ہی اور وہی پادشاہوں کی قدرت کی اصل ہی۔ یہی سبب تھا کہ نوروز جلالی کی تعظیم ہوتی تھی۔ جب سے پادشاہ تخت پر بیٹھا تھا ہر سال اس روز پادشاہ جشن کرتا تھا ہر روز پادشاہ لباس اُسی خاص رنگ کا پہنتا تھا جو اُس دن کے ستارہ کا ہوتا تھا۔ ہر ستارہ ایک دن سے منسوب ہوتا ہی۔ ہندوؤں نے اُسکو تسخیر آفتاب کا عمل سکھایا تھا اسکو بطور وظیفہ کے آدھی رات (یا شام) کو ہر روز طلوع آفتاب کے وقت پڑھتا تھا اسکو یہ بھی یقین تھا کہ گائے کا مارنا گناہ ہی جسکی ہندو تعظیم کرتے ہیں۔ وہ اسکے گوبر کو پاک اور اسکے گوشت کو حرام جانتے ہیں۔ گایوں کی عوض میں آدمیوں کو خوب مارتے تھے۔ حکما اسکی تائید میں کہتے ہیں کہ علم طب نے فیصلہ کر دیا ہی کہ گائے کے گوشت کھانے سے امراض پیدا ہوتے ہیں اور وہ ردی الہضم ہی۔

ملک گجرات کے شہر نوساری سے آتش پرست بھی پادشاہ پاس آئے تھے اُنھوں نے زردشت کے دین کو حق دکھلایا آتش کی تعظیم کو عبادت عظیم بتلایا اور پادشاہ کو اپنی طرف مائل کر کے کیانیوں کی اصطلاحوں و راہ روش سے ایسا واقف کیا کہ پادشاہ نے ابوالفضل کو اسکا مہتمم مقرر کیا کہ شاہان عجم کی طرح پر آتش کدہ میں رات دن آگ روشن کرے کبھی نہ بجھنے پائے۔

آتش پرستی کی رسوم

بادشاہ عنفوان شباب سے حرم میں ہوم کیا کرتا تھا۔ ہوم بھی ایک قسم کی آتش پرستی ہے۔ یہ کام اس کا اس سبب سے ہوتا تھا کہ اسکو اپنی ہندی بیویوں سے محبت بہت تھی پچیسویں سال کے جلوس کے نوروز میں بادشاہ نے آفتاب اور آگ کو سجدہ علانیہ کیا اور مقربوں نے شمع و چراغ روشن ہونے کے وقت انکی تعظیم کے واسطے کھڑا ہونا اپنے اوپر لازم جانا جب سورج کنیا میں جاتا تو اسٹمی کو پوجا کے بعد ماتھے پر بادشاہ قشقہ لگا کے دولتخانہ میں آتا اور برہمن راکھی جسمیں جواہرات پروئے ہوتے اسکے ہاتھ میں باندھتے اُمرا اپنی حالت کے موافق موتی اور جواہر اس روز پیش کرتے اور بادشاہ کی طرح راکھی باندھتے۔ راکھی باندھنے کا رواج عام ہوگیا تھا (راکھی کے معنی لتہ کو لپیٹ کر ہاتھ میں باندھنے کے ہیں) اسلام کے برخلاف جو حکم کہ اور مذہبوں کے آدمی بیان کرتے اُسکو بادشاہ نص قاطع گنتا۔

اکبر کی مخالفت اسلام

اسلام کے تمام احکام کو نامعقول اور حادث جانتا اور نقہا رعب کو جو انکے واضع تھے بہت مفسد اور اقطاع الطریق سمجھتا اسکے نزدیک اہل اسلام مطعون قرار پائے اور آخر کو وہ ان لوگوں میں سے ہوگیا جنکی نسبت قران میں آیا ہے جسکا ترجمہ یہ ہے (وہ اپنی پھونک سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر خدا اپنے نور کو کامل کریگا گو کافر اس سے کارہ ہوں) بتدریج یہانتک نوبت پہنچی کہ اسکی ضرورت کچھ نہ رہی کہ اگر کوئی اسلام کی بات باطل ٹھہرائی جائے تو اسکی دلیل لائی جائے۔

بادشاہ کا خطبہ پڑھنا

۹۹۷؁ھ بادشاہ اس کا طالب ہوا کہ ریاست دینی کو اپنی ریاست دنیوی کے ساتھ جمع کرے اسکو دوسرے کی تبعیت سخت تکلیف دیتی تھی اس نے سُنا تھا کہ آنحضرت اور خلفاء راشدین اور بعض سلاطین ذوی الاقتدار مثل امیر تیمور اور مرزا الغ بیگ خاں گورکان وغیرہ بھی خطبہ خود پڑھا کرتے تھے۔ غرہ جمادی الاول ۹۹۷؁ھ فتح پوری کی جامع مسجد میں کہ محل شاہی کے نزدیک تھی ممبر پر خطبہ پڑھنے بادشاہ بیٹھا اور ایک بارگی اسکے بدن پر لرزہ آیا اور بہت پریشان ہو کر شیخ فیضی کی یہ تین بیتیں اوروں کی مدد

سے آدمی پڑھکر منبر سے نیچے آیا اور حافظ محمد امین خطیب کو حکم فرمایا کہ امامت کرے اور وہ بیتیں یہ ہیں :-

ابیات

خداوندیکہ مارا خسروی داد ‌ ‌ ‌ دل داناؤ بازی قوی داد
بعدل و داد مارا رہنموں کرد ‌ ‌ ‌ بجز عدل از خیال ما بروں کرد
بود وصفش زحدِ فہم برترا ‌ ‌ ‌ تعالیٰ شانہ اللہ اکبر

عقائد اسلام پر طعن اور مسائل فرعیہ شائع ہو رہے تھے چند بد بخت ہندو اور ہندو مزاج مسلمان نبوت پر قدح صریح کرتے تھے۔ علما بیدین اپنی تصنیفات میں خطبہ پر تبرا کرنے لگے اور فقط توحید پر اکتفا کر کے بادشاہ کے القاب لکھنے لگے اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے کے برخلاف کذابین (بدایونی کی مراد کذابین سے ابوالفضل اور فیضی تھے) ابوالفضل نے تو آئین اکبری کا خطبہ اس طرح لکھا ہی جس طرح اس نے بیان کیا ہی۔ مگر فیضی پر یہ تہمت رکھی ہی نلدمن میں نعت جسکا جی چاہے پڑھ لے) مجال نہ تھی اور یہ بدنامی عالم کا باعث ہوا۔ ملک میں فتنہ وفساد ہونے لگا مگر باوجود اس کے خواص وعوام میں سے رذیل اور کمینے آدمیوں نے اسکی ارادت کا پٹہ گلے میں ڈالکر اپنا نام مریدرکھا امید وترس سے مرید ہوتے تھے اور کلمہ حق زبان پر جاری ہونا ممکن نہ تھا۔

۹۸۷ھ میں ایک محضر نظر آیا کہ جسپر دستخط ان عالموں کے لیے ہوئے تھے۔ مخدوم الملک و شیخ عبد النبی کہ صدر الصدور تھا و قاضی جلال الدین ملتانی کہ قاضی القضاۃ تھا۔ صدر جہاں مفتی کل و شیخ مبارک کہ علماء زماں میں اعلم تھا اور غازی خاں بدخشی کہ علم معقول میں بےنظیر تھا۔ اس محضر میں امام عادل کو مطلقاً مجتہد پر تفضیل دی گئی تھی اور اسکی ترجیح کی تجویز کو مسئلہ مختلف فیہ میں ضعیف روائتوں سے درست کیا تھا تاکہ کسی کو مجال نہ رہے کہ اس کے احکام سے انکار کرے۔ خواہ شرعی ہوں یا ملکی اور خود ہی اپنے تئیں ملزم کرے مگر محضر بننے سے

خاتون کے خطبوں میں نعت کا موقوف ہونا

بادشاہ کا مجتہد ہونا

اس بات میں طول بہت ہوگیا۔ بحث یہ تھی کہ اجتہاد و مجتہد کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے اور امام عادل دانائے مصالح ملکی کو کہ بمراتب مجتہد سے بہتر ہوتا ہے یہ منصب حاصل ہے کہ بحسب مصلحت وقت اور اقتضاء زمان مسئلہ مختلف فیہ (جس مسئلہ میں اختلاف آرا ہو) کو جاری کرے آخر کو اس تحریر پر جسکا بجنسہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔

بعض نے رغبت سے بعض نے کراہت سے مہر کر دی۔ اس مبانی کی تشئید سے اور اس معانی کی تمہید سے مقصود یہ ہے کہ عدالت سلطانی اور تربیت جہانبانی کی برکتوں سے ہندوستان امن امان کا مرکز اور عدل و احسان کا دائرہ بنگیا ہے اس میں طوائف انام کے خواص عوام نے خصوصاً علماء عرفان شعار و فضلاء دقائق دثار کے جو ہادیہ نجات کے ہادی ہیں عرب عجم سے اس دیار میں آنکر اپنا توطن اختیار کیا ہے اور علماء نے کہ جامع فروع واصول اور حاوی معقول و منقول ہیں اور دین و دیانت و صیانت سے موصوف ہیں اس آیہ کریمہ اطیعو اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (اطاعت کرو خدا کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو انکی جو تم میں اولی الامر (صاحب حکومت ہیں) کے غوامض میں اور اس حدیث صحیح میں ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ امام عادل من یطیع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی (تحقیق خدا قیامت کے دن سب سے زیادہ دوست رکھتا ہے امام عادل کو اور جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے اور جو کہ اس سے پھرتا ہے وہ مجھ سے پھرتا ہے) اسی طرح کی اور حدیثوں کے معنی میں تامل کافی کرکے اور شواہد عقلیہ و دلائل نقلیہ سے یہ حکم دیا کہ سلطان عادل کا مرتبہ عند اللہ مجتہد سے زیادہ ہے اور حضرت سلطان الاسلام کہف الانام امیر المومنین ظل اللہ علی العالمین ابوالفتح جلال الدین محمد اکبر شاہ پادشاہ غازی خلد اللہ ملکہ ابداً نہایت عادل نہایت عاقل اور نہایت عالم باللہ ہے اسلیے اگر مسائل دین میں مجتہدین کے درمیان اختلاف واقع ہوا اور وہ اپنے ذہن ثاقب فکر صائب سے اختلافات میں سے ایک جانب کو بھی آدمی کی تسہیل معیشت کے لیے اور کبھی انتظام عالم کی مصلحت کے واسطے اختیار

کر کے اس جانب کا حکم فرمائے تو وہ متفق علیہ ہو جائینگے اور اتباع اسکا عوام برایا اور کافہ رعایا پر لازم اور فرض ہوگا اور ایسی ہی اگر اپنی رائے صواب نما کے بموجب کوئی حکم جو مخالف نص قرانی کا نہ ہو اپنے احکام میں قرار دیں اور اس سے اہل عالم کی ترفیہ ہوتی ہو تو اُسپر عمل کرنا سب آدمیوں پر لازم اور فرض ہے اور اس سے مخالفت کرنی عذاب اخروی اور خسران دنیوی کا سبب ہوگا یہ سچی تحریر حسبۃ اللہ اور حقوق اسلام کے اجرار کے اظہار کے لیے بموجب محضر علمار دین اور فقہار مجتہدین کے تحریر پایا محررہ شہر رجب ۹۸۷؁ھ اس محضر کا مسودہ شیخ مبارک کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اوروں نے اسپر کراہت سے تحریر کی تھی مگر شیخ مبارک نے رغبت سے اُسکے نیچے یہ لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا امر ہے کہ میں اسکا دل و جان سے خواہاں اور برسوں سے منتظر تھا۔ جب بادشاہ کو یہ فتوی ہاتھ لگا تو اجتہاد کی راہ اسکے لیے کھُل گئی اور امام کا زیادہ عاقل ہونا متحقق ہوگیا اور کوئی اسکا معارض نہیں رہا اور تحلیل و تحریم یعنی (حلال و حرام ہونا) موقوف ہوئی اور حکم شرع پر امام کی عقل کو ترجیح ہوگئی۔ اسلام کا نام تقلید ہوگیا اور شیخ ابو الفضل کا حال بعینہ حیرتی شاعر سمرقندی کا سا ہوگیا کہ جب ماورار النہر والوں سے ایذا پائی تو وہ ان سے مخالف ہو کر عراق کی پرانی لومڑیوں میں مل گیا راہ بیراہ چلنے لگا۔ یہ ضرب المثل اسپر صادق آنے لگی آخرت النار علی العار (دوزخ کی آگ کو اختیار کیا اور دنیا کی عار نہ اُٹھائی)

اسی سال کی ۱۶ رجب کو بادشاہ اجمیر روانہ ہوا اسکے بعد اتنک کہ چودہ سال ہوئے پھر وہاں نہیں گیا۔ ۲۵ شعبان کو وہ اجمیر سے پانچ کوس پر پیدل ہو کر زیارت کے لیے گیا۔ عاقل ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تعجب کی بات ہے کہ بادشاہ کو خواجہ اجمیری سے تو یہ اعتقاد ہے اور جو اصل الاصول (پیغمبر) ہے اُس سے انکار جسکے گوشہ دامن سے لاکھوں ولی کامل مکمل مثل خواجہ قدس سرہ اُٹھے اور ہر گوشہ میں موجود ہیں

بادشاہ کی اجمیر میں ... پیادہ حاضر

قطعہ

پری نہفتہ رو و دیو در کرشمہ و ناز
بسوخت دیدہ حیرت کہ این چہ بوالعجبی است

دریں چمن گل بے خار کس نہ چید آرے
چراغ مصطفوی با شرار بولہبی است

تقلید ۵

جب ۹۸۷ھ میں مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی مکہ کو چلے گئے تو اُس نے خلق کا امتحان کیا خلق قرآن واستحالہ وحی کے توغل میں اور نبوات و امامات (جو باتیں امامت سے تعلق رکھتی ہیں) کی تشکیک میں جن و ملک اور تمام مغیبات (جو چیزیں دکھائی نہیں دیتیں) و معجزات و کرامات کا صریح انکار کیا اس نے ایمان کی متواتر شہادتوں اور قرآن کی صداقت کے ثبوت سے انکار کیا اور اضمحلال بدن کے بعد بقار روح اور اسکے عذاب و ثواب کو بغیر از طریق تناسخ محال کہا اور ان ابیات کو دستاویز بنایا:

مثنوی

از حقیقت بدست کورے چند ۔۔۔ مصحفے ماند و گورے چیند
گو ز بانش سخن نمے گوید ۔۔۔ سرفتر ان کسے نمے جوید

ایضاً مستزاد

عید آمد و کارہا نکو خواہد کرد ۔۔۔ چوں روے عروس
ساقی مئ ناب درسبو خواہد کرد ۔۔۔ چوں خون خروس
افسار نماز و پوزبند روزہ ۔۔۔ یک بار دگر
از گردن ایں خران فرو خواہد کرد ۔۔۔ افسوس افسوس

یہ قرار پایا کہ علانیہ لوگ اس کلمہ کو پڑھیں لا الٰہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ مگر اس نے اسمیں دیکھا کہ بڑا خلل پیدا ہوگا۔ اس نے اپنی حرم میں چند آدمیوں کے کہنے پر اکتفا کی۔ لوگوں نے فتنہا است اسکی تاریخ کہی۔ بادشاہ نے قطب الدین خاں و شہباز خاں اور انکے امثال کو دین مبین کی تقلید ترک کرنے کی ترغیب دی۔ مگر اُنھوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا۔ قطب الدین خاں نے کہا کہ بادشاہان مغرب جیسے کہ سلطان قسطنطنیہ اور اور بادشاہ ہیں جب یہ حال سُنینگے تو کیا کہیں گے سب یہی دین رکھتے ہیں خواہ تقلیدی ہو یا نہ ہو۔ بادشاہ نے ازروئے اعراض و تعرض کے فرمایا کہ تو سلطان روم کی طرف سے غائبانہ یہ درشتی کرتا ہی تو نے

قطب الدین خاں و شہباز خاں کا مقابلہ مذہب کے باب میں

گیا کوئی جگہ اپنے لیے وہاں تجویز کی ہو کہ جب وہاں جائیگا تو تجھکو ملجائیگی اور اس سے تیرا اعتبار
پیدا ہو جائیگا تو ابھی وہاں چلا جا۔ شہباز خاں نے بھی اس باب میں تیزی و تندی اختیار کی
بیربر سگ جہنمی نے بھی دین پر صریح طعن کی تو اس نے اسکو فحش گالی دیکر کہا کہ اے کافر ملعون
اب تو بھی ایسی باتیں کہنے لگا تجھ سے تو میں ابھی سمجھ لونگا۔ غرض بڑی بیمزگی ہوئی۔ بادشاہ
نے عموماً اور شہباز خاں سے خصوصاً بطور اجمال فرمایا کہ ہم حکم دیتے ہیں کہ تمہاری بستر پر
نجاست بھری جوتی لگانی چاہیے۔

اسی سال میں تمغا و جزیہ جسکی آمدنی کئی کروڑ داموں کی تھی بادشاہ نے موقوف کردیا
اور ملک میں اسکے باب میں تاکیدی فرامین بھیجدیے۔

اس سال میں محمد معصوم خاں فرنخودی جونپور میں حاکم اور ملا محمد یزدی یہاں کا قاضی القضات
مقرر ہوا۔ یہ ملا صوبہ جونپور میں آیا اس نے بادشاہ کے خارج کرنے کا اور اس سے
بغاوت کرنے کا فتویٰ دیا تو معصوم خاں کابلی و محمد معصوم خاں فرنخودی و میر معز الملک
و نیابت خاں و عرب بہادر تلواریں سونتکر ہر جگہ لڑنے کو کھڑے ہوئے (جنکی بڑی بڑی
لڑائیوں کا ذکر ہم نے پہلے لکھا ہے) ائمہ کہنے لگے کہ بادشاہ نے ہماری مدد معاش
کی زمین میں دخل دیا۔ خدانے اسکے ملک میں دخل دیا ارحم ترحم۔ جب بادشاہ کو
ملا یزدی کے فتوے کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے اسکو اور معز الملک کو جونپور سے
آگرہ بلایا اور ان کو جمنا میں ایک کشتی میں بٹھا کر ڈبوایا۔ جن ملازموں سے اسکو بد اخلاصی
کا توہم پیدا ہوا اوران کو نہاں خانہ عدم میں بھیجا۔ علمائے لاہوری کو جلاوطن کیا۔ قاضی
صدر الدین لاہوری کو جسکی تحقیق مخدوم الملک سے بڑھی ہوئی تھی بھروچ کی قضا پر اور ملا عبد الشکور کو
جونپور اور ملا محمد معصوم کو بہار میں نامزد کیا شیخ غفور کو مالوہ میں جلاوطن کیا اس صوبہ کی
صدارت اس کو دی۔ یہی قیاس اوروں پر کرنا چاہیے کہ ہر یک کو غریب مقتضی المرام
بنایا۔ مگر ہاں شیخ معین الدین نبیرہ مولانا معین واعظ شہر کو کہ مقلد محض تھا

بسبب کبرسن کے بدستور رہنے دیا۔

حاجی ابراہیم سرہندی نے ایک سالہ جسمیں بزرگان دین کی جھوٹی نقلیں تھیں خوشامد کے مارے پادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس کا جعل ظاہر ہوگیا۔ حاصل یہ تھا کہ اس پرانی کیڑے کھائی ہوئی کتاب میں ایک عبارت جعلی شیخ عربی کی طرف سے بخط مجہول لکھی ہوئی تھی کہ صاحب زماں (امام مہدی) بہت سی بیویاں کرینگے اور ڈاڑھی منڈائیں گے۔ اور چند اور صفتیں جو خلیفۃ الزماں (اکبر) میں تھیں انکو لکھا (اس نے پادشاہ کو امام مہدی بنایا) پادشاہ نے اسپر بہت عنایت کی۔ اس لیے یہ ایک حدیث موضوع کی کہ کسی صحابی کا بیٹا ڈاڑھی منڈا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سے گذرا تو آنحضرت نے فرمایا کہ اہل بہشت کی یہی ہیات ہو گی۔ مگر شاہ فتح اللہ اور شیخ ابوالفضل اور حکیم ابوالفتح سے وہ دلیرانہ گفتگو کرتا تھا۔ اسکو پادشاہ پاس انھوں نے ٹھہرنے نہیں دیا قلعہ رنتنبھور میں بھیجا گیا وہاں ۹۹۴ھ میں مرگیا۔

اطراف کے علما و مشایخ و مقتدا پاس فرمان بھیجے گئے کہ وہ پادشاہ کی درگاہ میں آئیں کہ خود پادشاہ انکی مدد معاش اوقات کی تحقیق کرے ان سب نے موافق قاعدے کے پادشاہ کی تسلیم و تعظیم کی اور اسکے ساتھ خلوت و جلوت میں صحبت رکھی اور اپنی رائے کے موافق انکے لیے زمین مقرر کی اور جس کسی کو اسنے یہ جانا کہ مرید کرتا ہے یا مجلس سماع یا کسی اور نوع کی قلابی کرتا ہے تو اسکا نام دکانداری رکھا اور انکو قلعوں میں چڑھا دیا یا بنگالہ کی جانب بھیجدیا۔

۹۸۸ھ میں پادشاہ پاس علما و مشائخ و صوفی بہت سے ایسے خوشامدی ولالچی آئے کہ جن پر یہ رباعی صادق آتی تھی۔

رباعی

پوشیدہ مرقع اند ایں خامے چند • بگرفتہ بطامات و الف لامے چند
نارفتہ رہے صدق و صفا گامے چند • بدنام کنندۂ نکونامے چند

حاجی ابراہیم سرہندی کا ایک جعلی کتاب کا پیش کرنا

علما و مشائخ کا پاس فرمانوں کا جانا

پادشاہ کا امام مہدی بننا

انکی حرکات دیکھکر بادشاہ پہلے بزرگوں پر بدگمان ہوگیا۔ اسی سال میں ذیل کمینے جاہل عالم نما
نے دلائل باطل کو اتنا بلند کیا کہ یہ کہا کہ صاحب ماں (امام مہدی) ہندو اور مسلمان کے بہتر
فرقوں کے خلاف و اختلاف کا دور کرنیوالا ہے وہ بادشاہ ہے محمود سخوانی کے رسالوں سے
شریف یزدی نے استشہاد کر کے یہ تصریح کی کہ ۹۰۹ھ میں ایک باطل بر دارندہ پیدا ہوگا اسکی
تعبیر سب نے صاحب دین حق شخص کی ہے۔ جو بحساب جمل نو سو نو میں پیدا ہوا ہے خواجہ مولانا شیرازی
ملحد جفر داں مکہ معظمہ سے وہاں کے شرفا کا ایک رسالہ اس باب میں لایا کہ احادیث صحیحہ کے
موافق دنیا کی عمر سات ہزار سال کی ہے اب وہ سپری ہوئی اب مہدی موعود کے ظہور کا
وقت ہے اور خود بھی ایک رسالہ تصنیف کر کے بادشاہ کے روبرو پیش کیا اور اسی طرح کے خرافات
شیعوں نے حضرت علیؓ سے نقل کیے اور بعض نے یہ رباعی پڑھی جو حکیم ناصر (ناصر خسرو پانچویں صدی
کا شاعر ہے وہ شیعہ آزاد خیال تھا اسکے اشعار اکبر کے زمانہ میں بہت پڑھے جاتے تھے) سے
یا کسی اور شاعر سے منسوب کی جاتی ہے۔

رباعی

درنہ صد و ہشتاد و نہ از حکم قضا — آیند کواکب از جوانب یک جا
در سال اسد ماہ اسد روز اسد — از پردہ برون خرامد آں شیر خدا

غرض اس سے بادشاہ کو نبوت کا خیال ہوا اور پھر اس سے آگے بڑھکر خدا ہونے پر نوبت پہنچی۔
بادشاہ نے ایکدن مجلس میں اہل مجلس سے پوچھا کہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ عاقل کون ہے اسمیں
بادشاہوں کا نام نہ لیا جائے کہ وہ مستثنیٰ ہیں۔ ہر ایک شخص نے اپنے معتقد کا نام لیا حکیم ہمام
نے خود اپنے تئیں سب سے زیادہ عاقل بتلایا اور ابوالفضل نے اپنے باپ کو۔ انہیں دنوں میں یہ
چہار مراتب اخلاص بادشاہ نے مقرر کیے ترک مال و جان و ناموس و دین۔ جو ان چاروں
کو بادشاہ پر قربان کرے اسکو چار مرتبہ دیئے جائیں جو ایک کرے اسکو ایک درجہ اور
علیٰ ہذا القیاس۔ کل اہل مجلس نے اپنا نام لکھایا کہ ہم بادشاہ کے مرید مخلص ہیں۔

شیخ قطب الدین جلیسری کو کہ ایک مجذوب خراباتی تھا بادشاہ نے شیخ جمال بختیار کو بھیجکر بلایا
فرنگیون سے اسکی بحث کرائی اور ارباب عقل و اجتہاد زماں کو بھی بلا کر حاضر کیا شیخ نے
کہا کہ آگ خوب بھڑکتی ہوئی روشن کرو جسکے اندر میں مع اپنے معارض کے داخل ہوں جو کوئی
اس آگ سے سلامت نکل آئے وہی حق پر سمجھا جائے۔ آگ روشن ہوئی شیخ نے ایک فرنگی کی
کمر میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ بسم اللہ ہم تم آگ میں چلیں مگر کسی فرنگی کی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ شیخ
کے ساتھ آگ میں جاتا بادشاہ کو اس فقیر پر رشک ایسا تھا کہ اُس کو مع اور چند فقیروں کے بھکر
میں بھجوا دیا جہاں وہ سب مر گئے اسی طرح بہت سے مشائخ اور فقراء کو اور مقاموں میں بھیجدیا
اور اکثر کو قندھار بھیجا۔ اور انکی عوض میں گھوڑے منگائے اسی زمانہ میں ایک جماعت تھی کہ مرید
کرتے تھے اور الہیان مشہور تھی۔ چھوٹے بڑے بیہودہ لغو مہمل باتیں بکتے تھے اسکو گرفتار کرکے
بادشاہ کے روبرو لائے جب بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ان خرافات سے توبہ کی ہے تو انھوں نے
کہا کہ توبہ ہماری لونڈی ہے اسی طرح شریعت و دین اسلام اور روزہ کے جدا جدا نام اختراع
کرکے رکھے وہ بادشاہ کے حکم سے بھکر و قندھار بھیجے گئے اور سوداگروں سے انکی عوض میں
ترکی نژاد بچھیرے گھوڑوں کے لیے گئے۔

بادشاہ کا مذہب کے باب میں عمل کرنا سنہ ۹۹۰

بادشاہ نے اپنے زعم میں یہ ٹھیرا لیا تھا کہ آنحضرت کے بعثت کے زمانہ سے ہزار سال گذر گئے یہی
مدت اس دین کے بقا کی تھی وہ تمام ہوئی اور اب مخفی دعوے جو اسکے دل میں تھے انکے اظہار
کا مانع کوئی نہیں ہے۔ وہ مشائخ علماء کہ صلابت و ہیبت رکھتے تھے اور جنکا پاس و ملاحظہ کرنا ضرور
تھا انکی بساط بھی خالی ہوگئی تھی اسلیے فراغ خاطر سے احکام و ارکان اسلام کے ابطال کے درپے
بادشاہ ہوا اور نئے ضوابط و قواعد مہمل و مختل مقرر کیے اعتقاد کے افساد کو رواج دیا۔ سب سے
اوّل یہ حکم دیا کہ سکہ میں تاریخ الف (ہزار) لکھی جائے اور آنحضرت صلعم کی وفات سے تاریخ الفی یعنی
ہزار سال رحلت (ہجرت) سے لکھائے جائیں نصایح و حکم کے لیے عجیب غریب اختراع ہوتے
تھے اس نے جو حکم ابداع کیے انمیں عقل حیران ہوتی ہے۔ انمیں سے ایک یہ تھا کہ بادشاہوں کے

آگے سجدہ کرنا لازمی ہے مگر اس سجدہ کا نام زمین بوس لیا جائے۔ دوسرا شراب اگر بدن کی آسودگی کے لیے بطریق اہل حکمت پی جائے اور کوئی اس سے فتنہ و فساد نہ پیدا ہو تو مباح ہے برخلاف اسکے اگر کوئی شخص شراب پیکر بدمست ہوتا اور اسکے گرد بھیڑ لگتی اور غوغا ہوتا تو اسکو بڑی سیاست وہ کرتا عدالت کی رعایت سے ایک شراب فروشی کی دُکان دربار کے دروازہ پر مقرر کی اور اس دربان کی خاتون کو اُس دُکان کا اہتمام سپرد کیا کہ اصل و نسل میں تمار تھی۔ شراب کا نرخ مقرر کیا تاکہ جو شخص بیماری کے علاج کے لیے شراب خریدے تو اپنا نام اور باپ دادا کا نام مشرف سے لکھا کر دکان پر لیجائے آدمی اس حیلہ سے نام لکھا کر شراب لیجاتے تھے۔ سچ جھوٹ کی کون تحقیق کرتا تھا شراب کی ایک دُکان شرابیوں کے لیے کھولی گئی۔ کہتے ہیں شراب کی ترکیب اجزا میں لحم خنزیر (سور کا گوشت) بھی داخل تھا واللہ اعلم۔ باوجود اس احتیاط کے فتنہ و فساد برپا ہوتے تھے۔ ہرچند ایک جماعت کو نرد اس جرم میں عقوبت و ایذا دی دیجاتی تھی مگر کوئی اس کا نتیجہ مرتب نہیں ہوتا تھا۔ یہ از قبیل کج دار و مریز تھی اور ممالک محروسہ کی فاحشیں جو بادشاہ کے تخت کے نیچے جمع ہوئیں وہ حد و عد کے حصر سے باہر تھیں انکو شہر سے باہر آباد کیا اور انکی آبادی کا نام شیطان پورہ رکھا اور وہاں بھی محافظ داروغہ اور مشرف مقرر کیے تاکہ جو شخص اس جماعت سے صحبت رکھے یا اپنے گھر بلائے اول اپنا نام اور نسب لکھائے غرض آدمی اس جماعت کے ساتھ جماع کر سکتے تھے بشرطیکہ تمغاچی (سائر کے محصول لینے والے) کو معلوم ہو۔ جبتک داروغہ کو خبر نہ ہو۔ رات کو اہل طرب (ناچنے والی عورت) کو اپنے گھر بلا کر اپنے تصرف میں کسی صورت سے نہیں لا سکتا تھا اور اگر کوئی چاہتا کہ کسی عورت کا ازالۂ بکارت کرے اور یہ خواستگار نامی مقربوں سے ہو تو اُسکے واسطے داروغہ بادشاہ سے اجازت حاصل کرتا اور کسی طرح یہ کام نہ ہوتا مگر جوان تھے وہ اس کام کو اور لباس میں کرتے اور بدمستی اور سفاہت سے خونریزیاں ہوتیں اگر ایک گروہ کا قصاص ہوتا تھا تو دوسرا گروہ اس امر کو فخر کے ساتھ کرنے لگتا تھا۔

بیت

حسن بے پایاں او چندانکہ عاشق میکشد   زمرۂ دیگر بہ عشق از غیب سر برمیکنند

چند فواحش جو مشہور تھیں بادشاہ انکو مخفی بلا کر تحقیق کرتا کہ کس نے انکا ازالہ بکارت کیا ہی۔ انکا نام دریافت کرتا اگر وہ امراے نامدار معتبر ہوتے تو انکی تعذیب تنبیہ کرتا۔ مدتوں تک مقید رکھتا۔ اس جماعت میں سے ایک پیر بر تھا کہ اپنے تئیں مرید با اخلاص گنتا تھا اور مراتب چہارگانہ میں پیش رو تھا (الٰہیات اور فضائل اربعہ حکمت عدالت۔ شجاعت عفت) سے اپنے تئیں متصف ظاہر کرتا تھا مگر اپنی بات تک نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانہ میں اپنی جاگیر کر کوہ میں تھا۔ جب اس کو اپنی بے دوری کی خبر پہنچی تو اس نے چاہا کہ میں جوگی ہونے کی اجازت مانگوں۔ مگر بادشاہ نے اسکی طلب کا فرمان بھیجا اور اسکی استمالت کی وہ درگاہ میں آیا۔

گائے کا گوشت حرام تھا اسکا چھونا گناہ تھا۔ وجہ اسکی یہ تھی کہ بادشاہ خردسالی سے ہنود دور نود کی صحبت میں رہا تھا ہندو گائے کو قوام عالم کا سبب سمجھتے تھے اسیلیے گائے کی تعظیم بادشاہ کے دلمیں بیٹھ گئی تھی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں کی بیٹیاں بادشاہ کے گھر گھس گئیں انھوں نے بادشاہ کے مزاج میں ایسا تصرف پیدا کیا تھا کہ گائے کا گوشت اور لہسن و پیاز کا کھانا اور ڈاڑھی کا رکھنا (یہ تین چیزیں بوسہ بازی میں خلل ڈالتی ہیں) چھوڑ دیا تھا وہ اس طرح کی چیزوں سے کمال احتراز کرتا تھا۔ اور مجلس میں ہندوؤں کی بدعتوں رسموں کو اپنے طور پر کرتا تھا۔ تاکہ اس سبب ہندوؤں کی دلجوئی اور انکے قبائل کی خاطر کی پیروی ہو۔ ہندو جن چیزوں سے نفرت طبعی رکھتے تھے بادشاہ ان سے پرہیز کرتا تھا۔ بادشاہ ڈاڑھی منڈانے کو اپنے ساتھ نہایت موافقت کرنا سمجھتا تھا اسیلیے اسکا رواج ہو گیا۔ مفاعیل و تفاعیل (قرم ساق بھڑوون) نے ڈاڑھی منڈانے کی وجہ یہ بیان کی کہ ڈاڑھی خصیتین سے پانی پیتی ہی اس وجہ سے کسی خواجہ سرا کی ڈاڑھی نہیں ہوتی۔ ڈاڑھی کے رکھنے میں نہ کچھ ثواب ہی نہ کچھ خطر ہی آجکل کے نادان نتھار ڈاڑھی منڈانے کو عیب جانتے ہیں۔ اگر نظر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ بات مدعا کے خلاف ہی۔ جھوٹے حیلہ ساز

مفتیوں نے یہ ایک روایت مجہول نقل کی کہ یفعلہ بعض القضات کے یہ معنی بیان کیے کہ عراق کے بعضے قاضیوں نے ڈاڑھی منڈائی تھی۔ حالانکہ اصل میں قضات کی جگہ عصات ہے جسکے معنی گنہگار کے ہیں عصات کی تحریف کرکے قضات بنالیا۔

نصارا کا ناقوس (گھنٹہ) بجانا اور صورت ثالث ثلثہ (صلیب) کا تماشا اور انکے بلبان (مورچنگ) کا بجانا اور تمام لہو ولعب انکے یہاں روز ہونے لگے اسکی تاریخ کفر شائع بشد ہوئی دس بارہ برس کے بعد یہاں تک نوبت آئی کہ اکثر گمراہوں نے جیسے مرزا جانی حاکم ٹھٹھا وراور مردودوں نے اس مضمون کا خط لکھکر دیا جسکی صورت یہ ہے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں اپنے طوع ورغبت وشوق قلبی سے دین اسلام مجازی وتقلیدی جومیں نے اپنے باپ دادا کا دیکھا تھا اور اُن سے سُنا تھا اسپر اب تبرا بھیجتا ہوں اور اکبر شاہی دین الٰہی کو اختیار کرتا ہوں اور مراتب چہارگانہ اخلاص کہ ترک مال وجان وناموس ودین ہیں قبول کرتا ہوں یہ خطوط کہ جو لعنت نامہ سے زیادہ تھے مجتہد جدید (ابوالفضل) کو سپرد ہوتے تھے اور وہ انکے اعتماد اور تربیت کا سبب ہوتے تھے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ چورا ہوکر خاک ہوجائیں۔

اسلام کے خلاف سور اور کتے نجس نہ رہے حرم وقصر میں وہ پلنے لگے صبح انکی زیارت عبادت سمجھی جاتی تھی ہندوؤں نے جو حلول کے قائل ہیں یہ خاطر نشان کیا کہ سور بھی ان دس مظہر الٰہی میں سے ایک ہے جنمیں خدا نے حلول کیا ہے تعالیٰ شانہ عما یقولون۔ خدا تعالیٰ کی بڑی شان ہے مگر وہ نہیں ہے جو وہ کہتے ہیں یہ جو بعض عرفا سے منقول ہے کہ کہتے ہیں دس صفات حمیدہ ہیں اگر ایک ان میں سے آدمی میں ہو تو ولی ہوتا ہے اس سے بھی اُنھوں نے کتے کی عظمت ثابت کی۔

بعض مقربوں نے کہ جوش طبعی کے سبب سے ملک الشعرائی میں ضرب المثل ہیں (فیضی) ہیں دستر خوان پر کتوں کو ساتھ بٹھاکر کھانا کھلانا شروع کیا۔ بعض مردود ہندی وعراقی شاعروں کی ایک جماعت نے اسکی تبعیت کی وہ کتوں کی زبانوں کو منہ میں لیتے اور اس سے کچھ اکراہ نہ کرتے بلکہ اسپر فخر کرتے۔

غسل جنابت کی فرضیت بھی مطلق ساقط ہوئی اور اُسکی دلیل یہ بیان ہوئی کہ انسان کا خلاصہ نطفہ منی ہو کہ وہی نیکوں و پاکوں کا تخم آفرینش ہو اس کے کیا معنی ہیں کہ بول و براز کے خروج پر غسل واجب نہ ہو اور اس لطیف کے خروج پر غسل واجب ہو۔ بلکہ مناسب یہ ہو کہ اول غسل کرے اور بعد ازاں جماع کرے ایسے ہی میت کہ جماد کا حکم رکھتی ہو اسکی روح کے واسطے طعام پکانا کوئی حظ نہیں رکھتا بلکہ آدمی جس روز پیدا ہوا ہو اُس دن جشن عالی کریں اور اس کا نام آتش حیات رکھیں۔ ایسے ہی سوّر اور شیر کا گوشت مباح ہو اسمیں شجاعت کی صفت ہوتی ہو۔ وہ آدمی میں سرایت کرتی ہو۔ ایسے ہی چچا ماموں اور قرابت قریبیہ کی بیٹی سے شادی نہ کریں اس سے طرفین میں محبت و رغبت کم ہوتی ہو۔ ایسے ہی بیٹے کا سولہ برس سے پہلے اور اور لڑکی کا چودہ سال سے پہلے نکاح ناجائز ہو اس سے اولاد ضعیف پیدا ہوتی ہو سونا اور ابریشم پہننا عین فرض ہو۔

پہلے اس سے نماز روزہ و حج بھی ساقط ہو چکے تھے بعض اولاد الزنا جیسے کہ پسر ملا مبارک شاگرد رشید شیخ ابو الفضل نے رسالے اس باب میں لکھے اور انمیں ایک عبادات کا مسخر اور قدح بدلائل بیان کیا اور وہ بادشاہ کے مقبول ہوئے اور ترقیاں پائیں۔ تاریخ ہجری عربی کو بدل دیا اور اسکی جگہ سال جلوس کی ابتدا تاریخ مقرر ہوئی جو ۹۶۳ تھی اور نام مہینوں کے اہل عجم کی رسم کے موافق مقرر کیے۔ ان تینوں کے نام کتاب نصاب میں لکھے ہیں۔ زردشتیوں کی عیدوں کی طرح سال بھر میں چودہ عیدیں مقرر ہوئیں۔ مسلمانوں کی عیدیں بے رونق اور موقوف ہوئیں مگر خطبہ جمعہ ان لوگوں کی خاطر سے برقرار رہا کہ بڈھے فلوک جاہل اسمیں جاتے ہیں برس اور مہینے کا نام سال و ماہ الٰہی ہوا سکوں اور مہروں میں تاریخ الف (سنہ ۱۰۰۰ھ) لکھا گیا جس سے یہ معلوم ہو کہ دین متین محمد صلعم ہزار سال کے بعد ختم ہو گیا اور عربی کا پڑھنا اور جاننا عیب میں داخل ہوا۔ فقہ و تفسیر و حدیث اور انکا پڑھنے والا مردود و مطعون ہوا علوم نجوم و حکمت و طب حساب و شعر و تاریخ و افسانہ رائج ہوئے اور انکی تحصیل فرض ہوئی۔ عربی زبان کے مخصوص

حروف مثل ثا و حا و عین و صاد و ضاد و طا تلفظ میں برطرف ہوئے۔ عبد اللہ کو ابد اللہ و احدی کو اہدی اور مثل انکی کہنا افضل سمجھتے تھے اور اس طرح کہنے سے خوش ہوتے تھے اور شاہنامہ فردوسی کی یہ دو بیتیں اہل عرب کی توہین میں اکثر زبان پر لاتے تھے۔

ابیات

زشیر شتر خوردن و سوسمار ۔۔۔ عرب را بجائے رسید است کار

کہ ملک عجم را کنند آرزو ۔۔۔ تفو باد بر چرخ گرداں تفو

جو بیت اشعار تشبیہ آمیز اپنے مشرب کے موافق اساتذہ کے کلام میں سنتے ان کو پسند کرتے۔ جیسے آنحضرت صلعم کے دو دانتوں کے شہید ہو جانے کے باب میں سجہ کے اشعار ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس ارکان دین کے ہر رکن میں اور عقائد اسلامیہ کے ہر عقیدہ میں خواہ وہ اصول میں ہو یا فروع میں مثل نبوت و کلام و رویت و تکلیف و تکوین و حشر و نشر میں طرح طرح کے شبہے پیدا کرتے اور اس کو مسخرا پن بناتے (رویت کے معنی دیدار الٰہی کے) جنت میں ہیں سنی اس مسئلہ کے قائل ہیں اور شیعہ انکار کرتے ہیں اور تکلیف اس آدمی کو مکلف بالشرع کہتے ہیں کہ اول وہ مسلمان ہو دوم وہ عقل صحیح رکھتا ہو سوم وہ بالغ ہو۔ تکوین کے معنی دو معدوم کے درمیان پیدا ہونا۔ یہ ہستی معدوم اول اور معدوم ثانی کے درمیان ہے یعنی یہ عالم معدوم ہوگا اکبر اس کا منکر تھا وہ قیامت کا قائل نہ تھا) اگر کوئی ان مسئلوں کے معرض جواب میں آتا تو منع کیا جاتا۔ معلوم ہے کہ ایسی حالت میں کون مستدل یا مانع ہو سکتا تھا خصوصاً جس وقت کہ مقابل کی جانب توجہ نافذ بالامری اور قاہری ہو مباحثہ میں مواسات ضرور ہے۔

بیت

آنکس راکہ بقرآن و خبر زو نرہی ۔۔۔ آنست جوابش کہ جوابش نہ دہی

بہت سے خان ومان ان مباحثوں میں غارت ہوگئے اسکو ہرگز مباحثہ نہیں کہنا چاہیے
بلکہ وہ مکابرہ ومشاعبہ تھا۔ پادشاہ کی خوشامد کے مارے دین فروش شکوک متروک کو
ہر جگہ سے پیدا کرکے بطور تحفہ کے پادشاہ پاس لاتے تھے لطیف خواجہ کہ ماوراالنہر کے
بزرگوں اور بزرگزادوں میں تھا اس نے شمائل ترمذی میں اس حدیث پر کہ کانہ جید و
ثنہ۔ (یعنے آنحضرت کی گردن مثل بت کے ہے) شبہ کیا کہ پیغمبر کی گردن کو بت کی گردن سے
تشبیہ دینے کے کیا معنی ہیں؟ اور ایسی ہی حدیث ناقہ قصوی جو سیر میں مشہور ہے اور قافلہ قریش
کا لوٹ مار کرنا ابتداء ہجرت میں اور آنحضرتؐ کا چودہ ازواج کا کرنا اور کسی عورت کا اپنے
خاوند کا زوجہ نہ رہنا اگر آنحضرتؐ اسکو اپنا زوجہ بنانا چاہیں اور اسی کی طرح اور باتیں نبا کے
مذہب کے ساتھ تمسخر کرتے تھے جنکی تفصیل کے لیے زمانہ دراز چاہیے۔

راتوں کو اپنی مجالس انس میں پادشاہ اپنے مقربین کو حکم دیتا کہ وہ چالیس ابدال کی طرح بیٹھیں
اور جو شخص جانتا ہو وہ کہوے اور جو چاہے پوچھے۔ اگر کوئی مسئلہ علمی پوچھتا تو پادشاہ فرماتا
کہ یہ ملانوں سے جاکر پوچھو جو بات عقل وحکمت سے متعلق ہو وہ ہم سے پوچھ۔ کتب سیر کے
پڑھنے کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں باتیں بنائی جاتیں۔ خلفاء ثلاثہ کی خلافت
کے عزت میں قصہ فدک اور جنگ صفین وغیرہ کا ایسا ذکر ہوتا کہ کان انکے سننے سے بہرے
ہوں ان کو اپنی زبان پر نہیں لاسکتے۔ شیعہ غالب سنی مغلوب اور اخیار سب جگہہ
خائف اور اشرار امین تھے ہر روز ایک تازہ حکم اور نیا شبہ ایک جدید قدح ظہور
میں آتا اور اپنا اثبات اوروں کی نفی میں دیکھتے اور اس نکتہ کو بھول گئے کہ ہر نفی
منفی ہوتا ہے اس سبب سے مقبول مردود اور مردود مقبول تھے۔ عام کالانعام کی
زبان پر اللہ اکبر کے وظیفہ کے سوا کچھ اور مذکور نہ تھا۔ ملا شیری نے دس شعر
کا قطعہ کہا ہے جس کے چند شعر نقل کیے جاتے ہیں۔

شورش مغز است اگر در خاطر آرد جاہلے ۔ کز خلایق مہر پیغمبر خدا خواہد شدن

خندہ می آیدمرا زیں بیت کز بس طرفگی
نقل بزم منعم و دردِ گدا خواہد شدن
پادشا امسال دعویٰ نبوت کردہ است
گر خدا خواہد پس از سالے خدا خواہد شدن

مجالس نوروزی میں اکثر علما و صلحا بلکہ قاضی و مفتی بھی قدح نوشی کرتے تھے۔ آخر مجتہدوں نے خصوصاً ملک الشعرا (فیضی) نے کہا کہ ایں پیالہ را بکوری فقہامی خورم (فقہا اندھے ہیں انکے لیے یہ پیالہ پیتا ہوں) حمل کے ۱۹ درجہ پر کہ شرف الشرف ور روز آخریں جشن نوروز کا ہے اسکی تعظیم اور سب دنوں سے زیادہ کرتے اور اسی دن امرا کو منصب و جاگیر کا اضافہ ہوتا اور اسپ خلعت مناسب مہمانی و پیش کش کے عنایت ہوتا تھا۔

اس سال میں گلبدن بیگم و سلیمہ سلطان بیگم نے حج سے مراجعت کی اور انھیں دنوں میں ابو تراب اعتماد خاں گجراتی سفر حجاز سے آئے اور ایک پتھر بڑا بھاری جسکو ایک قوی ہیکل ہاتھی اٹھا سکتا ساتھ لائے اسپر ایک نقش پا معلوم تھا۔ ابو تراب کہتا تھا کہ نقش قدم رسول ہے۔ پادشاہ نے چار کوس تک اسکا استقبال کیا اور امرا کو حکم دیا کہ باری باری سے چند قدم اسکو سر پر اٹھا کر چلیں اس طرح وہ قدم شہر میں پہنچ گیا (ابو الفضل نے لکھا ہے کہ پادشاہ نے اس قدم کو کندھے پر رکھا اور اسکے سبب مسلمانوں کو پادشاہ کے مذہب کی طرف جو وہم پیدا ہوا تھا وہ کم ہوگیا)

اسی سال میں خلوت میں پادشاہ کے روبرو بیر بر سے شیخ مبارک ناگوری نے کہا کہ جیسے کہ تمھاری کتابوں میں تحریفات ہوئی ہیں ایسی ہی ہمارے دین میں بھی بہت سی تحریفات ہوئی ہیں اسلیے دونوں اعتماد کے قابل نہیں۔

اسی سال میں بے عفت اور بے عافیت گمراہوں نے پادشاہ سے کہا کہ ہجرت سے مدت ہزار سال کی ختم ہوئی کسواسطے شاہ اسمٰعیل اول کی طرح برہان قاطع (تلوار) کو کام میں نہیں لاتے لیکن آخر کو یہ قرار پایا کہ پادشاہ کا دلی ارادہ مرور زماں میں تدبیر بے شمشیر سے ظہور پائیگا فی الواقع اگر پادشاہ کچھ روپیہ خرچ کرتا تو عوام تو کیا بلکہ خواص بھی اس کے

ضمون اشعار ابو الفتح

قدم رسول

شیطانی دام میں پھنس جاتے حکیم ناصر خسرو کی یہ رُباعی اکثر پڑھی جاتی۔

رُباعی

در نہصد و نکعین دو قراں می بینم
وز مہدی و دجال نشاں می بینم
یا ملک بدل گردد یا گردد دیں
سرّیست کہ نہاں عیاں می بینم

جب احداث دین کا مشورہ ہوا تو راجہ بھگوانداس نے اُس سے کہا کہ میں خوش ہو کر یہ قبول کرتا ہوں کہ دونوں ہندوؤں اور مسلمانوں کا دین بد ہے مگر انکے سوا اور کونسا تیسرا طائفہ ہے اسکو فرمائیے کہ میں اس دین کو قبول کروں۔ بادشاہ نے کچھ معقولیت اختیار کر کے راجہ کو اس شدت سے باز رکھا۔ مذہب اسلام کے احکام کا تغیر وقوع و شیوع ہوتا جاتا تھا۔ احداث بدعت۔ اسکی تاریخ ہوئی۔

انھیں دنوں میں دربار میں جو پانچ وقت اذان اور نماز جماعت کے ساتھ ہوتی تھی موقوف ہوئی۔ نام احمد و محمد و مصطفےٰ اور مثل انکے باہر کے کافروں کے اور گھر کے اندر اہل حرم کی ہندو دختروں کے خاطر سے بادشاہ کو گراں معلوم ہوئے اور مدتوں میں اس نے اپنے مقربوں میں سے بعض کے نام جو ان ناموں سے موسوم تھے موقوف کر دیئے۔ مثلاً یار محمد خاں اور محمد خاں کا نام رحمت بولا جاتا اور لکھا جاتا۔ ان گمراہ اشقیا پر ایسے شریف نام کا اطلاق حیف تھا اور اسکا بدلا جانا ضرور کیا بلکہ واجب تھا اسلیئے کہ سور کے گلے میں جواہر کا باندھنا ستم ہے۔ یہ آگ آگرہ سے اٹھی جسنے چھوٹے بڑوں کے گھر جلائے۔ اور آخر کو یہی آگ آتش زنوں کے گور میں گئی خذلہم الیہ۔

ربیع الاول ۹۹۰؁ھ میں میر فتح اللہ شیرازی کہ الہیات و ریاضیات و طبیعیات اور تمام اقسام علوم عقلی و نقلی و طلسمات و نیز نجات و جر اثقال میں اپنا نظیر اس زمانہ میں نہیں رکھتا حکم کے موافق عادل خاں حاکم دکن کے پاس سے فتحپور میں آیا۔ اس کو سُنا تھا کہ وہ میر غیاث الدین منصور شیرازی کا شاگرد بیواسطہ ہے اور یہ استاد چنداں نماز و عبادات کا معتقد نہ تھا اس سے گمان ہوتا تھا کہ شاگرد بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ مذہب و دین

بادشاہ کا ہمرو ہو گا مگر اس نے باوجود کمال حب جاہ و دنیاداری اور امرا پرستی کے اپنے
مذہب میں اپنے تعصب میں کوئی بات اُٹھا نہیں رکھی وہ عین دیوانخانہ خاص میں علانیہ
امامیہ طریقہ پر ادائے نماز کرتا تھا کسی اور کا مقدور نہ تھا کہ اس طرح نماز پڑھتا اس سبب سے بادشاہ
نے اسکو ارباب تقلید کے زمرہ میں شمار کیا اور اپنے مذہب میں اس سے اغماض کیا۔ اسکے
علم و حکمت و تدبیر کی رعایت کر کے اسکی پرورش میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔

ایک رات کو بادشاہ نے میر فتح اللہ کی موجودگی میں بیربر سے کہا کہ یہ بات کیونکہ عقل
قبول کرتی ہی کہ ایک شخص ایک لحظہ میں باوجود گرانی جسم کے خوابگاہ سے آسمان پر جائے
اور نوے ہزار باتیں خدا سے کرے اور ہنوز اس کا بستر گرم ہو اور وہ الٹا چلا آئے۔ اور ایسے
ہی شق القمر اور اسکی مثل اور باتیں ہیں پھر ایک پاؤں اپنا اُٹھا کر سب کو دکھایا اور یہ فرمایا کہ
جب تک دوسرا پاؤں اپنی جگہ پر نہ ہو ناممکن ہی کہ کھڑا رہوں یہ احمقانہ حکایتوں کو لوگ
یقین کرتے ہیں۔ بدبخت بیربر اور گمنام بدبخت آمنا و صدقنا کہتے تھے اور اسکی تائید میں
باتیں بناتے تھے۔ بادشاہ فتح اللہ کی طرف بار بار دیکھتا تھا مگر وہ گردن نیچے ڈالے ہوئے
کچھ نہیں کہتا تھا۔ سراسر گوش بنا ہوا تھا۔

سنہ ۹۹۱ میں تمام ممالک محروسہ میں حکم جاری ہوا کہ اتوار کو جو آفتاب سے مخصوص ہی اور اٹھارہ
روز ماہ آبان میں جو بادشاہ کے میلاد کا مہینہ ہی اور بعض ایام معہود میں مطلق جانور ذبح نہ کیے جائیں۔
یہ حکم ہندوؤں کی خاطر سے دیا تھا جو کوئی ان دنوں میں جانور ذبح کرتا اسکی بڑی سیاست ہوتی
اور اسکا خانمان تاراج ہوتا اور خود بادشاہ تمام سال میں اور ایام متفرقہ کی تقریب میں چھ
مہینے گوشت نہیں کھاتا تھا اور ایسا ارادہ رکھتا تھا کہ گوشت کھانے کو بالکل ترک کر دے
سورج کی پوجا کو دن میں چار دفعہ صبح و شام دوپہر آدھی رات کو اپنے اوپر لازم کیا تھا
اور سورج کے ایک ہزار ایک نام سنسکرت کے دوپہر کو سورج کی طرف متوجہ ہو کر
حضور قلب سے پڑھتا اور دونوں کان پکڑ کر چکر کھاتا اور کانوں کے اوپر مکے لگاتا اور مثل اسکی

اور حرکتیں کرتا۔ ماتھے پر تلک لگاتا اور آدھی رات اور سورج نکلنے کے وقت نوبت بجواتا۔ مساجد و معابد ہندؤں کے فراشخانے اور چوکی خانے ہو گئے جماعت کا نام جامع اور حی اعلیٰ کا یلا ّللا رکھا۔ شہر میں گورستان اوکھیڑنے کا حکم دیا۔

انہیں دنوں میں شہر سے باہر مسلمان و ہندو فقرا کے کھانا کھلانے کے لیے دو محل تعمیر کرائے۔ ایک کا نام خیر پورہ اور دوسرے کا نام دھرم پورہ رکھا۔ شیخ ابوالفضل کے چند آدمی موکل مقرر ہوئے کہ وہ زر پادشاہی سے فقرا کو کھانا کھلاتے تھے۔ جوگیوں کے گروہ کے گروہ آتے تھے انکے لیے ایک سرائے آباد کی گئی اُس کا نام جوگی پورہ رکھا گیا۔ جوگیوں میں بعض کو خلوت میں پادشاہ بلا کر باتیں کرتا تھا۔ حقایق مختلفہ کے مجہولات و اعتقادات و اشغال و مراقبہ و سلوک و اطوار و جلسات و حرکات و سکنات و خلع بدن و کیمیا و سیمیا و ریمیا ان سے معلوم کرتا کیمیا گری خود سیکھی اور سونا بنا کر لوگوں کو دکھایا۔ شیوارت کو جوگیوں کا مجمع عظیم اطراف سے آتا اور پادشاہ اُن جوگیوں میں جو بزرگتر ہوتے انکے ساتھ ہم پیالہ اور ہم نوالہ ہوتا۔ ان جوگیوں نے پادشاہ کو بشارت دی کہ عمر طبعی سے تین چار گنے زیادہ جیئے گا۔ اسکا پادشاہ کو یقین تھا۔ ان مقدمات کو اور قرائن سے بھی ایسا منتظم کیا جس سے یہ یقین اسکے دل پر سہتھر کی لکیر ہو گیا اور حکما ہند بھی اسکی تائید کرتے تھے کہ عمروں میں نقصان دور قمر کے سبب سے ہے اور وہ اب ختم ہونیوالا ہے زحل کا دورہ شروع ہوگا اس کے بعد اطوار و ادوار مجدد طول اعمار کے مورث ہونگے۔ چنانچہ کتب سماوی میں بھی یہ امر مذکور ہے۔ بعض آدمیوں کی عمر ہزار سال لکھی ہے۔ اور کتب ہندی میں آدمی کی عمر دس ہزار برس لکھی ہے اور بالفعل کوہ تبت میں ایک طائفہ لامہ ہے انکے زہاد و عباد دو سو سال اور اس سے زیادہ جیتے ہیں اس طائفہ کی تقلید کرنے کے لیے پادشاہ معاشرت و اکل و شرب خصوصاً لحم میں تقلیل کرتے اور سر کی چندیا کے بال اُس نے منڈوا ڈالے مگر اسکے گرد بال رکھے۔ پادشاہ کو ایسا گمان تھا کہ کاملان مکمل کی روح چندیا سے نکلکر باہر جاتی

جوگیوں کی ملاقات اور اور بدعات

ہی اور یہ جسم انسانی کا دسواں منفذ (دروازہ) ہی۔ اور اسوقت بجلی وگرج کی ایک آواز ہوتی ہی یہ دلیل میت کی سعادت کی اور گناہوں سے نجات کی ہی اور مذاہب تناسخ میں یہ علامت حلول روح کی بادشاہ ذی شوکت وصاحب نافذ الامر میں ہی۔

تقرر جھروکہ درشن

بادشاہ نے اپنے روش (مذہب) کا نام توحید الٰہی رکھا اور جوگیوں کی اصطلاح کے موافق اپنے مریدان خاص کا نام چیلہ رکھا اور ایک ور طائفۂ اراذل کا مکار مردار تھا کہ وہ دولت خانہ کے اندر نہیں جاسکتا تھا وہ اس وقت کہ بادشاہ سدوسی کو سورج کی پوجا کرتا تھا جھروکہ میں آتا اور جبتک بادشاہ کا درشن نہ کرلیتا مسواک وطعام وآب اس پر حرام تھا۔ رات کو ہر صاحب حاجت خواہ ہندو ہو یا مسلمان اور طرح طرح کے طوائف مرد اور عورت صحیح وسقیم کو اس جگہ بار عام کا حکم ہوتا دو طرفہ کاروبار اور گرمی ہنگامہ اور ازدحام عظیم ہوتا۔ بادشاہ آفتاب کے ایک ہزار ایک نام کی تسبیح پڑھکر پردہ سے باہر آتا اور یہ ساری جماعت اس کو سجدہ کرتی اور مکار اور طرار برہمنوں نے سورج کے ایک ہزار ایک اور نام بادشاہ کے لیے ترتیب دیئے تھے وہ کہتے تھے بطریق حلول جیسے رام اور کرشن اور اور سلاطین ہنود اوتار ہوئے ہیں ایسے ہی یہ خود صاحب عالم بادشاہ اوتار کی صورت میں نمودار ہوا ہی تاکہ وہ اس زمین پر بازی کریے اور خوشامد کے مارے سنسکرت کے اشلوک (شعر) پہلے عالموں کے اس مضمون کا نقل کرتے کہ ہندوستان میں ایک بادشاہ عالمگیر پیدا ہوگا۔ برہمنوں کا احترام اور گائے کی حفاظت اور دنیا کی عدالت سے نگہبانی کریگا اور پرانے کاغذوں میں اپنی خرافات کو لکھکر بادشاہ کو دکھلاتے تھے۔ بادشاہ کو ان سب باتوں کا یقین ہوتا تھا

بادشاہ کا اوتار ہونا

مصرع خوشامد ہر کرا گفتی خوشش آمد۔ ان دنوں میں بادشاہ کے فتح پور کے دیوانخانہ خاص میں ننفے کے دہ در دہ اور شیعوں اور شافعیوں کے قلتین کو پانی سے بھروایا اور اسکو تلوایا تو حنفیوں کے دہ در دہ کا پانی باقی دو قلتین سے زیادہ نکلا۔

بادشاہ نے حکم دیا کہ سُنی اور شیعہ جدا جدا ہو جائیں۔ ہندوستانی بالکل سنی گری اور عراقی تشیع کے قائل ہوئے۔

بادشاہ کے پاس ۹۹۲ھ ملا الہ داد امروہوی اور ملا شیری آئے وہ صدارت میان دوآب پنجاب پر مقرر تھے۔ خوشامد کے مارے ملا شیری نے ایک نظم ہزار شعاع جیسے آفتاب کی تعریف میں ہزار قطعہ تھے پیشکش کی بادشاہ اس سے نہایت خوش ہوا ۹۹۴ھ کے جشن میں بیلان (بیلون) ایک جانور بصورت گنبد اختراع کی ہوئی فرنگیوں کی بھی برپا ہوئی اور بادشاہ کے اخلاص میں اور بہت آدمیوں نے مال و جان و ناموس و دین فدا کیا اور اس قدر ارواح مقدس کا امتحان اس برازمین ہوا کہ انکا حصر نہیں ہوسکتا آدمیوں کا گروہ مرید ہوتا اور مذہب مشرب میں بادشاہ کے ساتھ موافقت کرتا بادشاہ بجائے شجرہ (جو پیر مریدوں کو دیا کرتے ہیں) کے اپنی شبیہ دیتا وہ رشد و دولت میں اخلاص کی علامت ہوتی اور اسکو غلاف میں جو جواہر سے مرصع ہوتا لپیٹ کر سر پر رکھتے ناموں کی پیشانی پر اللہ اکبر لکھے جانے کا حکم ہوا۔ قمار و سود حلال ہوا۔ اور علی ہذالقیاس اور محرمات۔ دربار میں قمار خانہ بنایا گیا جواریوں کو خزانہ سے روپیہ سودی ملتا اور سود و شغل (جواری) جو اپنے جیت کے مال میں سے کچھ مال مجلس قمار کے حاضرین میں تقسیم کرتا) کفایت میں داخل تھا۔ لڑکی کے نکاح کو چودہ برس کی عمر سے پہلے اور لڑکے کی شادی کو سولہ برس سے پہلے منع کا حکم دیدیا اور قصہ زفاف حضرت صدیقہ سے بالکل منکر ہوئے اور مطاعن کا ذکر تو کیا کیا جائے۔ جو کوئی اسیر نوحہ کرے وہ نوحہ پارہ کی طرح اڑ جائے میں نہیں جانتا کون شخص ایسی باتیں سن سکتا ہے عموماً تمام رسولوں سے انکار اس سبب سے کیا گیا کہ وہ گنہگار تھے خصوصاً حضرت داؤد اور اوریا کے قصہ سے اور اسی کی مثل جس کسی کو اپنے اعتقاد کے موافق نہ پاتے اس کو مردود و مطرود ابدی جانتے اور اس کا نام فقیہہ رکھتے۔ اور دشمن شاہی کا دشمن بحکم ۵۰ آنچہ بکار ند ہماں بدروند

ستوئی ہزار شعر و بادشاہ کا دین اختیار کرنا

وہ خود عالم میں کفر و گمراہی میں مشتہر ہوئے اور انکا مجتہد و مرشد (ابوالفضل) ابوجہل مشہور ہوا۔ ۵ پادشاہ بدو وزیر بدتر + ریاست دینی کے لیئے ریاست دنیوی تیغ بنی اور تمام مہمات میں سے ریاست دین کے مٹانے کو اہم جانا اور باقی اور مہمات کو طفیلی۔ ناموس دین کی دکان بگاڑنے کے لیے پادشاہ نے حکم فرمایا کہ نوروز کو جو بازار لگا کرے وہ خاص عام سے خالی کیا جائے اور بیگمیں اور اہل حرم اور صاحب عفت عورتیں اسمیں تماشہ و سیر کریں وہاں پادشاہ زربخشی کرتا اور جو باہر سے عورتیں آتیں انکو مہمان بناتا اور اسی مجلس میں لڑکے اور لڑکیوں کے ناتے رشتے ٹھیراتا۔ پادشاہ کے مرید لوگ اس خیال سے ہوتے تھے کہ جاہ و منصب پائیں اور اخلاص سند ٹھیریں مگر پادشاہ نے انکے دماغ سے اس خیال کو دفع کیا۔ ہندوؤں کو جو اسکے نزدیک ناگزیر تھے جاہ و منصب دیتا۔ نصف لشکر اور نصف ملک ہندوؤں کے ہاتھ میں تھا۔ ہندوستان میں انکی برابر صاحب شوکت نہ مغل تھے نہ ہندوستانی مسلمان اور سوائے ہندوؤں کے ہر گروہ کی مالش اور کوشش جس طرح پادشاہ پسند کرتا تھا انمیں سے غیرت و ناموس و اتفاق بالکل مسلوب ہو گیا تھا۔

اسی سال میں سلطان خواجہ نے کہ وہ خاص الخاص مریدوں میں سے تھا انتقال کیا اور اسکے دفن کرنے کے بعد قبر میں یہ اختراع ہوا کہ سورج کے مقابل ایک جالی لگائی گئی کہ ہر صبح کو سورج کی روشنی جو گناہوں کی پاک کرنے والی ہے اسکے منہ پر پڑے کہتے ہیں کہ اسکے منہ پر زبانہ آتش بھی لگادیا تھا واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

یوسف زئی سے جو لشکر شاہی کو شکست ہوئی اس میں بیربر مارا گیا تھا۔ پادشاہ کو اسکی برابر کسی امیر کے مرنے کا غم نہ ہوا وہ افسوس کرتا تھا کہ اس کا جسم نہ ہاتھ لگا کہ آگ میں جلایا جاتا۔ مگر اپنے دل کو اس طرح تسلی دیتا تھا کہ وہ سب قیود سے آزاد اور مجرد تھا اسکے لیے نیر اعظم کی تابش پاک کرنے والی کافی ہے۔

۹۹۵ھ میں یہ ضوابط اور احکام جاری ہوئے کہ کوئی شخص ایک عورت سے زیادہ

نکاح نہ کرے مگر اس صورت میں کہ بیوی بانجھ ہو ورنہ خدا کیلئے وزوجہ کیلئے جب عورت کو ایام منقطع ہو جائیں تو وہ شوہر کرنیکی خواہش نہ کرے۔ بیوہ عورتوں کو شوہر کرنے کی ممانعت نہ کی جائے بلکہ جیسے کہ ہندو کرتے ہیں اور ہندؤں کی خورد سال لڑکی جس نے شوہر سے تمتع نہ اُٹھایا ہو وہ ستی نہ ہو اگر ہندؤں کو یہ امر دشوار معلوم ہو تو منع نہ کریں جب آپسمیں مریدوں کی ملاقات ہو تو ایک اللہ اکبر کہے دوسرا جل جلالہ کہے یہ بمنزلہ سلام اور جواب سلام کے ہو۔ راجہ بکرماجیت نے یہ اختراع کیا تھا۔

ہندی مہینے کی ابتدا ۱۳ تاریخ سے ہو مگر بادشاہ نے اسکی ابتدا ۲۸ تاریخ سے مقرر کی اور ہندؤں کے تیوہار اس تاریخ کے موافق ہوا کریں اگرچہ اس باب میں گجرات و بنگالہ میں ۹۹۰ھ میں فرمان جاری ہوئے تھے مگر اس پر عمل نہیں ہوا۔

آزرال کو حکم ہوا کہ وہ شہر کے اندر عربی نہ پڑھیں کیونکہ اس سے فساد کھڑے ہوتے ہیں۔

ہندؤں کے مقدمات و معاملات کو برہمن پنڈت فیصلہ کیا کریں مسلمان قاضی نہ فیصلہ کیا کرے اگر حلف کی احتیاج ہو تو منکر کے ہاتھ میں گرم آہن رکھیں اگر ہاتھ جلے تو وہ جھوٹا ہے الا نہیں تو سچا یا جلتے تیل میں اسکا ہاتھ ڈالیں یا وہ پانی میں غوطہ کھائے اگر اتنی دیر میں کہ تیر پھینکا جائے اور کوئی اُسکو اُٹھا لائے۔ وہ پانی سے سر نکالے تو مدعا علیہ کو حق مدعی دلایا جائے۔

مردہ جو دفن کیا جائے تو اُسکا سر مشرق کی طرف اور پاؤں مغرب کی طرف رکھے جائیں (مسلمانوں کے قاعدہ کے برعکس ہے) سونے میں بھی یہ روش اختیار کی جائے۔

۹۹۶ھ میں حکم ہوا کہ کل قومیں علوم عربیہ کی تحصیل ترک کریں اور علوم نجوم و حساب و طب و فلسفہ پڑھا کریں اسکی تاریخ کساد فضل ہوئی۔

عاشورہ محرم ۹۹۶ھ کو بادشاہ نے مان سنگھ کو جو بہار و پٹنہ کی حکومت پر مامور ہوا تھا اور خانخانان کو خلوت میں بلایا اور مذہب کے امتحان کے لیئے باتیں ہونے لگیں۔

مان سنگھ نے بے تکلف عرض کیا کہ اگر مریدی عبارت جان نثاری سے ہے تو جان کو

حضور کے لیے اس کو ہتیلی پر لیے پھرتا ہوں اُسکے امتحان کی ضرورت کیا ہے اور اگر اس کے سوائے کچھ اور بات دین کے معاملہ میں ہے تو میں ہندو ہوں اگر فرمایئے تو مسلمان ہو جاؤں ان دو مذہبوں کے سوائے کسی اور مذہب کو نہیں جانتا کہ کوئی ہے بس اسی پر خیر گزری آگے کچھ اس گفتگو نہیں بڑھی۔

اسی مہینے میں مرزا فولاد بیگ برلاس نے آدھی رات کو ملا احمد رافضی کو جو صحابہ کو گالیاں دیتا تھا کسی بہانہ سے گھر بلا کر خنجر مارا جسکی ایک تاریخ۔ آن زہی خنجر فولاد۔ اور دوسری خوک سقری ہوئی جسوقت وہ نزع کی حالت میں تھا تو عبدالقادر نے اُس کا چہرہ سور کا سا دیکھا تھا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ مرزا فولاد کو ہاتھی کے پانوں میں باندھکر شہر لاہور میں جب تک پھرایا کہ وہ شہید ہوا۔ حکیم ابوالفتح کی معرفت اُس سے پوچھا کہ تونے ملا احمد کو مذہب کے تعصب کے سبب سے مارا تو اُس نے جواب دیا کہ اگر مجھے تعصب ہوتا تو اس سے کسی بڑے (ابوالفضل یا خود اکبر) کو مارتا۔ حکیم نے یہی بات بادشاہ سے عرض کی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ بڑا حرامزادہ ہے اس کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ورنہ اسکی مردانگی اور اہل حرم کی شفاعت کے سبب سے بادشاہ اسکی جان بخشی کر دیتا۔ مقتول تین چار روز بعد قاتل سے مرا غسل کے وقت شیعوں نے اپنے مذہب کے قاعدہ کے موافق میخ اسکی مقعد میں کی اور دریا میں غوطے دیئے اور دفن کے بعد اس قبر پر شیخ فیضی و شیخ ابوالفضل نے محافظ مقرر کیے باوجود اسکے جس سال بادشاہ کشمیر کی سیر کو گیا اسکے جسم کو اہل لاہور نے نکالکر جلا دیا۔

سنہ ۹۹۹ میں یہ امر قرار پایا کہ گائے کا بھینس کا۔ بھیڑ کا گھوڑے کا اونٹ کا گوشت حرام سمجھا جائے۔ اگر کوئی ہندنی اپنی خوشی سے ستی ہو تو کوئی مانع نہ ہو مگر کوئی جبر و اکراہ سے ستی نہ ہونے پائے۔

بارہ برس سے پہلے کسی لڑکے کا ختنہ نہ ہو اور بعد اسکے لڑکے کو اختیار دیا جائے چاہے وہ کرے یا نہ کرے اگر کوئی شخص قصائی کے ساتھ کھائے تو اُس کا ہاتھ

احکام دینیہ سنہ ۹۹۹

کاٹا جائے اور اگر کوئی اہلخانہ اسکے ساتھ کھائے تو جس انگلی سے کھایا ہو وہ قطع کیجائے
سنہ میں ریش تراشی کے لئے تلاش ہوتی تھی۔
سنہ میں کوتوال کو وہ حکم دیئے گئے جو دفتر سوم میں آئین ۵ میں لکھے ہیں اور سوائے
اس کے یہ نئے حکم تھے۔
اگر دو شنبہ کو مریدوں میں سے مرجائے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو تو کچا اناج اور پکی اینٹ
اس کی گردن میں باندہ کر پانی میں ڈبو دیں اور اگر پانی نہ ہو تو جلا دیں۔ یا بطور اہل
خطا کے درخت میں باندہ دیں یہ حکم ایک اصول پر مبنی تھا جو بادشاہ نے قرار دیا
تھا مگر میں اس کو یہاں نہیں بیان کرتا۔
پسر و دختر عوام الناس جب تک کوتوالی کے چبوترہ پر کوتوال کے گماشتوں کے
روبرو نہ گذریں اور دونوں کی عمروں کی تحقیق نہ ہو وہ کدخدا نہوں۔
عورت جو خاوند سے عمر میں بارہ برس بڑی ہو اس سے شوہر جماع نہ کرے وہ جوان
عورت کہ شہر کے کوچہ و بازار میں پھرتی ہو اور اپنا منہ نہیں ڈھا سکتی ہو یا منہ کھلی پھرتی ہو
اور ایسی ہی وہ عورت جو خاوند سے جھگڑا رکھے وہ محلہ فواحش میں بھیجی جائے وہاں اسکا جی
چاہے کرے۔ قحط سالی اور اور مصائب میں ماں باپوں کو اولاد کے بیچنے کا اختیار ہو مگر جب انکو
مقدور ہو تو وہ قیمت واپس کرکے اپنی اولاد کو لے سکتے ہیں۔ جس ہندو کے لڑکے کو اس کی
نارضامندی سے مسلمان کرلیا ہو۔ اگر وہ چاہے تو پھر اپنے دین آبائی کو اختیار کرے
کسی کو مذہب کے سبب سے تکلیف نہ دیجائے۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا
مذہب اختیار کرے۔ اگر ہندنی کسی مسلمان پر فریفتہ ہو کر مسلمان کا دین اختیار کرے تو اوسکو
جبراً و قہراً پکڑ کر اسکے اہل کو حوالہ کریں۔ اپنے اپنے مذہب کے معبد بنانے کا سب
کو اختیار رہے۔ بت خانہ۔ گرجا۔ دخمہ جو بنائے اس کا کوئی مانع نہ ہو یہ دینی
احکام ہیں جن کا تھوڑا بیان کیا گیا ہے۔

انہیں دنوں میں اعظم خاں جسنے شرفاء مکہ کے ہاتھ سے بہت آزار اوٹھائے تھے حج کرکے بادشاہ کی خدمت میں آیا جو برکتیں حج سے حاصل ہوئیں تھیں انکو چھوڑکر بادشاہی مریدوں کے سلسلہ میں داخل ہوا۔ سجدہ اور تمام لوازم مذہب شاہی بجالایا اور ڈاڑھی کو بھی رخصت کیا مصاحبت اور ہمزبانی میں سب سے آگے ہوا۔ صوبہ غازی پور و حاجی پور اسکو جاگیر میں ملے اور خدمت غلامی (ابوالفضل) میں احکام مذہب یاد کئے۔

صدر جہاں ۱۰۰۰ھ

محرم ۱۰۰۰ھ میں صدر جہاں مفتی ممالک محروسہ مع اپنے دو بیٹوں کے اپنے حصول مقاصد کے لئے حلقۂ ارادت میں آیا اور جیسے کہ مچھلی جال میں شصت (کانٹا جس سے مچھلی پکڑتے ہیں) لیکر گرفتار ہوتی ہے اسطرح اس نے شقصت ارادت قبول کی اور ہزاری کا منصب پایا۔ اور عرض کیا کہ ڈاڑھی کیلئے کیا حکم ہوتا ہے؟ سیر حکم ہوا کہ اُڑادو اور اس دن ملا نقی شوستری آیا کہ اپنے تئیں اعلم العلما سمجھتا تھا اور ان دنوں میں بادشاہ کے حکم سے شاہنامہ کو نثر میں لکھا تھا (یعنی) جہاں آفتاب کا نام آیا وہاں عظمتہ شانہ و عز شانہ اور اسی طرح کے الفاظ لکھے شیخ زادہ گوسالہ خاں نثاری اور ملا محمد شاہ آبادی اور صوفی احمد کہ اپنے تئیں غوث الاعظم کے فرزندوں میں بتلاتا تھا مریدوں میں شامل ہوئے اور مراتب چہارگانہ اخلاص کے معتقد ہوئے اور ایک صدی سے پانچ صدی تک منصب پایا اور ڈاڑھی کو موافق قاعدہ کے منڈایا اور بہشت کے غلمان معلوم ہونے لگے۔ موتراش چند تاریخ ہوئی۔ ان نو مذہبوں کا حال ایسا تھا جیسے کہ نو مسلم ہندوؤں کا نیا نوکر شیر مارے نیا مسلمان اللہ اللہ پکارے ان میں سے جو سرخ کپڑے پہنکر اترائے ہوئے اپنے خویشوں میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اے مردک یہ کپڑے کل پرانے ہوجاینگے اور مسلمانی تیری گردن میں رہیگی۔ احمد صوفی جو اپنے تئیں مرید شیخ احمد مصری احمد اللہ کا بلکہ خلیفہ کامل و مکمل شیخ کا کہتا تھا اسکا یہ بیان ہے کہ میں اپنے مرشد وقت کے اشارے سے دیارہند میں آیا ہوں میرے مرشد بارہا فرماتے تھے کہ سلطان ہند کو زفت ہوئی ہے تو اسکی دستگیری کرکے تہلکہ سے نجات دیگا مگر یہاں قضیہ اس کے برعکس ہوا۔

ہم نے اب ملا عبد القادر بدایونی نے جو اپنی تاریخ میں لکھا ہی اسکو ختم کیا ہی اسکے تحریر کے موافق بادشاہ کے مرید اٹھارہ تھے جنمیں ایک ہندو بیربل تھا باقی مسلمان جنکے نام یہ ہیں (۱) ابو الفضل (۲) فیضی اسکا بھائی ملک الشعرا (۳) شیخ مبارک ناگوری اسکا باپ (۴) جعفر بیگ آصف خاں قزوینی شاعر و مورخ (۵) قاسم علیخاں شاعر (۶) عبد الصمد مصور شاہی (۷) اعظم خان کوکہ مکہ سے مراجعت کرکے (۸) ملا شاہ محمد شاہ آبادی مورخ (۹) صوفی احمد (۱۰) صدر جہاں میر صدر اور اسکے دو بیٹے (۱۲) میر شریف آملی بنگال میں بادشاہ کا خلیفہ (۱۴) سلطان خواجہ صدر (۱۵) مرزا جانی حاکم ٹھٹہ (۱۶) نقی شستری (۱۷) شیخ زادہ گوسالہ بنارسی (۱۸) بیربل نمبر (۴) سے (۲) تک کا بیان آئین اکبری میں ہے اور باقی کا بیان بدایونی میں ہے - اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کے مریدوں میں اہل علم بہت سے تھے -

اب ہم منتخب التاریخ ملا عبد القادر بدایونی کو زیادہ تکلیف نہیں دیتے جو کچھ ہم کو شہنشاہ اکبر کے مذہبی خیالات و معاملات میں انتخاب کرنا تھا وہ منتخب کرلیا کوئی بات چھوڑی نہیں اس مضمون کو ملا نے ایسی خوش ترتیبی سے لکھا ہے کہ کسی اور تاریخ میں اس طرح نہیں تحریر ہوا اسنے اول سے کہ شہنشاہ کو اسلام کی حقیت میں کیوں شبہات پیدا ہوئے اور کیوں کر انھوں نے بڑھ کر یہ نوبت پہنچائی کہ اکبر کے دل میں اسلام کا نام باقی نہیں رہا اور اسنے بتدریج اپناہی مذہب قائم کرلیا خوب توضیح سے بیان کیا ہی اب اس تاریخ کے بعد ہم دبستان المذاہب کو جو شہنشاہ اکبر کی وفات سے تناسی برس بعد تصنیف ہوئی ہے اور اوس میں مذہب الٰہی کی طول طویل داستان لکھی ہے ہاتھ میں لیکر مطالعہ کرتے ہیں - تعلیم دہم اس نے عقائد الٰہیہ میں لکھی ہے اور وہ چار نظر پر مشتمل ہے نظر اول میں ظہور خلیفۃ اللہ اور بعضی اس کے معجزات جن کو برہان کہتے ہیں تحریر ہیں - نظر دوم میں ارباب ادیان و مذاہب کے بحثیں جو حضرت خلیفۃ اللہ کے روبرو ہوئیں اور براہین خلیفۃ اللہ نظر سوم کواکب کے فضائل میں نظر چہارم دستور العمل

اس کتاب کے مصنف نے اپنا نام نہیں ظاہر کیا اسکا حال کچھ معلوم نہیں کہ کون ہے مگر اسکا رجحان آتش پرستی کیطرف معلوم ہوتا ہے اسنے مذہب الٰہی کے بیان میں بہت کچھ منتخب التاریخ ملا عبد القادر بدایونی سے اور ابو الفضل کی آئین اکبری اور اکبر نامہ سے نقل کیا ہے جو باتیں کچھ زائد اُسنے لکھی ہیں صرف انکو نقل کرتے ہیں۔ باقی بیانوں کے نقل کی ضرورت نہیں سمجھی کہ ہم انکو اصل سے نقل کر چکے ہیں نقل کی نقل سے تحصیل حاصل ہوگی اس سے کیا فائدہ ہوگا۔

نظر اول میں دو معجزے خلیفۃ الحق کی پیدایش کے باب میں وہ بیان کرتا ہے۔ خواجہ مسعود ابن محمود ابن خواجہ مرشد الحق کہ مرتاض صاحب حال تھے اُسنے دبستان المذاہب کے مصنف سے بیان کیا کہ میرا باپ کہتا تھا کہ میں نے بڑے بڑے اولیا سے سُنا تھا کہ صاحب دین و دنیا کا ظہور ہوگا میں نہیں جانتا تھا کہ صاحب فضل پیدا ہوگیا یا آیندہ پیدا ہوگا میں نے رات کو وہ واقعہ دیکھا تو میں خواب سے بیدار ہوکر دفعۃً اُس زمین میں پہنچا جہاں وہ سعادتمند پیدا ہوا تھا یعنی تباریخ [illegible] یکشنبہ شہر رجب [illegible] میں حضرت جلال اکبر فرزند سعادتمند ہمایون بادشاہ حمیدہ بانو بیگم [illegible] متولد ہوا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ مرزا شاہ محمد مخاطب بہ غزنیں خاں خلف شاہ بیگ [illegible] خاں دوران خاں ارغون سے مصنف دبستان نے لاہور میں ۱۰۵۳ھ میں [illegible] عزیز خاں کو مخاطب بہ خان اعظم سے اس نے پوچھا کہ آپ اس باب میں کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی طرح اکبر نے اپنی ماں سے باتیں کیں تو اس نے یہ جواب دیا کہ میری والدہ کہتی تھیں کہ سچ ہے۔

نظر دوم شیعہ سُنی کا مباحثہ لکھا ہے مگر یہ مباحثہ عالمانہ نہیں ہے جو ایک دو باتیں اس میں قابل لحاظ ہیں وہ بدایونی کے بیان میں اوپر آگئی ہیں پھر عیسائی اور مسلمان کا مباحثہ ہے جسمیں کوئی لطف کی بات نہیں پھر اسی مباحثہ میں نصرانی اور یہودی کی تو تو میں میں داخل کردی ہے پھر ایک حکیم اور مسلمان و نصرانی و یہودی کا مباحثہ ہے اور آگے اس مذہب کے مباحثے لکھے ہیں۔ حکیم نے جو باتیں کہیں ہیں انمیں سے اکثر ہمنے بدایونی کی

کتاب سے اوپر نقل کی ہیں چند مضامین جو اوپر نہیں بیان ہوئے وہ یہ ہیں کہ (۱) شہنشاہ اکبر نے ایران روپیہ بھیجکر آزر دشیر زردشتی عالم کو ہندوستان میں اپنے پاس بلایا (۲) ابوالفضل نے جو آیۃ الکرسی کی تفسیر تالیف کی تھی اسکے برعکس ایک خطبہ دو جزو کا مہابھارت کے اول لکھا۔

(۳) بدایونی نے تو صرف یہ لکھا ہے کہ کوئی ہندنی کسی مسلمان پر فریفتہ ہوکر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو بالجبر پکڑ کر اسکے اہل کو حوالہ کریں۔ دبستان میں یہ اسپر اور اضافہ کیا کہ اگر کوئی مسلمان عورت ہندو پر فریفتہ ہو اور ہندوؤں کا مذہب اختیار کرے تو اوس کو منع کریں اور ہندو نہ ہونے دیں (مگر مسلمان عورت ہندو مذہب کسی طرح نہیں اختیار کرسکتی) (۴) ملا ترسون بدخشی سے کہ مسلمان حنفی مذہب تھا ۱۰۵۳ھ میں مصنف دبستان نے سُنا کہ ایک روز میں سکندرہ میں کہ مرقد حضرت عرش آشیانی کا ہے زیارت کو گیا اُسکے ساتھ اور رفیق تھے جن میں سے ایک نے بقعہ مطہرہ میں جانے سے انکار کیا اور خلیفۃ الحق کی فضیحت کی یاروں نے کہا کہ اگر حضرت عرش آشیانی کو علم باطنی ہوگا تو ضرور اس منکر کو ضرر پہنچے گا اس وقت اسکی پانوں کی انگلی ایک پتھر کے شگاف میں گھس گئی جس سے وہ ٹوٹ گئی (۵) شاہ سلام اللہ سے ملتان میں صاحب دبستان کی ملاقات ہوئی تھی وہ ایک مرد مجرد و موحد و مرتاض ہے خلقت سے بھاگتا ہے وہ کہتا تھا کہ جلال الدین اکبر سے میری بہت صحبت رہی ہے میں نے مکرر اس کو کہتے ہوئے یہ سُنا کہ جو علم اب مجھے حاصل ہوا اگر پہلے حاصل ہوا ہوتا تو کسی عورت سے جفت نہ ہوتا اسلئے جو عورتیں مجھ سے بڑی ہیں وہ میری ماں اور ہمسال خواہر اور خوردسال دختر اور یہی بات ایک میرے عزیز نے نواب ابوالحسن مخاطب بہ لشکر خاں مشہدی سے نقل کی کہ حضرت جنت آشیانی بھی فرماتے تھے (۶) شاہ اسلام اللہ یہ بھی فرماتے تھے کہ حضرت خلیفۃ الحق (اکبر) ارشاد کرتے تھے کہ کاش میرا جسم ایسا بڑا ہوتا کہ اہل جہان اُسے کھاتے اور جانوروں کو آزار نہ دیتے (۷) اس تاجدار پادشاہ کی ایک دمدمہ یہ تھی کہ ہر قسم کے آدمی فرنگی و یہودی و

و ایرانی و تورانی کو وہ نوکر رکھتا تھا۔ اگر پادشاہ ایک ہی قسم کے گروہ کو نوکر رکھتا وہ فساد کرتے ہیں جیسے کہ ازبکوں اور قزل باشوں نے اپنے سلاطین کو معزول کیا۔ شاہ عباس ابن سلطان خدابندہ صفوی نے اکبر کا اقتدا کر کے گرجیون و اہل جارجیا کو ترتیب فرمایا۔ شہنشاہ اکبر کو میراث کی دولت پر نظر نہ تھی اور نہ وہ حسب و نسب کا لحاظ کرتا تھا جسمیں فرہنگ و آداب کی قابلیت دیکھتا اسکی پرورش کرتا۔ ابوالفضل نے اول دفتر کے آئین ۲۶ و آئین ۲۷ و ۷۷ و ۷۱ میں اور دفتر دوم کے آئین ۱۸ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۰۷ و ۲۵۔ اور دفتر سوم میں آئین ۱ و ۲ و ۵ و ۹ و ۱۰ میں اکبر کے خیالات مذہبی بیان کئے ہیں مگر بعض مضامین اکبر نامہ سے نقل کرتے ہیں جو اُس کے مذہبی خیالات ظاہر کرتے ہیں۔

دعا ۹۸۲ھ

۹۸۲ھ میں بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی۔ کسانوں پر سخت مصیبت آئی قحط کے مارے ایک خلقت نے دہائی مچائی۔ سب نے ایک دل و یک زبان ہوکر بادشاہ سے عرض کیا کہ دادار توانا سے حضور رحمت کے دروازوں کے کھلنے کے لئے دعا فرمائیں۔ اس پر بادشاہ نے ارشاد کیا کہ چاہنا دعا مانگنا ظاہر پرستوں کی رسم و عادت ہے۔ پروردگار مہربان سب کچھ جانتا ہے اور ہماری خواہش سے پہلے بوجہ تقدیر پر جو ہونا ہے لکھا ہے۔ بزرگان دین جو دعا مانگتے ہیں اون کی غرض یہ ہوتی ہے کہ نادان ہوشیار ہو جائیں اور نیازمندی کو جو پیرایۂ عبادت ہے اختیار کریں۔ بندوں کے حق میں خدا کی شفقت الٰہی ہماری طلب کی محتاج نہیں ہے کہ ہم اسکو یاد دلائیں یا تعلیم کریں۔ ع خدا را رہِ رحمت آموختی
اس حال میں بارش ہونے لگی۔

عبادتخانہ

ابوالفضل نے جو عبادت خانہ کا حال اکبر نامہ میں لکھا ہے اسی میں بادشاہ کے مذہبی خیالات کا چربہ اُترا ہے اسمیں سے اصل مطلب کو اخذ کر کے لکھتے ہیں باقی مضامین کو ترک کرتے ہیں۔ بادشاہ نے رموز حق جوئی اور فرط معدلت پژوہی سے ایک

انجمن اعلیٰ کے لیے ایک نشیمن عالی بنایا۔ بادشاہ کا اندیشۂ والا یہ تھا کہ میرے عہد سلطنت میں ژرف نگاہی اور انصاف طرازی کے سبب سے جو ملک صورت کے کارواں تھے اُن کا ظہور ہوگیا۔ اور بہانہ ورزی اور سفارش گزینی کا بازار گرم نہیں رہا اسی طرح جو اہل علم و عمل اور اہل باطن ہیں اُن کا امتحان بھی کیا جائے ادیان و ملل کی حقیقت و مذاہب و مشارب کی تشخیص کا ظہور ہو۔ ہر ایک کی دلائل و براہین کی تنقیح ہو اور خالص سونا غلط انداز کھوٹ سے جدا ہو جائے دلوں میں اس کی نیت صافی کی برکت سے ایک نزہت گاہ جداگانہ نے حسن انجام پایا اور حیلہ آرا اور تزویر فروش نہان خانہ میں چھپ گئے اور جہان معنی کی عجب بارگاہ لگائی گئی اور پایۂ شناسی بلندی گرا ہوئی۔

۲۰ ماہ مہر الٰہی سنہ ۹۹۶ کو اس عبادت خانہ میں بزم تعلق میں خلوت تجرد کا چراغ روشن ہوا۔ اور مدرسہ و خانقاہ کے دانش اندوزوں کا نقد عیار گاہ میں آیا دُرد سے صاف اور مکدر سے خالص جدا ہونا شروع ہوا۔ ظل الٰہی کی فراخی حوصلہ چہرہ آرا ہوئی۔ صوفی حکیم متکلم فقیہہ سُنی شیعہ۔ برہمن جتی سیوڑا چارباک نصاری۔ یہود۔ صابی۔ زردشتی اور سب طرح کے آدمی اس مجلس میں آئے اور جنگجو پرخاش کنوں کے خوف بغیر وہ راز کے گنجینہ کشا ہوئے ہر گروہ کے حقیقت بیں انصاف طراز رعونت و خود پرستی سے نکلکر کام کرنے لگے اور ژرف نگاہی اور تامل گزینی سے مسند بزرگی سے نشاط جاوید جمع کرنے لگے خود آرا الحاح پیشوں نے بدگوہری اور کم اندیشی سے گلزار پندار میں اپنے تئیں داخل کیا اور اپنا سود زیان میں دیکھا نادان ہمنشینوں کی رہنمائی سے اُن کی رسوائی ہوئی۔ بادشاہ کے سبب سے ہنگام تقلید میں جو تاریک دوست تھے اُن کے لیے شمع تحقیق روشن ہوئی اور مدرسہ و خانقاہ کا دود مان کسوٹی پر چڑھا اور اس سے بہت لوگ غنی ہو گئے۔ بادشاہ دنیابخش و دین آرا کی ایسی شہرت ہوئی کہ طالبوں کو وطن میں رہنا تلخ معلوم ہونے لگا اور اُنھوں نے سفر اختیار کیا اور درگاہ شاہنشاہی میں ہفت اقلیم کے مستعدوں کا موطن اور ملل و نحل کے دانایوں کا مجمع ہو گیا جو جماعت کہ گرمزی و حیلہ اندوزی کے وسیلہ سے اہل دانش کے لباس میں آگئی تھی اس کی قلعی کھل گئی۔

بعض بعض بے شرم حیلہ اندوز باوجود ظہور حق اور متواتر ملزم ہونے کے زبان درازی اور سینہ زوری اس خیال سے کرتے تھے۔ جیسے پہلے فرمانروایوں کی بے تمیزی سے مقاصد علمی و مطالب حکمی کی کمتر تشخیص ہوتی تھی اور دانا نما بیدانشوں اور بیمناک دانایوں کے حوالہ ہوتے تھے شاید اس محفل میں بھی ہمارا کام یوں چل جائے مگر اس محقق حق جو بادشاہ کے روبرو شرمسار ہو کر گمنامی کے گوشہ میں بیٹھے اور جو خردپژوہ دلیل کے بندہ تھے وہ گوشہ نشینی سے نکلکر سربلند ہوئے اور کل دین و مذہب وعقل کا پایہ بلند ہوا اور دانش اندوزوں کا ستارہ چمکا۔ علمائے متعصب اور فقہائے متقلد کا کام دشوار ہوا۔ وہ نقل آرائی اور چرب زبانی کے سبب اپنے تئیں حکماء کا سرآمد کہتے تھے ان کا پردہ فاش ہو گیا قلب کا رتبہ رلے کا گھر ہزاروں تہمت و بہتان کا گھر بن گیا۔ ان کج منشوں شورش انگیزوں نے اس خداپرست بادشاہ کی نسبت لامذہبی کا الزام لگایا مگر بادشاہ باوجود سطوت ظاہری و باطنی کے اس گروہ کے پاداش کا درپے نہوا اپنی زبان کو اُن پر نفرین کرنے سے اور دل کو اُن سے نفرت کرنے سے باز رکھا اور اپنی خاطر کو اُن سے ملول نہیں کیا۔

ایک رات کو عبادت خانہ کے اندر انجمن میں حقیقت کی روشنی چمک رہی تھی پادری ردلف (ردلف) کہ نصاریٰ کے دانشوروں میں فہم و فطرت میں یکتا تھا۔ اس علمی بزم میں نکتہ طراز تھا۔ بعض تعصب اندیش نادرست مغالطہ آرائی اور پاسخ گوئی کرتے تھے محفل کی نوازفزائی انصاف سے روشن ہوا کہ ان میں سے کوئی شاہراہ دلیل پر نہیں چلتا تھا وہی متقدمین کی مانی ہوئی باتوں کا تانا بانا بنتا تھا اور معمار حقیقت کی کشائش پر کوئی توجہ نہیں کرتا تھا قریب تھا کہ ایک بار پردہ روئے کار سے اُٹھ جائے شرمسار ہو کر اس گفتگو کو چھوڑ کر انجیل کی تحریف کے باب میں گفتگو کرنے لگے اس کے اثبات میں خصم ہو کر خاموش نہ کر سکے پادری نے اپنی آرمیدہ خاطر اور یقین پیرا دل سے کہا کہ حاشا یہ امور فروغ صدق نہیں رکھتے۔ اگر واقع میں یہ گروہ ہماری کتاب کی نسبت یہ اعتقاد رکھتا ہے اور قرآن کریم کو کلام

ایزدی خالص جانتا ہو تو چاہیئے کہ آگ روشن کی جائے ہم اپنی انجیل کو اور علما اپنے قرآن
کو ہاتھ میں لیکر اس عیار گاہ راستی میں چلیں ہر ایک اپنی رستگاری کو نشان حق جانے۔ سیاہ
دلوں نے اس کا جواب متعصبانہ لجاجت کے ساتھ دیا۔ بادشاہ کو علما کی یہ شتر دلی اور بے
آزرمگی ناگوار خاطر ہوئی اور اس کی نکتہ آرائی سے علم کی بزم نور آگیں ہوئی بادشاہ ہمیشہ ان آتوں
میں دلاویز نکتے اور باتیں کہتا۔ اس نے ایک رات کو یہ بیان کیا۔ زیادہ تر خراب درون
ظاہر آرایوں کی ہمزبانی سے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ صورت آرائی اور
حرف سلمانی بغیر پذیرائی اندرونی کے فائدہ دیتی ہو اس سبب سے بہت سے برہمنوں کو
بیم افزائی اور زور آوری سے اپنے بزرگوں کے دین میں لایا تھا مگر اب باطنی حقیقت کھلی
تو علم کی روشنی میں یہ نظر آیا کہ آشوب گاہ اختلاف میں پندار کی تیرگی اور خود بینی کی تاریکی
تہ برتہ چڑھی ہوئی ہے بغیر دلیل کی مشعل کے کوئی قدم نہ رکھنا چاہیے اور وہی روش سودمند
ہوتی ہو کہ خرد کی صوابدید سے اختیار کی جائے۔ بادشاہ کے خوف سے کلمہ شہادت منہ سے
پڑھنا اور ختنہ کرانا اور سر کو زمین پر رکھنا خدا جوئی نہیں ہو ؎

طاعت آن نیست کہ بر خاک نہی پیشانی ۔۔۔ صدق پیش آر کہ اخلاص بہ پیشانی نیست

اس بادیہ خطرناک کا اول قدم یہ ہو کہ اپنی ہمت عالی اور فطرت والا سے اپنے نفس سے
لڑے جو طرح طرح سے خود آرائی کرتا ہو اور اپنے خواہش و خشم کو بزور علم سلطان خرد کا
فرمان پذیر بنائے اور اپنے دل کو ناستودہ خویوں سے خالی کرے ممکن ہو کہ برہان کی روشنی
پر وہ مغالطہ سے باہر نکال لائے اور حق پرست بنا دے جب سے دینداری کی حقیقت
مجھے معلوم ہوئی تو ہم میں اپنے آئیں پیشین کی نکوہش کرتا ہوں۔ جہاں کو تند باد بے تمیزی
نے گھیر رکھا ہو مختلف مذہبوں کے آئین بیان ہوتے ہیں اور ان کی سنجیدگی بادشاہ
کی محفل میں مذکور ہوتی ہو۔ بادشاہ کے نزدیک دورائی عامہ کی کچھ قدر نہیں وہ ہر مذہب
میں جو پسندیدہ بات ہو تحسین کرتا ہو اور بارہا اس نے فرمایا ہو کہ آدمی وہ ہو کہ

انصاف کو اپنی راہ طلب کا پیش رو بنائے اور ہر گروہ کی جو بات پسندیدہ خرد ہو اُس کو اختیار کرے شاید اس سے وہ قفل جس کی کنجی گم ہو گئی ہو کھل جائے۔ اس تقریب میں ہندی نژادوں کی حقیقت گزینی کی ستائش اُس نے اس فصاحت سے بیان کی کہ وہ وفاداری کے لیے ان چار چیزوں مال و جان و ناموس و دین کو دیدیتے ہیں اور چار چیزوں کے سوا دنیا میں کچھ اور نہیں ہے۔ اس ملک کی عورتوں کے ستی ہونے کی اس حالت میں بھی کہ اسکا زمانہ ناکامی سے گذرا ہو روشن بیانی سے گزارش کر کے عبرت افزا ہوا۔

نصاریٰ کے پادریوں سے بادشاہ نے کہا کہ تمہارے دین میں عورت کا احترام داخل ہے اور سوائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنی روا نہیں ہے اس لیے اگر وفاداری اور جانفشانی اس گروہ کی عورتوں میں ہوتی تو چنداں تعجب نہ تھا۔ تعجب تو یہ ہے کہ برہمن اپنے مذہب کے موافق کتنی ایک بیویاں کرتے ہیں اور ان میں بہت سی کم پروائی اور بے باکی اور قدرناشناسی سے خلوت سرائے میں ناکام رہتے ہیں اور باوجود اس پیچ زندگانی کے بھی وہ مشعلہ دوستی میں گرم اور ہمتائی ہوتی ہیں

بیت

سوزند ہم ز عشق سیراب ۔۔۔ ہمچوں دو فتیلہ خوردہ یک تاب

۲۰۔ شہریور ماہ ۹۸۶ھ کو ایک انجمن کار آگہوں کی جمع ہوئی اور اس میں یہ قرار پایا کہ بادشاہ امام وقت و مجتہد روزگار ہے پہلے علماء میں جو مختلفات ہیں اُن کے باب میں جو بادشاہ فیصلہ کرے اُس کو تسلیم کرنے میں سب لوگ خوشنودی ایزدی جانیں ایک محضر اس مضمون کا تیار ہوا۔ مولینا عبداللہ سلطانپوری جس کا خطاب مخدوم الملک تھا و شیخ عبدالنبی صدر نے کہ شیخ الاسلام تھا و غازی خان بدخشی و حکیم الملک اور اور بزرگ دانشمندوں نے اس پر اپنی مہر کی بادشاہ نے سنا تھا کہ ائمہ ہدیٰ اور خلفاء راشدین منبر پر بیٹھکر خطبہ پڑھا کرتے تھے اور اس عبادت کو کسی اور کے

بادشاہ کا مجتہد ہونا

سپر نہیں کرتے تھے اس لیے وہ منبر پر چڑہا اور اُس نے وہی اشعار فیضی کے جن کا بیان
اوپر کیا ہی پڑہی ۔

قدیم سے یہ رسم چلی آتی ہی کہ ہمیشہ حق جو خدا کے بندوں کی نسبت نادان بیہودہ
باتیں بنایا کرتے ہیں اور اپنے خزف ریزوں کو بیش قیمت جواہر جانتے ہیں اور اپنے سنگ
سیہ کو شب چراغ روشنائی اور گیتی نمائے خدا گانی جانتے ہیں بادشاہ کی نسبت بھی
دانا نما نادانوں نے باتیں بنانی شروع کیں ۔ ہر طرف ایک شورش ہوئی اور بدگوئی کی انجمنیں
جمع ہوئیں ۔ کسی طائفہ نے یہ کہا کہ بادشاہ خدائی کا دعوی کرتا ہی ۔ اس کا سبب یہ تھا
کہ بعض آدمی بادشاہ کی یک جہتی میں ایسے پیش قدم تھے کہ نصیر کے مشرب میں اور حسین منصور
کے ذوق میں آنکر بادشاہ کو مظہر حق جانتے تھے ۔ بادشاہ کا مذہب صلح کل تھا اس لیے
اُس نے ان آشفتہ عقلوں کو سزا نہ دی ۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ بادشاہ خدا کی پیغمبری کا
دعوی کرتا ہی ۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ دین دنیا کے نئے نئے آئین ایجاد کرتا تھا
اور پہلے لوگوں کی باتوں پر اعتراض کرتا اور اُنہوں نے بادشاہ کو دیکھا تھا کہ برخلاف
آئین کے اُس نے خطبہ پڑہا ۔ بادشاہ ان سب باتوں کا تماشا دیکھتا ۔ اپنی فراخ حوصلگی
سے کچھ اُن کے گزند کے درپے نہوتا اور بار بار یہ کہتا کہ سبحان اللہ ان نادانوں کے
دل میں یہ بات کیونکر آتی ہی کہ میں ایک امکانی حدوث آمود درماندہ طبائع الوہیت
کا دعوی کروں وہ گروہ کہ ہادیان آفاق سے ہو اور اُس نے اپنے اعجاز کی شگرف کاری
دکھا کر نبوت کا اظہار کیا ہو ۔ اور اس پر ایک زمانہ گزر گیا ہو اور کئی دور ہو چکے ہوں
کہ اس معنی نے پرورش پائی ہو اور وہ اب بھی افزوں ہوتا جاتا ہو تو میرے دل میں
کب یہ خیال آسکتا ہی کہ میں ان میں ہوں ۔ صورت پرست ظاہر نگاہوں کو معلوم
نہیں یہ خیال کیوں سراسیمہ کرتا ہی ۔ ملامت کشی و طنز پروری صافی دلوں کو فروغ
دیتی ہی وہ ان تیرہ رایوں کی سرزنش نہیں کرتے ایک طائفہ کو یہ خیال تھا کہ بادشا

دین محمدی کو ناستودہ جانتا ہے اور اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ اپنی فراخ مشربی کے سبب سے اور عموم مہر افزائی کی جہت سے اور ظل الٰہی ہونے کی وجہ سے گروہا گروہ آدمیوں سے دوستی رکھتا تھا خصوصاً ہر کیش کے دانش اندیشوں کو اور ہر دین و مذہب کے ریاضت اندوزوں سے ہمیشہ مطالب دینی و مقاصد حقیقی کے دلیل پوچھتا تھا مگر اُن کی بے دانشی اور کم پژوہی سے جواب پسندیدہ کافی کبھی نہ پایا خصوصاً اس زمانہ میں کہ نصاریٰ کے فیلسوف بادشاہ کی محافل میں آئے اور متفقہوں کی دار و گیر اور دانش گزاری کا زمانہ آیا دو دمان آگہی کے بدنام کرنے والے کہ حیلہ سازی سے با وجود علم نہونے کے اپنے تئیں دانشمند جتلاتے ہیں سورش برپا کرنے لگے اور داوری کے روز بازار ہونے سے اور تمیز کے ہنگامہ کے گرم ہونے سے خجالت زدہ ہو کر نادانی کے جیب میں سر چھپانے لگے اور خلوت کدوں میں اپنے دمسازوں سے کہنے لگے کہ ہم کو دین کا غم کھائے جاتا ہے اور بادشاہ وقت جانب داری کے سبب سے ہمارے جواب کو نہیں سُنتا غرض بادشاہ پر انہوں نے یہ تہمت جھوٹی تھوپی اُنہوں نے اس پر کچھ خیال نہیں کیا کہ وہ خاندان نبوت کا احترام اور بزرگ داشت ایسی کرتا ہے کہ پہلے کسی بادشاہ نے کمتر کی ہوگی۔ بادشاہ کی توجہ سے بہت سے سادات سعادت اندوز مراتب عالی اور مناصب والا پر سربلند ہوئے ہیں اور ہمیشہ اُن کی آرزوئیں بر آتی رہتی ہیں اور بادشاہ نے منع کر دیا ہے کہ اس خاندان میں سے کوئی اس کے قدموں پر سر نہ رکھے اور اس کے آستانہ پر ناصیہ فرسا ہو۔ ایک طبقہ نے اپنی کج بینی اور بدنیتی سے بادشاہ کو کہدیا کہ تشیع سے دل اُس کا آلودہ ہوا ہے اور سادہ لوح سینوں کو اُنہوں نے بھکا دیا اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ دونو فریق کے دلائل اپنی محافل میں سنتا اور ان دلائل میں سے جس کو راجح دیکھتا اُسے قبول کرتا ۵

بیانے کہ باشد بحجت قوی
زنا فرخی باشد ار نشنوی

بادشاہ کے دربار میں ایرانیوں کے اعتبار پانے سے یہ بدگمانی شیعہ ہونے کی اور زیادہ ہوگئی مگر اس کے ساتھ وہ تعصب کے سبب سے یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ تورانیوں نے بھی بزرگی پائی ہے ایک گروہ بادشاہ پر برہمن کیش ہونے کی تہمت رکھتا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ بادشاہ اپنے فراخی حوصلہ کے سبب سے دانشمند برہمنوں کو اپنے قریب جگہ دیتا اور طوائف ہنود کا درجہ مصلحت ملکی کے لیے اور افزونی حقیقت کے واسطے بڑھاتا اور تمدن کی شائستگی کے واسطے اُن سے گرم خوئی کر کے ملاطفت کرتا۔ ان شبہات کے تین سبب تھے۔ اول بادشاہ کی افزونی شناسائی کی وجہ سے اس کی بارگاہ میں ملل و نحل کے دانشوروں کا مجمع تھا اس وجہ سے کہ ہر اہیں کے ساتھ چند شائستگیاں ہوتی ہیں بادشاہ ان سے بہرہ یاب ہوتا تھا اور انصاف گزینی کی کثرت کے سبب سے وہ کسی طائفہ کے ہجو کرنے سے دوسرے طائفہ کی نکوئی پر پردہ نہیں ڈالنے دیتا تھا۔ دوم بادشاہ کی پیشگاہ میں صلح کل کے ہنگامہ نے رونق پائی تھی اور گروہا گروہ مزدم مختلف الحال کا مردائی صورت و معنی ہوتے تھے۔ سوم زمانہ کے تباہ سرشت کج گرا فرومایہ بادشاہ خیر پسیجی وحق سگالی سے تھوڑے عرصہ میں نادانی سے شرمسار ہو کر اپنی بیدانشی کے زمانہ کی چارہ گری کے لیے تگاپو کرنے لگے اور بہت شکنجہ ناکامی میں گرفتار ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچے۔

ہم نے اکبر کا مذہبی خیال کوئی چھوڑا نہیں بلکہ بعض خیالات کو مکرر مختلف پیرایوں میں لکھا ہے اُن کو عبدالقادر بدایونی کی منتخب التاریخ اور ابوالفضل کی تصنیفات سے بالترتیب نقل کیا ہے اور کتابوں سے بھی اخذ کیا ہے۔

اکبر نے سنہ ۱۰۱۴ء میں وفات پائی اور ملا عبدالقادر کی تاریخ سنہ ۱۰۰۴ء کے حالات پر ختم ہوئی ابوالفضل نے سنہ ۱۰۱۱ء میں وفات پائی اور اکبر کے مرنے سے پہلے اس کی آئین اکبری اور اکبرنامہ ختم ہوگئے بس اکبر کے مذہبی خیالات کے تغیرات کا ذکر آخر اس برس میں کسی مورخ نے نہیں لکھا۔

شہنشاہ اکبر کے خیالات مذہبی ہمیشہ بدلتے رہتے تھے معلوم نہیں کہ اس آخر دس سال میں اُن
میں کیا تغیر و تبدل ہوا - جہانگیر کی توزک جہانگیری کا ترجمہ انگریزی زبان میں میجر پرائس صاحب نے
کیا ہے - ترجمہ میں یہ فقرہ لکھا ہے کہ شہنشاہ نے سب سے بڑے مولوی کے ہاتھ پر توبہ کی اور کلمہ
پڑھکر جنتی مسلمانوں کی طرح وہ اس دنیا سے رخصت ہوا - مگر اس مضمون کا کوئی فقرہ اس توزک
جہانگیری میں موجود نہیں ہے جو سر ڈاکٹر سید احمد خاں بہادر نے ۱۸۶۴ء میں چھپوایا ہے اکبر ایسا
ہر دل عزیز تھا کہ عوام کو اس طرح مرنے کا یقین تھا جو اسلام کہ اُس کے زمانہ میں مروج تھا اُس نے
اُس زمانہ میں ترک کیا تھا کہ اُس کی عقل میں قوت اور سلامتی و صحت تھی اگر اس نے پیرانہ
سالی میں پھر اپنے ایام طفلی کی اسلام پر مراجعت کی ہو تو اس میں تعجب نہیں ہے - اکثر مصلحان
دین کی نسبت یہ بات کہی گئی ہے اور بعض اوقات وہ صحیح ہوئی ہے کہ جب عقل میں بسبب
کہن سالی کے ضعف آجاتا ہے تو وہ پھر اپنی ابتدائی حالت پر عود کرتی ہے اور ایام طفلی میں جو دل پر
نقش جمے ہوئے تھے وہ پھر اپنا رنگ چمکا کے تازہ ہو جاتے ہیں اس لیے اکبر کے مرنے کا
حال جو اس کے بیٹے جہانگیر نے تحریر کیا ہے غالباً وہ سچ ہو گا - عبد القادر بدایونی کی تحریر
سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اوّل شہنشاہ اپنے تئیں ان تمام حقوق کا مستحق سمجھتا جو بادشاہ کے خدا
کی طرف سے مقرر ہیں بعد ازاں مجتہد بنا پھر پیغمبری کا دعویٰ کیا اور پھر خدا بنا ہم نے ابو الفضل
کی تحریر جو اوپر نقل کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکبر نے نہ کبھی خدا ہونے کا دعویٰ کیا نہ پیغمبر
ہونے کا - دونوں باتوں کے باطل ہونے کو خود اکبر کی زبانی بیان کیا ہے - وہ مجتہد اس
معنی کر اپنے تئیں جانتا تھا کہ مسلمات قرآن شریف کی غلط بیانی شنکر غلط کام کرتے ہیں مجکو
خدا نے اس کے صحیح معنی سمجھانے کے لیے مقرر کیا ہے -

بادشاہ کی طبیعت حق جو تھی وہ ہمیشہ حق کی تلاش کے سوالات کیا کرتا تھا - مگر
کبھی اس کو جواب باصواب نہ ملا کہ وہ حق کو ایسا پاتا کہ اُس کے دل کی تسلی و تشفی ہوتی
گو اس کا دماغ دل حق پژدہ ہو مگر وہ ایسا قوی نہ تھا کہ اس کو ہم اُن اعلیٰ درجہ کے

حق پژوہوں میں شمار کریں جنہوں نے دنیا میں اپنی حق یابی سے حق پرستی کا ہزاروں دلوں میں نقش جما دیا۔

سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے بادشاہ علماء متعصب آئین کے فتووں کے موافق مخالفان مذہب اسلام کو ایذا اور ضرر پہنچاتے تھے اور اس کو ہزاروں اجر اور ثواب کا منتج جانتے تھے بیگانوں سے ان جہالت کیشوں کے فتووں سے اخذ جزیہ و اموال و عیال و اطفال اعظم عبادات سبیل الارباب میں سے شمار ہوتی تھی مگر فی الحقیقت وہ اطاعت نفس و ہوا پرستی تھی اس بادشاہ نے کہ طریقہ معاش و معاد میں عقل خداداد رکھتا تھا صلح کل کا بساط بچھایا۔ اور طوائف انام و طبقات خلائق کو یکساں شمار کیا اور اس نے کہا کہ خالق جہاں آرا نے مختلف المشارب و متنوع المذاہب پر اپنا در فیض کھولا ہے اس کا لطف عام سب پر شامل ہے پس بادشاہ پر کہ ایزد متعال کا سایہ ہے واجب و لازم ہے کہ وہ تخالف و تنازع دینی منظور نظر نہ رکھے اور خدا کے بندوں کو ایک نظر سے دیکھے اور اپنی عنایت کے پرتو کو آفتاب کے نور کی طرح نیک و بد پر یکساں چمکائے اور ہندو مسلمان و گبر و ترسا اور مذہبوں سے صلح کل اختیار کرے اور کسی دین و مذہب میں تعرض نہ کرے۔ وہ اپنے قدیم دستور کے موافق پرستش کریں ؎

درحیرتم کہ دشمنی کفر و دیں چرا ست ۔۔۔ از یک چراغ کعبہ و بتخانہ روشن است

ملانوں اور درباریوں نے جو مذہب کا مقابلہ کیا اس میں اکبر ہی غالب آیا مگر اس کا مذہب عوام الناس میں نہ پھیلا چند حکیمانہ طبیعت والوں اور لالچی ملانوں اور خوشامدی درباریوں کے سوا مذہب الٰہی کسی نے نہیں اختیار کیا۔ اکبر نے ان میں نہ اپنے مذہب پھیلانے کی سعی کی اور نہ اس کی اشاعت میں وہ اپنے اختیارات کو کام میں لایا نہ کسی کو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ یہ مذہب الٰہی اس کا اتنا بھی نہ چلا کہ جیسا کہ کبیر پنتھیوں کا پنتھ چلا یا بعض اور فرقوں کا طریقہ جاری رہا اکبر کے مرتے ہی دین الٰہی بھی

(اشاعت مذہب الٰہی)

مر گیا۔ اس کے مذہب میں کوئی نئی بات نہ تھی فقط اس کا اصل اصول صلح کل اور توحید الٰہی تھا اور وہ بقول عرفی یہ چاہتا تھا ؎

جہاں بانیک و بد عرفی بسر کن کزپس مردن — مسلمانت بزمزم شوید و ہندو بسوزاند

افسوس ہو کہ یہ مذہب ہندوستان میں شائع ہوا اگر وہ رواج پاتا تو اہل ہند کے سر تہذیب کا تاج لگ جاتا۔

ابوالفضل نے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کا مباحثہ لکھا ہو وہ اور مسلمان مورخوں اور خود پرتگیزی مورخوں کے خلاف لکھا ہو۔

گبن ایک مشہور نامور بے نظیر مورخ سلطنت روم کی تنزل کی تاریخ کا گذرا ہو۔ وہ کچھ عیسائی مذہب کا ادب نہیں کرتا تھا ہمیشہ وہ اسلام کے مقابل میں عیسائی مذہب کی توہین اس طرح کرتا جس طرح ابوالفضل مذہب اسلام کی توقیر اور مذہبوں کے مقابل نہیں کرتا۔ اب ہم اکبر کے مذہب کی نسبت جو پرتگیزوں نے اپنی تاریخوں میں لکھا ہو اور اکثر اس کی نقل انگریزی تاریخوں میں ہوتی ہو اس کو لکھتے ہیں۔

اکبر کی سلطنت میں مغلوں کے دربار میں ایک فرنگستانی مشن مذہبی آیا۔ اگرچہ اکبر خود کسی خاص مذہب کا پابند نہ تھا مگر اس کو دلی شوق تھا کہ وہ دنیا کے انسانوں کے مختلف مذاہب کی تحقیق کرے اور اُن کی طرز عبادت اور اعتقاد ایمان سے واقف ہو۔ جب اس نے سُنا کہ زمین کے بعد ایک بعید فاصلہ سے نئی طرح کے آدمی آئے ہیں اور اُن کا مذہب ہندوستان کے کل مذہبوں سے نرالا ہو تو اس نے اُن کے بلانے کا اور اُن سے بحث کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک خط گوا میں پرتگیزوں کو لکھا کہ وہ اپنی مشنریوں کو مع اپنی شریعت کے کتابوں و انجیل کے یہاں بھیجدیں یہ اُن کا اطمینان کردیا کہ اُن کی بڑی خاطر کی جائے گی۔ اس زمانہ میں مغلوں کے نام سے خوف کے مارے اہل فرنگ کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہوجاتے تھے۔ مگر جو خدا پرست اس کام

پرتگیزوں نے جو حال دربار اکبری میں اپنا آنا لکھا ہو اور وہ اکثر انگریزی تاریخوں میں نقل ہوتا ہو

کے واسطے منتخب کیے گئے۔ انہوں نے اس خوف کا کچھ خیال نہ کیا اور بیدھڑک یہ فیصلہ
کیا کہ ایسے کام کے لیے جس میں نتائج اعظم کی امید ہو خوف کے اندیشہ سے انکار کرنا نہیں
چاہیئے ۲۔ دسمبر ۱۵۷۹ء میں اے کوے وا۔ مون سوریٹ ان ریلوی کو لیں سورت کو
روانہ ہوئے۔ جب مشنری سورت میں آئے تو ان کے ساتھ بادشاہی سوار ساتھ ہوئے اول
وہ دریا تاپتی سے اُترے پھر دریا نربدا سے پھر باندہ میں وہ آئے جس کے پندرہ میل میں
کھنڈرات دیکھنے سے یہ خیال اُن کو پیدا ہوا کہ دنیا کے بڑے شہروں میں سے یہ ہوگا پھر وہ
اجین کے بڑے شہر میں آئے راہ میں انہوں نے بنیوں کے توہمات کو دیکھا کہ نہ تو وہ کسی جانور
کو مارتے ہیں اور نہ کسی زندہ کو مردہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اپنے ضعیف اور علیل
بھائی بندوں کی تیمارداری میں غفلت کرتے ہیں مگر پرندوں اور حیوانوں کے واسطے انہوں
نے بڑے بڑے دارالشفا تیار کیے ہیں ایک پرتگیزی کپتان نے روپیہ مارنے کی یہ ترکیب
نکالی کہ وہ بہت سے کتوں کو جمع کر لیتا اور بنیوں سے کہتا کہ اگر ان کے چھڑانے کے واسطے
روپیہ نہ دو گے تو میں انہیں مار ڈالوں گا ہر شہر میں انہوں نے مختلف قد و قامت کے چھتریوں
کے مینار دیکھے جو عورتوں کے ستی ہونے کی جگہ پر بنائے گئے تھے۔ مشنریوں کی صورت
شکل لباس وضع پر کبھی لوگ طنز کرتے تھے اور کبھی بے تحاشا قہقہے لگاتے تھے مگر مغلوں
کی حراست کے سبب سے کوئی ان کو ستا نہیں سکتا تھا۔ بہت سے گنگا کے جاتری ان
کو بالکل بھدرا کیے ہوئے راستے میں ملتے تھے۔ ۱۹ فروری کو یہ مشنری فتحپور سیکری میں جہاں
بادشاہ رہتا تھا آئے اُن کا استقبال سواروں اور شتر سواروں اور سانڈنی سواروں
نے کیا فوراً وہ شہنشاہ اکبر کے روبرو پیش ہوئے وہ کہتے ہیں اکبر کا رنگ و چہرہ اہل فرنگ
کا تھا اس کے بشرہ سے فرہنگ و فراست برستی تھی عمر اس کی پچاس برس کی ہوگی
اُس نے اُن کی تعظیم و تکریم کی اور اجناس و نقد اُن کو پیش کیا تو انہوں نے لینے سے انکار
کیا جس سے اُس کے دل میں اُن کی طرف نیک خیال پیدا ہوا۔ جب پادریوں نے

حضرت عیسیٰ کی تصویر صلیب پر چڑھی ہوئی پیش کی تو اُس نے اپنا بے تعصب ہونا اس طرح ظاہر کیا
کہ اُس کی تعظیم و تکریم اپنے مذہب اور عیسائیوں کے مذہب کے موافق کی اُس کے آگے سر جھکایا
گھٹنوں کو ٹیکا سجدہ کیا اور جب حضرت مریم کی تصویر جو زر و زیور سے آراستہ تھی پیش کی تو
بادشاہ کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں اور اُس کو وہ کہنے لگا کہ یہ ملکہ آسمان کی کیا اچھی شبیہہ ہے
پھر بائبل چار زبانوں میں پادریوں نے پیش کی تو بادشاہ نے اُسے چوما اور سر پر رکھا۔ پھر
بادشاہ نے مشنریوں سے درخواست کی کہ وہ علماء اسلام سے مباحثہ کریں اس کو انہوں نے
قبول کیا اور وہ اس بات کو بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں کہ اُن کو اپنی دلائل میں کامل
فتحیابی ہوئی مگر اس کے ساتھ بمجبوری اُن کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اُن کی دلائل نے اُن کے کوردل
مخالفوں پر کوئی اپنا اثر نہیں کیا۔ شہنشاہ نے ایسی باتیں بنائیں کہ جن سے اُن کو یہ امید نہ ہوئی
کہ وہ عیسائی ہو جائے گا۔ مدتیں گزر گئیں کہ اُس نے پادریوں کے ساتھ خوش خلقی کا برتاؤ
رکھا مگر اُن کو بہانے بتاتا رہا کبھی عیسائی ہونے پر ثابت قدم نہ رکھا۔ آخر کو بادشاہ کے
درباریوں میں سے ایک نے ان مشنریوں کو سمجھایا کہ ان کو بادشاہ کے عیسائی ہونے کی
توقع عبث ہے۔ بادشاہ تو فقط اس سے خوش ہوتا ہے کہ اُس کے دربار میں مختلف خصلت
اور رائے کے آدمی جمع ہوں خاص کر وہ لوگ جو قدیمی اور نرالے ہوں اُس کو ان کے مذہب
اختیار کرنے کا خیال ذرا بھی دل میں نہیں ہے بے شک بہت سے حالات جو انہوں نے
بیان کیے ہیں اس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شہنشاہ فقط ان سے اپنا دل بہلاتا تھا گو مسخرا نہ
بناتا ہو۔ شہنشاہ نے اُن سے کہا کہ مسلمانوں کا بڑا عالم یہ چاہتا ہے کہ وہ ہاتھ میں قرآن لیکر
جلتی بھٹی میں جائے اور اس سے بغیر گزند اٹھائے اپنے مذہب کی راستی اور بزرگ عمدگی
ثابت کرے آپ کو بھی چاہیئے کہ اس طرح ہی بائبل کی راستی کا ثبوت دیں یہ پادری جو
خرق عادات و کرامات کے قائل تھے وہ اس سوال سے نہایت متحیر و دق ہوئے پادریوں
نے یہ کہا کہ ہم نے متواتر مجلسوں میں اپنے دلائل کی راستی کو ثابت کیا اس کے بعد ہم اپنے تئیں

لیسے عقل کے خلاف اور مضر امتحان میں ڈالنا نہیں چاہتے پھر ایک دفعہ اور یہی قصہ پیش ہوا اور شہنشاہ نے کہا کہ پہلے مسلمانوں کا ملا آگ میں کودیگا بشرطیکہ اس کے بعد آگ میں ایک پادری اپنے جانے کا وعدہ کرے اور اُس نے یہ بھی اشارہ کیا کہ وہ فقط یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پادری جو بہادرانہ دعویٰ کرتے ہیں وہ اس طرح اُن کو کیونکر ثابت کرتے ہیں۔ پادریوں نے بہت سوچ سمجھکر عاقلانہ اپنا عزم مصمم کیا کہ وہ اپنے ایمان و عقائد مذہبی کو اس مشتبہ امتحان میں نہ لائیں۔ جب شہنشاہ مایوس ہوا کہ یہ تماشا آگ اور انجیل اور قرآن کا دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ اور نیز پادریوں کی باتوں کے سننے کا شوق بھی کم ہو گیا تو اس نے پادریوں سے ملنا بہت کم کر دیا کابل اور بنگال کے فسادوں کے سبب سے بھی ان پادریوں کو وہ بالکل بھول گیا پادریوں نے بھی اپنی اقامت کو یہاں بیفائدہ جانا وہ مئی ۱۵۸۳ء میں الٹے گوا کو چلے گئے۔

۱۵۹۱ء میں بادشاہ نے پھر دوسری دفعہ مشن کی درخواست کی اس مشن پر بھی وہی واقعات گزرے جو پہلے مشن پر گزرے تھے ابتدا میں خوب آؤ بھگت ہوئی پھر آخر میں اُس کی پوچھ گچھ نہ ہوئی وہ بہت دنوں یہاں نہیں ٹھیرے چار برس بعد پھر شہنشاہ نے اُن کو خط لکھکر بلایا اور اس میں بہت وعدے کیے اور کلمات شفقت آیات لکھے کہ تیسری دفعہ گورنمنٹ مشن کو بھیجکر میرے مسرور کرنے میں دریغ نہیں کرے گی اس وقت شہنشاہ لاہور میں تھا۔ لاہور جانے میں مشن کو دریاؤں سے کھنبائت جانا اور بڑا مغربی جنگل طے کرنا پڑا کھنبائت کے قریب مشن نے بیس ہزار آدمیوں کو دیکھا کہ وہ گنگا کا اشنان کرنے جاتے ہیں جن کی سنجیدگی اور متین وضع سے پادریوں کے دلوں میں اُن کی نیکی کا خیال پیدا کیا ۲۰۰ لیگ کا سفر خشکی میں طے کرکے وہ ایک دل فزا دریا پر پہنچے اور وہاں سے دس لیگ طے کرکے لاہور میں آئے اس شہر کو وہ دلکشا اور جان افزا بتاتے ہیں دریا میں ایک جزیرہ تھا جس میں وہ شہنشاہ کے روبرو گئے وہاں اُن کا استقبال اچھی طرح ہوا حضرت مریم کی تصویر جو

نہایت خوبی سے آراستہ کی گئی تھی اور پہلی تصویر سے وہ زیادہ خوبصورت تھی بادشاہ کو نذر کی گئی اُس کی بادشاہ نے بہت تعریف کی مشنریوں کو بادشاہ کے عیسائی ہونے کی امید قوی اس سبب سے ہوئی کہ اُنہوں نے دیکھا کہ اُس میں مذہب اسلام کی پاسداری ذرا نہیں ہی - جب روپیہ کی ضرورت ہوتی ہی تو وہ مسجدوں میں سے روپیہ لوٹ لیتا ہی (یہ محض غلط لکھا ہی اس لیے کہ مسلمانوں کی مسجدوں میں کوئی خزانہ نہیں رہتا) مگر اس کے ساتھ اُن کو یہ مایوسی ہوئی کہ اُنہوں نے بادشاہ کو دیکھا کہ وہ آفتاب پرستی بڑی مشقت سے کرتا ہی اور حماقت سے اپنی ذات میں ایک قسم کی الوہیت جانتا ہی وہ ہر صبح کو جھروکے میں بیٹھتا ہی اور گروہا گروہ آدمی اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں بیماربچوں پر وہ دم کرتا ہی مشنری مشرقی تعظیم سے ناواقف تھے اس لیے انہوں نے غلطی کی کہ اس تعظیم کو عبادت جانا شہنشاہ اس وقت دکن کی مہم پر جاتا تھا وہ اس کے لشکر کے ساتھ کچھ دور گوا کی طرف گئے الفنسٹن صاحب اپنی تاریخ ہند میں اکبر کے مذہب کا خلاصہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کے مذہب میں خالص توحید تھی - انسان کی ضعیف خلقت کے سبب سے اس نے اس توحید پر چند رسوم ظاہری کے اضافہ کی بھی اجازت دی تھی وہ حامی اس کا تھا کہ ہم پر لازم ہی کہ خدا کی عبادت اس علم کے موافق کریں جو ہمکو اپنی عقل سے حاصل ہوا ہو عقل سے خدا کی وحدانیت اور رحمت کافی طور سے خوب ثابت ہوتی ہی خدا کی بندگی اور عاقبت کی مسرت کی تلاش اس طرح کرنی چاہیے کہ آدمی اپنی نفسانی خواہشوں کو مارے اور ایسے کام کرے کہ جس سے انسان کا بھلا ہو اور ہم کو کوئی عقیدہ یا عمل و رسم وہ اختیار کرنی نہیں چاہیے جو کسی آدمی نے بنائے اور بتائے ہوں کیونکہ اس میں بھی ہماری طرح سہو و غلطی و خطا بھول چوک کی قابلیت ہوتی ہی - اگر یہ امر قطعی ضروری سمجھا جائے کہ ظاہری پرستش کے واسطے ایسی علامتیں اور نشانیاں مقرر کی جائیں جو انسان کے دل کو خدا کی طرف لے جائیں تو اس کے نزدیک یہ علامتیں آفتاب و ستاروں اور آگ میں موجود تھیں

اکبر کے مذہب میں کوئی مرشد و پیر نہ تھا - عام عبادات کا طریقہ کوئی نہ تھا - کھانے پینے کی قید کچھہ نہ تھی مگر پرہیز کرنا ایسا ضرور تھا کہ جس سے روح کو سربلندی حاصل ہو اس کا دستور تھا کہ آفتاب کو سلام بہت کیا کرتا تھا صبح اور آدھی رات کو عبادت کیا کرتا تھا اور دوپہر کو سورج کی طرف دہیان گیان کرتا تھا - بادشاہ یہ عبادت اپنی رعیت کے تعصب کے سبب سے کیا کرتا تھا اس کو خود اس پر کسی اثر کا اعتقاد نہیں تھا ابو الفضل نے جو بارش کے لیے دعا کے باب میں لکھا ہے وہ ہم نے اوپر نقل کیا - اکبر حق رسوم کا مقید تھا اور وہ اوروں کو بھی اُن کے پابند ہونے کی اجازت دیتا تھا - یہ امر مشتبہ ہے کہ ان کو وہ اپنے خیال میں مستحکم جگہ دیتا ہو - اکبر بالطبع زاہد عابد تھا - با وصف فلسفی اور عقل و حکمت پر چلنے کے وہ بہ نسبت اُس مذہب کے جو اس کی عقل نے قائم کیا تھا زیادہ تر ایسے توہمات میں مبتلا تھا جن کو وہ جانتا تھا کہ ان کے سبب سے خدا سے قربت ہوگی - اسی وجہ سے پادریوں نے جو حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کی تصاویر پیش کیں اُن کی پرستش کی -

امرائے دربار اکبری

اس شہنشاہ کی تاریخ کے ساتھ ضرور ہے کہ ہم ان امراء والا کے گروہ پرشکوہ بلند پایہ ہنر مند شناسا کا ذکر کریں جو اس کے دربار میں جمع ہوئے تھے - یہ بیان ایسی ستائش گری نہ ہو جو لوگوں کو گراں معلوم ہو اور یہ بھی نہ ہو کہ اُن کی خوبیاں دکھائی جائیں اور برائیاں چھپائی جائیں اگرچہ ان دونو باتوں کے بیان کرنے پر جرات کرنے کو یہاں کے لوگ شرم و حیا کے خلاف خیال کرتے ہیں مگر میں اس کو ایسا نہیں سمجھتا جو جیسا ہے ویسا بیان کرتا ہوں - ہم ان امرا کا بیان بہ ترتیب مناصب اول بیان کرتے ہیں مگر ان کا حال جو پہلے مہمات ملکی میں بیان ہو چکا ہے وہ فروگذاشت اس لیے کیا گیا کہ ایک بات کو مکرر لکھنا تحصیل حاصل ہے -

دہ ہزاری (۱) شاہزادہ سلیم - جہم سلطان اکبر کا بیٹا سب سے بڑا تھا اس کی سلطنت کے

بیان میں ہم نے جدا کتاب لکھی ہی۔

ہشت ہزاری

(۲) شاہزادہ سلطان مراد فرزند دوم شہنشاہ اکبر جس کا بیان پہلے اس اقبال نامہ میں لکھا گیا

ہفت ہزاری

(۳) شاہزادہ سلطان دانیال فرزند سوم اس کا حال بھی اقبال نامۂ اکبری میں لکھا ہی۔

پنج ہزاری

(۴) سلطان خسرو۔ جو شہنشاہ جہانگیر کا بڑا بیٹا تھا اس کا حال جہانگیرنامہ میں لکھا ہی۔

(۵) میرزا سلیمان بن خان مرزا ابن سلطان محمود بن ابوسعید۔ (۶) میرزا ابراہیم پسر مرزا سلیمان ان مرزاؤں کا حال مہمات بدخشان میں اچھی طرح بیان ہوا۔ (۷) شاہرخ پسر ابراہیم۔

شہنشاہ اکبر نے سنہ۱۰۰۱ میں مرزا شاہرخ سے اپنی بیٹی شکرالنسا بیگم کا نکاح کیا اور اس کو مالوہ کا حاکم مقرر کیا۔ مالوہ اور دکن میں جو جو کام اس نے کیے وہ اقبالنامہ میں ہم نے بیان کیے ہیں۔ اکبر کے آخر عہد میں اس کو منصب ہفت ہزاری کا عنایت ہوا اور وہ جہانگیر کے عہد میں بھی قائم رہا۔ سنہ۱۰۱۶ میں اجین میں اس کا انتقال ہوا اور شہر کے باہر دفن ہوا۔ کابلی بیگم کہ مرزا محمد حکیم کی دختر تھی اور اس کی زوجہ تھی وہ نعش کو لیکر حجاز روانہ ہوئی کہ مدینہ منورہ میں دفن کرے مگر بدوؤں نے اسے لوٹ لیا نعش کو مکاری کی جماعت کو سپرد کرکے مدینہ بھیجا اور خود بصرہ میں آئی اور وہاں سے شیراز گئی۔ الہ وردی خاں حاکم فارس نے اس کا اعزاز و احترام کیا اور اصفہان بھیجا سنہ۱۰۲۲ میں شاہ عباس ماضی واراے ایران نے اس کا نکاح مرزا سلیمان علی محول اپنے چچا سے کردیا۔ لیکن ان دونو میاں بیوی میں سلوک نہ ہوا۔ جہانگیر اپنی توزک میں لکھتا ہی کہ اگرچہ دنیا میں کوئی بے حقیقت زیادہ بدخشی سے نہیں ہوتا مگر مرزا شاہرخ بدخشی سے نہیں معلوم ہوتا تیس سال سے ہندوستان میں ہی مگر اصلا ہندی زبان نہیں جانتا۔

اس کی رحلت کے وقت چھ بیٹے اس کے تھے (۱) حسن و حسین دو بیٹے توام تھے خسرو کے ہمراہ حسن بھاگا تھا کہ دوسرے روز جہانگیر نے دستگیر کر کے قید کیا (۲) مرزا سلطان اس کو جہانگیر بہت عزیز رکھتا تھا اس سے اپنی بیٹی بیاہنی چاہتا تھا کہ محل کے لوگون نے عرض کیا کہ اس کے گھر مین بیویان اس کی بہت ہین جب اس سے پوچھا تو اس نے پادشاہ کے قدم کی قسم کھا کے انکار کیا خواجہ سرا اُس کے گھر مین جا کر اس کی بیویون کو لے آئے جب سے وہ پایۂ اعتبار سے گر گیا غازی پور مین اس کی جاگیر مقرر ہوئی اور وہین مر گیا (۳) مرزا بدیع الزمان معروف مرزا فتحپوری وہ جہانگیر کے عہد مین بخشی دکن ہوا بعد ازان پٹن گجرات مین جاگیر پائی وہ مشت استخوان شرارت اور فتنہ سے بھرا ہوا تھا۔ یہان تک بھائیون کو تنگ کیا کہ اس کو پٹن مین انہون نے قتل کر ڈالا اس کی مان بادشاہ کی حضور مین فریاد لے کر آئی مگر جو خون کے مدعی ہونے کا حق تھا وہ نہ ادا کر سکی۔ اُس کے بھائی کچھ دنون محبوس رہے (۴) مرزا مغل کے گھر مین داراب خان کی بیٹی تھی اور بیسواڑہ مین پرگنہ سمکار جاگیر مین رکھا تھا (۵) مرزا محمد زمان بدخشان مین جاگیر رکھتا تھا اوزبکیہ کی شورش مین اس کا روزگار ختم ہوا۔ مدتون تک جعلی محمد زمان اوباشون کی دستاویز شورش تھی (۶) مرزا شجاع کو شاہجہان کے زمانہ مین بڑا اعزاز حاصل ہوا اور اسے نجابت خان کا لقب اس کو دیا۔ جہانگیر اپنی توزک مین لکھتا ہے کہ مرزا شاہرخ کے چار بیٹے اور تین لڑکیان جو میرے باپ پر ظاہر نہین کیے گئے تھے میرے پاس آئے مین نے لڑکون کو اپنے بندہائے معتبر کے حوالہ کیا اور لڑکیون کو محل کے خدمہ کے سپرد کیا کہ ان کی محافظت مین قیام و اقدام کرین۔

(۸) مرزا مظفر حسین پسر سلطان حسین ولد بہرام مرزا ابن شاہ اسمعیل صفوی ۹۶۵ھ مین شاہ طہماسپ صفوی کے تصرف مین قلعہ قندھار آیا اس نے قندھار اور زمین داور وگرم سیر تا آب ہیرمند تک اپنے بھتیجے سلطان حسین مرزا کو دیا بیس برس تک وہ اپنے چچا کے سایۂ عاطفت مین رہا اور ۹۸۴ھ مین شاہ اسمعیل ثانی ایران کا بادشاہ ہو گیا تو سلطان حسین کی طرف سے وہ متوہم اور وسوسہ ناک تھا وہ بنی اعمام کے قتل کو مرکوز خاطر رکھتا تھا مگر قوۃ سے فعل مین

نہین لایا۔ سلطان حسین کا انتقال ہوا تو وہ ان اپنے رشتہ دارون کی جانستانی کے درپے ہوا
سلطان حسین کے پانچ بیٹے تھے ان مین سے محمد حسین مرزا ایران گیا تھا مقتول ہوا۔ باقی چار بھائیون
کی جان لینے کے واسطے شاہ قلی سلطان کہ حاکم قندھار مقرر ہوا تھا مامور ہوا اُس نے بداغ بیگ کو
ان بے گناہون کی جان لینے کے لئے بھیجا صبح کو اس نے ان کی جان لی ہوتی کہ ناگاہ پادشاہ
ایران کے مرنے کی خبر آئی جس نے ان کی جان بچائی جب ایران کا پادشاہ خدابندہ ہوا تو اس نے
مظفر حسین مرزا کو جو سب بھائیون مین بڑا تھا قندھار کی حکومت دی اور زمین داور کنارہ
ہیرمند تک اس کے دوسرے بھائی رستم مرزا کو تفویض کی اور باقی دو بھائیون ابوسعید مرزا
اور سنجر مرزا کو اس کے ساتھ کیا اور حمزہ بیگ ذوالقدر مشہور کو حمزہ کو کہ سلطان حسین کا وکیل تھا
ان مرزاؤن کے ساتھ کیا حمزہ بیگ نے ایسا استیلا پایا کہ مرزائیون کی حکومت برائے نام تھی
مظفر حسین مرزا نے تنگ ہوکر حمزہ بیگ کا قصد کیا چند دفعہ صلح و جنگ کے بعد مظفر حسین نے
وکیل حمزہ بیگ کو محمد بیگ کی اعانت سے مار ڈالا محمد بیگ کو مرزا نے وکالت کا امیدوار کیا تھا
اس سبب سے مرزا رستم نے قندھار پر حملہ کرنے کا قصد کیا مگر مظفر حسین مرزا کی کمک اس کے خسر
ملک محمود سیدی نے کی اس لئے رستم سے کچھ کام نہو سکا او رزمین داور کو چلا گیا مظفر حسین مرزا متلون
مزاج تھا محمد بیگ بھی آزردہ خاطر ہوکر سیستان کو چلا گیا۔ ملک محمود سے لڑکر شکست پائی ملک محمود نے
یہ آدمیت کی کہ مرزا کو گھر مین اُتارا اور اس کے سبب سے محمد بیگ نے عذرخواہی کر کے مرزا کو قندھار مین
طلب کیا مرزا نے فرصت پاکر محمد بیگ کو مار ڈالا اور خود مستقل حاکم قندھار ہو گیا۔
خراسان کے امراء اوزبکیہ نے بخصوص دین محمد سلطان اور باقی سلطان خواہرزادہ
عبداللہ خان والی توران سے کہ خراسان کی تسخیر کے لئے مامور تھے انہون نے مکرر قندھار کی
حدود مین افواج بھیجی اور مرزا سے آویزشین کین اوزبک کی سپاہ کو شکست ہوئی
لیکن اس کے نہیب و غارت سے کبھی امن نہ ہوا۔ اوزبکون کی لڑائیون مین چونکہ اکثر اعیان
و عمدہ قزلباش ملرے گئے تھے شاہ ایران سے امداد و اعانت کے وعدے کئے مگر

کبھی ان کو پورا نہ کیا کہ دفعتہً ہندوستان کی فوج کی آمد آمد کی خبر گرم ہوئی تو لوگ سراسیمہ ہوئے
رستم مرزا ہندوستان مین گیا تھا اور اس کو صوبہ ملتان تفویض ہوا تھا اس سے اور ہراس ہوا
اس لئے مرزا نے ہند کا قصد کیا ہرچند عبداللہ خان نے استمالت نامہ لکھا کہ ایرانیون اور
تورانیون کی عداوت قدیم سے چلی آتی ہے لیکن اس وقت تم ہم سے کچھ نہ ڈرو اور زنہار
اپنا ملک موروثی چغتائیون کو نہ دو مرزا نے اس کو آلودی پر محمول کیا اس زمانہ مین
مظفر حسین کے باپ کا ایک نوکر قدیمی قرابیگ جو ہندوستان کو بھاگ گیا تھا اور اکبر نے
اس کو فراش بیگی مقرر کیا تھا وہ قندھار مین آیا اور دولت خواہی کے پردہ مین اس نے
مظفر کی مان اور اس کے بڑے بیٹے کو اس پر راضی کر لیا کہ عنقریب قندھار کا الحاق
ہندوستان سے ہو جائے۔

شہنشاہ اکبر نے شاہ بیگ خان ارغون حاکم بنگش کو لکھا کہ ایلغار کر کے قلعہ قندھار پر متصرف
ہو اور مرزا کو یہان بھیجدے جب شاہ بیگ قندھار مین داخل ہوا تو مرزا لشکر آراستہ کر کے
باہر آیا مگر مرزا اپنی اس حرکت سے پشیمان ہوا اور شاہ بیگ خان کو کہلا بھجوایا کہ آپ باہر آن کر میرے
مہمان ایک دن ہو جیئے مجھے مواجہ مین کچھ باتین کہنی ہین غرض اس کی یہ تھی کہ قلعہ مین چھپ کر
عذر خواہی کرے۔ شاہ بیگ ایک مرد کہنہ اور کاردان سپاہی تھا بھلا وہ اس کام کو کہ آسانی سے
ہو سکتا تھا کب دشواری مین ڈالتا اس نے یہ عذر کیا کہ نیک ساعت مین داخل ہوا ہون اس لئے
باہر آنا مناسب نہیں جانتا جو کچھ آپ کو کہنا ہو مراسلات کے ذریعہ سے لکھیئے ناچار ۱۰۰۳ھ مین
مرزا مع چار بیٹون بہرام مرزا۔ مرزا حیدر۔ القاس مرزا۔ طہماس مرزا ہزار قزلباشون
کے ساتھ شہنشاہ اکبر کی خدمت مین آیا اس نے فرزند کا خطاب دیا پنج ہزاری منصب
پایا اور اقطاع سنبل کہ قندھار سے کہین بڑی تھی اس کو ملی لیکن زمانہ کے مزاج سے مرزا
کم آشنا تھا اور معاملہ نافہم تھا اس نے اپنے کام مین سہل انگاری اور بے پروائی ایسی کی
کہ آزمند ستمگرون کو اپنا کام میسر دکیا رعایا پارہ پارہ اور کچھ سوداگر داد خواہ ہوئے

مرزا کو پسند کی گئی مگر سود مند نہ ہوئی آخر کار داوری سے ایسا تنگ دل ہوا کہ حجاز کی رخصت مانگی
وہ قبول ہوئی پھر کچھ دنون بعد پشیمان ہوا شہنشاہ نے پھر اس کا اقطاع و منصب بحال کر دیا
پھر سنہ ۴۲ الٰہی مین مرزا کے آدمیون کے ظلم کی شکایت ہوئی کہ وہ موقوف ہوا اور نقدی
اس کی مقرر ہوئی۔ مرزا حجاز روانہ ہوا مگر اول ہی منزل سے واپس چلا آیا شہنشاہ کی ملازمت کی
مگر پھر اس نے اس کی خبر کچھ نہ لی پایۂ اعتبار سے وہ ساقط ہوا اور ہر روز زیادہ خفیف
ہوتا جاتا تھا مرزا ہندوستان کی کسی چیز سے خوش نہ ہوتا تھا۔ سادہ لوحی سے کبھی ایران کا ارادہ
کرتا تھا کبھی حجاز کا۔ روحانی غصہ و رنج کے سبب سے امراض جسمانی مین گرفتار رہو سنہ ۱۰۰۸ھ مین انتقال کیا
جہانگیر سنہ ۵ جلوس مین اس کی لڑکی سے شاہزادہ سلطان خرم مخاطب بہ شاہجہان سے نکاح ہوا۔
قندھاری محل وہ مشہور ہوئی سنہ ۱۰۲۰ھ مین نواب پرہیز بانو بیگم اس سے پیدا ہوئی اس کے بیٹون مین سے
بہرام مرزا اور حیدر مرزا اور اسمعیل مرزا ہندوستان مین آئے اور حیدر مرزا شاہجہان کے عہد مین
بلند مرتبہ پر پہنچا اور سنہ ۱۰۴۱ھ مین مرگیا اور بہرام مرزا کا بھی درجہ بلند ہوا۔

(۹) مرزا رستم صفوی، مظفر حسین قندھاری کا بھائی عمر مین چھوٹا مگر عقل
و فہم مین بڑا تھا۔ پہلے لکھ چکے ہین کہ سلطان محمد خدا بندہ دارائے ایران نے قندھار
مظفر حسین کو اور زمین داور رستم مرزا کو تفویض کی تھی جس مین اس کے بھائی ابو سعید مرزا
و سنجر مرزا بھی شریک تھے مگر یہ ملک ایسا حقیر تھا کہ مرزا کی اور اس کے بھائیون کی معاش کو
وفا نہین کرتا تھا اس لئے اس نے ملک محمود حاکم سیستان پر حملہ کیا کہ اس کے ملک کو اپنے ملک پر اضافہ
کرے اول مظفر حسین نے اس کی مدد کی مگر اس نے آویز و ستیز کے بعد ملک محمود کی لڑکی سے
نکاح کیا اور اس کا طرفدار ہوگیا اس سبب سے دونو بھائیون مین رنجش و کلفت ہوگئی۔ مرزا
رستم نے حمزہ بیگ للہ (محافظ) کی اعانت سے قندھار پر مکرر لشکر کشی کی مگر کچھ فائدہ
نہ ہوا۔ انہی دنون خراسان پر اوزبک حملہ کر رہے تھے مرزا نے فراہ کو جا کر فتح کیا اور کئی
دفعہ اوزبکون سے لڑ کر لوائے مردانگی اور شجاعت بلند کیا پھر اس نے سیستان کی فتح کا

ارادہ کیا اور اس دیار پر ایلغار کرکے چڑھ آیا۔ ملک محمود نے بعد تحصن اور لوازم قلعہ داری کے مرزا سے ملاقات کی اور مراسم خدمت بجالایا مگر مرزا کو نہ خردمن کے بہکانے سے ایسا عالم مستی مین مغرور ہوا کہ ملک محمود کو محبوس کیا۔ گو اس کے بیٹے جلال الدین نے ایک جماعت کو فراہم کرکے لڑنے کا قصد کیا اس نے مرزا ملک محمود کو مار ڈالا مگر جلال الدین کا مقابلہ نہ کرسکا اس لئے دادر کو بھاگ کر آیا دشمن نے اُس کا تعاقب کیا اور مرزا کو شکست دی پھر خلق کی نظرون مین اس کی وقعت کچھ نہ رہی بڑا بھائی اس کا منتظر فرصت تھا اس نے غلبہ کرکے زمین دادر کھچ لے لیا رستم مرزا نے تیزی کرکے قلات کو لے لیا ایک دن وہ شکار کو گیا تھا کہ لوگون نے چاہا کہ قلات قابض ہون۔ مرزا کی مان نے قلعہ داری کی لیکن کسی نمک حرام نے اس ضعیفہ کی طرف بندوق چھوڑی جس سے وہ مرگئی اگرچہ مرزا نے بہت آدمیون سے انتقام لیا اور ان کو مار ڈالا مگر اس نے اوضاع زمانہ کو حسب لخواہ نہ دیکھا تو ۱۰۰۱ھ مین ہندوستان مین وہ مع اپنے بھائی سنجر مرزا اور چار بیٹون مراد۔ شاہرخ حسن۔ ابراہیم کے آیا شہنشاہ اکبر نے اس کو پنجہزاری کا منصب عطا کیا اور اقطاع ملتان اور بلوچستان کے بہت سے پرگنے تفویض کئے جو قندھار سے کہین بڑے تھے بعد ازان علم و نقارہ بھی عنایت ہوا۔ مرزا کے آدمیون نے ملتان مین دادوستد کو اعتدال سے بڑھایا تو ۱۰۰۳ھ مین چیتوڑ کی جاگیر اس کے لئے مقرر کی گئی مرزا اس طرف جاتا تھا کہ کسی وجہ سے پادشاہ نے اُسے سرہند سے بُلالیا۔ راجہ باسو اور شمالی کوہسار کے زمیندار سرکش ہو رہے تھے اس لئے ۱۰۰۴ھ الٰہی مین مرزا کی نیول مین پٹھان مقرر کرکے اُن حدود مین بھیجا اور آصف خان کو اس کی یاوری کے لئے ہمراہ کیا مگر ان دونوین ناسازی ہوئی راجہ باسو نے مئو کو استوار کرکے نخوت فروشی کی پادشاہ نے جگت سنگھ پور راجہ مان سنگھ کو وہان بھیجا اور مرزا کو اپنے پاس بلاکر ۱۰۰۶ھ مین رائے سین اور اس کے حوالی مین جاگیر مقرر کی اور وہان بھیجدیا پھر اس نے مرزا دانیال کے ماتحت دکن مین خدمات کین ۱۰۲۱ھ مین جہانگیر نے اُس کو ٹھٹہ کا حاکم مقرر کیا مگر اس سبب سے کہ اُس نے ارغونیون کے ساتھ بہلو کی وہ معزدل

ہوا جہانگیر نے اس کی لڑکی سے شاہزادہ پرویز کا نکاح کیا منصب شش ہزاری عنایت کیا اور
الہ آباد کا صاحب صوبہ بنایا جب شاہجہان نے بنگال اور بہار کو مسخر کیا ہے تو عبداللہ خان
قصبہ جھوسی مین الہ آباد کے مقابل گنگا کے دوسری طرف لشکر آرا ہوا۔ مرزا قلعہ مین متحصن ہوا
عبداللہ خان پاس سامان خوب تھا توپ و تفنگ مارتا ہوا دریا سے گذر کر شہر مین آیا۔ ہر چند
رومی خان میر آتش شاہی وعدہ کرتا تھا کہ تھوڑی دیر مین قلعہ مفتوح ہوتا ہی مگر عبداللہ خان کو
ایسا بیجا اضطراب ہوا کہ وہ جھوسی مین چلا گیا کچھ دن نہ گذرے تھے کہ بادشاہ کی آمد آمد کا
آوازہ بلند ہوا۔ مرزا محنت سے چھوٹا اور آسائش و آرام مین پڑا۔ اکیسوین سال مین بہار کی
صوبہ داری پر متعین ہوا اور شاہجہان کے اول سال جلوس مین حکومت بہار سے معزول ہو کر
بادشاہ کی خدمت مین آیا بوڑھا بہت ہو گیا تھا اور نقرس کا عارضہ تھا اس لئے نوکری کی
تکلیف سے معاف کیا گیا اور ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ سالانہ اس کا وظیفہ مقرر ہوا۔ فراغت سے آگرہ میں
زندگی بسر کرتا تھا سنہ ۶ جلوس مین شاہزادہ محمد شجاع کی شادی مرزا کی بیٹی سے ہوئی **مصرعہ**
مہد بلقیس بسر منزل جمشید آمد۔ تاریخ ہے۔ آگرہ مین ۷۲ برس کی عمر مین سنہ ۱۰۵۱ھ مین جہان سے مرزا
رخصت ہوا کہتے ہین کہ جب مرزا مرنے کو ہوا تو آگرہ کے متصدیون نے چاہا کہ ضبط اموال کرین
تو مرزا نے اپنی عمدہ عمدہ لونڈیون کو لباس مردانہ پہنا کر تفنگ ہاتھ مین دی اور آمادہ جنگ ہوا
اور کہا کہ وہ ہمارے ساتھ اور امرا کی طرح سلوک نہین کر سکتے۔ متصدیون نے احتیاطاً
بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ نے سوائے ہاتھیون کے سب اسباب معاف کر دیا۔ مرزا مرد دنیا
تھا۔ زمانہ کے مزاج سے خوب آشنا تھا اپنے بڑے بھائی کی نسبت زیادہ ضابطہ دان تھا۔
شاعر تھا فدائی تخلص تھا یہ رباعی اس کی ہے۔

رباعی

ہر چند دلم بباطا ایمانی را	کج باختہ ام نزد خدا دانی را
ابروے بتی قبلہ خود ساختہ ام	برطاق نہادہ ام مسلمانی را

(۱۰) بیرام خان خانخانان - ترکمان قراقوئیلو ترک کی اعاظم طوائف مین سے بہارلو ایک قبیلہ ہے اور علی شکر بیگ بہارلو تک تین واسطہ سے بیرام خان پہنچیا ہے جب قرایوسف اور اس کے بیٹون قرا اسکندر و مرزا شاہ جہان کے سلسلہ دولت کا ارتفاع تھا تو عراق عرب و آذربائجان مین ان کی سلطنت تھی اور علی شکر بیگ پاس ولایت ہمدان و دینپور و کردستان اقطاع مین تھی اب تک یہ ولایت قلمرو علی شکر مشہور ہے - قراقوئیلون کے استیصال مین پادشاہ اقاقوئیلو مصروف ہوا - اور حصار شادمان مین آیا تو سلطان محمود مرزا پاس علی شکر کا بیٹا پیر علی بیگ درہ روز مقیم رہا اور پھر فارس کو چلا گیا اور حاکم شیراز سے لڑا اور ہزیمت پائی اور انھین دنون سلطان حسین مرزا کے آدمیون کے ہاتھ سے قتل ہوا - بعد ازان اُس کا بیٹا یار علی بیگ نے شاہ اسمٰعیل صفوی کے عہد مین عراق سے نکل کر بدخشان مین سکونت اختیار کی اور وہان سے امیر خسرو شاہ پاس قندز مین گیا اور بعد اُس کی انقضاء دولت کے اپنے بیٹے سیف علی بیگ کے ساتھ بابر پادشاہ کا ملازم ہوا - بدخشان مین سیف علی بیگ کے بیٹا پیدا ہوا جسکا نام بیرم خان رکھا - باپ کے مرنے کے بعد وہ بلخ مین گیا اور یہان تحصیل علم کی اور سولہ[۱۲] برس کی عمر مین جنت آشیانی (ہمایون کی خدمت مین آیا اور روز بروز اس پر عنایت زیادہ ہوتی گئی اور مصاحبت و امارت پر نوبت آئی اس کا باقی سب حال شگرف نامہ ہمایون اور اقبال نامہ مین مفصل لکھا ہوا ہے - باقی یہ حال اور ہے -

بیرام خان شعر مین بہت درست سلیقہ تھا اور قصائد فرا کہتا تھا استادون کے اشعار مین دخل بجا دیتا تھا ایسے اشعار جمع کئے جن مین دخل دیا تھا اور اس مجموعہ کا نام دخلیہ رکھا بیرام خان جب قندھار مین تھا تو ہمایون نے اس کو یہ رباعی لکھی تھی -

رباعی

اے آنکہ انیس خاطر محزونی	چون طبع لطیف خویشتن موزونی
بے یاد تو من نیم زمانے ہرگز	آیا تو بیاد من محزون چونی

بیرام خان نے یہ جواب لکھا۔

رباعی

اے آنکہ بذات سایۂ بیچونی	از ہرچہ ترا وصف کنم افزونی
چون میدانی کہ بے توچون میگذرد	چون می پرسی کہ در فراقم چونی

کہتے ہین کہ ایک رات اس سے یادشاہ مخاطب تھا کہ اس کو غفلت آگئی یادشاہ نے کہا کہ مین تجھ سے باتین کرتا ہون تو وہ متنبہ ہوکر بولا کہ مین بھی حاضر ہون لیکن مین نے سنا ہے کہ بملازمت سلاطین مین جسم کی اور درویشون کی خدمت مین دل کی اور علمار کے آگے زبان کی پاسبانی کرنی چاہیئے مین اس فکر مین تھا کہ حضرت مین یہ تینون باتین جمع ہین مین کس کس کی نگہبانی کرون یادشاہ اس لطیفہ سے بہت خوش ہوا اور تحسین کی۔ طبقات اکبری مین لکھا ہے کہ بیرام خان کے پچیس ملازم پنجہزاری کے منصب پر پہنچے اور صاحب علم و نقارہ ہوئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمدہ آدمیون کے انتخاب کرنے مین اس کو کیسا ملکہ تھا سچ یہ ہے کہ بیرام خان فضل و کمال و صلاح و تقوی و ہمت و کرم سے آراستہ تھا مدبر و شجاع کاردان قوی دل تھا اس نے خاندان تیمور پر اپنے بڑے بڑے حق ثابت کئے تھے اس تخلل ایام مین کہ ابھی سلطنت کا انتظام نہین ہوا تھا کہ ہمایون مرگیا اور پادشاہزادہ خورد سال ناتجربہ کار کے پاس پنجاب کے سارا ملک تصرف سے نکل کر افغانون کے پاس تھا اور دعوی سلطنت کے لئے ایک گروہ انا لاغیری کا لوا بلند کرتا تھا اور ہر گوشہ مین کنارہ مین واقعہ طلب مخالفت کا نقارہ بجا رہے تھے اور امرار جغتائیہ کہ ہندوستان کی اقامت کا دل سے ارادہ نہین رکھتے تھے کابل جانے کے لئے مشورہ کرتے تھے مرزا سلیمان نے کابل مین اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا تھا بیرام خان ہی کی جگرداری اور ثبات پائی و حسن تدابیر و فکر صائب سے آب رفتہ کو آمد سلطنت کو استقرار ہوا اکبر پادشاہ نے بھی طرح طرح کی دلجوئی و نوازش کے ساتھ کل مہمات اس کو تفویض کین اور قسمین کھا کر کہا کہ جو کچھ مناسب و صلاح کار ہو

عمل مین لائے اور مداہنت اور کسی کی مراعات منظور نہ رکھے اور کسی کی ملالت سے نہ ڈرے
اور یہ مصرعہ پڑھا ع دوست کو دوست شود ہر دو جہان دشمن باش جب روز بروز اس کا
تسلط اقتدار بڑھتا گیا حسد پیشہ ناتوان بینون کے دلون مین خار چبھتا گیا۔ جھوٹی سچی باتین لگا لگا کے
بادشاہ کا دل اُس سے پھیر دیا۔ خانخانان بھی اپنے اقتدار اور استقلال مین دوسرے کو چشم اعتبار سے
نہ دیکھتا تھا اس کی خویشتن و حب جاہ نے روز بد دکھایا اور مہالک آفات مین پھنسایا سچ ہے
حب الدنیا راس الخطا۔

(۱۱) منعم بیگ خانخانان۔ یہ جنت آشیانی کے امراء دولت مین سے تھا اس کے باپ کا نام بیرام بیگ ہے
وہ مجہول الحال۔ جب ہمایون بادشاہ کے پاس سے بھاگنے کا اور اکبر کے پاس سے بھی فرار ہونے کا حال اور
مہمات ممالک شرقیہ مین اس کا ذکر مفصل بیان کیا گیا۔

(۱۲) تردی بیگ خان ترکستانی۔ وہ ہمایون کے قدیم خدمت گذارون مین تھا۔ ہمایون اور اکبر کی
سلطنت مین جو اس نے کام کئے وہ سب بیان ہوئے۔

(۱۳) خان زمان علی قلی۔ اس کے باپ کا نام حیدر سلطان اوزبک شیبانی تھا۔ جام اور قزلباش مین
جو لڑائی ہوئی تھی اس مین اس نے امارت کا درجہ پایا تھا جب ہمایون بادشاہ نے عراق سے مراجعت
کی ہے تو وہ مع اپنے دو بیٹون علی قلی اور بہادر کے اسکی ملازمت مین آیا تھا قندھار کی تسخیر مین
اس نے بہت سے کام کئے تھے جب بادشاہ کابل آیا تو راہ مین اس کے لشکر مین وبا آئی جس مین حیدر سلطان
مرگیا علی قلی خان نے کابل مین اور ہندوستان کی فتح مین کارہائے نمایان کئے۔ شگرف نامہ اقبال نامہ
مین اس کے کامون کا اور بغاوت کا اور مارے جانے کا حال مفصل لکھا ہے۔

خان زمان امرائے پنجہزاری مین نامور اور صاحب شکوہ تھا ہمت و جود و سپاہ گری و سرداری
مین ممتاز تھا اگرچہ وہ اوزبک تھا مگر اس نے ایران مین نشو و نما پایا تھا اور اس کی مان ایرانی
تھی اس لیئے اس کا مذہب امامیہ تھا اور وہ ذرا تقیہ نہین کرتا تھا طبع اس کی موزون تھی
اور سلطان تخلص کرتا تھا۔ زمانیا جہاں ایسٹ انڈین ریلوے کا سٹیشن ہی اس کا آباد کیا ہوا ہی

(۱۴) عبد اللہ خان اوزبک۔ یہ ہمایون پادشاہ کے امرا مین سے تھا ہیمو کی شکست کے بعد اس کو شجاعت خان کا خطاب ملا۔ اقبال نامہ مین مالوہ کی مہمات مین اس کا حال لکھا ہے۔

(۱۵) شمس الدین محمد اتگہ خان۔ اس کے باپ کا نام میر محمد غزنوی تھا۔ وہ ایک درویش منش دہقان تھا۔ غزنین مین بیس سال کی عمر مین اس نے خواب دیکھا کہ ماہ اس کی بغل مین آیا جس کی تعبیر صحیح ہوئی کہ دولت عظیم اس کو وہ ہاتھ آئی کہ خاندان کی رفعت ہوئی اول وہ مرزا کامران کا نوکر ہوا۔ وہ قنوج کی لڑائی مین جو شیر شاہ اور ہمایون کے درمیان ہوئی موجود تھا جب ہمایون کو شکست عظیم ہوئی اور وہ ہاتھی پر سوار ہو کر دریا کے پار گیا۔ دریا کا کنارہ بلند تھا پادشاہ جا نہین سکتا تھا تو ایک سپاہی نے پادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ لیا جب پادشاہ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام شمس الدین ہے اور مولد میرا غزنین مین ہے اور مرزا کامران کا نوکر ہون جب وہ پادشاہ کی ملازمت مین لاہور پہنچا اور پادشاہ کے ہمراہ ہوا اور خدمت مذکور کے صلہ مین اس کی بیوی کو شہزادہ اکبر کی اتگہ (انا) بنایا اور جی جی انگہ کا خطاب اس کو دیا جب ہمایون ایران گیا تو شہزادہ اکبر کی خدمت مین شمس الدین رہا اور جب ہمایون کو سلطنت پھر ہاتھ لگی تو اس نے اسکو خطاب اتگہ خان کا دیا جب ہمایون نے شہزادہ اکبر کو جاگیر مین سرکار حصار دی تو شمس الدین کو اس پاس بھیجا۔

جب اکبر تخت نشین ہوا تو اتگہ خان اور امرا کے ساتھ مریم مکانی اور بیگمون کو کابل سے لانے کے لئے مقرر ہوا جب پادشاہ بیرام سے خفا ہوا تو اتگہ خان کو جو اپنی تیول بھیرہ خوشاب مین تھا حکم بھیجا گیا کہ وہ لاہور کو اپنے بڑے بھائی میر محمد خان کو سپرد کر کے اس کے پاس حاضر ہو جب وہ آیا تو بیرام خان کا علم و نقارہ و تومان و توغ اس کو مرحمت ہوا اور پنجاب کی حکومت اس کو تفویض ہوئی اس نے بیرام خان کو جالندھر کے قریب اس سے پہلے کہ اکبر آئے شکست دی اور پادشاہ کی خدمت مین سرہند مین آیا پادشاہ نے اس کو اعظم خانی کا خطاب عطا کیا۔ منعم خان اور شہاب الدین نے ادہم خان کو

اُکسا کر ۱۲ رمضان سنہ ۹۶۹ کو اس کے ہاتھ سے اتگہ خان کو قتل کروا دیا۔ پادشاہ نے خان کے بیٹون اور بھائیون کی بہت تسلی اور تسکین کی اور ان کے درجے بڑے بلند کر دیئے۔ پنجہزاری سے لیکر صدی تک اُن کو منصب دیئے اس خاندان کا ایک گروہ تھا جس کو اتگہ خیل کہتے تھے اُس کی برابر کسی اور خاندان کے ارکان بلند درجہ نہین ہوئے۔

(۱۶) اتگہ خان کلان میر محمد شمس الدین محمد خان اتگہ کا بڑا بھائی ہے۔ اس نے مرزا کامران اور ہمایون پادشاہ کی بہت عمدہ خدمتین کی ہین اور دَور اکبری مین اس نے کارہائے نمایان کیے وہ مدتون تک مملکت پنجاب مین صاحب صوبہ تھا اور اکثر اس صوبہ کے محالات اتگہ خیل ہی کے پاس تھین کابل کے معاملات مین اس کا ذکر اقبال نامہ مین کیا گیا۔

پہلے عقلمندون نے پادشاہی کو باغبانی سے نسبت دی ہے جیسے باغبان باغ کی آرائش کرتا ہے اور درختون کی پیرائش۔ ان کو ایک جگہ سے اُکھیڑتا ہے اور دوسری جگہ لگاتا ہے اور ان کا انبوہ ایک جگہ نہین ہونے دیتا بقدر اعتدال ان کو شاداب رکھتا ہے اور بقدر مصالح ان کے نشو و نما مین کوشش کرتا ہے اور بدسرشت درختون کو جڑ پیڑ سے اکھیڑتا اور ناراست اغصان کو تراشتا ہے اور اشجار عظیمہ کی تفریق کرتا ہے اور بعض کا بعض سے پیوند لگاتا ہے اور میوہ ہائے گوناگون اور گلہائے رنگارنگ سے متمتع کرتا ہے جو علم فلاحت مین مقرر ہین ایسے ہی پادشاہان دوربین اپنے ملازمون کے احوال کی تہذیب و تادیب و سیاست مین مراعات کرکے حکمت کے چراغ کو روشن کرتے ہین جس جگہ ایک جماعت باہم یک دل و یک زبان فراہم ہوتی ہے اور کثرت ہجوم و ازدحام ہوتا ہے تو اول انکے اصلاح احوال کے لئے اور دوم اہل ملک کی رفاہیت کے واسطے اس اجتماع کو متفرق کرتا ہے گو اس کثرت سے کوئی امر نا ملائم معلوم و مظنون نہ ہو اس تفرقہ کو سرمایہ جمعیت جانتے ہین اس لئے کہ دنیا بادہ مرد افگن ہے تنگ مشربون کو وہ بدمست کرتی ہے ان سے ایمن نہین ہونا چاہیئے خصوصاً ایسے وقت مین کہ فتنہ اندوز

وسخن ساز و تبہ کار بہت سے ہون اس سبب امرا نے اخلاص منش اتگہ خیل کو کہ مدت سے پنجاب مین فراہم ہو رہی تھی اوران حدود مین انتظام بخش تھی ۱۳ سنہ الٰہی مین معزول کر کے بادشاہ کے حضور مین بلایا وہ ۹۷۱ سنہ مین دار الخلافہ آگرہ مین آئے بادشاہ نے ان مین سے ہرایک کو جاگیر سیر حاصل عنایت کی سرکار سنبل خان کلان کو مرحمت ہوئی اور حسین قلی خان پنجاب مین مقرر ہوا ۹۸۱ سنہ مین گجرات کے دوبارہ فتح کرنے کے لئے اکبر نے خان جہان کو بطور منقلا کے بھیجا سروہی (اجمیر) مین اس کو ایک راجپوت نے بغیر کسی وجہ کے زخمی کیا مگر وہ پندرہ روز مین اچھا ہو گیا جب گجرات فتح ہو گیا تو وہ مین کہ نہر والہ مشہور ہے مرزبان مقرر ہوا ۹۸۳ سنہ مین اس کی روح نے بدن سے تعلق نہ رکھا بدایونی اس کے علم کی بہت تعریف کرتا ہے۔ خان کلان صاحب کمال تھا ترکی و فارسی مین شعر کہتا تھا اس کا ایک دیوان مرتب ہے جس مین قصائد و غزلین ہین غزنوی تخلص کرتا تھا موسیقی مین بھی مہارت رکھتا تھا کسی وقت اُس کی مجلس فضلا اور شعرا سے خالی نہین ہوتی تھی رنگین سخنون اور دلنشین نغمون سے وہ اہل ذوق کا حلاوت بخش و طرب افزا تھا اس کا شعر ہے۔ ؎

درجوانی حاصل عمرم بناد انی گذشت	انچہ باقی بود آنہم در پشیمانی گذشت

اس کا بیٹا فاضل خان ہزاری منصب رکھتا تھا جب مرزا کو کہ احمد نگر مین محصور ہوا ہے تو وہ مارا گیا اور اسکا دوسرا بیٹا فرخ خان تھا اس نے ۴۸ سنہ الٰہی مین پائی صدی کا منصب پایا

(۱۷) مرزا شرف الدین احراری ولد خواجہ معین۔ یہ مرزا بڑا عالی خاندان ہے اس کا باپ خواجہ معین بیٹا خاوند محمود کا تھا جو پسر دوم خواجہ کلان کا تھا جس کا نام خواجہ خواجگان مشہور ہے اور خواجہ کلان بڑا بیٹا خواجہ نصیر الدین عبد اللہ احرار کا تھا اس سبب سے شرف الدین حسین کو احراری کہتے ہین مرزا کا دادا خاوند محمود ہندوستان مین گیا تھا ہمایون نے اس کی بہت تعظیم و تکریم کی اس سنہ ۱۰ کابل مین وفات پائی۔

مرزا کا باپ خواجہ معین اپنے باپ کی جہالت مین کاشغر گیا اور عبداللہ خان والی کاشغر کے ہان اعتبار پیدا کیا اور رودخانہ نشیب کا حاصل اس کو تفویض ہوا وہ علم معاش خوب جانتا تھا وہ بڑا متموّل ہو گیا مگر اس کی طبیعت مین بخل و اساک غالب تھا۔ خواجہ معین کا نکاح کیچک بیگم دختر علاء الملک ترمذی سے ہوا تھا اور وہ فخر جہان بیگم صبیہ سلطان ابوسعید مرزا کے بطن سے پیدا ہوئی تھی اس لئے مرزا اشرف الدین کی رگون مین خون تیموری بھی تھا۔ باپ سے مرزا کی بنتی نہ تھی اس لئے وہ اکبری خدمت مین آیا ماہم انگہ اور ادہم خان کی سعی سے تھوڑی مدت مین مرتبہ امارت اور منصب پنجہزاری پر اس کی ترقی ہو گئی اور اجمیرا ورناگور کا تیولدار ہو گیا اپنی شجاعت و کاردانی کی قوۃ سے اس نے ان اضلاع کے ستمرددن کو مٹایا۔ بادشاہ نے ۵ھ اکبری مین اپنی بہن بخشی بانو بیگم کا نکاح اس سے کیا باقی اور حال اقبالنامہ مین لکھا گیا کہ کیا کیا ناشائستہ حرکتین اس نے کین۔

(۱۸) یوسف محمد خان کوکلتاش۔ یہ خان اعظم انگہ کا بڑا بیٹا ہے اور شہنشاہ اکبر کا کوکہ یا کوکلتاش ہے اس نے بارہ برس کی عمر مین اپنے باپ کے ساتھ بیرام خان کی خدمت مین لڑائیون مین کارہائے نمایان کئے تھے اس لئے اس کو خانی کا خطاب ملا جب اس کا باپ ادہم خان کے ہاتھ سے مارا گیا تو وہ مسلح ہو کر ادہم و ماہم انگہ سے انتقام لینا چاہتا تھا مگر سیاست شاہی نے اس کی تسلی کر دی باپ کے مرنے کے بعد اس پر اور اس کے بھائی عزیز محمد کوکلتاش پر بادشاہ نے عنایات خسروانی کی اور بزم و رزم مین اپنا مقرب بنایا علی قلی خان زمان و بہادر خان و اسکندر خان کی فتنہ پردازی مین بادشاہ نے اسکندر خان کی سرکوبی کے لئے لکھنؤ یوسف خان کو بھیجا اس نے بادشاہ کی عنایت سے پنجہزاری کا خطاب پایا۔ عین نوجوانی مین بادہ پیمائی کی کثرت سے بیمار ہوا ۹۷۳ھ مین فنا ہو گیا۔

انتباہ حکما نے آب انگور مین انسان کی تقویت مزاج کے لئے مناسب تجربے کر کے فوائد کثیر دیکھے اور اس کے استعمال کو جائز رکھا ہے لیکن اس کی مقدار اور تقدیر وقت کی ہے

بگر مذہبوں مین وہ مزیل جوہر عقل و مورث امراض کثیرہ قرار پائی ہے اس کے پینے کے لئے منع شدید و تہدید بلیغ کی گئی ہے مذہب مصطفوی نے اس کی نہ بہت نہ تھوڑی پینے کی اجازت دی ہے۔

(۱۹) ادہم خان کوکہ۔ یہ چھوٹا بیٹا ماہم انگہ کا ہے اس کی ماں مشہور و معروف تھی مگر باپ اس کا مجہول تھا۔ غالباً وہ پادشاہی نطفہ سے پیدا ہوا تھا۔ ماہم انگہ اکبر کے ساتھ درستی اخلاص مین نسبت قوی رکھتی تھی آسائش گہوارہ سے آرائش تخت تک اس کی ملازمت مین ہمیشہ رہی حرم مین وہ بہت بااعتبار تھی اس کا سب بیان اقبال نامہ مین لکھا ہے

(۲۰) پیر محمد خان شروانی۔ اس کے باپ کا حال کچھ معلوم نہین وہ پنجہزاری امرا مین تھا پہلے وہ ملا تھا۔ قندھار مین وہ بیرام خان کا ملازم ہوا۔ اسی کی بدولت مرتبہ امارت پر پہنچا اور اسی کی جانب سے وکالت پر مقرر ہوا۔

پیر محمد خان نے ایسی ثروت بہم پہنچائی کہ اس کے دسترخوان پر پانسو قاب چنی جاتی تھین تجبر و نخوت کے ساتھ کریم وضع بھی تھا۔ کئی دفعہ اس نے ہر یک دفعہ مین پانچ پانچ سو گھوڑے انعام مین دیدیئے اس مین غرور سپاہ گری اور تعصب ملائی دونو جمع تھے۔

(۲۱) خان اعظم مرزا عزیز کوکہ۔ یہ چھوٹا بیٹا شمس الدین انگہ کا ہے وہ شہنشاہ اکبر کا ہم عمر تھا اور اس کے ساتھ کھیلا تھا۔ پادشاہ اس پر بہت عنایت کرتا تھا۔ ماں اس کی جی جی بیگم تھی جس کی خاطرداری پادشاہ اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ کرتا تھا یہی سبب تھا کہ مرزا ہمیشہ پادشاہ کے ساتھ گستاخیان کرتا تھا اور وہ اسپر کچھ خیال نہین کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میرے اور عزیز کے درمیان جوے شیر ہے جس سے مین گذر نہین سکتا۔ ۳۹ سنہ مین سلطان مراد نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا۔

۳۹ سنہ مین اکبر نے مرزا کوکہ کو اپنے پاس بُلایا کئی برس سے وہ اس سے ملا نہ تھا۔ مگر اس کو پادشاہ کی مذہبی بدعتین جیسی کہ پادشاہ کو سجدہ کرنا اور داڑھی منڈانا پسند نہ تھا اس لئے پادشاہ پاس

جانا ناگوار تھا جانے مین عذر کئے بادشاہ کو مذہب کی بابت صاف صاف لکھا کہ عثمانؓ و علیؓ کی جگہ تو فیضی و ابوالفضل کو آپنے مقرر کیا ہے شیخین کی جگہ کس کو مقرر فرمائینگے۔ حاصل یہ ہے کہ آلہی جہاز مین بیٹھکر حجاز روانہ ہوا اس نے چھ چھوٹے بیٹے خورم و انور و عبداللہ و عبداللطیف و میر تقی و عبدالغفور اور چھ بیٹیان اور ان کی مائین اور سو ملازمین ساتھ لئے۔ بادشاہ کو اس کے جانے کا افسوس ہوا اس کے بڑے بیٹون شمسی اور شادمان کو منصب و جاگیر عنایت ہوئے شیخ عبدالقادر بدایونی نے اس کے حج جانے کی یہ تاریخ کہی ؎

بجائے راستان شد خان اعظم	ولے در زعم شاہنشاہ کج رفت
چو پرسیدم بدل تاریخ این سال	بگفتا میرزا کوکہ بہ حج رفت

کہتے ہین کہ اس نے حرمین مین بہت روپیہ صرف کیا۔ روضہ مبارک کا خرچ پنجاہ سالہ شریف کو حوالہ کیا وہان حجرے خرید کرکے وقف کئے جب اس کو اپنے حال پر بادشاہ کی تازہ عنایتون کا حال معلوم ہوا تو وہ ہندوستان کی طرف آیا اور بندر بلاول مین اترا شروع ۱۰۰۳ھ مین بادشاہ کی خدمت مین حاضر ہوا اپنے منصب پر بحال ہوا اور صوبہ بہار کا تیول دار ہوا ۱۰۰۴ھ مین وکالت کا عہدہ ملا اور مہر شاہی عنایت ہوئی اور ۱۰۰۸ھ مین صوبہ ملتان جاگیر مین ملا ۱۰۰۹ھ مین محاصرہ آسیر مین بادشاہ کے ساتھ تھا انہین دنون مین مرزا کی والدہ کا انتقال ہوا جس کے تابوت کو بادشاہ نے اپنے کندھون پر اٹھایا اور سوگواری مین بھدرا کیا۔ سر و مونچھون کے بال منڈائے اگرچہ یہ کوشش کی گئی کہ سوا اس کے فرزندون کے کوئی اور بھدرا نہ کرے مگر بہت آدمیون نے اپنا بھدرا کرایا۔

سلطان خسرو پسر کلان شاہزادہ سلیم نے کہ راجہ مان سنگہ کا ہمشیرزادہ تھا مرزا کی بیٹی سے نکاح کیا۔ یہ سلطنت کے دو رکن رکین دولت خسروی کے ارتفاع مین بڑی کوشش کرتے تھے خصوصاً مرزا کوکہ کو ایسی محبت تھی کہ وہ کہتا تھا کہ مین اس سے خوش ہون کہ میرے ایک کان مین خسرو کی سلطنت کا مژدہ پہنچے اور دوسرے کان سے میری جان نکل جائے جب اکبر بیمار ہوکر مرنے کو

ہوا ہی تو ان دونو نے خسرو کے پادشاہ بنانے مین سعی کی مگر ناکامیاب ہے ابھی پادشاہ مین رمق جان باقی تھی کہ شیخ فرید بخاری اور امیرون نے جہانگیر کو بلاکر شہنشاہ کردیا۔ مان سنگھ نے آگرہ کے قلعہ سے خسرو کو لیکر بنگالہ چلے جانے کا قصد کیا مرزا عزیز نے بھی اس کے ساتھ ارادہ کیا اور اپنے سالے کہنے کو راجہ پاس بھیجدیا اور خود پادشاہ کی تجہیز و تکفین مین مصروف ہوا خزانہ کا پہنچانا ضرور تھا بار برداری موجود نہ تھی راجہ نے بھی عذر کیا ناچار مرزا تنہا قلعہ مین رہا اور پادشاہ کی تجہیز و تکفین مین مشغول ہوا۔ جب سال اول جہانگیری مین خسرو باپ سے بغاوت کرکے بھاگا تو یہ گمان تھا کہ مرزا کے اغوا و رہنمونی سے اس نے یہ حرکت کی اس لئے مرزا معرض عتاب مین آیا۔

کہتے ہین کہ مرزا کفن پہنکر دربار مین جاتا تھا اور جانتا تھا کہ مین مارا جاؤنگا زبان اس کے اختیار مین نہ تھی بیہودہ بکتا تھا امیر الامرا سے بیدھڑک گفتگو کرتا تھا پادشاہ دربار سے اُٹھا خلوت مین مشورہ کیا۔ امیر الامرا نے کہا کہ اس کے مارنے مین ذرا توقف نہین کرنا چاہیئے مہابت خان نے عرض کیا کہ مین مشورہ مین تو کچھ دخل نہین دیتا سپاہی ہون شمشیر میرے پاس ہے اس کی کمر مین مارتا ہون اگر اس کے دو ٹکڑے نہ ہون تو میرے ہاتھ کاٹ ڈالئے جب خان جہان لودی پر نوبت آئی تو اس نے کہا مجھے اس کے طالع پر حیرت ہے کہ جہان حضرت کا نام شہرت رکھتا ہے وہان اس کا نام بھی مشہور ہے بظاہر کوئی حرکت اس نے ایسی نہین کی کہ وہ واجب القتل ہو اگر وہ مارا جائیگا تو خلق یہ کہیگی کہ بے گناہ مارا گیا اس سے پادشاہ کا غصہ کچھ فرو ہوا کہ سلیمہ بیگم والدہ پادشاہ نے پس پردہ فریاد کی کہ اے حضرت مرزا کوکہ کی شفاعت کے لئے سب بیگمین حاضر ہین اگر آپ تشریف لائین تو بہتر ہے ورنہ ہم سب باہر آتے ہین۔ ناچار پادشاہ محل مین گیا ان کے مبالغہ سے اس کی عفو تقصیر کی اور افیون معتاد مرزا نے نہین کھائی تھی اپنے پاس سے دی اور اس کو اپنے گھر رخصت کیا انہین دنون مین ایک دن خواجہ ابوالحسن تربتی نے مرزا کوکہ کا خط جو اس نے راجہ علی خان مرزبان خاندیس کو لکھا تھا اور اس مین اکبر کی نسبت ایسے الفاظ

لکھے تھے کہ کوئی نہین لکھتا اور آسیر کی فتح کے بعد راجہ علی خان کے اسباب مین یہ خط خواجہ کے
ہاتھ لگا تھا اور برسون سے اُس کے پاس تھا آخر کو اس کا ضبط نہ کرسکا جہانگیر کی نظر سے
گذرانا۔ پادشاہ نے خان اعظم کو دیا اس نے بے محابا پڑھنا شروع کیا۔ باریابان حضور نے
ہر جانب سے اُس پر لعن طعن کی۔ پادشاہ نے فرمایا کہ اب تک محبت جو میرے باپ کو تیرے
ساتھ تھی وہی مانع تھی کہ مین تیرے سر کا بوجھ تیرے کندھون سے ہلکا نہین کرتا مین تجھے
جاگیر اور منصب سے معزول کر کے نظر بند کرتا ہون۔ مگر پھر ۳ سنہ جلوس جہانگیری مین گجرات کی
صوبہ داری اُس کو دی گئی اس کا بڑا بیٹا جہانگیر قلی ملک کی حراست کے واسطے نائب مقرر ہوا
جب مہم دکن مین امرار کی بے التفاتی سے کامیابی نہوئی خان اعظم دس ہزار سوارون کے
ساتھ کمک کے لئے بھیجا اس نے برہان پور سے رانا کی مہم مین جانے کی درخواست کی
اور کہا کہ اگر اس جنگ مین مارا جاؤنگا تو شہید ہونگا حسب خواہش اس کی مہم کا سارا
سامان اس کے سپرد ہوا جب بر سر کار ہوا تو عرضداشت بھیجی کہ جب تک پادشاہ
خود نہین آئیگا یہ عقدہ دشوار حل نہ ہوگا اس لئے پادشاہ ۱۰۲۲ سنہ مین اجمیر مین آیا اس کی
التماس سے شاہزادہ شاہجہان رانا کی مہم مین مقرر ہوا مگر مدار کار اُس کی صوابدید پر
منحصر رہا۔ مگر اس شاہزادہ نے اس کے ساتھ ناپسندیدہ سلوک کئے کیونکہ اس کو خسرو کا
طرفدار جانتا تھا مہابت خان بھیجا گیا کہ اس کو اودے پور سے پادشاہ پاس لائے ۹
سنہ مین وہ آصف خان کے حوالہ ہوا کہ قلعہ گوالیار مین محبوس رکھے۔ مرزا کی زبانی
نقل کرتے ہین کہ آصف خان نے پادشاہ سے عرض کی مرزا میرے مرنے کے لئے دعا مانگتا ہے
اور اس دعا کے لئے خلوت و ترک حیوانات و جماع شرط ہے اور یہ سب باتین حبس مین موجود
ہین اس لئے حکم ہوا کہ مرزا کے لئے اطعمہ گزیدہ گوشت مرغ و دراج کے لگائے جایا کرین۔
مصرعہ عدو شود سبب خیر گر خدا خواہد مرزا کو بالکل اس دعا کی خبر نہ تھی۔ ایک سال کے
بعد وہ زندان سے پھر آزاد ہوا اور ایسے نوشتہ کیا گیا حضور مین کوئی حرف

ناپرسیدہ نہ کہے۔ زبان اس کے اختیار مین نہ تھی۔ اس سبب سے جہانگیر نے کہا کہ باپ کا ضامن ہو
اس نے عرض کیا کہ مین باپ کی سب باتون کا ضامن ہو سکتا ہون مگر زبان کا نہین ہو سکتا
جب پادشاہ نے اس کا پنجہزاری منصب بحال کرنا چاہا تو اس نے شاہ جہان سے یہ نقل کی
کہ جب عرش آشیانی (اکبر) نے خان اعظم کے منصب مین دوہزاری کا اضافہ کیا شیخ فرید بخش
و راجہ رام داس کو اُس کے گھر بھیجا کہ مبارکباد دین وہ حمام مین تھا پہر بھر تک یہ امرا اس کے
دروازہ پر بیٹھے رہے بعد ازان وہ دیوانخانہ مین آیا اور اس کو بلایا۔ ان سے مبارکباد
سُنی اور بیٹھے بیٹھے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کو بغیر کسی مدارات کے رخصت کیا۔ یہ بات
مجھے یاد ہے مجھے شرم آتی ہے کہ مرزا کو کہ اپنی بحالی منصب کے لئے کھڑا ہو کر تسلیم کرے
اب بابا تم اس کی نیابت مین آداب بجا لاؤ۔ ۱۰۳۱ھ مین داور بخش پسر خسرو گجرات کی صوبہ داری
نامزد ہوا مرزا کو کہ اس کا اتالیق مقرر ہوا۔ احمد آباد مین ۱۰۳۳ھ کو اجل طبعی اس کو آئی۔ جدت
ذہن و سلاست بیان مین اس کو کمال تھا۔ تاریخ دانی مین مستثنیٰ تھا۔ کبھی کبھی شعر بھی کہتا تھا
خط نستعلیق خوب لکھتا تھا۔ مدعا نویسی مین ید طولیٰ رکھتا تھا۔ عربی زبان نہین جانتا تھا۔
مصاحبت مین بے نظیر تھا۔ سخنہا رنگین کہتا تھا۔ اس کا قول تھا جب کوئی شخص کوئی بات
کہتا ہے تو مین اس کو سچ جانتا ہون جب وہ اس مین مبالغہ کرتا ہے تو مجھے شبہہ ہوتا ہے
اور جب وہ سوگند کھاتا ہے تو اس کو دروغ جانتا ہون۔ اس کے لطائف و ظرائف مین سے
ایک یہ ہے کہ دولتمند آدمی کو چار بیویان کرنی لازم ہین ایک عراقی مصاحبت و ہمزبانی
کے لئے دوم خراسانی سامان خانہ کے واسطے سوم ہندی زناشوئی کے واسطے چہارم
ماوراءالنہری شلاقی (تازیانہ زنی) کے لئے کہ اورون کو عبرت ہو۔ مگر خبث و نفاق و درشتگوئی
مین سب پر سبقت لے گیا تھا۔ بہت مغلوب الغضب تھا۔ پادشاہ نے جو مذہب الٰہی بنایا تھا
اس کو لغو و بیہودہ جانتا تھا۔

خان اعظم کی اولاد بہت تھی (۱) سب مین بڑا بیٹا شمسی تھا جس کا حال اوپر بیان ہوا

اُس کو جہانگیر کے عہد مین جہانگیر قلی کا خطاب ملا (۲) مرزا شادمان اسکو شادخان کا خطاب ملا (۳) مرزا خورم۔ اس کو اکبر نے گجرات مین جوگڈھ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ جہانگیر نے اُس کو کامل خان کا خطاب دیا اور وہ شاہزادہ خورم (شاہجہان) کے ساتھ دکن گیا (۴) مرزا عبد اللہ اس کو جہانگیر نے سردار خان کا خطاب دیا وہ اپنے باپ کے ساتھ گوالیار مین مقید ہوا تھا۔ (۵) مرزا انور۔ اس کی شادی زین خان کوکہ کی بیٹی سے ہوئی (۶) ان سب کو منصب پنجہزاری سے لیکر دوہزاری تک ملے۔

مرزا عزیز کی ایک بہن کی شادی عبدالرحیم خانخانان سے ہوئی۔

(۲۲) بہادر خان شیبانی۔ برادر خورد خان زمان۔ اصل نام اس کا محمد سعید ہے وہ پنجہزاری امرا مین سے ہے طبیعت موزون رکھتا تھا۔ شعر کہتا تھا۔ باقی حالات اس کے اقبالنامہ مین لکھے گئے

(۲۳) راجہ بہاری مل بیسر پرتھی راج کچھواہہ۔ بعض تاریخون مین راجہ بہاڑا مل لکھا ہے کچھواہہ کی قوم مین دو گروہ ہین۔ ایک راجاوت۔ دوسرا سیکھاوت (شیخاوٹ) یہ راجہ راجاوت تھا۔ صوبہ اجمیر کے مضاف مین اور مارواڑ کے جنوب مین انبیر اس کے باپ دادا بوم نشین تھے۔ گو مارواڑ کی برابر انبیر نہ تھا مگر اُس سے سیر حاصل زیادہ تھا۔

بہاری مل ہی رجپوتون مین اول ہے جو اکبر کی خدمت مین آیا ہے۔ اس کا ذکر شگرف نامہ اور اقبالنامہ مین مذکور ہے۔

اس سرزمین مین سب سے بڑا وہی تھا۔ قصبہ سانگانیر مین راجہ اپنے اکثر رشتہ دارون کے ساتھ بادشاہ کا بساط بوس ہوا۔ بادشاہ نے اس پر مہربانی کرکے اس کی قدر وشرافت کو بڑھایا۔ راجہ نے یہ چاہا کہ مین زمیندارون کے زمرہ سے نکل کر درگاہ بادشاہی کا مخصوص ہوون اس لئے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کی بیٹی سے وہ بیاہ کرے۔ بادشاہ نے قبول کیا جب بادشاہ نے اجمیر سے مراجعت کی تھی تو سانبھر مین راجہ نے اپنی بیٹی کا ڈولہ بھجوایا۔ منزل رتن مین راجہ اپنے بیٹے بھگونت داس

اور پوتے کنور مان سنگھ کے پادشاہ کی خدمت مین حاضر ہوا۔ پادشاہ نے ہندوستان کے تمام راجاؤن اور رایون سے راجہ کی اور اس کے فرزندون اور پوتون کی قدر و منزلت بڑھائی اور مراتب بزرگ اور مناصب ارجمند عنایت کئے راجہ کو پنجہزاری کا منصب دیکر وطن کو رخصت کیا اور راجہ بھگوانداس اور کنور مان سنگھ پادشاہ کے ساتھ آگرہ گئے اور بتدریج مدارج اعلیٰ سرافراز ہوئے۔ راجہ بہاری مل نے آگرہ مین انتقال کیا۔

کہتے ہین کہ ۹۶۷ھ مین دھولارائے پسر سورانے انبیر کو آباد کیا تھا۔ بہاری مل اس کی اٹھارہوین پیڑھی مین تھا۔

(۲۴) خانجہان حسین قلی خان یا بیگ پسر ولی بیگ ذوالقدر۔ یہ بیرام خان کا بھانجا ہے اس کا باپ ولی بیگ ذوالقدر تھا کہ بیرام خان کے زمانہ مین سب امرا پر اعتبار مین تفوق و برتری رکھتا تھا خانجہان کے سارے کام اقبال نامہ مین تحریر ہین۔

(۲۵) سعید خان چغتیہ بن یعقوب بیگ بن ابراہیم جابوق۔ مدتون سے اس کے باپ دادا خاندان تیمور کے نامور ملازمون مین چلے آتے ہین اس کا دادا ابراہیم بیگ جابوق امرار ہمایون مین سے تھا جس نے بنگالہ کی یورش مین ناموری حاصل کی جونپور کے قریب اس کے بیٹے یوسف بیگ پر جلال خان (سلیم شاہ) نے حملہ کیا اور مار ڈالا اس کا دوسرا بیٹا یعقوب بیگ جو سعید خان کا باپ تھا ہمایون کے نامور امیرون مین تھا۔ طبقات اکبری مین لکھا ہے کہ ہمایون کے عہد مین جہانگیر قلی بیگ جو حاکم بنگال تھا اس کا بھائی تھا۔

عہد اکبری مین سعید کی ترقی عظیم ہوئی وہ دولت و اعتبار و سرداری اور نام آوری مین اپنے باپ دادا سے بڑھ گیا۔ مدتون تک ملتان کا حاکم رہا ۳۲ الٰہی مین وہ شاہزادہ سلطان دانیال کا اتالیق مقرر ہوا۔ جب پنجاب کے باشندون نے شاہ قلی کی شکایتین متواتر کین وہ اس کی جگہ صوبہ دار پنجاب مین مقرر ہوا پھر راجہ بھگوانداس اُس کی جگہ مقرر ہوا اور اس کو سرکار سنبل تیول ین کی ۳۸ الٰہی مین پادشاہ نے

اس کو اپنے پاس بلایا اور منصب سہ ہزاری عنایت کیا پھر وہ حاجی پور مین مرزا کوکہ کی جگہ مقرر
ہوا۔ ۳۲ سنہ الٰہی مین جب بنگال مین وزیر خان مرگیا تو سعید خان بنگالہ کا صوبہ دار مقرر ہوا اور
اس عہدہ پر ۴۸ سنہ الٰہی تک وہ قائم رہا اس کی ترقی پنجہزاری منصب پر ہوئی پھر مان سنگھ
اس کی جگہ مقرر ہوا ۱۰۱۱ھ مین ٹھٹھہ مین مرزا غازی نے اپنے باپ جانی بیگ کے مرنے کے بعد
بعد خودسری اختیار کی تو بادشاہ جاگیر مین ملتان وبھکر تنخواہ مین دی اس نے یہان کے
باغیون کو مطیع کیا۔
جب جہانگیر بادشاہ ہوا تو اس کو پنجاب کی حکومت یہ مچلکہ لیکر دی گئی کہ اگر اس کے خواجہ سرا
ظلم کرین تو اس کا سر کاٹ لیا جائے مگر موت نے اس کو اپنے اس کو اپنے اس عہدہ پر
پہنچنے نہین دیا۔ ہسندہ کے باغ مین دفن کر دیا۔
کہتے ہین اس نے اپنی ساری مہمات کا اختیار چتر بھوج کو حوالہ کیا تھا خود خواجہ سرایون پر
شیفتہ تھا بارہ سو خواجہ سرا خوش چہرہ اور مقطع اس نے جمع کئے تھے ان مین سب سے
زیادہ برگزیدہ تین تھے وہ چار چار سو خواجہ سرایون کو زیب وزینت دیکر رات کو چوکی دیتے
تھے اس کے بھولے پنے کی حکایت لکھی ہے کہ جب وہ ملتان مین آیا تھا اس کے خزانہ مین سونا
غیر مسکوک ومظروف تھا نوکرون نے عرض کیا کہ بنگالہ کی زمین مین سیلابی تھی اس لئے سونے کا
وزن بڑھ گیا تھا۔ اب ملتان مین آفتاب مین کمال حرارت ہے اس وزن دس سیر
کم ہو گیا ہے۔ سعید خان نے کہا کہ بہت کم تفاوت ہوا ہم کو اس سے زیادہ کا گمان تھا
عہد اکبری مین یہ خیال نہین ہو سکتا کہ اس کے امرا مین جو بتدریج مراتب اعلیٰ پر
پہنچے ہون ایسے احمق نہون۔ شاید اس نے اپنی امارت کے سبب سے اغماض کیا ہو اس کے
ایک خواجہ سرا ایکدل نے آگرہ سے چھ کروہ پر قلعہ اور سرا بنا کر ہلال آباد آباد کیا۔ دوسرا خواجہ سرا
اس کا افتیار خان اس کا وکیل تھا۔ تیسرا خواجہ سرا اعتبار خان اسکی جاگیر کا فوجدار تھا۔

(۲۶) شہاب الدین احمد خان۔ وہ نشا دات نیشا پور سے تھا وہ باہم انگہ سے

خولیشی اور اخلاص رکھتا تھا وہ بیرام خان کا بڑا بیری تھا اس کے تباہ کرنے مین وہ بڑا سرگرم تھا۔
جب شہاب الدین احمد دہلی مین حاکم تھا تو اس نے فیروز شاہ کی نہر جو پرگنہ خضر آباد سے
سفیدان تک بنی تھی مرمت کرائی اور اس کا نام نہر شہاب رکھا اس نہر کی دوبارہ مرمت
شاہ جہان کے حکم سے اس کے ۲۰ سنہ جلوس مین مکرمت خان نے کی اور فیض نہر اس کا
نام رکھا گیا اورنگ زیب کے عہد مین پھر وہ اَٹ گئی پھر اُس کی مرمت انگریزون نے کی
(۲۷) راجہ بھگوان داس پسر راجہ بہاری مل کچھواہہ۔ ۹۸۰ھ مین گجرات کی تسخیر کے
بعد جنگ سرنال مین اس نے اپنی شجاعت سے شہنشاہ اکبر کی جان بچا دی تھی
راجہ نے ۹۹۲ھ مین اپنی بیٹی کا بیاہ سلطان سلیم سے کیا۔ پادشاہ خود راجہ کے گھر بیٹے کو
بیاہنے کو گیا۔ بہو کے چوڈول کو خود اور شہزادہ اُٹھا کر لایا۔ ۹۹۵ھ مین سلطان خسرو
اس سے پیدا ہوا ۱۰۰۳ھ مین پنجہزاری کے منصب پر بلند ہوا۔
وہ راجہ تو ڈرمل کی ارتھی کے ساتھ گیا تھا جب گھر آیا تو استفراغ کیا حبس بول ہوا
پانچ روز مین مرگیا اُس کے اعمال خیر مین سے لاہور کی مسجد جامع کی تعمیر ہے اس مین
اکثر آدمی نماز جمعہ پڑھتے ہین۔
(۲۸) قطب الدین خان۔ شمس الدین خان اتگہ کا بھائی ہے۔ پنجاب مین وہ تیولدار تھا یہان
اس نے بقاع خیر تعمیر کرائین۔
خاندان تیموریہ مین دا تو (گرم کپڑا) سے زیادہ کوئی خلعت گرانمایہ نہین بلگر بیگی کا
خطاب اعظم القاب مین سے ہے۔ یہ دو نواس کو مرحمت ہوئے اس خوشی مین اس نے
بزم جشن عالی ترتیب دیا جس مین پادشاہ خود گیا اور شاہزادہ سلیم کو اپنے ہاتھون سے
سلطان دایہ ... ار کیا۔
شکایتین متواتر کین دبیٹے کو رنگ خان نے مرزا خانخانان کے ماتحت گجرات مین
اُس کی جگہ مقرر ہوا ... ائی اور بعد ازان گجرات مین وہ ۹۹۱ھ مین مرگیا طبقات اکبری مین

لکھا ہے کہ نورنگ خان چار ہزاری منصب رکھتا تھا ۱۰۰۱ھ مین جوناگڈھ کا حاکم تھا۔
پسر دوم اس کا گوجر خان ہفت صدی تھا اور مرزا اعظم خان کوکہ کے ماتحت کام کرتا تھا اور
گجرات مین نیول رکھتا تھا۔

(۲۹) خانخانان مرزا عبدالرحیم پسر بیرام خان۔ اس کی مان جمال خان میواتی کی بیٹی تھی۔
جب ملک سندھ سلطنت شاہی مین اس کی کوشش سے شامل ہوا تو ملا شکیبی نے جو خانخانان کا
نوکر تھا فتح سندھ کی بابت ایک مثنوی کہی جس کی ایک بیت نیچے لکھی ہے اس فتح مین حاکم ٹھٹھہ
مرزا جانی بیگ آزاد ہوا تھا۔

گرفتی و آزاد کردی زہ وام	ہمائے کہ بر چرخ کردے خرام

خانخانان نے شعر کے صلہ مین ہزار اشرفی دین اور مرزا جانی نے بھی ملا کو ایک ہزار اشرفی
انعام دی اور کہا کہ رحمت خدا مرا ہما گفتی اگر شغال میگفتی زبانت کہ می گرفت۔
خانخانان قابلیت و استعداد مین یکتائے روزگار تھا۔ عربی۔ فارسی۔ ترکی۔ ہندی
(سنسکرت) مین لکھنے پڑھنے کا ملکہ رکھتا تھا۔ شعر خوب سمجھتا تھا اور کہتا تھا تخلص رحیم
کرتا تھا۔ کہتے ہین کہ بہت سی مروج زبانین وہ بول سکتا تھا۔ شجاعت مین وہ ضرب المثل تھا
اس کی عجیب و غریب حکایتین مشہور ہین کہ ایک دن چٹھیون پر دستخط کرتا تھا کہ ایک
پیادہ کی چٹھی مین غلطی سے ہزار ٹنکہ کی جگہ ہزار روپے لکھے گئے دستخط کر کے اس چٹھی کو
بحال رکھا۔ کئی دفعہ شعرا کو زر سرخ ان کے وزن کی برابر تول کر دیا ملا نظیری نے ایک دفعہ
کہا کہ مین نے نہین دیکھا کہ ایک لاکھ روپیہ کا تودہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ خانخانان نے خزانہ سے
ایک لاکھ روپیہ منگا کر اس کا ڈھیر لگایا ملا نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ مین نے آج نواب کی
بدولت اس قدر زر کا تودہ دیکھا۔ خانخانان نے یہ روپیہ اُسی کو دیدیا وہ ہمیشہ
علما و درویشون کو ظاہر و پوشیدہ بہت روپیہ دیتا تھا۔ اور درونڈ وز
سالیانہ بھیجتا تھا۔ ہر فن کے اہل کمال کا اجتماع اس کے زمانہ مین ہوا حاصل یہ کہ وہ

سخاوت و شجاعت و دانش و تدبیر مین سر آمد روزگار تھا لیکن کینہ وری اور دنیا دوستی و زمانہ سازی بہت کیا کرتا تھا اور دشمن کے ساتھ دوستی کے لباس مین دشمنی کرتا تھا بدفعات تیس ۳۰ برس دکن مین رہا جو کوئی شاہزادون اور امیرون مین سے اس کی کمک کو آیا اور اس کے ساتھ سلاطین دکن کا اخلاص اس نے دیکھا تو اس کی نسبت نفاق کے منصوبے کرنے لگا۔ شیخ ابوالفضل نے بھی اس کے حق مین فتویٰ بغاوت دیا عہد جہانگیری مس ملک عنبر کے ساتھ دوستی مین متہم ہو کر بدلا گیا اس کے نوکر محمد معصوم نے یہ کو رنکی کی کہ بادشاہ سے عرض کیا کہ مکاتیب ملک عنبر شیخ عبدالسلام لکھنوی ملازم خانخانان پاس ہین۔ مہابت خان نے اس کی پرسش مین اُس بیچارہ پر ایسی تعذیب کی کہ وہ جان سے گیا مگر افشائے راز مین لب نہ کھولا۔

عہد اکبری مین خانخانان کی خدمات شائستہ مین یہ تین کارنمایان تھے (۱) فتح گجرات (۲) تسخیر سندھ (۳) شکست سہیل خان بیجاپوری۔ مگر جہانگیر کے عہد مین اس نے کوئی بڑا کام نہین کیا اور باوجود درست دانائی اور فہمید پسندیدہ کے ذلتین اٹھائین مگر حب جاہ سے ہاتھ نہین اُٹھایا ہمیشہ دربار کے اخبار کا جویان رہتا تھا۔ ڈاک چوکی مین دو تین ہزار آدمی ہر روز روزنامچہ لکھ کر بھیجتے تھے۔ عدالت خانہ کچہری و چبوترہ مین یہان تک کہ کوچہ و گلی و بازارون مین جاسوس مقرر تھے کہ جو کچھ افواہ عوام مین سنتے تھے وہ تحریر مین لاتے تھے اور خانخانان پاس بھیجتے تھے وہ شام کو سب کو پڑھ کر آگ مین جلا دیتا تھا۔ باوجودیکہ خانخانان کا باپ امامیہ مذہب رکھتا تھا مگر وہ اپنے تسنن کا اظہار کرتا تھا لوگ اس پر تقیہ کا گمان کرتے تھے۔ مگر اس کے بیٹے متعصب سُنی تھے۔

خانخانان کے عمدہ ملازمون مین میان فہیم تھا۔ اگرچہ کنیزک زادہ یا وہ غلام مشہور تھا مگر اصل مین وہ ایک راجپوت کا لڑکا تھا اُس کو مثل فرزندون کے خانخانان نے پالا تھا کمال صلاح و تقوے رکھتا تھا دم واپسین تک نماز تہجد و چاشت و اشراق قضا نہین کی۔ درویش دوست تھا۔ سپاہ سے برادرانہ ملاقات کرتا تھا۔ لیکن

تندمزاج تھا۔ کوڑے ہمیشہ بجا ر ہتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ شاہجہانی راجہ بکرماجیت داراب خان کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ایک مسند پر بیٹھے ہین۔ تو اُس نے داراب سے کہا کہ بیرام خان کے پوتے کی برابر برہمن بیٹھے۔ کاش مرزا ایرج کے عوض تو مرا ہوتا داو نو نے اُس سے عذرخواہی کی۔ آخرخانخانان کی طبیعت اُس سے منحرف ہوگئی تھی اس نے سرکار بیجاگڈہ کا محاسبہ لیا تو اُس نے خانخانان سے بہت درشتی کی اور حافظ نصر اللہ کہ دیوان صاحب اختیار تھا مُنہ پر طمانچہ مارا اور شہر سے باہر نکال دیا۔ کہتے ہین کہ آدھی رات کو خانخانان خود اس کو منا کر لے آیا۔ وہ شجاعت وتہور مین غضب تھا جب خانخانان کی قید کی فکر میں مہابت خان ہوا تو اول اُس نے یہ چاہا کہ فہیم کو منصب کی طمع دیکر اور وعدے کرکے فریفتہ کرے مگر وہ راضی نہ ہوا۔ مہابت خان نے اُس سے کہا کہ کب تک اپنی سپاہ گری پر ناز کریگا۔ فہیم نے ہرچند خانخانان سے کہا کہ یہان غدر و مکر معلوم ہوتا ہے بسا داکہین ذلت وخواری کی نوبت نہ آئے مستعد ہوکر حضور کا عزم کرنا چاہیے مگر اس نے قبول نہ کیا جب اس کا آقا نظربند ہوا اور مہابت خان نے پہلے پادشاہی آدمی فہیم پاس بھیجے اس نے اپنے بیٹے فیروزخان سے کہا کہ اتنی دیر تک آدمیون کو روکے رہ کہ مین وضو کرکے سلامتی ایمان کا دوگانہ پڑھون اس سے فراغت پاکر اس نے مع پسر اور چالیس ملازمون کے جان فدا کی۔

(۳۰) راجہ مان سنگھ۔ یہ راجہ بھگونت داس کچھواہہ کا بیٹا ہے وہ آبیسر مین پیدا ہوا تھا۔ فرنگستانی مورخ اس کو راجہ بھگونت داس کا متبنّے بتاتے ہین لیکن مسلمان مورخون نے کہین اس کا ذکر نہین کیا شاید اس کا سبب یہ ہو کہ ہند و حقیقی بیٹے اور متبنّے مین ذرا فرق بھی نہین کرتے شہنشاہ اکبر کبھی اس کو فرزند کہتا تھا کبھی مرزا راجہ۔ ہندوؤن کے مذہب مین دریائے سندھ سے پار جانا منع ہے جب راجہ کو اس دریا کے پار جانے کا حکم دیا تو یہ ہندی شعر پادشاہ نے لکھ کر بھیجے۔

سب بھوم ہے گوپال کا جس مین اٹک کیا	جس کا من مین اٹک ہے سو من اٹک ہوئے گا

سال نہم جہانگیری مین راجہ اجل طبعی سے مرگیا پندرہ سو رانیون مین سے ساٹھ ستی ہوئین اس کے بہشت سے بیٹون مین سے فقط ایک بیٹا بھاؤسنگہ زندہ تھا۔ راجہ نے حکومت بنگالہ مین عجب ثروت و دولت و طرفہ ساز و سامان بہم پہونچایا تھا اُس کے نوکر سری وسرداری کرتے تھے۔ ایک دفعہ پندرہ پنجہزاری اس کی ماتحتی مین کام کرتے تھے۔ بالاگھاٹ مین غلہ کا قحط ایسا ہوا کہ ایک روپیہ کے آٹے مین بھی آدمی کا پیٹ نہین بھرتا تھا ایک دن اس نے کچہری سے اُٹھکر کہا کہ اگر مین مسلمان ہوتا تو ایک وقت طعام ہزار مسلمانون کے ساتھ کھاتا مگر مین سب کی ریش سفید ہون۔ مجھہ سے سب بھائی برگ تنبول قبول کرین سب سے اول خان جہان لودی نے ہاتھ سر پر رکھ کر کہا کہ مجھے قبول ہے پھر اورون نے بھی قبول کیا۔ راجہ نے یومیہ ایک سو روپیہ پنجہزاری کا اور اس حساب سے اورون کا مقرر کیا۔ ہر رات کو ایک خریطہ مین ہر شخص پاس یہ روپیہ جاتا اس کا نام اس پر لکھا ہوتا۔ لشکر کے سپاہیون کو رسد پہنچنے تک اجناس سستی قیمت پر وہ دیتا تین چار مہینے مین یہ سفر اسی طرح طے ہوا۔ راہ مین مسلمانون کے واسطے حمام و کپڑے کی مسجد بنا کر ایستادہ کرنا۔

(۳۰) محمد قلی خان برلاس۔ یہ نژاد برمق یا برنیق سے ہے۔ ہمایون کی خدمت گذاری سے اس نے ترقی پائی اور ملتان اس کو جاگیر مین ملا۔ اکبر کی ابتدائے سلطنت مین وہ شمس الدین خان اتگہ کے ساتھ امرا کے اہل و عیال کو کابل سے ہندوستان مین لایا اسکی جاگیر ناگور مین منتقل ہوئی کچھہ تھوڑے دنون تک وہ مالوہ مین بھی حاکم رہا اور اس کے کام اپنے مقام پر بیان ہوئے ہین ۹۸۲ھ مین اس نے انتقال کیا۔

(۳۲) ترسون محمد خان۔ شاہ محمد خان سیف الملوک کا خواہرزادہ ہے سیف الملک غرجستان مضاف خراسان کا خود مختار حاکم تھا مگر شاہ طہماسپ نے اس کو اپنا مطیع بنایا ابتدا مین ترسون محمد خان بیرام خان کا ملازم ہوا۔ اس کی خدمات کا حال اقبالنامہ مین لکھا ہے۔ ۹۹۴ھ مین معصوم خان نے اس کو گرفتار کر کے مار ڈالا۔

(۳۳) قیا خان گنگ۔ (قیا کے معنی ترکی زبان مین زیب کے ہین اور گنگ کے معنے فارسی

زبان مین گنگلے کے ہین) یہ امراء ہمایون مین سے ہی۔ ہمایون کے آخر عہد مین وہ کول جلالی کی حدود
مین لوازم خدمت بجا لایا تھا وہ بیرام خان کا دوست تھا مگر سب سے اول وہ اُسے چھوڑ کر اکبر سے
آن ملا تھا اور وہ ۹۸۹ھ مین مارا گیا۔ اُس کا بیٹا تردی خان منصب یک ہزار پانصدی رکھتا تھا
وہ شاہزادہ دانیال کے ساتھ دکن گیا وہان وہ پایۂ اعتبار سے ساقط ہوا مگر ۱۰۱۴ھ مین
پھر وہ بحال ہوا اور منصب دو ہزار و پانصدی اور پانچ لاکھ روپیہ انعام ملا۔

امرا چار ہزار و پانصدی

(۴۳) زین خان کوکہ اس کی مان کا نام بیجہ جان تھا اور وہ اکبر شہنشاہ کی ایک انگہ
تھی اس کا باپ مقصود علی ایک پاک طینت صدق و دیانت کے ساتھ متصف تھا اور مریم مکانی کا
ملازم تھا اور اس کے ہودج کے حوالی سے کبھی جدا نہ ہوتا تھا اس کے بھائی خواجہ حسن یعنے
زین خان کی چچا کی بیٹی سے شاہزادہ سلطان سلیم کا نکاح ہوا جس کے بطن سے ۹۹۶ھ مین
پرویز پیدا ہوا۔ مہمات یوسف زئی اور سواد و بجور کی مہمات مین زین خان کی خدمتون کا
حال پڑھو۔ زین خان کی بیٹی پر سلطان سلیم عاشق ہوا اور اس سے شادی کرنے کا ارادہ کیا
شاہزادہ کی بیراہی سے بادشاہ راضی نہ تھا۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ بیٹے کا عشق بڑھتا گیا تو
جشن ازدواج انعقاد پایا۔ کامروائی کی کثرت کے ساتھ اس کی بادہ پیمائی کی بھی شدت ہوتی
گئی جس سے آگرہ مین ۱۰۱۰ھ مین پیمانۂ زندگی لبریز ہوا۔ زین خان کو گیتون اور راگ کا بڑا شوق
تھا اکثر باجے خوب بجاتا تھا۔ شعر بھی کہتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بادشاہ کو بلا کر ایسے تکلف سے
ضیافت کی کہ سب امیرون کو اس پر رشک تھا۔ طوس کی شالین جو اس وقت بہت کمیاب
تھین ان کا چبوترہ ۲۶ گز طول و عرض مین بنایا اور تین حوضون مین سے ایک کو گلاب سے
دوم کو زعفران سے سوم کو ارگجہ سے بھرا اور طوائف کو کہ ہزار سے زیادہ تھین ان حوضون
مین نہلایا۔ شیر و شکر کی ندیان بہائین۔ صحن مین گلاب کا چھڑکاؤ کر دیا۔ پیشکش مین
جواہر و مرصع آلات ہاتھیون کے ساتھ دیئے جیسے قلیچ خان گھوڑون کی اور

اور سعید خان خواجہ سرایون کی کثرت مین مشہور تھے ایسے ہی زین خان ہاتھیون کی کثرت مین مشہور تھا۔

(۳۵) مرزا یوسف خان پسر میر احمد رضوی مشہد مقدس کے سادات صحیح النسب سے تھا شہنشاہ اکبر اسے بہت چاہتا تھا ۹۹۲ھ مین اس کو دو ہزار پانصدی کا منصب دیا اس کا حال مہمات کشمیر اور دکن مین دیکھو اس کو جالنور مین ۴۶ جلوس مین جمادی الاخری مین سفر آخرت پیش آیا اس کی نعش مشہد کو روانہ ہوئی وہ اکثر سلطان پور مین رہا کرتا تھا۔ ہندوستان مین اس نے اپنا گھر اور وطن یہین بنایا تھا اُس کی سپاہ مین اکثر روہیلے تھے جن کو وہ ماہوار تنخواہ دیتا تھا۔

چہار ہزاری منصب دار

(۳۶) مہدی قاسم خان۔ وہ ابتدا مین عسکری فرزند سوم فردوس مکانی کا نوکر تھا۔ اور اس کا کوکہ بھی تھا۔ اس کا بھائی غضنفر تھا اس کا حال ہم نے مرزا عسکری کے احمد آباد کی حکومت مین لکھا ہے جب ہمایون عراق سے واپس آیا ہے تو مہدی قاسم خان اُسے ملا تھا۔ عہد اکبری کے آغاز مین اس کو منصب چار ہزاری ملا ۹۷۳ھ مین اکبر نے اس کو جونپور کا حاکم مقرر کیا اور عبد المجید آصف خان کو گرفتار کرنے کے لئے اس کو حکم دیا۔ اس کے تعاقب مین گیا مگر پھر اس کے مزاج مین (الیہم) وحشت پیدا ہوئی کہ وہ بے اجازت شاہی مکہ شریف چلا گیا۔ یہان سے وہ ایران و قندھار مین آیا ۹۷۳ھ مین پادشاہ کی خدمت مین آیا۔ پادشاہ نے اس کو تیول مین اودھ دیا وہ ۹۸۸ھ مین مرگیا حسین خان ترکیہ اس کا بھائی اور داماد تھا۔ اس نے لاہور مین ایک باغ لگایا جس کا نام باغ مہدی قاسم خان ہے۔

(۳۷) مظفر خان تربتی۔ تربت خراسان کی ایک لوس (قوم) کا نام ہے اس کا پورا نام خواجہ مظفر علی خان تربتی ہے وہ بیرام خان کا دیوان تھا جب شیر محمد دیوانہ نے بیرام خان کے اموال پر قبضہ کر لیا اور اس کے متعلقین کی اہانت کی تو بیرام خان نے اس پاس مظفر خان کو

اس کی استمالت کے لئے دیبال پور سے بھیجا تھا۔ شیر محمد دیوانہ نے اس کو مقید کرکے پادشاہ پاس بھیجدیا۔ اگرچہ بعض اعیان سلطنت نے بدلائل و وجوہ اس کے قتل کرنے کی صلاح دی مگر پادشاہ نے اُس کو پرگنہ پرسرور کا عملدار بنایا پھر اسکی حسن کفایت کے سبب سے دیوان بیوتات مقرر کیا جب اس کی کاردانی و بلند استعدادی پادشاہ کے ذہن نشین ہوئی تو اس کو منصب دیوانی اور لقب مظفر خانی عنایت ہوا۔ راجہ تو ڈرمل اس کا نائب تھا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ ان دونون مین ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا خلقت یہ کہتی تھی کہ راجہ کو مال کا کام مظفر سے اچھا آتا ہے لوگون نے مظفر خان کی تاریخ اس عہدہ پر مقرر ہونے کی ظالم کہی تھی۔

اس نے ۹۱۳ھ مین قلمرو کی جمع رقمی کو دور کیا۔ بیرام خان کے زمانہ مین آدمیون کی کثرت اور ولایت کی قلت کے سبب سے جمع کو برائے نام زیادہ کرکے مزید اعتبار کے لئے تنخواہین دیتے تھے اُس نے اُس کو دفتر سے نکال کر اور قانون گویون کا اظہار لیکر ممالک محروسہ کی جمع کو تشخیص کرکے پیش کیا اس کا حال آئین دہ سالہ مین مفصل لکھا ہی۔ داغ قانون جاری نہ تھا۔ مظفر خان نے سپاہیون کی تعداد اور امرا اور پادشاہ کے ملازمین کی تعداد مقرر کی اور سپاہیون کی تین قسمین مقرر کین۔

۹۱۴ھ مین معلوم ہوا کہ قطب پر مظفر عاشق ہوا اس معشوق کو پادشاہ نے زبردستی جدا کیا تو مظفر فقیر ہوگیا۔ پادشاہ نے پھر اس کے معشوق کو اس پاس بھجوادیا۔

۹۷۹ھ مین وہ پادشاہ کے سامنے چوپڑ کھیل رہا تھا جب بہت سی بازیان ہارا تو حضور مین نامناسب حرکات کرنے لگا جس کے سبب سے پادشاہ نے پایۂ اعتبار سے اس کو ساقط کرکے رخصت کیا مگر جب پادشاہ سورت کا محاصرہ کر رہا تھا تو وہ پادشاہ کی خدمت مین آیا۔ پادشاہ نے اس کا قصور معاف کیا وہ کچھ دنون مالوہ مین خدمات کرتا رہا کہ ۹۸۱ھ مین وہ وکیل سلطنت مقرر ہوا جملۃ الملک کا خطاب ملا اس کے حسن خدمات کا بیان جہات مالوہ مین و بنگال و بہار مین بیان ہوا۔ وہ ربیع الاول ۹۸۸ھ مین مارا گیا آگرہ مین اس کی ایک جامع مسجد بنائی ہوئی ہی جو کھنڈر پڑی ہے اور نواب مظفر خان کی

مسجد کہلاتی ہے۔

(۳۸) سیف خان کوکہ۔ یہ زین خان کا بڑا بھائی ہے کہتے ہین کہ اس کی مان کے ہمیشہ لڑکیان پیدا ہوا کرتی تھین۔ کابل مین وہ حاملہ تھی تو اس لڑکے باپ نے کہا تھا کہ اگر اس دفعہ لڑکی جنے گی تو خانہ داری و ملاقات سے موقوف ہوگی وہ غصہ مین آنکر مریم مکانی کی خدمت مین گئی اور یہ حال بیان کیا اور اسقاط حمل کی اجازت چاہی اکبر باوجودیکہ چھوٹی عمر کا تھا اس نے کہا کہ میری خاطر سے یہ کام نہ کر خدا تجھکو بیٹا دیگا۔ اس نے اس شہزادہ کے کہنے کو مژدۂ غیبی جانا اپنے ارادہ سے باز رہی اتفاقاً سیف خان پیدا ہوا ان باپ کو بہت خوشی ہوئی انہون نے شاہزادہ کا شکریہ ادا کیا۔ اکبر اس کے حال پر بہت عنایت کرتا تھا پادشاہ ہوتے ہی سیف خان کو باوجودیکہ آغاز شباب تھا منصب چار ہزاری دیدیا وہ جوانمرد بڑا تھا سورت کے محاصرہ مین اس کے گولی لگی۔ ایک مہینہ مین اچھا ہوا۔ احمد آباد کی لڑائی مین دو زخم کھا کر پادشاہ کی تلاش مین گیا اور دشمن سے لڑکر ملک بقا کو سدھارا۔ پادشاہ کو ایسے مخلص راسخ قدم کے مرنے کا بڑا افسوس ہوا جب پادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ قرضدار مرا ہے تو اس کا سارا قرض اپنے پاس سے چکا دیا اور اُس کے بیٹون شیر افگن خان اور امان اللہ کو اچھے منصب عنایت کئے۔

(۳۹) راجہ تودڑمل کھتری۔ وہ لاہور مین پیدا ہوا کہتے ہین کہ ابتدا مین اُس کو شیر شاہ نے تعلیم کیا تھا ۹۷۱ھ مین وہ مظفر خان کے ماتحت مقرر ہوا ۹۷۲ھ مین وہ پادشاہ کے ساتھ خان زمان کے فسادون کے مٹانے مین پادشاہ کے ہمراہ تھا ۹۸۰ھ مین وہ گجرات کی جمع کی تشخیص کے لئے بھیجا گیا جب پٹنہ فتح ہوگیا تو ۹۸۲ھ مین اس کو علم و نقارہ مرحمت ہوا اور منعم خان کے ساتھ بنگال بھیجا گیا ہرچند سرداری و کارفرمائی خانخانان سے تعلق رکھتی تھی لیکن فوج کشی و دلدہی سپاہ مین مردانہ یورشون مین سرتابون اور مخالفون کی تنبیہ مین اصل مین وہی اس مہم کی جان تھا جب داؤد خان کررانی کی جنگ مین خان عالم کشتہ اور خانخانان زخمی ہوا تو راجہ جنگ مین ایسا ثابت قدم رہا کہ جس سے شکست فتح کی

صورت بن گئی۔ جب راجہ پاس خانخانان اور خانِ عالم کی خبر ناخوش اور ناخواستنی پہنچی تو بڑا آشفتہ ہو کر کہا کہ اگر خان عالم مرا تو کیا غم اور اگر خانخانان چلا گیا تو کیا باک ہے اقبال شاہی ہمارے ساتھ ہے اس ولایت کا بندوبست کر کے حضور مین آیا اور بدستور سابق مقدمات مالی اور ملکی مین دخیل ہوا جب خانخانان بنگال کو گیا راجہ کو اُس کے ہمراہ جانے کا حکم ہوا۔ اس دفعہ بھی اس کی یاوری سے گیا ہوا ملک ہاتھ لگا اور اس نے داؤد کو پکڑ کر عدم خانہ مین بھیجا اور ۹۸۳ھ مین چارسو ہاتھی اور غنائم کے ساتھ پادشاہ کی خدمت مین بھیجے۔ سال آئندہ مین وہ وزیر خان کی جگہ دوبارہ گجرات بھیجا گیا جس سے یہان کا کام نہین چلا تھا وہ احمدآباد مین وزیر خان کے ساتھ انتظام کر رہا تھا کہ مظفر حسین نے مہر علی کولابی کے اغواسے سرکشی کی وزیر خان چاہتا تھا کہ قلعہ مین جا رہے مگر راجہ تو ڈرمل لڑنے پر آمادہ ہوا اور ۲۲ سنہ مین دھولقہ کے حدود مین احمدآباد سے بارہ کوس پر مظفر کو شکست دیدی۔ وزیر خان کا قریب تھا کہ کام تمام ہوتا اگر راجہ اُسکی کمک کو نہ آتا مظفر اس شکست کے بعد جوناگڈھ کو بھاگ گیا۔

اسی سال مین تو ڈرمل وزیر مقرر ہوا۔ جب پادشاہ اجمیر سے پنجاب کو روانہ ہوا تو راجہ کے وہ بت جن کی ہر روزہ خاص طرح پر پرستش نہین کر لیتا تھا کوئی اور کام نہین کرتا تھا گم ہو گئے راجہ نے اُس غم مین خواب آشام کو چھوڑا مگر پادشاہ کی نصیحت سے اس تقلید دوست کی کچھ تسلی نہ ہوئی دارالوزارت کا کام اس کا منافقون نے قرار واقع نہ ہونے دیا۔

۹۹۰ سنہ مین تو ڈرمل دیوان شرف کا اشراف یعنی وکیل مقرر ہوا اس نے ازسرنو ملکی و مالی معاملات کی بنا تازہ رکھی اور چند نئے ضابطے بنائے جو فرمان شاہی سے جاری ہوئے۔ اور جو سکّون کے باب مین قوانین بنائے تھے آئین اکبری مین ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے قوانین کا بیان اقبالنامہ مین ہے سب سے بڑی بات اصلاح کی جو تو ڈرمل نے

داخل کی وہ یہ ہے کہ اس نے مال کے حسابون کی زبان اور خط کو بدل دیا پہلے یہ سارے حساب ہندی مین ہندی محرر رکھتے تھے توڈرمل نے حکم دیدیا کہ اب سے تمام حسابات فارسی مین لکھے جائین اس سبب سے اس نے ہندوؤن کو فارسی زبان سیکھنے پر مجبور کیا۔ فارسی زبان کے داخل ہونے کا حال بعینہٖ ایسا ہے جیساکہ برٹش گورنمنٹ مین دفترون مین انگریزی زبان کے داخل ہونے کا۔ فارسی زبان کی تحصیل ہندوؤن کے لئے سرمایہ دولت بنی پہلے ہندو فارسی نہ پڑھنے کے سبب سے مسلمانون کی طرح اعلےٰ عہدے نہین پاتے تھے اب پانے لگے ہندوؤن کے فارسی پڑھنے کے سبب اُردو زبان پیدا ہوگئی۔

۲۹ سنہ مین بادشاہ نے راجہ کے گھر جاکر اس کی عزت کو بڑھایا ۳۲ سنہ مین ایک کھتری نے اپنی ذاتی دشمنی کے سبب رات کو ایک تلوار لگائی اور اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرائے۔ جب راجہ بیربر یوسف زئی کی لڑائی مین مارا گیا تو توڈرمل کو مان سنگھ کے ساتھ جو سپہ سالار مقرر ہوا تھا جانے کا حکم ہوا تھا۔

۳۴ سنہ مین جب راجہ کشمیر مین گیا ہے تو لاہور مین اس کو منتظم مقرر کیا جب بادشاہ کابل کو جانے لگا ہے تو راجہ نے بادشاہ پاس عرضداشت بھیجی کہ پیری و بیماری نے مجھ پر غلبہ کیا ہے موت قریب آگئی ہے اگر اجازت ہو تو سب چیزون کو چھوڑ کر گنگا کے کنارہ پر خدا کی یاد مین اپنی باقی زندگی بسر کرون۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دیدی لاہور سے وہ ہردوار مین آیا کہ بادشاہ کا منشور واپسی کے لئے آیا اس مین لکھا تھا کہ کوئی ایزدی پرستش زیردستون کی تیمارداری سے بہتر نہین ہے۔ بہتر ہے کہ وہ آدمیون کے کام مین مشغول ہو ناگزیر وہ واپس آیا مگر جلدی سے ۹۹۸ ھ کی گیارہوین تاریخ کو زندگی اس کی ختم ہوئی۔ ابوالفضل نے اس کی نسبت لکھا ہے کہ تیزدستی و درستی خدمت گزینی اور بے طمعی اور مہمات کی مردانگی و بے ہمتون کی ہمت افزائی و معاملہ شناسی و کارطلبی و سربراہی مین وہ ہندوستان مین یگانۂ روزگار تھا مگر کینہ ور اور انتقام کش تھا تھوڑی سی ناملائمی بھی اُس کے دل مین نشوونما پاتی تھی۔ یہ خصلت دوربین خردگزینون کے نزدیک نہایت

ناپسندیدہ ہے خصوصاً ریاست منڈی مین جب کہ اہل عالم کی مہمات اُسکو سپرد ہون اور پادشاہ عالم کی وکالت مفوض ہو۔ اگر تعصب دینی اسکے چہرۂ فطرت کا غازہ نہوتا تو اُسکی خصلت مین چندان نکوہیدگی نہوتی سچ یہ ہے کہ اگر تعصب سالی و تقلید دوستی و کینہ توزی نہ کرتا اور اپنے کیے پر اصرار نہ کرتا تو صورت مین اِس معنے کر بزرگون مین سے ہوتا مگر باوجود ان سب باتون کے وہ بے طمعی کارشناسی مین کم نظیر کیا بے عدیل تھا۔ بادشاہ فرماتا تھا کہ ٹوڈرمل امور مالی و ملکی مین تند و ذہن سار کھتا ہے لیکن استغنا و خود پسندی اسکی مجھے خوش نہین معلوم ہوتی۔ ابوالفضل سے اسکی نبتی نہ تھی۔ ایک دن پادشاہ سے اس نے راجہ کی شکایت کی تو پادشاہ نے فرمایا کہ نواختہ رامی توان برانداخت۔

غرض راجہ ٹوڈرمل کی سپہ سالاری مین اور باقی کامون مین کمال کی شہرت اکبر کے تمام اُمرا مین سبقت لے گئی ہے۔ ابوالفضل و مان سنگھ کی طرح وہ ہندوستان مین مشہور ہے اسکا بیٹا دھورا منصب ہفت صدی رکھتا تھا۔ سندھ کی مہم مین وہ مارا گیا۔ لوگ کہتے ہین کہ وہ گھوڑون کے نعل سونے چاندی کے لگواتا تھا۔

ٹوڈرمل کے نام مین ٹ و ڈ وڈر کتابون مین لکھی جاتی ہے اور پرانی تاریخون مین اسکا نام تورل مل لکھا جاتا ہے۔ تفریح الامارات مین لکھا ہے کہ ٹوڈرمل کا باپ جب مرا ہے تو اسکی بہت کم عمر تھی اور اسکی مان بڑی مفلوک الحال تھی۔ کم عمری مین عقل و شعور کے آثار نمودار تھے۔ اول اسنے محرری کا ادنے عہدہ قبول کیا اور اس کمتر درجہ سے برتر مرتبہ پر پہنچا۔

راجہ ٹوڈرمل اپنے مذہب مین بڑا کٹا و پکا تھا اسنے جو دفاتر شاہی مین ہندی کی جگہ فارسی کو رواج دلوایا۔ ظاہر اپنے قوم کے خلاف معلوم ہوتا ہے مگر حقیقت مین یہ کام اسکا بڑا اپنی قومی خیرخواہی کا تھا۔ ہندوون مین اسنے فارسی زبان کے سیکھنے کا رواج دلاکر انکو اہل قلم کے صیغۂ ملازمت مین مسلمانون کی برابر کردیا وہ ہندی لیکھک سے اب وزیر بڑے بڑے عہدون پر سرفراز ہونے لگے۔

(۴۰) محمد قاسم خان نیشاپوری - وہ اعاظم نیشاپور سے ہے - جب یہان وزبکون نے ہنگامہ شورش برپا کیا تو خان مزبور وطن کو چھوڑکر بیرام خان کی رفاقت مین آیا - اسکند سور کے ساتھ جنگ مین نیک خدمات مین اور جنگ ہیمو مین علی قلی خان زمان کے ساتھ ہراول مین ناموری حاصل کی - اجمیر و ناگور کو فتح کیا - کچھ دنون ملتان مین اور کچھ دنون مالوہ کی حکومت پر سرافراز رہا اور سارنگ پور مین مرگیا -

(۴۱) وزیر خان برادر عبدالمجید آصف خان ہراتی - جب ان دونون بھائیون نے خانخانان و بہادر خان سیستانی کی قید سے رہائی پائی تو وہ کڑہ مانک پور مین آئے - مظفر خان کے توسل سے وزیر خان نے اپنا اور اپنے بھائی کا قصور بادشاہ سے معاف کرایا -

جب مرزا کوکہ ناظم گجرات معرض عتاب مین آیا تو وزیر خان گجرات بھیجا گیا اور وہان سپہ سالار مقرر ہوا - پھر ۲۲ھ مین ٹوڈرمل نے اس سے کام لیا - وزیر خان دربار مین بلایا گیا کہ یہی کام اسنے یہان اچھا نہین کیا - پھر ۲۵ھ مین اودھ مین حاکم مقرر ہوا - پھر مہم بنگال مین وہ کام کرتا رہا - ۳۱ھ مین وہ اور محب علی خان دونو بنگال کے صوبہ دار مقرر ہوئے ۹۵ھ مین وزیر خان نے انتقال کیا - اسکے بیٹے محمد صالح کو شہباز خان بخشی فوج نے باپ کی جگہ مقرر کیا مگر اسنے ایسی سرکشی کی کہ اسکو مقید کرکے بادشاہ پاس بھیجنا پڑا -

(۴۲) قلیچ خان اندجانی - اندجان ضلع فرغانہ مین دریا جیحون کے جنوب مین ہے سلاطین چغتائیہ کی خدمت مین اسکے باپ دادا خدمت کرتے چلے آئے ہین - وہ صاحب نسب تھا - اسکا دادا سلطان حسین مرزا کے ہان عمدہ عہدہ رکھتا تھا - ۸۰ھ مین بادشاہ نے قلعہ آہنین بنیاد سورت کو ایک مہینہ سترہ روز مین فتح کیا تھا - اس قلعہ کی حراست و صیانت قلیچ خان کے سپرد ہوئی وہ اسی برس کی عمر مین ۲ رمضان ۱۰۲۴ھ مین پشاور مین مرگیا - مرنے کے زمانہ مین وہ منصب شش ہزاری رکھتا تھا اور پانچ ہزار سوار کا افسر تھا - قلیچ خان صلاح و تقوی بہت رکھتا تھا تسنن مین متعصب تھا - درس علوم و افادہ طلاب

مین اشتغال کرتا تھا۔ کہتے ہین کہ لاہور کی صوبہ داری مین وہ ایک پھر مدرسہ کے اندر فقہ وتفسیر وحدیث کے درس مین قیام کرتا تھا۔ علوم شرعیہ کی ترویج مین کمال کوشش کرتا تھا۔ طبع موزون رکھتا تھا۔ الفتی تخلص کرتا تھا۔ اسکے دو بیٹے مرزا سیف اللہ خان و مرزا حسین قلیج اکبر بادشاہ کے عہد مین مناصب مناسب پر ممتاز ہوے قلیج کے ...... معنے ترکی زبان مین شمشیر کے ہین پس قلیج خان ایسا ہی نام ہے جیسے کہ شمشیر خان۔

(۴۳) صادق خان۔ یہ محمد باقر ہروی کا بیٹا ہے جو قرا خان حاکم خراسان کا وزیر تھا جس نے بادشاہ طہماسپ سے بغاوت کی تھی۔ صادق خان اول ہندوستان مین آیا۔ اور بیرام خان کا نوکر ہوا۔ رکاب داری کی خدمت پائی۔ تھوڑی مدت مین منصب بادشاہی پایا۔ بیرام خان کے بعد وہ امیر ہو گیا۔ بادشاہ کا ہاتھی لعل خان اسکی غفلت سے غرق ہو گیا تھا اس لیے عتاب شاہی مین آیا۔ مگر جب چند ہاتھی جرمانہ کے طور پر بادشاہ کی نذر کیے تو قصور معاف ہوا اور ولایت گڈھ و ولایت شرق بنگال و ملتان و تیراہ و دکن کی مہمات مین اُس نے خدمات نمایان کین۔ دکن مین ۱۰۰۳ھ مین وہ شاہزادہ مراد کا اتالیق مقرر ہوا۔ ۱۰۰۴ھ مین اس نے منصب پنجہزاری پایا۔ ملک دکن مین ۱۰۰۵ھ مقرر ہوا۔ ۱۰۰۵ھ مین شاہ پور اسہال کے مرض سے ملک بقا کا مسافر بنا۔ آگرے سے آٹھ کروہ پر دھولپور مین اسنے وطن بنایا تھا۔ یہان اسنے عالی شان سرا عمارت و مقبرہ بنایا اور اسکے گرد دہات آباد کیے۔ بڑا بیٹا اسکا زاہد خان ہے جسکا ذکر جدا بیان ہو گا اور بیٹے اسکے دوست محمد و یار محمد تھے۔ انمین سے کوئی شاہجہان کے عہد مین زندہ نہ تھا۔

(۴۴) راے رالے سنگھ پسر راے کلیان مل۔ کلیان مل بیکانیر کا زمیندار قوم کا راٹھور رجپوت تھا وہ مالدیو کی چوتھی پڑھی مین تھا۔ بیرام خان کا دوست تھا۔ ۹۷۵ھ مین اکبر کی خدمت مین وہ مع اپنے بیٹے راے سنگھ کے اجمیر مین آیا اور اپنی بھتیجی کو بادشاہ سے بیاہا۔ وہ اپنی چالیس برس کی عمر مین منصب دو ہزاری رکھتا تھا۔ ۹۷۸ھ مین راے سنگھ نے

یہ وہیں تو وطن مالدیو مین توقف کر کے گجرات کی راہ روکی کہ باعث ممالک محروسہ مین داخل ہون - ابراہیم حسین کی و محمد حسین مرزا کی و چند سین پسر راجہ مالدیو کی لڑائیون مین و رسوانہ کی فتح مین جالور و سروہی و نادوت و رکابل و بلوچون کی و ٹھٹھہ و رانا کی مہمات مین اچھی اچھی خدمتین کین بعض اوقات پادشاہی عتاب مین آیا - مگر اسکے قصور معاف ہوگئے - اکبر کے عہد مین تو اسکو منصب چارہزاری ملا - مگر جہانگیر کے عہد مین وہ پنجہزاری ہوا - جب جہانگیر خسرو کے تعاقب مین پنجاب جا رہا تھا تو وہ محل کے ہمراہ مامور ہوا تھا - مگر اثنا راہ مین وہ بے حکم اپنے وطن کو بھاگ نکلا گیا - شریف خان نے اسکا یہ قصور معاف کرایا - سنہ ۱۰۲۱ھ مین وہ عدم آباد کو سدھارا - اسکے بیٹون کا حال جہانگیر کی سلطنت مین بیان ہوگا -

منصب ار سہ ہزار و پانصدی

(۵۴) شاہ قلی محرم بہارلو - یہ بیرام خان کا عمدہ نوکر تھا ہیمو کو ہاتھی پر سے پکڑکر اور ہاتھ پانو باندھ پادشاہ کے روبرو لایا تھا - قبول خان پر عاشق ہوا - اسکا بیان اقبالنامہ مین لکھا گیا - وہ بیرام خان کا آخر وقت تک دوست رہا - بیرام خان کے مرنے کے بعد بہت جلد وہ امیر ہوگیا - پنجاب کا حاکم مقرر ہوا - وہ پادشاہ کا ایسا منظور نظر تھا کہ اسکو پادشاہ اپنے محل مین لیگیا - شاہ قلی نے اپنے گھر جا کر اپنے تئین مجبوب کیا یعنی فوطے اپنے نکال کر پھینک دیے - جب پادشاہ کو اس پر علم ہوا تو اسکو محرم کا خطاب دیا - سنہ ۹۸۳ھ مین پادشاہ ایک ہتنی پر سوار ہوتا تھا کہ ایک بدمست ہاتھی اسپر آن چڑھا - جس سے پادشاہ گرکر بیہوش ہوگیا - خبر اڑ گئی کہ پادشاہ مرگیا اس لیے بہت سے پرگنون مین لوٹ مچ گئی میوات سے ریواڑی تک راجپوتون نے لوٹ لیا - شاہ قلی نے خوب انکی مالش کی - سنہ ۱۰۰۱ھ مین منصب چہارہزاری اسے ملا - پھر منصب پنجہزاری و علم و نقارہ - سنہ ۱۰۰۲ھ مین دارالخلافہ آگرہ مین عارضہ اسہال مین انتقال کیا - بیماری کی حالت مین سپاہ کو دو سال کی تنخواہ بخشی دی - اور مستحقون کو بہت خیرات دی

نارنول مین اسنے اپنا وطن بنایا تھا وہان عالیشان عمارتین اور بڑے تالاب بنائے اسکے اولاد نہین تھی اس لیے تمام مال اسکا خزانہ شاہی مین آیا۔

(۴۴) اسمٰعیل قلی خان برادر خورد خان جہان۔ وہ جالندھر کی لڑائی مین گرفتار ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بادشاہ کی خدمت مین سرفراز ہوا و مہم بلوچستان مین گیا ہوا۔ زابلستان کی حکومت مین افعال ناسزا کا مرتکب ہوا۔ پھر سے مکہ روانہ ہونیکا حکم ہوا۔ مگر تضرع و زاری کے سبب سے وہ یوسف زئی کی مالش کے لیے متعین ہوا۔ یہان بھی اُسنے کچھ کام نہین کیا پھر وہ ۱۰۰۳ھ مین مالوہ مین جاگیردار مقرر ہوا۔ پھر کالپی اپنی جاگیر مین گیا اور ۱۰۰۴ھ مین اسکو منصب پنجہزاری ملا وہ عیش دوست بڑا تھا۔ کھانے پینے لباس و فرش و ظروف مین بہت تکلف کرتا تھا۔ بارہ سو عورتین اسکے پاس تھین۔ جب دربار مین جاتا تو انکے ازاربندون کو قفل لگا جاتا۔ آخران عورتون نے عاجز ہوکر اسکو زہر دیکر مار ڈالا۔ اسکے تین بیٹے (۱) ابراہیم قلی (۲) سلیم قلی۔ (۳) خلیل قلی تھے۔ اول کو منصب سہ صدی اور باقی دو مین سے ہر ایک کو منصب دو صدی ملا تھا۔

منصب داران سہ ہزاری

(۴۷) مرزا جانی بیگ ارغون حاکم ٹھٹہ۔ ارغون کا حال تاریخ سندھ مین بیان ہوگا۔ ۱۰۰۰ھ خانخانان نے مرزا جانی بیگ کو شکستین دے کر مطیع کیا ۱۰۰۱ھ وہ پادشاہ پاس آیا۔ منصب سہ ہزاری پایا۔ ملتان کی صوبہ داری کے ساتھ مخصوص ہوا۔ مگر پھر اسکو سندھ ملگیا۔ ۱۰۰۴ھ مین منصب سہ ہزار پانصدی پایا۔ مرزا فراست و دانائی سے آراستہ تھا اسکے گفتار و کردار سے راستی و درستی اور شناسائی و آہستگی اسکی نشست و برخاست سے نمایان تھی چھوٹی عمر سے شراب پینے کا شوق تھا مگر اسی حالت مین کوئی ناہنجار حرکت نہین کرتا۔ کار کرد و گفتگو مین اپنا پاسبان رہتا۔ مگر شراب کے بڑھنے سے بیمار رہا۔ رعشہ و سرسام مین

گرفتار رہا ۱۰۰۵ھ میں برہان پور میں قلعہ اسیر کی فتح کے بعد فنا ہوا۔
ایک دن بادشاہ کی مجلس میں کہتا تھا کہ آسیر جب قلعہ میرے پاس ہوتا تو سو سال تک اس کو میں نہ دیتا۔ معاندوں نے بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ کے دل میں غبار اسکی طرف سے آیا ہی تھا کہ موت آگئی طبیعت اسکی موزون تھی حلیمی تخلص کرتا تھا مرزا جانی بیگ کا بیٹا مرزا غازی بیگ تھا جب باپ مرا ہے تو اسکی عمر ۱۱ سال کی تھی۔ بادشاہ نے اسکو ملک سندھ کا حاکم مقرر کر دیا۔ مگر اسکے پاس سپاہ اتنی جمع ہوگئی تھی کہ اسنے بادشاہ سے بغاوت کی۔ مگر سعید خان بھکر جاکر اسکو دربار میں لایا۔ بادشاہ نے اسکو ملک سندھ دیدیا۔
جہانگیر جب تخت پر بیٹھا ہے تو اسکو سوا سندھ کے ملتان بھی اور ہفت ہزاری منصب ملگیا اور قندھار کی کمک کو بھیجا گیا۔ جسکو حسین خان شاملو حاکم ہرات نے گھیر رکھا تھا اسکو فرزند کا خطاب ملا۔ عباس اسکو اپنی طرف پرچاتا تھا اور کئی دفعہ اسکو خلعت بھیجے تھے۔ وہ ۱۰۲۱ھ میں دفعۃً مر گیا۔ اسکے مرنے کی تاریخ لفظ غازی ہے۔ اسکے کچھ اولاد نہ تھی۔ باپ کی طرح وہ بھی شاعر تھا۔ اپنا تخلص وقاری کرتا تھا سب طرح کے ساز بجاتا تھا شاعروں کو بہت انعام دیتا تھا وہ صرف شراب نہیں پیتا تھا بلکہ ہر روز ایک باکرہ عورت سے مباشرت کرتا تھا۔ سب جگہ سے یہ باکرہ اسکے لیے جمع کی جاتی تھیں۔ ٹھٹھہ میں کوئی رنڈی باقی نہ تھی جو اس سے اپنا رشتہ نہ بتاتی ہو۔
(۹۰ھ) اسکندر خان ازبک۔ اوزبک کے سلاطین زادوں میں سے تھا اکبر شہنشاہ کی خدمات بجالایا۔ خانی کا خطاب پایا۔ آگرہ کی حکومت ملی۔ ہیموں کے ساتھ مرکر سرہند کو بادشاہ پاس بھاگا۔ پھر وہ پنجاب میں مظفر خان کی کمک کو گیا۔ پھر اودھ کا تیول دار مقرر ہوا خان زمان کی بغاوت میں شریک ہوا۔ پھر توبہ کرکے بادشاہ کے پاس بازگشت کی اور سرکار لکھنؤ کا تیول دار مقرر ہوا جب لکھنؤ میں آیا تو بیمار پڑا اور ۹۸۰ھ میں دنیا سے گیا۔
(۹۱ھ) آصف خان خواجہ عبدالمجید ہروی۔ شیخ ابوبکر تائبادی کے فرزندوں میں سے ہے جو

اپنے زمانے کے صاحب کمالون مین سے تھا۔ ۷۸۲ھ مین امیر تیمور ہرات کی تسخیر کی طرف متوجہ ہوا تو ملک غیاث الدین یہان فرمان روا تھا تابا مین جب وہ آیا تو اُسنے شیخ پاس اپنا آدمی بھیجا کہ آپ کس واسطے تیمور سے ملاقات نہین کرتے تو اُسنے کہا کہ مجھے امیر سے کیا کام ہے تو امیر خود شیخ پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپنے ملک غیاث الدین کو نصیحت کیون نہین کی تو اُنھون نے جواب دیا کہ مین نے نصیحت کی تھی مگر اُس نے نہین سُنی۔ خدا تعالی نے تمکو اس پر مقرر کر دیا۔ اب مین تمکو نصیحت کرتا ہون کہ عدل کرو اگر عدل نہ کروگے تو خدا تم پر کسی دوسرے کو مقرر کرے گا۔ امیر کہتا تھا کہ مجھے ہر قسم کے درویشون کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا ہے سب کے دل مین خودغرضی کو دیکھا مگر شیخ کو اس سے خالی پایا۔

خواجہ عبدالمجید کے بھائی وزیر خان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے وہ ہمایون کی سرکار کا دیوان تھا۔ اکبر کے عہد مین وہ دیوان سے سردار ہوا اور جامع سیف و قلم ہوا۔ اسکو آصف خان کا خطاب ملا۔ وہین کی حکومت ملی اور بتدریج صاحب علم و طبل ہوا منصب سہ ہزاری ملا۔ چنار اور بھٹہ اور باندھو و گڑھ کتنگہ کی مہمات مین جو کام خواجہ نے کیے وہ اقبالنامہ مین مرقوم ہین۔ سنہ مین وہ باغی ہو کر خان زمان کے ساتھ مین گیا پھر اسکے جرائم معاف ہوے ۹۸۵ھ مین وہ رانا سے سنگھ کی ساتھ لڑائیون مین شایستہ خدمت بجا لایا اور جب قلعہ چتوڑ فتح ہوا تو آصف خان کو وہ عنایت ہوا۔ اسکے مرنے کی تاریخ نہ ماثر الامرا مین نہ طبقات مین لکھی ہے۔

(۵۰) مجنون خان قاقشال۔ عہد ہمایون مین وہ نارنول کا تیولدار تھا۔ جہان سے شیر شاہ کے غلام حاجی خان نے اسے نکال دیا۔ عہد اکبری مین وہ کڑہ مانک پور کا جاگیردار رہا۔ خان زمان اور اُسکے بھائی کی بغاوتون مین اسنے کارہاے نمایان کیے۔ کالنجر کو تسخیر کیا گورکھپور کو خلاص کیا۔ گجرات مین کچھ بے عنوانی کی۔ پھر بہار و بنگال کی مہمات مین شایستہ خدمات بجا لایا۔ گھوڑا گھاٹ کو فتح کر کے عدم کو سدھارا۔ سہ ہزاری منصب رکھتا تھا۔ طبقات اکبری مین لکھا ہے کہ وہ پنج ہزاری منصب رکھتا تھا اور پانچہزار سوار اس کے

نوکر تھے - اسکا بیٹا جباری خان چند سال مراسم نوکری اور کارگذاری مین سرگرم رہا جب داغ کا آئین جاری ہوا تو گروہ قاقشالیہ اس سے متوحش ہوے کہ بغاوت کے آثار ظاہر کرنے لگے وہ بھی اس کام مین شریک ہوا - مگر پھر[1] اسکو خانجہان کا خطاب ملا - پھر اسکو مدت تک زندان مین رہنا پڑا - پھر سنہ ۹۳ھ مین رہا ہوا -

(۵۱) شجاعت خان عرف مقیم خان عرب - یہ تردی بیگ کا بھانجا اور خویش ہے - ہمایون بادشاہ نے اسکو مقیم خان کا خطاب دیا تھا وہ ہمایون کی خدمت چھوڑ کر مرزا عسکری سے جا ملا تھا - پھر اسنے بادشاہ سے قصور معاف کرایا - منعم خان کے ساتھ شہنشاہ اکبر کی خدمت مین آیا - سنہ ۹ھ مین مالوہ کی یورش مین شایستہ خدمات بجا لایا شجاعت خان کا خطاب پایا - سنہ ۱۵ھ مین بادشاہ اسکے گھر مین مہمان ہوا - ایلغار نہ روزہ مین وہ بادشاہ کے ساتھ تھا - ایکدفعہ بزم شاہی مین اسنے کچھ کلمات نامناسب منعم خان خانان کی نسبت کہے تھے - اسکو سرزنش زبانی ہوئی اور خان خانان پاس بھیجا گیا جس نے اسکا قصور معاف کیا - سنہ ۲۲ھ مین منصب سہ ہزاری اُسکو ملا - ممالک شرقیہ مین وہ سپہ سالار اور حاکم رہا سنہ ۹۸۸ھ مین اسکے نوکرون نے شہید کیا - اکبر نے اُسکے قاتلون کو سخت سزا دی - ایکدفعہ جنگل مین بادشاہ نے اُسکی جان بھی بچا دی تھی ؎

اسکا ایک بیٹا قویم خان باپ کے ساتھ مارا گیا وہ نوجوان تھا علم موسیقی سے خوب ماہر تھا - دوسرا بیٹا مقیم خان تھا اسے منصب ہفت صدی ملا تھا -

(۵۲) شاہ براغ خان وہ ویماق کال کی اولاد مین تھا (فرا ترک کی قوم کے دو فرقے اویماق [illegible] تھے وہ ہندستان مین شہسلوری مین مشہور تھے مغلون کے مورخ ایماق لکھتے ہین اور اس سے شہسلو مراد لیتے ہین - اس کی لفظ کے معنی ہندستان مین کچھ سے کچھ ہو گئے (براغ کے معنی ترکی زبان [illegible] کے ہین - کال کے معنی کسی فرقہ کے بانی کے ہین) ہمایون کے عہد مین اپنی خدمات پسندیدہ [illegible] گیا اور عہد اکبری مین ہمیشہ بادشمنون سے لڑتا تھا - اس کی . . . . . .

عوض مین پے در پے اُسکے منصب اضافہ ہوتے گئے اور وہ امیر ہوگیا اور منصب ہزاری
اسکو مل گیا۔ سنہ مین جب بہادر خان سے لشکر شاہی نے شکست پائی تو بداغ خان نہین بھاگا۔
گھوڑے پر سے گر کر گرفتار رہوا۔ پھر وہ اس قید سے رہا ہوا۔ مالوہ مین اسکو حسن خدمات کے
سبب سارنگ پور تیول مین ملا۔ اسنے مانڈو مین انتقال کیا۔ قلعہ مانڈو مین اسنے عمارت
مطبوع اور مستحکم بنائی اور نیل کنٹھ اسکا نام رکھا اور اس پر یہ بیت کندہ کرائی ؎

توان کردن تمامی عمر را مصروف آب وگل — کہ شاید یکدمے صاحبدلے اینجا کند منزل

اسکے نیچے میر معصوم بھکری نے جسکا تخلص نامی تھا یہ رباعی کندہ کی۔

رباعی

چندے دیدم شکستہ در صبح گاہ — بر کنگرہ مقبرۂ شروان شاہ
فریاد کنان ز روے عبرت گفت — کو آن ہمہ حشمت و کجا آن ہمہ جاہ

عہد جہانگیری مین ان عمارات کو رونق تازہ حاصل ہوئی۔

(۵۳) حسین خان ٹکریہ۔ مہدی قاسم خان کا بھانجا اور داماد ہے اول وہ بیرم خان کا ملازم
تھا۔ ماہ صفر سنہ ۹۶۵ھ مین لاہور کی حراست اُسے سپرد ہوئی کوئی ہندو لمبی داڑھی کا آیا اسکو
مسلمان سمجھ کر اسنے تعظیم دی جب اُسکو معلوم ہوا کہ وہ ہندو ہے تو اُسنے حکم دیا کہ کوئی ہندو
اس جا پر جبتک نہ آئے کہ کندھے پر غبار نہ لگائے۔ غبار ایک زرد کپڑا ہوتا ہے امتیاز کے
واسطے کندھے پر لگایا کرتے تھے۔ اسکا ہندی ترجمہ ٹکڑی ہے اسلیے اسکے نام کے ساتھ
ٹکریہ لگایا جاتا ہے۔ بیرم خان کے ساتھ وہ اور شاہ قلیخان اُسوقت تک ساتھ رہے کہ کوئی عزیز بھی
مین اسکی ہمراہ نہ رہا تھا جب مہدی قاسم خان گڈھ سے دل برداشتہ ہو کر راہ دکن سے حجاز
کو روانہ ہو تو وہ کچھ دور اسکے ساتھ گیا جب قصبہ ستواس پر آیا تو یہان مرزاؤن کا غوغا جمع ہوا تھا
ناچار وہ قصبۂ مذکور مین مقرب خان کے ساتھ کہ یہان کا تیولدار تھا مستحقین ہوا جب مقیم خان بھاگ گیا
تو حسین خان باہر نکلکر ابراہیم حسین مرزا سے ملا۔ ہر چند اسنے اسکو رفاقت کے لیے کہا مگر اس نے

قبول نہین کیا۔ ۹۸۲ھ مین وہ پادشاہ پاس آیا قدردانی کا بازار گرم تھا تہوّ وجلادت وخدمت گزینی اور کارطلبی کی پادشاہ کے دلنشین تھی باوجودیکہ وہ سپاہ کثیر کے کسی انتظام کو اچھی طرح نہین جانتا تھا اِس امید پر کہ وہ اِس سے شناسا ہوجائیگا اسکو منصب سہ ہزاری عنایت ہوا اپنے تیول محال مین دست تعدی دراز کیا اور اندازہ سے پانون باہر نکالا۔ ۹۸۱ھ پادشاہ شرقی ولایت مین گیا تو وہ پادشاہ کی خدمت مین نہ آیا۔ پادشاہ نے لوگون سے اسکا سبب پوچھا تو لوگون نے عرض کیا کہ اسکے خشک مزاج پر سودا غالب ہوا ہے اور زیردستون پر تاخت اور رعایا کو تاراج کرتا ہے۔ پادشاہ نے اسکی جاگیر ضبط کرلی۔ جب پٹنہ فتح کرکے پادشاہ معاودت کرکے آگرہ مین آیا تو اثنار راہ مین پادشاہ پاس آیا۔ پادشاہ نے اُسکو مجرے کی اجازت نہ دی اسنے دنیا کو چھوڑ کر قلندری اختیار کی۔ پادشاہ نے پھر تازہ مہربانی کی کہ اپنی ترکش مین سے ایک تیر دے کر حکم دیا کہ اپنی جاگیر مین جو خالصہ مین داخل ہوگئی تھی جاوے اور سرانجام سپاہ کا سامان کرے۔ جب اس تقریب سے پادشاہ سے رخصت ہوا تو پھر اپنا وہی شیوہ ناستودہ اختیار کیا اور اس نواح کی غارت وتاراج مین دست جرأت دراز کیا۔ بسنت پور سرکار کمایون کو غارت کرتا ہوا پہنچا۔ یہان سُنا تھا کہ بہت سے دولت اور جواہر اور سونے کی کانین ہین۔ یہان جنگ پیش آمین کرکے شکست پائی۔ ہندون کی گولی سے زخمی ہوا۔ وہان سے پھر اسکی شورش کے دفع کرنے کے واسطے صادق خان پادشاہ کی طرف سے روانہ ہوچکا تھا۔ اس سبب سے آدمی جو اُس پاس جمع ہوے تھے وہ پراگندہ ہوے ہوا خواہون نے مصلحت تبلائی کہ منعم خانخانان پاس جاکر اسکے وسیلہ سے اپنے جرائم معاف کراؤ مگر اسکو راہ مین قصبہ بارہ کے نزدیک پکڑ لیا حسب الحکم آگرہ مین آیا اپنے گھر مین اُترا آتے ہی زخم جانکاہ سے مرگیا۔ اس کا بیٹا یوسف خان عہد جہانگیری مین امرا کے جرگہ مین داخل ہوا۔

حسین خان عبدالقادر بدایونی کا مربی ومحسن تھا۔ اسنے اپنی تاریخ مین اِس طرح ستایش کی ہے کہ وہ سنی مذہب پاک اعتقاد تھا۔ ہمت مین بیعدیل وشجاعت مین یگانہ

اور خورد و بزرگ کی تواضع مین یکسان تھا جب وہ لاہور مین تھا تو حضرت ختم النبئین کی متابعت کے سبب سے رونق تھی اسنے ہزارون مساجد و مقبرہون کی از سر نو مرمت کرائی - ایکدن ایک ہندو مسلمان کی صورت بنا کے آیا اسپر اسلام کا گمان کرکے قیام کیا تحقیق حال کے بعد انفعال ہوا جس پر وہ حکم جاری کیا جسکا اوپر ذکر ہوا - پھر اُسنے حکم دیا کہ ہندو زین سو بھونڈ پالان پر بیٹھین کبھی چارپائی پر نہ سوتا نشست و برخاست مین سادات کا پاس کرتا جماعت و تہجد کی نماز کبھی اسکی باختیار فوت نہین ہوئی - باوجود لاکھون اور کروڑون کی جاگیر کے اسکے طویلہ مین ایک گھوڑا تھا کبھی وہ بھی دیدیتا تو سفر و حضر مین جب تک غلام و ملازم کوئی اپنا گھوڑا اسے نہ دیتا وہ پیادہ پا پھرتا - یہ مصرع اُسکے حال پر صادق آتا تھا مصرع

جہان مفلس غلام ناسامان بہ خزانہ جمع کرنے کی اُسنے قسم کھائی تھی روز جنگ مین وہ فاتحہ جو پڑھتا اُسکی عبارت یہ تھی - یا شہادت یا فتح - لوگ کہتے کہ فتح مقدم کیجیے - یا فتح - یا شہادت کیجیے تو وہ کہتا کہ مجھے اپنے مردہ عزیزون کے دیکھنے کا شوق بہت زیادہ ہے بہ نسبت محاذیم باقی ماندہ کے - بارہا اسنے پندرہ ہزار روپیہ سے چالیس ہزار روپیہ تک کی چٹھی سپاہ کو لکھدی - اسنے یہ نذر کی تھی کہ جو غلام اسکے ملک مین آوے وہ اول ہی دن سے آزاد ہو - جب مرا ہے تو ڈیڑھ لاکھ روپیہ کا قرضدار تھا وہ قرضخواہون کے ساتھ نیک معاملہ ایسا تھا کہ اُنھون نے خوشی سے صولی دستاویزون کو چاک کرکے قرض معاف کیا اور وارثون سے کچھ دعوی نہین کیا اور سلام و درود اسپر بھیجا - عبدالقادر لکھتا ہے کہ خلاصہ عمر کہ عنفوان جوانی ہے بخلاف سن والعمر کے کہ ہنگام رذالت پیری اور سرگردانی ہی مین بنی اسکی خدمت مین گذرانی ہے و اسی کی تقریب التفات سے مستحق نشو و نما پاتا ہون شہرۂ زمان وانگشت نمائے جہان ہوا ہون اسکے احسان و نعمتون کا شکر نہین ادا کر سکتا

(۳۵) داؤد خان پسر امیر خان مغل بیگ سنہ ۹ مین اسنے گدھ کٹنکہ کی مہم مین آصف خان کے ماتحت عمدہ خدمات کین سنہ ۱۲ مین مالوہ اسکو جاگیر ملی اور مرزاؤن سے وہ شہاب الدین احمد خان کے

ماتحت خوب لڑائیان لڑا۔ مالوہ مین اجین اسکو جاگیر ملی۔ ۹۷۳ھ مین مرزاؤن نے خاندیس پر حملہ کیا۔ قلیج خان کی مدد سے اُسنے مرزاؤن کو نربدا پار اُتار دیا۔ ۹۸۰ھ مین پٹن کی لڑائی مین الہ داد خان کی لڑائی کا تماشا دیکھتا رہا۔ کوئی کام مردانگی کا اسنے نہین کیا۔ ۹۸۲ھ مین وہ منعم خان کے ساتھ بنگال کی مہم مین گیا۔ بنگال کے جنوب مشرق مین اُسنے فتح آباد سرکار بوگلا کو فتح کیا اور اُڑیسہ مین جلیسر (جبلی سور) مین حاکم مقرر ہوا۔ ۹۸۳ھ مین منعم خان خانخانان کی وفات کے بعد وہ ٹانڈہ مین آیا اسنے بنگال کی آخر مہمات مین کوئی کارنمایان نہین کیا۔ اسکا پردہ فاش ہونے کو تھا کہ ۹۸۵ھ مین وہ اجل طبعی سے مرگیا۔ اسکے مرنے کے بعد فتح آباد کے زمینداروں نے اُسکے بیٹون کو دعوت مین بلاکر دغا سے مار ڈالا۔

(۵۵) حاجی محمد خان سیستانی۔ یہ بیرام خان کا عمدہ نوکر تھا وہ ہمیشہ اسکے ساتھ مصاحبت و مشاورت رکھتا تھا۔ ۹۶۱ھ مین جب ہمایون قندھار گیا ہے حاجی محمد خان کو یہان سے اپنے ساتھ لیگیا۔ آدمیون کو اسکی طرف سے یہ گمان تھا کہ وہ فتنہ برپا کریگا۔ ہندوستان مین آن کر بیرام خان کی سفارش سے اسکو خانی کا خطاب ملا اور مراتب اعلیٰ پر ترقی ہوئی۔ اول ہی سال جلوس اکبری مین وہ لاہور کا صوبہ دار مقرر ہوا اسنے ملا عبداللہ مخدوم الملک کو اس سبب سے شکنجہ مین کھینچا کہ پادشاہ سے وہ بد اخلاص تھا اور افغانون سے وہ سازش رکھتا تھا۔ جب بیرام خان حج کو روانہ ہوا تو ایکدن بیرام خان نے اس سے کہا مجھے کسی شخص کی مخالفت سے اسقدر کوفت نہین حاصل ہوئی کہ جسقدر تیری بیوفائی سے تو نے سارے حقوق قدیم کو فراموش کردیا۔

حاجی محمد خان نے جواب دیا کہ تو نے باوجود دعوی اخلاص و رافزونی تربیت ہمایون و مراحم و اشفاق اکبری کی بغاوت اختیار کی اور تلوار کھینچی۔ اگر مین نے تیری صحبت کو ترک کیا تو کیا بُرا کیا۔ تو بیرام خان شرمندہ ہوکر چپ ہو رہا

حاجی ہمیشہ پادشاہ کی خدمت مین رہا۔ معارک مین جان مردانہ کام کرتا رہا۔ سنہ ہزاری

منصب پایا۔ مرزاؤن کی بغاوت و بانے گیا۔ سرکار مانڈو مین جاگیر پائی۔ سنہ ۲۰ مین
منعم خان کا کمکی ہو کر بنگال گیا اور شہر گور مین و با اپیلی اسی جوش شدت قنا مین سنہ ۹۸۳ مین فنا ہوا۔
(۵۶) افضل خان خواجہ سلطان علی تربتی۔ ابتدا مین سرکار ہمایون مین مشرف خزانہ تھا۔
سنہ ۹۵۶ مین اسکی ترقی مشرف بیوتات کے عہدہ پر ہوئی۔ سنہ ۹۵۷ مین جب مرزا کامران نے
کابل پر تسلط پایا تو اسکو قید کیا اور اُس سے جبر و تعدی کر کے نقد و جنس بہت لیا جب
ہمایون نے ہندوستان کو معاودت کی تو اُسکو میر بخشی بنادیا۔ جب ہیمو نے دہلی پر حملہ
کیا ہے تو خواجہ تردی بیگ کے ساتھ تھا اور تول کا افسر تھا۔ لڑائی مین اپنی جگہ نہین
ٹھہر سکا اور اشرف خان زین محمد خان کے ساتھ بھاگ گیا۔ بیرام خان نے تردی بیگ
کو ہلاک کیا اور خواجہ اور میر منشی کو نفاق اور زر داری کے سبب سے نظر بند کیا یہ دونو
بھاگ کر حج کو چلے گئے۔ سنہ ۵ مین اکبر کا آستان بوس ہوا اور مرتبہ امارت اور منصب
سہ ہزاری پایا۔ آگے اسکا حال معلوم نہین ۔
(۵۷) شاہ بیگ خان ارغون مخاطب بہ خان دوران خان پسر ابراہیم بیگ حریک ۔
ابتدا مین وہ مرزا محمد حکیم کا نوکر تھا اور پشاور کا حاکم۔ جب مرزا مر گیا اور اُسکے رہ وزاد کے
لینے کے لیے راجہ مان سنگھ گیا ہے تو وہ مرزا کے بیٹون کو لے کر بادشاہ کی خدمت مین
آیا۔ سواد او ربجور مین یوسف زئی کی مالش مین اپنی مردانگی کے سبب سے نام پیدا کیا۔
خوشاب اسکو اقطاع مین ملا۔ ٹھٹہ کی فتح مین خان خانان کے ساتھ کار ہائے نمایان
دکھائے۔ دو ہزار پانصدی منصب پایا اور سنہ ۱۰۰۳ مین قندھار مین حاکم مقرر ہوا۔ اور
الوس کاکر کو جو اس سرزمین مین مدتون سے رہزنی اور رعیت آزاری کر رہے تھے
خوب تاخت و تاراج کیا۔ سنہ ۴۲ مین منصب سہ ہزاری و پانصدی پایا اول سنہ
جہانگیری مین حسین خان شاملو حاکم ہرات نے اکبر کی وفات کے بعد قندھار کا محاصرہ
کیا۔ شاہ بیگ خوب دل قوی اور ہمت درست سے دن کو لڑتا اور رات کو دشمنون کی

آنکھون کے سامنے بزم نشاط آراستہ کرتا - ایکدن حسین خان کا ایلچی قلعہ مین آیا - گو غلہ تمام ہو چکا تھا - مگر جسقدر باقی تھا اُسکے توڑے راستہ او ربازار مین لگوا دیے کہ دشمن کو عبرت ہو - کچھ دنون کے بعد شاہ عباس شاہ ایران کا عتاب حسین خان پر ہوا کہ کیون ہمارے حکم بغیر قندھار پر حملہ ہوا - اس لیے وہ بے نیل مقصود قندھار سے چلا گیا - سنہ ۱۶ مین حسب الحکم جہانگیر کی خدمت مین قندھار سے کابل مین آیا منصب پنجہزاری اور خاندوران خان کا خطاب پایا - کابل کا صاحب صوبہ اور افغانستان کا منتظم مقرر ہوا - مدتون تک یہان نظم ونسق کرتا رہا - کبر سن سے ایسا کم قوت ہو گیا تھا کہ سوار نہین ہو سکتا تھا - اس لیے بادشاہ نے اُسے بلا کر ٹھٹہ کا صوبہ دار کیا - سنہ ۲۰ مین پیری و سالخوردگی سے استعفا دیا بادشاہ نے پرگنہ خوشاب جو اُسکی قدیمی جاگیر تھی اُسکا حاصل چھتر ہزار روپیہ بطریق مدخرچ کے مرحمت کیا - کہتے ہین جب وہ ٹھٹہ جاتا تھا تو آصف خان سے رخصت ہونے آیا - اس نے ملا محمد ٹھٹھی کی بھائیون کی جو اُسکے مصاحب تھے سفارش کی - شاہ بیگ نے سنا تھا کہ ملا کے بھائی آصف خان کی حمایت کے سبب سے حکام کو خاطر مین نہین لاتے ہین تو اُسنے جواب مین کہا کہ اگر کم حساب ہون گے تو بہتر ہوگا - ورنہ مین انکی کھال کھچواؤن گا - اس سے آصف جاہ بہایت ناخوش ہوا اور اُسکے کامون کو ایسا برہمزدہ کیا کہ منصب و جاگیر چھوڑ کر گوشہ نشین ہوا - شاہ بیگ ایک ترک سادہ سپاہی تھا جب اکبر نے اُسکو علم و نقارہ دیا تو اُسنے کہا کہ یہ کس کام آئین گے منصب بڑھایا جاے - جاگیر دی جاے تو مین بادشاہی کام کے واسطے عمدہ سوار بہم پہنچاؤن - جہانگیر سے اسنے ایکدفعہ برسر دیوان کہا کہ حضرت آپکے باپ کے دنگل مین اتنے جوان کھڑے ہوتے تھے کہ شاہ بیگ انکے آگے پشم کی برابر تھا اور اب جو جوان کھڑے ہین وہ شاہ بیگ کی پشم کی برابر نہین -

سنہ ۲۸ مین اسنے ایک ہزار سپاہ مغلون کی ایسی آراستہ کھائی کہ جہانگیر دیکھ کر دنگ رہ گیا - وہ دائم الخمر تھا - بنگ و افیون کو کنار و شراب کہ ملا کر پیتا تھا اُسکا نام چار مغزا

رکھا تھا۔ اِس لیے چار مغز اخور اسکا نام مشہور ہو گیا تھا اسکے بیٹون مین اول شاہ محمد خان تھا جسکا خطاب غزنین خان تھا۔ صاحب کمال تھا۔ ہزاری کا منصب پایا تھا کہ مرگیا۔ دوم یعقوب بیگ داماد مرزا جعفر آصف خان کا تھا۔ ازل بر شت تھا۔ ترقی نہوئی۔ اسد بیگ منصب سہ صدی رکھتا تھا پچاس گھوڑون کا سردار تھا۔

(۵۸) خان عالم حلیمہ بیگ پسر ہمدم کوکہ۔ یہ مرزا کامران کا کوکلتاش تھا۔ ہمایون کا سفرچی تھا سنہ ۹۶۱ھ مین مرزا کامران کی آنکھون مین میل کھینچی گئی اور وہ حج کو روانہ ہوا تو یہ وفادار اُسکے ساتھ گیا۔ کامران کی وفات کے بعد وہ اکبر کی خدمت مین آیا۔ تھوڑے دنون منصب ہزاری اور خطاب خان اعظم پایا۔ حاجی پور کی فتح اور بنگال و اڑیسہ کی مہم مین کارہاے نمایان کیے اور سنہ ۹۸۰ھ مین جنگ داؤد افغان مین مارا گیا کہتے ہین کہ وہ اس جنگ سے پہلے کہتا تھا کہ اس لڑائی مین اپنی جان یدونگا۔ دوستون سے توقع ہے کہ وہ میری جانفشانی بادشاہ سے عرض کردینگے طبع موزون بھی شعر کہتا تھا اور ہمدمی تخلص کرتا تھا۔ باپ کے نام کے سبب سے یہ تخلص اسنے اختیار کیا تھا۔

(۵۹) محمد قاسم خان میر بحر۔ چمن آراے خراسان۔ خاندان تیموریہ کے قدیمی امرا مین دوست مرزا تھا۔ اسکا یہ بھانجا تھا سنہ ۹۵۴ھ مین جب مرزا کامران کا محاصرہ ہمایون نے کوہ عقابین سے کیا ہے تو قاسم حسین مع اپنے چھوٹے بھائی خواجہ محمد حسین کے قلعہ کے آہنین دروازہ مین سے نکلکر ہمایون کی خدمت مین چلا آیا پھر اکبر کے عہد مین اُسنے بتدریج منصب ہزاری پر ترقی کی اور قلعہ آگرہ کو اُسنے اپنے اہتمام سے آٹھ سال مین سات کروڑ ٹنکے یعنی ۳۵ لاکھ روپیہ مین تعمیر کرایا اور سنہ ۹۷۲ھ مین آگرہ کا حاکم ہوا۔ پھر سنہ ۹۹۵ھ مین کشمیر کی تسخیر مین کارہاے نمایان کیے۔ کشمیریون کی شرارت کے سبب سے اُسنے یہان کی حکومت سے استعفا دیا۔ سنہ ۳۴ھ مین وہ دار الملک کابل کا مرزبان مقرر ہوا اسنے شاہرخ مرزا کے جعلی بیٹے کو اپنے پاس رکھا تھا جس نے اسکی خوابگاہ مین جاکر اسے مار ڈالا۔۔۔۔۔۔ اس قاتل کو قاسم خان کے بیٹے

نے ہلاک کیا۔ یہ واقعہ ۹۶۲ھ کا ہے۔

(۶۰) باقی خان کوکہ۔ اکبر کا کوکہ اور ادہم خان کا بڑا بھائی اور ماہم انگہ کا بیٹا ہے پادشاہ نے خود اسکی شادی کرائی اور اسمین خود گیا ۳ ہزاری منصب عنایت کیا تاریخ شیخ عبدالقادر بدایونی سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۰۰۳ھ مین ولایت گڈھہ کٹنکہ مین جاگیردار تھا اور وہ یہین مر گیا۔

(۶۱) میر معزالملک موسوی مشہدی۔ وہ موسوی مشہدی سیدون مین تھا یعنی حضرت موسی رضا امام ہشتم کی اولاد مین۔ انہین سیدون کا ایک شعبہ جو ایک ورمان سے پیدا ہوا ہے رضوی کہلاتا ہے۔ وہ سہ ہزاری منصب رکھتا تھا۔ ۹۷۴ھ مین بادشاہ جونپور روانہ ہوا ہے تو معزالملک کو بہادر اور اسکندر خان سے لڑنے کے لیے بھیجا تھا ان سے لڑ نہ سکا اور بھاگا۔

بہادر کے فتح ہونے کے بعد اسکو پرگنہ آرہ جاگیر مین ملا تھا مگر یہان وہ اور اُس کا بھائی دونو باغی ہو گئے۔ اسد خان اسکو پکڑ کر کشتی مین بٹھا کے بادشاہ پاس لایا تھا کہ اٹاوہ کے قریب اسکی کشتی ڈوب گئی اور وہ مر گیا۔

(۶۲) میر علی اکبر۔ یہ چھوٹا بھائی میر معزالملک کا ہے اور عہد اکبری مین اسکو سہ ہزاری کا منصب ملا۔ وہ تقدیم خدمات مین اپنے بڑے بھائی کا شریک تھا اُسنے شہنشاہ اکبر کا مولودنامہ لکھا تھا جسکے صلہ مین ایک پرگنہ بادشاہ نے انعام دیا وہ اپنے بھائی کے ساتھ باغی ہو گیا تھا اِس لیے مقید ہوا۔

(۶۳) شریف خان پسر اتگہ خان۔ شمس الدین محمد خان اتگہ کا چھوٹا بھائی تھا سہ ہزاری منصب رکھتا تھا۔ اول پنجاب مین پھر ۹۸۳ھ مین سرکار قنوج مین جاگیر رکھتا تھا۔ بنگالہ کو تعلیم مین بڑی دولتخواہی کی۔

۲۵ سنہ مین شاہزادہ مراد کا اتالیق مقرر ہوا۔ اسی سال مین مالوہ کا حاکم مقرر ہوا۔ گجرات اور دکن مین شائستہ خدمت بجالایا۔ ۱۰۰۵ھ مین مالوہ سے بادشاہ کی خدمت مین آیا

اور اپنے وطن مالوف غزنین مین جہان وہ پیدا ہوا تھا قلعہ دار مقرر ہوا۔ شاہ بیگ اسکی جگھہ گیا پھر اس کا حال نہین معلوم۔

اُس کا بیٹا ناز بہادر گجرات مین جاگیر رکھتا تھا۔ پھر وہ مالوہ مین بدلا گیا۔ اسیر اور احمد نگر کی لڑائیون مین خدمات بجا لایا۔ سنہ ۱۰۴۶ھ مین تلنگانہ مین لڑائی مین پکڑا گیا۔ ابو الفضل نے اُسے چھڑا لیا۔

منصب داران دو ہزار و پانصدی۔

(۶۴) ابراہیم خان اوزبک یا شیبانی۔ امراے ہمایونی مین سے تھا جس سال ہندوستان فتح ہوا ہے وہ شاہ ابو المعالی کے ساتھ لاہور مین متعین ہوا کہ اگر کوہستان سے نکل کر سکندر سور ملک پر دست انداز ہو تو وہ اس کا تدارک کرے اس کلام کو اس نے احسن وجوہ سے انجام دیا پھر جون پور مین وہ خان زمان سے کمک سا [illegible] آیا۔ جب خان زمان نے اول دفعہ بغاوت کی ہے تو وہ اسکی معافی تقصیر کے لیئے ضامن ہوا دوسری دفعہ خان زمان کی بغاوت مین وہ خود شریک ہوا پھر اُس کا خان خانان کی وساطت سے قصور معاف ہوا اور وہ خان خانان کے متعینون مین مقرر ہوا۔ اسکے مرنے کی تاریخ معلوم نہین۔ طبقات اکبری مین اس کا منصب چار ہزاری لکھا ہے۔ اس کا بیٹا اسمٰعیل خان تھا کہ خان زمان نے اسکو سندیلہ جاگیر مین دیا تھا جب بادشاہ کی طرف سے سلطان حسین جلائر کو قصبہ مذکور ملا تو اُس سے وہ لڑا اور شکست پا کر بھاگ گیا۔

(۶۵) خواجہ جلال الدین محمود بجوق (بجوق کے معنی ترکی زبان مین بینی بریدہ کے ہین) جلال الدین مرزا عسکری کا نوکر تھا وہ قندھار اور گرم سیر مین تحصیل مال کے لیئے آیا تھا کہ ہمایون کا گذر ایران جانے کے لئے اس ضلع مین ہوا اُس نے اپنا تمام نقد وجنس اُسکو نذر کیا۔ ہمایون نے اُسکو میر سامان کا خطاب دیا جب ہمایون ایران سے پھر کر آیا ہی تھا اُس نے شاہزادہ اکبر

کے ساتھ غزنین بھیجا کہ وہ اس ولایت میں حکمرانی کرے۔ خواجہ پادشاہ قلی تھا وہ کسی کے ساتھ بے تقریب تواضع کے پیش نہین آتا تھا اور ہزل و مزاح سب سے کرتا تھا اس لیئے امراء مین کوئی اس کا دوست نہ تھا۔ اکبر کے عہد مین اسکو منصب دو ہزار پانصدی مل گیا اور غزنین کو رخصت ہوا۔ بیرام خان اور منعم خان کی عداوت کے سبب سے مقید ہوا آنکھون مین سلائی پھری مگر کچھ بینائی باقی تھی کہ وہان سے بھاگ کر ہندوستان کو بھاگا مگر راہ مین منعم خان نے پکڑوا کے اس کو اور اس کے چھوٹے بھائی مسعود کو مروا دیا۔ منعم خان نے ان بیگناہون کو مار کر بدنامی کا داغ اپنے اوپر لگایا۔

(۶۶) حیدر محمد خان آختہ بیگی۔ ہمایون پادشاہ کے قدیم نوکرون مین تھا ایران اُسکے ساتھ گیا تھا بلخ مین جب گھوڑا اس کا مارا گیا تو اُسنے اپنا گھوڑا دیدیا تھا جب مرزا کامران نے ہمایون کے لشکر پر شب خون مارا ہی تو حیدر نے زخمی ہوکر بھی اپنی جگہہ کو نہ چھوڑا۔ قندھار اور ہندوستان مین پادشاہ کے ساتھ رہا۔ بیانہ اس کو جاگیر مین ملا یہان غازی خان بدر سلطان ابراہیم فرمانروا تھا اسنے اس کو دغا سے مار ڈالا پادشاہ اسپر خفا ہوا۔ ہیمو بقال کی لڑائی مین شکست پائی۔ پھر کسی تقریب سے کابل گیا۔ گجرات کی مہم مین شریک ہوا اور دو ہزار پانصدی کا منصب پایا جنت آباد گور مین وبا کے زمانہ مین سنہ ۹۸۳ھ مین وہ اور اس کا بھائی دونون مرگئے

(۶۷) اعتماد خان گجراتی۔ سلطان محمود والی گجرات کا ایک ہندی غلام تھا۔ سلطان کو اسپر ایسا اعتماد تھا کہ اس نے اپنی حرم کا محرم بنایا اس نے احتیاط کا فور کھا کر قطعہ رجولیت کیا اس سبب سے کہ عقل معاش و متانت و وضع و صلاح ظاہری کی صفات رکھتا تھا وہ گجرات کے امراء کبار مین تھا اور جب اکبر نے گجرات کو فتح کرلیا تو اس کا دولتخواہ بنا پادشاہ نے اس کو منصب دو ہزار پانصدی دیا۔ طبقات اکبری مین لکھا ہے کہ چار ہزاری منصب دیا۔ سنہ ۹۹۵ھ مین اس دنیا سے رخصت ہوا

(۶۸) پاینده خان مغل۔ برادر زادہ حاجی محمد خان کوکی۔ حاجی محمد خان اور اس کے بھائی شاہ محمد کو ہمایون نے قتل کیا تھا۔ حاجی جرأت مین مفرد تھا۔ ہمایون پادشاہ نے بار بار یہ کہا کہ پادشاہون

کے ایسے خدمتگار ہونے چاہیئن سنہ اکبری مین وہ شہنشاہ کی خدمت مین منعم خان کے ساتھ آیا مالوہ کی فتح مین شریک ہوا سنہ ۱۹ مین بنگالے بھیجا گیا سنہ ۲۲ مین رانا کی تنبیھہ کے لیئے روانہ ہوا۔ پھر مظفر گجراتی کی لڑائی لڑا سنہ ۲۸ مین گھوڑا گھاٹ جاگیر مین ملا سنہ ۱۰۰۱ مین پیرانہ سالی کی وجہ سے اسکی پنشن ہوگئی تھی سنہ ۱۰۰۴ مین وہ مرگیا۔

(۶۹) جگنناتھ پسر راجہ بہاری مل۔ وہ شرف الدین حسین (۱۷) کے ہاتھ مین بطور اول کے تھا۔ کچھ مدت کے بعد اسنے رہائی پائی اور بعد ازان اسپر پادشاہ کے الطاف ہوئے۔ وہ اکثر مان سنگھ کے ساتھ مہمات مین شریک رہا۔ سنہ ۲۱ مین جب رانا پرتاب سنگھ نے پادشاہی سپاہ کا مقابلہ کیا ہے تو اس نے رام داس پسر جے مل کو کہ مخالفون مین نامور تھا اپنے ہاتھ کی ضرب سے مارا تھا سنہ ۲۳ مین پنجاب مین نیول پائی سنہ ۲۵ مین پنجاب مین مرزا حکیم کے حملہ روکنے کے لیئے ہراول مقرر ہوا سنہ ۲۹ مین رانا سے وہ لڑا۔ پھر مرزا یوسف خان کے ساتھ کشمیر گیا سنہ ۳۴ مین، پادشاہ کی خدمت مین آنکر سلطان مراد کے ساتھ کابل کیطرف گیا۔ سنہ ۳۶ مین شاہزادہ کے ساتھ مالوہ گیا پھر اُسی کے ساتھ دکن کی مہمات مین شریک رہا سنہ ۴۳ مین وہ شاہزادے کی اجازت بغیر پادشاہ کی خدمت مین چلا آیا اس لیئے کچھ دنون عتاب شاہی مین رہا جب پادشاہ نے دکن سے مراجعت کی ہے تو زنتنبھور مین وہ پادشاہ سے ملا اپنی جاگیر پر بحال ہوا اور دکن بھیجا گیا۔

سال اول جلوس جہانگیری مین پادشاہزادہ سلطان پرویز کے ہمراہ مہم رانا مین متعین ہوا اور جب پادشاہ نے خسرو کے ہنگامہ کے سبب سے پرویز کو بلالیا تو وہی کل سپاہ کا سپہ سالار تھا اسی سال مین ضلع ناگور مین دلپت ہنگامہ پرداز ہوا تو وہ اسکے دفع کرنے کے لیئے مامور ہوا سکہ جہانگیر مین اس کو پنجہزاری کا منصب اور تین ہزار سوار ملے اور اسکے بیٹے رام چند کو دو ہزاری منصب اور پندرہ سو سوار ملے اور صوبہ دکن کو بھیجا گیا۔

رام چند رکا بیٹا راجہ من روپ تھا جب شاہزادہ شاہ جہان نے بغاوت کی ہے تو وہ اسکے

ساتھ رہا اسکی تخت نشینی پر منصب دو ہزاری اور دو ہزار سوار اور علم و اسپ بازین نقرہ و فیل اور پانچہزار روپیہ انعام ملا ۳۔ میں راجہ جگ سنگہ کے ساتھ نعلقہ نظام الملک کی تخریب کے لیے متعین ہوا اور اسی سال ... عدم کا رستہ لیا۔ گوپال سنگہ بیٹا چھوڑا۔

(۱۰) مخصوص خان سعید خان کا چھوٹا بھائی ہے ملتان میں اپنے بھائی کے ساتھ ۱۳ میں مہم گجرات میں شہباز خان کے ماتحت کام کرتا رہا شاہزادہ مراد کے ساتھ کابل گیا وہاں اکبر جب گیا تو اسکی خدمت بھی کرتا رہا اس کے بھائی کا قصور بادشاہ نے معاف کیا شاہزادہ سلیم کی بھی خدمات کرتا رہا۔ جہانگیر کی ابتدا سلطنت میں زندہ تھا۔ تاریخ وفات معلوم نہیں اس کا بیٹا مقصود باپ سے برگشتہ تھا اس لیئے بادشاہ نے اسکو منصب نہیں دیا۔

(۱۱) شیخ ابوالفضل۔ شیخ نے جو اپنا حال آئین اکبری میں لکھا ہے ہم اس سے خلاصہ کے طور پر لکھتے ہیں پھر ماثر الامرا اور تاریخ عبدالقادر بدایونی میں اور اور مورخوں نے جو اسکی نسبت لکھا ہے اسے بیان کرینگے۔ وہ لکھتا ہے

تہی دستی کے سبب سے نسب سرا ہونا باپ دادا کی ہڈیوں کی تجارت کرنی ہے اور اپنی نادانی کا ظاہر کرنا ہے اور شوریدہ مغزی سے اوروں کے ہنر پر نازش کرنی اور اپنے عیبوں کا نہ دیکھنا ہے۔ میں اس باب میں کچھ لکھنا نہیں چاہتا تھا اس دنیا میں سلسلہ خاندان کا پابند مقصد پر نہیں پہنچتی اور آبیاری انتساب صوری نزہتگاہ معنوی میں کام نہیں کرتی۔

ابیات

چو نا اہلان نہ دربند پدر باش	پدر بگذار و فرزند ہنر باش
چو دود از روشنی نبود نشان مند	چہ حاصل زانکہ آتش راست فرزند

زمانہ کے محاورہ میں نسب کو تخمہ۔ نژاد۔ ذات اور اسی طرح کے الفاظ سے تعبیر

کرتے ہین اور اسکو عالی و سافل سے پابند کرتے ہین۔ ہشیار دانا جانتا ہے کہ عالی خاندان ہونے
کے معنے یہ ہین کہ اُسکے اباے معانی مین کوئی ظاہری ثروت مین یا شناسائی حقیقت مین غالب
ہوگا۔ نام مین لقب مین حرفہ مین مسکن مین شہرت پائی ہوگی۔ وگرنہ عالم جو انسان کو آدم صفی
کی اولاد سمجھتے ہین اور نہ داستان گذارون کی گفت وگو کے سبب سے کوئی اوراحتمال اُنکے ذہن
نہاد نہین ہے توخوب جانتا ہے کہ اس معاملہ مین وہ دوری راہ کے سبب سے بھاگ جاتے ہین
اور اس گوہر گرامی کا اعتبار نہین کرتے پس بیدار دل کب اس افسانہ سے خواب مین آتا ہے۔
اور اسپر بھروسہ کرکے حقیقت پژوہی سے ہاتھ کو اُٹھاتا ہے۔ پسر نوح کو ایزد شناسی پدر سے
کیا فائدہ اور ابراہیم خلیل اللہ کو بت پرستی سے کیا زیان۔

بندۂ عشق شدی ترک نسب کن جامی　　　　که درین راه فلان بن فلان چیزی نیست

لیکن سر نوشت آسمانی سے صورت پرست رسمیون سے کام پڑا اور اس طائفہ سے آمیزش ہوئی۔
جو نسب کو حسب پر ترجیح دیتا ہے اس لیئے کچھہ نسب کا حال بیان کرکے ان لوگون کے آگے اپنا
مائدہ بچھاتا ہون۔

آبائے کرام کی داستان دراز ہے انہین کیون وقت اپنا ضائع کرون ان مین بعض لباس
ولایت مین ایک گروہ علوم رسمی مین ایک طائفہ عمارت کے جامہ مین ایک جماعت معاملہ
گذاری مین اور ایک طبقہ تجرد و تنہائی مین بسر کرتا تھا۔ مدت سے ان بزرگون کی وطن گاہ
زمین یمن تھی شیخ موسے جنہین جد کوا بتدائے حال مین خلق سے وحشت ہوگئی گھر بار چھوڑ
چھاڑ مسافرت اختیار کی علم وعمل کے ساتھہ جہان کی سیر کی نوین صدی مین ریل مین کہ سیوستان دسند
مین ایک نزہتگاہی عزلت قبول کی خدا کیش حقیقت پژوہون کی صحبت دوستی مین رہا اگرچہ صحرا سے مدینہ مین
آیا مگر تجرد سے تعلق مین نہین دوڑا وہ اپنے نفس بوقلمون کے آراستہ کرنے مین مصروف رہا۔
اسکے بیٹے پوتے اسی کی آئین پر چلتے رہے اور تحصیل علم میں نہ مصروف رہے۔
دسوین صدی کے شروع مین شیخ خضر کے دل مین یہ آرزو آئی کہ بعض اولیاء ہند کی

زیارت کرے اور دیار حجاز مین جائے اور اپنی قوم کو جا کر دیکھے وہ اپنے چند خویشون اور دوستون
کے ساتھ ہند مین آیا اور شہر ناگور مین پہنچا ۔ یحیلے بخاری اچی مخدوم جہانیان کا جانشین تھا
اور ولایت معنوی سے بہرہ رکھتا تھا و شیخ عبد الرزاق قادری بغدادی کہ سید عبد القادر جیلی
کی اولاد مین تھا اور شیخ یوسف سندی جس نے صورت و معنے کی سیر کی تھی اور بہت سے
کمالات حقیقی جمع کیئے تھے اور خلق کی رہنمائی اور ارشاد مین بسر کرتا تھا و خلفت اُسکی رہ
آورد سے ذخیرے لیتی تھی ان کار آگاہ بزرگون کی گرم خوئی اور دلجوئی کے سبب سے شیخ خضر نے
یہان نو وطن اختیار کیا ۔

شیخ خضر کا بڑا بیٹا ۹۱۱ھ مین شیخ مبارک پیدا ہوا ۔ چار سال کی عمر مین آگہی کے آثار نمایان تھے ۔
نو سال کی عمر مین سرمایہ سترگ اس نے حاصل کیا چودہ سال کی عمر مین علوم متداولہ حاصل
کر لیئے ۔ ہر علم مین اس کو متن یاد تھے ۔ شیخ عطن کی خدمت مین وہ زیادہ رہتا تھا اور اپنے
باطن کی پیاس کو اُس سے بجھاتا تھا ۔ شیخ ترک نژاد تھا ایک سو بیس برس کی عمر مین مرا
سکندر لودی کی سلطنت مین یہان وطن بنایا اور شیخ سالار ناگوری کی خدمت مین علم کا پایہ
والا پایا ۔ شیخ نے توران اور ایران مین دانش کو حاصل کیا تھا القصہ شیخ خضر سندہ مین اس ارادہ
سے گیا کہ وہان سے کچھ اپنے اقربا کو اس دیار مین لے آئے مگر اس سفر مین ہی سفر آخرت پیش آیا
ناگور کی حدود مین بڑا قحط پڑا و بائے عام پھیلی اور مادر و والدہ کے سوائے سب مر گئے ۔

شیخ مبارک (پدر ابو الفضل) کا ارادہ ہمیشہ جہان گردی کا اور ہر زمین کے بزرگون کے دیکھنے کا
اور فیض ایزدی کی دریوزہ گری کا دل مین جوش کرتا تھا لیکن کدبانوئے خاندان اجازت نہ دیتی
تھی اور خاطر سعادتمند مین سرکشی نہ تھی اس کشاکش باطنی مین وہ شیخ فیاضی بخاری سے
ملا تو اور دل مین شورش بڑھی پھر خواجہ احرار سے چار مہینے تک سعادت حاصل کی اور
دل کو طرح طرح کے حقائق سے پُر کیا ۔

اسی اثنا مین مادر و والدہ کا انتقال ہوا ۔ وہی پدر بزرگوار کی تربیت کرتی تھی مالدیو کا

حادثہ برپا ہوا۔ پدر بزرگوار نے مجردانہ دریائے شور کی طرف کوچ کیا۔ قصد یہ تھا کہ اس راہ سے معمورۂ عالم کی سیر کیجیے اور طرح طرح کے آدمیون سے فیض حاصل کیجیے۔ احمد آباد گجرات مین بڑے بڑے عالمون سے ملاقات ہوئی اور ہر فن بزرگ مین اُن سے سند عالی حاصل کی ابن مالک۔ شافعی۔ ابوحنیفہ حنبل اماميه مین اصولاً و فروعاً طرح طرح کا علم حاصل کیا اور سخت تکاپو کر کے اجتہاد کا درجہ حاصل کیا اگرچہ باپ دادا کا طریقہ ابوحنیفہ کی روش پر تھا لیکن شیخ مبارک تقلید سے کنارہ کر کے دلیل کی بندگی کرتا اور علم ظاہر نے حقائق معنوی پر عبور کرتا اور نزہتگاہ صورت سے ملک حقیقت کا رہنما ہوتا۔ تصوف و اشراق کے اسالیب کو پڑھا اور بہت سی کتابین خاصکر شیخ ابن عربی و شیخ ابن فارض و شیخ صدرالدین قونیوی کا مطالعہ کیا سب سے بڑی نعمت اسکو یہ ملی کہ خطیب ابوالفضل گازرونی کی خدمت سے مشرف ہوا اس نے قدردانی اور آدم شناسی کے سبب سے اس کو فرزند بنایا اسی شہر مین پدر بزرگوار شیخ عمر ٹھٹوی کہ اکابر اولیاء زمانہ مین تھا اور شیخ یوسف سے کہ ہوشیاران سرمست و ربودگان آگاہ دل مین تھا ہمنشین ہوا اسی بزرگ نے شیخ کو سمجھایا کہ سفر دریا کا دروازہ بند ہے دارالخلافہ آگرہ کی طرف جانا چاہیئے وہان اگر کارکشائی نہو تو توران و ایران جانا چاہیئے حضرت کے اشارہ سے وہ ۶ محرم ۹۵۰ھ کو آگرہ مین آیا یہان شیخ علاءالدین مجذوب سے اتفاق صحبت ہوا اُس نے اپنی مستی سے ہوشیاری مین آنکر کہا کہ فرمان ایزدی ایسا ہو کہ اس شہر مین توقف کر گردش کو ترک کر۔ اور بہت سی خوشخبریان سنائین اور خاطر جو سفر پر آمادہ تھی اُس کو آرام دیا۔ دریائے جمن کے کنارہ پر میر رفیع الدین صفوی کے جوار مین وہ فروکش ہوا اور اُسی گھرانے مین اس نے اپنا نکاح کیا

جب ۹۵۴ھ میں میر کا انتقال ہوا تو والد بزرگوار نے اپنا گوشۂ عافیت اختیار کیا باطن کی شستشو میں اور ظاہر کی پاکیزگی میں ہمت صرف کی گوناگون علوم کے درس مین مشغول ہوا کسی سے کچھ نہین مانگتا جو کوئی اہل ارادت برسم اخلاص کچھ لاتا تو بقدر ضرورت اس مین سے لے لیتا۔ اور آدمیون سے لینے مین عذر کر دیتا۔ تھوڑے دنون مین اسکی نشستگاہ دانشورونکی پناہ

اور بزرگ وکوچک کی بازگشت ہوگئی لوگون نے حسد سے انجمنین اور دوستی سے خلوتین آراستہ کین اسکو نہ اول سے کچھ اندوہ ہوتا نہ دوسرے سے خوشی - شیرخان وسلیم خان (شیرشاہ و سلیم شاہ) اور بزرگون نے چاہا کہ وجوہ سلطانی سے کوئی تیول مناسب مقرر ہو مگر اس ہمت بلند نے انکار کیا اور اس سے اپنی منزلت کو افزائش دی -

شیخ مبارک کی نہاد مین رہنمائی سرشت ہوئی تھی اپنی مجلس کے آنے والون کو اور آگہی ڈھونڈنے والون کو وہ ہدایت کرتا اور بدخویون کی سرزنش کرتا - ظاہر پرست خویشتن دوست اس سے رنجیدہ ہوتے اور ناسزا اندیشے کرتے اپنی ہنگامہ آرائی اور معرکہ گیری اور دکانداری اسکے دل کے پاس بھی نہین آنی تھین اس لئے نہ وہ حق سرائی مین نہ بدکارون کی نکوہش مین تخفیف کرتا اور پرخاش جویون کی چارہ سگالی پر توجہ کرتا یہی سبب تھا کہ خدا نے اُس کو سعادتگزین فرزند عنایت کیئے اگرچہ وہ اپنی اوقات کو علمی گفتگو مین صرف کرتا افغانون کے زمانہ مین حقیقتی دانشمند یہان کم تھے - مگر جب ہمایون پادشاہ ہندوستان مین آیا تو چند ایرانی و تورانی دانشمندون نے آنکر یہان انجمن دانائی کو رونق دیدی جب شہنشاہ اکبر تخت پر بیٹھا تو اول ہی سال چہ بسے مین بڑا قحط پڑا اور نقد آدمیون مین ہوا اور آبادی کی ویرانی سے کچھ گھرہی باقی رہے اور پھر وبا کی عالم سے اور خلقت کا کام تمام کیا - اکثر بلاد ہندوستان مین تنگدستی اور جانگزائی نے پانو پھیلائے مگر شیخ مبارک نے اپنے گوشہ عزلت کو نہ چھوڑا - جب ابوالفضل پانچوین سال مین تھا اس عمر مین اُسکی وہ لیاقت تھی جسکا یقین کسی کو نہین آئیگا تنگی روزگار نے خاندانون کو پراگندہ کیا اور ہزارون کو مارڈالا مگر شیخ مبارک کے گھر مین سب عورت مرد چھوٹے بڑے بہتر آدمی رہتے تھے انکی فراخ حالی ونشاط دلبستگی کو دیکھکر لوگ متحیر ہوتے تھے اور شیخ پر کیمیاگر و سحر خوان ہونیکا گمان کرتے تھے کبھی ایک سیر غلہ بہم پہونچتا وہ مٹی کی ہنڈیون مین جوش ہوتا اس کا آب تفسیدہ ان سب آدمیون مین تقسیم ہوتا اگرچہ بھی روزی کا غم اس گھر مین قدم نہ رکھتا اور سوای خدا کی عبادت کے کوئی اور خیال دلون مین نہ آتا تھا اور شادمانی ہوتی اب شیخ مبارک

پر یہ افترا باندھا کہ وہ فرقہ مہدویہ مین ہے اور اس باب مین بہت پریشان داستانین گھڑی گئین
ہند مین ایک گروہ ہے کہ میر سید محمد جونپوری کو مہدی موعود سمجھتے ہین اور اس مین مبالغہ کرتے
ہین سلیم شاہ کے عہد مین شیخ علائی ایک جوان جس کا ظاہر و باطن آراستہ تھا وہ اس ورطہ
مین پڑا۔ وہ شیخ مبارک سے ملنے آیا۔ فتنہ اندوز بہانہ جونے ہرزہ سرائی شروع کی۔
زمانہ کے علمار کہ نادان دانش فروش اور زہر گیاہ نوش نما ہین شیخ علائی کے مارنے پر مستعد
ہوئے اور فتوی درست کیے شیخ مبارک نے ان کے ساتھ موافقت نہین کی اور عقل ونقل کو
انکی معاضدت مین نہ پایا۔ ہندوستان کے پادشاہ کے روبرو یہ معرکہ پیش ہوا۔ پادشاہ نے زمانہ
کے علمار کو جمع کیا اور حکم شرعی کا استفسار کیا۔ شیخ مبارک کو بھی انہین بلایا۔ اس نے سب کے برخلاف
ارشاد کیا۔ اس ظن سے لوگون نے شیخ کو مہدویہ ہونے سے متہم کیا۔ پھر اس سبب سے اس پر شیعہ ہونے
کی تہمت لگائی کہ ایک شخص سادات عراق سے آیا تھا وہ زمانہ یگانہ تھا۔ علم کو عمل کے ساتھ متفرون
رکھتا تھا اور گفتگو کو کردار کے ساتھ یکتائی دیتا تھا علمار نے ایک دن اکبر سے کہا کہ میر کا
پیش نماز ہونا روا نہین ہے جب اسکی گواہی مردود ہے تو اس کا اقتدا کیسے سزاوار ہوسکتا ہے
حنفی کتابون کی چند روائتین استشہاد کے لئے پیش کین کہ عراق کے اشراف کی شہادتین
نہین سننی چاہیئن مرزا پر بری بنی مگر شیخ مبارک سے اسکی اخوت تھی اُس نے خوب ان
روایتون کو رد کیا اور ثابت کیا کہ اس عراق سے عجم مراد نہین ہے بلکہ عراق عرب مراد ہے۔
اس وجہ سے شیخ پر شیعہ ہونے کی تہمت تھوپی یہ نہین سمجھے کہ شناسائی اور چیز ہے اور
پذیرائی اور ہے۔

۹۷۴؁ھ مین شیخ مبارک گوشۂ انزوا سے باہر آیا اور عجیب مصیبتون مین مبتلا ہوا جنمین سے
نیچے کچھ لکھی جاتی ہین۔ اگرچہ ہمیشہ حسد کے زنبور خانہ مین شورش تھی اور مار سوراخ حقد جوش
مین تھا اور دوستی کا شب چراغ بیفروغ اور زمانہ کے نیکون کا دل بدی سے بستہ اور بیگانگی
کا دروازہ کشادہ تھا لیکن اسوقت مین کہ شیخ مبارک کے پایہ دانش کی بلندی نے بلندی

نے بلندی پائی اور بزرگان زمانہ اس کے شاگرد ہوئے اور اس کے پاس آدمیون کا ہنگامہ
گرم ہوا اور اس نے اپنی آئین کے موافق دوستون اور نیک خواہون کو بُری عادتون اور
خویون سے باز رکھا تو علما زمانہ و مشائخ روزگار کہ وہ شیخ مبارک کو اپنے عیبون کا آئینہ جانتے
تھے اس کے آزار کے درپے ہوئے۔ ان کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر پادشاہ تک اسکی رسائی
ہو گئی تو ہماری قلعی کھل جائیگی اور کچھ آبرو باقی نہین رہیگی غرض اُنھون نے آپسمین صلاح و
مشورہ کر کے ایک شخص کو جسکو شیخ مبارک نیک جانتا تھا سکھا پڑھا آدھی رات کو بھیجا وہ اس اندھیری
رات مین کانپتا لرزتا بسورتا روتا ہوا شیخ فیضی پاس آیا اور اُس نے اُس سے کہا کہ لوگون نے ہجوم
کر رکھا ہے اور بہت سے مدعی پیدا کر رکھے ہین شیخ پر بہت سے بہتان باندھے ہین۔ یہ لوگ
صاحب اقتدار ہین۔ مین یہ حال دیکھ کر آدھی رات کو آیا ہون ایسا نہو کہ دن ہو جائے اور پھر
علاج نہ ہو سکے بہتر یہی ہے کہ کچھ دنون کے لیئے شیخ کو بغیر اس کے کہ کسی کو خبر ہو ایک گوشہ
مین لے جائے اور جب تک کہ دوست جمع ہون اس کو کنارہ کرنا چاہیئے۔ فیضی بیتاب ہو کر
باپ پاس گیا اس نے متوکلانہ صوفیانہ باتین بنائین۔ فیضی کی عقل و ہوش بجا نہ تھے اس نے
کہا کہ معاملہ کی بات اور ہوتی ہے اور داستان تصوف اور ہے اگر اس وقت آپ نہین
جاتے ہین تو مین اپنے تئین مارتا ہون کہ روز ناکامی کو نہ دیکھون جب بیٹے نے یہ سُنائی
تو باپ نے اس کا کہنا مانا ابو الفضل کو بیدار کیا پھر اندھیری رات مین باپ اور دونون بیٹے
گھر سے پیادہ نکلے نہ کوئی رہبر معین تھا نہ رفتار کے لئے پاؤن استوار تھے۔ شیخ صاحب نیرنگی
تقدیر کا تماشا دیکھ رہے تھے بیٹے دونون آپس مین تقریر کرتے تھے جو ایک کہتا تھا دوسرا اس کو
رد کرتا تھا ابو الفضل کہتا تھا کہ گھر چلو باپ اس کے ساتھ اتفاق رائے کرتا تھا مگر فیضی کسی طرح
نہین مانتا تھا آخر کو جب دن ہوا تو شیخ کے دشمنون نے پادشاہ کے سپاہیون کو اُس کے گھر
بھیجا کہ اُس کو لے آئین جب یہ سپاہی گھر آئے اور شیخ کو نہ پایا تو شیخ ابو البرکات کو پکڑ کر
لے گئے اور شیخ کے بھاگنے کی داستان بنا بنا کے پادشاہ سے کہدی پادشاہ نے اس چھوٹے

لڑکے کو چھوڑ دیا اور گھر پر سے سپاہیون کو بُلا لیا اور کہدیا کہ شیخ کہین سیر و تماشے کو گیا ہوگا
ان دشمنون نے شیخ کو گھر سے تو نکالا ہی تھا اب اُس کے درپے ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح
سے اُس کو پادشاہ کے روبرو پکڑ کر بلانا چاہیئے پادشاہ کی طرف سے جھوٹی موٹی باتین شیخ
کی نسبت مشہور کردین۔
شیخ اور اُس کے دونون بیٹے مارے مارے پھرے کوئی اُن کو گھر مین جگہہ نہ دیتا تھا غرض
بہت دنون تک مصیبت اُٹھا کر آگرہ مین گئے وہان پادشاہ پاس کچھ ایسے دوست ان کے
جمع ہوگئے تھے کہ شیخ پادشاہ کی خدمت مین گیا اور وہان اسکی تعظیم و تکریم کی گئی اور اس کے
دشمنون کو ذلت ہوئی۔ جب پادشاہ دارالسلطنت مین لاہور مین آیا تو اس نے سنہ ۹۹۵ھ مین
شیخ کو یاد فرمایا وہ پادشاہ پاس گیا جب شیخ وہان سے واپس آیا تو اس دنیا سے رخصت ہوا
عبدالقادر بدایونی لکھتا ہے کہ اس مخالفت اور درشتی کا سبب یہ تھا کہ جب اہل بدعت گرفتار
ہوتے تھے تو اس سے پہلے میر حبشی اور اسکے سوا شیخ عبدالنبی و مخدوم الملک اور سائر علما نے
متفق اللفظ والمعنی ہو کر پادشاہ سے عرض کیا کہ شیخ مبارک مہدی اہل بدعت سے ضال و
مضل ہے یعنی خود گمراہ اور اورون کا گمراہ کرنے والا ہے۔ پادشاہ سے ایک طرح کی اجازت
لیکر اسکے دفع رفع کے درپے ہوئے محتسبون کو شیخ کی حاضری کے لیے بھیجا۔ شیخ اپنے بیٹون
سمیت روپوش ہوگیا تھا ان محتسبون نے اُسکی مسجد کا منبر توڑ ڈالا۔ شیخ نے شیخ سلیم چشتی
فتحپوری سے کہ جن کا جاہ و جلال اوج پر تھا التجا کی کہ وہ پادشاہ سے اسکی شفاعت کے لیئے
التماس کرین۔ شیخ نے بعض خلفا کے ہاتھ کچھ خرچ اس پاس بھجوا دیا اور یہ پیغام دیا کہ تمھاری
لئے بڑی مصلحت یہی ہے کہ گجرات چلے جاؤ۔ جب شیخ یون ناامید ہوا تو مرزا عزیز کوکہ کا متوسل
ہوا۔ اُس نے شیخ مبارک کی ملائی اور درویشی کا اور اسکی اولاد کی فضیلت کا حال پادشاہ
سے عرض کیا اور کہا کہ وہ مرد متوکل ہے کچھ زمین بھی پادشاہی اُسنے نہین لی یہ فقیر کیون
رنجیدہ کیا جاتا ہے۔ پادشاہ اُسکی ایذا سے دست بردار ہوا۔ تھوڑے دنون بعد زمانہ اُس کا

موافق آگیا۔

بدایونی اس کا اور حال یہ لکھتا ہے کہ وہ روزگار کے علمار کبار مین سے تھا۔ اصلاح و تقوی و توکل مین ابنائے زمان و خلائق دوران سے ممتاز تھا۔ ابتدائے حال مین ریاضت و مجاہدہ بہت کرتا تھا۔ امر معروف و نہی منکر مین اس طرح بجد تھا کہ اگر اسکی مجلس وعظ مین سونے کی انگوٹھی یا حریر یا سرخ زرد پاجامہ کوئی پہنکر آتا تو خود کھڑ کتا کہ اُس کو اُتار دو اور کوئی ازار ٹخنو سے نیچے پہنے ہوے ہوتا تو فوراً اُس کے پاجامہ کترنے کا حکم دیتا۔ اگر نغمہ کی آواز گلی مین سنتا تو بھاگ جاتا مگر آخر مین وہ نغمہ مین مشغوف ہوا کہ ایک دم بے استماع صوت وراگ وسرود وسلانے کے آرام نہ لیتا۔ غرض اطوار مختلف اور اوضاع متلون کا مسالک تھا۔ کچھ مدت تک افغانون کے عہد مین شیخ علائی کی صحبت مین رہا۔ اوائل عہد اکبری مین جماعت نقشبندیہ کو استیلا ہوا تو اُس نے اپنی نسبت سلسلہ کے ساتھ درست کی کچھ دنون مشائخ ہمدانیہ مین داخل رہا۔ جب دربار کو عراقیون نے گھیرا تو ان کے رنگ مین ہوگیا تکلموا الناس علی عقولھم اسس کا شیوہ تھا۔ بہر حال وہ علوم دینیہ کے درس مین اشتمال رکھتا تھا۔ علم شعر و فنون و سائر فضائل خصوصاً علم تصوف کو خوب جانتا تھا وہ اور علماء ہند کی طرح نہ تھا شاطبی (علم تجوید مین یعنی قرآن کی قرائت مین ایک کتاب ہی) حفظ تھی حفظ اس کو پڑھاتا تھا۔ قرآن مجید کو دسون قرأتون مین پڑہ سکتا تھا۔ پادشاہون کے دروازہ پر کبھی نہین جاتا تھا بہت خوش صحبت تھا آخر عمر مین ضعف بصر ہوا۔ مطالعہ سے باز رہا گوشہ نشین ہوا۔ اس نے تفسیر کبیر کی مانند ایک تفسیر لکھی جسکی چار جلدین ضخیم ہین۔ منبع نفائس العیون۔ اس کا نام ہے۔ جب اس نے تفسیر تمام کی تو وہ قصیدہ قرصی تائیہ کو جسکی سات سو بیتین ہین اور قصیدہ نعت بن زہیر اور اور قصائد کو حفظ ورد کے طور پر پڑھتا تھا۔ ۱۷ ذیقعدہ سنہ کو اس جہان سے رخصت ہوا۔ اس جامعیت کے ساتھ کوئی ملا نظر نہین آیا۔ مگر افسوس ہے حب دنیا و جاہ کی شومی سے لباس فقر مین کوئی جگہ آشتی دین اسلام کی نہین چھوڑی۔ جامع اوراق یعنی عبد القادر نے عنفوان شباب مین آگرہ مین چند

سال اسکی ملازمت مین رہ کر اُس سے سبق پڑھا ہے اُس کا بڑا احمق مجھپر ہے لیکن بعض امور دنیادی اور دینی اور مال وجاہ کی حرص وزمانہ سازی ومکروفریب اور تغیر مذہب وملت مین غلو اس سے ایسے ظہور مین آئے کہ کوئی حق اس کا مجھپر باقی نہین رہا۔

یہ حال تو ابوالفضل کے بزرگون کا تھا اب وہ اپنا حال لکھتا ہے کہ ۶ محرم ۹۵۸ھ کو مین پیدا ہوا ایک سال سے کچھ عمر بڑھی تھی کہ مین پیاری پیاری باتین کرنے لگا پانچ سال مین غیر متعارف آگاہی ہوئی اور سواد حاصل ہوا۔ ساتوین سال مین باپ کے خزانون کا گنجور اور اسکے جواہر معانی کا پاسدار اور اُس کے گنج کا مار بنا تعجب یہ ہے کہ مین ہمیشہ علوم مکتسبی سے اور رسوم زمانی سے بھاگتا تھا۔ اکثر اوقات مین کتاب کا مطلب نہین سمجھتا تھا۔ باپ اپنے طور پر ہر فن مین ایک مختصر کتاب تالیف کرکے سکھاتا اور اس سے میرا علم بڑھتا لیکن کوئی علم کی بات دلنشین نہین ہوتی۔ بعض باتین مطلقاً سمجھ مین نہین آتین بعض وقت اشتباہ مجھے آگے نہ چلنے دیتے زبان میری یاوری نہ کرتی کہ مین ان کو کہتا اور حجاب الکنی لاتا یا سخن گذاری کی تسومندی نہ رکھتا۔ اس مجلس مین روتا اور اپنے پر نفرین کرتا۔ اس اثنا مین ایک مظاہر کوتی سے علاقہ خاطر پیدا ہوا وہ مجھ مدرسہ مین لے گیا۔ دس سال یہان گذارے تحصیل علم مین رات دن مصروف رہا۔ علم کے شغل مین ایسا مصروف ہوتا کہ دو دو تین تین روز نہین کھاتا تو لوگون کو تعجب ہوتا مین نے ان سے کہا کہ الفت وعادت سے استبعاد اُٹھ جاتا ہے۔ بیمار کی طبیعت مرض کے معارضہ مین ایسی پڑتی ہے کہ کھانے سے ہاتھ کھینچتی ہے تو کسی کو تعجب نہین ہوتا اگر توجہ معنوی سے فراموشی ہو تو کیا تعجب ہے۔ کتب متداولہ پڑھنے اور سُننے سے ازبر ہوگئین۔ کتابون کے پُرانے ورقون سے مطالب دل کے صفحہ پر نئے ہوگئے۔ مین متقدمین پر اعتراض کیا کرتا تو لوگ مجھے لڑکا سمجھ کر کچھ اسپر خیال نہین کرتے تھے جس سے میرا دل جلتا تھا۔

ایک دفعہ حاشیہ خواجہ ابوالقاسم کا مطول میرے پاس لائے یہ مین ملا اور میر پر اعتراض کرتا تھا بعض دوست اس کا مسودہ کرتے جاتے تھے وہ بالکل اس حاشیہ مین نکلے میری

تدریس کا آغاز ہی تھا۔ حاشیہ سفا ہائی میری نظر سے گذرا کہ آدھے سے زیادہ دیوک (دیمک) خوردہ تھا۔ طلبہ اسکے استفادہ سے نا امید تھے۔ مین نے کرم خوردہ کاغذ کو جدا کرا یا اور اسکی جگہہ سفید کاغذ لگا یا اور صبح کو تامل کر کے مبدا و منتہا کو دریافت کر کے اس کا مسودہ مربوط کیا اور اس کو سفید کاغذ پر لکھا یا اس اثنا مین درست کتاب ہاتھ لگی جب مقابلہ کیا گیا تو دو تین جگہہ تغیر بالمرادف اور تین چار جگہہ ایراد بالمقارب ہوا تھا سب کو دیکھ کر تعجب ہوا۔

ابوالفضل کا شہنشاہ کی خدمت مین جانا

سنہ ۹۸۱ مین ابوالفضل مبارک حضرت شہنشاہ اکبر کا قدمبوس ہوا اسکی خود پرستی نخوت کا علاج ہوا اس ملاقات کا حال وہ خود اکبر نامہ مین اسطرح لکھتا ہے کہ جب مین پیدا ہوا تو پانچ سال کی عمر مین تمیز رسمی مجھے حاصل ہوئی۔ پدر صوری و معنوی کی نظر تربیت سے فنون حکمی و علوم نقلی مین مجھے اطلاع ہوئی۔ اگرچہ مجھپر دانش کا دروازہ کھلا۔ پیشگاہ حکمت مین داخل ہوا لیکن نامساعدی بخت سے خودبین اور خویشتن آرا ہوا کچھ دنون اپنے ہنگامہ کے رونق دینے مین سرگرم رہا۔ طالبعلمون کے ہجوم سے میری رعونت بڑھی اس گروہ کی بے تمیزی و بے انصافی کی شورش سے تجرد اور اختیار عزلت کا نشہ سر مین چڑھا اگرچہ دن مین درس علوم مین مشغول رہتا لیکن راتون کو صحرا مین جا کر کوئے طلب کے شوریدون سے ملتا۔ ان گنجینہ دار تہیدستون سے دریوزہ ہمت کرتا۔ ظاہر بین دانایون کے اور صورت پرست تقلیدیون کے رواج بازار سے مین متحیر و سراسیمہ ہوتا۔ نہ چپ رہنے کی طاقت تھی نہ حرف زنی کرنے کی قوت تھی اگر پدر بزرگوار کے مقدمات موعظت مجھے وحشت دیوانگی مین نہین لے جانے تھے لیکن خاطر کی شورش کا علاج مفید نہین ہوتا تھا کبھی دل چاہتا تھا کہ خطہ خطا کے دانایون پاس چلئے کبھی کوہ لبنان کے مرتاضون کی طرف طبیعت میل کرتی تھی۔ کبھی جوگیون کے ساتھ ہمزبانی کا شوق ہوتا تھا کبھی پرتگال کے پادریون کی ہمنفسی کا خیال دامنگیر ہوتا تھا کبھی موبدان فارس کی ہم نشینی اور ژندواستا

کی رموز دانی خاطر کو بے صبری کرتی تھی۔ میرا دل اپنے دیار کے ارباب صحو اور اصحاب سکر سے شکستہ تھا۔ اگرچہ طلب کی نا ہار باپ کی تعلیم سے شکستہ ہوتی تھی لیکن میرے درد کا درمان نہین ہوتا تھا اور اپنی نادانی سے نشاط ظاہری کو مخالف عقبیٰ جانتا تھا اور یہ وضع مجھ تنہا بیقرار رکھتی تھی اور ان کی صحبت سے مین دور رہنا چاہتا تھا نصیبہ کی یاوری سے بادشاہ کی انجمن مین میری دانش مکتسبی کی شہرت مذکور ہوئی۔ برادر گرامی اور خیر اندیش دوست اور محبت گزین خویش اور شاگرد سب اسپر ہمزبان ہوئے کہ بادشاہ کی ملازمت سے مین مشرف ہون۔ مجھے اس کا خیال نہ تھا اور خاطر تجرد گزین کو تعلق کا سودا سراسیمہ کرتا تھا اس لیئے کہ میری چشم دوربین بہکی نہ تھی اور سلاسل تقید کے توڑنے مین ہمت مصروف تھی اور نادانون کی طرح ظاہر کو باطن کا نقیض اور قید کو اطلاق سے مغایر شمار کرتا تھا یہان تک کہ خدا مجازی نے پردہ اُٹھا کر حقیقت پر رہنمائی کی اور میرے پندار کو سر سے نکالا۔ ناگزیر اُسکی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم جانا گو میری خاطر معانی کی گنجینہ دار تھی لیکن متاع دنیا سے تہیدست تھی درگاہ والا کی پیشکش کے لیئے مین نے آیۃ الکرسی کی تفسیر لکھی اور جب بادشاہ دارالخلافہ مین آیا تو کورنش بجا لایا اور اُس تفسیر کو اپنی ہستی پرستی کا عذر بنایا۔ بادشاہ نے حسن قبول فرمایا اور خاص نظر سے خوب دیکھا۔ دولت ملازمت سے کہ اکسیر اہلیت ہے میری شورش خاطر کو تسکین دی بادشاہ کی محبت نے یکبارگی میرے دل کو گھیر لیا پادشاہ دیار شرقی پر یورش کے لیئے چلا۔ گو مین نے اس درگاہ کے بزرگون سے توسل نہین ڈھونڈھا۔ ملازمت سے باز رہا لیکن پادشاہ کے ساتھ رابطہ روحانی میرے دل مین ہمیشہ ناخن زنی کرتا تھا۔

اب تجدید ملازمت کا حال اکبرنامہ مین اس نے یہ خود لکھا ہے کہ ۹۸۲ھ کے شروع مین دارالخلافہ آگرہ مین سجدہ خدمت سے ناصیہ افروز ہوا۔ دانش رسمی کی رعونت اب تک دماغ مین چلی جاتی تھی باوجود فرط اخلاص و عقیدت کے دیار شرقی کے سفر سے پہلو تہی کی۔ اگرچہ سفر کا سامان موجود نہ تھا لیکن دل خود بینی کا بت پرست ایسا تھا کہ اس نے

اس سفر کا ارادہ بھی نہین کیا۔ اور اپنے علم کے بتکدہ مین ایسا رعونت افزا تھا کہ غربت صوری اور نظارگی کی عزیمت دل مین جوشش کرتی تھی۔ لیکن باپ کی اجازت بغیر مین سفر کو مبارک نہین جانتا تھا اور باپ بھی مجھکو وداع نہین کرتا تھا یہان تک کہ دیار سیکری سے حرمت نامہ بڑے بھائی ابوالفیضی کا آیا کہ پادشاہ مجھکو یاد کرتا ہے۔ مگر سامان سفر ایسا نہ تھا کہ مدت کے ارادہ کو قوہ سے فعل مین لاتا مگر دل مین آرزوئے ملازمت پیدا ہوئی اور سورہ فتح کی تفسیر لکھی کہ اس کو مجلس مقدس مین تحفہ بنائے۔ جب اجمیر مین پادشاہ آیا تو اوس نے دوبارہ یاد فرمایا۔ یہ حال بڑے بھائی کے خط سے معلوم ہوا اس سے پادشاہ کی قدمبوسی کا شوق اور بڑھا۔ جب پادشاہ فتحپور سیکری مین آیا تو باپ سے اجازت لے کر فتحپور دوڑا گیا۔ یہان کوئی مہربان نہ تھا کہ مہربانی مجھپر کرتا۔ میری رعونت یہ اجازت نہینی دیتی تھی کہ وسیلہ ڈھونڈھتا۔ کوئی گھر نہ تھا کہ وہ اپنی خلوت کا چراغ مجھ سے روشن کرتا۔ بھائی جو مجھ سے عمر مین اور دانش مین بڑا تھا اپنے گھر مین لے گیا دوسرے روز جامع مسجد مین پادشاہ کی ملازمت حاصل ہوئی۔ توجہ پادشاہی نے میرے نصیبہ کی یاوری کی ایک مدت تک آپ مجمع دین و دنیا مین کہ ہزارون ملل ونحل جمع تھے (عبادت خانہ مین جس کا حال اقبالنامہ مین درج ہے) پادشاہ مجھسے مخاطب ہوتا اور میرا حال جو مجھے خود بھی نہین معلوم تھا وہ اپنی بزم کے خاصون سے کہتا پادشاہ کی مہربانی مجھے روز بروز بتدریج مرتفع کرتی گئی۔ میرا دوسرا جنم تو یہ ہوا کہ پھر شکم پندار سے ملک نیاز مین آیا۔ تیسرا جنم یہ کہ صلح کل کی اطمینان کی بارگاہ مین صدر نشین ہوا۔ چوتھا جنم یہ کہ صلح کل کے خارستان سے نکل کر محبت کے گلستان ہمیشہ بہار مین عشرت پیرا ہوتا۔ پانچوان جنم یہ تھا کہ مجھے یہ تکاپو ہوئی کہ اس باغستان بے خار مین ایک غرفہ عالی عمارت کو قبول کرون تاکہ پادشاہ کی نظر عاطفت سے رضائے کل کی سعادت حاصل ہو جس سے دوئی نیست ہو۔ چھٹا جنم یہ تھا کہ پھر مجھے یہان نشیمن دلنشین حاصل ہوا کہ پادشاہ کی رہنمونی سے چہار طاق تسلیم کی پیشگاہ مین مربع نشین آگہی ہوا اور ساتوان جنم

یہ کہ جب مردان تو بار تعلق کو دوش فطرت سے ڈال کر خلوت کدہ ہستی نیست نما مین عشرت آلودہ ہون کہ فارغ دلی اور کشادہ پیشانی سے بارگاہ فقر الٰہی مین فرصت تجرید اور رخصت تفرید کا ارمغان لے جاؤن کہ پھر مجھے منوطن تناسخی یا مولف حشری مین آٹھوین جنم کی آرزو نہو۔ ان ملاقاتون کا حال عبد القادر بدایونی اسطرح لکھتا ہے کہ شیخ ابو الفضل خلف شیخ مبارک ناگوری کہ جو علامی لکھا جاتا ہے اُسکے علم کی شہرت جہان مین ہے چراغ صباحیون کو روشن کیا ہے جو روشن دن مین چراغ جلانے کا حکم رکھتا ہے اور بمقتضاے من تخالف تعرف جمیع امم کی مخالفت پر کمر بستہ ہوکر بادشاہ کی ملازمت کی اور تفسیر آیۃ الکرسی کہ جس مین کچھ قرآنی دقائق ونکات درج ہین بادشاہ کی نذر کی۔ کہتے ہین کہ وہ اسکے باپ کی تصنیف سے تھی تفسیر اکبری اسکی تاریخ ہوئی ہے۔ فرعون صفت ملانون کی گوشمالی کے لئے اس کو خاطر خواہ بادشاہ نے پایا۔ بادشاہ کی حمایت سے اور اپنی زور قامت در زمانہ سازی و بے دیانتی و مزاج شناسی و خوشامد سے وہ اقصی الغایت کو پہونچا اس نے فرصت کے وقت جماعت علماء کی جس نے سعایت و سعی نامشکور کی تھی اقبح وجوہ سے رسوا کیا اور ان کے استیصال کا باعث ہوا بلکہ موجب تخریب جمیع عباد۔ و مشائخ و علماء و عوام صلحاء و ضعفاء و ایتام کا ہوا انکی مدد معاش اور وظائف کو موقوف کرایا۔ زبان حال و قال سے وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا

رباعی

یارب بجہانیان دلیلے بفرست	نمرودان راچون پشہ نیلے بفرست
فرعون وشان دست برآوردہ ستند	موسی و عصا و رود نیلے بفرست

جب اس وضع سے خلل و فتنے برپا ہوئے تو یہ رباعی اکثر اسکی زبان پر تھی

رباعی

آتش بدو دست خویش درخرمن خویش	چون خود زدہ ام چہ نالم از دشمن خویش
کس دشمن من نیست منم دشمن خویش	اے واے من و دست من و دامن خویش

اگر بحث کے وقت مجتہدین کا قول اُس سے کہا جاتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ سخن فلان حلوائی کا فلان
کفش دوز کا فلان حرم گر کا ہے۔ ہمارے لئے حجت ہین لاتے ہو۔ تمام مشائخ وعلماء کی
نفی کرتا تھا۔ ابوالفضل اور اسکے بھائی ابوالفیض فیضی کا اثر جو اکبر کے اور اور آدمیون
کے مذہب پر ہوا اس کا مفصل حال ہم نے اکبر کے مذہب کے بیان مین لکھا ہے۔ مہمات دکن
مین جو اس نے خدمات شائستہ کین اُس کا اور اُس کے مارے جانے کا حال ہم نے اقبالنامہ
مین بیان کیا ہے۔ مآثر الامراء مین لکھا ہے کہ خان اعظم نے اسکے فوت ہونے کی تاریخ یہ
کہی ہے۔ **تاریخ** تیغ اعجاز نبی اللہ سر باغی برید۔ کہتے ہین کہ شیخ نے خواب مین آن کر کہا
کہ میری تاریخ فوت بندۂ ابوالفضل ہے۔ شاہ ابوالمعانی قادری کہ مشائخ لاہور مین سے تھے
نقل کرتے ہین کہ مجھے ابوالفضل کے کامون سے انکار تھا ایک رات مین نے خواب مین دیکھا
کہ مجلس جناب رسالت مآب مین ابوالفضل کو حاضر کیا حضرت نے جبہ مبارک شیخ کے منھہ پر
ڈال کر فرمایا کہ یہ مرد حیات چند روزہ مین افعال بد کا مرتکب ہوا تھا مگر یہ مناجات جس کا
شعر اول یہ ہے ؎ آلہی نیکان را بوسیلہ نیکی سرفرازی بخشی ٭ و بدان را بمقتضائے کرم
دلنوازی کنی۔ اسکی نجات کا سبب ہوئی۔ شیخ کی تکفیر زبان زد خواص وعوام ہے بعض اسکو
ہندو بعض آفتاب پرست بعض دہریہ کہتے ہین۔ غایت درجہ لوگ اس کو الحاد و زندقہ
سے نسبت کرتے ہین۔ مگر جو لوگ انصاف دوست ہین وہ اس کو متصوفہ کے مقلدون
مین صلح کل و وسعت مشرب اور ادعائے ہمہ اوست وخلع ربقۂ شریعت اور الزام طریقہ
اباحت سے منسوب کرتے ہین ؎ بدنام کنندۂ نکونامے چند ٭ صاحب عالم آرائے
عباسی نے لکھا ہے کہ شیخ ابوالفضل نقطوی تھا اور اُس کی دلیل یہ لکھی ہے کہ اس نے
میر سید احمد کاشی کو منشور لکھا تھا۔ میر مذکور اس طائفہ کے اکابر مین سے تھا اس نے بہت
رسالے علم نقطہ مین لکھے ہین۔
سنہ ۱۰۰۱ھ مین جب ایران مین ملحدکشی ہوئی ہے تو کاشان مین شاہ عباس نے میر کو اپنے

ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ علم نقطہ بھی الحاد و زندقہ و اباحت و توسیع مشرب ہے اس مین عالم کو قدیم
مانتے ہے حشر و قیامت و اعمال نیک و بد کی سزا جزا سے انکار کیا ہے دنیا کی عزت و ذلت
کو ہی جنت و دوزخ مانا ہے ذخیرۃ الخوانین مین لکھا ہے کہ شیخ ابوالفضل راتون کو
درویشون کے گھرون مین جاتا تھا اور اشرفیان نذر دیتا تھا اور التماس کرتا تھا کہ
اسکی سلامتی ایمان کے لیئے دعا کرین - یہ اس کا تکیہ کلام تھا کہ کیا کرنا چاہیے - وہ
ران پر ہاتھ مارتا اور سرد آہ کھینچتا - کبھی ناسزا لفظ زبان پر نہین لایا - اسکی سرکار
مین نہ نوکرون پر غیر حاضری پر جرمانہ ہوتا نہ کوئی معطل ہوتا جس کو وہ مقرر کرتا اُس کو تا مقدور
تغیر نہ کرتا - اُس کا قول تھا کہ کسی شخص کو نوکر رکھ کر موقوف کرنا خفت عقل پر حمل ہوگا - کہ
ناجوالنستہ کسواسطے ایسے آدمیون کو تربیت کیا - جب آفتاب برج حمل مین آتا تو اپنے
سارے کارخانون کو دیکھتا اور اسکی موجودات لکھ کر اپنے پاس رکھتا اور دفاتر کو جلا دیتا
اور کل ملبوسات مستعل کو سواے پاجامہ کے جس کو وہ اپنے سامنے جلواتا نوروز کے دن نوکرون
مین تقسیم کر دیتا - اس کو اشتہا عجیب تھی کہتے ہین کہ سواے آب و ہیمہ کے بائیس سیر وزن مین
کھانا اُس کے لیئے پکتا اس کا بیٹا شیخ عبدالرحمن سفرہ چی بنکر بیٹھتا اور باورچی خانہ کا مشرف
سلمان کھڑا رہتا - جس کھانے مین شیخ دو مرتبہ ہاتھ ڈالتا وہ دوسرے روز بھی پکایا جاتا اگر کوئی
چیز بدمزہ پکتی تو وہ بیٹے کو کھلاتا بیٹا باورچیون کو چشم نمائی کرتا - مگر وہ خود اُس سے کچھ نہ کہتا
مہم دکن مین شیخ جس تورہ اور ضابطہ کو کام مین لاتا تھا اس سے زیادہ تصور مین نہین آسکتا -
چالیس راوٹیون مین شیخ کے لیئے مسند بچھتی اور ہر روز ہزار لنگری طعام خاصہ تمام امرا مین تقسیم
ہوتا اور باہر نہ گزی فرش - برپا کرکے ہر شخص کو جو بھوکا ہو کھچڑی پکی پکائی ملتی تھی - کہتے ہین
کہ جب شیخ وکیل مطلق تھا - ایک روز خانخانان مرزا جانی بیگ حاکم بھٹہ کو ساتھ لے کر
اسکی ملاقات کو گیا - شیخ پلنگ پر دراز لیٹا ہوا اکبرنامہ کو دیکھتا تھا اصلا متوجہ نہوا اسیقدر
کہا کہ آئیے بیٹھئے - مرزا جانی بیگ کہ سلطنت کا دماغ رکھتا تھا بہت پیچ و تاب مین آیا

خانخاناں پھر دوبارہ منت و سماجت کرکے مرزا کو شیخ کے گھر پر لے گیا تو شیخ نے دروازہ پر آکر استقبال کیا اور حد سے زیادہ تواضع کی اور مرزا سے کہا کہ مین آپ کا ہم شہر ہون۔ مرزا نے متحیر ہوکر خانخانان سے پوچھا کیا وہ نخوت یا یہ فروتنی۔ خانخاناں نے کہا کہ اس روز وہ تزک وکالت نظر کے سامنے رکھتا تھا سایہ بمثل اصل کام کرتا تھا آج برادرانہ ملاقات ہے قطع نظر تمام چیزون کے شیخ فن انشا طرازی مین طرفہ سحر کاری کرتا تھا باوجودیکہ وہ تکلفات منشیانہ اور تصنیفات مرسلانہ سے عاری ہے مگر اس کے طرز مین اس قسم کی متانت سخن و استخوان بندی کلمات و نسبت مفردات و تراکیب مستحسنہ و فقرات بیگانہ موجود ہین کہ کوئی دوسرا اس کا تتبع نہایت مشکل سے کرسکتا ہے اس بیان کی صداقت تاریخ اکبری سے ہوتی ہے اس نے التزام کیا ہے کہ الفاظ فارسی کا استعمال زیادہ کرے۔ اس لیے اُسے کہتے ہین کہ شیخ نے خمسہ نظامی کو نثر مین لکھا ہے۔ اس فن مین اس کا یہ کمال ہے کہ بہت سے مطالب بدیہی البطلان کو بادشاہ کی ستایش کے لیئے ایسی چند تمہیدون کے ساتھ تحریر کرتا ہے کہ بغیر غور کے وہ سمجھ مین نہین آتے اس سے زیادہ کیا اس کی تحریر کی تعریف ہوسکتی ہے کہ عبداللہ خان بادشاہ بخارا نے لکھا کہ جیسا مین ابو الفضل کی قلم سے ڈرتا ہون ایسا اکبر کے تیر سے نہین ڈرتا۔ ہندوستان مین سب جگہ وہ بڑا منشی مشہور ہے اس کے مکتوبات مدرسون اور مکتبون مین پڑھائے جاتے ہین گو مبتدی کو وہ مشکل معلوم ہوتے ہین مگر وہ فارسی زبان کے کامل نمونے ہین۔ اگر آدمی فارسی زبان سے خوب ماہر ہو اور ابوالفضل کی طرز تحریر کو بھی جانتا ہو تو اس کی تصنیفات پڑھنے مین عجب لطف آتا ہے اسکی انشا ایسی بے نظیر ہے کہ نہ اس کا تتبع ہوسکتا ہے نہ کسی نے کیا ہے۔

ابوالفضل کی کتابون مین مضامین کی پاکیزگی قابل تعریف ہے اس بات کو وہی سمجھتے ہین کہ جو مشرقی علم ادب سے واقف ہین اس کی ساری تصنیفات مین کہین فحش الفاظ نہین۔

عورتون کا ذکر بے حرمتی کے ساتھ نہین فضائل و رذائل کا جہان ذکر ہے وہان انکی تعریف اعلیٰ درجہ کی ہے اور بداخلاقی پر لعنت ملامت کی ہے۔ بلوک مین صاحب اور کلیڈون صاحب نے اسکی بڑی تعریف یہ کی ہے کہ وہ سچ کا عاشق ہے اور راے بڑی بلند و عمدہ رکھتا ہے۔

گو ابوالفضل پر سب مصنف یہ الزام لگاتے ہین کہ اس نے بادشاہ کو دین اسلام اور پیغمبر سے پھیر دیا مگر وہ اسپر ذرا نہین خیال کرتے ہین کہ اس نے بادشاہ کو تبلایا کہ وہ اپنے فرائض کے ادا کرنے کی قدر جانے جب سے وہ اکبر کی ملازمت مین آیا تب سے مختلف المذاہب اقوام پر حکومت کرنے کا وہ اصول قائم کیا جو اسلام نے چند ہی اور ملکون مین قائم کیا تھا جس کا نتیجہ مسالمت مذہبی تھا۔ کین صاحب نے اپنی تاریخ مین لکھا ہے کہ مشرق اور مغرب مین کوئی مدبر ملکی ابوالفضل سے پہلے ایسا نہین پیدا ہوا جو مسالمت مذہبی کے باب مین راے اسکی برابر رکھتا ہو۔ اگر اکبر کو اس قانون مسالمت کی ضرورت خود معلوم ہوئی تھی تو ابوالفضل ہی اسکی تشریح کرنے والا اور قلم سے اسکے لئے لڑنے والا تھا۔ اگر خان خانائون کی تلوارون نے ملک فتح کئے تو ابوالفضل کے قلم نے دلون کو فتح کیا اور اہل ملک کو بادشاہ کی رعیت ہونے پر راضی کیا۔ اکبر کا اسلام سے پھرنا سب کو فراموش ہوگیا۔ مگر خاندان مغلیہ مین سے کسی شہنشاہ کا رعایا کا مائی باپ بننا اُسکی برابر یاد نہین۔ اورنگ زیب نے گو اسلام کی طرف معاودت کی اور اسکے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ لکھا جاتا ہے مگر اسکے ساتھ ہی سلطنت کا زوال مذہبی مسالمت کے ترک کرنے سے شروع ہوگیا۔

ابوالفضل کی تصنیفات سے کتب مفصلہ ذیل ہین

(۱) اکبر نامہ مع آئین اکبری۔ اکبر نامہ کی تین جلدین ہین۔ آئین اکبری اسکی چوتھی جلد ہے یہ آئین ۴۲ سنہ اکبری مین ختم ہوئی پھر ۴۳ سنہ مین برار کی فتح کے سبب سے اس مین کچھ ترمیم کی

اسمین ۴۶ سال کا حال سلطنت کا لکھا ہے باقی سلطنت کے حالات کا ذمیمہ عنایت اللہ محب علی نے لکھا ہے۔

(۲) مکتوبات علامی جسکو انشاء ابوالفضل بھی کہتے ہین اسمین اور سلاطین اور امرار کے نام نامی اور کتابون پر ریویو اور بعض اور مضامین لکھے ہین ان کو عبدالصمد بن افضل محمد نے جمع کیا ہے وہ ابوالفضل کا بھانجا اور داماد تھا۔ مدارس کے درس مین یہ انشا جاری ہے اس کے تین دفتر ہین سوانحہ اکبری مین دیباچہ مین امیر حیدر حسین بلگرامی نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے چار دفتر ہین مگر دفتر چہارم کمیاب ہے شاید اس نے ابوالفضل کی انشا کو جسمین اسنے خاص رشتہ دارون کے نام خط لکھے ہین چوتھا دفتر سمجھ لیا ہوگا۔

(۳) عیار دانش جس کا بیان ہم نے عہد اکبری کی تصنیفات کے اندر لکھا ہے۔ ابوالفضل کی تصنیفات سے ان کتابون کے سوا اور کتابین ہین۔ رسالہ مناجات۔ جامع اللغات کشکول تفسیر آیۃ الکرسی اور تفسیر فاتحہ سورہ فتح یہ دونون تفسیرین بادشاہ کی نذر بین دین سنسکرت کی کتابون کے ترجمہ مین جو اسنے حصہ لیا اس کا بیان عہد اکبری کی تصنیفات کے عنوان مین دیکھو۔ محمد عسکری بلگرامی نے اپنی دار المنشور مین ابوالفضل کے حالات مین یہ لکھا ہی کہ کشمیر کی مسجد پر جو کتابہ ذیل ہے وہ ابوالفضل کی تصنیف سے ہے۔

الٰہی بہر خانہ کہ می نگرم جویائے تواند وبہر زبان کہ می شنوم گویائے تو۔

کفر واسلام در رہت پویان ❊ وحدہ لاشریک کہ گویان

اگر مسجد است بیاد تو نعرہ قدوس میزنند	واگر کلیسا است بشوق تو ناقوس می جنبانند
گہ معتکف دیرم وگہ ساکن مسجد	یعنی کہ ترا می طلبم خانہ بخانہ
اگر خاصان ترا بہ کفر واسلام کاری نیست	این ہر دو را در پردۂ اسلام تو باری نہ
کفر کافر را و دین دیندار را	ذرۂ دردے دل عطار را

این خانہ بیت ائتلاف قلوب موحدان ہندوستان خصوصاً معبود پرستان عرصۂ کشمیر تعمیر یافتہ

بفرمان خدیو تخت وافسر	چراغ آفرینش شاہ اکبر
نظام اعتدال ہفت معدن	کمال انشراح چار عنصر

ہرکہ نظر صدق بیند اختہ این خانہ را خراب سازو باید کہ نخست معبد خود را بیند از دچہ اگر نظر بردل است باہمہ ساختنی واگر چشم برآب وگل است ہمہ برانداختنی۔ **ابیات**

خداوندا چو دادِ کاردادی	مدارِ کار بر نیت نہادی
توئی بر بارگاہ نیت آرا	بہ پیش شاہ داری نیت شاہ

ابوالفضل نے آئین اکبری مین لکھا ہے کہ آج آخر سال ۴۲ الٰہی کا ہے پھر میرا دل پیوند توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے اور باطن مین ایک نئی شورش ہو رہی ہے **شعر**

مرغ دل من نغمۂ داؤدنمی داند — آزاد کنندش کہ نہ مرغ قفس است این

مجھے معلوم نہین کہ میرے حال کی نوبت کہان تک پہونچے گی اور میرا کیا انجام ہوگا اور سفر واپسین کس منزل مین پیش آئے گا۔ مگر ابتدائے آفرینش سے اب تک متواتر محبت الٰہی کی حمایت مین رہا ہون امید ہے کہ آرام گاہ جاوید مین جاؤن۔

خدا کی نعمتون کا شمار کرنا ایک طرح کی سپاس گذاری ہے اس لیے اسمین کچھ لکھتا ہون (۱) اول نعمت جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے۔ نژاد بزرگ رکھتا ہون امید ہے کہ میرے باپ دادا کی پاکی کے سبب میرے گناہ کا بھی چارہ ہو اور شورش درو دلی کا ایسا ہی مداوا ہو جیسے کہ وہ درد کا دارو ہے آتش کا پانی سے گرم کا سرد سے عاشق کا دیدار سے ہوتا ہے۔

(۲) سعادت روزگار اور ابنائی زمانہ (۳) طالع مسعود کہ مین ایسے مبارک زمانہ مین پیدا ہوا کہ سلطنت کا پاک سایہ مجھپر پڑا (۴) شریف الطرفین (۵) سلامتی اعضا واعتدال قویٰ وتناسب اعضا (۶) مان باپون کی امتداد ملازمت کہ درونی وبیرونی آفتوں کے لیئے حصار اور حوادث انفسی وآفاقی کے واسطے پناہ ہے۔ (۷) بہت صحت اور نوشدارو یے تندرستی (۸) منزل شائستہ (۹) بروزی سے بے غمی اور

حال سے خرسندی (۱۰) والدین کی رضاجوئی کا شوق روزافزون (۱۱) باپ کی عاطفت حوصلہ ساز گار سے زیادہ اور طرح طرح کی عنایتین مجھے وہ ابوالابائی دودمان کے ساتھ اختصاص دیتا ہے (۱۲) درگاہ ایزدی کی نیازمندی (۱۳) زاویہ نشینان حق گزین کی اور درست عیار خود پژوہون سے دریوزہ گری (۱۴) توفیق بر دوام (۱۵) اقسام علوم کی کتابونکی فراہمی بے مذلت خواہش کے ہر کیش کا رازدان ہونا اور دل کا کثرت سے بیزار ہونا (۱۶) باپ کا ہمیشہ علم پر تحریص دینا اور خیالات پریشان مین نہ مصروف ہونے دینا۔ (۱۷) سعادت افزا ہمنشین (۱۸) عشق صوری کا میرے لئے منزلگاہ کمال کا رہبر ہونا گو وہ اور خاندانون کی شورش کا سبب ہوتی ہے (۱۹) پادشاہ کی ملازمت کہ جس سے نیا جنم اور تازہ سعادت حاصل ہوئی (۲۰) رعونت سے نکل کر پادشاہ کی ملازمت مین آنا (۲۱) پادشاہ کی برکت سے صلح کل پر رسائی کہنے سے چپ مین کچھ آنا ہر طائفہ کے نیکون سے آشتی کی۔ بدون کا عذر قبول کرکے ان سے مصالحت کی۔ اللہ تعالی آگہی کی روشنی سے نقش بدی کو دور کرے (۲۲) پادشاہ کے ساتھ ارادت (۲۳) بغیر کسی کی سفارش اور اپنی تگاپو کے پادشاہ کا اعتبار بخشنا (۲۴) دانش آمود سعادت گزین رضاجوے نیکو کار بھائیون کا ہونا اپنے بڑے بھائی کا ذکر کیا کرون انہین کمالات صوری اور معنوی جمع تھے وہ بغیر میری رضا کے قدم باہر نہین رکھتا تھا۔ اس نے میری دلجوئی مین اپنے تئین وقف کردیا تھا۔ میری سر کردگی مین وہ پامردی کرتا تھا۔ وہ میری نیک اندیشی کو دست مرد اپنی سمجھتا تھا۔ اپنی تصانیف مین قصیدہ فخریہ مین فرماتا ہے۔

قصیدہ

جائیکہ از بلندی و پستی سخن رود	از آسمان سر آمد و از خاک کمترم
با این چنین پدر کہ نوشتم مکارمش	در فضل مفتخر ز گرامی برادرم
برہان علم و عقل ابوالفضل کز دمش	دارد زمانہ مغز معانی معطرم

صد صالہ رومیان من واوست در کمال		در عمر گر از دو سالے فزون ترم	
در چشم باغبان نشود قدر او بلند		گر از درخت گل گزرد شاخ عرعرم	

یہ میرا بھائی سنہ ۹۵۴ ہجری مین پیدا ہوا تھا۔ دوسرا بھائی شیخ ابوالبرکات کا ہے وہ ۱۷ شوال ۹۶۰ سنہ
مین پیدا ہوا تھا گو وہ علم مین پایہ والا نہین رکھتا تھا مگر معاملہ دانی و شمشیر آرائی و کارشناسی
مین پیش قدمون مین شمار ہوتا ہے۔ نیک ذاتی و درویش پرستی و خیر سگالی مین ممتاز ہے
تیسرا بھائی شیخ ابوالخیر ہے ۲۲ جمادی الاول سنہ ۹۶۷ کو پیدا ہوا اسکی خوے ستودہ مین مکارم
اخلاق و شرائف تھے۔ زمانہ کے مزاج کو خوب پہچانتا تھا زبان کو مثل اور اعضا کے قابو مین
رکھتا تھا۔ اکبر نامہ مین لکھا ہے کہ وہ شاہزادہ دانیال کے ساتھ بھیجا گیا تھا اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ پادشاہ کا ملازم تھا۔ چوتھا بھائی شیخ ابوالمکارم ۲۳ شوال سنہ ۹۷۶ کو پیدا ہوا
ابتداے عمر مین اسکے مزاج مین شورش تھی۔ مگر باپ کی ہدایت سے وہ راہ پر آگیا۔
اور معقول و منقول کو باپ سے پڑھا۔ علم حکمت کو امیر فتح اللہ شیرازی سے سیکھا دل سے
راہ رکھتا ہے امید ہے کہ ساحل مقصود پر پہونچ جائے۔ ان چارون بھائیون اور ابوالفضل
کی مان ایک تھی جس کا انتقال سنہ ۹۹۸ مین ہوا۔
پانچوان بھائی شیخ ابوتراب ۲۳ ذی الحجہ سنہ ۹۸۸ کو پیدا ہوا۔ اسکی مان اور تھی وہ دربار مین آتا
اور کسب کمال مین مشغول رہتا ان کے سوا دو اور بھائی ہین شیخ ابوالحامد جو ۳ رجب سنہ ۱۰۰۲
کو اور شیخ ابوراشد جو غرہ جمادی الاول سنہ ۱۰۰۲ کو پیدا ہوا۔ اگرچہ وہ حرم سے پیدا ہوئے ہین
مگر آثار اصالت ان مین ظاہر ہین۔ ان بیٹون کے پیدا ہونے سے پہلے باپ مرگیا مگر ان کے
نام وہ مرنے سے پہلے رکھ گیا تھا۔ اگرچہ بڑا بھائی مرگیا جس سے ایک عالم کو غم ہوا امید ہے
کہ اور بھائیون کی عمر دراز ہو اور خیرات صوری و معنوی سے سر بلند ہون (۲۵) کہ خدائی
عالی خاندان مین۔ جس سے کاشانہ ظاہر کو دفن اور نعش کو جگر اکو بہار لگی۔ تین بیویان تھین
جنمین سے ایک ہندی۔ دوسری ایرانی تیسری کشمیری تھی (۲۶) گرامی فرزند کا ۱۲ شعبان سنہ ۹۷۹

کو پیدا ہونا۔ باپ نے پوتے کا نام عبدالرحمن رکھا۔ اگرچہ ہندوستانی نژاد ہے مگر مشرب یونانی رکھتا ہے۔ علم سیکھتا ہے۔ زمانہ کے سود و زیان سے خوب واقف ہے۔ نیک بختی کے آثار ظاہر ہین۔ پادشاہ نے اپنے کوکون کے ساتھ منتسب کیا ہے۔

(۲۷) پوتے کا پیدا ہونا جو ۳ ذی قعدہ سنہ ۹۹ کو پیدا ہوا۔ پادشاہ نے اُس کا نام شوتن رکھا (۲۸) کتب اخلاق کا مطالعہ (۲۹) نفس ناطقہ پر علم ہونا۔ مدتون تک مقدمات بیانی اعیانی کا طلبگار رہا۔ ان روش کے صاحبون سے بہت آمیزش کی دلائل ذاتی و شہودی و اکتسابی و نظری نظر ہین آئے مگر شبہہ کی راہ نہ بند ہوئی۔ دل کو آرام نہوا۔ عقیدت کی برکت سے یہ عقدہ حل ہوا اور دلنشین ہوا کہ نفس ناطقہ ایک لطیفہ ربانی سوائے بدن کے ہے اس کو خاص تعلق پیکر عنصری سے ہے (۳۰) بزرگان صورت کے شکوہ نے مجھے بارہا گوہری کے سبب گفتار حق سے باز نہین رکھا میری دانش و بینش مین وہ راہزن نہین ہوئے مالی وجانی و ناموس کے گزند کے خوف نے میری عزیمت مین تفرقہ نہ ڈالا رفتار آب کردار نے اپنی جو بنائی (۳۱) اعتبارات دنیا کی طرف بے میلی۔ (۳۲) اکبرنامہ کا لکھنا۔ اگرچہ اسمین اکبر کا حال لکھا ہے مگر وہ طرح طرح کے علم کا ایک چشمہ سا رہے اور گروہ دانش کا معدن کارگذار حید مضمون کا رہنمون۔ خندہ فروش ہزل سرایون کو اس سے فائدہ۔ خوردون کے واسطے مایہ نشاط جوانون کے واسطے اسباب عونت۔ بڈھے روزگاردن کے تجربون کو اسمین ایک جگہہ پائین اور زروسیم کے بخشنے والے آئین مردی کو اُس سے پہچانین گو ہر بینائی کے لئے خرم وزن گاہ۔ آزادی کی گیاہ کے لیے پروردہ زمین کارگاہ ہنر کا نجر۔ صبح سعادت کا روزن۔ گوہر آفرینش کا دریائے ژرف۔ سعادت نہاد۔ ناموس آرا روش اُس سے سیکھتے ہین۔ حق پژوہ دیندار نامہ اعمال کی دیدبانی سے عشرت جمع کرتے ہین ہمتاع کے سوداگر اُس سے سود حاصل کرتے ہین۔ پہلوانی کے میدان کا جان نثار ہمت ناموری کا سبق اُس سے پڑھتے ہین۔ تن گداز نفس آرا نیکوکاری اُس سے حاصل کرتے ہین۔ بختار اخلاص طراز اُس سے ذخائر بے منتہی جمع کرتے ہین۔ نزہتگاہ حقیقت آراجشن گزین

اسکی یاوری سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہین۔ ابیات

یکے نامۂ ساختم پر شگفت	کہ ہر دانشے زو توان برگرفت
چنان گفتم این نامہ نغز را	کہ روشن کند خواندنش مغز را

ان سخنون کے سبب سے یہ مژدہ دل کے کان مین آتا ہے کہ فاتحہ بالخیر ہوا اور ابدی سعادت یاوری کرے۔ اگر یہ پور مبارک (مبارک کا بیٹا) مورد اضداد اور عبرت نامہ جہانیان ہے اور اسکی مہر وکین کا ہنگامہ شورش کر رہا ہے۔ ایزد پرست حق پژوہ اسکو ابوالاحد کہتے ہین اور دادار یہمال کا یگانہ بندہ جانتے ہین۔ عرصہ دلاوری کے پہلوان اسکو ابوالہمۃ کہتے ہین۔ ہستی دشمن کے یکتاؤن مین خیال کرتے ہین۔ خردمند اس کو ابوالفطر کہتے ہین اور اس دودمان عالی مین منتخب اس کو جانتے ہین۔ دفا نز عوام مین کہ آشوب خانہ بے تمیزی ہے بعض اسکو پرستاری دینے سے نسبت دیتے ہین اور اس گرداب مین ڈوبا ہوا سمجھتے ہین اور بعض اسکو کفر الحاد مین منہمک گمان کرتے ہین اور اسکی نکوہش وسرزنش کے لیئے انجمنین بناتے ہین ۵ صد داستان بوالعجب آید بروے کار چیران شوندگر دو سہ حرفے رقم کنم۔ الحمد للہ کہ ان باتون سے اس زمانہ کی شگرف کاری کے تماشے سے باہر نہین جاتا اور برے بھلے کہنے والون کی خیر سگالی نہین چھوڑتا اور زبان ودل کو آفرین ونفرین سے آلودہ نہین کرتا

ابیات

شناسندہ گرہست شوریدہ مغز	نہ مہرہ شناسد ز دینار نغز
ہنر تابد از مردم گوہرے	چو نور از مہ و تابش از مشتری

شیخ مبارک کی چار بیٹیون کا ذکر تاریخ مین آیا ہے (۱) ایک بیٹی اُسکی خداوند خان دکنی سے بیاہی ہوئی تھی جسکو بدایونی رافضی بتلاتا ہے وہ گجرات مین کری کے اندر مرگیا۔

(۲) دوسری بیٹی حسام الدین سے بیاہی گئی۔

(۳) راجہ علی خان حاکم خاندیس سے تیسری بیٹی بیاہی گئی جسکے بیٹے صفدر خان نے

سنہ میں منصب ہزاری پایا۔

(۴۶) اسلام خان سے چوتھی بیٹی لاڈلی خانم بیاہی گئی وہ سنہ میں خاوند سے پانچ برس پہلے مر گئی اسکے مقبرہ کو روضۂ لاڈلی بیگم کہتے ہین وہ اکبر کے مقبرہ سکندرہ سے مشرق مین دو میل آگرہ کے قریب ہے سنہ مین وہ تعمیر ختم ہوئی۔ برٹش گورنمنٹ نے ایک ہندو کے ہاتھ اس روضہ کو بیچڈالا جس نے سنگ مرمر کی سب قبرین کھود کھاد بیچڈالین۔ احاطہ کے سوائے روضہ کا کوئی اور نشان باقی نہین رہا اور دروازہ پر یہ طغرا لکھا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نقتی ہذا الروضۃ للعالم ربانی و العارف الصمدانی جامع العلوم شیخ مبارک اللہ قدس سرہ قد وقف ببنا بہ بحر العلوم شیخ ابو الفضل سلمہ اللہ تعالی فی ظل دولۃ الملک العادل یطلبہ المجد و الاقبال و الکرام جلال الدنیا و الدین اکبر بادشاہ غازی خلد اللہ تعالی ظلال سلطنتہ باہتمام حضرت آے البرکات فی سنہ اربع الف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس سنہ مین روضہ بنا اسمین فیضی کا انتقال ہوا تھا شیخ مبارک سنہ مین مرا تھا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگرہ کے مقابل جمنا کے بائین کنارہ پر دونون شیخ مبارک اور فیضی دفن ہوئے جہان وہ اول آباد ہوئے کیونکہ ابو الفضل آئین مین آگرہ کے بیان مین یہ لکھتا ہے کہ دریا کے دوسری طرف حضرت فردوس مکانی (بابر) نے چار باغ لگایا تھا۔ مین اول وہان پیدا ہوا تھا یہین اسکے باپ اور بھائی کی خوابگاہ بنی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مبارک کو روضہ مین لیجاکر دفن کیا ہوگا جو روضہ پر یہ طغرا لکھا گیا۔

ابو الفضل کا بیٹا شیخ عبد الرحمن مشہور ہے سنہ ۲۳ اکبری مین وہ بیس برس کا تھا کہ اکبر نے اسکو سعادت یار کوکہ کے بھائی کی بیٹی سے بیاہا اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اکبر نے پشوتن رکھا (یہ نام اسفندیار کے بھائی کا تھا جس کا نام شاہنامہ مین اکثر آتا ہے) جب ابو الفضل دکن مین سپہ سالار تھا تو عبد الرحمن باپ کا بتر روئے ترکش تھا جسوقت کوئی کام ایسا ہوتا کہ اُسکے کرنے مین اَور آدمی تامل کرتے تو وہ کرتا جہان ضرورت ہوئی عبد الرحمن

کو شیخ بھیجا وہ اپنی ہوشیاری اور مردانگی سے اس کام کو انجام دیتا ۱۰۲۶ھ مین ملک عنبر حبشی
نے علی مردان خان حاکم تلنگانہ کو لڑکر گرفتار کیا اور اس ولایت پر متصرف ہوا شیخ نے اسکو
شیر خواجہ کے ساتھ اس سے لڑنے کو بھیجا عبدالرحمن نے نا ندیرا ور گوداوری سے عبور کرکے بالجرا
کے قریب ملک عنبر کو شکست دی۔ عبدالرحمن شجاعت وکاروانی مین درست اندیش تھا۔ گو جہانگیر
نے اس کے باپ کو قتل کرایا تھا مگر بادشاہ کی طرف سے اس کو غبار خاطر نہ تھا اور اپنی زور
خدمت وحسن پرستاری سے افضل خان کا خطاب اور منصب دو ہزاری پایا ۳ سنہ جہانگیری
مین وہ بہار وپٹنہ مین صاحب صوبہ مقرر ہوا اور گورکھ پور کا اسکی جاگیر پر اور اضافہ ہوا اور اس نے
سلطان خسرو جعلی جسنے بڑا مفسدہ مچایا تھا زیر کیا۔ اس مہم مین بخشی دیوان نے غفلت کی
تھی اسکو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسکے سر اور داڑھی منڈا کر اور چادر اوڑھا کر اور اُلٹا گدھے پر بٹھا کر
ہمارے پاس بھیجدو اور سر راہ شہر وقصبون مین اسکی تشہیر کرو۔ ان ہی دنون مین افضل خان
بیمار ہوا بادشاہ کے پاس آنکر ایک مدت تک ایک دنبل کے الم مین مبتلا رہا ۸ سنہ مین دارفنا
سے ملک بقا کو گیا۔ اسکے بیٹے پشوتن نے ۱۸ سنہ جہانگیری مین منصب ہفت صدی کا پایا۔
اور شاہجہان کی سلطنت کے دسوین سال مین وہ پانچ سو گھوڑون کا سردار مقرر ہوا اور اسی
عہدہ پر ۱۰۵۱ھ مین انتقال کیا۔

دو ہزاری منصب دار

(۲۷) اسماعیل بیگ دولدی یا اسماعیل خان دولدی۔

دولدی قوم برلاس کا ایک فرقہ ہے۔ بیگ خان لقب خان کے لقب سے کم درجہ کا ہے
اور بیگلر بیگی کا درجہ خان خانان سے کم ہے

اسماعیل بیگ امراے بابری مین سے ہے اور دلاوری اور مدبری مین مسلم وقت تھا۔
قندھار کے محاصرہ مین مرزا عسکری کے پاس سے بھاگ وہ ہمایون پادشاہ کے پاس آیا
تھا فتح قندھار کے بعد وہ زمین داور کا حاکم مقرر ہوا۔ محاصرہ کابل مین اُس نے

مرزا کامران کے نوکر شیر علی کو جو قافلہ لوٹنے کے لیے قلعہ سے باہر آیا تھا پھر قلعہ مین جانے نہین دیا۔ وہ ہمایون پادشاہ سے باغی ہوکر مرزا کامران پاس چلا گیا اور مرزا ہی کے ساتھ گرفتار ہوا اور منعم خان کی سفارش سے ہندوستان کی یورش مین پادشاہ کے ساتھ آیا۔

(۷۳) میر بابوس ایغور (ایغور چغتائیہ کا مشہور فرقہ ہے)

(۷۴) اشرف خان میر منشی۔ محمد اصغر سبزواری۔ یہ سادات حسینی مشہد مقدس سے تھا صاحب طبقات اکبری نے اس کو سادات عرب شاہی سے لکھا ہے یہ تباین عموم خصوص کی وجہ سے شائد ہوا ہو ابوالفضل نے جو اس کو سبزواری لکھا ہے وہ کاتبون کی تحریفات سے ہے اصغر علی فن انشا و دقائق سخن مین ید طولی رکھتا تھا وقت یابی اور موشگافی مین سر مو فرق نہین چھوڑتا تھا۔ خطاطی و خوشنویسی مین ہفت قلم استاد تھا خصوصاً تعلیق و نسخ مین سر آمد روزگار و یگانہ دہر علم جفر کو عمل کے ساتھ جانتا تھا۔ ہمایون کا اول ملازم ہوا اُس نے میر منشی کا خطاب دیا۔ ہندوستان کی فتح کے بعد میر عرض اور میر مالی کا عہدہ ملا۔ بیرام خان نے جس روز تردی بیگ کو قتل کیا ہے اس میر منشی کو قید کیا تھا پھر وہ حجاز کو چلا گیا۔ وہان سے اکبر شہنشاہ کی خدمت مین وہ آیا اور اشرف خانی کا خطاب پایا دو ہزاری منصب پایا گور کی وبا مین سنہ ۹۷۳ھ مین دنیا سے سدھارا۔ موزون طبع تھا۔ کبھی کبھی شعر کہتا تھا شاہجہان کے عہد مین اس کا بیٹا ابوالمظفر پانچ سو سواروں کا افسر تھا۔

(۷۵) سید محمود۔ سادات بارہہ مین اول یہی سید ہے جو دولت تیموریہ مین درجہ امارت پر پہنچا اول وہ بیرام خان کا ملازم ہوا۔ سال اول جلوس اکبر مین علی خان شیبانی کے ہمراہ ہیمو بقال کے دفع کرنے کے لیے مقرر ہوا۔ وہ بہت سی خدمات شائستہ بجا لایا قلعہ بدھکرا نے زور شمشیر سے فتح کیا۔ وہ بھولا بھالا سید تھا۔ جب پادشاہ کے روبرو اس فتح مین اپنے تردداًت کا بیان کرنے لگا تو آصف خان نے کہا کہ میرجی یہ فتح اقبال پادشاہی سے ہوئی ہے اُسنے یہ جان کر کہ اقبال کسی پادشاہ کے امیر کا نام ہوگا یہ جواب دیا کہ اس جگہ

اقبال پادشاہی نہ تھا مین اور میرے بھائی تھے جنھون نے دو مہینے تلوار چلائی پادشاہ نے مسکرا کر اسپر بہت طرح کی عنایت کی ایک دن بطور کنایہ کے اس سے کسی نے پوچھا کہ سادات بارہ کا نسب نامہ کہان تک پہونچتا ہے وہ فوراً آگ مین جو رات کو ملنگون نے روشن کی تھی کود پڑا اور کہنے لگا کہ اگر مین سید ہون تو آگ مجھپر اثر نہ کریگی اور اگر نہین ہون تو جل جاؤن گا ایک گھنٹہ تک آگ مین کھڑا رہا۔ آدمیون نے منت و سماجت کر کے نکالا مخملی کفش پہنے ہوئے تھا اس کا خواب تک نہین جلا دو ہزاری منصب رکھتا تھا ۹۸۰ھ پیمانۂ عمر اس کا لبریز ہوا سید قاسم و سید ہاشم اسکے دو بیٹے تھے۔

(۷۶) عبداللہ خان مغل۔ اسکی بیٹی سے اکبر نے شادی کی تھی جس سبب سے بیرام خان اس سبب سے ناراض ہوا کہ انکی بہن کا نکاح مرزا کامران سے ہوا تھا۔

(۷۷) شیخ محمد بخاری۔ وہ ہندوستانی سید تھا اور شیخ فرید بخاری کا طغائی یعنی ماموں تھا وہ عقل مین اور پادشاہ کے ساتھ حسن عقیدت مین ممتاز تھا مدتون اسکی خدمت مین رہا دو ہزاری منصب پایا۔ اجمیر مین درگاہ کی تولیت اسکو سپرد ہوئی دولقہ کی لڑائی مین زخمی ہوکر ۹۷۰ھ مین دنیا سے سفر کیا اس کے مرنے کے بعد پادشاہ نے قدرشناسی کر کے اس کا قرض چکایا۔

(۷۸) سید حامد بخاری۔ سید میران بن سید مبارک کا بیٹا تھا۔ سید مبارک امراء گجرات مین تھا اپنے وطن اوچھ سے وہ ایک گھوڑا لے کر گجرات مین آیا تھا ایک دن برستہ مین ایک فیل مست نے اسپر حملہ کیا اس نے ایک تیر اسکی پیشانی پر ایسا لگایا کہ سوا سوفار کے کوئی نشان اس کا نہ دکھائی دیتا تھا اس زور سے اہل گجرات اس کے تیر کی قسم کھاتے ہین اُس کو مین دولقہ و دوندوقہ مین تیول ملی تھی وہی تیول اسکے پوتے سید حامد کو ملی اسنے پادشاہ کی بہت جگہہ خدمات شائستہ کین منصب دو ہزاری پایا۔ جلالہ سے بلگرام مین ایک سو پچاس اونٹ بکون کو لے کر لڑا اول ہی وسکے تیر لگا مگر وہ لڑتا رہا۔

۹۹۳ھ مین اس کا کام تمام ہوا اور اس لڑائی مین چالیس آدمی اسکے عزیزون خویشون مین ہلاک ہوئے۔

(۹۷) رستم خان پسر رستم ترکستانی۔ اسکی مان نخبہ بیگی یا نخلیہ بیگم ماہم انگہ کی دوست تھی وہ محل شاہی مین آمد و رفت رکھتی تھی پادشاہ کے ساتھ وہ کھیلا تھا۔

۹ھ مین رستم خان کے معزالملک نے ساتھ عبداللہ خان اوزبک کے مقابلہ مین خوب کام کیئے ۹۷۱ھ مین مرزا عزیز کوکہ کے ساتھ پٹن مین خدمات شائستہ بجا لایا کہ علم اُس کو مرحمت ہوا ۹۷۲ھ مین رنتھنبور اس کو تیول مین ملا اور پھر اجمیر کی ایالت ملی ۹۸۵ھ مین پسرا وجلا بھدر اور راجہ بہاری مل کے بھائی کے بیٹے موہن۔ سوزداس تلوک سے بغیر اجازت کے پنجاب سے اپنے وطن لونی مین چلے آئے رستم خان سے اُن کو لڑنے کا حکم ہوا اُس نے اُنکو شکست دی مگر خود زخمی ہوکر اس دنیا سے رخصت ہوا اکبر پادشاہ نے اسکی مان سے تسلی کے لیئے کہا کہ وہ تمام عمر مین صرف مجھ سے تین سال جدا رہا اور یہ تجھ سے بہت سالون تک علحدہ رہا اس لیئے مجھے اس کی مفارقت کا رنج تجھ سے زیادہ ہے۔ مآثر مین لکھا ہے کہ وہ سہ ہزاری منصب رکھتا تھا۔

(۹۸) شہباز خان کنبوہ۔ قوم کنبوہ کی شان مین یہ ایک شعر زبان زد خاص عام ہے۔

اگر قحط الرجال افتد ازین سہ انس کم گیری ۔۔۔ یکے افغان دوم کنبوہ سوم بدذات کشمیری

معلوم ہوتا ہے کہ متاخرین مین سے کسی بے تمیز شاعر نے یہ شعر کہا ہے اکبر جہانگیر کے عہد تک تو کنبوہ معزز عہدون پر ممتاز تھے۔ شہباز خان کا جد ششم حاجی جمال ہے کہ مخدوم بہاء الدین زکریا سے ملتانی کا مرید تھا کہتے ہین ایک درویش نے مخدوم سے سوال کیا کہ للہ ہر پیغمبر کے نام لینے پر مجھے ایک اشرفی دو۔ مخدوم متفکر ہوا۔ حاجی نے کہا کہ مجھے حوالہ کیجیئے وہ اسے گھر لے گیا اور اُس سے کہا کہ ہر پیغمبر کے نام پر مجھ سے اشرفی لے۔ اُستے دس بیس پیغمبرون کے نام لیکر اشرفیان لین اور کہا کہ اس سے زیادہ نام مجھے یاد نہین۔ جب مخدوم کو معلوم ہوا تو اسکے حق مین دعا دی کہ تیری قوم کو درمیان کوئی

حقیقت العقل نہوچنا پچہ اکثر اس فرقہ کے آدمی ہند مین جدت ذہن مین مشہور ہین۔ شہباز خان ابتدائے حال مین باپ دادا کی طرح زہد و درویشی مین بسر کرتا تھا۔ پھر کوتوال ہوگیا۔ اور مقدمات مین ایسی احتیاط کی کہ اکبر شہنشاہ کا منظور نظر ہوا۔ ایک صدی منصب سے دوہزاری منصب پر نوبت پہونچی میر توزک مقرر ہوا اسکی حسن خدمات کا بیان اقبال نامہ مین اپنی جگہہ لکھا ہوا ہی۔ اجمیر مین ۹۹۳ھ مین اس کا انتقال ہوا اسکی قبر حضرت معین الدین چشتی علیہ الرحمۃ کی قبر کے پاس ہی۔ صلاح و تقوی اس کا مشہور ہے۔ وہ شریعت کا پاس بہت رکھتا تھا رسم و رواج کے موافق وہ داڑھی نہین کترواتا تھا شراب نہین پیتا تھا۔ تہجد و اشراق و سنت عصر کبھی قضا نہوئی۔ کبھی بے وضو نہ رہتا۔ ہاتھ مین تسبیح رکھتا وظیفہ پڑھتا رہتا عصر سے مغرب کے درمیان کسی سے بات نہین کرتا۔ ایک دن عصر کے قریب اکبر پادشاہ فتحپور سیکری کے تالاب پر ہوا کھارہا تھا اور شہباز خان کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس سے باتین کرتا تھا وہ ہر وقت آفتاب کو دیکھتا تھا حکیم علی سے کچھ فرق پر حکیم ابوالفتح کھڑا تھا اس سے وہ کہنے لگا کہ اگر آج شہباز خان نماز عصر قضا نہ کرے تو ہم جانین گے کہ واقعی دیندار ہی۔ جب نماز کا وقت تنگ ہوا ناچار پادشاہ سے نماز کے لئے عرض کیا پادشاہ نے فرمایا کہ قضا پڑھ لینا ہم کو اکیلا چھوڑ کر کہان جاؤگے بے اختیار شہباز خان ہاتھ چھٹا کر نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد وظیفہ شروع کیا پادشاہ ہر لحظہ اسکے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا کہ اٹھو۔ حکیم ابوالفتح نے کہا کہ اس عزیز کے شغل مین خلل ڈالنا انصاف نہین ہی اور آگے بڑھکر پادشاہ سے عرض کیا کہ حضور کا لطف انتہا کا بےحساب ہے اور یہ آپکے مراحم کا امیدوار ہے پادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا اور وان کی طرف متوجہ ہوا شیخ ابوالفضل اسکے باب مین لکھتا ہی کہ ہرگونہ پرستاری مین اور سپاہ کی سربراہی مین کم ہمتا تھا اگر تقلید پرست نہوتا تو فرو ہندگی کا طراز لیتا۔ ہمت و بخشش مین بھی نظیر نہین رکھتا تھا اسکے خرچون کو دیکھکر لوگ متحیر ہوتے تھے اور جانتے تھے کہ سنگ پارس اس پاس ہے۔ کہتے ہین کہ اس کے دس نوکر ایسے تھے کہ ایک لاکھ روپیہ سالیانہ پاتا تھا۔ جنگ برہم پتر

مین اس پاس نو ہزار سوار تھے۔ ہرشب جمعہ کو حضرت غوث الثقلین کی فاتحہ دیکر سو اشرفیون کی شیرینی تقسیم کیا کرتا تھا۔ کنبوہ کی قوم کو اسقدر روپیہ دیا تھا کہ اس قوم کا کوئی آدمی ہندوستان مین پریشان و بدحال نہ تھا۔ اس کے مرنے کے بعد بھی پچاس سال تک اشرفیان اور روپے اسکے دفائن و خزائن مین نکلتے رہے تعجب یہ ہے کہ سنہ ۱۴ اکبری تک اس کو دو ہزاری سے زیادہ منصب نہین ملا۔ اس کے بیٹون کی کچھ ترقی نہین ہوئی۔ انعام اللہ اس کا بیٹا بکلانہ کا واقعہ نویس تھا اور اس مین اسکی عمر کٹ گئی اسکا بھائی اکرام اللہ خان سنہ ۳۰ مین بہت رشار رکھتا تھا۔ شروع سنہ ۲ مین اجل طبعی سے مرگیا۔

(۸۱) درویش محمد اوزبک۔ یہ بیرام خان کا دوست تھا جس کو شیر محمد نے پا بہ زنجیر اکبر پاس بھیجا تھا پادشاہ نے اس کا قصور معاف کردیا۔

(۸۲) شیخ ابراہیم۔ شیخ سلیم فتحپور سیکری کے بڑے بھائی شیخ موسی کا بٹیا اور اس کا داماد تھا وہ مدتون تک شاہزادون کی خدمت مین آگرہ کے اندر سرگرم رہا اور جب اکبر کابل گیا تھا تو آگرہ کا پاسبان اس کو مقرر کیا تھا۔ سنہ ۹۹۹ مین اس نے انتقال کیا۔

(۸۳) عبدالمطلب خان پسر شاہ بداغ خان۔ ابتدا مین اوہ مرزا شرف الدین حسین خان کے ساتھ میرٹھا کی تسخیر مین شریک ہوا۔ مہات عظیم مین خدمات شائستہ بجالایا سنہ ۲۶ مین فتح دوست پٹ علی دوست یار بیگی کے قتل کی تہمت مین آن کر کچھ دنون عتاب شاہی مین گرفتار ہوا سنہ ۲۷ مین کالپی مین پادشاہ اسکے گھر گیا سنہ ۳۲ مین جلالہ تاریکی کی لڑائی مین فکر و اوہام کی کثرت سے سودائی ہوکر پادشاہ پاس آیا وقت موعود پر بستی سرا کو گیا اس کا بیٹا شیر زاد عہد جہانگیری مین منصب پانصدی اور دو سو سوارون کی افسری پر مامور ہوا۔

(۸۴) اعتبار خان ناظر۔ اس خواجہ سرا کا نام خواجہ عنبر تھا وہ بابر کا مقرب تھا ہمایون پاس عراق کے سفر مین وہ مریم مکانی کو لایا تھا۔ ہمایون کے مرنے کے بعد اکبر نے بھی اسکو

کابل کو اپنی والدہ مریم مکانی کے لانے کے لئے بھیجا تھا سنہ ۲ جلوس مین وہ اسے
لایا۔ کچھ دنون بعد وہ دہلی کی حکومت پر ممتاز ہوا اور یہین مرگیا۔

(۸۹) راجہ بیربر برہمن۔ اس راجہ کا نام مہیش داس تھا وہ برہمن اور بھاٹ تھا وہ بے
بضاعت کم مایہ تھا پریشان حالی اور خستگی مین گذارتا تھا۔ لیکن فرہنگ و دانش کا مجموعہ
تھا رسائی ادراک اور درستی فہم مین اپنے اقران و امثال پر ممتاز تھا۔ اکبر کی تخت
نشینی پر وہ کالپی سے پادشاہ کی خدمت مین آیا اور اپنی لطیفہ گوئی اور سخن سنجی کے
سبب مجلس پادشاہی کے ندیمون اور مخصوصون مین داخل ہوا اور بتدریج تمام ارباب
قرب و خصوصیت پر سبقت لے گیا۔ پادشاہ اس کو مصاحب دانشور راجہ بیربر کہکر
مخاطب ہوتا تھا۔ ہندی شعر خوب کہتا تھا اس لئے اس کو خطاب کب رای (ملک
الشعرا) کا ملا۔ نگرکوٹ کا حال اور مہم یوسف زئی مین اس کے مارے جانے کا بیان
اقبال نامہ مین درج ہے۔ اگرچہ راجہ کو منصب دو ہزاری تھا مگر مصاحبت و
خصوصیت کا پندار اس کو بڑا تھا۔ اس کے مرنے کے غم مین پادشاہ نے دو روز
کھانا نہین کھایا اور کیف معتاد پر مائل نہین ہوتا۔ پادشاہ کا کسی کے مرنے پر ایسا برا
حال نہین ہوا جیسا کہ اُسکے مرنے پر۔

ابوالفضل نے مرزا عبدالرحیم خانخانان کو جو فرمان لکھا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پادشاہ کے
دلمین اُسکی جگہہ عجیب تھی اور ایک ربط خاص تھا اس کے اظہار عقیدت مین یہ عبارت
لکھی ہے کہ بعض موانع اگر نہ واقع ہوتے تو مین خود جاکر اُسکی نعش کو اپنی آنکھون سے
دیکھتا اور اپنی عطوفت و مہربانی کو جو اس کے ساتھ تھی ظاہر کرتا۔ ع

کدام دل کہ ازین واقعہ جگر خون نیست　　کدام دیدہ ازین واقعہ جگر گون نیست

راجہ بیربر جود و سخاوت مین زمانہ مین یکتا تھا۔ بخشش و انعام مین شہرۂ آفاق۔
فن موسیقی مین مہارت تمام رکھتا تھا۔ کبت و دوہرے جو اُس کے مشہور رہین اور

لطائف ونکات اس کے خلائق کی زبان پر ہین۔ ہر ہمینہ مجلس کرتا تھا اس کا بڑا بیٹا
لالہ نام اپنے لایق منصب رکھتا تھا بدخوئی وخودکامی سے خرچ اپنے اندازہ سے زیادہ
رکھتا تھا۔ خواہشین وافراج رکھتا تھا جب آمدنی زیادہ نہ ہوئی تو پادشاہ سے سنہ ۴۶
اکبری مین اجازت لے کر جوگی ہوگیا۔ بدایونی اس راجہ کی نسبت یہ لکھتا ہے کہ سنہ ۹۵۰ کی
جھوٹی اور پاجیانہ باتون مین سے جو محالات سے بھی ایک قدم بڑھا ہوے ہین بیربر
ملعون کے زندہ ہونے کی خبر ہے باوجودیکہ وہ جہنم کے ساتوین طبقے مین پہونچ چکا تھا اس کا
مجمل بیان یہ ہی کہ جب ہندوؤن نے دیکھا کہ اس ناپاک سے پادشاہ کو میلان خاطر
بہت تھا اور اسکی مفارقت سے اضطراب مین تھا تو ہر روز یہ مشہور کرتے تھے کہ نگرکوٹ
مین کوہستان کے اندر جوگیون اور سناسیون کے ساتھ وہ سیر کرتا پھرتا ہے پادشاہ کو اسکا
یقین تھا اس لئے کہ اس کو علاقہ دنیا سے مجرد جانتا تھا اور اس کو درہنین جانتا تھا۔
کہ اس نے لباس فقیری اختیار کیا ہو اور واقعہ یوسف زئی کی شرمندگی کے مارے
زبان نہ آتا ہو احمقون نے اس خبر کو سچ جان کر لاہور مین اسکی داستانین بنانی شروع
کین اور ایک شخص نے نگرکوٹ مین جاکر حال تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فقط باتین ہی
ہین اصل اسکی کچھ نہین۔ بعدازان یہ سنا کہ کالنجر مین جو اس کی جاگیر تھی وہ چلا گیا
ہے عمال کالنجر نے اس مضمون کی عرضداشت بھیجی کہ ایک حجام نے جو محرم اسرار تھا۔
تیل ملنے کے وقت علامات بدنی کو دیکھ کر بیربر کو پہچانا ہے اور وہ پوشیدہ رہتا ہے
ہندو کروڑی نے یہ جعل کر رکھا تھا کہ ایک بے گناہ مسافر خون گرفتہ کو چھپا رکھا تھا اور مشہور
کردیا تھا کہ وہ بیربر ہے۔ پادشاہ نے حجام کو اپنے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا۔ کروڑی حجام
کو بھیج سکا ہنین مگر اس مسافر کو اخفاء حال کے لئے مار ڈالا اور پادشاہ کو کہلا بھیجا کہ وہ
بیربر تھا جسکی اجل آگئی اور پادشاہ کی پابوسی کی سعادت نہ پائی پادشاہ نے اسکا دوبارہ
ماتم کیا۔ کروڑی اور اوردون کو طلب کرکے کچھ دنون شکنجہ مین رکھا کہ کسواسطے ہم کو پہلے خبر نہ کی

اور بہت سا روپیہ اُس سے ڈنڈ اس بہانہ سے لیا۔
بدایونی اور شہباز خان اور مسلمانون کو راجہ بیربر سے اس سبب سے نفرت پیدا ہوئی تھی کہ انکو یقین تھا کہ اسی راجہ نے پادشاہ کو آفتاب پرست بنایا ہے۔

(۸۶) اخلاص خان اعتبار خواجہ سرا بھی امراء دو ہزاری مین داخل تھا۔

(۸۷) بہار خان محمد اصغر۔ ہمایون کا نوکر تھا دو ہزاری منصب رکھتا تھا ۹۸۷ھ مین مرگیا۔

(۸۸) شاہ فخر الدین پسر میر قاسم۔ وہ موسوی سید مشہد کا تھا وہ ۹۶۱ھ مین ہمایون کے ساتھ ہندوستان مین آیا وہ سب لڑائیون مین شریک ہوا۔ کفایت خان کا خطاب پایا۔ اجین کا حاکم مقرر ہوا پھر پٹن کا حاکم مقرر ہوا ۹۸۰ھ کے شروع مین مرگیا۔

(۸۹) راجہ رام چند رگھیلہ۔ ملک بھٹہ کا زمیندار تھا اور بابر نے جو اپنی واقعات مین ہندوستان کے تین بڑے راجہ بیان کیئے ہین ان مین وہ ایک تھا اسی راجہ کے دربار مین تانسین کلاوت جو فنون نغمہ سرائی مین لاجواب تھا حسن صورت مین نازک خیالی مین کوئی اسکی مثل نہین ہوا۔ راجہ کمال قدردانی کرتا تھا اور اس سے انس رکھتا تھا۔ جب اس کے کمالات کے وصف اکبر شہنشاہ نے سُنے تو ۹۷۰ھ جلالی بن جلال خان قورچی کو راجہ کے پاس بھیجا اور تانسین کو اپنے پاس بُلایا راجہ انکار نہ کر سکا۔ تانسین کو سازوسامان تجمل مدیون کے ساتھ روانہ کیا۔ پادشاہ کی خدمت مین جب وہ آیا تو اول ہی روز مین اس کو دو کروڑ دام کہ دو لاکھ روپے رائج الوقت ہوتے ہین پادشاہ نے انعام دیئے تقریبون مین بہت کچھ انعام دیتا رہا۔ باقی حال اس راجہ کا مہم گڈھ اور قلعہ باندھو کی تسخیر مین اقبالنامہ مین پڑھو۔

(۹۰) لشکر خان محمد حسین خراسانی۔ وہ میر بخشی و میر عرض تھا ۹۸۱ھ مین مظفر خان (۳۷) نے اسکو معزول کیا ۹۸۶ھ مین وہ پادشاہ کے دربار مین شراب پی کر آیا۔ پادشاہ نے اُسکو گھوڑے کی دُم سے بندھوا کر قیدخانہ مین بھیجدیا پھر وہ رہا ہو کر منعم خان کے ماتحت مہم بنگال مین بھیجا گیا۔

نگروہی کی لڑائی مین زخمی ہوا اور پھر مرگیا۔ دو ہزار یا ایک ہزار سپاہ اس پاس رہتی تھی

(۹۱) سید احمد بارہ۔ یہ سید محمود کا چھوٹا بھائی تھا گجرات کی مہمات مین اُسنے کارہاے نمایان کیئے سنہ ۹۸۵ھ مین وہ مرگیا۔

(۹۲) کاکر علی خان چشتی۔ وہ ہمایون کے ساتھ ہندوستان مین آیا۔ گدہ کٹنگہ اور خیر آباد کی لڑائی مین خدمات شائستہ بجالایا سنہ ۹۸۸ھ مین پٹن کی لڑائی مین مارا گیا۔

(۹۳) راے کلیان مل۔ زمیندار بیکانیر۔ راے سنگہ کا بیٹا تھا جس کا بیان (۴۴) مین کیا گیا

(۹۴) ظاہر خان میر فراغت پسر خورد اتالیق شاہزادہ دانیال۔ وہ امراء ہمایون مین تھا۔ اکبر بادشاہ کا مصاحب تھا۔ اس لیئے اکبر کے مامون خواجہ معظم دیوانی کے پکڑنے مین بڑی مدد کی تھی۔

(۹۵) شاہ محمد خان قلاتی۔ قلات کا تلفظ اہل قلات کلات کرتے ہین۔ بیرام خان کا دوست تھا جس نے قندھار اس کے بالکل سپرد کیا تھا۔ قندھار مالوہ کی مہمات مین اس نے کام کیئے سنہ ۶ مین منصب دو ہزاری پایا۔ سنہ ۷۱ مین پٹن کی لڑائی مین زخمی ہوا۔

(۹۶) راے سرجن ہاڈا۔ اکثر اس کو راے ہاڈا کہتے ہین (ہاڈا چوہانون کے ایک فرقہ کا نام ہے سرکار رنتھنبور کو ہاڈولی کہتے ہین) راے سرجن پہلے رانا کی خدمت مین تھا اپنے تیئن رنتھنبور مین محفوظ سمجھکر مغلون سے لڑا تھا۔ مگر جب اس قلعہ کو اکبر نے فتح کر لیا تو اُسنے بادشاہ کی ملازمت اختیار کی اور خدمات شائستہ مختلف مہمات مین بجالایا سنہ ۱۰۰۱ مین مرگیا۔

(۹۷) شاہم خان جلائر (جلائر ایک چغتائی قوم کا نام ہے) اس کے باپ کا نام بابا بیگ تھا۔ جس کو ہمایون نے جونپور مین حاکم مقرر کیا تھا۔ شاہم خان نے بنگال اور اڑیسہ کی مہمات اور بعض اور مقامات مین خدمات کین مزاج مین اسکے ظلم تھا

سنہ اہین اسکو دو ہزاری منصب ملا تھا۔

(۹۸) آصف خان (مرزا قوام الدین) جعفر بیگ بدیع الزمان ولد آقاے ملات دولت دار قزوینی کا بیٹا مشہور ہے۔ شاہ طہماسپ شاہ ایران کے زمانہ مین مرزا بدیع الزمان کاشان کا وزیر تھا۔ مرزا جعفر بیگ اپنے باپ دادا کے ساتھ مجلس شاہ مین آمد و رفت رکھتا تھا سنہ ۹۸۵ھ مین نوجوانی کے عالم مین عراق سے ہند مین وارد ہوا۔ اپنے چچا مرزا غیاث الدین علی آصف خان بخشی کی ہمراہ اکبر پادشاہ کی خدمت مین آیا۔ پادشاہ نے اس کو منصب بستی داخلی آصف خان عنایت کیا اس کم منصبی پر راضی نہین ہوا دربار کے مجرلے اور آمد و رفت کو ترک کیا۔ یہ استغنا پادشاہ کو ناگوار ہوا۔ مگر پھر پادشاہ سے اس لئے رجوع کی اور مہمات عظیم مین شریک ہوا۔ خدمات شائستہ کین۔ گھوڑا گھاٹ مین اپنے اجل طبعی سے مرگیا۔ صد حیف از آصف خان تاریخ ہے۔ وہ صاحب کمال تھا سب فنون مین ایک فنی تھا۔ ہر ہنر کو سمجھتا تھا۔ اسکی فطرت بلند کا شہرہ تھا وہ کہا کرتا تھا جس بات کو مین بدیہہ نہ سمجھوں وہ بے معنے ہوگی۔ ایک نگاہ مین تمام سطر پڑھ لیتا تھا فراست و دانائی و کاروانی و اجرائے مہام ملکی و مالی مین اس کو ملکہ تھا ظاہر و باطن آراستہ تھا اسکے شعر و انشا مین کمال متانت ہوتی تھی۔ گل و گلزار باغ و چمن کا شوق بہت تھا نخل و نہال اپنے ہاتھ سے لگاتا تھا اور اپنے ہاتھ سے بیل سے دست کاری کرتا۔ بیویاں اسکی بہت تھین اسکے بھائی و اپیس مین ایک سے سہیلیاں اسکے گھر سے برآمد ہوئین اسکے بیٹے بہت تھیں اسکے بیٹوں مین کوئی آگے نہیں بڑھا

منصب دو ہزار پانصدی

(۹۹) شیخ فرید مرتضے خان بخاری۔ (۱۰۰) سمانچی خان پور چلمہ بیگ دسمان ترکی زبان مین گاہ کو کہتے ہین۔ سمانچی وہ جو گاہ کی نگہبانی کرے (۱۰۱) تردی خان پسر قیا خان گنگ (۱۰۲) مہر خان انیس الدین ملازم ہمایون و (۱۰۳) راے درگا سی سودھنہ اکبرنامہ مین

اس کا نام رائے درگا چند راوت لکھا ہے۔ پرگنہ رام پور مین جس کو اسلام پور بھی کہتے ہین اور وہ چتور کے پاس ہے اس کے باپ دادا سب رہتے تھے چالیس برس اکبر کی خدمت مین رہا (۱۰۴) مادہو سنگہ پسر راجہ بھگوان داس (۱۰۵) سید قاسم

منصب داران ہزاری و دوبست و پنجاہی

(۱۰۶) رای سال درباری شیخاوت اسکے باپ کا نام راجہ سوجا پسر رائے مل شیخاوت ہے، حسن خان سور پدر شیرشاہ اول اسی کا نوکر ہوا تھا۔ لکھا ہے کہ دو فرقے ہین ایک راجاوت جس مین مرزا راجہ مان سنگہ کا خاندان ہے دوم شیخاوت جس کے راجہ لونکرن وراجہ رایسال اوران کے اقربا ہین کہتے ہین کہ ان کے اسلاف مین سے کسی کے ہان بیٹا نہین ہوتا تھا۔ ایک درویش کی دعا سے اسکے ہان بیٹا پیدا ہوا اس کا نام شیخ رکھا گیا اس لیئے یہ خاندان شیخاوت سے منسوب ہوا۔ پہلے ہزار دوبست و پنجاہ کا منصب ملتا تھا مگر بعد ازان موقوف ہوا اور یہ قرار پایا کہ ہزار سے آگے پانصدی سے کم کسی کا اضافہ نہ ہوا کرے۔

منصب داران ہزاری

(۱۰۷) محب علیخان پسر میر خلیفہ۔ میر خلیفہ سلطنت بابر کا رکن اعظم تھا جس کا حال بابرنامہ مین لکھا ہے (۱۰۸) سلطان خواجہ عبدالعظیم پسر خواجہ خاوند دوست (۱۰۹) خواجہ عبداللہ پسر خواجہ عبداللطیف (۱۱۰) خواجہ جہان امین ہرات (۱۱۱) تاتارخان خراسانی۔ (۱۱۲) حکیم شیخ الدین ابوالفتح پسر ملا عبدالرزاق گیلان۔ عبدالرزاق مدتون گیلان مین صدارت کے عہدہ پر ممتاز رہا ہے سنہ ۹۷۴ شاہ ایران نے اس کو زندان مین بھیجا یہین بند کے شکنجہ مین دم اس کا نکلگیا۔ حکیم ابوالفتح مع اپنے دو بھائیون حکیم ہمام و حکیم نورالدین کے ہندوستان مین آیا ان بھائیون مین سے ہر یک جودت طبع و جدت فہم و علوم رسمی و کمالات صوری مین ممتاز زمان

تھا سنہ ۲ میں پادشاہ کی خدمت مین آے۔ ہر ایک اپنی لیاقت کے موافق سرافراز ہوا ابوالفتح شائستہ زیادہ تھا اور مزاج روزگار سے آشنا تھا اُس نے جلد ترقی کی سنہ ۲۴ مین صدارت وامینی صوبہ بنگالہ پر مقرر ہوا اگرچہ منصب مین ہزاری تھا مگر رتبے مین وزارت و وکالت سے بڑھا ہوا تھا وہ اجل طبعی سے دمنتور کے مضافات مین مرگیا حسن ابدال مین دفن ہوا۔ جہان پادشاہ اسکی فاتحہ پڑھنے گیا یہ حکیم دقیقہ شناس ہوشیار مغز بیدار دل عالی فطرت تھا فیضی نے اس کا مرثیہ لکھا۔ کریم الصفات ومحسن الزمان تھا شعراے وقت کا ممدوح تھا عرفی نے اکثر قصائد اسکی مدح مین کہے ہین۔ اس کا بھائی حکیم نورالدین قراری تخلص کرتا تھا وہ اکبر کے حکم سے بنگالہ گیا کچھ ترقی نہین کی یہین مرگیا اس کا مقولہ تھا کہ دوسرے شخص پر اظہار ہمت کرنا اظہار طمع ہے۔ بازاری کو ملازم کرنا خود اپنے تئین بدخو کرنا ہی جسپر اعتماد کیجیے وہ معتمد ہے۔ وہ حکیم ابوالفتح کو ہمہ دنیا کہتا۔ حکیم ہمام کو مرد آخرت کہتا اور اپنے تئین دونون سے برکنار سمجھتا۔

(۱۱۳) شیخ جمال پسر محمد بختیار۔ اسکی بہن حرم سراے اکبری کی ہمشیرتھی اسی کی سفارش سے بھائی کو ہزاری منصب ملا تھا شراب نوشی کے سبب سے پادشاہ نے اُسے قید مین کچھ دنون رکھا تھا مگر اُس نے اس اپنی بُری عادت کو چھوڑا نہین۔

(۱۱۴) جعفر خان پسر قزاق خان (۱۱۵) شاہ ننانی پسر میر نجفی (۱۱۶) اسد اللہ خان تبریزی (۱۱۷) سعادت علی خان بدخشانی (۱۱۸) روپسی بیراگی برادر راجہ بہاری مل (دنبر ۲۴) (۱۱۹) اعتماد خان خواجہ سرا (۱۲۰) باز بہادر پسر سجاول خان سور (۱۲۱) اودے سنگ پسر راے مالدیو۔ اسی راجہ کی بیٹی جگت گسائینی سے جہانگیر کا بیاہ ہوا تھا جس سے شاہزادہ خرم پیدا ہوا (۱۲۲) خواجہ شاہ منصور شیرازی (۱۲۳) قتلق قدم خان اختہ بیگی (ترکی زبان مین قتلق کے معنے مبارک کے ہین) (۱۲۴) علی قلی خان اندرابی قندز کے جنوب مین اندراب ایک شہر ہے اگر کابل سے ایک خط مستقیم شمال کی طرف طالقان تک

کھینچا جاے تو وہ اس کے قریب گذرتا ہے (۱۲۵) عادل خان پسر شاہ محمد قلاتی (۹۵) ایک دفعہ شکار مین ایک شیر اکبر پر حملہ کرنے آیا کہ عادل خان نے اس کے منہ مین اپنا ایک ہاتھ دے دیا اور دوسرے ہاتھ مین خنجر سے شیر کا منہ زخمی کیا مگر اسکے دونون ہاتھ شیر نے پکڑلیے اور آدمیون نے شیر کو مارا عادل خان زخمی ہوا اور اسی سبب سے مرگیا۔

(۱۲۶) خواجہ غیاث الدین علی آصف خان قزوینی (۱۲۷) فرخ حسین خان پسر قاسم حسین خان (۱۲۸) معین الدین احمد خان فرنخودی (فرنخود ایک شہر سمرقند کے پاس ہے) (۱۲۹) محمد قلی توقبائی (چغتائی قوم کا ایک فرقہ توقبائی ہے۔ (۱۳۰) مہر علی خان سلدوز سلدوز چغتائی فرقہ کا نام ہے (۱۳۱) خواجہ ابراہیم بدخشی (۱۳۲) سلیم خان کاکر (۱۳۳) حبیب علی خان (۱۳۴) جگ مل چھوٹا بھائی راجہ بہاری مل (۱۳۵) الغ خان حبشی (الغ خان کے معنے ترکی زبان مین خانخان کے ہین (۱۳۶) مقصود علی خان (۱۳۷) قبول خان

منصب داران صدی

(۱۳۸) کوچک علی خان کولابی (کولاب ایک شہر بدخشان مین ہے طول ۷۰ درجے عرض ۳۸ درجے (۱۳۹) سعادت خان سنبل ہمایون کا غلام (۱۴۰) شیر محمد میر عدل (امروہہ کا سید) (۱۴۱) رضوی خان مرزا میرک رضوی سید مشہد (۱۴۲) مرزا نجابت خان برادر سید میرک (۱۴۳) سید ہاشم پسر سید محمود بارہ (۱۴۴) غازیخان بدخشی (اس کا نام قاضی نظام تھا) اسکی تصنیف سے بہت کتابین ہین۔ سجدہ جو اکبر کے دربار مین ہوتا تھا اس کا موجد یہی تھا (ابو الفضل کا بہنوئی تھا (۱۴۵) فرحت خان مہتر سکائی غلام ہمایون (۱۴۶) رومی خان استاد جیبی رومی (۱۴۷) سمانجی خان قورچی (۱۴۸) شاہ بیگ خان پسر کوچک علی خان بدخشی (۱۴۹) مرزا حسین خان برادر مرزا نجابت خان (۱۵۰) حکیم زنبیل برادر مرزا محمد طبیب سبزواری (۱۵۱) خداوند خان دکنی

(ابوالفضل کا بھوئ) ایک دن ابوالفضل نے اسکی ضیافت کی اور امرار کو بلایا۔ ہر نوکر کے
آگے نو قابین کھانے کی اور ایک لنگری گوسفند بریان اور نان کی رکھی۔ خداوندخان کے
آگے بہت سی رکابیان مرغ و دراج اور طرح طرح کے ساگ و سالن کی چنین تو وہ ناخوش
ہوکر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ ہمارے سامنے مرغ کا کباب استہزا اور مسخرا بنانے کے لئے
رکھا جب بادشاہ کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے خداوندخان سے کہا کہ یہ چیزین ہندوستان
کے معمولی تکلفات مین ہین مگر اس کا دل ابوالفضل سے صاف نہ ہوا اور پھر اُس کے
گھر نہ گیا۔ اسی سبب سے ہندوستان مین اہل دکن حماقت و سخافت عقل مین مشہور ہوئے
(۱۵۲) میرزادہ علی خان پسر محترم خان (۱۵۳) سعادت مرزا پسر خواجہ خضر خواجہ خان (۱۵۴)
شملاں خان چیلہ (۱۵۵) شاہ غازی خان سید تبریزی (۱۵۶) فاضل خان پسر خانخانان
(۱۵۷) معصوم خان پسر منعم الدین فرنخودی (۱۵۸) تولک خان قوچین (۱۵۹) خواجہ
شمس الدین خوافی (خواف ایک ضلع خراسان مین ہے اکثر نقشون مین ہرات کے مغرب
مین خاف لکھتے ہین) (۱۶۰) جگت سنگھ پسر کلان راجہ مان سنگھ (۱۶۱) نقیب خان
پسر میر عبداللطیف قزوینی (۱۶۲) میر مرتضےٰ سبزواری سید (۱۶۳) شمس پسر خان اعظم مرزا کوکہ
(۱۶۴) میر جلال الدین حسین سید انجوئی (۱۶۵) سید راجو بارہ (۱۶۶) میر شریف آملی (۱۶۷)
حسین بیگ شیخ عمری (۱۶۸) شیرویہ خان پسر شیر افگن خان (۱۶۹) نظر بے اوزبک (۱۷۰)
جلال خان پسر محمد خان بن سلطان آدم گکھر (۱۷۱) مبارک خان پدر کمال خان گکھر (۱۷۲)
تاش بیگ خان مغل (۱۷۳) شیخ عبداللہ پسر شیخ محمد غوث (۱۷۴) راجہ راج سنگھ ولد راجہ
اسکرن کچھوا (۱۷۵) رائے بھوج پسر رائے سرجن۔

منصب داران ہشت صدی

(۱۷۶) شیر خواجہ (۱۷۷) مرزا خرم پسر خان اعظم مرزا کوکہ

منصب داران ہفت صدی

(۱۷۸) قریش سلطان پسر عبدالرشیدخان حاکم کاشغر (۱۷۹) قرا بہادر عم زادہ مرزا حیدر پسر مرزا محمود (۱۸۰) مظفر حسین مرزا پسر ابراہیم حسین مرزا (۱۸۱) قندوق خان اوزبک برادر بیرام خان اوغلان (۱۸۲) سلطان عبداللہ برادر غیر مادری سلطان قریش (۱۸۳) مرزا عبدالرحمن برادر زادہ امیر زا حیدر (۱۸۴) قیا خان پسر صاحب خان (۱۸۵) دربار خان عنایت خان (۱۸۶) پسر تکلتو خان قصہ خوان (۱۸۶) عبدالرحمن خان پسر مویدخان (۱۸۷) قاسم علیخان (۱۸۸) باز بہادر خان پسر شریف خان (۱۸۹) سید عبداللہ خان پسر میرخواند (۱۹۰) دھارو پسر راجہ تو ڈرمل (۱۹۱) احمد بیگ کابلی (۱۹۲) حکیم علی گیلانی (۱۹۳) گوجر خان پسر قطب الدین خان اتگہ (۱۹۴) صدر جہان مفتی (۱۹۵) تختہ بیگ کابلی (۱۹۶) رائے پتر داس کھتری (۱۹۷) شیخ عبدالرحیم لکھنوی (۱۹۸) میدنی رائے چوہان (۱۹۹) ابوالقاسم نمکین (۲۰۰) وزیر بیگ جمیل (۲۰۱) طاہر یوسف الملک (۲۰۲) بابو منکلی

منصب داران شش صدی

(۲۰۳) محمد قلی ترکمان (۲۰۴) بختیار بیگ گرد شاہ منصور

ابوالفضل نے آئین اکبری میں جس ترتیب سے منصب دارون کے نام اس صدی تک لکھے ہین وہ نقل کیے۔ اگر ہم سب منصب دارون کا مفصل حال لکھتے تو اقبال نامہ ہم کو دوبارہ نقل کرنا پڑتا اس لیے کہ ان کل منصب دارون کے کارہائے عظیم کا مجموعہ اکبر کی سلطنت کی تاریخ ہے اس لئے ہم نے ان منصب دارون کا فقط نام یا جو حال انکا لکھنا ضروری تھا وہ لکھدیا ہے۔ جنکو ان کا حال مفصل دیکھنا ہو وہ اقبالنامہ کے اوراق گردانی کرکے پڑھ لین ابوالفضل نے جو فہرست منصبدارون کی لکھی ہے اس سے یہ دو بڑی باتین معلوم ہوتی ہین اول یہ ہندوستان کے

ہندوستان کے مسلمان بہت ہی کم منصب دار تھے زیادہ تر ترک و ایرانی و افغانی منصب دار تھے دوم ہندو بھی اعلیٰ منصوبون پر ممتاز تھے (۴۱۵) منصب دارون مین ۵۱ ہندو تھے مگر جو منصب دار معزول ہوگئے تھے یا جنھون نے بغاوت کی انکے نام اکثر اس فہرست سے خارج ہین جیسے شاہ ابوالمعالی خواجہ معظم۔ برادر مادر اکبر بابا خان قاقشال۔ معصوم خان کابلی۔ عرب بہادر جباری لیکن بعض اور بھی فروگذاشت ہوئے ہین جیسے خضر خواجہ سلطان حسین جلائر۔ کمال خان گکھر۔ میرغوث۔ نورنگ خان پسر قطب الدین خان۔ مرزا قلی۔ راجہ اسکرن انکے سوائے اور بھی فروگذاشت ہوئے اس کا سبب بتانا کہ کیون فروگذاشت ہوئے مشکل ہے غرض اکبر جو فاتح ہند تھا اس نے گو اعلیٰ درجے کے عہدے ترکون اور ایرانیون اور افغانون کو دیئے مگر اسنے ہندوستانی مسلمانون اور ہندوؤن کو بھی انکے دینے مین دریغ نہین کیا۔ راجہ ٹوڈرمل کا درجہ بادشاہ کے بعد تھا مال کے کام کا وہی مختار رہتا تھا۔ مان سنگہ۔ بھگوان داس۔ راجہ بیربل جنگی کامون مین بڑے بااقتدار تھے اول درجہ جو منصب کا پنجہزاری تھا اس مین تیس مین تین ہندو اور چار ہزاری منصب مین نو مین دو ہندو سہ ہزاری منصب مین سترہ مین ۸ ہندو تھے غرض تمام اعلیٰ درجے کے عہدہ داران مین ستاون ہندو تھے علاوہ ان کے ہندوستانی مسلمان بھی تھے اور شاہ جہان کے عہد مین ہندوؤن کے اعلیٰ عہدہ دارون کی تعداد دوچند ہوگئی تھی

ٹوڈ صاحب اپنی تاریخ راجستان مین لکھتے ہین کہ اکبر کے ۴۱۶ منصبدارون مین ۴۷ راجپوت منصب دار تھے جن کے پاس دو سو سے لیکر دس ہزار تک سپاہ تھی اور کل سپاہ ان پاس ۵۳ ہزار تھی جو کل منصب دارون کی سپاہ پانچ لاکھ سترہ ہزار کا دسوان حصہ تھا ان ۴۷ منصب دارون مین ہزاری سے لیکر پنجہزاری تک منصب رکھتے تھے اور ۳۰ کا دو صدی سے ہزاری تک منصب تھا۔ امیر (جے پور) مارواڑ بیکانیر بوندی جیسلمیر بوندیل کھنڈ و شیخاوت کے راجاؤن کے منصب تھے۔ امیر کے راجہ کا منصب پنجہزاری تھا۔ بیکانیر کا راجہ رای سنگہ چار ہزاری منصب رکھتا تھا چندیری و کرولی و دتیا کے خودمختار راجہ اور بڑی بڑی ریاستون اور شیخاوت کے اعلیٰ درجہ کے زمیندار

چار صدی سے لیکر ہفت صدی تک منصب رکھتے تھے ہم اورنگ زیب سلطنت کے آخر مین ہندو مسلمانون کے اعلی عہدون کے پانے پر زیادہ بحث کرینگے۔

بدآیونی نے لکھا ہے کہ صاحب تاریخ نظامی نے امراء اکبری کا ذکر لکھا ہے جنہین سے اکثر متوفی غیر مرحوم ہین اس لیے ان کے بیہودہ حالات کے ذکرسے مین اپنے قلم کو آلودہ نہین کرتا مشایخ عصر و علماء و حکماء کا ذکر اس نے خوب لکھا ہے طبقات اکبری ہین بعض اعلی درجہ پر منصب دارون کا ذکر نہایت مختصر لکھا ہے اور اس کے بیان اور ابو الفضل اور ماثر الامراء کے بیانون مین کہین کہین اختلاف ہے۔

دانش اندوزان جاوید دولت

پادشاہ نے اس گروہ کی پانچ قسمین کین ہین۔ اول ان بزرگون کی ہین جو اپنی خوش نصیبی سے اسرار بیرونی واندرونی کی بینائی رکھتے ہین اور اپنی والا فطرتی سے اور فراوانی حوصلہ سے دونون مین کمال رکھتے اور پادشاہ کے فیض پذیر ہین دوم وہ جو تدبیر مین صورت پر کمتر نظر رکھتے ہین مگر فروغ دل سے فراوان شناسائی رکھتے ہین۔ سوم معقول و منقول دونون پر نظر رکھتے ہین۔ چہارم نقل مین اشتباہ رکھتے برہان کے سوا کسی کو دستاویز نہین گردانتے پنجم تقلید پیشگی و نقل پرستی کی تنگنا سے باہر قدم نہین رکھتے ہر ہر قسم کے اور فرقہ بہت ہین

ظاہر و باطن آشنا

(۱) شیخ مبارک ناگوری جنکا بیان اوپر ابو الفضل کے بیان مین ہو چکا ہے بدایونی نے جو انکی نسبت لکھا ہے وہ بھی نقل کیا گیا ہے۔

(۲) شیخ نظام امیٹھے وال۔ امیٹھے ایک قصبہ توابع لکھنؤ سے ہے وہ سلوک و جذب دونون رکھتے تھے۔ ابتداء حال مین عام مکتب کے طلبہ مین داخل تھے مگر اپنی فطرت عالی کے سبب سے فنائی

طرف رجوع تھے ہمیشہ آنکھ ورق پر بستہ اور دل حق کے ساتھ پیوستہ رکھتے تھے تھوڑے دنون
مین پیر سے رخصت ہوئے اور تکمیل پاکر قصبہ امیٹھے مین قناعت کرکے گوشہ گزین ہوئے اور کبھی
اس قصبہ سے بسوای چند خدا دوست دوستون کے ملاقات کو نہ جاتے وہ نماز جمعہ سے پیشتر نماز ظہر کی
جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے وہ اپنی کسر نفسی کے سبب سے شاذ و نادر مرید کسی کو کرتے تھے وہ ملاقات
مین ہر شخص سے مناسب حال اُسکے زبان سے کلمہ نکالتے پھر سواے قرآن و حدیث اور مشایخ کبار
کے سخنون کے اور بات نہ کرتے وہ ہر شخص کو خواہ امیر ہو یا فقیر کچھ نقد یا نمک دیتے تھے وہ نمک کو
کہا کرتے تھے کہ بہتر مرضون کی دوا ہے جس کسی کو وہ دشنام دیتے تھے تو پھر تحسین کے قابل وہ کام
کرتا جسپر لعنت بھیجتے تھے وہ کار رحمت کرتا ۹۷۹ھ مین اس دار فنا سے رحلت کی۔

(۲) شیخ نظام الدین نارنولی سلسلہ چشتیہ مین تھے۔ نارنول ہندوستان کا مشہور ہے چالیس برس تک
مسند ارشاد پر استقرار رہا۔ ابتداے جوانی سے آخر عمر تک دہلی مین حضرت قطب عالم خواجہ قطب الدین
بختیار کے عرس مین پیادہ پا جاتے تھے وہ بے تکلفی و بے تعینی سے فقرا اور اغنیا سے برابر نسبت
رکھتے تھے اور سب طرح کے آدمیون کو مرید کرتے تھے وفات انکی ۹۹۷ھ مین ہوئی واہ نظام انکی
تاریخ وفات ہے۔

(۳) شیخ ادھن جونپوری سلسلہ چشتیہ مین تھے۔ عمر طبعی سے بھی زیادہ عمر پائی اُنکے بیٹے پوتے پرپوتے
بہت سے تھے ان کے سامنے بیٹے ایسے بوڑھے ہوگئے تھے کہ معلوم نہین ہوتا تھا کہ باپ کون ہے
اور بیٹا کون شریعت و طریقت و حقیقت سے جوامع الکلم فرماتے تھے کہ نہ عوام ایسی تقریر کرسکین نہ خواص
۹۷۰ھ مین جونپور مین نقاب خفا عالم فنا سے چہرہ پر کھینچی شیخ ادھن تاریخ وفات ہے۔

(۴) میان وجیہہ الدین احمد آباد نسبت انکی علوی مگر انھون نے اس کو شہرت نہ دی وہ علماے کبار
اور کارشناس سے تھے۔ صاحب صلاح و تقوے و مجاہدہ۔ جادہ شریعت پر مستقیم۔ گوشہ
قناعت مین مقیم۔ ہمیشہ درس علوم مین اشتغال رکھتے تھے جمیع علوم عقلی و نقلی مین انکی قدرت
اس مرتبہ پر تھی کہ بہت کم کتابین ایسی تھین جن کا وہ درس نہ دیتے تھے۔ غرض انکے انفاس

مستجر کہ سے فیض ہر وقت پہونچتا تھا بہت آدمی ان پاس محنت زدہ و بیمار دعا کے لئے آتے تھے کبھی وہ اہل دنیا کے خانہ پر نہین گئے بہت ہی کم خانہ و مسجد سے باہر قدم رکھا۔ موٹا کپڑا پہنتے جو کچھ فتوح ہوتی اسکو تقسیم کر دیتے ۹۹۸ھ مین اس سرائے وحشت سے چلدیئے شیخ وجیہ الدین بے الف نام کے تاریخ وفات ہے۔

(۵) شیخ رکن الدین۔ ولد رشید شیخ عبدالقدوس گنگوہی کے ہین۔ ارباب ذوق وحال مین سے تھے۔ اہل حشمت وشوکت پاس کبھی نہین جاتے تھے عزلت نشین تھے۔

(۶) شیخ جلال الدین قنوجی۔ مجذوب سالک تھے ملتان انکے باپ دادا کا وطن تھا وہ قنوج مین رہتے تھے کبھی جذب کی حالت کو غلبہ ہوتا تھا۔ چارپائی کی ادوان گلے مین ڈالکر بازار مین پھرتے تھے اور مصیبت افزا اور درد انگیز فریادین مچاتے تھے اور یہ دائین غیر مکرر وقوع مین آتی تھین

(۷) شیخ الہدیہ خیرآبادی۔ علمار متجرین سے تھے۔ ابتدائے احوال مین برسون درس و افادہ علوم ظاہری مین بسر کی پھر طریقہ صوفیہ پر رجوع کی۔ توکل وتجرید وایثار واختیار کی۔ اہل دنیا کو ترک کیا کسی کی ضیافت بھی قبول نہین کی۔ شیخ سے محمد حسین خان نے ایک دن پوچھا کہ سالار مسعود کہ عوام ہند مین پرستش کرتے ہین کون تھے فرمایا کہ ایک افغان تھا کہ شہید ہوگیا ۹۹۳ھ مین وفات پائی۔

(۸) شیخ عبدالغفور اعظم پوری۔ خاندان چشتیہ مین مرید تھے۔ کمالات صوری ومعنوی رکھتے تھے۔ ہرچند طالب مناسبت کم رکھتا مگر شیخ اس کو بے اختیار اہل خدمت بناتا علوم دین کا درس دیتا کلام بلاغت فرجام اس کا شورانگیز دلون کو راحت پہونچاتا اور زبان معجز بیان اسکی مشتاق جانونکی مرہم بنتی اسکی حسن صورت وخوبی سیرت کی شہرت آلہی تھی۔ علم تصوف مین صاحب تصنیف ہین ۹۸۵ھ مین دارالبقا کو رحلت کی اعظم پور مین مدفون ہوئے۔

(۹) شیخ عبدالعزیز دہلوی۔ صاحب مکارم اخلاق تھے۔

(۱۰) مولانا حسام الدین سرخ لاہوری۔ وہ علمار لاہور سے اختلاف رکھتے تھے علوم دین اور

فلسفہ سے ماہر تھے۔

(۱۱) شیخ پنجو۔ ان کو لوگ غلطی سے بیچو کہتے تھے وہ ۹۶۹؁ھ مین مرگیا۔

(۱۲) مولانا اسمعیل۔ وہ اہل عرب مین سے تھے۔ شیخ حسین کے دوست تھے وہ ہمایون کے مدرسہ دہلی مین درس دیتے تھے وہ بڑے دولت مند تھے اُن کو چورون نے گھر مین داخل ہوکر مار ڈالا۔

(۱۳) مادھو سرستی

(۱۴) مادھو سودھن

(۱۵) میان اسرم

(۱۶) ہرجی سور

(۱۷) وامرور بھٹ

(۱۸) رام تیرتھ

(۱۹) نرسنگہ

(۲۰) پرسندر

(۲۱) آدات

اہل باطن۔

(۲۲) شیخ رکن الدین محمود کمانگر (۲۳) امان اللہ (۲۴) خواجہ عبدالشہید۔ خواجہ ناصر بن عبداللہ احرار کے پوتے نہایت بزرگ صاحب کمال تھے۔ ہندوستان مین پادشاہ نے ان کو پرگنہ جمیاری وظیفہ مین دیا۔ خواجہ کے سبب سے دو ہزار فقرا اور مستحقین پرورش پاتے تھے جب مرنے کے دن آئے تو سمرقند چلے گئے اور کہہ گئے کہ مین اپنی ہڈیون کے لئے جاتا ہون سمرقند مین جاکر چھٹے روز رحلت کی۔

(۲۵) شیخ موسی۔ آہن گر تھے۔ کشف و کرامات مین مشہور تھے اکبر کی اوائل سلطنت مین مرگئے لاہور مین مدفون ہوئے۔

(۲۶) بابی بلاس۔

(۲۷) شیخ علاءالدین مجذوب تھے آگرہ مین رہتے تھے صاحب کمال تھے۔

(۲۸) شیخ یوسف ہرکن۔ مجذوب لاہوری کشف و کرامت مین مشہور۔

(۲۹) شیخ برہان ابن زہد و توکل و تقوی۔ ارباب عزلت و تجرید و استغنا مین سے تھے۔ کالپی مین ایک نہایت تنگ و تاریک حجرہ مین رہتے تھے پچاس سال تک ترک حیوان کیا اور اکثر شیر و شیرینی پر بسر کرتے تھے آخر عمر مین پانی پینا چھوڑ دیا تھا طریقہ مہدویہ رکھتے تھے اگرچہ علوم عربیہ نہین پڑھے تھے مگر قرآن کی تفسیر خوب کرتے تھے ۹۶۷ھ مین انتقال کیا۔ سو برس کی عمر تھی اپنے حجرہ مین مدفون ہوئے۔

(۳۰) شیخ گیو بابا۔ مجذوب گوالیاری سادات حسینی سے تھے۔ ابتدائے حال مین سپاہ گری کرتے تھے پھر نوکری کو ترک کرکے سقے بنگئے۔ راتون کو بیوہ عورتون کے گھر مین پانی پہنچاتے تھے اور خلائق کیے اجرت پانی پلاتے پھر ایسا جذبہ ہوا کہ سب کاروبار کو چھوڑ دیا اور محاورہ کے موافق باتین نہ کرتے گوالیار کے بازار کے ایک محلہ مین کہین رہتے تھے مراقبہ مین سرافگندہ رہتے تھے۔ جو کوئی حاضرین مین سے سوال لیتا اس کا جواب بطور ہذیان کے دیتے۔ راتونکو ہمیشہ قیام کرتے کبھی روتے کبھی ہنستے ۹۷۲ھ مین رات کو نعرہ زنان اپنے دروازہ سے گر کر جان بحق تسلیم کی۔ فیضی نے تاریخ انکی گیو مجذوب کہی ہے۔

(۳۱) شیخ ابو اسحق فرنگ یا مجذوب کالو لاہوری۔ انکے باپ کا نام کالو تھا لاہور کے آدمی انکے معتقد تھے وہ دانشمند متبحر و متوکل و متورع تھے۔ ارباب دنیا کے گھر پر کبھی قدم نہ رکھا اور زبان سے کچھ نہ مانگا۔ ہمیشہ درس کہتے۔ صوفی مشرب تھے جمیع علوم کے جامع تھے۔ ہمیشہ حق کے ساتھ مشغول رہتے جب تک ان سے کچھ پوچھو نہین وہ بات نہین کرتے تھے پھر ایک مجذوب کے مرید ہونے سے انکا دل نفسانیت سے پاک ہوگیا علما رسمی سے زیادہ ممتاز ہوگئے ۹۹۶ھ مین انتقال کیا عمر سو سال سے زیادہ تھی۔

(۳۲) شیخ داؤد جھنی وال۔ جھنی لاہور کے قریب ایک قصبہ ہے ان کے باپ دادا عرب سے آنکر شیث پور مین ملتان کے اندر آباد ہوئے اور شیخ داؤد یہین پیدا ہوئے مان باپون کے

جلد مرنے سے وہ یتیم ہوگئے ان کے بڑے بھائی رحمت اللہ نے انکی پرورش کی لاہور مین آن کر مولانا اسماعیل آچہ کی خدمت مین ایسی تحصیل علم کی کہ ایک علامی ہوگئے حضرت غوث الاعظم کی روح نے ان مین حلول کیا۔ شیخ ہر سال کئی دفعہ جو کچھ فتوح سے حاصل ہوتا تھا سب کو لٹا دیتے تھے سوائے مٹی کی ہنڈیا اور پرانے بوریہ کے بیوی پاس کچھ نہ چھوڑتے باوجود اس کے حضرت غوث الاعظم کا میلاد بڑی دھوم دھام سے کرتے لاکھ آدمی آہین جمع ہوتے سب کو خانقاہ کے لنگر سے کھانے کو ملتا وہ صاحب کشف وکرامات تھے ریاضات شاقہ کرتے تھے۔ علوم ظاہری کو ابتدا مین تحصیل کیا پھر متوکل وگوشہ نشین ہوکر اہل دنیا کے گھر کبھی نہ گئے سلیم شاہ نے بلایا تو عذر کیا کہ دعاے غائبانہ کافی ہے دنیا دارونکی صحبت سے بھاگتے تھے۔ الفقر فخری ان کا شعار تھا ہمیشہ ایثار اور طالبون کو ارشاد کرتے سنہ ۹۸۲ مین بارگاہ وصال مین انتقال کیا۔ شیخ داؤد تاریخ وفات ہے۔

(۴۴) شیخ سلیم چشتی۔ شیخ فریدالدین شکرگنج کی اولاد مین سے ہین اصل انکی دہلی ہے خشکی و تری کی راہ سے دو دفعہ ہندوستان سے حرمین الشریفین طواف کو گئے۔ روم۔ بغداد۔ شام نجف اشرف اور بلاد مغرب کی سیر کی۔ بائیس حج کئے اول مرتبہ چودہ اور دوسرے مرتبہ چار مکہ معظمہ مین اور مدینہ طیبہ مین چار سال اقامت کی۔ عرب مین انکا نام شیخ الہند مشہور ہے سلطان سلیم کی پیدایش اور بادشاہ کی عقیدت ان کے ساتھ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ عربی عبارت لکھنے مین بڑی مہارت تھی۔ ایک مکتوب عربی ان کا تاریخ بدایونی مین لکھا ہے سنہ ۹۷۹ مین انتقال کیا۔ شیخ ہندی تاریخ وفات ہے۔

(۴۵) شیخ محمد غوث گوالیاری سلسلہ نظاریہ مین سے ہین شیخ بایزید بسطامی تک ان کو نسبت ہے۔ ابتدائے حال مین بارہ برس چنار کے دامن کوہ مین اور اس نواحی کے اندر ریاضت شاقہ کھینچین۔ اور غارون مین مسکن رکھا اور درخت کے پتون کو غذا بنایا۔ باقی حال اقبال نامہ مین پڑھو۔

اسّی برس کی عمر مین آگرہ مین رحلت کی اور گوالیار مین مدفون ہوئے۔ لفظ من کبھی زبان پر نہین آیا۔ لفظ فقیر سے اپنے تیئن تعبیر کرتے۔ غلہ کے دینے کے وقت یہ کہتے کہ فلان شخص کو اسقدر سیم و نون دیدو تاکہ لفظ من زبان پر نہ آئے۔ ایک کروڑ تنکہ مدد معاش تھی۔ تواضع ایسی تھی کہ ہندوؤن کی تعظیم سر و قد دیتے۔ اس سبب سے اہل فقر کچھ اُن پر ملامت کرتے۔ مآثر مین لکھا ہے کہ شیخ کی نو لاکھ روپیہ کی جاگیر تھی اور سو ہاتھی ان کی سپاہ مین تھے۔ اکبر ان کا مرید تھا۔

(۳۵) رام بہادر۔ (۳۶) جدروپ۔ معقول و منقول کے جاننے والے۔

(۳۷) میر فتح اللہ شیرازی۔ سادات شیراز سے تھا۔ اپنے زمانہ مین اعلم العلما تھا۔ مدتون تک فارس کے حکام و اکابر کا مقتدا رہا تھا علوم عقلی حکمت و ہیئت و ہندسہ و نجوم و رمل و حساب و طلسمات و نیرنجات و جر اثقال خوب جانتا تھا ان فنون مین اسکی ایسی استعداد تھی کہ اگر بادشاہ رصد بنوانے پر متوجہ ہوتا تو وہ بنا دیتا۔ علوم عربیہ و حدیث و تفسیر و کلام سے خوب واقف تھا بہت سی اسکی تصانیف ہین جو مستند سمجھی جاتی ہین۔ میر اگرچہ محاسن ہین بغایت خلیق و متواضع نیک خلق تھا۔ مگر نعوذ باللہ جس وقت وہ پڑھاتا تھا تو شاگردون کو فحش گالیان دیتا اس کے سبب سے اسکے شاگرد بہت کم تھے اور کوئی شاگرد رشید لایق بھی نہین ہوا۔
چند سال دکن مین عادل خان پاس رہا وہ اس کا بہت معتقد رہا۔ پھر شہنشاہ اکبر کی خدمت مین آیا۔ عضد الملکی کا خطاب پایا کشمیر مین ۹۹۷ھ مین وفات پائی۔ تخت سلیمان مین مدفون ہوا۔ فرشتہ بود اسکی تاریخ ہے۔ طبقات مین لکھا ہے کہ اسنے ہوا چکی بنائی تھی کہ خود حرکت کرتی تھی آٹا پیستی تھی۔ ایک آئینہ بنایا جو دور اور نزدیک کی اشکال غریبہ دکھاتا تھا۔ ایک چرخ بنایا کہ جس سے بارہ بندوقین سر ہوتی تھین کچھ دنون وہ مہمات عدالت و اشغال دیوانی مین مشغول رہا۔ ابو الفضل اور اس حکیم کے درمیان جو مراسلت ہوئی ہے وہ ایک فرد دانش پڑھنے کے قابل ہے۔

(۳۸) میر مرتضے۔ امیر سید شریف جرجانی کے بنائرمین سے ہے اس نے عالم متبحر ابن حجر مکی سے حدیث پڑھی تھی ۹۷۰ھ مین وہ ہندوستان مین دکن مین آیا اور دکن سے آگرہ مین گیا اور یہان عطایائے خسروانی سے بہرہ مند ہوا۔ دہلی مین ۹۷۴ھ مین وفات پائی۔ حضرت امیر خسرو کے مقبرہ مین دفن ہوا۔ پھر نعش اُسکی مشہد مین بھیجی گئی۔ علامہ زعالم رفت۔ تاریخ انتقال ہے۔ علوم عقلی خوب جانتا تھا ریاضیات وحکمت کا درس دیتا تھا۔

(۳۹) مولانا سعید ترکستانی۔ اس کو سمرقندی بھی کہتے ہین ۹۷۰ھ مین ماوراالنہر سے ہندوستان مین آیا اور مراحم پادشاہانہ سے ممتاز ہوا اپنے زمانہ کے بڑے دانشمندون مین شمار ہوتا۔ پادشاہ کو اسکی صحبت بہت پسند تھی درویشی وانکسار طبیعت پر غالب تھا خوش طبع تھا تقریر فصیح وملیح تھی شاگردون پر مشفق ومہربان تھا۔ ہندوستان سے کابل گیا اور وہان ۹۷۰ھ مین رحمت خداوندی کے ہمسایہ مین آیا۔

(۴۰) حافظ تاشکندی۔ جس کو ماوراالنہر مین حافظ کہتے تھے وہ دانشمند متبحر تھا کل علوم کو خوب جانتا تھا۔ خصوصاً عربیت مین کامل تھا۔ علما ماوراالنہر اسکی بزرگی مانتے تھے۔ سپاہی وضع تھا۔ ہمیشہ ترکونکی طرح ترکش کمر مین باندھکر سوار ہوتا تھا ۹۷۶ھ مین ہندوستان مین آیا۔ پادشاہی ملازمت سے مشرف ہوا۔ انعامات وافر سے سرفراز ہوکر گجرات کی راہ سے حرمین شریفین کی زیارت کو گیا۔ پھر روم مین گیا جہان اُسکی عزت ہندوستان سے دہ چند ہوئی۔ وزارت کے لئے اس سے کہا اُس نے انکار کیا۔ اپنے وطن کو مراجعت کی اور ملک عدم کی راہ لی۔

(۴۱) مولانا شاہ محمد۔ شاہ محمد ارباب مناصب کی سلک مین داخل تھا شجاعت وشہامت کی صفت سے موصوف تھا کرم وکرامت سے کہ لازمۂ عرب ہے موسوم۔ حسن ادب وتواضع مین معروف۔ علوم عربیہ وادبیہ مین مہارت ایسی تھی کہ اُسکو ثانی کسائی کہنا چاہیے اسکی بہت رقعے تاریخ بدایونی مین لکھے ہین۔

(۴۲) مولانا علاؤالدین - وہ لارستان سے آیا تھا اس لیئے اس کو لاری کہتے ہین وہ مولانا کمال حسین کا بیٹا اور مولانا جلال دوانی شافعی کا شاگرد تھا وہ کچھ مدت تک حضرت شہنشاہی کا استاد بھی رہا۔ دربار مین ایک دفعہ وہ خان اعظم سے آگے کھڑا ہوگیا تو میر توزک سے اُسنے کہا کہ پیچھے ہٹو یہ کہکر کہ کس لئے احمقون سے آگے ایک عالم نہ کھڑا ہو وہ دربار سے چلا گیا اور پھر کبھی نہین آیا سنبل مین چار ہزار ٹنکہ کی زمین اس کو سبوزعال مین ملی تھی یہین وہ مرگیا۔

(۴۳) مولانا شیخ حسین اجمیری - مشہور ہے کہ وہ حضرت خواجہ معین الدین سنجری چشتی کی اولاد مین سے ہے بعض دشمنون کے مشائخ فتحپوری کی رہنمونی سے جو اپنے ابناء جنس کے استیصال مین مساعی جمیل کرتے تھے یہ ثابت کیا کہ حضرت معین الدین چشتی کی اولاد نہ تھی اس لئے وہ اجمیر کی تولیت سے محروم کیا گیا۔ شیخ کو بڑا مقدور تھا اس صوبہ مین پادشاہانہ زندگی بسر کرتا تھا اس لئے پادشاہ نے اس کے اخراج کا حکم مکہ معظمہ کیطرف دیا۔ وہ حج کو گیا اور سفر حجاز سے آن کر پھر پادشاہ کے پاس حاضر ہوا مگر شرائط آداب جو ایجاد ہوئی تھین وہ نہ بجا لایا۔ اس سے پادشاہ نے اُسے بے اخلاص جانا۔ قلعہ بکر مین حبس کا حکم دیا۔ چند سال یہان قید رہا شیخ کے معتقدون کی سفارش سے بکر سے اسکی طلب کا حکم ہوا وہ اور قیدیون کے ساتھ پادشاہ کے روبرو آیا۔

اور قیدیون نے پادشاہ کو سجدہ کرکے خلاصی پائی مگر اس پیر معمر ہفتاد سالہ نے بوضع قدیم تعظیم و تسلیم کی۔ اس لئے پھر پادشاہ نے اس کو بکر بھیجا وہان تین سو بیگہ وجہ معاش مقرر کردی اس کی مان بڑھیا اجمیر مین تھی بیٹے سے ملنے کے لئے بیتاب تھی مگر اس سے ملنے کی بھی اجازت نہین دی اور کہدیا کہ وہ اس کو اپنے پاس بلالے ہمیشہ اسکی ریاضت و عبادت مین گذرتی صائم الدھر و قائم اللیل تھا۔

(۴۵) مولانا میر کلان - ملا خواجہ کہ خراسان کے مشائخ کبار مین سے تھے ان کا پوتا یہ ہے

شیخ جلال الدین ہروی کا مرید تھا سنہ ۹۸۱ھ میں اسّی برس کی عمر میں آگرہ میں مرا اور وہیں
مدفون ہوا۔ اس خیال سے ساری عمر مجرد رہا کہ مبادا اس کی بیوی اسکی ماں کی
اطاعت نہ کرے۔ ماں اس کی ایک برس بعد اس کے مرنے سے مری۔ جہانگیر کا
اول اُستاد وہی تھا۔

(۴۶) غازی خان بدخشی۔ اس کا نام قاضی نظام تھا۔ ملا عصام کا شاگرد تھا عقلی و نقلی
دانش میں یکتائے روزگار تھا شیخ حسین خوارزمی کا مرید تھا۔ طریقہ صوفیہ صافیہ سے مناسبت
تمام رکھتا تھا اپنے ذہن رسا و فکر بلند سے بدخشان میں درجہ امارت حاصل کیا۔ کابل کے
محاصرہ میں منعم خان اور مرزا سلیمان کی صلح اسی نے کرائی۔ سنہ ۹[illegible]ھ میں پادشاہ کی خدمت
میں جونپور میں آیا ایسی خدمات شائستہ بجالایا کہ ایک ہزاری منصب پایا۔ غازی خان
کا خطاب پایا سنہ ۹۹۰ھ میں ستر برس کی عمر میں قصبہ اودہ میں سفر واپسین پیش آیا۔ کتاب
تصانیف معتبر ہے شیخ علامی نے اس کے حال میں لکھا ہے کہ سپاہ گری سے اپنی دانائی
کا چہرہ روشن کیا اور شمشیر سے اپنی قلم کا مرتبہ بڑھایا۔ صوفیان صافی کے طور رسمی میں
فروتنی کے ساتھ نیایش کرتا اور شائستگی کے ساتھ ظاہری آزادی رکھتا۔ ہمیشہ چشم گریان
اور دل تفسیدہ رکھتا۔ کہتے ہیں کہ اول جسنے اکبر کے آگے سجدہ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا وہ یہی تھا
ملا عالم کابلی کہ فضلاء وقت سے تھا اس کو ہمیشہ حسرت رہی کہ کاش میں اس امر کا مخترع ہوتا

(۴۷) مولانا صادق حلوائی۔ سمرقندی ہے مکہ سے پادشاہ کی خدمت میں چند سال
ہندوستان میں رہکر کابل گیا اور وہاں افادہ سے شغل رکھتا تھا۔ مرزا محمد حکیم کو درس
دیتا تھا۔ پھر سمرقند میں چلا آیا سنہ ۱۰۰۱ھ میں زندہ تھا۔

(۴۸) حاجی ابراہیم پادشاہ۔ نقلی کلام سے آگاہ اور عقلی کلام کا شناسا

(۴۹) مولانا پیر محمد۔ نمبر ۲۰ منصب داروں کا دیکھو۔

(۵۰) مولانا عبدالباقی۔ وہ صدر تھا۔

(۵۱) مرزا مفلس اوزبک۔ ملا احمد جنید کا شاگرد تھا۔ علوم جدل و مناظرہ مین مستعد و مستحضر مگر تقریر فصیح نہین تھی۔ اثناء درس مین ایسی ادائین کرتا تھا کہ ہنسی آتی تھی بدقیافہ و کوسہ تھا۔ صلاح و تقوے رکھتا تھا۔ ماوراالنہر سے ہند مین آیا۔ چار سال تک آگرہ کی مسجد خواجہ معین الدین فرنخودی مین درس دیا اور پھر حج کو گیا دہلی ستر برس کی عمر مین رحلت کی

(۵۲) مولانا زادہ لشکر۔

(۵۳) مولانا محمد۔ وہ لاہور مین رہتا تھا سنہ۱ مین نوے برس کی برس کی عمر تھی بدایونی اس کو مولانا محمد مفتی لکھتا ہے۔

(۵۴) قاسم بیگ۔ وہ واحد العین قندھاری ملا تھا علوم عقلی و نقلی کا درس دیتا۔

(۵۵) مولانا نورالدین ترخان۔ جامع اقسام علوم حکمت تھا۔ شاعر تھا مگر آخر عمر مین شعر سے توبہ کی۔ نوری تخلص تھا۔ وہ مدت تک دہلی مین مقبرہ ہمایون کا متولی رہا پہلے وہ مرگیا۔ طبقات مین لکھا ہے کہ ریاضی دان اور نجومی تھا۔ مآثر مین لکھا ہے کہ وہ خراسان مین جام مین پیدا ہوا اور مشہد مین تعلیم پائی۔ وہ بابر کے پاس آیا اور پھر ہمایون کا رفیق رہا۔ اس لئے ان دونون کو اسطرلاب کا شوق تھا۔ وہ ہمایون کے ساتھ عراق گیا اور بیس برس تک اسکی خدمت مین رہا۔ اس کا تخلص نوری تھا۔ اس کو نوری سفیددون بھی کہتے ہین۔ کچھ دنون سفیدون اپنی جاگیر مین رہا تھا۔ اکبر نے اس کو خطاب خان کا دیا۔ پھر ترخان کا اور سمانہ مین اس کو مقرر کیا۔

(۵۶) نراین (۵۷) مادھو بھٹ (۵۸) سری بھٹ (۵۹) بشن ناتھ (۶۰) رام کشن (۶۱) بھدھر مصر (۶۲) باسدیو مصر (۶۳) باہن بھٹ (۶۴) بدیا نواس (۶۵) گوری ناتھ (۶۶) گوپی ناتھ (۶۷) کشن پنڈت (۶۸) بھیا چارج (۶۹) بھاگیرت بھٹاچارج

(۷۰) کاشی ناتھ بھٹاچارج۔

(۱۷) حکیم مصری طب مین صاحب علم و عمل۔ علوم نقلی مین ماہر و علوم عربیہ مین مثل دعوات اسماء و علم حروف سے واقف۔ کشادہ رو و خوش صحبت و مبارک قدم کبھی کبھی مضحک شعر بھی کہتا تھا۔ سیدھا سادھا بے غرض۔ بعض معالجات مین مسیحائی کی۔ برہان پور خاندیس مین عمر پوری ہوئی۔

(۲۷) حکیم الملک۔ اُن کا نام شمس الدین تھا وہ اور اکثر حکیمونکی طرح گیلان سے پادشاہ کی ملازمت کے لیے آیا تھا حکمت و طب مین اپنے وقت کا جالینوس تھا۔ علوم نقلی و رسمی مین سب سے مستثنیٰ و ممتاز۔ بندگان خدا کا خیر خواہ۔ اپنے دین مین راسخ و ثابت قدم۔ آشنا پرور۔ ہمیشہ طلبہ کا مزی ان کو بغیر پڑھائے کھانا نہ کھاتا۔ مشائخ و علماء کے معرکہ کی ویرانی ہوئی تو حسب الامکان اس نے مخالفان دین سے جدل کی آخر کو اُسے تاب نہوئی۔ مکہ معظمہ رخصت لے کر چلا گیا اور وہان ۹۸۸ھ مین فوت ہوا۔

(۳۷) ملا میر۔ اس کو طبقات مین ملا میر طیب ہراتی اور ملا عبدالحق یزدی کا پوتا لکھا ہے

(۴۷) حکیم ابوالفتح گیلانی۔ نمبر ۱۱۲ منصب دارون کا دیکھو۔

(۵۷) حکیم زنبیل بیگ۔ مرزا محمد طبیب شیرازی کا بھائی ہے۔ علم مین ممتاز اور پادشاہی مقربون مین سرافراز تھا۔

(۶۷) حکیم علی گیلانی۔ علوم و فنون مین خصوصاً طب و ریاضی مین پوری مہارت تھی اپنے وقت مین اطباے حاذق مین سے تھا۔ کمال پریشانی و افلاس مین اپنی ولایت سے ہند مین آیا تھا اکبر کے ملازمون مین داخل ہوا ایک دفعہ پادشاہ کے حکم سے بول مریض و صحیح و گاؤ و خردن کے قارورون کو اس کے روبرو لائے۔ اس نے سب کو اپنے قیاس سے مطابق واقع کے بتلا دیا اس وقت سے اس کا مرتبہ اور اعتبار زیادہ ہوا۔ پادشاہی مصاحبت و قرب کی دولت حاصل ہوئی اور ثروت و مکنت مین اور امرا ر

کے ساتھ ہمسر و مساوی ہوگیا۔ بیجاپور مین بطور سفیر گیا۔ علی عادل شاہ والی بیجاپور نے اسکا استقبال کیا۔ سامان نفایس تیار کرکے حکیم کو روانہ کیا چاہتا تھا کہ ناگہان ۹۹۸ھ مین وہ مرگیا۔ حکیم علی نے ایک عجیب حوض بنایا تھا۔ کہ اس کے اندر سے ہوکر ایک مکان کے اندر جانے کی راہ جاتی تھی اور تعجب یہ ہے کہ اس راہ سے پانی اس مکان مین نہین جاتا تھا شہنشاہ اکبر خود حوض مین غوطہ مارکے اور تین زینے اُترکر اس مکان مین گیا جسمین دس بارہ آدمی سماتے تھے فرش خواب و رخت پوشش تھا۔ حاضری طعام موجود۔ چند کتابین طاق پر رکھی ہوئی۔ ایک قطرہ پانی کا اس کے اندر نہ جاتا تھا۔ پادشاہ وہان کچھ دیر ٹھیرا۔ آدمیون کا عجیب حال جب تک رہا کہ وہ باہر آیا ۱۰۰۲ھ تک منصب ہفت صدی پر وہ پہونچا۔ جب پادشاہ اسہال کے مرض مین مبتلا ہوا اس نے علاج کیا اس کا حال پادشاہ کے علالت کے بیان مین پڑھلو۔

۱۰۱۸ھ مین جہانگیر اس حوض کی سیر کو آیا اور حکیم کو منصب دو ہزاری عنایت کیا اس کے چند روز بعد وہ مرگیا وہ ہر سال چھ ہزار روپیہ کی دوائین اور شربت غریبون کو مفت تقسیم کرتا تھا۔

(۷۷) حکیم حسن۔ اسکی حذاقت کی شہرت تھی مگر علم اس کو بہت نہ تھا صاحب مکارم اخلاق و محامد اوصاف تھا۔

(۷۸) حکیم ارسطو۔

(۷۹) حکیم فتح اللہ۔ کچھ کتب طب اسنے پڑھی تھین اور علم ہیئت سے واقف تھا قانون کی شرح فارسی زبان مین لکھی۔ جہانگیر کی اول سال سلطنت مین منصب ہزاری تین سو‌ا رکھتا تھا۔ پادشاہ نامہ مین لکھا ہے کہ وہ اپنے ملک کو چلا گیا اور خودکشی کی اس کا پوتا فتح اللہ شاہ جہان کا طبیب تھا۔

(۸۰) حکیم مسیح الملک۔ درویش و پاک اعتقاد تھا۔ طبابت مین کامل تھا دکن سے

ہند مین آیا شاہزادہ مراد کے ساتھ گجرات و دکن مین گیا۔ مالوہ مین اجل نے رشتہ امل کو کوتاہ کیا۔

(۸۱) حکیم جلال الدین مظفر اردستانی۔ اردستان ایران مین ایک شہر کاشان و اصفہان کے درمیان واقع ہے۔ کم عمری مین شاہ طہماسپ کا طبیب تھا اور نوجوانی مین وہ ہند مین آیا تو اسکی قدر ہوئی۔ اگرچہ علمیت بہت نہین رکھتا تھا مگر تجربہ اس کا پورا تھا مزاج مین اس کے صلاحیت تھی اور ہاتھ مین شفا۔

(۸۲) حکیم لطیف اللہ گیلانی۔ طب مین اسکی حذاقت مشہور ہے علم اس کا خوب تھا۔

(۸۳) حکیم سیف الملک لنگ۔ اس کو سیف الملوک بھی اس سبب سے کہتے ہین کہ اسنے کئی اپنے پادشاہی مریضون کو مارا تھا وہ دماوند کا رہنے والا تھا فضیلت علمی و عملی کے ساتھ رذیلت شعر و ہجو کو جمع کیا تھا شجاعت تخلص تھا۔ یہ اتفاقات سے ہے جس مریض کے سرپر وہ جاتا پیک اجل اس دردمند کے پاس آتا۔ اس سبب سے ظرفا نے سیف الحکما اس کا نام مشہور کیا تھا۔ چند سال بیرام خان کے عہد مین ہند مین رہا اور پھر اپنے ملک کو چلا گیا۔

(۸۴) حکیم ہمام۔ حکیم ابوالفتح گیلانی کا بھائی ہے اس کا نام ہمایون تھا جب اکبر شہنشاہ کی خدمت مین آیا تو پاس ادب سے اپنا نام ہمایون قلی رکھا پھر پادشاہ نے حکیم ہمام کے نام سے مشہور کیا۔ خط شناسی و شعر فہمی مین یگانہ تھا طبیعات و طبابت سے بھی آشنا تھا شگفتہ پیشانی مارسا گوہر شیوا زبان۔ ندیم منش تھا۔ اگرچہ منصب شش صدی اور بکاول بیگی کی خدمت رکھتا تھا مگر پادشاہی مصاحبت و قرب مین بلند پایہ تھا ۱۲۹۳ھ مین وہ عبداللہ خان والی توران پاس بھیجا گیا اور والی توران کو پادشاہ نے لکھا کہ حکیم ہمام مخلص راست گفتار و زمرد درست کردار ہے ابتدائے ملازمت سے بساط قرب کا ملازم رہا ہے اسکی دوری کسی وجہ سے ہم نے نہین تجویز کی برسم رسالت اسکو بھیجتے ہین ہماری ملازمت مین چونکہ اسکی نسبت متحقق ہے اس لیئے وہ مدعا و نکتہ بے واسطہ موقف عرض مین پہونچائیگا اگر آپکی مجلس شریعت مین یہی اسلوب مرعی ہوگا تو ہم مین اور

تم مین مکالمہ بے واسطہ ہوگا۔ اسکی غیبت مین پادشاہ نے کئی دفعہ فرمایا کہ جب سے حکیم ہمام
گیا ہے کھانے کی لذت جاتی رہی ہے۔ حکیم ابوالفتح سے پادشاہ نے کہا کہ تیری برادری
مین حکیم ہمام کی جدائی سے کسی کا دل ایسا نگران نہوگا جیسا ہمارا دل ہے۔ حکیم ہمام کی مثل
کب پیدا ہوتے ہین سنہ ۹۹۳ مین توران سے اس نے معاودت کی۔ ابوالفتح کی موت پر
ایک ماہ گذرا تھا۔ جب وہ پادشاہ پاس آیا تو اسکی تسلی کے لیئے پادشاہ نے کہا کہ تیرا تو ایک
بھائی مرا ہے اور میرے دس بھائی سنہ ۱۰۰۴ھ مین تپ دق مین ۶ مہینے تک مبتلا رہا۔
پھر پیمانۂ عمر لبریز ہوا اس کے دو بیٹے تھے ایک حکیم حاذق دوم خوشحال۔

(۸۵) حکیم عین الملک۔ علم مین رتبہ عالی رکھتا تھا اور صاحب اخلاق حمیدہ تھا۔ ماں کیطرف سے
محقق دوانی کے ساتھ اس کو نسبت تھی۔ ابتدا مین وہ پادشاہ کی بزم و رزم مین شریک
ہمصحبت ہوتا سنہ ۹ جلوس مین احمدآباد مین چنگیز خان پاس بھیجا گیا وہ خان مذکور سے پیشکش
لے کر واپس آگرہ مین پادشاہ کی خدمت مین آیا سنہ ۱۷ مین اعتماد خان گجراتی پاس پادشاہ
کا دلاسانامہ لے کر گیا اور اس کو مع ابوتراب کے پادشاہ کی خدمت مین لایا سنہ ۱۹ مین پادشاہ کے
ساتھ دیار شرقی مین گیا۔ عادل خان حاکم بیجاپوری کی رہنمائی کے لئے دکن مین گیا۔
سنہ ۲۲ مین وہان سے واپس آیا۔ پھر حدود سنبل مین فوجدار رہا سنہ ۲۶ مین عرب بہادر و
نیابت خان نے اس نواح مین شورش اُٹھائی تو اُس نے قلعہ بریلی کو نہایت مستحکم کیا۔
اپنے حسن تدبیر سے اُس نے نیابت خان کو اپنے پاس بُلا لیا۔ لڑ کر مخالفون کو پریشان کیا
اسی سال بنگالہ مین صدارت پر سرفراز ہوا سنہ ۳۱ مین صوبہ آگرہ مین بخشی ہوا پھر وہ خان اعظم کے ہمراہ
دکن گیا۔ خان مذکور نے اسکی جاگیر ہنڈیہ کو بدل دیا تھا اس لیے سنہ ۳۵ مین بے طلب وہ پادشاہ پاس
چلا آیا۔ پادشاہ نے دربار بند کیا۔ بعد دریافت کیفیت کورنش کی پروانگی ہوئی اور اپنے پرگنہ پر
بحال ہوا سنہ ۱۰۰۳ مین عدم آباد مین گیا شعر کہتا تھا۔ دوائی تخلص کرتا تھا۔ منصب پانصدی رکھتا
تھا۔ پرانی بریلی مین مرزائی محلہ مین ایک مسجد جس کا نام مرزائی یا پادشاہی مسجد ہے تعمیر کی اسکے

کتابہ مین ۹۸۷ھ لکھے ہین اس سن مین سنبل کا فوجدار تھا۔

(۸۶) حکیم شفائی - اس کا تخلص شفائی تھا وہ اپنے تئین مظفر ابن محمد الحسینی الشفائی کہتا تھا وہ اصفہان مین پیدا ہوا تھا۔ شاہ عباس صفوی کا دوست تھا ۱۰۳۷ھ مین اس کا انتقال ہوا۔ اسکی تصنیف سے ایک مثنوی ہے۔

(۸۷) حکیم نعمت اللہ۔ (۸۸) حکیم دوائی (۸۹) حکیم طالب علی (۹۰) حکیم عبدالرحیم۔ (۹۱) حکیم روح اللہ (۹۲) حکیم فخرالدین علی (۹۳) حکیم اسحاق (۹۴) شیخ حسن (۹۵) شیخ بلیا شیخ حسن طبیب سرہندی کا بیٹا ہے جراحی مین کمال تھا۔ اکبر کو جو زخم شکار مین ہرن نے لگایا تھا اس کا علاج اُسنے خوب کیا تھا۔

(۹۶) مہادیو (۹۷) بھیم ناتھ (۹۸) نارائن (۹۹) سیواجی۔ طبقات مین یہ اور ہندو حکیم لکھے ہین: بھیرون۔ جو کابل مین جراح تھا۔ درگا مل بڑا کمال تھا درگا مل بڑا جراح تھا۔

تقلید ملتیہ و نقل پرست

(۱۰۰) میان حاتم سنبلی۔ عالم جامع معقول و منقول تھا۔ خصوصاً کلام و اصول و فقہ و عربیت مین چالیس دفعہ اُسنے مفتاح و مطول بابسم اللہ سے تاتمت تک پڑھائی۔ شیخ عبدالقادر بدایونی کا استاد تھا ۹۶۸ھ مین عالم فانی کو گیا۔ شیخ عبدالحلیم اس کا لایق بیٹا تھا جو ۹۸۹ھ مین پدر بزرگوار سے جا ملا باقی اور چند پسر ناخلف وارث تھے۔

چند بناز پرورم مہر بتان سنگدل ۔۔۔ یاد پدر نمی کند این پسران ناخلف

(۱۰۱) میان جمال خان۔ دہلی مین مفتی تھا اپنے باپ شیخ نصیرالدین اور اپنے بھائی شیخ لاون کا شاگرد تھا۔ قوم کا کنبوہ تھا۔ اپنے زمانہ مین اعلم العلماء تھا۔ علوم عقلیہ و نقلیہ مین خصوصاً فقہ و کلام و عربیت و تفسیر مین بےنظیر تھا مفتاح کی دو شرحون پر محاکمہ لکھا ہے۔ عضدی کو کہ انتہا کی کتاب ہے چالیس مرتبہ اول سے آخر تک پڑھایا ہے۔ ہمیشہ درس کہتا۔ افادہ علوم دینی فرماتا ملوک و سلاطین کے گھر کبھی نہین جاتا

حکام کے نزدیک معزز و محترم اکثر شاگرد اسکے دانشمند تھے عمر اسکی نوے برس سے بھی کچھ زیادہ تھی ۹۸۴ھ میں دار البقا کو رحلت کی۔

(۱۰۲) شیخ عبد القادر۔ اچہ کا رہنے والا اور مخدوم شیخ حامد قادری کا بیٹا تھا جو چاندپور ضلع ملتان میں بطور امانت کے مدفون ہوا تھا۔ عبد القادر اور شیخ موسیٰ کے درمیان سجادہ مشیخت کی بابت مناقشہ رہتا تھا شیخ موسیٰ اکثر اوقات لشکر میں برسوں رہا کرتا تھا شیخ نے فتحپور میں ایک شب بادشاہ کو کوکنار کھانے کو منع کیا اس لئے بادشاہ کے ساتھ مصاحبت راست نہ آئی ایک دن وہ دیوانخانہ فتحپور میں جماعت سے فارغ ہو کر نفل پڑھتا تھا بادشاہ نے کہا کہ شیخ نماز نفل اپنے گھر میں پڑھنا۔ اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ ملک نہیں ہے کہ اس میں آپکا حکم ہو۔ بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر کہا کہ شیخ کیا جاہل ہے۔ جب تو ہم سے ملک نہیں چاہتا تو ہمارے ملک میں بھی نہ رہو۔ اسی وقت شیخ باہر آیا۔ مدد معاش چھوڑکر اور اپنے بھائی کے نزاع کو ترک کرکے اچہ میں چلا آیا۔ شیخ موسیٰ نے باپ کے عظام رمیم کو اچہ میں لاکر دفن کیا اور اتباع شریعت کیا۔ فتوحات اتنی ہوتی تھیں کہ کسی اور مدد معاش کی حاجت نہ تھی بعد چند سال کے اُسنے بادشاہی نوکری قبول کی امرائے پانصدی میں داخل ہوا شیخ موسیٰ بادشاہ کے حضور میں نماز کے وقت آتا۔ میں دیوانخانہ خاص و عام میں اذان کہکر نماز پڑھتا اور کوئی اسکو کچھ نہ کہتا۔ ملتان میں اسکو جاگیر ملی۔ شیخ عبد القادر فقر کی عزت و جاہ میں کامیاب ہوئے۔

(۱۰۳) شیخ احمد۔ طبقات میں اسکو شیخ حاجی احمد لاہوری لکھا ہے۔

(۱۰۴) مخدوم الملک۔ یہ خطاب ہے مولانا عبد اللہ سلطان پوری کا ہے وہ کتب عصمت انبیا اور شمائل النبی کا مصنف ہے۔ ہمایون بادشاہ نے اس کو خطاب مخدوم الملک اور شیخ الاسلام کا دیا تھا وہ بڑا متعصب سنی تھا۔ ابوالفضل کو ابتدا سے وہ جانتا تھا کہ یہ بڑا مفسد ہے۔ اکبر کے خیالات کے باب میں اس کا حال پڑھو ۹۹۰ھ میں گجرات میں مکہ معظمہ سے مراجعت کرکے احمد آباد میں فوت ہوا۔ بادشاہ کی عنایت سے اس پاس اتنا روپیہ تھا کہ مرنے کے بعد تین کروڑ زر اسکے خزانہ سے نکلا۔

(۱۰۵) مولانا عبدالسلام۔ طبقات مین لکھا ہی کہ وہ لاہور مین رہتا تھا اور بڑا عالم تھا مرآۃ مین لکھا ہے کہ وہ بڑا فقیہ تھا۔ بیضاوی کی شرح اُس نے لکھی ہے نوے برس سے زیادہ عمر مین شاہجہان کے سال اول جلوس مین لکھا ہے۔

(۱۰۶) قاضی صدرالدین عالم متبحر تھا۔ اہل تصوف وسلوک کا معتقد تھا بہت خوش طبع وخوش صحبت تھا شیخ مخدوم الملک کا مشہور شاگرد تھا۔ وسیع المشرب ایسا تھا کہ عوام اُسپر الحاد کا گمان کرتے تھے اسپر حسن ظن غالب تھا جس کا شیوہ تجرید کا دیکھتا اگرچہ وہ بظاہر بدعتی ہوتا اس پاس اعتقاد آجاتا اور ہاتھ باندھ کر اسکے سامنے کھڑا ہوتا اور اسکی باتون کو حجت جانتا۔ ایک دن ایک بدعتی مجذوب بنکر آیا وہ حسب عادت اسکی تعظیم کے لیئے کھڑا ہوا۔ اس مجذوب مکار نے کہا کہ حضرت خضر میرے پاس رہتے ہین۔ قاضی جی نے اُس سے کہا کہ میری ملاقات حضرت خضر سے کرا دیجے اُسنے کہا کہ اسوقت تو مجھے اپنی لڑکی کی کتخدائی کا فکر ہے۔ تنگ تلاش کرتا ہون بعد فراغ خاطر کے حضرت سے ملاقات کرا دون گا۔ قاضی جی نے اُسے سات سو ٹنکہ دیدیئے دو چار روز بعد اُنکر مولانا کو دریا کے کنارہ پر لے گیا اور ایک بڑے لمبے قد آدمی کو دوسرے کنارہ پر دکھایا۔ اور کہا کہ یہ حضرت خضر ہین ملنے چلو قاضی کوتاہ قد تھا اس نے کہا کہ مجھے تیرنا نہین آتا اسنے کہا کہ مین نے آپنکو حضرت خضر کو بتلا دیا آپ اگر نہین مل سکتے تو اسمین میرا قصور کیا ہے غرض ایسی ایسی حکایتین جو قابل لکھنے کے نہین بہت مشہور ہین اسی حکایت سے قاضی کی سادہ لوحی کا قیاس ہو سکتا ہی۔

بادشاہ نے بندر بھروچ کا اسے قاضی مقرر کیا یہین مر گیا۔ قابل بیٹا شیخ محمد نام اس کا جانشین ہوا لاہور مین بھی کچھ تھوڑے دنون قاضی صاحب نے قضاءت کی تھی۔

(۱۰۷) مولانا سعدالله پوربی ہنے بیانہ مین رہتا تھا۔ اپنے زمانہ مین علم نحو مین اپنا نظیر نہین رکھتا تھا نوعمری سے شیخ محمد غوث کی خدمت مین رہتا تھا پھر دعوات اسماء مین مشغول ہوا۔ بیانہ مین ایک خانقاہ بنائی۔ وہان مدتون تک طالب العلم اور اہل سلوک کی تلقین اور ہدایت کرتا رہا۔

ستر برس تک سوائے دودہ و منس پت و میوون کے افطار نہین کیا بخشش بہت کرتا تھا۔ آخر عمر مین وہ ساکت ہوگیا اور اپنے حجرہ مین تنہا عزلت قبول کی۔ فرزندون تک کو اپنے پاس نہین آنے دیتا تھا سنہ ۹۸۹ مین اس عالم سے خرامان ہوا اور اپنی خانقاہ مین مدفون ہوا اُسکی نعش پر ایک چڑیا آن پڑی تھی جسے دیکھنے والون کو بڑا التعجب ہوا۔

(۱۰۸) مولانا اسحاق۔ شیخ کالو کا بیٹا ہے۔ لاہور مین رہتا تھا شیخ سعداللہ و شیخ منور اور اور شاگرد اُسکے بڑے نامور ہوئے سو برس سے زیادہ عمر ہوکر سنہ ۹۹۶ مین مرگیا۔

(۱۰۹) میر عبداللطیف قزوینی۔ سادات حسینی سیفی سے علوم عقلی و نقلی سے بہرہ کافی رکہتا تھا جب شاہ طہماسپ صفوی نے اس کو اور اُسکے باپ میر یحیےٰ کو اس سبب سے قید کرنے کا حکم دیا کہ مذہب اُس کا سنت والجماعت تھا۔ باپ تو قید مین پڑکر مرگیا مگر بیٹا بہاگ گیلان کے پہاڑون مین پڑا پھرا۔ پھر بادشاہ ہند کی خدمت مین آیا اسکے انعام واحسان سے محظوظ ہوا۔ بادشاہ نے دیوان خواجہ حافظ کے چند سبق اُس سے پڑہے۔ در رجب سنہ ۹۸۴ مین فتحپور مین دارالسرور کو انتقال کیا۔ فرزند رشید اس کا مرزا غیاث الدین علی اخوند جس کا لقب نقیب خان تھا علم سیر و تاریخ و اسماء الرجال مین اسکی مثل نہ کوئی عرب مین تھا نہ ہند مین۔ شب و روز بادشاہ کی خدمت مین رہتا اسکو فارسی ہندی تواریخ و قصص و حکایات و افسلنے سنا تا وہ بادشاہ کا جزو حیات بن گیا تھا ایک لحظہ جدا ہوتا تہا۔ تھوڑے دنون مین وہ مرگیا۔

(۱۱۰) میر نوراللہ شوستری۔ وہ شوستر سے آیا تھا حکیم ابوالفتح کی سفارش سے اکبر تک اسکی رسائی ہوئی۔ وہ شیعہ تھا سنیون مین تقیہ کرتا تھا امام ابوحنیفہ کی فقہ سے بھی خوب واقف تھا۔ جب لاہور کے قاضی شیخ معین نے پیرانہ سالی کے سبب سے عہدۂ قضا چھوڑا تو اسکی جگہہ وہ لاہور کا قاضی مقرر ہوا اسنے رشوت کا دروازہ بالکل بند کردیا اپنے عہدہ قضا مین سوائے گواہ کی شہادت کے کچھ نہین لیا کسی گستاخی پر جہانگیر نے اُسے قتل کردیا۔

(۱۱۱) مولانا عبدالقادر۔ مدتون تک شہنشاہ اکبر کا استاد رہا۔ بادشاہ نے حج کا حکم اُسکو دیا وہ حج کرکے لاہور

عبادت خانہ مین مشغول ہوا۔

(۱۲۰) قاضی عبدالسمیع۔ وہ میان کالی تھا۔ میان کال نے سمرقند اور بخارا کے دو پہاڑون کے درمیان مین ایک مقام ہے۔ بدایونی نے لکھا ہے کہ وہ روپیہ لیکر شطرنج کھیلتا تھا شراب پیتا تھا۔ اکبر نے سنہ ۹۹۰ مین قاضی جلال الدین ملتانی کی جگہ قاضی القضاۃ مقرر کردیا۔

(۱۳۱) مولانا قاسم۔ قندھاری واحد العین تھا علوم عقلی ونقلی کا درس دیتا تھا۔

(۱۴۱) قاضی حسن قزوین کا رہنے والا تھا اور قلعہ آسیر کے محاصرہ مین خدمات شائستہ بجالایا صورت آراستہ رکھتا تھا۔

(۱۵۱) ملا کمال۔ طبقات اکبری مین شیخ کمال کو الور کا رہنے والا خلیفہ وخویش سلیم چشتی کا لکھا ہے

(۱۶۱) شیخ یعقوب جامع فضائل تھا۔ حاجی تھا شیخ ابن حجر سے حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ قلندرون کے لباس مین سفر بہت کیا تھا اور اکثر عرب وعجم کے مشایخ اعظم سے ملا تھا اور ارشاد وہدایت کی اجازت حاصل کی تھی۔ ہند وکشمیر مین اسکے بہت مرید تھے صاحب تصانیف تھا۔ قرآن مین ایک تفسیر لکھی تھی بادشاہ اسکو بہت عزیز رکھتا تھا۔ شعر مین اسکا ذوق درست تھا مگر سکے فکر سے کبھی اس کا ذہن خالی نہوتا تھا۔ صرفی تخلص کرتا تھا۔

(۱۷۱) ملا عالم۔ یہ وہی ملا ہے جنکو یہ حسرت رہی کہ مین سجدہ اکبری کا موجد کیون نہوا۔ یہ کابل کا رہنے والا تھا خوش طبع وشگفتہ وضع قبیلہ تھا۔ سنہ ۹۹۱ مین وفات پائی۔ فواتح الولایت تصنیف کی جس مین حکما وعلما وشعرا کا احوال لکھا ہے۔

(۱۸۱) شیخ عبدالنبی۔ صدر الصدور تھا وہ شیخ احمد بن شیخ عبدالقدوس گنگوہی کا بیٹا تھا۔ چند مرتبہ مکہ معظمہ ومدینہ منورہ مین گیا اور وہان علم حدیث پڑھا جب پھر کر آیا تو آبا واجداد کی روش کے برخلاف سماع وغنا سے منکر تھا۔ محدثین کی روش پر چلتا تھا تقوی وطہارت وعبادت ظاہری سے اشتغال رکھتا تھا جب منصب صدارت پر پہونچا تو مدد معاش ووظائف واوقاف خلایق کو ایسے دیے کہ پہلے نہین دیے گئے تھے۔ بادشاہ کو بھی اس سے ایسا اعتقاد

تھا کہ جوتیان اٹھا کر اسکے روبرو رکھی تھین مگر مخدوم الملک اور اور علمار سے یہ تعظیم و تکریم باقی نہین رہی ایک برہمن کے قتل کرانے پر اپنے عہدہ صدارت سے معزول ہوا سنہ ۹۹۱ھ مین یا سنہ ۹۹۲ھ مین اس کا انتقال ہوا وہ اپنے تئین امام ابوحنیفہ کی اولاد مین بتاتا تھا۔

(۱۱۹) شیخ بھیک۔ یہ شیخ کاکوری مین جو لکھنؤ کے قریب ہے رہتا تھا۔ بدایونی اس کو شیخ بھیکن لکھتا ہے وہ اعلم العلما، متورع و متشرع تھا۔ برسون درس و افادہ خلائق مین مصروف رہا۔ حافظ کلام مجید تھا اور سات قرأت مین پڑھتا تھا۔ تصوف کی کوئی بات مجلس مین نہین کہتا خلوت مین محرمان راز اور اہل علم سے کہتا۔ سنہ ۹۸۱ھ مین انتقال فرمایا۔

(۱۲۰) شیخ ابوالفتح گجراتی۔ میر سید محمود جونپوری کا داماد تھا۔ سلسلہ مہدویہ کی روش پر راسخ و ثابت قدم باستقلال تھا۔ تا کہ معظم گیا گجرات مین شیخ گدائی کے ساتھ بہت دوستی رکھتا تھا۔ بیرم خان کے زمانہ مین وہ کسی ضرورت کے سبب سے آگرہ مین آیا تھا۔ تھوڑے دنون مین یہ جلسہ برہم ہو گیا تو وہ گجرات چلا گیا اسکے مرید ہونٹون پر ریش لگاتے تھے ہاتھ مین سنگریزہ رکھ لیتے تھے۔

(۱۲۱) شیخ بہاء الدین مفتی۔ آگرہ مین سکونت تھی عالم و عابد تھا۔

(۱۲۲) قاضی جلال الدین ملتانی۔ اصل مین قندہار کے توابع کا رہنے والا تھا دانشمند متبحر و حق گو و حق پرست تھا۔ ابتدائے حال مین تجارت کرتا تھا۔ اواسط مین درس مین مشغول ہوا۔ چند سال آگرہ مین افادت فرمائی۔ قاضی یعقوب کے معزول ہونے کے بعد وہ عہدہ جلیل القدر قضایہ مامور ہوا۔ دیانت و امانت کی صفات رکھتا تھا مگر بیٹے کی ناخلفی سے وہ دکن بھیجا گیا وہان سے حج کو گیا اور وہین وفات پائی۔

(۱۲۳) شیخ ضیاء الدین یا ضیاء الله۔ بادشاہ نے شیخ کو آگرہ مین طلب کر کے عبادتخانہ مین جگہ دی تھی

(۱۲۴) شیخ عبدالوہاب (۱۲۵) شیخ عمر

(۱۲۶) میر سید محمد میر عدل۔ امروہہ علاقہ [illegible] کے رہنے والا تھا۔ صاحب صلاح و تقوی و ورع تھا۔ بادشاہ کے ملازمون مین داخل ہو کر ایسا اختصاص حاصل کیا کہ میر عدل کے

منصب پر ممتاز ہوا اور اس جلیل القدر منصب مین عدالت و انصاف و صدق و امانت کا طریق اختیار کیا جب تک وہ اس دیار مین رہا دین اسلام مین کسی کو بدعت پیدا کرنے کی قدرت نہ تھی ۹۸۳ھ مین بکر کی حکومت اس کو تفویض ہوئی یہین ۹۸۶ھ مین انتقال کیا۔

(۱۲۷) مولانا جمال - طبقات مین لکھا ہے مدرس ملتانی تھا - بدایونی لاہور کے ایک محلہ تلہ کا رہنے والا بتاتا ہے۔

(۱۲۸) شیخ احمدی فیاضی امیٹھی وال - علماء کبار مین سے ہے صاحب تقوے و ریاضت و مجاہدہ تھا۔ شیخ نظام الدین امیٹھی وال کا ہمعصر تھا - ایسا ضعیف و مسن ہوگیا تھا کہ چل پھر اُٹھ بیٹھ نہین سکتا تھا - اس حال مین ایک سال مین قرآن مشریف حفظ کرلیا - کتب درسیہ اس کو ایسی ازبر تھین کہ اگر شاگرد کتاب غلط پڑھتا تو وہ صحیح کر دیتا - تفسیر و حدیث و سیر و تاریخ خوب جانتا تھا۔

(۱۲۹) شیخ عبدالغنی بدایونی - بداؤن مین جب طالبعلی کرتا تھا تو حال اسپر غالب ہوتا تھا اور نغمہ سننے سے بیشعور ہوجاتا تھا - روزگار کی تلاش مین دہلی مین آیا - یہان کا حاکم تاتارخان تھا - جو اہل جاہ کے لباس مین اہل اللہ تھا اُن کا ملازم ہوا کتب درسیہ کی تحصیل تمام کی مدتون دربار پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ گوشہ نشین ہوا ستغنا مین خانخانان اسکی ملاقات کو گیا جب اس نے نصیحت کے لیئے التماس کیا تو فرمایا کہ اتباع سنت محمدی کو اپنے اوپر لازم جان - اس کو بعض سر بردن نے فرمان بھیجکر دہلی سے لاہور بلایا مگر اس نے عذر کیا۔

(۱۳۰) شیخ عبدالواحد بلگرامی - بلگرام قنوج کے توابع مین تھا وہ صاحب فضائل و کمالات و ریاضت و عبادات تھا - اخلاق پسندیدہ و صفات رضیہ رکھتا تھا - خود ہندی راگ راگنی بناتا - ائمہ پر اس کو حال آتا - سب کچھ چھوڑکر نزہت الارواح پر شرح محققانہ لکھی اور اصطلاح صوفیہ مین چند رسائل لکھے ان مین سے ایک کا نام سنابل ہے اور اور بھی اسکی تصنیفات ہین۔

(۱۳۱) میران صدر جہان۔ یہ پہانی مین پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک قصبہ توابع لکھنؤ یا قنوج سے تھا وہ مرد فاضل و خوش طبع تھا۔ اکبر شہنشاہ کی خدمت سے وہ شیخ عبد النبی صدر کی وساطت سے مشرف ہوا تھا، جب عبد اللہ خان ازبک والی توران نے پادشاہ اکبر کو لکھا کہ ارسال رسل مین بڑا موانع یہ تھا کہ دین سے آپ کا انحراف زبان خلایق تھا۔ پادشاہ نے ۹۹۶ سنہ میران کو حکیم ہمام کے ساتھ ایلچی گری کے لئے توران روانہ کیا۔ مذہب کے مقدمہ کی بابت یہ صرف دو شعر اپنے نامہ مین لکھے۔

قطعہ

قیل ان الالہ ذو ولد	قیل ان الرسول قد کہنا
ما نجا اللہ والرسول معا	من لسان الوری فکیف انا

۱۰۰۴ سنہ مین توران سے میران نے معاودت کی اور کابل مین پادشاہ سے ملاقات کی۔ ۱۰۰۵ مین جشن آبان ماہ مین مجلس بادہ پیمائی مین میر صدر جہان مفتی اور میر عبد الحی میر عدل دونون نے ساغر مے پیا تو پادشاہ نے یہ حافظ کا شعر پڑھا ؎

در دور پادشاہ خطا بخش جرم پوش ۔۔۔ حافظ قرابہ کش شد و مفتی پیالہ نوش

۱۰۱۴ سنہ تک ہفت صدی پر پہونچا اور خدمت صدارت پر مقرر ہوا بعد ازان ترقی کر کے پایہ امارت اور منصب دو ہزاری پر پہونچا۔ شیخ عبد النبی صدر سے چہل حدیث کا سبق لیتا تھا تو میران بطور خلیفہ کے تھا۔ شاہزادہ سلیم اس کو بہت دوست رکھتا تھا اُسنے ایک زمانہ سے وعدہ کیا کہ اگر سلطنت کی نوبت میری آئے تو بتاؤ کہ قرض تمہارا ادا کر دون یا جو منصب تم چاہو وہ دون۔ میران نے ادائے قرض اپنے ذمہ لیا۔ منصب چار ہزاری کی درخواست کی۔ جہانگیر نے پادشاہ ہوکر منصب چار ہزاری دیا اور صدارت کو قائم رکھا اور قنوج جاگیر مین دیا وہ محسن و نافع خلق تھا اُسنے جہانگیر کے عہد میں اپنی صدارت مین مدد معاش آدمیون کو دی کہ آصف خان جعفر نے پادشاہ سے عرض کیا کہ عرش آشیانی کے عہد مین جو پچاس سال کے عرصہ مین دیا گیا تھا وہ پانچ

برس کے عرصہ مین اسنے دیا۔ ایکسوبیس برس کی عمر تھی اصلا اسکی عقل وحواس مین
فتور نہ تھا فقط ہڈیان باقی تھین۔ ہمیشہ ضعف سے بستر پر پڑا رہتا تھا جب پادشاہ کے حضور
مین آتا تو جب جاہ و برتری سے بے استعانت غیر زینہ پر آمد و رفت کرتا۔ ؎

نیست گاہ نماز از ضعف قدرت بر قیام　　لیک پیش پادشاہ استادہ تا شب بے عصا

سنہ ۱۰۲۲ھ مین ودیعت حیات سپرد کی۔ طبع موزون تھی ابتداء حال مین اشعار کہتا جب اسکو
خدمت افتائی تو شرع شریعت غرا کا پاس کرکے پھر شعر کہنا چھوڑ دیا۔ اس کا بڑا بیٹا میر بدر
عالم گوشہ نشین تھا۔ پسر دوم سید نظام مرتضے خان امارت کے درجہ پر پہونچا۔

(۱۴۲) مولانا اسمٰعیل۔ ایک وہ ہین جن کا او پر ذکر نمبر ۱۲ مین ہوا۔ طبقات مین ایک لاہور
کا مفتی اور دوسرا اودہ کا مفتی اسی نام کا لکھا ہے۔

(۱۴۳) ملا عبدالقادر۔ عبدالقادری بداؤن مین سنہ ۹۴۷ھ مین پیدا ہوا اس سببسے وہ دس برس اکبر سے
پہلے پیدا ہوا اسکے باپ کا نام تھا شیخ ملوک شاہ اور وہ شیخ پنجو سنبلی کا خلیفہ تھا۔ اس نے
سنہ ۱۰۰۴ھ مین وفات پائی۔ عبدالقادر یا بداؤنی مین نے جابجا اپنی تاریخ مین لکھا ہے۔
وہ علوم عقلی و نقلی سے واقف تھا اور بڑے بڑے کامل فاضلون وعابدون سے اس نے
ظاہری و باطنی علوم کی تحصیل کی تھی وہ علم موسیقی اور تاریخ اور علم ہیئات سے خوب ماہر تھا
خوش آواز بڑا تھا قرات خوب جانتا تھا اس لیئے وہ پادشاہ کے عبادت خانہ مین امام ہر
چہار شنبہ کے لیئے مقرر ہوا تھا۔ جلال خان قورچی کی وساطت سے وہ اول اکبر کی خدمت مین
پہونچا تھا وہ چالیس برس تک شیخ مبارک اور فیضی اور ابوالفضل کے پاس رہا مگر کبھی انہین باطنی
اتحاد نہوا وہ ان کو بیدینی جانتا تھا اور مسلمان نہین سمجھتا تھا اس تعصب مذہبی کے سبب سے ہمیشہ جان
کا دشمن ہی رہا شہنشاہ اکبر کے حکم سے رامائن کا ترجمہ کیا جس کا حال ہم نے تصنیفات عہد اکبری
مین لکھا ہے ۲۴ ہزار اشلوکون کا ترجمہ کیا۔ ایک سو پچاس اشرفی اور دس ہزار تنکہ انعام پائے
مہابھارت کے ایک حصہ کا ترجمہ کیا۔ تاریخ رشیدی کا انتخاب کیا اور بحر الاسمار علم حدیث

ہین اور نجات الرشید ایک اور کتاب تصنیف کی۔ ایک تاریخ منتخب التواریخ تصنیف کی جس سے
معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہ اکبر کا سخت دشمن تھا۔ اس ہین اکبر کی برائیان بھلائیان بہ نسبت
اکبرنامہ اور طبقات اکبری و مآثر رحیمی کے زیادہ لکھی ہین خاص کر مذہبی خیالات اکبر کے زیادہ
توضیح سے بیان کیے ہین مشایخ و فضلا و علماء و شعراء کے حالات نہایت دلچسپ لکھے ہین
وہ ۴ ؁ھ کی ابتدا تک یعنی اکبر کے مرنے سے گیارہ برس سے پہلے تک کی تاریخ ہے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ اس سال مین جہان سے رخصت ہوگیا۔ یہ کتاب مخفی رہی مرارۃ العالم ہین
لکھا ہے کہ وہ جہانگیر کے عہد مین مشتہر ہوئی۔ جب عبدالقادر کی اولاد نے بادشاہ سے
کہا کہ ہم کو اس کتاب کا علم نہ تھا تو وہ نہایت رنجیدہ ہوا۔ تزک جہانگیری مین اس کتاب کی
بابت کچھ نہین لکھا مگر مآثر رحیمی مین جو یہ شکایت لکھی ہے کہ سوائے طبقات و اکبرنامہ کے
کوئی تاریخ اکبر کے عہد کی موجود نہین ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۲۵ ؁ھ تک یہ کتاب
مشتہر نہین ہوئی تھی۔

(۱۳۵) شیخ جوہر

(۱۳۶) شیخ منور، لاہور مین پیدا ہوا اسکی قوت حافظہ مشہور تھی۔ نامور عالم تھا اس نے
مشارق الانوار (حدیث) بدیع البیان ارشاد قاضی پر شرحین تصنیف کین جب علماء کا اخراج
دربار شاہی سے ہوا تو وہ گوالیار کے قلعہ مین قید ہوا اور ۱ ؁ھ مین مرگیا۔ اس کا بیٹا شیخ کبیر
بھی بڑا عالم تھا احمد آباد مین ۲۶ ؁ھ مین مرگیا۔

(۱۳۷) قاضی ابراہیم جس کو بدایونی نے حاجی ابراہیم محدث لکھا ہے وہ آگرہ مین زہد و تقوے
و ورع و درس علوم دینی خصوصاً علم حدیث مین بہت توجہ کرتا تھا۔
اسکے شرع و تورع کا تقید آدمیون کے ساتھ اختلاط اور ارتباط کا مانع تھا امر معروف نہی منکر کرتا
تھا جب القتب (؟) فساد تخانہ مین آیا تو مراسم تکلفات و آداب ملوک کا مقید نہوا۔ وعظ کہتا و
نصیحت کرتا۔

(۱۳۸) مولانا جمال (۱۳۹) شیخ سین (۱۴۰) بھان چند- اب تک تو ہم نے ان مشائخ وعلماء وغیرہ کا نام لکھا جن کا ذکر آئین اکبری مین ابوالفضل نے تحریر کیا ہے مگر اب ہم بعض مشائخ کا ذکر تاریخ بداؤنی اور طبقات اکبری اور اور کتابون سے کرتے ہین-

شیخ عبدالحق دہلوی- اس عہد کے افضل الفضلا مشہور محدثون مین سے تھے- کعبۃ اللہ کو جا کر بعد ادائے حج مدت مدید تک محض تحقیق وصحت احادیث کے لیئے وہان مقیم رہے- علوم عقلی و نقلی مین سو کتابین تصنیف کی ہین شرح مشکوٰۃ و تاریخ مدینہ جس مین ائمہ طاہرین اور ظلم و تعدی مخالفین کا ذکر کمال حسن عقیدت سے کیا ہے انکی تصنیفات مین تکمیل الایمان بڑی مشہور کتاب ہے اسمین عقائد اور مشہور تالیفات کا ذکر ہے- سو سال سے زیادہ عمر ہوئی- جہانگیر کے آخر عہد مین ان کا انتقال ہوا جو علم با عمل کے لیئے تقوے اور صلاح لازم ہین وہ انہین تھے- دم واپسین تک ادائے فرض وسنن مین کوئی طریقہ فروگذاشت نہین ہوا- کعبۃ اللہ سے آن کر اکثر زبان صدق بیان سے فرماتے تھے کہ بیت اللہ مین جا کر تحقیقات احادیث مین جبتک مین نے اوقات صرف نہین کی مجھے معلوم نہوا کہ بہت سی مشہور احادیث وضعی ہین ان کا مقبرہ دہلی مین حضرت خواجہ قطب الدین کی قبر کے پاس ہے-

(۲) خواجہ باقی باللہ- اس عہد مین مقتدائے زمان تھے- صفات ذاتی وکسبی وخوارق ان کے مشہور ہین گوشہ نشینی مین اکثر اوقات بسر کرتے تھے مخلوق سے کم ملتے تھے اکثر علوم عقلی و نقلی سے بہرہ تام رکھتے تھے- شاہ جہان آباد مین قدم شریف کے متصل جہان آبادی تھی انکی خانقاہ تھی وہین اب آرام کرتے ہین-

شعرائے عہد اکبری

اس گروہ آفرین طراز و نام آرائے کا ذکر بھی حق گذاری کے لیے نادر ہے نہانخانہ معنے مین شعراء راہ رکھتے ہین- ان کا ضمیر روشن فیض ایزدی کی تابش گاہ ہے لیکن وہ اپنے گوہر کی بیش قیمتی سے واقف نہین ہوتے اور اس کو سستا بیچ ڈالتے ہین- کمینونکی مدح کرتے ہین اشرافون کی ہجو

وگرنہ صرف الفاظ کا پیوند دینا ہی بڑا تعجب خیز ہے چہ جائیکہ معانی والا کی دریافت ۔ ب		
آنکہ سخن را بہ سخن ضم کند		قطرۂ از خون جگر کم کند
ہر کہ سخن را بہ سخن باز بست		معجزہ گر نیست کرامات ہست

تم یہ گمان نہ کرو کہ مین ظاہری پیوند دینے کو کہتا ہون ۔ حق سے باطل دانا سے نادان گوہر سے خرمہرہ ۔ باوجود بہت دوری کے بظاہر نزدیک ہین ۔ پیوند معنوی صورت کی ہم ترازو ہونے کے بغیر نہین پیدا ہوتا اس کا پہچاننا مشکل ہے اور تولنا اس کا اور زیادہ مشکل ہے اس سبب سے بادشاہ شاعر و شاعری کی طرف متوجہ نہین ہوا ۔ خیالی باتونکی تھوڑی سی بھی قدر نہین کرتا تھا نادان جانتے ہین کہ یہ طرز گفتار بادشاہ کو پسند خاطر نہین اس لیے شاعرون سے دل برداشتہ رہتا تھا باوجود اس حال کے بھی ہزارون قافیہ سنج و نظم آرا ہمیشہ آستانہ پر لگے رہتے ہین اور بہت سے شاعر ایسے ہین جنھون نے دیوان لکھے اور داستان طرازی کی ۔ انہین سے صرف ہم ایک شاعر کا حال اور باقی بعض نامی شاعرون کے نام لکھتے ہین ۔

(۱) شیخ ابوالفیض فیضی ۔ یہ بڑا بیٹا شیخ مبارک ناگوری کا اور بڑا بھائی شیخ ابوالفضل علامی کا ہے اسکے خاندان کا حال ابوالفضل کے بیان مین لکھ چکے ہین وہ سنہ ۹۵۴ھ مین پیدا ہوا اپنے جودت ذہن و دقت طبع سے مجمع علوم سے بہرہ وافر حاصل کیا حکمت و شعر بیت مین زیادہ توجہ کی ۔ طبابت اختیار کی ۔ مفلس بیمارون کا علاج شروع کیا ۔ فکر معاش سے تنگ حال تھا ۔ ایکدن باپ کے ساتھ شیخ عبدالنبی صدر اکبری پاس گیا اور اپنا حال بیان کیا اور سو بیگہ کی مدد معاش کی استدعا کی شیخ نے تعصب مذہبی کے سبب سے اسکو اور اسکے باپ کو سرزنش کی اور حقارت کے ساتھ مجلس سے نکالدیا ۔ فیضی کو غیرت آئی اور اسنے یہ ارادہ کیا کہ بادشاہ وقت سے روشناسی اور راہ خوف پیدا کیجیے بعض باریابون کی وساطت سے بادشاہ کے روبرو شیخ کے فضل و کمال و سخن طرازی و بلاغت گستری کا مذکور ہوا سنہ ۱۲ مین جب بادشاہ چتور کی فتح کو جاتا تھا اسنے شیخ کی طلب کا حکم دیا ۔ ایک طائفہ اہل مذاہب کا اس خاندان کا بداندیش تھا اسنے

اس طلب عاطفت کو مطالبہ غضابی کا عنوان بنایا۔ حاکم دار الخلافت کو حکم بھیجا۔ چارشنبہ ۲۰ ربیع الاول کو صبح کو تمرکونکی ایک جماعت نے فیضی کے گھر کو گھیر لیا۔ دشمن یہ سمجھے تھے کہ شیخ مبارک اپنے فرزند کو چھپائے گا اور معذرت مین بھیجے گا جس سے اُس کو آرام پہونچے گا اُس وقت گھر مین فیضی نہ تھا قریب تھا کہ دشمنون کی شورش کی کشمکش شروع ہو کہ اس اثنا مین فیضی آگیا۔ شورش مٹ گئی۔ اب یہان تنگ دستی تھی۔ سفر کا سامان پاس نہ تھا آخر شاگردونکی سعی سے یہ مشکل آسان ہوئی اسکو رخصت کیا سارے گھر کو غم تھا۔ مگر اس سانحہ غم نما کا انجام نشاط ہوا کہ پادشاہ نے اسپر غریب نوازی کی۔ یہ ایک لطیفہ مشہور ہے معلوم نہین سچ ہے یا جھوٹ کہ جب فیضی پادشاہ کے دربار مین آیا تو وہ چاندی کے کٹھرے سے جس کو نقرہ پنجرہ کہتے ہین باہر کھڑا تھا کہ اُس وقت اسنے یہ قطعہ پڑھا۔

قطعہ

پادشاہا درون پنجرہ ام	زانکہ من طوطی شکر خائم
از سر لطف خود مرا جادہ	جاے طوطی درون پنجرہ بہ

اس قطعہ کو پادشاہ نے بہت پسند کیا اور اسی روز سے بتدریج قربت مصاحبت بڑھتی گئی۔ اسنے شیخ عبدالنبی صدر کے ایسے عیوب پادشاہ کے دلنشین کیے کہ وہ اپنے منصب اور رتبے سے گرا۔ حجاز کو بھیجا گیا جان اور مال خواری و ذلت کے ساتھ دیئے۔ فیضی نے جس شعر کو اعلےٰ مرتبہ پر پہونچایا تھا ۹۹۳ھ مین ملک الشعراء کا خطاب پایا۔ ۱۰۰۳ھ مین اسنے ارادہ کیا کہ خمسہ نظامی کی زمین کو جولانگاہ طبع کرے مخزن اسرار کی برابر مرکز ادوار تین ہزار اشعار کی اور خسرو شیرین کے مقابل سلیمان بلقیس اور لیلے مجنون کی بجاے نلدمن ہر ایک چار چار ہزار اشعار کی اور ہفت پیکر کے وزن پر ہفت کشور اور سکندر نامہ کی بحر مین اکبر نامہ ہر ایک پانچ پانچ ہزار اشعار کا لکھے اور تھوڑے دنون مین اس پنج نامہ کی ہر ایک کتاب کی کچھ داستانین لکھین مگر ان کے تمام کرنے پر دل نہاد نہ ہوا۔

کہتا تھا کہ اب نقش ہستی کے مٹنے کا وقت آیا ہے نہ بلند نامی کے پیشطاق کے نگارین کرنے کا۔
پادشاہ نے ۹۹۳ھ مین اسکے انجام دینے کی اسپر تغیند کی اور حکم دیا کہ اول نلدمن افسانہ موزون ہو
اُسنے اسی سال مین اسکو ختم کرکے پادشاہ کی نظر کے سامنے گذرانا۔ لیکن مدت سے اسی کو تنہائی
پسند تھی خموشی اختیار کی تھی دشوار پسندی کے سبب سے وہ اپنی گرامی کالا کو بازار میں نہ لاتا۔
تارک ہمت پر دست نوازش نہ رکھتا۔ فطرت والا کو شعر کے پیچھے نہ آتارتا۔ اس لیئے
خمسہ ختم نہوا ضیق النفس کی بیماری شروع ہوئی اس حال مین یہ

ابیات

دیدی کہ فلک چہ زہرہ نیرنگی کرد	مرغ وہم از قفس شب آہنگی کرد
آن سینہ کہ عالمے درو ے گنجید	تا نیم دمے برآوردم تنگی کرد

ایام بیماری مین بار بار یہ شعر پڑھتا تھا ؎

گر ہمہ عالم بہم آیند تنگ	بہ نشود وسیکے موہ لنگ

۱۰ صفر سنہ ۱۰۰۴ھ مین انتقال کیا۔ فیاض عجم اُسکی تاریخ وفات ہی چالیس برس کے قریب
فیضی تخلص کرتا تھا۔ بعد ازان علامی کے وزن پر فیاضی تخلص کیا۔ نلدمن مین وہ لکھتا ہے۔

ابیات

زین پیش کہ سکہ ام سخن بود	فیضی رقم نگین من بود
اکنون کہ شدم بعشق مرتاض	فیاضیم از محیط فیاض

شیخ کی تالیف سے اکثر ایک کتابین ہین جو اُسکے فضل پر شاہد قوی ہین سواطع الالہام بے نقط
تفسیر لکھی۔ حیدر معمائی نے سورۂ اخلاص سے اسکی تاریخ سنہ نکالی ہے دس ہزار روپیہ اس کو صلا ملا
موارد الکلم اخلاق مین بھی بے نقط لکھی ہے۔ علماء عصر نے اعتراض کیا کہ اب تک کسی بڑے عالم نے علم
تفسیر مین بے نقط نہین لکھا تو شیخ نے کہا کہ جب کلمہ طیبہ جسپر ایمان موقوف ہے بے نقط ہے اس سے
زیادہ اور دلیل اسکی فضیلت کی کیا ہوسکتی ہے۔ شیخ کی چار ہزار تین سو کتابین صحیح و نفیس سرکار

شاہی مین داخل ہوئین۔ پادشاہ کے ساتھ مصاحبت شیخ کی علم و کمال کے سبب سے تھی
شاہزادونکی تعلیم کے لیئے اکثر وہ مامور ہوتا تھا۔ حکام دکن پاس ایک دفعہ سفارت مین بھیجا
گیا تھا۔ چارصدی منصب پایا تھا۔

اسنے مال و دولت کی زیادتی کو اپنے نیاز کی افزایش کا دستاویز بنایا اور روزگار کی تنگی
کو پیرایۂ نشاط۔ اس کا گھر خویش و بیگانہ و دوست دشمن کے لیئے کھلا رہتا تھا اسکے گھر مین بے
سامان آرام پاتے۔ کتب ناموں کو غور سے پڑھتا اور دیدہ کی راہ سے دل کو غذا دیتا۔ اکثر
طبابت کرتا اور مفلس بیماروں کا علاج کرتا۔ فنون شعر مین دلآویز سخن اسکی یادگار ہین۔
ابوالفضل نے اسکے مرنے کے دو برس بعد ان اشعار کو جمع کیا ہے کہتے ہین کہ جسوقت فیضی کی
جان ملب ہونے کی خبر پادشاہ کو پہونچی تو وہ اُسی وقت اس پاس آیا اور اس کا سر ہاتھ
سے اُٹھایا اور کئی دفعہ کہا کہ شیخ جی تم کیون نہین بولتے مگر اس وقت زبان مین تاب و توان
کہان تھی جو وہ کچھ کہتا۔ اسوقت پادشاہ نے زمین پر اپنی پگڑی دے ماری اور رونے پیٹنے
لگا جب ہوش مین آیا تو گھر نہ گیا بلکہ ابوالفضل پاس جو ایک جدا مکان مین تھا آیا اور اس کو
تسلی و تشفی دی۔ شیخ عبدالقادر بدایونی نے جو ان دونون بھائیون کا سخت دشمن تھا جلے پھپھولے
پھوڑے ہین اور فیضی کا حال یہ لکھا ہے کہ وہ شعر کے فنون جزئیہ و معما۔ عروض و قافیہ۔ تاریخ
لغت۔ طب۔ خط انشا مین زمانہ مین اپنا عدیل نہین رکھتا تھا۔ اوائل مین تخلص فیضی کرتا تھا
اور آخر مین اپنے چھوٹے بھائی کے خطاب علامی کے وزن پر تخلص فیاضی رکھا جس سے کہ علو
شان معلوم ہو۔ مگر وہ سازگار نہوا۔ ایک دو مہینے کے بعد دنیا سے سفر کیا اور بہت حسرت ساتھ
لے گیا۔ وہ جد و ہزل کا مخترع۔ اور عجب و کبر و حقد و نفاق۔ خباثت و ریا و حب جاہ و رعونت کا
مجمع تھا۔ اہل اسلام سے عناد و عداوت رکھتا۔ اصل اصول دین پر طعن کرتا اصحابہ کرام کے
مذہب کی توہین کرتا۔ تابعین و سلف و خلف متقدمین و متاخرین و مردہ و زندہ مشائخ
کی بے ادبی کرتا۔ علما و صلحا و فضلا کو رات دن ظاہر برا بھلا کہتا برخلاف دین جمیع محرمات

گو منہاج اور فرائض کو محرم جانتا تھا۔ بے نقط تفسیر بدنامی کے دور کرنے کے لیے عین حالت مستی وجنابت مین لکھی۔ کتے اسکے ورقون کو پائمال کرتے تھے یہی سبب تھا کہ سبب مرنیکا وقت آیا تو وہ کتے کی طرح بھوکتا تھا۔ جب اس کے آخر وقت پادشاہ عیادت کو گیا ہی تو اس پر بھی وہ بھوکا اس بات کو پادشاہ نے خود برسر دیوان بیان کیا۔ اُس کا منہ سوج گیا تھا اور سارے ہونٹ سیاہ تھے۔ پادشاہ نے ابو الفضل سے پوچھا کہ کیا فیضی مسی ملتا تھا جو یہ ہونٹ کالے ہین اُس نے جواب دیا کہ خون کی قے آنے سے یہ سیاہی ہوگئی ہے۔ اسکی تاریخین مرنے کی بھی اُس نے لکھی ہین۔ ؎

سال تاریخ فیضی مردار		شد مقرر بچار مذہب ما	
سال فوتش چہ سگ پرستی مُرد		سال تاریخ خالدًا فی النار	

چالیس برس تک شعر کہا مگر درست شعر کہنا نہ آیا۔ استخوان بندی اسکی خوب ہوتی۔ مگر مصالح شعر کا مغز نہوتا۔ وہ سرتا پا ہمزہ ہوتا۔ شطحیات وفخریات وکفریات مین اس کا سلیقہ مشہور تھا۔ لیکن ذوق عشق حقیقت ومعرفت وچاشنی روحانی قبول خاطر نہین رکھتا تھا وہ اپنی تصنیفات کو لکھا کر مفت لوگون کو دیتا تھا مگر کوئی نہین لیتا تھا۔ جب وہ دکن مین تھا اور مین نے اسکو دامن کوہ کشمیر سے خط پادشاہ کی بے التفاتی اور کورنش بند ہونے کا حال لکھا تو اُسنے میری سفارش مین پادشاہ کو یہ خط لکھا کہ وہ اکبرنامہ مین لکھا ہوا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ملا عبدالقادر اہلیت تمام رکھتا ہے اور علوم رسمی جو ہندوستان کے ملا پڑھتے ہین وہ جانتا ہے میرے باپ سے کسب فضیلت کی ہے اور ۲۰ برس سے مین اسکو جانتا ہون۔ فضیلت علمی کے سوائے طبع نظمی وسلیقہ انشا عربی وفارسی رکھتا ہے اور کچھ نجوم ہندی وحساب بھی جانتا ہے نغمہ ولایت وہندی وشطرنج مین بھی وقوف رکھتا ہے۔ باوجود ان تمام فضائل کے بے طمعی وقناعت وکم تردد رکھتا ہے راستی ودرستی وادب آئین مین اکثر رسوم تقلید کو ترک کیا ہے۔ درگاہ پادشاہی سے اخلاص وعقیدت رکھتا ہے جب کہ قتل میر کو لشکر متعین ہوا ہے تو وہ اُنکا

کرکے جان سپاری کے لئے گیا اور وہان تردد کرکے زخمی ہوا اور حضور نے اس کا انعام دیا۔ اول مرتبہ اس کو جلال خان قورچی خدمت اقدس مین لایا اور عرض کیا کہ مین نے ایک امام حضرت کے لئے پیدا کیا ہے کہ جس سے حضور بہت خوش ہونگے۔ میر فتح اللہ نے بھی اس کا حال عرض کیا تھا اور اسکی آخری خدمت سے بھی وہ مطلع ہے لیکن مشہور ہے ع جوی طالع زخروارے ہنر بہ۔ مین خود اسکے قصور معاف کرنے کے لئے نہین آسکتا اس لئے عرض رساہون کہ اسکی خطا معاف ہو۔ اب عبدالقادر خود لکھتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فیضی کی جانب سے اسقدر اخلاص پھر اسکی یہ مذمت کرنا کس مذہب مین جائز ہے تو یہ مین کہون گا کہ تمام حقوق سے حق دین و حفظ عہد برتر ہے۔ آج ہم فیضی کی اس فیاضی اور آشنا پروری پر تحسین کرتے ہین اور بداونی کی خباثت پر نفرین۔ اور نامور شاعرون کے نام یہ ہین۔ خواجہ حسین ثنائی مشہدی۔ عرفی شیرازی۔ ہیلی ہروی۔ نظیری نیشاپوری۔ عرفی شیرازی کے ان دو شعرون سے جو نیچے لکھے ہین بعض آدمی یہ نتیجہ نکالتے ہین کہ وہ ان دونون بھائیون فیضی و ابوالفضل سے ناراض تھا۔

کاین جسود ان مروت سوز با این بیگناہ		یوسف نفس مرا زآسیب اخوان دوردار	
با فساد گرگ انبارند در نزدیک جاہ		ما فریب غول ہم زاند در راہ سلوک	

لارڈ ٹنی سن انگلستان کا ملک الشعرا ہے اُسنے خواب کے طور پر نظم لکھی اس کا ترجمہ لکھتے ہین۔

خواب ٹنی سن

اکبر اور ابوالفضل۔ محل فتحپور سیکری کے سامنے۔

وقت شب

اکبر کے مورخ نے پوچھا اے قومون کے نور آج شب کو کس بات نے تجھکو پریشان کر رکھا ہے۔ اکبر نے ستارون کیطرف دیکھ کر ابوالفضل کی طرف سر پھیرا اور کہا۔ مین نے ایک خواب دیکھا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ غلط ہو لیکن مین نے اپنا دل خدا کی طرف رجوع کیا اور خواب کے خلاف دعا کرتا رہا۔ دعا کرنی اور دعا کے موافق عمل کرنا۔ یہ دونون باتین اللہ کی عبادت ہین لیکن وہ

دعائین جن کے بعد ان کے مطابق اعمال ظاہر نہین ہوتے انکی مثال اُن خوبصورت ماؤن کی سی ہوتی ہے جو مردہ بچے جنتی ہین خود مرجاتی ہین مین نے خدا کے سامنے اقرار کیا ہے کہ اس عظیم الشان سلطنت مین جسکو شمشیر نے کہ انسان کو مغلوب کرتی ہے تاکہ اُن پر قبضہ ہو فتح کر کے مجھکو دیا ہے مین راستی اور انصاف سے ہمیشہ کام کرون خواہ مجھ کو کیسے ہی خواب نظر آیا کرین اللہ میرا راہنما ہو ہمیشہ۔

اے میرے شریف دوست اور اے میرے خیر طلب میرے پہلو مین آکر بیٹھ جب تک ہم اور تم ایک ہین مین اس تنہا شخص کیطرح نہین ہوتا جو بادشاہ کے باغ مین جاتا ہے اور ادھر اودھر پھر کر ہر خوشنما پودے سے خوبصورت پھول چنتا ہے تاکہ ان سے ایک تاج سجائے جو بادشاہی کے لیئے صرف ہو بلکہ وقت مناسب پر اس جنگ وجدال کی سرزمین ہند مین ہر مسلمان برہمن اور بدھ مذہبی اور آتش پرست کے لیئے ہو۔

تیسرے بھائی نے اللہ کی تعریف مین کیا خوب کہا ہے ”اے خدا تیری شان نے عقل کو حیرت مین ڈال رکھا ہے۔ حکمت کی راہون نے جو تیرے کمال کا رستہ بتلاتی ہین ریگ بیابان کے ذرون کو اندھا کر دیا ہے۔ ہم تیرے ابجد عشق کا الف تک نہین پڑھ سکتے۔ اللہ اپنے تئین جانتا ہے۔ انسان نہ اپنی اور نہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے کیونکہ ہر ملت و مذہب و فرقہ کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ یہی دعوی رکھتا ہے کہ مین ہی صرف اس طریقت پر ہون جو کامل ہے باقی جتنے ہین سب تباہی کے مستحق ہین۔ کیا گلاب کنول سے کہیگا کہ تو کوئی پھول نہین ہے کیا کھجور سرو سے دعوی کریگی کہ مین ہی صرف حسن رکھتی ہون کیا آم خربزہ کو ٹھکرا کر یہ کہے گا کہ صرف میرا ہی وہ پھل ہے جسکو انسان کے لیئے اللہ نے بنایا ہی دیکھو اللہ کی زندہ نبض اس عالم کے ہر ذرہ مین کس طرح تڑپ رہی ہے اگر آسمان کا ہر ایک ستارہ یہ دعوی کرے کہ بس مین ہی فلک پر ایک انجم ہون تو افلاک پر وہ آسمانی موسیقی پیدا ہو جسکو یونانی فلسفی (فیثاغورث) نے کبھی خواب مین بھی نہ سنا ہوگا۔

سب مین نور ہے اور نور تھوڑا یا بہت چھانون کے ساتھ عبادت کے انسانی طریقون مین
ظاہر ہے مگر ہمارے علماء دین جو سبز مسندون پر بیٹھ کر ناریون کی انداؤن پہ غور وفکر
فرماتے ہین وہ سب وحشی جانورون کی مانند ہین جو ابھی قفس مین بند کیے گئے ہین جسقدر
قفس تنگ ہے اُسی قدر اُن کا غصہ اور پیچ وتاب زیادہ ہے یہ لوگ بڑے گستاخ نظرون سے
میرے مقابلہ پر آتے ہین - یہ کچھ تعجب کی بات نہین ہے مین آخر وہ ہی ہون جس نے
کہدیا ہے کہ کتا تک پاک ہے - تم خنزیر تک چکھ سکتے ہین اور شراب پی سکتے ہین
وہ یہ بھی بخوبی جانتے ہین کہ جب کبھی ہمارے آزاد قصر مین جہان حکمت کی باتین اور مذہب
کے مسائل آزادی کے ساتھ بیان ہوتے ہین انھون نے معمولی شرعی قیل وقال کی ہے
تو مین نے انکی باتون مین ایسی ہی موجون کی آواز سنی جو تنگ پانی مین جوش کھاتی
تھین لیکن یہ آواز وہ صورت عظیم نہ تھی جو حقیقی بہتے سمندر کی ہوتی ہے - کسی قوم کو اپنے قدیم
مذہب کے احاطے سے خارج کرکے زبردستی اپنے ملت کے حدود مین محصور کرنا عقل اور شان
سلطانی کے خلاف ہے میرے عہد سلطنت کی نورانی صبح (یعنی ابتدائی زمانہ سلطنت
کا) پر اس شرمناک بادل کی سرخی ظاہر ہین تھی جب کہ مین نے (نیا مذہب جاری کرنا
چاہا تھا -

مین لوگون کی جات اور مذہب کے جھگڑون سے متنفر ہون لیکن مین لوگون کو انکی مرضی کے موافق
عبادت کرنے دیتا ہون - اور اسیطرح کا محصول غیر مذہب والون سے حاصل نہین کرتا مین ہر مذہب
اور قوم والون مین بہادر اور شجاع آدمی مشورت اور دوستی کے لئے انتخاب کرتا ہون اور کافر
کے لفظ سے نفرت کرتا ہون - قرآن اور شمشیر کے نام سے مجھ مین لغزش آجاتی ہے (ہچکچاتا ہون)
(مسیحی وصلیب کے الفاظ پر سہم جاتا ہون) لیکن مسیحون کی پاک کتاب بتاتی ہے کہ اللہ
عشق ہے اور جب کہ گوا کے پادری نے اپنے پیغمبر ابن مریم کا قول نقل کیا کہ اُسے بچو ایک
دوسرے کو پیار کرو - اور اچھا چاہو ان کا بھی جو تم پر ظلم کرتے ہین" مین نے یہ سنکر خیال کیا

کہ اس قول مین ایک بادل کو ہٹا کر وہ نورانی شعاع پیدا ہوئی ہے جو آفتاب اسلام سے بھی نہین نکلتی۔

تجھکو یاد ہوگا کہ غصہ و غضب سے کس طرح اس بوسیدہ مذہب (غالبًا اسلام سے مطلب ہے) کے در و دیوار ہل گئے تھے جب اس ہٹیلے گو پادری نے اپنا آقا مسیح کو پاکی اور انصاف کا سورج کہا۔ یعنی اللہ اس روے زمین پر آیا اور اپنے بندون کو سچائی اور انصاف کی عنان سے پکڑا (مذہبی تعصب نے یہ اشعار شاعر سے کہلائے ہین۔)

یہ تو کیا کہتا ہے؟ کیا قدیم ایران مین اللہ کو عشق کا آفتاب اور عشق کو راستی کی کمند نہین کہا گیا کیا یہ قدیم ایران کی آواز تھی۔ نہین بلکہ مین جانتا ہون کہ ضعیف شیخ ابوسعید کا قول تھا شیخ پر عورتین چلاتی تھین کہ یہ ملحد و کافر ہے اور اسکے سر پر چھتون سے غلاظت پھینکی گئی یہ شیخ وہ تھا کہ جو راز الٰہی کو گاتا تھا اور جس نے خدا کے عشق مین اپنے آپ کو محو کر دیا تھا۔

اللہ آفتاب ہے جو دنیا مین اسوقت تک دھندلا نظر آتا ہے جبتک زمین پر ہیچ فانی کی عبادات آفتاب نصف النہار کی چمک مین محو نہ ہو جائین یہ وقت وہ ہوگا جب کہ ایک مذہب دوسری مذہب کے خلاف غلط شہادت نہ دے گا۔

بلکہ نور کی تیزی مین اپنی حدود کو پہچانے اور اپنے سے گذر کر سچائی کی محبت اور محبت کی سچائی مین ازل تک ہمیشہ آسانی سے متحرک رہے گا۔

آفتاب۔ آفتاب۔ لوگ مجھ زرد شتی پر ملامت کرتے ہین۔ آفتاب ہماری زمین کو گرما کر اناج اور پھل دیتا ہے۔ ہمارے کھیتون پر تبسم کرتا ہے۔

اسمین چاہے تیری کھیتی ہو یا میری۔ شیعہ اور سنی دونون کے خون کو حرارت بخشتا ہے اس لئے آفتاب کو ابدی و ازلی نشان مانو۔ جو سلاطین اہی کل رعایا سے ایک ہی محبت اور ایک سا قانون سب کے لئے رکھتے ہین اس بنا پر کیونکر آفتاب کی عظمت نہ کرین اپنے اچھے افعال سے انسان کے حق مین ایسے سلاطین نور ہوتے ہین۔

لیکن یہ نور ہماری حضوری سے ایک شخص کے چہرے پر چمکنے نہ پایا تھا کہ کل صبح ہمارے پاس وہ آیا دونوں آنکھوں مین غصہ سے نار جہنم مشتعل تھی وہ آتے ہی چلایا کہ تو آسمان سے نیا قرآن ہمارے لیئے لایا ہے۔ کیا تو پیغمبر ہے۔ تو معجزہ دکھا سکتا ہے اس کا وحشیانہ غصہ چاہتا تھا کہ مجھکو اُٹھا کر کہین پھینکدے لیکن وہ کامیاب نہوا۔ معجزہ۔ کیسا معجزہ۔ معجزہ نہ مین دکھا سکتا ہون نہ وہ۔ اور نہ کوئی اور۔ مین صرف اتنا کر سکتا ہون کہ حیات انسانی کو تاریک حجرہ مین عقل کی مشعل دکھلا دون اور متحیر ہوکر کائنات عالم کے معجزہ کو دیکھون اُسکی عظمت کے خیال مین محو ہو جاؤن جس نے یہ سب کچھ بنایا اور بناتا ہے جو ہے اور جو وہ نہین ہے جس کو مین دیکھ رہا ہون۔ باقی سب ظاہری صورتین ہین اور خفیف رسوم جو مختلف قومون کے ساتھ اپنا رنگ جدا جدا دکھاتی ہین۔

لیکن اے دوست تو جانتا ہے کہ یہ ظاہری صورتین .... بھی میرے نزدیک ضروری ہین۔ صرف اتنا لازم ہے کہ وہ شخص جو احتیاط اور مہربانی کے ساتھ خلق خدا پر حکومت کرتا ہے اس کو چاہیئے کہ ان ظاہرا صورتون کو ایسے سانچے مین ڈھالے جو سب کے لیئے موزون ہو جاوین۔

یہ ظاہرا صورتین کیا ہین۔ خوبصورت لباس ہین۔ کہین سادے کہین قیمتی چست یا ڈھیلے جو ادھر اودھر اُڑتے پھرتے ہین۔ ان مین جو حرارت ہے وہ دل کی حرارت ہے۔ ان مین جو حرکت ہے وہ ہاتھ پیرون کی حرکت ہے جب پرانے ہو جاوین تو انکی جگہ نئے بدلے جا سکتے ہین یہ صورتین فطرت کے بازار مین روحانی کھلائی جاتی ہین۔ یہ انسان مین خدا کے ہونے کی خاموش ابجد ہین جو بول اُٹھتی ہین۔ یہ علم ہین جو اس قوت کا نشان دیتے ہین جو نظر نہین آتی لیکن وہ ورنہ سب پر حاکم اور قادر ہے۔

یہ صورتین وہ ریشمین رسن ہین جو بہشت سے لٹکائی گئی ہین تاکہ اس وقت جب حکمت کے طریقے ناکام رہین تو مخلوق کو زمین کی غلاظت مین لوٹنے سے بچا دے۔

سب سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ جب رعایا اپنے آقا کو دیکھے جسنے اسکے لیئے ان صورتون کو پیدا کیا ہے توان کی پابند ہو اور آقا کی مطیع تاکہ اس کنارہ پر بھی ایک حد تک اپنی طرح کی زندگی بسر ہوسکے جو پل کے اُترنے کے بعد زندگی ہونے والی ہے اور اپنے مین اور اپنے سے باہر اس ذات ناپیدا کنار ہی کی خدمت ہوسکے جو سب کچھ ہے اور سب سے برتر ہے جو نہ بدلنے والی ذات واحد اور نہ ہمیشہ تغیر مین رہنی والی کثرت ہے جسکی حمد مین کلیسہ کا گھنٹہ - مسجد سے اذان - صنم پرستون سے راز الٰہی کی ٹوٹی پھوٹی آوازین بلند ہوکر ایک دھن مین خدا کی عبادت کا راگ گاتی ہین مغرب کی طرف - اس آہستہ غروب ہونے والے ستارہ کے نیچے مسیحی ایک روحانی سردار رکھتے ہین اور اے ابوالفضل مین بھی تیری صلاح اور مدد سے اپنے اسلام کا ایسا ہی سردار ہون کیونکہ شان سلطانی کا سراب اس وقت تک پورا نظر نہین آسکتا - جب تک اتنی قوت نہو کہ اپنی بیشمار رعایا کو متحد کرکے ایک کردون - ظلم و جور کے شیر کو شکار کرون اور ملت الٰہی کو مذاہب مختلفہ کی طوفانی سطح پر تیل کی طرح ڈال کر ان مین سکون پیدا کرون - طوفان نے جو موج اور موج مین غار ڈال دیئے ہین اُن کو پُر کردن اپنے بچون کو راستی کے دودھ پر پرورش کردن - قدیم عداوتون کو کیمیا کے زور سے عشق کا کندن بناکر سکہ رائج کردون - اور اُن مذہب پیشہ لوگون کے قاتل سم کو جو افعی کی طرح پھن اُٹھاتے ہین کچل کر نیست و نابود کردون - ایک اللہ ہو - ایک خلیفہ - لیکن بعض اوقات شبہ پیدا ہوتا ہے - خوف دامن گیر ہوتا ہے - اور کل دوپہر کے وقت تو خواب ہی دیکھا تھا - تجھکو معلوم ہوگا کہ میرا دل اپنے فرزند سلیم کی محبت کے لیئے کیسا عمیق چاہ ہے اور وہ ہی میرا وارث ہے مگر یہ میرا خواب کیسا وحشت ناک ہے - مین دیکھتا ہون کہ سلیم تیری طرف بُری نظرون سے دیکھتا ہے گویا تو وہ ہے جس نے مجھکو صلاح اور مشورہ دینے مین شرکت اور لامذہبی کی شراب پلا دی ہے -

مین نے یہ خواب دیکھا کہ ایک پتھر رکھکر مین نے ایک مقدس معبد تعمیر کیا ہے جو نہ بتخانہ ہے نہ مسجد نہ کلیسہ۔

یہ عمارت بلند اور سادہ تھی اور اسکے دروازے آسمان کی نسیم کے لیئے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ راستی۔ امن۔ محبت۔ انصاف۔ اس گھر مین آکر بس گئے تھے۔ ہم اور تم اس قصر عالیشان کو کھڑے دیکھتے اور خوش ہورہے تھے کہ دفعتہً ہنسنے کی آواز آئی جیسے کوئی کسی کو چھیڑتا ہے اور یہ الفاظ سنائی دیئے "نیا قرآن" اس کے بعد دفعتہً سلیم کا نام سنا اور فوراً مجھکو دیکھا کہ میرے سامنے مرکر گرا سیاہ پر والے عزرائیل نے مجھ کو بھی مغلوب کیا۔ لیکن چونکہ موت کے بعد سماعت وبصارت ہے۔ مین نے اپنے فرزند اور ان کو جو اسکے پیرو تھے دیکھا کہ میری تعمیر کے ایک ایک پتھر کو علحدہ کرکے اس کو کھنڈر کردیا ہے اور اس کھنڈر سے لاکھون مظلومون کی چیخون اور کوسنون کی آوازین اس طرح بلند ہوئی ہین جیساکہ پہلے کبھی حال تھا مین اس حالت کو دیکھکر آہین بھرتا تھا کہ مغرب کی سمت سے ایک اجنبی قوم آئی اور اس نے میرے قصر کے ایک ایک پتھر کو پھر جمع کیا اور راستی۔ امن۔ محبت۔ انصاف پھر اس مین آئے اور آباد ہوگئے۔

میدانون مین ستی کی آگ پھر نہ نظر آئی اور نہ کم سن بیوی اور بیوہ کی پردرد آہین سنائی دین۔ سب تعریف اللہ کی ہے جسکے ہاتھ سے اس نے چاہا میرے مقصد کو پورا کروایا۔ لو اب نوبت کی آواز آنے لگی ہے محل مین سب جاگ اٹھے اور صبح نے رات کی سیاہ پلکون کو روز بیدار کے گلابی رخسارون سے اٹھادیا۔ اور سورج کی تعریف کے گانے وہ گارہے ہین اب ہم کو بھی چلنا چاہیئے

سورج کی تعریف

پھر تو آسمان پر چمکتا ہوا پڑھا۔ پھر تجھ کو مین نے چمکتا ہوا دیکھا۔ ہر صبح تیری پیدایش کا دن ہے۔ انسان کی آنکھ اور دل کو تو خوش کر رہا ہے۔ ہر صبح ہم تجھکو یہان آکر سلام کرتے ہین اور تیرے سامنے بہت جھکتے ہین۔ تو مثل خدا کی ہے۔ تو نہ بدلنے والا بدلنے والے افلاک پر ہے۔

تو نے پرچھائین کا پیدا کرنے والا اور تو ہی پرچھائین کا مٹانے والا ہے ملکون ملکون اپنی روشنی کو تیرون کی طرح بھیجتا ہے۔

یہان تیرے دربار کے لاکھون شاعر پادشاہ پکار کر تیرے استقبال کو کھڑے ہین
اور چمن و صحرا کے راگون مین تیری تعریف گانے بیٹھے ہین پرندگاتے۔
ہین پھول کھلتے ہین آدمی اس گنبد نیلگون کے سایہ مین
جھکتے ہین اسکی عبادت مین جو ازلی و ابدی ہے
اور جو اس شعلے نور مین موجود ہے
جس سے وقت کو اندازہ
کرتا ہین

احوال دوازدہ صوبہ

بابر کے عہد سے ہندوستان کے انتظام و بندوبست نے ایک نئی صورت پیدا کی اور شیر شاہ نے سلطنت کے تو بالکل صحیح اصول قائم کیے اُس نے ساری قومون اور فرقون کو انتظام سلطنت مین شریک کر لیا۔ یہ بیج جو اُس نے بویا تھا وہ اکبر کی آبیاری سے بڑا بارور درخت ہوا۔ اکبر نے اپنی ابتدائے سلطنت مین شیر شاہ کے تمام ضوابط و سررشتے و صیغے بدستور قائم رکھے۔ شیر شاہ و سلیم شاہ کی قابلیتون اور لیاقتون کا شہنشاہ اکبر ایسا قائل تھا کہ اُن کو ملائک السلاطین کہتا تھا۔ گو شیر شاہ نے ہمایون اُس کے باپ کو ہندوستان سے شکستین دیکر نکالا تھا۔ ابوالفضل نے جو سلطنت کے آئین و ضوابط بیان کیے تھے اُس کا بیان ہم لکھ چکے ہین۔ اب دوازدہ صوبہ کا حال جو اُس نے لکھا ہے وہ نہایت مختصر بیان کرتے ہین اور اسپر کچھ اضافہ اور اُن کا نقشہ جو انگریزی تاریخون کے ساتھ چھپا پایا جاتا ہے اُس کو بھی اپنے نقشون کی جلد مین چھاپتے ہین۔

اکبر کی سلطنت کے بعض صوبے یورپ کی سلطنت کے برابر وسعت رکھتے تھے۔

سنہ ۴۰ الٰہی مین شہنشاہ اکبر کی قلمرو مین ۲۷۳۷ قصبے اور ۱۰۵ سرکارین تھین۔ جب جمع دہ سالہ مقرر ہوئی ہے تو ان صوبون کی جمع ۳ ارب ۶۲ کروڑ ۹۷ لاکھ ۵۵ ہزار ۲ سو چھیالیس دام تھے یعنی ۹ کروڑ ۷ لاکھ ۴۳ ہزار ۸۸۱ اکیاسی روپے اور ۱۲ ہزار برگ تنبول تھے۔

بادشاہ نے اپنے ملک کو بارہ حصون مین تقسیم کیا ہر حصہ کا نام صوبہ رکھا اور اس کو کسی ملک یا شہر کے نام سے موسوم کیا۔ ان صوبون کی تفصیل یہ ہے کہ (۱) الہ آباد (۲) آگرہ (۳) اودھ (۴) اجمیر (۵) احمد آباد (۶) بہار (۷) بنگالہ (۸) دہلی (۹) کابل (۱۰) لاہور (۱۱) ملتان (۱۲) مالوہ۔

جب دکن مین برار و خاندیس و احمد نگر فتح ہو گئے تو یہ تین صوبے اور بڑھ کر پندرہ صوبے ہو گئے۔ ہم ان صوبون کا بیان مشرق سے جو پایین ہند ہے شروع کرتے ہین اور

زابلستان پر جو بالائے ہند ہے ختم کرتے ہین۔

درازی بندر چاٹگانون سے گڈھی تک چارسو کوس اور پہنا شمالی کوہ سے سرکار مداران تک دوسو کوس۔

جب اس صوبہ پر ملک اڈیسہ کا اضافہ ہوا تو اس صوبہ کا طول ۴۴ کوس اور عرض ۲۲ کوس بڑھ گیا اسکے مشرق مین دریا شور شمال وجنوب مین کوہ مغرب مین بہار مشرق مین ایک ولایت بھائی ہے اُسکو بھی اس ملک مین شمار کرتے ہین۔ اس ولایت کے پہلو مین راجہ آشام کا ملک ہے۔ اسکی فرد شکوہ کی بڑی باتین بنائی جاتی ہین جب راجہ مرتا ہے تو اُسکے خاص مرد وزن کشادہ پیشانی سے زندہ در گور ہو جاتے ہین۔ اس سے پایان تبت پیوستہ او اُسکے چپ مین ختا جسے مہا چین مین جاتے ہین جسکو ماچین کہتے ہین دار الملک خان بالغ سے دریای شور تک چالیس منزل مین ایک نہر کاٹی ہے اُسکے کنارہ پتھر وچونہ سے بنائے ہین۔ مشرق وجنوب کے درمیان ایک فراخ ملک ہے جس کا نام ارنگ ہے۔ بندر چاٹگانون آہین ہی یہان کے آدمیون کا مذہب ہندو مسلمانون کے مذہب سے نرالا ہے۔ اُنکے ہان سگی مان کے سوا سب سے ازدواج جائز جانتے ہین اسکے قریب پیگو ہے جسکو چین کہتے ہین۔ پُرانی کتابون مین اُسکو دار الملک چین لکھا ہے۔

فلزات کے کانون پر گھ ہیرہ کی قومون مین لڑائی رہتی ہے۔

بنگالہ کا اصلی نام بنگ ہے۔ پہلے فرمانروان نے سارے ملک مین بیس گز چوڑی اور دس گز اونچی خیابانین بنائی تھین اور اُنکو آل کہنے تھے۔ بنگ اور آل ملکر بنگالہ زبان زد خلائق ہوا ہر مقام مین دریا کی افراط ہے۔ پائین گنگا مین یہ صوبہ واقع ہے۔ یہان کے آدمی سوائی دھوتی کے کچھ اور لباس نہین پہنتے عورتون پر اُنکے کامون کا مدار ہے نرسل وبانس کے مکانات بناتے ہین جنمین سے بعض پانچ پانچ ہزار روپے کی لاگت کے ہوتے ہین وہ بہت دیرپا ہوتے ہین آمد و شد کشتی پر ہوتی ہے خاصکر بارش مین لڑائی بار برداری اور تیز روی کے لیے طرح طرح کی

کشتیان بناتے ہین۔ قلعہ گیری کے لیئے ایسی کشتیان تیار کرتے ہین کہ جب ساحل پر جائین
تو وہ ایسی بلند ہوجائین کہ قلعہ پر آسانی سے غالب آئین۔

اس دیار مین خواجہ سرا تین طرح کے ہوتے ہین (۱) صندلی (۲) بادامی (۳) کافوری
اول کے تینون عضو کو جڑ سے کاٹ دیتے ہین اُن کو اطلسی بھی کہتے ہین۔ دوسرے مین آلت فعلی
ہوتا ہے۔ سوم خصیتین کو بچپنے سے مل مل کر نابود کردیتے ہین یا نکال لیتے ہین۔ کہتے ہین کہ
آدمی کے سواے جس جاندار کو خصی کیجیئے اُسکی سرکشی کم ہوجاتی ہے مگر اس سے مردم زاد کی سرکشی
بڑھ جاتی ہے۔

جنت آباد ایک پُرانا شہر ہے کئی دفعہ دارالملک رہ چکا ہے اُس کا نام لکھنوتی زبان زد خلائق ہے
بعض اُسکو گور بھی کہتے ہین جنت آشیانی ہمایون نے لکھنوتی کا نام یہ جنت آباد رکھا تھا۔

پانگانون ایک بڑا شہر سمندر کے کنارہ پر ہے وہ ایک عمدہ بندر ہے جہان فرنگی اور تاجر آتے
جاتے ہین۔ ستاگانو اور ہگلی دو اور بندر ہین جنہین آدہ کوس کا فاصلہ ہے دونون فرنگیون کے پاس
ہین اڑیسہ ایک جدا ملک تہی وہ بنگالہ مین داخل ہے اسمین ایک سو نو پختہ قلعے ہین اسمین ایک
عورت کئی کئی خاوند کرتی ہے تاڑ بر لوہے کے قلم کو ہاتھ مین لیکر لکھتے ہین۔ کٹک یہی ایک
سنگین قلعہ ہے اور اس ملک مین جگن ناتھ کا بڑا مندر ہے

اس صوبہ بنگال مین ۲۴ سرکارین ہین ۸۷ محال جمع ۵۹ کڑور ۸۴ لاکھ ۵۹ ہزار ۳ سو ا ٹھ
دام سب نقد ہے۔ ۲۳ ہزار ۳۳ سو تیس سوار۔ آٹھ لاکھ ایک ہزار ایک سو پچاس پیادے۔ ۱۱۷۰
ہاتھی ۴ ہزار دو سو ساٹھ توپ چار ہزار چار کشتی۔

گڑھی سے رہتاس تک ۱۲۰ کوس تک لمبا اور ترہت سے شمالی کوہسار تک سو کوس چوڑا
مشرق مین بنگالہ مغرب مین الہ آباد و اودہ۔ شمال وجنوب مین کوہ بزرگ دریا بہت سے
ہین سرکار بہار مین موضع راج نگر مین سنگ مرمر کی کان ہے اس سے سنگ مرمر کے پیالے
بناتے ہین۔ یہان گیا کا معبد ہے اُس کو برہما سے منسوب کرتے ہین۔ منگیر مین دریائے

ہمارہ نمبر (۱۲۱)

گنگ سے کوہ تک ایک سنگین دیوار کھچی ہوئی ہے اُس کو سرحد بنگالہ کہتے ہین - ترہت مدتون سے دارالعلم ہے رہتاس کوہ پر ایک قلعہ ہے - پٹنہ بڑا شہر ہے بنگال اور بہار دونون مل کر ملک فرانس کی برابر ہین اس صوبہ مین ۷ سرکار ١٩٩ پرگنے جمع ٢٢ کروڑ ١٩ لاکھ ١٩ ہزار ۴ سو ۴ دام ضبطی ٨ ٣ ٢ ٢ زمین پیمودہ ٢۴ لاکھ ۴۴ ہزار ایک سو بیس بیگہہ ۷ اکروڑ ٢٦ لاکھ ١٨ ہزار ۷ سو چہتر دام نقد ہے اور اس مین سے ۴ کروڑ ٢ ٩ لاکھ ۷ ٢ ہزار ٦ سو ٣ ½ دام سیورغال - بومی ١١ ہزار ۴ سو پندرہ سوار اور ۴ لاکھ ٩ ۴ ہزار ٢ سو پچاس پیادے اور سوکشتی ان دونون صوبون کی مال گذاری ڈیڑہ کروڑ روپیہ انگریزی تخمینہ ہے -

(٣) صوبہ الہ آباد

طول مین سنجھولی جون پور سے جنوبی کوہ تک ١٦٠ کوس - عرض مین گذرچوسا سے گھاٹم پور تک ١٢٢٠ کوس - مشرق مین بہار - شمال مین اودہ - جنوب مین باندھہ - غرب مین آگرہ - الہ آباد کا پہلا نام پیاگ (پریاگ) ہے اکبر شہنشاہ نے اس کا نام الہاباد یا الہاباس رکھا ہے اس مین قلعہ بنایا ہے اور عمدہ عمدہ محل اسمین تعمیر کیے ہین - پریاگ کو ہندو معابد کا بادشاہ سمجھتے ہین - اُسکے قریب گنگا - جمنا سرستی آپسمین ملتی ہین سرستی الوپ ہوگئی ہے - ان تینون دریاؤن کے ملاپ کو ترہینی کہتے ہین - بنارس اصل مین بارانسی ہے ایک بڑا شہر ہے - برنہ اور اسی ندیون کے درمیان پُرانی کتابون مین اسکو کاسی لکھا ہے کمان کی شکل کا شہر ہے جسکی زہ گنگا ہے یہان ایک بت خانہ ہندوؤن کا کعبہ ہے - جہان جاتری آنکر پرکہما کرتے ہین - مدتون سے یہ شہر ہندوؤن کا دارالعلم ہے اور دور دور سے تحصیل علم کے لیے یہان طلبا آتے ہین اور جان وتن کی گذارش کرتے ہین -

جونپور بڑا شہر ہے - کالنجر بڑا قلعہ ہے - کاری بھیرون جسکے اٹھارہ ہاتھ ہین کالنجر کی دیبی ہے -

اس صوبہ مین ١٠ سرکار ١٧٧ پرگنے جمع ٢٠ کروڑ ۴ ٢ لاکھ ٢٧ ہزار ٨ سو ١٩ دام اور ١٢ لاکھ پان اُسکے اندر ١٣ ضبطی زمین پیمودہ ٩ ٣ لاکھ ٦ ٨ ہزار ١٨ بیگہہ ٣ بسوہ اس کا زرجمع

۲۰ کروڑ ۲ لاکھ ۱۷ ہزار ۲ سو چوبیس دام اور ۲۶۴ پرگنے نقدی جنگلی مال گذاری ۴۹ لاکھ
۵۶ ہزار ۵ سو ۹۵ دام ان مین سے ایک کروڑ ۱۱ لاکھ ۶۵ ہزار ۴ سو سترہ دام سیورغال
بومی ۱۱ ہزار ۳ سو ۵۷ سوار - ۲ لاکھ ۳۷ ہزار ۸ سو سترہ پیادے - ۳۲۳ ہاتھی -
سرکار گورکھپور سے قنوج تک لمبا ۱۳۵ کوس شمالی کوہ سے سدہ پور صوبہ الہ آباد تک چوڑا
۱۱۵ کوس مشرق مین بہار شمال مین کوہ - جنوب مین بانک پور - غرب مین قنوج -
اودہ (اجودھیا) ہند کے بڑے شہروں مین سے ہے طول بلد ۱۱۸° ۶' عرض بلد ۲۷° ۲۲'
کسی بڑے پرانے زمانہ مین ۱۴۸ کوس طول مین اور ۳۶ کروہ عرض مین یہ شہر آباد تھا -
وہ پرانے معابد مین سے ہے اب تک شہر کے گرد خاک چھانتے ہین اور سونا پاتے ہین - یہ
شہر راجہ رام چندر کی راجدھانی ہے - اسکے پاس دو قبرین چھ چھ سات سات گز کی لمبی ہین
جنکو عوام الناس حضرت شیث و حضرت ایوب کی خوابگاہ جانتے ہین فیض آباد کا شہر اسکے پاس ہے
بہرائچ بڑا شہر دریائے سرد کے کنارہ پر ہے - سالار مسعود اور رجب سالار کی قبرین ہین -
مسلمانون کو اُن سے بہت اعتقاد ہے - موضع دوکون مین دار الضرب ہے -
نیمکھار ایک بڑا قلعہ ہے - لکھنو دریا گومتی کے کنارہ پر بڑا شہر ہے - کھیری ایک قصبہ سئی
ندی کے کنارہ پر ہے وہان کے آدمی کشتی مین سوار ہوکر نیزہ سے مچھلی کا شکار کرتے ہین -
بلگرام ایک قصبہ خوش ہوا ہے یہان کے اکثر آدمی خوش فہم و سرود سرا ہوتے ہین ایک
کنوان ہے اگر چالیس روز اُس کا پانی کوئی آدمی پیئے تو شناسائی و حسن منظر مین زیادہ ہو جاتا ہے
اس صوبہ مین ۵ سرکار ۱۳۸ پرگنے زمین پیمودہ ایک کروڑ ایک لاکھ ۱۷ ہزار ایکسو
اسی بگھہ جمع ۲۰ کروڑ ۱۷ لاکھ ۵۸ ہزار ایک سو ۷۲ دام اس مین سے ۵۸ لاکھ ۲۱ ہزار چھہ سو
اٹھاون دام سیورغال - بومی ۷ ہزار ۶ سو ۴۰ سوار - ایک لاکھ ۶۸ ہزار دو سو پچاس پیادے
۵۹ ہاتھی انگریز مورخ لکھتے ہین کہ دونون صوبون الہ آباد اودھ مین اکثر صوبہ دار ایک ہی
ہوا کرتا تھا ان دونون کا رقبہ مل کر آئرلینڈ سے بڑا ہوگا مالگذاری انکی ایک کروڑ ۳۲ لاکھ

سے کچھ زیادہ ہے۔ طول مین گھاٹم پور الہاباس سے پلول دہلی تک ۱۷۵ کوس عرض مین
قنوج سے چندیری مالوہ تک مشرقی حد گھاٹم پور شمالی دریائے گنگ جنوبی چندیری غربی پلول
آگرہ بڑا شہر ہے پانچ کوس تک اسکے درمیان دریا بہتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے سنگ سرخ
سے ایک قلعہ بنوایا ہے پانچسو سے زیادہ اس مین کوشک بنگالہ وگجرات کی وضع کے بنوائے
ہین پہلے آگرہ ایک گاؤن تھا۔ سکندر لودی نے اس کو پایہ تخت بنایا پھر اکبر نے اس کو
اور رونق دی اسکے نام پر اس شہر کا نام اکبرآباد مشہور ہوا۔

فتح پور ایک گاؤن بیانہ کا تھا جس کو سیکری کہتے تھے وہ دارالخلافہ سے بارہ کوس پر ہے۔
شہنشاہ اکبر نے اس کو ایک عمدہ شہر بنادیا سنگین قلعہ بنایا۔ اسکے دروازون پر دو سنگین
ہاتھی بنوائے۔

بیانہ پہلے ایک بڑا شہر تھا اس مین قلعہ تھا بہت سے محل اور تہ خانہ تھے اب تک اسمین سے
آلات جنگ کھود کر نکالتے ہین صوبہ آگرہ کو صوبہ بیانہ بھی کہنے لگے ہین۔

متھرا۔ جمنا کے کنارے ایک شہر ہے۔ اسمین بڑے بڑے بتخانہ اور پرستش کدے ہین۔

کالپی۔ ایک بڑا شہر ہے اسمین بزرگونکی قبرین بہت ہین۔

قنوج پہلے زمانہ مین ہندوستان کا دارالملک تھا۔

گوالیار۔ نامور قلعون مین سے ہے۔ دروازے پر سنگین فیل تعجب دلاتے ہین۔ پہلے فرمان ہونکی
بڑی بڑی عمارتین موجود ہین۔ لوہے کی کان ہے۔ جادہ نغمہ خنیاگر اور دلربا خوبرو پیدا ہوتے ہین

الور بھی ایک شہر ہے وہان تانبا بہت نکلتا ہے

اس صوبہ مین ۱۳ سرکارین ۲۰۳ پرگنے۔ زمین پیمودہ ۲ کروڑ ۷۸ لاکھ ۶۲ ہزار ایکسو
نواسی بیگہہ ۱۸ بسوہ۔ جمع ۵۴ کروڑ ۶۲ لاکھ ۵۰ ہزار ۳ سو ۴ دام۔ اسمین سے ایک کروڑ
۱۲ لاکھ ۵ ہزار ۸ سو ۳ ½ دام سیورغال۔ بومی پچاس ہزار ۶ سو اکیاسی سوار ۵ لاکھ
۷۷ ہزار ۵ سو ۷۰ پیادے ۲۲۱ ہاتھی۔

(۹) صوبہ مالوہ

طول مین پایان گدہ سے بانسواڑہ تک ۲۴۵ کوس عرض مین چندیری سے ندربار تک ۲۳۰ کوس مشرقی حد باندھو شمالی اورجنوبی بگلانہ مغربی گجرات۔ اجمیر کوہ جنوبی اُسکی آب وہوا کا اعتدال اور زمین کا پیداوار مشہور ہے ضرب المثل ہے کہ مالوہ مین کوئی بھوکا نہین رہتا ہر قدم پر آب ونان موجود ہے۔

اجین ایک بزرگ شہر ساحل سپرا پر ہے۔ ہندون کی بڑی پرستشگاہ ہے۔

گدہ ایک ملک جداگانہ پردرخت ہے۔ چندیری پُرانا شہر ہے اس مین سنگین قلعہ ہے۔ اُس مین چودہ ہزار سنگین بڑے مکان اور تین سو چوراسی بڑے چوڑے چکلے بازار اور بارہ ہزار مسجدین ہین۔

منڈوا ایک بڑا شہر ہے اُسکے قلعہ کا دور بارہ کروہ ہے۔ اس دیار مین سنگ پارس نکلتا ہے جسکی کہانیان عجیب وغریب مشہور ہین۔

قصبہ دھار راجہ بھوج کی تخت گاہ تھی۔

اس صوبہ مین ۱۲ سرکار ۳۰۱ پرگنے۔ زمین پیمودہ ۴۲ لاکھ ۶۶ ہزار ۳ سو ۱۱ بیگہ ۹ بسوہ جمع ۴۲ کروڑ ۶ لاکھ ۹۵ ہزار ۵۲ دام اسمین سے ۱۱ لاکھ ۵۰ ہزار ۴ سو ۳ دام سیورغال ہے بومی ۲۹ ہزار ۶ سو ۶۸ سوار۔ ۴ لاکھ ۷۰ ہزار ۳ سو ۶۱ پیادے۔ ۹۰ ہاتھی۔ اس صوبہ کا رقبہ بھی صوبہ اودہ کے رقبہ کی برابر ہے۔

(۱۰) صوبہ دواندیس (خاندیس)

اس آباد سرزمین کو خاندیس کہتے ہین جب قلعہ آسیر فتح ہوا اور شہزادہ دانیال کو یہ ملک شہنشاہ اکبر نے عنایت کیا تو شہزادہ کے نام پر اس صوبہ کا نام داندیس رکھا طول مین بورگانون سے جو ہندیہ سے پیوستہ ہے للنگ تک جو ولایت احمدنگر سے متصل ہے ۷۵ کوس عرض مین جامود برار سے پیوستہ ہے پال تک کہ مالوہ سے ملا ہوا ہے ۵۰ کوس کہین کہین ۲۵ کوس مشرقی حد برار شمالی مالوہ جنوبی گالتہ مغربی مالوہ کے کوہ جنوبی رود بار بہت ہین آسیر۔ ایک بہت اونچے پہاڑ پر قلعہ ہے اُسکے گرد اور تین قلعے ہین جو استواری اور بلندی

ہین کمتر نظیر رکھتے ہین اُسکے پیچھے ایک بڑا شہر آباد ہے۔

برہان پور ایک بڑا شہر تاپتی کے کنارہ پر ہے۔

اس صوبہ مین ۳۲ پرگنے کشت وکار سے بہت کم خالی ہین اسکے بہت سے دیہات شہرون کی مانند ہین کشادرز فرمان پزیر دکار گذار بومی کولی وبھیل وگونڈیہ لوگ شیر کو فرمان پذیر کرلیتے ہین۔

اسکی جمع ایک کروڑ ۲۶ لاکھ ۷۴ ہزار ۴۶ ٹنکہ براری ہے۔ جب آسیر فتح ہوگیا تو جمع ڈیوڑھی ہوگئی۔ براری ہر ٹنکہ مین ۲۴ دام اعتبار کرتے ہین اس لیئے (۴۵ کروڑ ۲۵ لاکھ ۹۴ ہزار ۲ سو ۳۲ دام اکبری) جمع ہوئی۔ انگریزی تاریخون مین ایک کروڑ تیرہ لاکھ روپیہ کے قریب لکھی جاتی ہے۔

اصل نام اس کا وردا تٹ ہے ورداندی ہے تٹ کنارہ کو کہتے ہین طول مین بٹیالہ سے بیراگڈہ تک دوسو کوس۔ عرض مین بیدر سے ہنڈیہ تک ۱۸۰ کوس۔ مشرق مین بیراگڈہ پیوستہ بستہ۔ شمال مین ہنڈیہ۔ جنوب مین تلنگانہ مغرب مین مہکر آباد۔ یہ ملک دوجنوبی کوہ کے درمیان ہے جنمین سے ایک کو بندہ کہتے ہین۔ گاویل۔ نرنالہ میل گدہ اسیر مین دوسرے کو سنہیا کہتے ہین ماہور و رام گڈہ اسیر ہین۔ آب و ہوا۔ زراعت نہایت عمدہ اس مین بہت سی ندیاں ہین۔ سب مین اچھی ندی گنگ گوتی ہے اُس کو گوداوری بھی کہتے ہین۔ ہندوستان کی گنگا کو مہادیو سے نسبت دیتے ہین اور اِس کو گوتم سے اُسکے عجیب افسانے بیان ہوتے ہین اسکی بڑی پرستش ہوتی ہے کوہ سیہاسے ترینک کے نزدیک سے وہ نکلتی ہے۔ احمدنگر کی ولایت مین گذرتی ہوئی برار مین آتی ہے اور تلنگانہ مین جاتی ہے جب مشتری اسد مین آتا ہے تو آدمی دور دور سے پرستش کے لیئے آتے ہین۔ نالی اور تپتی کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ دنول گانون کے نزدیک سے پورنا ندی نکلتی ہے۔ اس ملک مین چودہری کو دیس مکہہ کہتے ہین۔ اور قانون گو دیس پانڈیہ۔ مقدم کو پٹیل و پٹواری کو کلکرنی ایلچ پور۔ ایک بڑا شہر ہے

وہ پایہ تخت ہے دہان بنفشہ کا پھول بڑا خوشبودار ہوتا ہے بھوپن چنپہ اُس کو کہتے ہین
زمین سے ملا ہوا پیدا ہوتا ہے اُس سے سات کوس پر گاویل ایک بزرگ قلعہ ہی جسکی نظیر
کم تر ملتی ہے اس مین ایک چشمہ ہے جس مین ہتھیارون کو آب دیتے ہین۔
پنار۔ ایک سنگین قلعہ ہے ایک پشتہ پر اُسکے تیی طرف دو ندیان ہین۔
کھیرلہ۔ زمین پر سنگین حصار ہے اُسکے درمیان ایک کوہچہ ہے اُسکی پرستش ہوتی ہے اُسکے
چار کوس پر ایک چاہ ہے۔ جس جانور کی ہڈیان اُسمین ڈالین پتھر ہوجاتی ہین وہ خرمہرہ کی مانند
ہوتی ہین مگر چھوٹی۔ اسکے مشرق مین ایک زمیندار ہے چاتوا نام ہے پاس ۲ ہزار سوار
۵۰ ہزار پیادون سو سے زیادہ ہاتھیون کا خدیو ہے۔ اسی کی مانند ایک زمیندار رادھی
رادھی ہے۔ سو سوار و پنج ہزار پیادے اُسکے زیر حکم ہین۔ شمال مین ناہر راؤ زمیندار ہے
دو سو سوار ۵ ہزار پیادے اس پاس رہتے ہین۔ پہلے اُس کے پاس ایک زمیندار
ہتھیا راؤ تھا۔ اب اُس کی زمین کے اور مالک ہوگئے ہین۔ سب زمیندار قوم کے گونڈ ہین
اُنکی زمین مین فیل صحرائی بہت پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ حاکم مالوہ کے مطیع تھے پہلے
مرزبان گڈہ کے اور اب سرکار ہنڈیہ کے۔
نرنالہ۔ پہاڑ پر ایک بڑا قلعہ ہے۔ بہت عمارتین اس مین بنی ہوئی ہین اسکے پاس بیجا جیو
زمیندار رہتا ہے دو سو سوار اور پانچ ہزار پیادے اس پاس رہتے ہین دوسرا زمیندار
ڈونگر خان ہے۔ ۵۰ سوار اور ۳ ہزار پیادے اس پاس رہتے ہین۔ یہ دونون الوس گونڈ سے ہین
بالاپور کے نزدیک دو ندیان ہین اُسکے گرداگرد خوشرنگ پتھر طرح طرح کے ہوتے ہین۔
لوگ ان کو تراش کر اپنے پاس رکھتے ہین اس سے چھ کوس پر شاہزادہ سلطان مراد نے
اپنا بنگاہ بنایا تھا۔ شاہ پور اس کا نام رکھا تھا جو ایک عمدہ شہر ہوگیا۔
سنبل گڈہ کے نزدیک ایک چشمہ ہے کہ چوب اور اُسکے سوا جو چیز اس مین ڈالو وہ پتھر ہوجاتی ہے
کلم قدیمی عمدہ شہرون مین سے ہے گاؤ نیشی عمدہ ہوتی ہے اُسکے پاس ایک زمین ہی جسکا نام

ب جیو ہے وہ الوس گونڈ سے ہے چاندا نام سے زبان زد خلائق ہے ہزار سوار چالیس ہزار
پیادے اُس پاس ہین۔

ہیرا گڈھ مین الماس کی کان ہے اسمین تصویردار پارچہ اور اور پارچہ بھی خوب بُنا جاتا ہے۔
بت جیو اسپر قابض تھا تھوڑا عرصہ گذرا کہ وہ اس سے چھن گیا۔ فیل صحرائی بہت ہوتے ہین
باسم کے پاس بومیان رہتے ہین اُن کو ٹھکران کہتے ہین ایک لاکھ سوار پانچہزار پیادے
ان پاس ہین ان مین زیادہ نخوت فروش وتمرد گزین آدمی ہوتے ہین۔ ایک اور زمیندار
ہے جسکو بہارہ کہتے ہین سو سوار اور دو ہزار پیادے اس پاس رہتے ہین۔ آج کل ایک عورت
سرداری کرتی ہے دونون قوم کے رجپوت ہین۔

ماہور پہاڑ پر ایک عمدہ قلعہ ہے اُس کے پاس ایک بت خانہ ہی درگا سے منسوب ہے اس ملک
مین اسکو بجگدڈ تھا کہتے ہین۔ گاؤمیش خوب ہوتا ہے آدہ من یا اس سے زیادہ دودہ دیتا ہے
بومی یہان کا اندرجیو راجپوت ہے سو سوار ہزار پیادے اس پاس رہتے ہین اور اسکو رانا
کہتے ہین۔

مانگ درگ پہاڑ پر ایک عمدہ قلعہ ہے اُسکے گرد ایک بڑا جنگل ہی۔ چاندا کے نزدیک ہے۔ ابھی وہ
عملداری مین نہین آیا۔

سرکار پاتھری مین جینتور ایک قصبہ ہی ہمیشہ جواہر ونفائس کی خرید وفروخت وہان ہوتی ہے۔

تلنگانہ قطب الملک کے ملک سے متعلق تھا کچھ دنون سے مرزبان برار نے لے لیا ہی ایندرو ونرمل مین فولاد
وغیرہ کی کانین ہین سنگین آوندہائے گزین تراشتے ہین گاؤ بہت عمدہ ہوتی ہے تعجب یہ ہے کہ یہان
خروس ایسا ہوتا ہے کہ اُسکی ہڈیان اور خون سیاہ فام ہوتے ہین چنپانیری ایک بومی دیس مکھ
ہے اسکے فضائل عمدہ ہین۔

رانگر (رانگر) مضبوط قلعہ پہاڑ پر ہی اور اُسکے گرد بہت جنگل ہی صحرائی فیل بہت۔ ابھی وہان عمل شاہی نہین ہوا
کنار مہکر کا ٹھہ ہی اسکی بڑی پرستش ہوتی ہی برہمن اُسکو بشن گیا کہتے ہین۔ گیا تین جگہہ ہین جہان ہین

باپ دادا کو نجات ہوتی ہے۔ ایک پہاڑ مین گیا ہی وہ برہما سے منسوب ہے ایک اور گیا جسکو
رودر سے منسوب کرتے ہین وہ۔ بیجاپور کے پاس ہے اور یہ ایک حوض ہے چشمہ دار بہت گہرا
لمبان چوڑان مین ایک کوس اسکے گرد اونچا پہاڑ ہے۔ آب شور اسمین ہوتا ہے اگر اُسکے
اندر کنارہ پر کھودین تو شیرین پانی نکلتا ہے آبگینہ وصابون وشورہ کا مایہ اُس سے خوب
حاصل ہوتا ہے بہت محصول اس سے حاصل ہوتا ہے کوہ کے اوپر چشمہ ہے اُس کا دہن گاؤ کی
شکل کا ہے اور تیسری گیا ایک چشمہ کوہ پر ہے اس کا دہنہ گائے کی شکل کا ہے۔ بندر بہت ہوتے
ہین۔ پٹیالہ ایک استوار قلعہ پہاڑ پر ہے۔ بتال نگری اُسکے مضافات سے ہے ۲۴
تجانے کمر کوہ مین تراشے ہین ہر ایک بت نہایت نادر ہے۔

اس صوبہ مین تیرہ سرکار ۲۴۴ پرگنے ہین مدت سے یہان بندوبست ہوا ہے اس دیار
کا ٹنکہ دہلی کے ۸ ٹنکہ کی برابر ہوتا ہے اصل مین جمع ساڑھے تین کروڑ ٹنکہ تھی جسکے ۵۶ کروڑ
دام ہوتے ہین۔ کچھ دکنیون نے بڑھا کر ۳ کروڑ ۵۷ لاکھ ۲۵ ہزار ۳ سو ۵۰ ٹنکہ کر دیے ہین۔
سلطان مراد کے زمانہ مین ۲۶ لاکھ ۷۳ ہزار ۴ سو ۴۵ ٹنکہ براری کا اضافہ ہوا تھا یہ سب
۶۰ کروڑ ۶ لاکھ ۳ ہزار ۲ سو ۷۲ دام دہلی کے ہوئے ان مین سے ۸ پرگنے سرکار کے حکم سے
داخل چاندا کے ہین جسکی جمع مقرر نہین ہوئی اور سرکار کھیرلہ سے ۲۲ پرگنے چاتوا اور بعض
اور زمین دار رکھتے ہین۔

صوبہ گجرات

طول مین برہان پور سے جگت تک ۳۰۲ کوس عرض مین جالور سے بندر دمن تک ۲۶۰ کوس۔
اور ادر سے بندر کھمبایت تک ۷۰ کوس مشرق مین خاندیس شمال مین جالور۔ جنوب مین بندر
دمن وکھمبایت۔ مغرب مین جگت کہ ساحل دریائے شور پر ہے اور کوہ جنوبی عمدہ رودبار۔ شور دریا۔
سابرمتی۔ ماترک۔ مہندری۔ نربدہ۔ تپتی۔ سرستی دو چشمے ہین جنکو جمنا و گنگا کہتے ہین۔ ہوا
اعتدال کے نزدیک پیدایش کم ہوتی ہے بیشتر بستی ہے بندوبست پہلا ہی رہتا ہی کھیتی اور باغ

کے گرد زقوم لگاتے ہین جس سے ایک عمدہ حصار بنجاتا ہے۔ اس سبب سے یہ ملک بڑا دشوار گذار ہوجاتا ہے۔ بعض آدمی پیش بینی سے چوڑی چوڑی بنیادین رکھتے ہین اور ان پر دیوارین جن مین کاواک ہوتے ہین بناتے ہین اور اُن مین مخفی راہین رکھتے ہین۔ سوار اکثر بہلی پر ہوتے ہین بیشمار نقاش وخاتم بند اور پیشہ در رہتے ہین صدف کا کام ایسا بناتے ہین کہ خوشخط معلوم ہوتا ہی قلمدان وصندوقچے بناتے ہین۔ روم و فرنگ و ایران کے طرح طرح کے قماش کی تقلید کرتی ہین۔ شمشیر وجمدھر و کپسوہ و تیر وکمان خوب بناتے ہین جواہر کی خرید وفروخت ہوتی ہے روم وعراق اور اور مقامون سے نقرہ آتا ہے۔

پہلے اس کا پای تخت پٹن تھا۔ پھر کچھ دنون چانپانیر ہوا اور اب احمد آباد ہے۔ یہ ایک بڑا شہر ہی نہایت عمدہ طرح سے آباد ہوا ہے۔ سابرمتی کے کنارہ پر ہے۔ عرض بلد ۲۳ ۲ خوش ہوائی مین اور ساتون اقلیم کا اسباب موجود رکھنے مین اپنا جواب کم رکھتا ہے اس مین دو قلعے ہین اسکے باہر ۳۶۰ معمورہ ایک خاص نمط پر ہین ہر ایک کا نام پورہ ہے ہر ایک پورہ مین جو شہر کے لیے ضروری چیزین ہوتی ہین موجود ہین۔ اب ۸۴ پورے آباد ہین انہین ہزار سنگین مسجدین ہین اور ہر مسجد مین دو منارہ اور نادر کتابے۔ رسول آباد کے پورہ مین شاہ عالم بخاری کا مزار ہی احمد آباد سے تین کوس پر ایک قصبہ بتوہ ہے قطب عالم پدر شاہ عالم اور بزرگونکی خوابگاہ ہی اور اسکے پاس نہایت عمدہ باغ ہین ایک ہاتھ کی برابر پارچہ قطب عالم کی درگاہ مین ہی جس کا کچھ حصہ چوب وکچھ سنگ کچھ حصہ آہن ہی عجیب عجیب داستانین اسکے باب مین گھڑی جاتی ہین تین کوس پر ایک موضع سرکھیج ہے اسمین شیخ احمد کھٹو کی قبر ہے سلطان احمد کی جسکے نام پر احمد آباد بسایا گیا ہے اور بہت سے سلاطین کی یہان قبرین ہین نیل یہان کا عمدہ ہوتا ہے روم جاتا ہے۔ بارہ کوس پر محمود آباد ایک شہر ہے سلطان محمود نے اسے آباد کیا تھا۔ چار کوس مربع مین دلنشین کاخ بنائے ہین اسکے گرد ایک دیوار کھینچی ہے۔ اور ہر آدہ کوس پر ایک باغ ونشیمن بنایا ہے آہو اور طرح طرح کے شکار ان مین چھوڑے جاتے ہین۔

ایدر مین ایک برہمن کا رہنے والا مرزبان ہے نراین داس اس کا نام ہے بہت ریاضت گر ہے
اول غلہ گاے کو کھلاتا ہے اور اوس کے گوبر مین سے جو دانے نکلتے ہین ان کو چن کر اپنی غذا
کرتا ہے۔ اور برہمن کو بڑا مقدس سمجھتا ہے اوس کو انوس داٹھور مین بزرگ سمجھتے ہین پانچسو
سوار اور دس ہزار پیادے اوس پاس ہین بندر گھوگہ و کنبھایت اس سرکار مین ہی۔ کنبھایت
بہت بڑا بندرگاہ ہے طرح طرح کے سوداگر اور بہت سی عمارتین اور اسباب اسمین ہین
نئے لگے ہے جہاز روانہ ہوتا ہے اور وہین آتا ہے بجرے و کشتیان جن کا نام تادری ہے کنبھایت
مین بناتے ہین۔

بھالوارہ قدیم زمانہ مین ایک ملک جدا تھا۔ اسمین بارہ سو دیہات آباد تھے۔ طول مین ۷
کوس عرض مین ۴۰ کوس تھا ایک ہزار سوار اور اسی قدر پیادے اسمین رہتے تھے اب اسمین دو ہزار
سوار اور ۳ ہزار پیادے رہتے ہین۔ اس کا حاکم حاکم گجرات کا ماتحت رہتا ہے اسکے چار حصون
مین زیادہ تر انوس جھالہ رہتے ہین اب اس کو سرکار احمد اباد کا ایک پرگنہ شمار کرتے ہین
پٹن مین دو قلعے ہین ایک سنگین دوسرا خشتی طول بلد ۷۱ ۱۱ عرض بلد ۲۳ ۳۰
سدہ پور ایک قصبہ ہے سرستی کے کنارہ پر بڑا معبد ہے۔
بڑنگر قدیمی بڑا شہر ہے تین سو بتخانے اسمین ہین ہر ایک بتخانہ کے پاس ایک کولاب ہے
اور بہت برہمن اسمین بستے ہین۔
چانپانیر نہایت عمدہ قلعہ بہت اونچے پہاڑ پر ہے ڈھائی کوس تک دشوار گذار ہے۔ کئی
جگہ دروازے لگائے ہین اور ایک جگہ ۶۰ گز کاٹ کر تختہ بند کیا ہی وقت پر اوس کو کام مین لاتے ہین
سورت نامور بنادر مین سے ہے اسکے قریب دریا تپتی گذرتی ہے۔ سات کوس پر دریای
شور سے ملتی ہے۔
رانیر اس طرف دریا کے ایک بندر اسکے توابع مین سے ہے پہلے زمانہ مین ایک بڑا شہر تھا بندر
گھنڈوی۔ بلسار بھی اسکے مضافات مین سے ہین۔ زردشتی کیش آدمیون جو کے فارس سے آن کر

یہان اپنا گھر بنایا ہی زند و پا ژند پڑھتے ہین اور دخمی بناتے ہین پادشاہ کے صلح کل ہونے کے سبب سے
ہر طائفہ کامیاب ہوتا ہے پادشاہی کارپردازون کی اور سرحد کے سپہ سالارونکی بے پروائی
سے اس سرکار کا بہت حصہ ابھی اہل فرنگ کے ہاتھ مین ہے جیسے کہ دمن۔

سنجان و تارا پور و ماہم اور بہت سے اور شہر اور بندر اہل فرنگ کے پاس ہین بہروچ مین ایک
عمدہ قلعہ ہو آب نربدہ اسی کے کنارے سے جاکر شور دریا مین ملتا ہی اسکو بڑے بندرون مین شمار کرتے
ہین بندر کاوی۔ گندھار۔ بھابھوت۔ بھنکورا اُسکے توابع مین سے ہین اسکے نزدیک قصبہ
ہانسوت ایک شکارگاہ ہے۔

سرکار سورٹھہ ایک ملک جداگانہ تھا ۵۰ ہزار سوار و ایک لاکھ پیادے اسمین رہتے تھے قوم گھلوت
اسمین بزرگی رکھتی تھی۔ طول مین بندر گھوگہ سے بندر آرامرای تک ۱۲۵ کوس اور عرض مین سرّدھا
سے بندر دیو تک ۷۲ کوس شرق مین احمدآباد شمال مین ولایت کچھ جنوب و غرب مین دریا شور
ہوا اسکی سازگار۔ میوہ گل فراوان۔ اس صوبہ مین ۹ سرکار ۱۹۸ پرگنے اُنکے درمیان تیرہ بندر
ہین جمع ۳۴ کروڑ ۶۸ لاکھ ۲۲ ہزار تین سو ایک دام و ایک لاکھ ۶۲ ہزار ۲۸۸ محمودی حاصل بنادر
زمین پیمودہ سوا سورٹھ کے جو نقدی ہے ایک کروڑ ۶۹ لاکھ ۳۶ ہزار ۲ سو ستر بیگہ ۲ بسوہ۔ اسمین سے
۴ لاکھ ۲۰ ہزار ۲ سو چوہتر دام سیورغال ہوئی ۱۲ ہزار ۴ سو ۴ سوار ایک سٹھہ ہزار ایکسو پیادے۔

طول مین موضع بھکر و مضافات انبیر سے بیکانیر و جیسلمیر تک ۱۶۸ کوس عرض مین نہایت سرکار
اجمیر سے بانسواڑہ تک ۱۵۰ کوس مشرق مین دارالخلافہ شمال مین قصبات دہلی جنوب مین گجرات
مغرب مین دیپال پور۔ ملتان۔ زمین ریگستانی۔ پانی دور جاکر نکلتا ہے کشت و کار کا مدار بارش پر
زمستان اعتدال کے نزدیک تابستان بہت گرم و ربیع کم ہوتی ہے۔ جواری اور لہڈرہ موٹھہ بہت
ساتوان۔ آٹھوان حصہ غلہ کا دیوان کو دیتے ہین اور نقد کم عوام الناس پھونس بانس کے جھونپڑون
مین خرگاہ کیطرح رہتے ہین اسمین کوہ جنوبی اور دشوار گذار جا ہین۔ یہ صوبہ میواڑ و مارواڑ و ہاڑوتی
سے بنا ہے۔ صوبہ اجمیر کو یہ سمجھو کہ وہ راجپوتانہ کے ساتھ مشترک حدود رکھتا ہے اس صوبہ مین سات

سرکار ۸ ۱۹۷ پرگنے - زمین پیمودہ دو کروڑ ۱۴ لاکھ ۳۵ ہزار ۹ سو ۱۴ بیگہ ۷ بسوہ جمع نقدی ۲۸ کروڑ ۴۸ لاکھ ایکہزار ۵ سو پچپن دام اسمین سے ۲۳ لاکھ ۲۶ ہزار ۳ سو ۳۶ دام سیورغال بومی ۸۶ ہزار ۵ سو سوار ۳ لاکھ ۷۴ ہزار پیادے راجپوت۔

صوبہ دہلی

اقلیم سوم ہے طول مین پلول سے لودہیانہ تک جو ساحل دریائے ستلج پر واقع ہے ۱۶۵ کوس اور عرض مین سرکار ریواڑی سے کوہ کمایون تک ۱۴۰ کوس اور حصار سے خضرآباد تک ۱۳۰ کوس مشرق مین دارالخلافہ آگرہ مشرق وشمال کے درمیان خیرآباد وصوبہ اودہ - شمالی کوہستان سے پیوستہ جنوب مین صوبہ آگرہ واجمیر - غرب مین لدہیانہ - اسکے عمدہ دریا گنگ وجمن ہین ان دونون دریاؤن کا آغاز اسی صوبہ مین ہوتا ہے - گھگھر اور بہت سی ندیان ہین بیشتر کوہ شمالی سے نکلی ہین آب ہوا اعتدال کے نزدیک زمین بہت شیلاب بعض جگہ زراعت سہ فصلہ ہوتی ہے ایرانی وتورانی وہندی میوے اور طرح طرح کے پھول بہت - سنگ بست کی عمارات عالی چشم کی فروغ افزا اور دل کی عشرت افروز سالون والا بیتون کا اسباب یہان ایسا موجود رہتا ہے کہ کہین اور کمتر رہتا ہوگا۔

دہلی بہت پرانے شہرون مین سے ہے اول اسکا نام اندرپت تھا طول ۱۱۴ و ۳۸ عرض بلد ۲۸ و ۱۵ اسکو اقلیم دوم سے بعض کہتے ہین وہ غلطی کرتے ہین اسکے عرض بلد کو دیکھین کہ جنوبی (ارولی) کا آغاز پہلے سے ہوتا ہے - سلطان قطب الدین اور سلطان شمس الدین قلعہ پتھورا مین رہتے تھے - سلطان غیاث الدین بلبن نے اس قلعہ کو گورستان سمجھا - دوسرا قلعہ بنایا - عمارت دل کشا بنائی جو گنہگار اسمین جاتا رہائی پاتا - معز الدین کیقباد نے جون دریا کے کنارہ پر ایک شہر آباد کیا اس کا نام کیلوکھری رکھا قران السعدین مین اس شہر وقصر کی تعریف حضرت امیر خسرو نے لکھی ہے - اب وہان جنت آشیانی کی خوابگاہ ہے یعنی ہمایون کا مقبرہ ہے اور ایک عالیشان عمارت بنی ہوئی ہے سلطان علاء الدین نے ایک اور شہر کی بنیاد رکھی اور اپنا قلعہ بنایا اس کا نام سیری رکھا تغلق آباد تغلق شاہ کی یادگار ہے اسکے بیٹے سلطان محمد نے ایک شہر اور بنایا اور بلند ایوان بنائے اور ہزار ستون بسنگ

رخام کے لگائے اور منازل دلکشا بنائیں سلطان فیروز نے اپنے نام سے ایک شہر فیروزآباد آباد کیا
اور دریا جون کو کاٹ کر شہر کے قریب لایا فیروزآباد سے تین کوس پر ایک اور کوشک بنایا اور جہان نما
اُس کا نام رکھا تین بڑی نقبین بنائیں کہ ان مین اہل حرم کے ساتھ سوار ہو کر جاتا۔ وہ ایک دریا کی طرف
۵ جریب۔ دوسری جہان نما کی طرف دو کوس۔ تیسری دہلی قدیم کیطرف پانچ کوس۔ جنت آشیانی
(ہمایون) نے قلعہ اندرپت کی تعمیر کرا کے دین پناہ نام رکھا۔ شیرشاہ نے دہلی علائی کو ویران کر کے
ایک جدا شہر شیرگڈھ آراستہ کیا۔ اکثر اس شہر کے آثار شیواز بانی کرتے ہین اور بڑے بڑے اندر
پر لٹھاتے ہین لیکن اب پہلی دہلی سب سے زیادہ ویران ہے اور اُس مین گورستان آباد ہین۔ خواجہ
قطب الدین اوشی و شیخ نظام الدین اولیا۔ شیخ نصیرالدین محمود چراغ دہلی و ملک یار پران۔
شیخ صلاح و ملک کبیر اولیا۔ مولانا محمد۔ حاجی عبدالوہاب۔ شیخ عبداللہ قریشی و شیخ شمس ترک
بیابانی۔ و شیخ شمس اوتاد و امیر خسرو اور بہت سے ایزد شناس۔ حق پرست اس سرزمین مین
خواب واپسین مین آرام کرتے ہین۔ سلطان شہاب الدین غوری۔ سلطان شمس الدین۔ سلطان
ناصرالدین نمازی و سلطان غیاث الدین۔ و سلطان سکندر لودی کی خوابگاہین یہین ہین
بہت سے زندہ آدمیون نے خوابگاہ واپسین کے لیئے دلگداز بنائین اور باغ بنائے ہین
طبیعت پژوہون کو سرمایہ شادخواب عشرت و خرد بندون کے لیئے ذارودے بیداری۔

کوہ اسلام آباد مین ایک چشمہ بہت گہرا ہے اس مین ہمیشہ گرم پانی جوش کرتا ہے اُس کو
پربھاس کنڈ کہتے ہین اُس کو ہندی بڑی عبادت گاہ جانتے ہین۔ بسوامتر رکھیسر نے پہاڑ
کے تیس بیگہ کو کھود کر ایک عبادت گاہ بنائی تھی آج کے دن وہ پہلی طرح سے اپنی
داستان کہتی ہے۔

بداؤن ایک بڑا شہر ہے بہت اولیا کی قبرین اُس مین ہین۔

اس صوبہ کے کوہ شمالی کے نزدیک حصہ کو کوہ کمایون کہتے ہین۔ کان طلا۔ نقرہ۔ کرم
پیلہ و آہن مس۔ زرنیخ و تنگار کی اسمین ہین آہوے مشکین و گاو قطاس۔ کرم پیلہ و باز و

شاہین ہے اور شکاری جانور عسل و اسپ گوٹ بہت وہان ہوتے ہین سرکار سنبل مین بہت شکار ہوتا ہے کرگدن (گینڈا) بھی ہوتا ہے۔

ہانسی ایک بڑا شہر ہے شیخ فرید شکر گنج کے خلیفہ شیخ جمال کی خوابگاہ ہے قصبہ سہنہ کے قریب ایک کولاب پہاڑ پر ہے کہ ہمیشہ اسمین گرم پانی جوش کرتا ہی کان کو گردکی نیرنگی دکھاتا ہی حصار سلطان فیروز کا نام آباد کیا ہوا ہے۔ جمنا سے نہر کاٹ کر اُسکے اندر لایا کسی الٰہی پرستار نے اُسکو فرماندہی کی نوید دی تھی۔ اُسکی خواہش سے یہ نہر بنائی۔ تعجب یہ ہے کہ قصبہ سرسا کے پاس ایک کولاب مین یہ نہر داخل ہوکر ناپدید ہوگئی۔ اس حوض کو بھدرا کہتے ہین۔ اس زمین مین رود بار کم اور آب چاہ بہت دور نکلتا ہے۔

سہرند۔ نامور شہرون مین سے ہے حافظ رخنہ کا باغ دیکھنے والون کی نشاط افزائی کرتا ہے۔

تھانیسر بزرگ معبد ہی دریاے سرستی اُسکے پاس گذرتی ہے۔ ہندوؤن کو اُسکی طرف پرستش کا بہت میل ہے۔ اُسکے نزدیک کولاب ہے کرکھیت اُس کا نام ہے دور دور سے آدمی نہان اشنان کے لئے یہان آتے ہین مہابھارت کی لڑائی یہین ہوئی ہے۔

اس صوبہ مین ۸ سرکار ۲۳۲ پرگنے ہین زمین پیمودہ دو کروڑ ۵۸ لاکھ ۴۶ ہزار ۸ سو ۴۶ بیگھہ ۱۶ بسوہ۔ جمع ۶۰ کروڑ ۱۶ لاکھ ۱۵ ہزار ۵۵ دام اس مین سے ۳ کروڑ ۳۰ لاکھ ۷۵ ہزار ۷ سو ۳۹ دام سیورغال۔ بومی ۱۳ ہزار سوا دہا سو ۹۰ سوار ۲ لاکھ ۴۲ ہزار ۳ سو دس پیادے

طول مین آب ستلج سے دریاے سندھ تک ۱۸۰ کوس عرض مین بھنبر سے چوکھنڈی مضافات ستگرہ تک ۸۶ کوس مشرق مین سرہند۔ شمال مین کشمیر۔ جنوب مین بیکانیر۔ اجمیر مغرب مین ملتان۔ چھہ عمدہ دریا اس مین ہین اور سب کوہ شمالی سے نکلتے ہین ستلج جسکا پرانا نام ششتدر ہے اس کا سرچشمہ کوہ کاہلور ہی۔ اس دریا کے کنارہ پر روپڑ۔ ماچھیواڑہ لودھیانہ ہین۔ گذر بودہ پر بیاہ اس سے ملتا ہے۔ بیاہ کا پہلا نام بیاعثا ہے اُس کا آغاز بیاہ کنڈ سے ہوتا ہے۔ جو کوہ کلو کے نزدیک ہے سلطان پور اس دریا کے نزدیک ہے

راوی اس کا پرانا نام ایراوتی ہے۔ کوہ بھدرال سے نکلتی ہے۔ دارالملک لاہور اسپر ہی
چناب اس کا پہلا نام چندر بھاگا ہے۔ کوہ کھتوار کے اوپر دو خوشگوار چشمے نکلتے ہین ایک کو
چندر دوسرے کو بھاگا کہتے ہین اور کھتوار کے نزدیک وہ مل کر اس دریا کے نام سے
مشہور ہین۔ بہلول پور سدھرہ و ہزارہ ہین وہ گذرتا ہے۔ بہت (جہلم) پہلے لوگ اسکو
بدستا کہتے تھے اس کا آغاز ایک حوض سے ہوتا ہے جو کشمیر مین پرگنہ دیر مین ہے۔
وہ سری نگر دارالملک کشمیر کے درمیان گذر کر ہندوستان مین آتا ہے۔
بہیرہ اسکے کنارہ پر ہے۔ سندہ کا آغاز کشمیر و کاشغر کے درمیان بتلاتے ہین بعض
ختا مین حدود سواد و اٹک بنارس و چوپارہ سے بلوچستان مین گذرتا ہے۔ شہنشاہ اکبر
نے ستلج و بیاہ کے دوآب کا نام بتیہ جالندھر رکھا۔ بیاہ و راوی کے درمیان کا نام باری
دوابہ راوی و چناب کا نام رچنا اور چناب و بہت (جہلم) کے درمیان کا نام جھٹ
رکھا۔ بہت و سندہ کے درمیان کا نام سندساگر ستلج سے بیاہ تک ۵۰ کوس کا بیاہ سے
راوی تک ۱۷ کوس کا۔ راوی سے چناب تک ۴۰ کوس کا اور راوی سے بہت تک ۲ کوس
اور اس سے سندہ تک ۶۸ کوس کا فاصلہ ہے۔ یہ ملک آبادی آب و ہوا اسکی بہت سازگار
وسعت مین اپنی نظیر کمتر رکھتا ہے اکثر حصہ اس کا کنوون کے پانی سے سرسبز ہوتا ہے اگرچہ ایران
و توران کا سا جاڑہ نہین پڑتا۔ لیکن ہندوستان کے اور مقامات سے زیادہ سخت ہوتا ہے
بادشاہ کی توجہ سے توران و ایران و ہندوستان کا عمدہ اسباب موجود رہتا ہے بعض جا ریگ
شوئی کرنے سے طلا و نقرہ و مس و روی و جست و برنج و شیشہ نکلتا ہے یہان ہنرمند نادر کار
طرح طرح کے ہوتے ہین۔ لاہور دوآبہ باری مین ایک بڑا شہر ہے بزرگی اور آبادی مین
اسکی مثل کمتر ہین پرانی تاریخون مین لہاور و لکھا ہے طول بلد ۹۔ ۱۰۹ عرض بلد ۳۱۔ ۵۰ دقیقہ
شہنشاہ اکبر نے یہان قلعہ و ارک خشت پختہ بنایا ہے۔ چونکہ کچھ دنون وہ اس کا پایۂ تخت
رہا اس لیئے عالیشان کاخ بنائے گئے اور دلکشا باغون سے شاداب کیا گیا۔ ہر طرح کے

آدمی یہان آباد ہوے اور طرح طرح کے نادر کام انھون نے یہان کیے۔ انوکھی و بزرگی مین اندازہ سے زیادہ گذر گیا۔ نگرکوٹ پہاڑ پر ایک شہر ہے اس کے قلعہ کو کانگڑہ کہتے ہین وہ بڑے اونچے پہاڑ پر ہے۔ شہر کے نزدیک مہامائی کی زیارت گاہ ہے جس کو ہندو نمودار اپنیوی جانتے ہین۔ دور دور سے زیارت کو آتے ہین اور اپنی مرادین پاتے ہین تعجب یہ ہے کہ اپنی خواہش روائی کے لئے زبان کاٹتے ہین بعض کی چند ساعت مین اور بعض کی ایک دو روز مین زبان درست ہو جاتی ہے۔ اگرچہ حکمت پیشہ لوگ زبان کو رویندہ جانتے ہین لیکن اسطرح جلدی سے اس کا بڑھ جانا تعجب خیز ہے اُس کو افسانون مین ہمخوابہ مہادیو کا ہندو کہتے ہین اور اس گروہ کے دانا اُسکی قدرت کو اس نام کے سبب سے جانتے ہین اُس کا حال یون بیان کرتے ہین کہ اُس نے اپنے نا ملایم کام دیکھ کر اپنے تئین ہلاک کیا اور اُسکی پیکر چار جگہہ جا کر پڑی سر اور بعض اعضا شمالی کوہ کشمیر مین کامراج کیطرف اُس کا نام سار دہا ہے۔ کچھ اعضا بیجا پور دکن کے قریب اُس کو تلجا بھوانی کہتے ہین۔ کچھ مشرق مین کامرو کے نزدیک گئے اُس کو کامجھا کہتے ہین اور جو اپنی جگہہ پر ہے اُس کو جالندھری کہتے ہین، اور اس زمین کو اس کا مدار سمجھتے ہین اسکے نزدیک کی جگہہ مشعل کی مانند شعلے نکلتے ہین اور بعض مشعل کے لپٹ کے اُٹھتے ہین۔ آدمی اُنکی زیارت کو جاتے ہین اور شعلہ پر طرح طرح کی چیزین چڑھاتے ہین اور اُس نے خجستگی کی امید رکھتے ہین اُنکے اوپر گنبد بنایا ہے وہان ایک عجیب ہنگامہ رہتا ہے۔ تحقیق یہان معدن کوگرد ہی عامہ اُسکو خارق عادات جانتے ہین سند ساگر کے وسط مین شمس آباد کے نزدیک ایک ریاضتکدہ بالناتھ جوگی کا ہی اسکو ٹلہ بالناتھ کہتے ہین۔ ہندوستان کے اہل ریاضت اُس کو بزرگ سمجھتے ہین اور اُس کی زیارت کو جاتے ہین خاص کر جوگی۔

اس نواح مین نمک سنگ بھی ہوتا ہے اُس کا پہاڑ طول مین ۲۰ کوس ہے اُس سے نمک تراش کر جدا کرتے ہین اور بعض اُٹھا کر لاتے ہین اور ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے بین حصے

اُسکئے کھودنے والون کو دیتے ہین اور ایک حصہ اُسکے لانے والون کی مزدوری ہوتی ہے۔
سوداگر آدھے دام سے بے کردو دام تک فی من خریدتے ہین اور دور دورلے جاتے ہین
اور زمیندار اور ہر مرد پیچھے دس دام لیتا ہے اور سوداگر ۱من پیچھے ایک روپیہ دیوان کو دیتے
ہین اور بہت سے ہنرمند اس نمک کے طبق وسرپوش ورکابی وچراغدان بناتے ہین۔
اس صوبہ مین پانچ دوآبہ اور ۴۳ پرگنے ہین۔ زمین پیمودہ ایک کروڑ ۶۱ لاکھ ۵ ۵
ہزار ۶ سو ۴۳ بیگھہ ۳ بسوہ جمع ۵ ۵ کرور ۴ ۹ لاکھہ ۸۸ ہزار ۴ سو ۲۳ دام اُس کے اندر ۹۸
لاکھہ ۶۵ ہزار ۵ سو ۴ ۹ دام سیورغال ہوی ۵ ۴ ہزار ۴ سو ۱۰ سوار و ۴ لاکھہ ۲۶ ہزار ۸۶ پیادے
اس سے پہلے کہ اس صوبہ مین ٹھٹہ کا اضافہ ہو طول فیروزپور سے سیوستان تک ۴۰۳
کوس عرض مین خط پور سے جیسلمیر تک ۸ ۱۰ کوس۔ پیچھے طول کیچ ومکران تک ۶۰۰ کوس
شرق مین اسرکار سہرند پیوستہ ہے شمال مین دریاے شور جنوب مین صوبہ اجمیر مغرب
مین کیچ ومکران۔ ملتان۔ ہندوستان کے پرانے شہرون مین سے طول مین ۱۰۷ ۴۰
۳۵ عرض بلد ۲۹ ۵۲ اس مین خشتین قلعہ اور بلند منار سے شہر کا حسن زیادہ ہوگیا ہے
شیخ بہاء الدین زکریا کی اور بہت اولیا کی خوابگاہ ہے۔
بھکر ایک عمدہ قلعہ ہے اُس کو پرانی کتابون مین منصورہ لکھتے ہین۔ چھیون دریا ملکر اُسکے
نیچے سے گزرتے ہین۔
سیوی وبھکر کے درمیان ایک بڑا دشت ہے گرمی کے دن مین تین مہینے اسمین لو چلتی ہے دریا سند
چند سال مین جنوب سے شمال کو بہنے لگتا ہے اور اُس سے بہت دیہات بہ جاتے ہین اس لیئے
وہان مکان خس اور نے اور لکڑی کے بناتے ہین۔
اس صوبہ مین ۳ سرکار ۸۸ پرگنے ہین۔ سب ضبطی۔ زمین پیمودہ ۳۲ لاکھہ ۳ ہزار
۹ سو ۳۲ بیگہہ ۴ بسوہ جمع ۱۵ کروڑ ۱۴ لاکھہ ۳ ہزار ۶ سو ۱۹ دام اس مین سے ۳ لاکھہ
۵۹ ہزار ۹ سو ۸۴ دام سیورغال ہے بوی ۱۸ ہزار ۴ سو ۸۵ سوار و ایک لاکھہ ۶۵ ہزار

(صوبہ ملتان)

صوبہ کابل

۸ سو ۵۰ پیادے۔

کشمیر۔ پگلی۔ بنیر۔ سواد۔ بجور۔ قندھار۔ زابلستان جس کا پایہ تخت پہلے غزنہ تھا اور اب کابل ہے اس صوبہ مین بہت کارین ہین ہر ایک کا حال لکھا جاتا ہے۔

سرکار کشمیر

طول مین قنبر دیرے سے کشن گنگ تک ۱۲۰ کروہ۔ عرض مین دس کوس سے ۲۵ کوس تک شرق مین پرستان و دریاے چناب شرق جنوب مین بنہال وکوہ جمو شرق شمال مین تبت کلان مغرب مین پگلی و دریاے کشن گنگ۔ مغرب جنوب مین ولایت گلکھر۔ مغرب شمال مین تبت خرد چارون طرف شمالی کوہ۔ ہندوستان سے ۲۶ راہین کشمیر کو جاتی ہین لیکن راہ بھنبھر و پگلی سے زیادہ عمدہ راہ ہے اس مین زیادہ تر سوار جا سکتے ہین۔ بھنبھر کی راہ بہت نزدیک ہے اور اس کے کئی شعبے ہین لئن مین تین عمدہ ہین ۱ ہستی وتر پہلے اسی راہ سے لشکرون کی آمد و رفت تھی۔ دوم پیر پنجال شہنشاہ اکبر تین دفعہ اسی راہ سے کشمیر کی سیر کو آیا۔ اگر اس کوہسار پر گاو و گھوڑے کو حلال کرین تو اسی وقت ابر و باد کا جوش رہتا ہے برف و بارینہ برستا ہے سوم ننکاست تلہ۔

کشمیر ایک دلکشا ملک ہے اگر اسکو ایک باغ ہمیشہ بہار یا ایک قلعہ آسمانی کے کہین تو بجا ہو اگر اسکو سیاح روحون کا عشرتکدہ اور گوشہ نشینون کا خلوت کدہ کہین تو سزاوار ہے۔ پانی خوشگوار۔ آبشار سیا معہ افروز ہوا ساز گار۔ توران و ایران کی طرح برف و باران۔ ہندوستان کی برسات مین وہان بھی مینہ برستا ہے زمین آبی خشک جنگل روح افزا بنفشہ گلی سرخ۔ نرگس کے جنگل کے جنگل خود رو پھولوں کی گنتی نہین ہو سکتی۔ بہار و خزان دونون بہت نادر تمام مکان چوبین چو منزلہ اور اس سے زیادہ منزل کے مکان بناتے ہین۔ دیوار بندی کی رسم نہین۔ چھت کے اوپر لالہ بوتے ہین بہار مین اسکی عجب نمایش ہوتی ہے۔ آشیانہ پایین مین جانور و اسباب رکھتے ہین دوسرے آشیانہ مین آرام کرتے ہین اور تیسرے اور چوتھے آشیانے مین کچھ رخت خانہ رکھتے ہین۔ لکڑی کی افراط اور زلزلے بھی بہت آتے ہین اس لئے سنگین و خشتی مکان نہین بناتے

مگر پرانے بتخانے جو بنے ہوئے ہین انہین دیکھکر تعجب ہوتا ہے کہ کیونکر ان زلزلون مین قائم رہے
آج کل وہ سب خراب پڑے ہین پشمینہ کا کام طرح طرح کا ہوتا ہے خاص کر شال کا۔ سالون لاہون
مین شال یہان سے ارمغان کے طور پر جاتی ہے یہان سب سے بدتر و زبون تر چیز یہان کے آدمی
ہین تعجب یہ ہے کہ باوجود آدمیون کے زیادتی اور سرمایہ زندگی کے کمی کے دزدی و دریوزہ
گری بہت کم ہے سوا شاہ آلو و شاہ توت کے بہت میوے ہوتے ہین۔ خربوزہ و سیب و شفتالو
اور زردآلو بہت خوب ہوتے ہین۔ انگور اگرچہ بہت ہوتا ہے لیکن اچھا نہین ہوتا اور زیادہ تر
وہ درخت توت پر پھل دیتا ہے لوگ کم کھاتے ہین اسکے پتے کرم پیلہ کے کام آتے ہین۔
گلگت و تبت سے بیج لاکے بوتے ہین تو وہ زیادہ اچھا پھل دیتا ہے زیادہ تر خورش برنج
و شراب ماہی اور طرح طرح کی سبزی ہے۔ سبزی تو خشک کرکے رکھ چھوڑتے ہین۔
برنج پختہ کو رات کو باسی کھکر کھاتے ہین۔ شال بہت ہوتی ہے مگر اچھی میسر نہین ہوتی۔
گندم چھوٹا و سیاہ خام و کم ہوتا ہے اور کمتر کھاتے ہین نخود جو تو بالکل ناپدید ہے۔
گدھے کی برابر گوسفند ہوتی ہے اسکو ہنڈو کہتے ہین بہت نازک خوش مزہ و گوارا ہوتی ہے
آدمیونکی زیادہ تر پوشش پشمین ہوتی ہے ایک جامہ کو برسون تک یہان پہنتے ہین۔ گھوڑا
چھوٹا زور آور گرچہ گذارہ بہت ہوتا ہے فیل و شیر نہین ہوتا۔ گاو سیاہ رنگ بدشکل ہوتی ہے
مگر دودھ و روغن بہت عمدہ ہوتا ہے۔ بڑے شہر مین جتنے مزروعہ ہوتے ہین وہ یہان
ہین۔ بازار کی رسم کمتر ہے اپنے گھرون مین خرید و فروخت کا ہنگامہ گرم ہوتا ہے بچھو اور اور جانور
جان آزار شہر مین نہین ہوتے۔ ایک پہاڑ مہادیو ہے جہان تک اسکی چوٹی دکھی جاے
کہین سانپ نظر نہین آتا۔ کبک و پشہ و مگس بہت۔ بندوقونکی کثرت کے سبب سے
غلیل نہین دکھائی دیتی اس کو ایک زہ کا بناتے ہین کشتیون مین سوار ہوکر کولابون کی
سیر کرتے ہین۔ شکاری جانور ہوا مین مرغابی کو شکار کرکے کشتیون مین لاتے ہین اور کبھی
پانی کے اندر اپنے پانون کے پنجے سے اس کو دبا کر اسپر بیٹھ جاتے ہین تو بہت تعجب ہوتا ہے

گوزن وکبک کا بھی شکار ہوتا ہے - پلنگ کا بھی شکار کرتے ہین بارکشی کا بار کشتی پر سے آدمی
بھاری بھاری بوجھ پیٹھ پر لادکر کر یہ نوردی کرتے ہین - ملاح اور دررودگر کی دکان خوب گرم
رہتی ہے - برہمن کی قوم بہت ہے -

اگرچہ اہل ملک کی زبان خاص ہے لیکن علمی کتابین انکی سنسکرت مین ہین انکا خط بھی جداگانہ
ہے - اسمین کتابت کرتے ہین اور توز ایک درخت کا پوست ہوتا ہے کہ تھوڑی سی کاریگری سے
اُسکے ورق ورق ہوجاتے ہین اُسپر لکھتے ہین اور وہ برسون رہتے ہین - پرانی کتابین اسپر
لکھی ہوئی ہین سیاہی ایسی بناتے ہین کہ شست وشو سے نہین مٹتی - اگرچہ قدیم زمانہ مین
یہان سنسکرت کے علم کا رواج تھا لیکن اب طرح طرح کے علم اور دانائے روزگار یہان
موجود ہین - ہند کی مانند طبابت واختر شناسی ہے - چار دیوار تقلید کے رہنے والے یہان بہت سے
سنی اور کچھ امامی ونور بخشی ہین اُن مین ہمیشہ دشمنی کے سبب سے لڑائیان رہتی ہین - زیادہ
تر یہان ایرانی وتورانی آدمی ہین - خنیاگر بہت ہین لیکن ایک آہنگ مین گاتے ہین اور انچے
ہر ایک تال سے ہر ایک کے جگر پر ناخن لگاتے ہین - اس ملک مین سب سے زیادہ شایستہ برہمن
ہین اگر تقلید گزینی وعادت پرستی سے انکو رہائی نہین ہوتی مگر خدا تعالے کی عبادت مین دلبستگی
کے ساتھ مشغول ہوتے ہین اور اپنے مخالف مذہب پر طعن وطنز نہین کرتے نہ زبان سے سوال
کرتے ہین نہ ننگا پوے ہین پانون رکھتے ہین میوہ دار درخت لگاتے ہین ......

یہی انکا سرمایہ روزی ہے گوشت نہین کھاتے عورت نہین کرتے دو ہزار آدمی اس گروہ کے
ہونگے تولچہ اس ملک مین ۱۶ ماشہ کا ہوتا ہے ہر ماشہ مین ۶ سرخ ہر طلا کا وزن ۱۶ دانی اور ہر دانی
مین ۶ سرخ دہلی کے متعارف مہرون سے چار سرخ اسمین زیادہ ہوتے ہین - ساسنو ایک چاندی
کا سکہ ۹ ماشے کا ہے - پنجوہوس کا سکہ ہوتا ہے دام کے چوتھائی حصہ کے برابر اسکو کسیرہ کہتے ہین
اسے آدھی بارہ کانی ہوتی ہے - چوتھائی حصہ اسکا شکری ہوتا ہے - چار کسیرہ کو راہت
کہتے ہین - ۹۶ کسیرہ کو ساسنو - ڈیڑھ ساسنو کو سکہ وسو ساسنو کو ایک شہنشاہی شمار کے

موافق وہ ایک ہزار دام ہوتے ہین - ساری ولایت کو ہندی حکیم پرستش گاہ جانتے ہین انہین
۵ ہم خاص مہادیو کے نام شمار کرتے ہین ۴۴ بشن کے نام ۳ برہما کے نام ۲۲ درگا کے نام سہات
سو جلہ سانپ کی پیکر بنائی ہے اور اُس کو پوجتے ہین اور اُسکی عجیب عجیب داستانین کہتے ہین
سری نگر دار السلطنت ہے طول مین چار فرسنگ ہے دریاے بہت دیار و چھمہ کل اُسکے اندر گزرتے
ہین پچھلا دریا خشک ہو جاتا ہے دوسرے مین پانی اتنا کم ہو جاتا ہے کہ کشتی نہین چل سکتی - بہت
مدت سے یہ شہر آباد ہی اور بہت کاریگرون کا گھر ہے - شال نہایت عمدہ بنتے ہین - پشم سے سقلا
بہت ملائم بناتے ہین - درمہ و پٹو اور پشمینہ تیار کرتے ہین لیکن یہ پشمینہ تبت کا عمدہ ہوتا ہے -
میر سید علی ہمدانی چند روز اس شہر مین آیا اُسکی خانقاہ یادگار ہے شرق مین ایک کوہچہ ہے جس کا
نام کوہ سلیمان مشہور ہے - شہر سے ملے ہوئے دو بڑے کولاب ہین سارے سال پر آب رہتے
ہین - تعجب یہ ہے کہ باوجود لطافت و گوارائی آب کے مدتہاے دراز سے گندہ نہین ہوتے -
تحقیق یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مین اگرا وگتا ہے - ساری زمین نسقی غلہ بخش ہے - ضبط زمین و
زر و سیم کی داد و ستد کی رسم نہین ہے - سائر جہات مین سے ایک جزو نقد بینہ ہے - نقد وجنس
کا حساب خروار شالی سے کرتے ہین - اگرچہ مدت سے تو وہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن دو حصون سے
زیادہ اُٹھاتے ہین بادشاہ کی دادگری کے سبب سے ادھا باز یافت رہتا ہے قاضی کے قرار کے
موافق ۳۰ لاکھ ۶۳ ہزار ۵ خروار ۱۱ ترک جمع تھی - ہر خروار مین ۳ من ۸ سیر اکبر شاہی ایک
وزن پل ہے جو دو دام کی برابر وزن رکھتا ہے اُسکا آدھا و چوتھائی بھی کام مین آتا ہے ،½
آدھے پل کو سیر کہتے ہین اور دو سیر کو نیم من اور چار سیر کو ایک ترک اور ۱۶ ترک کو ایک خروار
اور اکبر شاہی ۸ سیر کا ایک ترک ہوتا ہے قاضی نے چند سالون کا نرخ جمع کر کے اوسط نکالا -
تو خروار کی قیمت ۲۹ دام ہوئی اور خروار نقدی ۱۳½ دام آئین پیشین کے موافق برقرار
رکھی - پس جمع مبلغ ۷ کروڑ ۶ ہ لاکھ ۰ ۷ ہزار ۴ سو ۱۱ دام ہوئے اسکے اندر ۹ لاکھ ۱ ہزار
۶ سو ۴۳ خروار اور ، ترک جسکے نقد بینہ حساب کے موافق ایک کروڑ ۲۰ لاکھ ۲۲ ہزار

ایک سو ۳۸ دام ہے اور آصف خان نے یہ جمع مقرر کی . ۳۰ لاکھ ۹۷ ہزار ۴ سو ۳۴ خروار
منجملہ اُسکے . ۱۱ لاکھ ۱۱ ہزار ۳ سو ۳۰ ½ خروار نقدی . بادشاہ نے زرباج تمغا معاف کردیا اس
سبب سے ۶۷ ہزار ۸ سو ۴۲ ¼ خروار کی کمی ہوئی . یا یہ کہو کہ ۸ لاکھ ۹۸ ہزار ۴ سو دام گھٹ گئے
آسودگی کشاورز کے لیے ۵ دام خروار کی قیمت مین گھٹا دیے . اگرچہ خروار مین جمع آصف خان
کی ۱۶ ہزار ۳ سو ۴ ۹ خروار ۵۰ ترک جمع قاضی علی سے زیادہ ہے لیکن بہ سبب بخشش کے
حساب نقابین ۸ لاکھ ۶۰ ہزار ۴۳ ½ دام کی کمی ہوئی اسی سبب سے اُس نے خروار نقدی
پر کم بہا سے بہت خیال رکھا جو جمع قاضی علی نے دفترخانہ کو سپرد کی اسمین ۴۸ پرگنے تھے
اور آصف خان کے نسخہ مین ۳۸ پرگنے تھے اصل مین بھی ۳۸ پرگنے تھے قاضی علی نے
پرگنون کی تقسیم کچھ اور طرح سے مواضع کو ادھر ادھر کرکے کی تھی .

پہلے لوگون نے ملک کے دو حصے کیے تھے مشرقی حصے کو مراج کہتے تھے اور مغربی کو
کامراج اب کہ کشمیر سے بہت سی سپاہ نکل آئی ہے اس کا یہ حال ہے کہ بومی ۴ ہزار ۸ سو ۹۲
سوار و ۹۲ ہزار ۴ سو پیادے .

سرکار پکھلی

طول مین ۳۵ کروہ عرض مین ۲۵ کروہ مشرق مین کشمیر . شمال مین کتور . جنوب مین ننگاه
الوس گکھر . مغرب مین اٹک . بنارس . اسکے کوہستان مین ہمیشہ برف برستی ہے دشت گاہ
مین کبھی کبھی . گرما سے سرما زیادہ ہوتا ہے . برسات ہندوستان کی سی ہوتی ہے . تین
دریا کشن گنگ . بہت . سندھ اسمین بہتے ہین . زبان یہان کی کشمیر کی نہ ہندوستان
کی نہ زابلستانی کی مانند ہے .

سرکار سواد

اس سرکار مین تین ولایت ہین . بنیر . سواد بجور اول طول مین ۱۶ کروہ عرض مین
۱۲ مشرق مین پکلی . شمال مین کتور و کاشغر . جنوب مین اٹک بنارس . مغرب مین دو راه
ہندوستان سے دو راہ جاتی ہین ہ گریوہ شیرخانی و کوتل بلندر سے اگرچہ دونون دشوار
گذار ہین مگر اول سخت تر ہے . دوم طول مین ۴ کروہ عرض مین ۵ سے ۱۵ کروہ مشرق

ہین بنیر۔ شمال مین کتور کاشغر جنوب ہین بگرام مغرب مین بجور بہت سے درے ہین۔ درہ دمغار
کے نزدیک کہ کاشغر سے ملتا ہے قصبہ منگنور حاکم نشین ہے۔ ہند سے دو راہین جاتی ہین گریوہ
ملکند بیچ۔ شیرخانہ۔ گرمی سردی بہت نہین ہوتی برف برستا ہے لیکن دشت مین تین چار روز
سے زیادہ نہین کہسار مین تمام سال زمستان۔ ہندوستان کی بارش کے موسم مین وہان
بہار ہوتی ہے۔ ریزش ابر ہوتی ہے۔ بہار و خزان دونون عجیب۔ ہندوستان و
توران کے پھول دونون ہوتے ہین۔ بنفشہ و نرگس کے جنگل کے جنگل خودرو۔ طرح طرح
کے میوے خودرو۔ باز جرہ شاہین گزیدہ ہوتے ہین۔ لوہے کی کان یہان ہے۔ سیوم
طول مین ۲۵ کروہ۔ عرض مین ۵ سے ۱۰ کروہ۔ شرق مین سواد۔ شمال مین کتور و کاشغر
جنوب مین بلگرام۔ مغرب مین گنیز۔ نور کل۔ کابل سے زیادہ درے اسمین ہین۔
کہ ایک پرانا قلعہ استوار ہے اور اس کو حاکم نشین کہتے ہین۔ امیر علی ہمدانی نے یہین
انتقال کیا۔ وصیت کے موافق ختلان مین اسکی لاش گئی۔ اسکی ہوا سواد کی سی ہے لیکن
سردی گرمی کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تین راہون سے زیادہ راہین ہین۔ ایک ہندوستان
سے جاتی ہے اس کو راہ دوش کول کہتے ہین اور دو کابل سے جاتی ہین ایک کو سیج اور
دوسری کو کبر و نور کل کہتے ہین۔ زیادہ آسان راہ دوش کول ہے۔ اسکے ایک متصل دشت
ہے کوہ و دریاے کابل و سندہ کے درمیان طول مین ۳۰ کروہ عرض ۲۰ سے ۲۵ کروہ۔
اس سرکار مین کوہ و دشت ہین یوسف زئی کی بنگاہ ہے شہنشاہ اکبر کے عہد مین
اس ملک کے بدگوہر کچھ مارے گئے کچھ اسیر ہوئے کچھ تابع ہوئے۔
ایک ولایت ہے جنوب و شرق مین کابل سب مین افغان رہتے ہین زیادہ قوم شیرانی
ررانی۔ وزیری۔
طول مین قلات۔ بنارہ سے غور و غرجستان تک ۳۰ کروہ عرض مین سندہ سے فرہ تک
۲۶ کروہ۔ مشرق مین سندہ۔ شمال مین غور و غرجستان۔ جنوب مین سیوی مغرب مین فرہ

شرق وشمال کے درمیان کابل وغزنین شہر مین برف کم برستا ہی مگر کہسار مین ہمیشہ برستا ہی ۸ دینار کو
تومان کہتے ہین - ہر تومان ۸۰۰ درم کا ہوتا ہے خراسان کا تومان ۳۰ روپیہ کا تومان عراق کا ۴۰
روپیہ کا - بیشتر جنوب کا خروار سے حساب کرتے ہین - اس مین ۴۰ من قندھار کے من
ہندوستان کے ہوتے ہین -

قندھار دار الملک ہی - طول بلد ۱۰۷ درجہ ۴۰ وعرض ۳۳ درجہ ۴۰ - دو قلعے ہین سخت گرم سرما کم لیکن
دی وبہمن مین یخ وادلون سے بھر جاتے ہین - تین چار سال کے بعد برف کی ریزش سے نشاط
ہوتی ہے - گل ومیوہ بہشت - گیہون بہت سفید دور دور تک ارمغان مین جاتا ہی پانچ کوس پر
ایک پہاڑ ہے اُس کو اژدر کوہ کہتے ہین ایک غار اُس مین غار جمشید مشہور ہے - چراغ روشن
کرکے اُنہین بجھاتے ہین دم ایسا گھٹتا ہے کہ اس کا اندازہ نہین کرسکتے - قلات سے ۸ کروہ پر
ایک بڑا پہاڑ ہے اُسکی کمر مین ایک غار ہے اُس کو غار شاہ کہتے ہین - گندم وجو کو سفید بری
کہتے ہین اور ۶۰ گز جریب سے ناپتے ہین لیکن ۲۰ گز کی جریب کو مجازی اعتبار کرتے ہین - ہر
ایک ۴۲ ½ انگشت مجموع ۴۵ گز قندھاری خالصہ مین دس خروار سے دو دیوان صیغہ مال وجہات
کو دیتے ہین اور کشت وکار سات طرح کی ہوتی ہے - دفتر مین اعلے کا نشان عین کرتے ہین
اور ہر جریب کا حاصل ۳ خروار وہان کے ۴۲ من لیتے ہین اعلے واوسط کا نشان عین وطا کرتے
ہین ½ خروار بیس من لیتے ہین اور اوسط کا نشان طا کرتے ہین جریب مین ۲ خروار سولہ من لیتے
ہین اوسط اونے کا طا و دال نشان کرتے ہین جریب مین ۱½ خروار ضبط کرتے ہین بارہ من
لیتے ہین ادنے کو دال سے نشان کرتے ہین جریب مین ایک خروار خیال کرتے ہین اور ۸ من
لیتے ہین ادنا وادنا سے ادنا کا دال اور دالین نشان کرتے ہین جریب مین بیس من گمان کرتے
ہین چھ من لیتے ہین ادنا سے ادنی کا دالین نشان کرتے ہین جریب مین ۸ من تصور کرکے ۴ من
لیتے ہین اگر برزگر کو نیروے ضبط نہین ہوتی تو وہ پر عمل کرتے ہین دو حصے خداوند زراعت کو
اور سیوم تین حصے کرتے ہین ایک حصہ سرکار دیوان مین دو حصونکو اخراجات حکمی استصوابی مین شمار کرتے ہین

طول مین اٹک بنارس سے کہ ساحل سندہ پر ہے ہندو کوہ تک ۱۵۰ کروہ - عرض مین قرا باغ قندھار سے
پٹھان سر تک سو کروہ مغرب مین ہندوستان - غرب شمال مین کوہ غور اسکے درمیان شمالی اندراب بدخشان و
ہندو کوہ - میانہ جنوب مین قریل و نغز - آب ہوا کی تعریف نہین ہوسکتی اگرچہ جاڑا اعتدال سے باہر ہوتا ہی
مگر گرمی نہین پہونچاتا - گرم سیر و سرد سیر ایسا کہ ایک ہی دن مین ایک عالم سے دوسرے عالم مین پہونچاتا ہے
باوجود اس ییلاق و قشلاق کا نشان معمورہ مین کم ہے - دشت و کوہ مین ریزش برف ہوتی ہے - دشت
مین جبکہ آفتاب برج قوس مین آتا ہی اور کوہ مین جب آفتاب برج میزان مین آتا ہے - موسم گرما مین بھی میوے
طرح طرح کے مگر خربزہ بہت اچھا نہین ہوتا - زراعت بھی زیادہ نہین ہوتی ہر چار طرف پہاڑ بلند بلند ہین
کہ وہان غنیم کا بہ جلد آنا دشوار ہے - کابل و بدخشان و بلخ کے درمیان ہندو کوہ واسطہ ہی سات راہین ہین
جنسے تورانی آمد و شد کرتے ہین - ہندوستان سے پانچ راہین (۱) کرہ و کوتل طے کرنے کے بعد
... آباد آتا ہے (۲) راہ نیمبر یہ راہ ایسی تنگی ہے کہ عرابہ جاتا ہے (۳) بنگش (۴) راہ نغز (۵) راہ قریل
اس ملک مین ہر طائفہ اپنی بولی بولتا ہے گیارہ زبانین مروج ہین (۱) ترکی (۲) مغولی (۳) فارسی
(۴) ہندی (۵) افغانی (۶) پشاوری (۷) پراچی (۸) گبری (۹) ترکی (۱۰) لمغانی (۱۱) عربی
... کابل و قندھار کو ہندوستان کا دروازہ کہتے ہین - ایک سے توران کو جاتے ہین اور دوسرے
سے ایران کو - ان دو دروازون کی نگہبانی سے ہندوستان بیگانون سے امن رہ سکتا ہے اس دیار مین
توران و بخارا کی طرح پرگنہ متضمن بہت سے قریات پر ہوتا ہے اُس کو تومان کہتے ہین -
غزنین اقلیم سوم سے ہی زابل عبارت اس سے ہی وہ سلطان محمود و سلطان شہاب الدین اور بادشاہون کا
پایہ تخت تھا - پہلے اس ولایت کو زابلستان کہتے تھے کچھ قندھار کا حصہ بھی اسمین شامل کرتے تھے -
حکیم سنائی اور بہت سے اولیا کی خوابگاہ ہے ایک ندی شمال سے جنوب کو جاتی ہے زراعت اس سے
سر سبز ہوتی ہی کسان بہت محنت کرتے ہین ہر سال نئی خاک لاتے ہین تاکہ زراعت دہ آراضی کابل سے
زیادہ پھل دیتی ہے - رونین یہان بہت ہوتا ہے - ہندوستان مین یہان سے جاتا ہے فقط

تمّت

جلد ہفتم - ظفر نامہ شاہجہاں جس میں شاہجہاں کا حال از اوّل تا آخر مندرج ہے قیمت ... عہ/

جلد ہشتم - بادشاہ نامہ عالمگیر یعنی شہنشاہ عالمگیر کا حال اوّل سے آخر تک درج ہے قیمت ... عہ/

جلد نہم و دہم - زوال سلطنت تیموریہ - عالمگیر کے عہد سے آخر بادشاہ بہادر شاہ تک اور خاتمہ مسلمانوں کی سلطنتیں ایشیا میں کہاں کہاں ہیں اور ان کا کیا حال ہے ہندوستان اور ہندوؤں کو مسلمانوں کی سلطنت سے فائدہ پہنچا یا نقصان - دہلی میں پایہ تخت کا بدلنا اور اس کی عمارات کی مفصل کیفیت قیمت ہر دو جلد یعنی نہم و دہم عہ

کل تاریخ کی قیمت ([illegible]) ہوئی، مگر ہر حصہ بجائے خود تاریخ ہے کچھ اور حصوں پر موقوف نہیں ہے اگر علیحدہ کوئی خریدے گا تو بہ تفصیل بالا اس کے ہاتھ بیچے جائیں گے یکمشت دس حصوں کے خریدار کو ان کی قیمت بحساب ... جلد ([illegible]) علاوہ محصول۔

تاریخ عہد سلطنت ملکہ معظمہ قیصر ہند مؤلفہ جناب خان بہادر شمس العلما مولوی محمد ذکاء اللہ صاحب مرحوم

یہ تاریخ پانچ حصوں میں لکھی گئی ہے (حصہ اوّل) میں بطور تمہید ۱۸۳۷ء تک لکھا ہے کہ انگلینڈ کو ہندوستان سے کس طرح تعلق پیدا ہوا اور انگریزوں نے فرانسیسیوں وغیرہ کو کیوں کر نکالا اور اپنی فرماں روائی کا سلسلہ کس طرح جمایا

(دوسرے حصے) میں ۱۸۳۷ء سے ۱۸۴۸ء تک کے حالات لکھے ہیں جس میں والیان ہند سے جنگ و پیکار میں برٹش گورنمنٹ کو فتح پانے کے حالات تفصیلی درج ہیں۔

(تیسرے حصے) میں ۱۸۴۸ء سے ۱۹۰۱ء تک کے جس میں ملکہ وکٹوریہ نے وفات پائی حالات لکھے ہیں اور واقعات عظیمہ ۱۸۵۷ء کے غدر و بغاوت کو بتفصیل بیان کیا ہے دہلی کا بیان مؤلف نے اپنی چشم دید لکھا ہے۔

(حصہ چہارم) میں ان محاربات عظیمہ کا ذکر کیا گیا ہے جو انگلستان کے اور ملکوں سے یورپ، ایشیا، افریقہ میں سوائے ہندوستان کے ہوئے ہیں جیسے جنگ کریمیا، جنگ ٹرانسوال، جنگ سوڈان اور مصر ہیں۔

(پانچویں حصے) کا نام آئین قیصری ہے اس میں مفصلہ ذیل مضامین ہیں:

ساری دنیا میں قیصر ہند کی سلطنت کہاں کہاں ہے۔ ہند اور انگلینڈ میں گورنمنٹ کیوں کر منتظم ہوئی وقتاً فوقتاً کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں ہندوستان کے لئے قوانین کیوں کر مدوّن ہوئے عدالتیں کیوں کر مقرر ہوئیں بحری بری حدود کس طرح مستحکم ہوئیں سپاہ کیوں کر مرتب ہوئی وغیرہ وغیرہ تعداد صفحات (۲۱۳۰) قیمت پانچ حصص [illegible] جلد [illegible]

ملنے کا پتہ: آنریری مینیجر بک ڈپو مدرسۃ العلوم علی گڑھ

بفضلِ خدا

انسٹی ٹیوٹ پریس میں (جو سرسید علیہ الرحمۃ کا قائم کیا ہوا اور محمڈن کالج کی ملک ہونے کی وجہ سے حقیقی معنوں میں ایک قومی پریس ہی) لوہے اور پتھر دونوں قسم کے چھاپوں میں اردو انگریزی ہر قسم کا کام بہت صحت اور کفایت کے ساتھ ہوتا اور وقت پر دیا جاتا ہی۔ اہل ذوق ضرورت کم از کم ایک بار ضرور امتحان فرمائیں۔ نرخ زبانی یا خط و کتابت سے طے ہو سکتا ہی۔

مطبع کو اُس کے قدیم و اہلِ نظر سرپرستوں کی جانب سے جو اطمینان بخش اسناد حاصل ہوئی ہیں اُن کی نقل عند الطلب روانہ کی جا سکتی ہی۔

علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ نامی ایک اخبار بھی اس پریس سے نکلتا ہی جو کالج کا سرکاری اخبار ہی اور جو سرسید علیہ الرحمۃ نے کالج کی بنا سے بھی قبل جاری کرنا شروع کیا تھا اور جس میں کالج کی خبروں کے علاوہ عام اور مفید و دلچسپ مضامین شائع ہوتے ہیں قیمت سالانہ مبلغ (للعہ) ششماہی دو روپیہ آٹھ آنے۔ نمونہ مفت۔

اشتہارات کا نرخ زبانی یا خط و کتابت سے طے ہو سکتا ہی۔

ہر قسم کی خط و کتابت کے لئے پتہ:۔

مینجر صاحب انسٹیٹیوٹ پریس علی گڑھ کالج